

پینتیس ہزار قدیم و جدید عربی لغات کی تشریح مع لغوی مباحث  
جو درس نظامی و کتب درسیہ جامعات میں مستعمل اور ممالک عربیہ  
کی جدید تالیفات، اخبارات و جرائد میں مروج ہیں۔

# بیان اللسان

عربی اردو ڈکشنری

مع

## لغات قرآن

و اضافہ لغات جدیدہ

تالیف  
قاضی زین العابدین سجاد میرٹھی  
فاضل دیوبند

پیش لفظ  
مولانا قاری محمد طیب صاحب  
مہتمم دارالعلوم دیوبند

دارالافتاء  
کراچی

فَانَمَا يَشْرُنُهُ بِلِسَانِكَ لِتَشْرِبَهُ الْمُتَّقِينَ . (طہ)

# بیان اللسان

عربی اردو ڈکشنری  
مع

## لغات قرآن

واضافہ لغاتِ جدیدہ

جس میں تقریباً ان پینتیس ہزار قدیم و جدید عربی لغات کی مکمل و مستند تشریح مع ضروری لغوی مباحث کے کی گئی ہے جو درس نظامی، نصاب ولی النبی، کتب درسیہ، جامعات میں مستعمل اور ممالک عربیہ کی جدید تالیفات، جرائد و اخبارات میں روج ہیں، قرآن کریم کے جملہ لغات خصوصیت کے ساتھ شامل کر لئے گئے ہیں۔ آخر میں المنجد جدید اور القاموس العصری وغیرہ کے منتخب جدید الفاظ و اصلاحات کا شاندار اضافہ کیا گیا ہے۔

پیش لفظ  
مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ  
مہتمم دارالعلوم دیوبند

تالیف:  
قاضی زین العابدین سجاد میرٹھی  
فاضل دیوبند

ڈیوبند، دارالعلوم دیوبند روڈ  
پرائی پاکستان 2213768

دارالاشاعت

باہتمام : خلیل اشرف عثمانی  
 طباعت : مارچ ۲۰۰۷ء ملی ٹریڈنگ  
 ضخامت : 944 صفحات

### قارئین سے گزارش

اپنی حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ ائمہ مند اس بات کی گہرائی کے لئے ادارہ میں مستقل ایک عالمہ وجود رہتے ہیں۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو ازراہ کرم مطلع فرما کر ممنون فرمائیں تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاک اللہ

### ملنے کے پتے

ادارۃ المعارف جامعہ اراعلوم کراچی  
 بیت القرآن اردو بازار کراچی  
 بیت الختم مقابل اشرف المدارس محشن اقبال بلاک ۲ کراچی  
 بیت الکتب بالمقابل اشرف المدارس محشن اقبال کراچی  
 مکتبہ اسلامیہ امین پور بازار۔ فیصل آباد  
 مکتبہ المعارف محلہ گنجی۔ پشاور

ادارہ اسلامیات ۱۹۰، نارنگلی لاہور  
 بیت العلوم 20، ناچھ روڈ لاہور  
 مکتبہ سید احمد شہید اردو بازار لاہور  
 یونیورسٹی بک انجمنی خیبر بازار پشاور  
 مکتبہ اسلامیہ گامی (۱)۔ اہلیت آباد  
 کتب خانہ رشیدیہ۔ حدیث مارکیٹ راجہ بازار راولپنڈی

### انگلینڈ میں ملنے کے پتے

ISLAMIC BOOKS CENTRE  
 119-121 HATFIELD ROAD  
 BOTTON RU. ENGL.

AZHAR ACADEMY LTD.  
 94-68 LITTLE HURD LANE  
 MANOR PARK, LONDON E12 5QA

### امریکہ میں ملنے کے پتے

DARUL-ULOOM AL-MADANIA  
 182 SOBIESKI STREET,  
 BUFFALO, NY 14212, U.S.A

MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE  
 6665 PINNACLE HOUSTON,  
 TX 77074, U.S.A

# مہتمم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## طِبُّ الْبَيَانِ

فی تقیظ

## بَيَانِ اللِّسَانِ

داشترخامہ لسانُ الْأُمَّتِ حَضْرَتِ مَوْلَانَا قَارِي مَحْمَدٌ حَلِيبٌ صَاحِبُ مَلَاتِ فَيَوْضَعُهُم  
 جس طرح اس کائنات رنگ و بو میں اشیاء کائنات کی صورتیں اور شکلیں مخصوص اور متعین ہیں جن کے بغیر  
 نہ ان اشیاء میں باہم تمیز ہو سکتا ہے اور نہ کسی کے سامنے ان کا تعارف ممکن ہے۔ اس لئے جب بھی کوئی غیبی  
 حقیقت منصفہ ظہور پر آنے کا تقاضا کرتی ہے تو اسی ان اپنے مناسب کسی نہ کسی شکل و صورت کا لباس پہن  
 کر جلوہ گر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کائنات علم و معنویت میں علمی حقائق اور فکری نظریات کی صورتیں ان  
 کے مخصوص لغات و الفاظ اور تعبیرات ہیں جن کے بغیر نہ حقائق آپس میں متعبر ہو سکتی ہیں اور نہ دوسروں کے  
 سامنے ان کا تعارف ہو سکتا ہے۔ اس لئے جب کوئی علمی حقیقت ظاہر ہونے کے لئے تڑپتی ہے تو اسی  
 آن اسی کے مناسب اُسے الفاظ و اسما کا جامہ عطا ہو جاتا ہے جس سے وہ متمیز اور متعارف ہوتی ہے اور اپنے  
 اثرات سے مخاطبوں کو متاثر کر جاتی ہے پس صور اشیاء کی طرح ہر کلامی حقیقت کا ایک پیرایہ ظہور اور لباس تمیز  
 ہے جس سے وہ غیبی حقیقت جو قلب کی گہرائیوں میں مخفی پڑی ہوئی تھی۔ باہر نکل کر افادیت کا بازار کرم  
 کرنے لگتی ہے اور اپنے تختانی اسرار سے کائنات کے جہانوں میں ٹپل ڈال دیتی ہے اور اگر اشیاء کے لئے  
 صورتیں معانی کے لئے الفاظ و لغات نہ ہوں تو نہ وہ متعارف ہوں اور نہ افادہ و استفادہ کا سلسلہ قائم ہو  
 جس پر عالم کی یہ بود و نمود قائم ہے بلکہ مغیبات کی ترجمانی ہمیشہ کے لئے پردہ عدم میں مستور رہ جائے۔  
 (۲) اہل پھر جس طرح خالق و موجد کائنات نے ہر حقیقت کو اُس کے مناسب صورت بستے ہوئے خود ہی اُسے



ایجاد فرمایا ہے جس میں کسی غیر کی ایجاد و اختراع کا کوئی دخل نہیں، اسی طرح اُس عظیم و شہیر مغیبات نے ہر معنی کو اُس کے مناسب لفظ اور پیرایہ تعبیر بخشے ہوئے خود ہی اُسے اختراع فرمایا جس میں کسی ماسوا کی اختراع و ایجاد کا کوئی دخل نہیں یعنی جہاں معانی اُس کے مخلوق ہیں وہیں الفاظ و کلمات اسی کے محمول ہیں پس صورتیں بھی منجانب اللہ ہیں۔  
 بوجہ اَدْبَانَا الَّذِي وَاعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ، اور لَمَّا تَمَّتْ مِنَّا اَللّٰهُمَّ فِيْ بَعْضِ مَا لَمْ يَكُنْ مِنْكَ اَدْرَاةً اَلْاُنْسَاءُ مَكْلَهًا۔

یہی وجہ ہے کہ آج تک دنیا کی کوئی زبان کسی شخص یا جماعتی فکر کی پیداوار ثابت نہیں ہوئی اور نہیں کہا جاسکتا کہ کوئی لغت اسمبلی یا کونسل یا کسی قومی ادارہ کے ریزولوشن سے پاس ہو کر دنیا میں رائج کیا گیا ہو، بلکہ فطری طور پر مذہبی اور تمدنی ضروریات اپنی اصطلاحات اپنے ساتھ لائیں اور غیر شعوری طور پر اُنھوں نے انسانوں کے دل و دماغ اور زبانوں پر قبضہ کر لیا۔ پس جس طرح حقائق کا نفاذ کی صورتیں تخلیق خداوندی سے ظاہر ہوئی ہیں کسی انسان کی صنعت کا رازی کو اس میں دخل نہیں، انسان زیادہ سے زیادہ اُن کے ظہور کا سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے موجد نہیں کہا جاسکتا۔ اسی طرح کلامی حقائق کے نفاذ و اسما کی تعیین و تعلقین بھی منجانب اللہ اور بصنع اُٹھی ہوئی ہے کسی انسان کی کاوش و دماغ اور صنعت گری کو اُس کی ایجاد میں دخل نہیں۔ انسان زیادہ سے زیادہ اُس کے ظہور و بقا کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ موجد اور قیوم نہیں کہا جاسکتا۔  
 (۲) پھر جس طرح ایک صورت و شکل کی تخلیق و ایجاد خدا کے سوا کسی دوسرے کا کام نہیں اور انسان غیرہ کو معمول اور سبب بننا ہی پڑتا ہے۔ اسی طرح اُس شکل و صورت کی موت و فنا بھی کسی انسان وغیرہ کے بس کی بات نہیں بجز اُس کے کہ اس میں بھی وہ معمول یا سبب عمل بنے ٹھیک اسی طرح زبانوں اور لغتوں کی ایجاد کے ساتھ اُن کی فنا و ممانہ بھی خدا کے سوا کسی دوسرے کا فعل نہیں ہے۔ انسان کے قبضہ و دسترس کی اُس میں کوئی مداخلت نہیں۔ وہ اس فنایت کے لئے بھی زیادہ سے زیادہ واسطہ و ذریعہ ہی بن سکتا ہے جتنی کہ جس طرح ایک انسان خدا کی بنائی ہوئی صورتوں میں کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں کر سکتا اور کرتا ہے تو تغیر خلق اللہ کا مرکب ہو کر مخلوق کھاتا ہے اور پھر بھی وہ تغیر پائیدار اور بقا پذیر ثابت نہیں ہوئی۔ اسی طرح خدا کی بنائی ہوئی اور بتائی ہوئی زبانوں اور لغات میں بھی ترمیم و تیسر کسی انسان کا کام نہیں۔ پھر بھی اگر کوئی باغی قسم کا انسان مروجہ لغات کو نسخ یا مسخ کرنے پر تڑپ جائے تو باشبہ وہ بھی تغیر فطرہ کا مرکب ہو کر مستوجب لعنت و تفسیح ہوگا۔ اور پھر بھی اس کی یہ ترمیم و تیسر فطرہ کو تبدیل نہ کر سکے گی۔

(۴) البتہ جس طرح صورتوں کی آرائش و زیبائش برطھانے صاحب مقصدانے فطرت ان کی نوک پلک کی کمی بیشی اور قطع و برید جیسے ناخون کو کاٹ دینا اور بالوں کو برطھالینا۔ آنکھوں کی سیاہی میں مرمہ سے اضافہ کر لینا یا بالوں کی چمک میں تیل کے اضافے سے اضافہ کر لینا یا حسب تغیر آرائش تبدیل آرائش سے جائزہ دینا وغیرہ احوال کی اصلاح صحیح نہیں کہلاتی بلکہ عین منشاء فطرت کہلاتی ہے۔ اسی طرح زبانوں اور نغمتوں میں وقتی تقاضوں سے انفاظ کی کمی بیشی یا رد و بدل یا ان کی ادائیگی اور لب و لہجہ میں تغیر و تبدل یا ان کی معنویت کو دو بالا کرنے کے لئے اصول و قواعد سان کے تحت جزوی تصرف کیا جانا بھی ترمیم و تلمیح یا تغیر خلق اللہ نہیں کہلایا جاتا۔ بلکہ منشاء فطرت کی تکمیل کہلاتا ہے۔

چنانچہ کسی مروجہ لغت اور زبان کے دائرہ میں جب بھی جدید حقائق اور تمدن کے نئے گوشے نمایاں ہوتے ہیں تو اہل زبان ایجاد و محض سے ان کے لئے کوئی لفظ یا اصطلاح وضع نہیں کر لیتے بلکہ اسی رائج شدہ زبان کے الفاظ اور اس کی مخصوص ساخت و پرداخت سے مدد لے کر اول اس نئی حقیقت کے اوصاف و کیفیات کی تفصیلی تعبیر سے اسے منفی اور مستحکم کرتے ہیں اور پھر انہی اوصاف و کیفیات کو بطور خلاصہ ادا کر دینے والا کوئی لفظ اپنے مروجہ الفاظ کے مجموعہ سے چھانٹ کر اس حقیقت کے مقابلہ میں بطور لغت کے رکھ دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ از سر نو لغت کی ایجاد نہیں۔ بلکہ لغت سابق سے الفاظ کا استنباط ہوتا ہے جو ایک خاص زبان اور اس کے مخصوص مروجہ محاورات کے دائرہ میں رہ کر نیز اسی زبان کے قواعد و مذاق کا پابند ہو کر کیا جاتا ہے۔ بہر حال کسی لغت اور زبان کے نو پیدا الفاظ کے لئے انسان موجود نہیں۔ بلکہ نئی اشیاء حادث ہونے پر توسیع لغت کے سلسلہ میں وہ صرف مجتہد اور مستنبط ہے۔

(۵) پس ملکی انقلابات سے تمدنی معاشرتی اور مذہبی و سیاسی انقلابات رونما ہونے پر جب زبانوں اور لغتوں میں بھی انقلاب برپا ہوتا ہے تو وہ حقیقتاً قدرتی عوامل کا نتیجہ ہوتا ہے جس کے لئے انسان بطور آلہ کار یا جارحہ قدرت کے استعمال میں آتا ہے۔ یہ نئی زبان اور اس کے نئے محاورات کبر اس کی نگرانی و نگرانی کا نتیجہ نہیں ہوتی بلکہ انسانوں میں نئی لغت کا نشوونما غیر شعوری طور پر بالکل اس طرح ہوتا ہے جیسے ایک بد شکل قوم جو نسلی اور پشتینی طور پر بد صورت چلی آرہی ہو۔ اچانک کسی انقلاب کے تحت تعلیم پانتم بن کر جوں جوں عملاً اندازہ مشاعر غذا طرز آرائش اور صفائی ستھرائی کے طریقوں کی شائستگی اختیار کرتی جاتی ہے۔ پھر جوں جوں اس کے کھڑکی شائستگی

سے اس کے باطن کا نقشہ موزوں ہوتا جاتا ہے۔ اسی حد تک اس کے افراد کی شکلوں اور صورتوں میں بھی نوعی طور پر خوشنمائی موزونیت اور شانستگی آتی جاتی ہے۔ اور من حیث المقوم اس حد تک فرق پر مہاتا ہے کہ سلف اور خلف کی صورتوں میں کوئی نسبت قائم نہیں رہتی۔ پس یہ سارا اقیس و انقلاب بلاشبہ نمایاں تو انسانی افعال ہی کے ذریعہ ہوتا ہے۔ لیکن لحاظ حقیقت قوم کا یہ نوعی انقلاب شکل و صورت محض قدرتی عوامل کا نتیجہ ہوتا ہے جو غیر شعوری طور پر قوم کے دل و دماغ پر مستولی ہوتے ہیں۔ اور ان انسانوں کے تمدنی افکار و اعمال کو مروجہ ایام سے ایک خاص راہ پر ڈال کر اس خاص نتیجہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ نہ یہ کہ قوم اپنے کو خوبصورت بنانے کے لئے شعور و ارادہ سے کوئی پروگرام بنا کر چلتی ہے۔ اور اس نتیجہ تک پہنچ جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح ایک قوم کی زبان اور نعت بھی تمدنی، معاشرتی اور مذہبی انقلابات کے تحت ترقی و تنزل کی منزلیں اس طرح طے کرتی ہے کہ قدرتی عوامل کے تحت جیسے جیسے نئی نئی اشیاء رونما ہوتی جاتی ہیں ویسے ویسے نئے الفاظ بھی زبان دانوں اور اہل لسان کے دماغوں میں ڈھل ڈھل کر سامنے آنے لگتے ہیں جو محض اس قوم کی سوچ و بچار کا نتیجہ نہیں۔ بلکہ اس کی مروجہ زبان کی مشق و ممارست اور اسی کے محاورات کے سہ وقت استعمال سے پیدا شدہ ذہنیت کا ایک طبعی ثمرہ ہوتے ہیں جو خواص میں براہ فکر و استنباط اور عوام میں اہل علم کے حسب استعداد براہ حدس و تجربہ رواج پکڑ جاتے ہیں اور اسی طرح ایک نامتاز زبان بعد چند دنے مکمل اور شائستہ شکل اختیار کر کے اس حد تک اونچی ہو جاتی ہے کہ اس کے قدیم پست یا نامتاز الفاظ ناموزوں کہاوتیں اور بھدتی قسم کے محاورات و اصطلاحات سے نئے ترقی یافتہ محاورات و لغات کو کوئی نسبت نہیں رہتی۔ پس اگرچہ یہ سب کچھ انسانوں ہی کے زبان و قلم سے ظہور پذیر ہوتا ہے مگر حقیقتاً اس نوعی انقلاب ترقی کا سرچشمہ قدرت ادا اس کے مخفی عوامل ہوتے ہیں جنہوں نے ابتداءً یہ زبان خزانہ غیب سے لکر اس قوم کے دل و دماغ میں پروست کی تھی۔ غور کیا جائے تو اس صورتحال کے ماتحت ایک زبان خود انسان کو اپنی ترقی کا آلہ بناتی ہے۔ اور اُسے بدل ڈالتی ہے نہ کہ انسان اپنے ارادہ و شعور سے زبانوں کو بدلتا ہے جیسے ایک بچہ میں اس کی مادری زبان تدریجاً حد کمال کو پہنچتی ہے اور بلا سکھائے اور تبتلائے وہ بتدریج بولتے بولتے گمراہ ہو جاتا ہے اور آخر کار اہل لسان میں شمار ہونے لگتا ہے۔ نہیں کہا جاسکتا کہ بچے نے کسی ارادی اور شعوری حرکت سے اس زبان کو ترقی دے کر اس حد تک پہنچایا ہے۔ درحالیکہ زبان کی تیکمیل ہوتی اسی کی زبان پر ہے۔ اسی طرح ایک قوم میں اس کی اصلی زبان تدریجاً اس کی تمدنی معاشرتی اور مذہبی ترقی کے ساتھ خود بھی ترقی کرتی ہے اور بالآخر اپنی حد کمال کو پہنچ کر قوم کی قوم

کو صرف گویا ہی کر دیتی ہے بلکہ فصاحت و بلاغت کے انتہائی مقام پر لاکھڑا کر دیتی ہے۔ پس جیسے انفرادی لائن میں ایک سچے زبان کا آئینہ کاربن کر اُسے غیر شعوری طور پر اونچا کر دیتا ہے جس میں اُس کی ارادی حرکات کے بجائے قدرتی عوامل کارفرما ہوتے ہیں ایسے ہی اجتماعی لائن میں ایک قوم بھی زبان کا آئینہ کاربن کر اُسے غیر شعوری طور پر اونچا بناتی ہے۔ مگر اس میں خود اس کی شعوری حرکات کے بجائے قدرتی عوامل مؤثر ہوتے ہیں اور طبعی افتاد کے ماتحت قومی زبان کو قوم کے ذریعہ بلند سطح پر لے آتے ہیں۔

بہر حال نفس لغت کی ایجاد و اختراع میں تو انسان بے بس ہے۔ مگر اُس کی ترین و توسیع اور ترقی کے سلسلے میں اُسے ضرور شعور دیا گیا ہے۔ لیکن اُس میں بھی وہ ایجاد کا درجہ نہیں رکھتا۔ بلکہ صرف اجتہاد کا اور ظاہر ہے کہ اجتہاد اختراع محض کا نام نہیں۔ بلکہ ایک خاص دائرہ میں محدود اور اس کا پابند رہ کر اُس کی محفیات کو باہر نکال لانے کا نام اجتہاد ہے پس اجتہاد کے ذریعہ کوئی بیرونی چیز اندر داخل نہیں کی جاتی بلکہ اندرونی چیزیں نکال کر منظر عام پر لے آئی جاتی ہیں۔ اس لئے انسان بحیثیت مجتہد زبان ہونے کے زبان سے باہر کی چیزیں اختراع کر کے زبان میں داخل نہیں کرتا بلکہ نئے رسمیات نیا بنا ہونے پر اُن کے اسماء خود اسی لغت میں سے باہر کھینچ لاتا ہے اور وہ بھی جزوی طور پر نہ کہ نوعی طور پر کہ زبان کا کوئی اصولی اور بنیادی حصہ ہی اپنے اجتہاد سے وضع کرنے لگے۔

پس ایک متجانب اللہ وضع شدہ زبان کی توسیع و ترقی اور شائستگی میں بلاشبہ شعراء و علماء اہل مذہب۔ اہل صنائع اور کاتبی لوگوں کا حصہ ضرور ہوتا ہے مگر درجہ ایجاد کی حد تک نہیں بلکہ عرض کردہ حدود میں صرف درجہ اجتہاد و استنباط کی حد تک پس جیسے اچھی صورت بنانا تو خدا کا کام ہے لیکن اُسے زیبا دکھانا۔ آراستہ کرنا اور اسباب آرائش سے مقبول عام بنا دینا خود انسان کی سعی و عمل کا ثمرہ ہے ایسے ہی لغت کی تخلیق و ایجاد تو خدا کا کام ہے لیکن اُس کی اقدایت کی ترقی اُس کے مواد کلمات اور صورت کلمات کی باہمی نسبتوں کا انکشاف اُسے سہل الحصول بنانے کے توضیحی ضوابط اُس کے لغت کی تدوین کی طبعی ترتیبیں حسب ضرورت ذخیرہ الفاظ سے استنباط کلمات۔ تقاضائے وقت اُس کی لفظی اور معنوی خصوصیات کی نقاب کشائی اور زبانوں کے میدان میں مذکورہ امور سے اُس کو آراستہ و پیراستہ کر کے مقبول زمانہ کرنا اور دنیا میں اُسے رائج کرنے کی جدوجہد میں لگ جانا بلاشبہ زبان داں انسانوں کا کام ہے لیکن اس کا نام نہ

ایجاد و اختراع ہے نہ ترمیم نہ تیسرے بلکہ توسیع و ترقی ہے جو تغیرِ فطرۃ نہیں بلکہ عینِ مشاغل فطرۃ ہے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ انسان زبان کے حق میں موجود نہیں بلکہ محض ایک مشاطہ کی حیثیت رکھتا ہے جس کے ذریعہ اُس کی آرائش و زیبائش اور حسن و کمال کی ترقی ہوتی ہے جس سے زبان سہل اور مقبول عام بن جاتی ہے۔

(۷) ہاں پھر جیسے اشیاء کائنات میں اعلیٰ جوہر اور اونچی حقیقت کی چیزوں کو خدا کی طرف سے صورتیں بھی اعلیٰ جہیں اور پر شکوہ دی جاتی ہیں اور بلاشبہ اعلیٰ حقیقتوں کی ترجمانی اعلیٰ ہی صورتیں کر سکتی ہیں انسانی حقیقت کی ترجمانی انسان ہی کی پاکیزہ صورت کر سکتی ہے نہ کہ گھوڑے کی شکلیں اور اسی لئے صورتوں کی خوبی و خوبصورتی، حقیقتوں کی خوبی اور بلندی کی علامت قرار کر دی گئی ہے۔ چنانچہ ارشادِ نبوی ہے

إِلْمَسُوا الْخَيْرَ فِي حِسَانِ الْوَجْهِ ۖ بَاطِنُ خَيْرٍ كَوَافِيهِ صَوْتٌ مِّنْ تَلَاسُّ كُرُو-

گویا چیزوں کی زینتی حقائق سے نقص کی علامت ہے اور چہروں کی خوبی و خوبصورتی حقائق کے کمال کی دلیل ہے۔ اسی طرح زبانوں کے سلسلے میں جو زبان اعلیٰ ترین حقائق، اوجھے معارف، بلند ترین معانی کا خزانہ ہوگی۔ اُس کا لہجہ بھی انتہائی شائستہ، لطیف، بلیغ، جامع، اور اپنے مفردات و مرکبات کے لحاظ سے بے حد خوش آئند اور پر شکوہ ہونا ضروری ہے کہ باطن کی خوبی، ظاہر کی ہی خوبی سے نمایاں ہو سکتی ہے۔

اس اصول پر اگر دیکھا جائے تو جیسے کائنات کی تمام شکلوں میں انسانی شکل کو احسن تقوید اس لئے بنایا گیا کہ تمام مخلوقات کی نسبت وہی جامع صفات و نشوون اور جامع جمیع حقائق و کمالات تھا۔ اسی طرح کائناتِ علوم و معارف کی تمام لفظی شکلوں اور کلامی صورتوں یعنی لغات میں عربی لغت اپنے علمی جوہروں اور عربی حقائق کی بھرپور ترجمانی کے لحاظ سے بلاشبہ احسن تقوید کی مصداق ہے۔ گویا زبانوں کی انواع میں عربی زبان نوع انسانی کا درجہ رکھتی ہے جو جامع حقائق ہونے کی وجہ سے جامع تعبیرات ہے اور اعلیٰ ترین کلیات کی ترجمانی ہونے کی وجہ سے وسیع تر اور بلیغ ترین زبان ہے۔ اُس کے الفاظ و لغات معانی کی طرح لطیف و نحیف، وہ اپنی سلاست اور زودادائیگی کے لحاظ سے زبانوں پر سہولت رواں دواں۔ اس کے کلمات میں شیرینی، طرزادائیں شوکت بندشوں میں دل آویزی، تعبیرات و عبارات میں جذب و کشش، اور وہ قلت الفاظ کے ساتھ کثرت معانی یعنی جامعیت کی رو سے مآخِ ذلّ کی مصداق ہے۔ اور پھر ادھر سے اُس کی ادائیگی کے انداز یا بلیغ متانت و وقار کے بخیرے اور اعلیٰ کمال اور اداری لہجہ بلند ترین سنجیدگی کی روح تھا ہے ہونے سے جتنی کہ اُس کو اُسی کے اداری لہجہ میں دا کر نے

والا اُس کی ادائیگی کی وجاہت کے سبب خود بھی باوجاہت نظر آنے لگتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک صاحب اختیار و با اقتدار بادشاہ اپنے جلالی اور جمالی اختیارات استعمال کرنے کے لئے شاہی احکام دے رہا ہے جس میں تواضع سے بگڑو تار کے ساتھ اور جس میں سے سبکدہ منفی ہے مگر ذلت نفس کی نفی کے ساتھ پس کوئی شبہ نہیں کہ عربی لغت اپنی خصوصیتاً لفظ و معنی کی حیثیت سے عام زبانوں میں وہی حیثیت رکھتی ہے جو ملک کی بیگمات میں کلمہ ملک کی ہوتی ہے کہ اردو کی اقتدار اگر ملک کے محدود خطوں اور قبوں پر ہوتا ہے تو اس کا اقتدار پورے ملک پر پھیلا ہوا ہوتا ہے۔

(۸) یہی وجہ ہے کہ اُسے ملک و کلام قرآن عربیہ اور ملک الانبیاء حضرت خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہونے کا شرف حاصل ہوا اس کے سوا دوسری زبان اس شرف کا بوجہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کیونکہ قرآن عربیہ تو اپنے نظم و معنی کے لحاظ سے مجرہ تھا۔ اور حضرت خاتم الرسل اپنی مجرہ انہ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے الفصح العربیہ لہجہ تھے اور نظر ہے کہ ان دونوں کے لئے ایسے ہی لطیف اور وسیع لغت کی ضرورت تھی جو اپنی دست و لطافت کے سبب اُن کی مجرہ انہ بلاغت کا تحمل کر کے اشباع کے ساتھ اُن کے حقائق و معانی کو ادا کر دے۔ اور کسی تحقیق کی ترجمانی میں شانِ ایجاز میں فرق نہ پڑنے دے۔ ظاہر ہے کہ یہ اُس کے بغیر ممکن نہ تھا کہ جیسے قرآن و حدیث کے حقائق بلند تھے ان کے لئے تعیرات بھی ویسی ہی بلند ہوں اور جس حد تک لطیف و دقیق معانی ہوں اُسی حد تک الفاظ کا خزانہ بھی کثافت و نقل سے پاک اور لطافت و دست سے بھر پور ہو۔ ورنہ کلام خدا اور رسول کی شانِ ایجاز کا ظہور ناممکن تھا پس قرآن و حدیث کا اپنے لئے اس زبان کا منتخب کرنا اس کی کھلی دلیل ہے کہ عربی زبان میں یہ لطافت و جامعیت و وسعت اور مہم گیری کی ساری نشانیں موجود ہیں جو اور زبانوں میں نہیں ورنہ خدا کا کلامی مجرہ کسی اور زبان میں بھی اُترتا۔ اس لئے اُسلی معجزات کے ساتھ کلامی اور علمی مجرہ صرف نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو بخشا گیا جن کا لغت عربی تھا تا کہ معجزاتہ علوم کے بدن پر اس زبان کی قبلا ایسی چھت آجھائے کہ نہ تنگ رہے نہ ڈھیلی اور نہ اس میں جھولی آئے نہ ٹنکن پڑے اس لئے لغت عربی کو قرآن کی زبان بتلاتے ہوئے *وَلَيْسَانِ عَرَبِيَّيْنِ فَمَايَا كَيْفَا جَسَّ* سے اس زبان کے واضح روشن اور معانی کے لئے روشن گر ہونا نمایاں ہو جاتا ہے پس عربی زبانِ خدائی لغت بھی ہے اور پیغمبری زبان بھی ہے اور جس زبان کو بیک وقت یہ دو نسبتیں حاصل ہوں اس کے تمام وجوہ لطافت ایک طرف اور صرف یہ ایک وجہ لطافت ایک طرف ہے۔

اُسی کے ساتھ قرآن ہر خاص و عام شریف و ضعیف مشرقی و مغربی اور دنیا کے ہر ملک اور ہر زبان بولنے والے کے لئے قرأت و تلاوت اور ورد و خزانہ کی کتاب ہے اسی لئے اس کا نام قرآن ہے یعنی پڑھنے اور ورد کی چیز۔ یہ پڑھا جانا

اسلام کی ایک مستقل عبادت ہے جو معنیٰ نفی سے جُدا کا نہ ایک موضوع ہے۔ پھر یہ ورد کوئی ایسا عام انداز کا ورنہ تھا کہ قرآن کی چند سطریں کسی نہ کسی وقت بیٹھ کر پڑھ لی جائیں اور حق تبادت ادا ہو جائے بلکہ کثرت تبادت ہی سے حق تبادت ادا ہو سکتا ہے چنانچہ **بِتِلْوَانِهِ حَتَّىٰ تَلِدَادَ تَبَةِ** کی تفسیر محققین نے کثرت تبادت ہی قرار دی ہے جس کی کوئی حد مقرر نہیں ایک پارہ یومیہ سے لے کر ایک قرآن یومیہ تک اس حد میں داخل ہے پس ایک قرآن یومیہ یا نصف ڈلٹ اور ربع قرآن یومیہ پڑھنے والا اسی صورت میں کثرت تبادت کا وظیفہ ادا کر سکتا تھا جب کہ قرآن اپنے الفاظ کی خفت کے سبب سلامت کے ساتھ آسانی زبانوں پر رواں دواں ہو سکے۔ اور اُس کے لغات میں کوئی ایسا نقل اور تشدد نہ ہو جو زبانوں کو ادائیگی کے وقت پوچھ ہو جائے جس سے اُسے رواں نہ پڑھا جاسکے۔ یعنی قرآن بایں مقصد روانی و سلامت کسی ایسی زبان کا جامہ پہن ہی نہ سکتا تھا جو زبانوں پر ثقیل۔ پڑھنے میں ٹھن، اور ادائیگی کے وقت زبان کے لئے باعث تشخ ہو پس اُس کا زبان عربی کو اختیار کرنا اُس کی ٹھنی کی دلیل ہے کہ یہ زبان نہ ثقیل ہے نہ ادائیگی میں ٹھن ہے نہ زبان کے لئے آٹھن ہے۔ ورنہ مقصد تبادت اور کثرت قرآنہ کبھی نہ حاصل ہو سکتا۔ بہر حال قرآن کی قرانیت اس کی تفسیر تھی کہ اُسے وہ زبان دی جائے جس کے مفردات خفیف اور جملوں کی طبعی ترتیب اور ترکیب ایسی نظری ہو کہ ہر جملہ کے بعد وہی جملہ آئے جو آیا ہو اسے گویا پچھلا جملہ اگلے جملہ کا خود تقاضا کرے اُسے یا وولائے اور زبان پر رواں ہونے کی دعوت دے اور اس طرح پہلا جملہ دوسرے جملہ کے لئے بسرعت تمام جملہ خالی کرتا ہے جس سے اس کی پوری عبارت زبانوں پر بجز رواں دواں ہوتی رہے اور حق تبادت کی عبادت آسانی ادا ہو جائے۔

(۱۰) بہر حال عربیت کے اعلیٰ معانی کے سبب عربی لغت کو الفاظ اور نظم کلام کی صورت بھی اعلیٰ ہی دی گئی ہے جس کے شرعی شواہد عرض کئے گئے اس لئے اگر عام زبانوں کی مشاطگی ایک خدمت تصور کی جائے گی خواہ وہ مشکور ہو یا نہ ہو تو عربی جیسی ملکہ السنہ زبان کی مشاطگی اور اُسے آراستہ کر کے مقبول عام بنانے کی کوشش نہ صرف ایک مقبول خدمت ہی سمجھی جائے گی بلکہ ایک مستقل فضیلت و منقبت بھی ہوگی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ایسی پاکیزہ اور ہمہ گیر زبان کی مشاطگی وہی کر سکتا ہے جس کی طبیعت ادب لغت کے لئے قدرتنا آموزوں ہو۔ اور اُسے اس جامع ادب کا ذوق میسر ہو۔

(۱۱) مبارک باد کے مستحق ہیں ہمارے محترم دوست جناب مولانا قاضی زین العابدین سجاد قاضی میسر ٹھ جنہوں نے خدمت لسان اور میان و توضیح لغت کے سلسلہ میں اس مقدس اور ہمہ گیر زبان کا انتخاب فرمایا جو محض لغت اور زبان ہی نہیں بلکہ ملکہ السنہ ہے۔

قاضی صاحب موصوف عربی زبان کے موجد نہیں کہ ہر لغت کی طرح عربی لغت بھی بیاجاد الہی منصفہ ظہور پر آئی ہے اس لئے اُن کی خدمت کا منشاء اپنی ایجادی صفت کا اظہار نہیں پھر قاضی صاحب نے زبان کے زندہ کنندہ بھی نہیں ہیں کہ یہ زبان خود ایک زندہ زبان ہے جو عربی عجم کے کتنے ہی ممالک پر پھلکرائی کر رہی ہے اور خصوصیت سے عالم اسلامی پر بسواً قرآن و حدیث اُس کا تسلط اور قبضہ ہے۔ اس لئے اس خدمت گزاری کا منشاء احیاء لسان بھی نہیں ہے۔ نیز یہ زبان آئندہ مٹنے والی یا مرنے والی زبان نہیں ہے کہ اُس کے احیاء کی پیش بندی قاضی صاحب نے کی ہو کیونکہ اگر قرآن قیامت تک زندہ کتاب ہے اور بلاشبہ ہے جو مٹنے والی نہیں تو اُس کی زبان بھی قیامت تک زندہ رہنے والی زبان ہے۔ اس لئے اُسے کسی کی زندگی اور پیش بندی کی بھی حاجت نہیں۔ بلکہ اُن کی عرق ریزیوں کا منشاء ایک زندہ پائندہ اور قدیم الحسن زبان کو جدید زیورات اور نئے سامان آرائش سے مزین کر کے اس طرح پیش کرنا ہے کہ اس نئی سبزی کے دور میں قدیموں کے ساتھ جدیدی اور پُرانوں کے ساتھ نوخیز بھی اُس کے عاشق صادق بن جائیں اور ہر لحاظ کی طرح عجیبی تھپے بھی اس کے ساتھ مبہر اتر فریقگی پیدا کر سکیں۔ اس لئے کوئی شبہ نہیں کہ یہ مکمل اسذکی مشاغلگی تہ صرف اُن کی ایک مقبول خدمت ہی ہے بلکہ اُن کے حق میں ایک خاص منفعت اور فضیلت بھی ہے۔

(۱۲) عربی لغت کی ترتیب تہذیب کے سلسلہ میں جن خصوصیات کی مدوح نے اپنی اس کتاب بیان اللسان کے مقدمہ میں فہرست دی ہے اور جن خاص ذمہ رُجحانات کے ساتھ آپ نے عربی لغت کی جدید کتابوں سے مینا طرز اخذ کر کے ”بیان اللسان“ کو اس پر مرتب کیا ہے۔ اُس کے پیش نظر مجھے یہ عرض کرنے میں تامل نہیں ہے کہ انھوں نے ہندوستان کے عربی ادیبوں، طلبہ، علماء اور اساتذہ علوم عربیت پر احسان فرمایا ہے۔

اس تالیف کے بعد معمولی استعداد کا طالب علم بھی عربی کی قدر و قیمت پہچاننے کے ساتھ اُس کے حاصل کرنے میں انتہائی سہولت محسوس کرے گا۔ اور عجبت کا مایاب ہو جائے گا۔ کیونکہ اس ترتیب جدید کے تحت عربی لغت اپنے مواد کے لحاظ سے سہل الحصول اور اپنے صورت و اشکال کے لحاظ سے سہل المعرفہ نیز اپنے کلمات کے اُصول و قریب کے لحاظ سے سہل الحفظ بن گیا ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ کتاب کے نئے طرز ترتیب سے سہولت فن لغت پر قابو پا کر ہر ایک تنقید کا دل انھیں بے اختیار دعائیں دے گا۔ حق تعالیٰ شانہ اُن کی اس سعی جہل کو قبول فرمائے۔ کتاب کو نافع اور مفید بنائے۔ اور اہل ذوق کو اُس سے استفادہ ہونے کی توفیق بخشنے۔ مؤلف کو اس علمی خدمت کے صلہ میں دنیا اور آخرت کے بلند مراتب عطا فرمائے۔ آمین !



## خصوصیات

کتاب کی ترتیب میں جن اُمور کو ملحوظ رکھا گیا ہے، یہ ہیں:—

(۱) جملہ لغاتِ عربیہ کا استیعاب کر کے وہ لغات چھانٹ لئے گئے ہیں جو عربی لٹریچر میں عام طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ درسِ نظامی، نصابِ دلی الٹھی، ادبیونیورسٹی کے عربی کورسوں کی کتابوں کے تمام متداول لغات اس میں آگئے ہیں۔ اندازہ ہے کہ صغیر الحکم معجم تیس ہزار لغات پر مشتمل ہے۔

(۲) یورپ و ایشیا کی متمدن اقوام کے ارتباط و اختلاط، اور علوم جدیدہ کے شیوع و فروغ سے، ہر علمی زبان کی طرح عربی زبان میں جو ہزار جدید الفاظ اضافہ ہو گئے ہیں، اور جو مصروفیت کی جدید تالیفات و مجلات میں مستعمل ہیں، ان میں سے تمام ضروری الفاظ اس لغت میں شامل کر لئے گئے ہیں۔

(۳) قرآنِ کریم کے تمام لغات و اصطلاحات (بلا استثناء) اس میں شامل کئے گئے ہیں۔ اور چونکہ یہ محاط قرآنِ کریم کا ہے جس کے لغات کے ناقل کے لئے امام جلال الدین سیوطی نے عدالت کو شرط قرار دیا ہے (الاقتراح) اس لئے ان کی تشریح مولف قرآنِ کریم کے مستند ترین لغت ”مفردات القرآن“ دلائم راعب اصفہانی (ج) اور منتہی الارباب کی روشنی میں کی گئی ہے۔ جہاں کوئی الجھن پیش آتی ہے وہاں حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی حضرت شیخ السنہ اور حضرت تھانوی رحمہم اللہ تعالیٰ کے تراجم سے استفادہ کیا گیا ہے۔

(۴) ہر کلمہ کو اپنی اصلی صورت میں ”لغت“ قرار دے کر تمام لغات کو حروفِ معجم کی ترتیب کے انگریزی ڈکشنریوں کے طرز پر عربی خط میں بااعراب لکھا گیا ہے۔ پھر اس کے کثیر الاستعمال معانی لکھ دیئے گئے ہیں بیانِ معانی صاف اور سہل طریقہ پر مگر مختصر اور جامع الفاظ میں ہے۔ ہر کالم کے پہلے لغت کو نشیانی پر سرعنوان بھی لکھ دیا گیا ہے تاکہ لغت مطلوبہ کی تلاش میں سہولت ہو۔

(۵) اگر لغت اسم ہے تو:۔

(۱) اسم کے مفرد ہونے کی صورت میں اس کی کثیر الاستعمال جموع مکتسرہ لکھ دی گئی ہیں اور جمع ہونے کی صورت میں اس کا مفرد لکھ دیا گیا ہے جہاں مختلف معانی میں مختلف جموع استعمال ہوتے ہیں، وہاں جمع کے بعد اس سے متعلق جمع درج کر دی گئی ہے۔

(ب) جہاں ضرورت سمجھی گئی ہے۔ وہاں تذکرہ و تائید کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے۔ اور نہ۔ مؤنث اور مؤنث کا تذکرہ بھی لکھا گیا ہے۔ پھر اُس کی جمع بھی بیان کر دی گئی ہے۔

(ج) جہاں کوئی لفظ بعض معانی کے اعتبار سے مذکر اور بعض کے اعتبار سے مؤنث ہے وہاں اُس کی تفصیل کر دی گئی ہے۔

(د) جہاں کوئی اسم کسی مخصوص اسم کی صفت بن کر یا اس کی طرف معنات ہو کر کسی خاص معنی میں آتا ہو وہاں اس کی توضیح کر دی گئی ہے مثلاً قَائِمَةٌ کھڑی ہونے والی قَائِمَةٌ (الدَّائِمَةُ) جو پایہ کی ٹانگہ (نیکتیب) کتاب کا ورق فرست (السَّيْفُ) تلوار کا قبضہ (عَيْنٌ) قَائِمَةٌ آنکھ جس کی روشنی جاتی رہی ہو اور ڈھیلا بستور ہو۔ ج۔ ۱۔ قَوَائِمُ۔

(۶) اگر مصدر ہے تو:-

(۱) پہلے اس کا باب لکھ دیا گیا ہے (عموماً ابواب ثلاثی مجرد ہی کے لکھے گئے ہیں، جہاں مصدر مختلف ابواب سے آتا ہو۔ اور ابواب کے اختلاف سے معانی میں اختلاف ہوتا ہو وہاں ہر باب کی علامت لکھ کر اُس کے متعلقہ معانی ترتیب وار لکھ دیے گئے ہیں۔

(ب) جہاں مصدر کسی خاص صِلہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہو، وہاں صِلہ بھی لکھ دیا گیا ہے۔ جہاں اختلاف صِلات کو اختلافِ معانی میں دخل ہو۔ وہاں ہر صِلہ کے بعد اس کے متعلقہ معانی لکھ دئے گئے ہیں۔

(ج) جہاں کسی مصدر کا باب اور صِلہ دونوں ظاہر کرنے ہوں۔ وہاں پہلے باب لکھا گیا ہے۔ پھر صِلہ باب کے لئے قوسی برکیٹ (-) استعمال کیا گیا ہے اور صِلہ کے لئے عمودی [-]۔

(د) جہاں کوئی کلمہ اسم اور مصدر دونوں حیثیتوں سے استعمال ہوتا ہو وہاں پہلے معانی اسمیہ لکھے گئے ہیں پھر علامت مصدر بنا کر معانی مصدریہ لکھے گئے ہیں۔ مثلاً مَوْجِ پانی کی لہر۔ وَا: مَوْجَةٌ۔ ج: آهَوَا ج۔

معدن پانی کا موجیں مارتا۔ لہروں کا تھپہڑے مارتا۔ لوگوں کا بچہ چین ہونا [عند] پھر جانا۔

(۸) تفصیلات مذکورہ کے علاوہ جہاں ضرورت سمجھی گئی ہے، وہاں دیگر امور مثلاً اسم کے منصرف وغیر منصرف، مقرب، ودخیل اور فعل کے معدوقاً و مجولاً استعمال ہونے کی تشریح بھی کر دی گئی ہے۔

(۹) لغاتِ جدیدہ کو لغاتِ "د" بنا کر ہمتا ذکر دیا گیا ہے۔ یہ علامت آخر میں لکھی گئی ہے۔ مگر جو لغتِ قدیم و جدید دونوں معانی میں متعل ہو، وہاں پہلے قدیم معنی لکھے گئے ہیں، پھر علامت مذکورہ بنا کر جدید

معنی لکھ دیے گئے ہیں مثلاً: فُذِّقَ چلغوزہ، مہمان سرائے (د) مہول۔

(۱۰) کتاب کی ترتیب تدوین میں مستند قدیم و جدید کتب لغت، مثلاً: قَامُوس، مُنْتَهَايُ الْأَرْبَابِ، صَرَّاح، أَقْرَبُ الْأُمُورِ، الْمُنْجِد، الْأَعْرَابُ، الدُّرَرُ، مُمْرَاتُ غَرِيبِ الْقُرْآنِ، (امام رابع اصفہانی) وغیرہ سے استفادہ کیا گیا ہے جہاں کہیں کتب لغت میں اختلاف پایا گیا ہے۔ وہاں قرآن و حدیث کے لغات کی تحقیق کے سلسلہ میں کتب قدیمہ کو اور دیگر لغات کے سلسلہ میں صحیح طبع و حسن ترتیب کی بناء پر کتب جدیدہ کو ترجیح دی گئی ہے۔

(۱۱) آغاز کتاب میں قواعد عربی کے اہم مباحث جو لغت سے استفادہ میں مفید و ناگزیر ہیں، اختصاراً وضاحت کے ساتھ بیان کر دیئے گئے ہیں۔

(۱۲) اُمور مذکورہ بالا کے علاوہ، کم سے کم ضخامت میں زیادہ سے زیادہ مواد کھپانے کے لئے ممکن صورت اختیار کی گئی ہے۔ جزوری تفصیلات لغویہ کو پیش کرنے کے لئے "اشارات و رموز" کا استعمال کیا گیا ہے نیز اگرچہ تقطیع چھوٹی رکھی گئی ہے تاکہ استعمال میں سہولت ہو تاہم ہر صفحہ میں دو کالم اور تیس سطور ہونے کی وجہ سے مواد اتنا ہی آگیا ہے جتنا دوسری جہازی سائنکی، ہندوستان کی مطبوعہ کتب لغت میں آتا ہے۔

کاپیوں کی تصحیح اور پردوں کی تیغ میں اپنی دانست میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی تاہم کتاب کے پریس میں جانے کے بعد مصنف کے اختیارات کی حدود ختم ہو جاتی ہیں، لیتھو گرافی میں ج کی ح اور ف کا ق بن جانا یوں بھی معمولی بات ہے۔ پھر اس دور میں جب کہ دہلی مرحوم اپنے ہرگز نہیں اہل ذوق اور ارباب فن سے تقریباً خالی ہو چکی ہے اور یہاں ہر چیز تجارتی سود و زیاں کے کانتے میں قفل جا رہی ہے لہذا یہ ارباب مطالعہ کے جھوکرم پر ہے کہ وہ چاہیں مصنف کی محنت کو ٹھکانے لگائیں یا اسے مٹی میں ملائیں اَللّٰهُمَّ ارْهَدْ دَوْتِيْ فَاِنَّهُمْ لَا يَهْتَبُوْنَ۔

تَشْكُرُ :-

ناسپاسی ہوگی اگر میں غلغلہ مكرم جناب مولوی حافظ صبح الدين صاحب سابق رکن بلديہ و تاجر اسلمیڑھ کا شکر گزار نہ ہوں جنہوں نے اپنے لطائف کربیانہ و عنایات قدیمانہ نیز اس ذوق دینی و شغف علمی کی بناء پر جو انہیں اپنے بزرگوں سے وراثت میں ملا ہے۔ انصرام طباعت کے سلسلہ میں میرے لئے سہولتیں بہم پہنچائیں۔

نیز یاد رکھ مولوی حافظ محمد سعید صاحب اشمی مالک مطبع اشمی میرٹھ کا بھی بے حد رفہون منت ہوں جنہوں نے اپنی گراں بار مہر و فیتوں کے باوجود اس سلسلہ میں میری ہر ممکن مدد کی۔ فَجَزَّاهُمَا اللهُ تَعَالَى خَيْرًا لِّجَزَاءِ :-

میں اجاب ذیل کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے کتاب کی ترتیب کے مختلف مراحل میں کیے بعد دیگرے میرا ہاتھ بٹایا حقیقت یہ ہے کہ ان دوستوں کو کتاب کی "مجلس تالیف" کا رکن سمجھنا چاہیے۔

- (۱) مولانا حکیم حافظ حبیب احمد صاحب اسراہیلی سنبھلی۔
  - (۲) مولانا حافظ شبیر احمد صاحب میرٹھی۔ مدرس جامعہ عربیہ رڈ اجمیل۔
  - (۳) مولانا عبدالحفیظ صاحب بلیا دی مدرس دارالعلوم دیوبند۔
  - (۴) عزیز مکرم مولوی حافظ محمد مظاہر ہاشمی (ایم۔ اے۔ فاضل ادب)۔
- اِسْتِعْمَاعًا :-

آخر میں اس کتاب کے استفادہ کرنے والوں سے درخواست ہے کہ اگر وہ اس میں کوئی خوبی دیکھیں تو صرف اس سرگشتہ راہی جہالت تہی مایہ بے بضاعت کو اپنی دعوت صالحہ میں یاد رکھیں، بلکہ میرے والد ماجد مولانا الحاج قاضی محمد بشیر الدین صدیقی مرحوم و مغفور، قاضی شہر و خطیب جامع مسجد میرٹھ کی روح پر فتوح کو بھی ان دُعاؤں میں شامل فرمائیں کہ یہ انہی کی علمی و تصنیفی زندگی کا پر تو ہے کہ میں انہی معاشی و مدنی فرصت سوز مصروفیتوں کے باوجود اس ذرا سی زندگی میں کچھ نہ کچھ کر لینے کے لئے وقت نکال ہی لیتا ہوں

اَللّٰهُمَّ اَعْفِرْ لِيْ وَاٰلِيْ دِيْ وَرَجْمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِيْنَ  
وَ الْمُسْلِمَاتِ اِنَّكَ سَمِيْعٌ حَيُّبٌ السَّمَوَاتِ ۝

قاضی منزل۔ قاضی داڑھ

میرٹھ (ہند)

۲۴ رجب المرجب ۱۳۶۸ھ

یومِ دوشنبہ

## فَسْرَاعُ الْقَوَاعِدِ

مصدر کے دو قسمیں ہیں (۱) ثلاثی جس کی ماضی میں تین حروف اصلی ہوں (۲) رباعی جس کی ماضی میں چار حروف اصلی ہوں۔ پھر ہر ایک قسم کی دو قسمیں ہیں (۱) مجرد یعنی جس کی ماضی میں حروف اصلی کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو (۲) مزید جس کی ماضی میں حروف اصلی کے علاوہ کوئی زائد حرف بھی ہو۔ ثلاثی مجرد کے ۶ باب (ماضی اور مضارع کے وزن) ہیں (۱) فَعَلَ يَفْعَلُ جِيسِي لَفَعْلَفِيْمُو (۲) فَعَلَ يَفْعَلُ جِيسِي ضَرَبَ يَضْرِبُ (۳) فَعَلَ يَفْعَلُ جِيسِي فَتَحَ يَفْتَحُ (۴) فَعَلَ يَفْعَلُ جِيسِي سَمِعَ يَسْمَعُ (۵) فَعَلَ يَفْعَلُ جِيسِي حَسِبَ يَحْسِبُ فَعَلَ يَفْعَلُ جِيسِي كَرُمَ يَكْرُمُ۔ ثلاثی مجرد کے مصدر جن اوزان پر آتے ہیں۔ وہ بہت ہیں۔ اور کسی ضابطہ کے تحت نہیں آتے۔ لیکن بعض مخصوص معانی پر مشتمل افعال کے مصادر اکثر بعض مخصوص اوزان پر آتے ہیں ان کی تفصیل یہ ہے:- (۱) جو فعل کسی پیشہ پر دلالت کرے اُس کا مصدر بروزن فَعَالَةٌ آتا ہے جیسے تَجَارَةٌ وسوداگری کا پیشہ کرنا) جَيِّتَاكَ (کپڑے سینے کا پیشہ کرنا)

(۲) جس فعل میں انکار کے معنی پائے جائیں۔ اُس کا مصدر فِعَالٌ کے وزن پر ہوتا ہے جیسے اِبَاءٌ (منع کرنا)۔ جِمَاحٌ (سرکشی کرنا)

(۳) جو فعل حرکت واضطرار پر دلالت کرے۔ اس کا مصدر بروزن فَعْلَانٌ آتا ہے جیسے جَوَّانٌ دَوَّرَانٌ (گھومنا)

(۴) جو فعل کسی مرض پر دلالت کرے اس کے مصدر کا وزن فَعَالٌ ہے جیسے صَدَاعٌ (درد سر ہونا) زُكَاہُ (دندان ہونا)

(۵) جس فعل میں یہ سفر کے معنی پائے جائیں اُس کے مصدر کا وزن فَعِيلٌ ہے جیسے رَحِيلٌ (کوچ کرنا)

(۶) آواز اور صوت پر دلالت کرنے والے فعل کا مصدر فَعَالٌ یا فَعِيلٌ ہے جیسے صَرَاحٌ (چیننا) دَرِيْمٌ (شیر کا ڈروکنا)۔

(۷) جن فعلوں میں رنگ کے معنی پائے جائیں، اُن کا مصدر بروزن فَعْلَةٌ آتا ہے جیسے حَمْرَةٌ (سرخ ہونا) صُفْرَةٌ (زررد ہونا) مِثْلَانِي مَذْكُورَهٗ سَلْعٌ نَظَرَكَ كَعَلٌ يَفْعَلُ كَامَصْرٌ اَكْثَرُ بَرُوْزِنِ فَعُوْلَهٗ فَعَالَةٌ اَتْلَبُهٗ جِيسِي سُهُوْلَهٗ فَصَاحَةٌ اَوْرَقِيْلٌ يَفْعَلُ لَازِمٌ كَامَصْرٌ اَكْثَرُ بَرُوْزِنِ فَعَلٌ اَتْلَبُهٗ جِيسِي قَدَحٌ اَوْرَقِيْلٌ يَفْعَلُ لَازِمٌ كَامَصْرٌ اَكْثَرُ فَعُوْلٌ كَعَلٌ يَفْعَلُ جِيسِي فَعُوْدٌ - دُخُوْلٌ اَوْرَقِيْلٌ يَفْعَلُ مَتَدِيٌّ كَامَصْرٌ اَكْثَرُ بَرُوْزِنِ فَعَلٌ يُوْكَ جِيسِي ذَبَلٌ - قَهَّذٌ -

### مصادر ثلاثی مزید و باہمی اور ان کے خواص

مصادر ثلاثی مزید نیز اور باہمی کے اوزان مقررہ ہیں۔ ان میں سے ہر وزن کے مصدر کے ماضی اور مضارع بھی مقررہ اوزان پر آتے ہیں۔ نیز ہر ایک میں کچھ معنوی خواص پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس کی تفصیل درج ذیل ہے :-

ثلاثی مزید فیہ کے بارہ اوزان (الہاب) ہیں :-

(۱) تَعَبَّلُ - اس کا ماضی قَعَلَ اور مضارع يُعَبِّلُ کے وزن پر آتا ہے۔ کثیر الاستعمال خواص حسبِ یلی ہیں۔  
(ا) تکثیر ماخذ (ماخذ کی کثرت ظاہر کرنا) جیسے قَطَعْتُ الْحَبْلَ میں نے رسی کے ٹکڑے کر دیے (ب) نسبت ماخذ (یعنی فاعل کا مفعول کو ماخذ کی طرف منسوب کرنا) جیسے فَسَفْتُ زَيْنًا میں نے زید کو فسق کی طرف منسوب کیا  
(ج) سلب ماخذ (یعنی فاعل کا مفعول سے ماخذ کو دور کر دینا) جیسے قَدَّيْتُ عَيْنَهُ میں نے اس کی آنکھ سے قدی (تنگ) دور کر دیا (د) اِحْتَا ذَمِيَّتِي فاعل کا ماخذ بنانا جیسے خَيَّمْتُ میں نے خیمہ لگایا۔

(۲) مَقَاعَلَةٌ - اس کا ماضی قَاعَلَ اور مضارع يُقَاعِلُ کے وزن پر آتا ہے۔ کثیر الاستعمال خواص یہ ہیں (ا) مشارکت (یعنی دو شخصوں کا مل کر کسی کام کو اس طرح کرنا کہ ہر ایک فاعل ہی ہو اور مفعول بھی) جیسے صَادِبٌ زَيْنًا عَمْرًا - زید نے عمر سے مار پیٹ کی۔ (ب) تکثیر جیسے صَاعَفْتُهُ میں نے اس میں بہت اضا کر دیا۔ (ج) موافقت (فعال جیسے بَاعَدْتُهُ - یعنی آبعَدْتُهُ - میں نے اُسے دور کر دیا۔ (د) تَوَافُقٌ جُزْءٍ جِيسَ قَاتَلَهُ اللهُ - یعنی قَاتَلَهُ اللهُ - اللہ تعالیٰ اُسے ہلاک کرے۔

(۳) اِرْفَعَالٌ - یہ اکثر حسبِ ذیل معانی کے لئے آتا ہے (ا) تَعْدِيَةٌ (یعنی لازم کو متعدّد کر دینا) جیسے اَذْهَبْتُ زَيْنًا - میں زید کو لے گیا (ب) اِبْدُوْعٌ (یعنی فاعل کا ماخذ میں پہنچنا) جیسے اَعْرَقْتُ زَيْنًا - زید عراق میں پہنچا (ج) وُجْدَانٌ (یعنی فاعل کا مفعول کو ماخذ کے ساتھ متعین پانا) جیسے اَنْجَلْتُ زَيْنًا - میں نے زید کو جنیل پایا (د) صَيْرُوْرَةٌ - (یعنی فاعل کا صاحب ماخذ ہو جانا) جیسے اَلْبَنَاتُ السَّائِيَةُ - بکری دودھ والی ہو گئی (ه) تَصْيِيْرٌ - (یعنی فاعل کا مفعول کو صاحب ماخذ کر دینا) - جیسے اَلرَّوْثُ السَّوْبُ - میں نے کپڑے کو نقشین (نیر والا) کر دیا۔ (و) مُبَا لَعَةٌ جِيسَ اَسْقَرُ الصَّبْرُ - صبحِ خُوبِ رُوشن ہو گئی۔ (ز) عَرَضٌ (یعنی فاعل کا مفعول کو ماخذ کے لئے پیش کرنا) جیسے اَبْعَثُ الْعَبْدَ - میں نے غلام کو بیع کے لئے پیش کیا (ح) سَلْبٌ جِيسَ اَشْعَبْتُ زَيْنًا - میں نے زید کی

شکایت دور کردی (ط حینونت - یعنی فاعل کے لئے ماخذ کا وقت آجانا۔ جیسے أَحْصَدَ الذَّمْرُ ع۔  
 کھیتی کو حَصَادِ لگائی) کا وقت آگیا (دی) مواقتِ مجرد جیسے قَهَبْتُ الزَّمْرَدَ وَأَقَطَبْتُهَا بِأَلْمَاءِ  
 میں نے شراب میں پانی کی آمیزش کی۔

(۴) تَفَعَّلَ۔ اس کا ماضی تَفَعَّلَ اور مضارع يَتَفَعَّلُ کے وزن پر آتا ہے۔ اس کی بعض خصوصیات

یہ ہیں (۱) مَطَاوَعَتِ تَفَعَّلَ۔ مَطَاوَعَتِ کسی فعل کے اثر کو قبول کر لینے کو کہتے ہیں جیسے عَلِمْتُ زَيْدًا  
 لِيَكْتَسِبَ فَتَعَلَّمَهُ میں نے زید کو کتاب پڑھائی۔ پس وہ اسے پڑھ گیا (ب) تَكَلَّفَ۔ یعنی فاعل کا اپنے آپ کو  
 بنا دینی طور پر ماخذ سے متصف ظاہر کرنا جیسے تَشَجَّعَ زَيْدٌ۔ زید نے اپنے آپ کو شجاع ظاہر کیا۔ بنا دہ سے  
 (ج) اِتَّخَذَ (یعنی فاعل کا مفعول کو ماخذ بنانا یا ماخذ میں لینا) جیسے تَوَسَّطْتُ الْحُجْرَةَ میں نے حجر کو وساطت  
 (کئی) بنایا۔ اور تَابَطْتُ اِيكَتَابَ۔ میں نے کتاب کو ایبط (بغل) میں لیا۔ (د) تَجَنَّبَ (یعنی فاعل کا ماخذ  
 سے بچنا) جیسے تَأْتَمَرُ زَيْدًا۔ زید اتم (گناہ) سے بچا (لا) صَيَّرْتُ جِيسَةَ تَمَوَّلَ زَيْدًا۔ زید مالدار  
 ہو گیا (و) تَدَرَّجَ (کسی کام کا آہستہ آہستہ کرنا) جیسے تَجَوَّعْتُ الْمَاءَ۔ میں نے گھونٹ گھونٹ کر کے پانی  
 پیا۔ (ز) تَحَوَّلَ (فاعل کا عین ماخذ) یا مثل ماخذ ہونا، جیسے تَنَصَّرَ زَيْدٌ۔ زید نصرانی بن گیا۔ تَبَحَّرَ زَيْدٌ  
 فِي الْعِلْمِ زَيْدٌ عِلْمٍ مِمَّنْ تَرَكِي طَرِحَ ہو گیا۔

(۵) تَفَاعَلَ۔ اس کا ماضی تَفَاعَلَ اور مضارع يَتَفَاعَلُ کے وزن پر آتا ہے۔ کثیر الاستعمال

خواص حسب ذیل ہیں:-

(۱) مشارکت (یعنی دو شخصوں کا مل کر کسی کام کو اس طرح کرنا کہ ہر ایک فاعل ہی ہو اور مفعول بھی) جیسے  
 تَصَارَبَ زَيْدٌ وَعَمْرُو۔ زید اور عمرو نے باہم مار پیٹ کی (ب) مَطَاوَعَتِ مفاعلہ۔ جیسے بَاعَدْتَهُ  
 فَتَبَّأْتَهُ۔ میں نے اُسے دور کیا۔ تو وہ دور ہو گیا (ج) تَغَيَّلَ (فاعل کا اپنے آپ کو ماخذ سے جبرطیعا ناپسند  
 ہو متصف ظاہر کرنا) جیسے تَمَادَرَقَ زَيْدٌ۔ زید نے اپنے آپ کو بیمار ظاہر کیا۔ یہ پانچوں ابواب بلا ہر  
 وصل آتے ہیں۔

(۶) اِفْتَعَلَ۔ اس کا ماضی اِفْتَعَلَ اور مضارع يِفْتَعَلُ کے وزن پر آتا ہے۔ اہم خواص یہ ہیں:-

(۱) مطاوعت مجرد جیسے جَمَعْتُهُ فَأَجْمَعَهُ۔ میں نے اُسے اکٹھا کیا تو وہ اکٹھا ہو گیا۔ (ب) اِتَّخَذَ  
 جیسے اِحْتَمَدَ الْفَارِدَ۔ چرچے نے حجر میں قول بنایا (ج) مَبَالَغَةُ (یعنی ماخذ کے حصول میں خوب کوشش کرنا)

جیسے اِكْتَسَبَ زَيْدٌ۔ خوب کوشش سے زید نے کسب کیا (د) طلب (یعنی فاعل کا مفعول سے ماخذ کو طلب کرنا جیسے اِكْتَسَبَ زَيْدٌ عَمْرًا۔ زید نے عمرو سے مشقت (کد) طلب کی۔

(۷) اِنْفِيعَال۔ اس کا ماضی اِنْفَعَلَ اور مضارع يَنْفَعِلُ کے وزن پر آتا ہے اہم خواص یہ ہیں:-  
(۱) لزوم (لازم ہونا) جیسے كَسَرَ (توڑنا) سے اِنكسَرَ (ٹوٹا) (ب) مطاوعت جیسے كَسَرْتُهٗ قَا نَكْسَرَ۔ میں نے اُسے توڑا تو وہ ٹوٹ گیا۔

(۸) اِنْفِعَال۔ اس کا ماضی اِنْفَعَلَ اور مضارع يَنْفَعِلُ کے وزن پر آتا ہے۔ یہ باب اکثر نون و عیب کے لئے آتا ہے۔ نیز اس کا لازم اور بالذکر کے لئے ہونا ضروری ہے جیسے اِحْمَدٌ (بہت مُرَخ ہو گیا) اِحْوَلٌ (بہت بھیگتا ہو گیا)۔

(۹) اِسْتِفْعَال۔ اس کا ماضی اِسْتَفْعَلَ اور مضارع يَسْتَفْعِلُ کے وزن پر آتا ہے۔ اس کے اہم خواص یہ ہیں:  
(۱) طلب جیسے اِسْتَفْعَمْتُ اللّٰهَ میں نے اللہ سے مغفرت چاہی (ب) حِسْبَان۔ یعنی فاعل کا مفعول کو موصوف بہ ماخذ سمجھنا چاہیے اِسْتَحْسَنْتُ زَيْدًا۔ میں نے زید کو موصوف بہ حسن یعنی اچھا سمجھا (ج) تَحْوَلُ کسی چیز کا عین ماخذ یا مثل ماخذ بن جانا جیسے اِسْتَحْجَرَ الطَّيْنَ مِثْلِي پتھر بن گئی (د) قَصْر حَكَايَةٍ (یعنی) اختصار کے لئے کسی مرکب سے فعل مشتق کرنا جیسے اِسْتَرْجَعَ زَيْدٌ۔ زید نے اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُونَ پر مھا۔  
(۱۰) اِنْفِيعَال۔ اس کا ماضی اِنْفَعَلَ اور مضارع يَنْفَعِلُ کے وزن پر آتا ہے اس باب میں لزوم ناپ اور بالذکر لازم ہوتا ہے۔ جیسے اِحْدَوْدَب۔ وہ بہت کبڑا ہو گیا۔ اور کبھی مجرور کی موافقت بھی کرتا ہے جیسے اِحْدَوْدَب۔ وہ بہت کبڑا ہو گیا۔ اور کبھی مجرور کی موافقت بھی کرتا ہے جیسے اِحْدَوْدَبٌ اِحْدَوْدَبٌ۔  
شیریں ہوا۔

(۱۱) اِنْفِيعَال۔ اس کا ماضی اِنْفَعَلَ اور مضارع يَنْفَعِلُ کے وزن پر آتا ہے اور یہ باب نون و عیب کے ساتھ محقق اور بالذکر کے لئے مفید ہے جیسے اِحْمَاج۔ بہت مُرَخ ہوا۔ اِحْوَالٌ بہت بھیگتا ہوا۔

(۱۲) اِنْفِعَال۔ اس کا ماضی اِنْفَعَلَ اور مضارع يَنْفَعِلُ کے وزن پر آتا ہے۔ اکثر لازم ہوتا ہے۔ نیز اس کا مجرور نہیں آتا۔ اور اگر آتا ہے تو اس کے معنی سے مناسبت نہیں جیسے اِحْدَوْدَب۔ وہ تیز تیز چلا۔  
یہ سات باب وہ تھہر بن کے اذال میں مجرور وصل آتا ہے۔

دو باعی کے چار باب ہیں۔ ایک مجرور اور تین مزید فیہ جن میں سے دو با مجرور وصل اور ایک بلا مجرور وصل ہے۔



مُجْرَدًا، فَعَلَّةٌ۔ اس کا ماضی فَعَّلَ اور مضارع يُفَعِّلُ کے وزن پر آتا ہے۔ اس کے خواص اکثر یہ ہیں۔

(۱) قَصْر۔ جیسے حَمَدًا ذَيْدًا۔ زید نے اَلْحَمْدَ لِشَا كَمَا رَبِّ الْبِاسِ ماخذ یعنی فاعل کا مفعول کو ماخذ پہناتا، جیسے بَرَقَعْتُ الْمَرْوَةَ میں نے عورت کو برقعہ اڑھایا (جر) اِتَّخَذَ۔ جیسے قَنَطَرْتُ میں نے پل بنایا۔

مزید (۱) تَفَعَّلُ۔ اس کا ماضی تَفَعَّلَ اور مضارع يَتَفَعَّلُ کے وزن پر آتا ہے یہ اپنے مجرود کی مطاوعت کرتا ہے۔ جیسے دَخَرْتُ جُنْدَهُ فَتَدَخَّرَ جَرَّ میں نے اُسے لڑھکایا تو وہ لڑھک گیا۔

(۲) اِفْعَلَّالَ۔ اس کا ماضی اِفْعَلَّلَ اور مضارع يَفْعَلِّلُ کے وزن پر آتا ہے مجرود کی مطاوعت کرتا ہے جیسے ثَجَّرْتَهُ، مَا أَتَعَجَّرَ۔ میں نے اس کی غوریزمی کی تو وہ خون ریز بن گیا۔ اور مبالغہ کا فائدہ بھی دیتا ہے۔ جیسے اِسْتَحْفَرَّ۔ بہت جلدی کی۔

(۳) اِفْعِلَّالَ۔ اس کا ماضی اِفْعَلَّلَ اور مضارع يَفْعَلِّلُ کے وزن پر آتا ہے۔ مبالغہ کے لئے آتا ہے جیسے اِسْتَشْرَعَيْتَ۔ نہایت چوکنا ہوا۔

(تنبیہ) مصاد مزید فیض سے اکثر سمائی ہیں۔ اسی لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مجرود سے مزید فیہ آتا ہو۔ یا ہر مزید فیہ کا مجرود موجود ہو۔ یا اگر ایک مزید فیہ آتا ہے تو دوسرا بھی ضرور آئے۔ مثلاً اگر کسی مادہ سے باب افعال آتا ہے تو باب تفعیل وغیرہ کا بھی اس مادہ سے آنا لازم نہیں ہے۔

(اِسْتِنْعَاتُ) ہم بتلا چکے ہیں کہ غیر ثلاثی مجرود کے ابواب محدود اور اُن کے مصاد کے اوزان قیاسی ہیں لیکن چند ابواب کے مصاد میں کچھ تغیر و تبدل ہوتا ہے۔ مثلاً،

(۱) باب تفعیل کا مصدر تَفَعَّلَ کے وزن پر بھی آتا ہے جیسے وَسَّعَ تَوَسَّعًا اور اگر موز اللام ہو تو تَفَعَّلَ کم اور تَفَعَّلَ اکثر آتا ہے۔ جیسے نَبَأٌ تَنْبِئَةٌ۔ اور اگر مقل اللام ہو تو پھر صرف تَفَعَّلَ ہی آتا ہے جیسے تَحَلَّيْتُ۔ اور اجوف میں صرف تَفَعَّلَ ہی آئے گا جیسے تَحَجَّيْتُ۔

(۲) مُقَاعَلَةٌ کا مصدر فَعَالٌ وَمُقَاعَلَةٌ دونوں وزنوں پر آتا ہے جیسے قِيَالٌ وَمُقَاتَلَةٌ۔ اور اگر مثال یا می ہو تو پھر مُقَاعَلَةٌ ضروری ہوگا جیسے يَا سَرْمِيًّا سَرَعًا۔

(۳) باب افعال و استفعال اجوف ہوں تو میں کلمہ کی حرکت فاعلہ کی طرف منتقل کر کے عین کلمہ کو افعال سے

سے بدل کر انتقائے سائین کی وجہ سے ایک کو گرادیا جائے گا۔ اور اس کے عوض آخزمیں کا اضافہ کر دیا جائے گا جیسے آقارہ سے اِقَامَةٌ (محل میں اِقْوَامٌ تھا) اور اِسْتَقَامَ سے اِسْتِقَامَةٌ (محل میں اِسْتَقْوَامٌ تھا)۔

(۴) باب تَفَعَّلَ اگر ناقص وادی ہو تو وَاوُكُوٰی کر لیں گے اور ما قبل کو مفسور جیسے تَعَلَّى نَعْلِيًّا۔ اور ناقص یا ی ہو تو صرف ما قبل کو مفسور کر لیا جائے گا۔

یسی صورت باب تَفَاعُلٌ میں بھی جاری ہوگی جیسے تَقَاضَى تَقَاضِيًّا۔

(۵) رُبَاعِيٌّ مجرد کا مصدر قِيَامًا فَعْلَلَةٌ اور سِيَمًا فَعْلَلًا آتا ہے جیسے ذَخْرَجَةٌ وِذْخَاجٍ اور اِغْرَضٌ ہوتو فَعْلَلٌ کا وزن بھی قیاسی ہے جیسے زَلْنَلَةٌ وِزْنَالٌ۔

مصدر میمی:

ثلاثی مجرد سے مصدر میمی بروزن مَفْعَلٌ آتا ہے۔ جیسے مَنظَرٌ (دیکھنا) مَضْرَبٌ (رازنا) مِرْشَالٌ (داوی سے جو صحیح الامام ہو۔ مصدر میمی ہمیشہ مَفْعَلٌ کے وزن پر آئے گا جیسے مَوْعِدٌ (وعدہ کرنا) مَوْجِلٌ (ڈرنا) مثلاً وادی صحیح الامام کے علاوہ بھی ثلاثی مجرد کے بعض افعال سے مصدر میمی کبھی اس وزن پر آجاتا ہے، جیسے فَوَجِعٌ (لوٹنا) غیر ثلاثی مجرد سے مصدر میمی اس کے مفعول کے وزن پر آتا ہے جیسے مُكْتَبَرٌ (عزت کرنا) مُجْتَنَبٌ (پرہیز کرنا)۔

مصدر صرۃ:

وہ مصدر ہے جو فعل کے ایک مرتبہ واقع ہونے پر دلالت کرے۔ ثلاثی مجرد سے فَعْلَلَةٌ کے وزن پر بنایا جاتا ہے۔ جیسے صَوَّبَتْهُ صَوْبَةً (میں نے اُسے ایک مرتبہ مارا) اور غیر ثلاثی مجرد کے مصدر میں صرۃ کے لئے صرف آخزمیں تاہ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، جیسے اَلْزَمْتُهُ اَلْزَمَةً (میں نے اُس کی ایک مرتبہ عزت کی) لیکن اگر اصل مصدر ثلاثی یا غیر ثلاثی کے آخزمیں تاہ پہلے ہی موجود ہے۔ تو پھر مزید تاہ کے اضافہ کی ضرورت نہیں بلکہ ایک ایسا لفظ لانا ضروری ہوگا جو معنی وحدت پر دلالت کرے جیسے اَحْبَبْتُهُ اِحْبَابَةً وَاَحْسَدْتُهُ (میں نے اُسے صرف ایک مرتبہ قبول کیا)۔

مصدر نوع:

وہ مصدر ہے جو فعل کی میسٹ اور نوعیت پر دلالت کرے۔ ثلاثی مجرد سے وہ فِعْلَلَةٌ کے وزن پر بنایا جاتا ہے۔

جیسے وَقَفْتُ وَقَفَّةَ الْأَسَدِ (میں شیر کی طرح کھڑا ہوا) یعنی میرے کھڑے ہونے کی ہیئت شیر کے کھڑے ہونے کی ہیئت کے مشابہتھی۔ غیر ثنائی مجرد سے اس کی بنا د کے لئے کوئی خاص وزن متعین نہیں ہے بلکہ حسب قرینہ مقام مصدر وَقَفَّةٌ ہی معنی ہیئت کے لئے مفید ہوتا ہے جیسے اِنطَلَقْتُ اِنطِلَاقَةَ الْأَسَدِ (میں شیر کی چال چلا)۔

### طرف زمان و مکان

طرف زمان وہ اسم مشتق ہے۔ جو وقوع فعل کے وقت پر دلالت کرے۔ اور طرف مکان وہ ہے جو وقوع فعل کے مقام کو بتلائے۔ دونوں کے لئے کلام عرب میں ایک ہی صیغہ آتا ہے۔ ثنائی مجرد سے یہ صیغہ مَفْعَلٌ کے وزن پر ہوگا۔ بشرطیکہ مضارع کا عین کلمہ مضموم یا مفتوح ہو، جیسے مَنصَرٌ (مدد کرنے کی جگہ۔ مدد کرنے کا وقت) اور اگر مضارع کا عین کلمہ مکسور ہے۔ تو طرف بھی مَفْعَلٌ، مکسور العین ہوگا، جیسے مَضْرِبٌ اس قاعدہ کلیہ سے "اللفظ مشتق ہے"۔ (۱) مَسْجِدٌ (۲) مَشْرِيقٌ (۳) مَغْرِبٌ (۴) مَطْلَعٌ (۵) مَجْزِرٌ (دوبچ گاہ) (۶) مَرْفِيقٌ (گھائی) (۷) مَعْرِقٌ (ناگ) (۸) مَسْنِينٌ (رہنے کی جگہ) (۹) مَسْنِيكٌ (عبادت گاہ) (۱۰) مَسْنِيَةٌ (گنے کی جگہ) (۱۱) مَسْنِيْقٌ (گنے کی جگہ) لیکن مثال کا ظرف ہمیشہ مکسور العین ہوتا ہے۔ جیسے مَوْعِدٌ (وعدہ گاہ) مَسْنِيَسٌ (تعمیرات) وغیرہ اور اس کے عکس ناقص کا ظرف ہمیشہ مفتوح العین آئے گا جیسے مَدْعَى۔ مَدْرَجِيٌّ وغیرہ اور اور غیر ثنائی مجرد سے مصدر میم کی طرح اسم طرف بھی اس کے مفعول کے وزن پر ہی آتا ہے جیسے مَدْخَلٌ (داخل کرنے کی جگہ یا وقت) مَجْتَنِبٌ (پرہیز کرنے کی جگہ یا وقت) کسی چیز کی کسی مقام میں کثرت بتلانے کے لئے اسم ثنائی مجرد مزید سے مَفْعَلَةٌ کا وزن آتا ہے جیسے اِبِلٌ (اونٹ) سے مَابِلَةٌ (وہ جگہ جہاں اونٹ بکثرت ہوں) مَجْرِبٌ اسم ثنائی مزید سے اس کی بنا د کی جائے گی تو حروف زوائد کو حذف کر دیا جائے گا۔

### اسم آلہ

وہ اسم مشتق ہے جو اس چیز پر دلالت کرے جو کام کرنے کا ذریعہ ہو، اس کی دو قسمیں ہیں (۱) مشتق (۲) غیر مشتق۔ مشتق صرف ثنائی مجرد متعدی سے بنتا ہے کبھی لازم سے بھی بنایا جاتا ہے۔ جیسے مِرْقَاةٌ (چڑھنے کا آلہ) میں مِرْقِیٌّ اسم آلہ کی بنا د کے ۳ وزن ہیں (۱) مِفْعَلٌ جیسے مَبْرَدٌ (ریتی) (۲) مِفْعَالٌ جیسے مِفْتَاحٌ (کھچی) (۳) مِفْعَلَةٌ جیسے مِکْنَسَةٌ (دھارو)۔

گریزینوں اور ان غیر قیاسی ہیں، البتہ ناقص کا آلہ اکثر مِفْعَلَةٌ کے وزن پر آتا ہے جیسے مِسْوَاةٌ (بھرنے کا

آکر اور ایسے بھی الفاظ ہیں جو درحقیقت آکر نہیں ہیں۔ مگر آکر کے معنی کے لئے مفید ہیں۔ ایسے الفاظ کو یہ سمجھنا چاہئے کہ یہ اسماء جامدہ ہیں اور اشتقاق کا اعتبار رکھنے بغیر اپنے مدولات کے لئے وضع کئے گئے ہیں جیسے مُكْحَلَةٌ (سُرمردانی) مُشْطٌ (کنگھی) مُدَقٌّ (موسل) وغیرہ۔ بغیر مشتق اسم آکر کا کوئی صنایع نہیں ہے۔ بلکہ وہ مختلف افعال پر آتا ہے، جیسے قُتِلَ وَهُر (کھاڑی) سَخِيئَتٌ (ٹھہری) خَاسٌ (تبر) وغیرہ۔

### اسم فاعل :-

وہ اسم مشتق ہے جو اُس ذات پر دلالت کرے۔ جس سے فعل صادر ہوا ہو یا جس کے ساتھ قائم ہو۔ ثنائی مجرد سے اس کی بنا فاعل کے وزن پر ہوتی ہے جیسے تَأَصَّرَ (مد کرنے والا) قَاتِلٌ (مارنے والا) وغیرہ اور غیر ثنائی مجرد سے مضارع معروف کے وزن پر آتا ہے مگر علامت مضارع کو میم مضموم سے بدل لیا جاتا ہے اور ما قبل آخر کو (اگ اس پر زبر نہ ہو) زبر دیدیا جاتا ہے، جیسے يَكْرَهُهُ سے مَكْرَهُهُ۔ يَتَقَبَّلُ سے مُتَقَبَّلٌ۔

### اسم مفعول :-

وہ اسم مشتق ہے جو اُس ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہو۔ ثنائی مجرد سے اس کی بنا ر کا وزن مَفْعُولٌ ہے جیسے مَتَّصِفٌ (مد کیا ہوا) مَقْتُولٌ (قتل کیا ہوا) غیر ثنائی مجرد سے اسم فاعل کی طرح مضارع معروف کے وزن پر آتا ہے۔ مگر مضارع کی علامت کو میم مضموم سے بدل کر ما قبل آخر کو زبر دیدیا جاتا ہے جیسے مُكْتَدِرٌ مُجْتَنِبٌ۔

(تنبیہ) غیر ثنائی مجرد سے اسم مفعول۔ اسم ظرف اور مصدر ایک ہی وزن اور ایک ہی صیغہ پر آتے ہیں۔ ماہ الا تیار قرینہ مقام ہوتا ہے۔ قیاس کا تعاضل تو یہ ہی ہے کہ اسم فاعل اور اسم مفعول کا اشتقاق اُس کے فعل سے کیا جائے۔ مجرد ہو وہ فعل یا مزید مگر چند الفاظ اختلاف قیاس بھی آئے ہیں جیسے مَا حِلٌّ۔ يَأْتِيهِمْ جَزُونٌ حَبِيبٌ وغیرہ۔ کیوں کہ حسب قیاس مُعْجِلٌ۔ مَوْفِعٌ۔ مُجِنٌّ۔ مُحَبَّبٌ ہونا چاہیے۔ اس لئے کہ ان کا فعل باب افعال سے آتا ہے۔

### صفت مشبہ :-

وہ اسم مشتق ہے جو کسی فعل لازم سے بنایا جائے۔ اور اُس ذات پر دلالت کرے جس میں کوئی وصف پائدار طور پر پایا جاتا ہو۔ اس کی بنا ثنائی مجرد سے سماع پر بنتا ہے جیسے حَسَنٌ۔ كَرِيمٌ۔ لَيِّنٌ۔ صَنِيعٌ۔ اَلْاگر فعل کے اندر رنگ یا عیب یا کسی خاص شکل و جلیبہ کے معنی پائے جائیں۔ تو از روئے قیاس اُس سے

مذکر کے لئے اَفْعَلٌ اور مؤنث کے لئے فَعْلَاءٌ کا وزن متعین ہے جیسے اَسْوَدٌ (کالا) سَوْدَاءٌ (کالی) اَعْرَجٌ دستِکُطٌّ (عرجاء) اَبْرَجٌ (نگڑھی) اَبْرَجٌ (کشاہ پیشانی والا) بَلَجَاءٌ (کشاہ پیشانی والی) اور پیشہ وروں کے لئے زیادہ تر فَعَالٌ کا وزن مخصوص ہے، جیسے اَبْجَادٌ - اَبْجَانٌ وغیرہ۔  
افعل تفضیل۔

وہ ہم مشتق ہے جو اس ذات کو بتائے جس میں کوئی صفت اور دن کی نسبت زیادتی کے ساتھ پائی جائے اسم تفضیل کا واحد مذکر اَفْعَلٌ اور واحد مؤنث فَعْلَى کے وزن پر آتا ہے۔ مثلاً مذکر مؤنث کے صیغے حسب معمول ان کی زیادتی کے ساتھ اَفْعَلَانٌ اور فَعْلَيَاتُنَّ کے وزن پر آتے ہیں۔ جمع مذکر مؤنث کے صیغے ”ون“ اور ”ات“ کی زیادتی کے ساتھ بھی آتے ہیں اور اَفْعَالٌ اور فَعْلٌ کے وزن پر بھی۔ جس مصدر سے افعَل تفضیل بنایا جائے اُس کے اندر ۶ شرطیں ہیں (۱) ثلاثی مجرد ہو (۲) اس کے اندر لون و عیب کے معنی نہ پائے جائیں۔ یعنی اُس کا صفت مثبتہ اَفْعَلٌ کے وزن پر نہ آتا ہو (۳) اس کی تمام گروائیں مستعمل ہوں (۴) منفی نہ ہو جیسے مَا عَلَيَّ (۵) اختیار ہی ہو۔ چنانچہ موت و فنا سے افعَل تفضیل کی بنا درست نہ ہوگی (۶) موقوف ہو اس لئے اَحْمَدٌ (زیادہ تعریف والا۔ بہتر) شاذ ہے کبھی افعَل تفضیل اسم جامد سے بھی بنا لیتے ہیں جیسے اَنَا اَنْوَى مِنْهُ (میں اس سے زیادہ ستارہ شناس ہوں) اور اگر تم اس مصدر سے افعَل تفضیل بنا نا چاہو جس میں شرائط مذکورہ نہیں پائی جاتیں تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اُس مصدر کے افعَل تفضیل کو تیز بنا کر جو مادہ کے اعتبار سے زیادتی کے معنی پر دلالت کرتا ہے اس فعل کو جس سے افعَل تفضیل بنا نا چاہتے ہو۔ تیز بنا دو جیسے هُوَ اَسَدٌ سَوَادٌ مِنْ زَيْبٍ (وہ زید سے زیادہ سیاہ ہے) اَنَا اَزِيدٌ اَكْرَمًا لِبَحَارٍ مِنْ زَيْدٍ (میں زید کی بہ نسبت پرطوسی کی زیادہ تر کرتے والا ہوں)۔

### اسم مبالغہ

اسم مبالغہ وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات کو بتائے جس میں کوئی صفت زیادتی کے ساتھ پائی جائے۔ گروہ و سروں سے مبالغہ کا لحاظ نہ ہو۔ اس کے مشہور و کثیر الاستعمال اوزان ۱۵ ہیں۔  
 (۱) فَعَالٌ جیسے عَلَاهُ (بہت جاننے والا) (۲) فَعَالَةٌ جیسے عَلَامَةٌ (بہت زیادہ جاننے والا) (۳) مِفْعَالٌ جیسے مِقْدَامُ (بہت بڑھنے والا) (۴) فِعِيلٌ - جیسے صِدَائِي (بہت سچا)

(۵) مَفْعِلٌ جیسے مَعْطِبٌ (بہت مہتر لگانے والا) (۶) فَعِلٌ جیسے شَرِبَ (بہت ہوس کرنے والا) (۷) فَعِيلٌ جیسے سَاجِدٌ (بڑا امر بان) (۸) فَعُولٌ جیسے كَذُوبٌ (بہت بھڑ بھڑانے والا) (۹) قَاعِلَةٌ جیسے رَاوِيَةٌ (بہت روایت کرنے والا) (۱۰) فَعْلٌ جیسے عُقْلٌ (بڑا تامل) (۱۱) فَعْوَلَةٌ جیسے فَرُوْقَةٌ (بڑا ڈر پوک) (۱۲) مَفْعَلٌ جیسے مَجْنَذٌ (بہت کاٹنے والا) (۱۳) كَاعُولٌ جیسے قَارِوُنٌ (بہت فرق کرنے والا) (۱۴) فَعَالٌ جیسے كَبَّاسٌ (بہت بڑا) (۱۵) فُعَلَةٌ جیسے مُنْكَتَةٌ (بڑا ہنسوں) (بہت بڑا) کے جملہ اوزان سماعی ہیں اور صرف مصادرت لائی مجرور سے آتے ہیں بعض مصادرت غیر ثلاثی مجرور سے بھی بطور شذوذ مبالغہ کے صیغے مستعمل ہو گئے ہیں جیسے اِدْسَاكٌ سے دَسَاكٌ - اِعْطَاءٌ سے مِعْطَاءٌ وغیرہ۔ یاد رہے کہ مبالغہ کے بعض اوزان میں جو تار ہوتی ہے جیسے عَدَاَمَةٌ - هَدُوْقَةٌ۔ تو یہ علامت تائید نہیں ہوتی۔ بلکہ محض مبالغہ یا مبالغہ کی مزید تاکید کے لئے آتی ہے۔

مذکر و مؤنث:-

اہم مذکر کو کسی علامت کی ضرورت نہیں ہے جو اس کے مذکر ہونے پر دلالت کرے البتہ مؤنث کی تین علامتیں ہیں (۱) تار جیسے مُكَلَّمَةٌ - قُدْسَاءٌ (۲) الف ت مقصورہ جیسے جُلِّيٌّ (۳) الف ممدودہ جیسے حَمْرَاءٌ مؤنث کی دو قسمیں ہیں (۱) لفظی وہ جس میں علامت تائید موجود ہو جیسا کہ امثلہ مذکورہ ہیں (۲) معنوی جس میں تائید کی کوئی علامت نہ ہو تاہم مؤنث پر دلالت کرے۔ مؤنث معنوی حسب ذیل ہیں:-

(۱) وہ اسماء جو عورتوں کے نام ہوں۔ جیسے مَرْيَمٌ - ذَيْنَبٌ۔

(۲) وہ اسماء جو عورتوں کے ساتھ مخصوص ہوں جیسے اُمٌّ (ماں)

(۳) شہروں۔ بستیوں اور قبیلوں کے نام جیسے شامہ۔ مصر۔ قرینش۔

(۴) ان اعضاء کے نام جو جسم میں دو دو ہیں جیسے عَيْنَانِ (آنکھ) رِجْلَانِ (پاؤں) مگر بعض ایسے اعضاء مذکر بھی ہیں جیسے صُدُغٌ (کنپٹی) مَوْقِقٌ (گھنٹی) حَاجِبٌ (الہود) حَمْدٌ (نہارہ) نِيزَمَانٌ کے نام بھی مؤنث ہوتے ہیں۔

بعض اسماء مؤنثہ معنویہ ایسے بھی ہیں جو مندرجہ بالا ضوابط کے تحت نہیں آتے۔ ان میں اکثر یہ ہیں:-

اُدُنٌ - اَرْضٌ - اَصْبَحٌ - اَفْعَى - يَسِيرٌ - جَحِيمٌ - جَهَنَّمٌ - حَذْبٌ - دَارٌ - ذَمَاعٌ - رِجْلٌ - رَحِمٌ - رَحَى - رَيْحٌ - سَقَمٌ - سِتٌّ - سَقٌ - شَمْسٌ - شِمَالٌ - صَبْعٌ - عَرُوضٌ۔

عَصَا - عَقِب - عَيْن - قَاس - قَحْن - قُلُوب - قَدَام - قَوْص - كَاس - كَيْف - كَيْش - كَف - نَاس - نَعْل - نَاب - نَبْرَك - نَبْد - نَبِين

بعض اسماء ایسے بھی ہیں جو مذکر بھی استعمال ہوتے ہیں اور مؤنث بھی۔ ان میں سے اکثر یہ ہیں۔

اِبْط - اِدَام - حَال - حَانُوت - حَضَر - دِرْع - دَلُو - رُوح - زِقَاق - سَيِّب - سُدَى - سَرَاوِيل - سِلَاح - سَيِّبِن - سِلْم - سَلْم - سَمَاء - سُوْق - صَاع - ضَعْفَى - طَبَس - طَرِيق - عَجَز - عَصَد - عَقَاب - عَقْرَب - عُنُق - عُنُقُوت - فِرْدَوْس - قَدَس - فَهْر - قَدَس - قَفَا - قَيْص - كَبَد - لِسَان - مِسْك - مِلْم - مَجْنُون - مَوْسَى - نَفْس - وَرَاء -

یہ زحرف بجا تیرہ کے اسماء بھی مؤنث ہیں۔

مشنی

وہ اسم ہے جو ان دو پر دلالت کرے۔ جو وزن و حروف میں متفق ہوں جب تم کسی اسم کا تثنیہ بنانا چاہو۔ تو حالتِ کرفی میں اُس کے آخر میں الف ماقبل مفتوح اور ن مکسور اور نصبی و جری حالت میں ی ماقبل مفتوح اور ن مکسور پڑھا دو، جیسے جاء الرَّحْلَانِ - دَايْتُ الرَّجُلَيْنِ - قَمَزَاتُ الْوَجَلَيْنِ۔ اسم منقوص (وہ اسم معرب جس کے آخر میں ی ماقبل مکسور ہو) میں تثنیہ کے اندر یائے معدولہ لوث آتی ہے جیسے رَاهِيَانِ رَاهِيَيْنِ۔

اسم مقصور (وہ اسم معرب جس کے آخر میں الف لازم ہو مگر الف کے بعد ہمزہ نہ ہو) کا الف اگر کلمہ میں تیسرے حرف کی جگہ واقع ہو۔ تو اگر الف میں یہ واؤ سے بدلا ہوا تھا تو واؤ ہو جائے گا۔ جیسے عَصَا سے عَصَاوَانِ اور اگر اصل میں یاء سے بدلا ہوا تھا۔ تو یاء ہو جائے گا، جیسے فَتَى سے فَتَيَانِ۔ اور اگر چوتھی جگہ واقع ہو یا اس سے زائد تو بہر حال یاء سے بدل جاتا ہے جیسے ذُكُوْرِيَانِ (ذِخْرِيَانِ کا تثنیہ) اور اسم ممدود (وہ اسم معرب جس کے آخر میں الف زائدہ اور ہمزہ ہو) کا ہمزہ تانیث کے لئے ہو جیسے خَصْرَاءُ تو تثنیہ میں وہ بھی واؤ ہو جائے گا جیسے خَصْرُوَانِ۔ اور اگر ہمزہ ممدودہ اصل ہو تو ثانیث رہے گا۔ جیسے اَلْاَدْوَانِ دَلَالَةٍ کا تثنیہ) اور اگر ہمزہ ممدودہ نہ ہو، نہ تانیث کے لئے ہو تو اس ہمزہ کو واؤ بھی کر سکتے ہو اور بحال خود بھی رکھ سکتے ہو۔ جیسے سَمَاءُ کا تثنیہ سَمَاءَانِ وَ سَمَاوَانِ۔ اور وہ اسم جس کا لام کلمہ حذف کر دیا

گیا ہو۔ اور محذوف کے عوض کوئی اور حرف اس میں نہ ہو تو جب اس کا تنبیہ بنایا جائے گا تو وہ حرف محذوف لوٹ آئے گا جیسے آب سے ابوان۔ آخر سے اخوان وغیرہ البتہ کم اور یہاں اس سے مستثنیٰ ہیں کہ ان کا تنبیہ یہاں ان و قسماں آتا ہے۔ اور اگر اس اسم میں محذوف کا عوض موجود ہو تو تنبیہ میں محذوف واپس نہ ہوگا جیسے ابن سے ابناء۔

### جمع :-

جمع وہ اسم ہے۔ جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے۔ اس کی دو قسمیں ہیں جمع سالما اور جمع مکتسر۔ پھر جمع سالما کی دو قسمیں ہیں منحد و مؤنث (جمع ذکر سالم) وہ ہے جس کے آخر میں نون مفتوح ہو۔ اور اس سے پہلے رفعی حالت میں واؤ تا قبل مضموم اور نصیبی و جری حالت میں یا یا قبل مکسور ہو جیسے جاء مسلمون۔ رأیت مسلمین۔ مررت مسلمین۔ یہ جمع ان اسماء صفت کی آتی ہے جو مذکر عاقل کی صفت یا خبر واقع ہوں۔ غیر اسماء صفت میں صرف علم شخصی ذکر کی آتی ہے جیسے ذیبا سے ذیباؤن اور اس کی شرط یہ ہے کہ کلمہ تائید سے تائید سے خالی اور مفرد ہو۔ لہذا اطلحتہ کی جمع طلحات آئے گی نہ کہ طلحون اور عبد الملک کی جمع بھی نہ آسکے گی۔ بلکہ اس سے پہلے حالت رفعی میں ذوؤ اور نصیبی و جری میں ذوی کا اضافہ کر دیا جائے گا جیسے جاء ذوؤ عبد الملک۔ رأیت ذوی عبد الملک۔ مررت بہ ذوی عبد الملک۔

اور اس کلمہ ثلثا (تیس) کی جمع بھی اس وزن پر آتی ہے جس کا لام کلمہ محذوف ہو اور اس کے عوض تائید تائید لاتی ہوگی ہو۔ جیسے عثمون و میثون و عیصہ و میثاقہ کی جمع اور بعض اسماء کی یہ جمع خلاف قیاس بھی آتی ہے جیسے آرضون۔ عامون۔ علیون۔ آهلون رارض۔ عامون۔ علیون۔ آهلون۔

(جمع مؤنث سالم) وہ ہے جس کے آخر میں الف اور تاء مبسوطہ ہوں جیسے مسلمات۔ ثمرات اس قسم کی جمع حسب ذیل اسماء کی آتی ہے

- (۱) ہر وہ اسم جس کے آخر میں تاء تائید ہو جیسے شجدة کی جمع شجرات۔ البتہ امرأة۔ شاة قلة۔ امة۔ امّة۔ ملة شفة کی جمع اس وزن پر نہیں آتی۔
- (۲) وہ اسم جو کسی مؤنث کا علم ہو جیسے زینب سے زینبات۔



(۳) مصدر جس میں تین سے زائد حرف ہوں جیسے تَعْرِيفَات (تعریف کی جمع)

(۴) وہ کلمہ جس کے آخر میں الف تانیث مقصورہ یا ممدودہ ہو جیسے حُبَيْلَات حُبَلِيَّات حَمْرَاء سے

حَمْرَاءَات اور اس الف کے متعلق وہ ہی تفصیل ملحوظ رہنا چاہیے۔ جو تثنیہ کے بیان میں گزری چکی ہے

اسماء مذکرہ کے علاوہ دوسرے اسماء کی یہ جمع سماع پر موقوف ہے، جیسے سَمَاءَات وَأَرْهَاقَات

(سَمَاء وَأَرْهَق کی جمع)

جو اعمیٰ ہو تو اس کی جمع کبھی تو مؤنث سالم کے وزن پر ہی بنا لیتے ہیں جیسے تَلْفِرَات کی تلفِرافات اور کبھی حسب قاعدہ جمع مکسر بنا لی جاتی ہے جیسے قُنُصُل کی جمع قَنَاصِل۔

(جمع مکسر) وہ ہے جس میں واحد کا وزن ٹوٹ جائے۔ اُس کی تین قسمیں ہیں:-

(۱) واحد کے حرکات میں تغیر ہو جائے جیسے اَسَد کی جمع اُسُد۔

(۲) واحد کا کوئی حرف حذف کر دیا جائے جیسے رَسُول کی جمع رُسُل۔

(۳) واحد کے حرف پر اضافہ کر دیا جائے جیسے رَجُل کی جمع رِجَال۔

جمع مکسر کی دو قسمیں ہیں (۱) قلت (۲) کثرت۔

جمع قلت وہ ہے جو ۳ سے۔ ایک پر دلالت کرے۔ اُس کے یہ وزن ہیں۔

(۱) اَفْعَال جیسے قَفَل کی جمع اَقْفَال

(۲) اَفْعُل جیسے کَلْب کی جمع اَكْلَب۔

(۳) فَعْلَة جیسے غُلاہ کی غِلْمَة

(۴) اَفْعِلَة جیسے رَخِيف کی اَرْدَغِفَة۔

جمع کثرت بقول علامہ تفتازانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے وہ ہے جو ۲ سے لے کر لامتناہی اعداد تک پر

دلالت کرے۔ پس جمع قلت و کثرت میں فرق اتہا کے لحاظ سے ہے۔

جمع کثرت کے اوزان

جمع کثرت کے اوزان بہت ہیں۔ اور ان میں سے صرف دس قیامی ہیں۔

(۱) فَعْل - فَعْلَة کی جمع جیسے صُوْرَة کی جمع صُوْرَة۔

(۲) فَعَل - فَعْلَة کی جمع جیسے قِطْعَة کی جمع قِطْع۔

(۳) فَعَالًا - رباعی مجرد کے لئے جیسے بُبُلٌ کی بَلَابِلٌ - حِنْدٌ س کی حَنَادِ س اور نَخَاس کی بھی  
 بحدف حرف خامس کے یہ ہی جمع آتی ہے جیسے سَقَرَجَل کی سَقَارِج - حَنَدٌ رِئِيس کی حَنَادِ س -  
 (۴) قَوَائِلٌ - ہر اس ثلاثی کی جس کے فار کے بعد الت یا واو زائد ہو جیسے جَوَهْرٌ کی جَوَاهِرٌ - نَخَاسٌ کی  
 حَوَائِصٌ -

(۵) فَعَائِلٌ - اس مؤنث کی جمع جس کا تیسرا حرف مد ہو، جیسے رِسَالَةٌ کی جمع رَسَائِلٌ - مَكِيْفَةٌ کی  
 صَحَائِفٌ -

(۶) أَفَاعِلٌ - أَفْعَلٌ - إِفْعَلٌ - أَفْعَلٌ کی جیسے اُنْمَلٌ کی اَنَامِلٌ - اِصْبِغٌ کی اَصَابِغٌ  
 اَجْدَالٌ کی اَجَادِلٌ -

(۷) أَفَاعِيلٌ - اُفْعُولٌ و اُفْعُولَةٌ کی جمع جیسے اُسْلُوبٌ کی اَسَائِبٌ - اِرْجُوْنَةٌ  
 اَمَّا حِيْزٌ -

(۸) فَعَائِلٌ - ہر اس رباعی کی جس کے آخری حرف سے پہلے مد ہو جیسے قِرْطَاسٌ کی قَرَاطِيسٌ - عَصْفُورٌ  
 کی عَصَافِيْرٌ -

(۹) مَفَاعِلٌ - مِفْعَلٌ و مِفْعَلَةٌ کی جمع جیسے مَبْنَعٌ کی مَبَائِعٌ - يَكْنَسَةُ کی مَكَانِسٌ -

(۱۰) مَفَاعِيلٌ - مِفْعَالٌ - مِفْعِيلٌ - مَفْعُولٌ کی جیسے مِفْتَاحٌ کی مَفَاتِيْحٌ - مَسْكِينٌ کی  
 مَسَاكِيْنٌ - مَفْعُوْمٌ کی مَقَادِيْرٌ -

### اکم جمع و مشبہ جمع

اکم جمع وہ ہے جس کے اندر جمع کے معنی پائے جائیں۔ مگر اس کا کوئی مفرد نہ ہو، جیسے خَيْلٌ - قَوْمٌ  
 جَيْشٌ اور شَجَرٌ جمع وہ ہے کہ اس میں اور اس کے واحد میں تاد کا فرق ہو جیسے تَمْرَةٌ (واحد) تَمْرٌ  
 (شجر جمع) ایسے ہی وہ کہ اس میں اور اس کے واحد میں یا کا فرق ہو جیسے دُوْهِيٌّ (واحد) دُوْهٌ (مگراقل  
 کا استعمال غیر ذوی العقول اور ثنائی کا ذوی العقول کے لئے ہوتا ہے)۔ الفاظ مفردہ کی طرح اکم جمع و  
 مشبہ جمع کی حسب ضابطہ جمع آتی ہے جیسے قَوْمٌ کی اقْوَامٌ - جَيْشٌ کی جَيُوشٌ -

### نسبیت :-

اکم کے آخر میں یا د مشدودہ لاحق کرنا تاکہ ایک شے کے دوسری شے (اس ام) کی طرف منسوب

ہونے کا پتہ چل جائے نسبت کملاتا ہے۔ اس یاد کا ما قبل ہمیشہ مکسور ہوتا ہے۔ اس کے کثیر الاستعمال قواعد حسب ذیل ہیں:-

(۱) اگر اسم ثنائی مکسور العین ہو تو نسبت میں اس کی عین مفتوح ہو جائے گی جیسے فَخْنًا وَمَلَکًا فَخْنًا تًی وَمَلَکًتًی۔

(۲) اگر اسم رباعی مکسور العین ہو تو بہتر یہ ہے کہ نسبت میں عین کلمہ بھی بحال خود مکسور رہے جیسے مَشْرِقًی سے مَشْرِقًتًی۔

(۳) جس اسم کے آخر میں تائے تائینث ہو تو وہ نسبت میں حذف ہو جائے گی جیسے تَاصِرًا سے تَاصِرًی۔ البتہ تائینث کے لئے نسبت کے بعد تاء زیادہ کر دی جاتی ہے جیسے مَلَکًتًی۔

(۴) جس اسم کے آخر میں الف مقصورہ ہو اور وہ تیسری جگہ واقع ہو تو اسے واؤ کر لیا جائے گا۔ جیسے عَصَا سے عَصَوًی۔

(۵) جس اسم کے آخر میں الف مقصورہ چوتھی جگہ پر ہو۔ اور کلمہ کا دوسرا حرف ساکن ہو تو اکثر واؤ ہو جاتا ہے اور کبھی حذف کر دیتے ہیں۔ جیسے مَرْحَمًی سے مَرْحَمًوی وَمَرْحَمًی۔ اور اگر یہ الف تائینث کے لئے یا الحاق کے لئے زائد ہو تو اکثر حذف کر دیتے ہیں، جیسے حُنْبَلًی سے حُنْبَلًتًی۔ ذِخْرًی سے ذِخْرًتًی اور واؤ بھی کر لینا جائز ہے۔ جیسے حُنْدُلًتًی۔ مگر الف تائینث کو جب واؤ سے بدل لیتے ہیں۔ تو اکثر اس سے پہلے الف کا اضافہ کر دیتے ہیں جیسے دُنْیَا دًتًی۔

اور اگر یہ الف ایسے کلمہ میں ہو جس کا دوسرا حرف متحرک ہے۔ تو حذف ہو جاتا ہے جیسے بَیْرَدًی سے بَیْرَدًتًی۔

(۶) اسی طرح اگر حرف مقصورہ چوتھی جگہ سے زائد واقع ہو تب بھی حذف کر دیتے ہیں جیسے مُضْطَفًی سے مُضْطَفًتًی۔ اور بعض علماء نے اس صورت میں الف کو واؤ کر لینا جائز رکھا ہے جیسے مُضْطَفًوی

(۷) الف ممدودہ تائینث کے لئے ہو تو واؤ ہو جاتا ہے جیسے صَفْرًا ء سے صَفْرًا ءًی اگر یہ الف اصل ہو تو باقی رکھنا واجب ہے جیسے قَدًّا ء سے قَدًّا ءًتًی اور اگر اصل حرف کا بدل ہو تو دونوں صورتیں جائز ہیں جیسے سَمَا ء سے سَمَا ءًتًی اور سَمَا ءًتًی۔

(۸) اسم منقوض میں یاد اگر تیسری جگہ ہو تو واؤ ہو جائے گی اور اس سے پہلے حرف کو زبرد سے دیا جائے

جیسے عَمَّی سے عَمَّوِی اور اگر چوتھی جگہ ہو تو حذف بھی جائز ہے اور واؤ سے بدلنا بھی مگر بصورتِ ابدال اس کا ما قبل مفتوح ہوگا جیسے قاصی سے قاصِی و قاصِوِی۔

اور اگر پانچویں جگہ یا اس سے زائد واقع ہو تو حذف ضروری ہے جیسے مُسْتَعْلٰی سے مُسْتَعْلٰی (۹) اور اگر کلمہ فَعِیْل کے وزن پر ہو۔ اور حرف آخر صحیح ہو تو کلمہ بحال خود باقی رہے گا جیسے حَدَّیْد حَدَّیْدِی۔

اور اگر فَعِیْل ناقص یا ئی ہو تو ایک یا دو کو حذف کر کے دوسری کو واؤ کر لیا جائے گا۔ اور ما قبل کو فتح دے دیا جائے گا جیسے عَرَّتْی سے عَرَّوِی۔  
(۱۰) فَعِیْلَۃ کے وزن سے یا دو اور تار حذف ہو جائے گی۔ نیز ع کلمہ کو مفتوح کر دیا جائے گا جیسے مَدَّیْنَتَہ سے مَدَّیْق۔

البتہ اگر فَعِیْلَۃ مضاعف یا اجون ہو تو یا باقی رہے گی جیسے عَزَّیْزَۃ سے عَزَّیْزِی۔  
طَوَّیْلَۃ سے طَوَّیْلِی۔

(۱۱) جو قواعد فَعِیْل اور فَعِیْلَۃ کی نسبت کے ہیں وہی فَعِیْل و فَعِیْلَۃ کے ہیں جیسے:  
عَمَّیْل سے عَمَّیْنِی۔ قَبِیْلَۃ سے قَبِیْنِی۔

(۱۲) جس اسم کے آخر میں واؤ چوتھی جگہ یا اس سے زائد واقع ہو، اور ما قبل مضموم ہو تو حذف ہو جائے گا۔ جیسے قَلَنْسُوۃ سے قَلَنْسِی ورنہ واو باقی رہے گی جیسے دَلُو دَلِوِی۔



# اِشَارَاتُ

تشریح لغات کے ذیل میں اختصار کے خیال سے حسیذیل اشارات استعمال کئے گئے ہیں۔  
ناظرین کرام انھیں ملحوظ رکھیں۔

مص	-----	مصداق
ن	-----	باب - نَصْرٌ يَنْصُرُ
ض	-----	ضَرْبٌ يَضْرِبُ
س	-----	سَمِعَ يَسْمَعُ
ف	-----	فَعَلَ يَفْعَلُ
ك	-----	كَرَّمَ يَكْرُمُ
ح	-----	حَسِبَ يَحْسِبُ
[ - ]	-----	علامت صلہ
دیا وا۔	-----	واحد
ج	-----	جمع
ج	-----	جمع الجمع
مذ	-----	مذکر
م	-----	مؤنث
قا	-----	اسم فاعل
مف	-----	اسم مفعول
دیاج۔	-----	لغت جدید۔

# بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تَعْمَدًا وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

## بَابُ الْاَلِفِ

اباحہ - جائز و کر دینا (بھید) ظاہر کر دینا  
اباحیۃ - (د) انتہا پسندانہ اشتراکیت - ریڈیکلزم  
ایک سیاسی مذہب جس میں غریب امیروں  
کا مال ہر طرح مباح تھیں۔

اباحی - انگلیاں - انگلیوں کی جڑ - پٹھا  
اباحہ - ہلاک کرنا۔

آبِاس - سوئی بنانے والا - سوئی بیچنے والا۔  
آباط - جو چیز بغل میں لی جائے۔

آباطیل - غلط باتیں - فضولیات - لغوات باطل  
آبالہ آبالہ - گٹھا (گھانس یا کڑی کا)  
آبالہ - ریشم (پرندوں - گھوڑوں وغیرہ کا) گروہ بھڑ  
جر آباتیل -

آبت - (س۔ ن۔ ص) دن کا سخت گرم ہونا۔  
آبتاش - غمگین ہونا - کراہت کرنی - ناگوار ہونا۔  
آبتاج - گھاس کھا کر چوپایہ کا موٹا تازہ ہونا۔  
آبتداء - شروع کرنا۔

آبتداء - (و) آجلدی کرنا - سبقت کرنا - پہل کرنے کی  
کوشش کرنا۔

آبتداء - نئی بات نکالنی۔

الراف (کی دو قسمیں ہیں (۱) ساکن جیسے صامہ  
میں اسے کیستہ کہتے ہیں (۲) متحرک جیسے  
آد آیت میں اُسے ہمذہ کہتے ہیں ہمزہ  
ان معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ (۱)  
استفہام جیسے آد آیت (کیا تو نے دیکھا،  
(۲) تکریر جیسے آذین فخر لے زید  
تو کھڑا ہے (۳) تسویہ جیسے آذند نلہم  
آہ کہ سنڈ زہم (خواہ تو انہیں کھراٹے  
یا ڈراٹے)

آ - صرف ندا ہے بغیر کے لئے۔

آب - (د) آٹھواں روئی مئی ہینہ مطابق اگست

آب - باپ (د) پادری جہ آباء

آباء - آبائے - (ص) اگا کرنا - ناپسند کرنا

آباء - (و) کسی کو کسی کی طرف رجوع کرنا (ب)  
قیام کرنا (من) بھاگنا (کسی جگہ سے)

آباب - پانی - سراب۔

آبات - رات گزارنی۔

آبات - بحث و تفتیش کرنی - کوئیں کو پاک کرنا

ذین کو گاہنا۔

اَبْتِدَاءُ - کپڑے کو مدت پہن کر بے توقیر کر دینا بکثرت استعمال کرنا

اَبْتَدُو - دم کل - بے اولاد - مقطوع النسل چھوٹا

غیبیت سناپ -

اَبْتِدَاحُ - چشمہ سے پانی رشنا

اَبْتِدِيسَاہ - مسکانا کھینا -

اَبْتِغَاث - بھینچا - روانہ کرنا -

اَبْتِغَاؤ - ڈھونڈنا - چاہنا -

اَبْتِیْکَاد - کنواری سے ہم بستری ہونا - پہلا میوہ کھانا -

[رائی] نماز کے لئے سویرے سے جانا

کسی کے پاس سویرے آنا -

اَبْتِیْلَآء - آزمائش میں ڈالنا چنانچہ تجربہ کرنا -

اَبْتِیْلَاح - نکل جانا -

اَبْتِیْکَال - ترو جانا [من] بیماری سے اچھا ہونا -

اَبْتِیْنَاؤ - مکان بنانا - بی بی کو گھر میں لانا -

اَبْتِیْسَاہر - خوش ہونا

اَبْتِیْمَاش - [رائی] خوش ہو کر کسی کی طرف توجہ کرنا -

اَبْتِیْکَاص - خود (بچھڑ) پہننا - جڑ سے اکھاڑ ڈالنا -

اَبْتِیْسَاح - خریدنا -

اَبْتِیْنَات - (عزم) ظاہر کر دینا (تجرک) فاش کر دینا (بھید) کہہ دینا -

اَبْتِجَدَا - حساب جمل کے آٹھ کلمات جن میں سے پہلا

کلمہ اَبْتِجَدَا ہے (یہ کلمات تاریخ موت میں)

و غیرہ نکالنے میں استعمال ہوتے ہیں) -

اَبْتِجَاک - وریا کا سفر کرنا - پانی کا نمکین ہو جانا -

اَبْتِجَاک - بدبودار کر دینا -

اَبْتِجَال - کسی کو تجلیل پانا -

اَبْتِدَا - ہمیشہ ختم ہونے والا زمانہ - جہ آباد - اَبْتُوڈ

اَبْتِدَاؤ - ظاہر کرنا پیدا کرنا (شہر سے) باہر نکلنا

اَبْتِدَاؤ - متفرق کر دینا - تقسیم کر دینا -

اَبْتِدَاؤ - چودھویں کے چاند کا نکل آنا چودھویں

رات کی چاندنی میں راہ چلنا -

اَبْتِدَاِع - بغیر نمونہ کے نئی چیز پیدا کرنا

اَبْتِدَاَل - اولیاء اکثر کا ایک گروہ - ان میں سے کوئی

اس وقت مرتا ہے جب اس کا قائم مقام

پیدا ہو جاتا ہے -

اَبْتِدَاَل - [ب] بدلتا - بدل لینا -

اَبْتِدَاہ - مصیبت جس کا چرچا ہمیشہ رہے بغیر معمولی

بات - جنگلی جانور - جہ - آد اَبْتِدَاہ -

اَبْتِدَاؤ - فحش بننا - گالی دینا

اَبْتِدَاؤ - (ض ن) بچھو کا کاٹنا غیبیت کرنا - ہلاک

کرنا - مادہ کھجور میں نکال پوند لگانا -

اَبْتِدَاؤ - بیماری سے شفا دینا - بری کر دینا (دادہ

بڑا) مٹی لگنا (دادہ بڑی)

اَبْتِدَاؤ - ٹھنڈا کرنا سرد پانی پلانا - سردی میں ڈھل

ہونا - [رائی] اچھی بھینچنا -

اَبْتِدَاؤ - قسم کا پورا کرنا - صحرا میں سفر کرنا (علی)

غالب آنا -

اَبْتِدَاؤ - نیک لوگ - سچے لوگ - و - بڑا - ہاتھ

اَبْتِدَاؤ - سفر کا ارادہ کرنا - باہر نکالنا (کتاب)

شائع کرنا -

اَبْتِدَاؤ - ابرص کر دینا

اَبْتِدَاؤ - چمکنی عورت کا آراستہ ہونا بجلی کا گر کرنا -

چندھیہا جانا (تلوار کا چمکانا) (چہرہ) کھوٹنا

(د) تار دینا -

اَبْتِدَاؤ - گھٹنوں کے بل بٹھانا -

اَبْتِدَاؤ - مضبوط کرنا (سی) ٹیٹا (علی) (مخالف کو)

بحث میں عاجز کر دینا -

اِبْرَاهِيمَ - اِبْرَاهِيمَ - حضرت خلیل اللہ کا نام جو ایک جلیل القدر پیغمبر ہوئے ہیں۔

اِبْرَدَة - سونی - ڈنگ جہ اِبْرَدَة  
اِبْرَدَة - چیتا جہ - اِبْرَدَة - مؤنث اِبْرَدَة  
(سحاب) اِبْرَدَة - اولے برسانے والا بادل

اِبْرَدَة - جو مرض کی بیماری میں مبتلا ہو۔ کورھی۔  
اِبْرَق - ابرک - گنگا جمنی چیز۔ ریت اور پتھر ملی ہوئی۔  
اِبْرِيْز - خالص سونا۔ اِبْرِيْزِي سہری چیز۔  
اِبْرِيْزِيْمَة - ریشم۔ ریشمی کپڑا۔

اِبْرِيْثِي - لوٹا۔ چھگل۔ جہ اِبْرِيْثِي (اِبْرِيْثِي کا مروجہ)  
اِبْرِيْثِي الشّامِي (د) ساور کیتھل (شام سے یعنی چائے)  
اِبْرِيْثِي - ماہ اپریل۔

اِبْرِيْزَن - وہ حوض یا بڑا دریا جس میں غسل کیا جاتا ہے  
(موجب آمین) جہ اِبْرِيْزَن۔

اِبْرِيْزِي - جس کا سینا نکلا ہوا اور پیٹ دبا ہوا ہو  
م اِبْرِيْزِي

اِبْرِيْزِيْه - (د) کبکس۔ ا۔ کبکس  
اِبْرِيْس - سخت جگہ۔ کھجوا۔

اِبْرِيْثاق - پتھریوں سے پہلے اونٹنی کے تھنوں میں  
دودھا تر آنا۔

اِبْرِيْثال - حرام کرنا کسی چیز کو ہلاک کرنے کے لئے  
سوئپ دینا۔ قہر اگر قرار کرنا۔

اِبْرِيْثاد - خوش ہونا۔ بشارت پانا۔  
اِبْرِيْثاد - آنکھ سے دیکھنا۔ دل سے دیکھنا۔ بتنا  
کرنا۔ شہر بصرہ میں آنا۔

اِبْرِيْثاد - آنکھیں۔ بتائیاں۔ د۔ بصرہ  
اِبْرِيْثم - احمق۔ جہ۔ بصرہ۔ کلمہ تاکید۔ جہ۔

اِبْرِيْثاق - بہت بچوں والا ہوتا (مورت) کا بہت  
اِبْرِيْثاقون۔

اِبْرِيْص - گھٹنے کا اندرونی حصہ۔ زمانہ لا انتہاء  
جہ۔ اِبْرِيْص

اِبْرِيْصاع - سیراب کرنا۔ جو اب شافی دینا اور صحت  
کرنا۔

اِبْرِيْط - بغل۔ جہ۔ اِبْرِيْط  
اِبْرِيْطاء - کام میں ڈھیل ڈالنی۔ تاخیر کرنی۔

اِبْرِيْطاد - پریشان کرنا۔ حیران کرنا۔ اکڑا باز بنانا۔  
اِبْرِيْطال - کسی چیز کی تردید کرنا۔ جھوٹ کہنا جو کس کرنی

اِبْرِيْطان - دیکھنے میں، استرنگ کرنا۔ دلی دوست بنانا۔  
(اوش کا) تنگ باندھنا۔

اِبْرِيْطے - پتھر کی زمین کی ندی جہ۔ اِبْرِيْطے و اِبْرِيْطے  
اِبْرِيْطَة - اِبْرِيْطَة - غلط اور پوچ بات بمعنی باطل۔

اِبْرِيْطاد - دور کرنا۔ دور جانا  
اِبْرِيْطاد - اِبْرِيْطے میں سے مینگنی نکالنا۔

اِبْرِيْطاض - جھٹے۔ ٹکڑے۔ وہ۔ اِبْرِيْطاض  
اِبْرِيْطاض - پھروں والا ہوتا کسی مقام کا

اِبْرِيْطاط - چرنے کے لئے جو پائیک (کا) دور نکل جانا  
حد سے بڑھنا۔ غلو کرنا۔

اِبْرِيْطد - زیادہ دور۔ رنگا نہ خیانت کرنے والا۔  
جہ اِبْرِيْطد

اِبْرِيْطِيَة - (د) کھیت  
اِبْرِيْطاء - کسی کو کسی چیز کی طلب میں رکھنا۔

اِبْرِيْطاض - طلب میں مدد دینی۔ باغی کرنا  
اِبْرِيْطاض - دشمن کھینا۔

اِبْرِيْطاق - اِبْرِيْطاق - اِبْرِيْطاق (د) - غلام کا بچا  
جاننا یا روپوش ہوجانا۔

اِبْرِيْطاء - زندہ اور باقی پھوڑنا۔ رعایت کرنی۔  
شفقت کرنی۔ صلح کرانا۔

اِبْرِيْطاق - بہت بچوں والا ہوتا (مورت) کا بہت  
اِبْرِيْطاقون۔



بکباک کرنا پھروں والا ہونا (مکان کا)  
 اَبْقَال - زمین کا سرسبز ہونا۔ گھاس پر آم کرنا  
 سبزہ چرنا۔ گھاس میچ کرنا۔  
 اَبْقَع - سفید وسیاہ داخلوں والا۔ چنگبر۔  
 جہ: اَبْقَع  
 اَبْقَعی - سدا باقی رہنے والا  
 اَبْقَاء - رلانا۔  
 اَبْقَار - صبح  
 اَبْقَار - والی صبح کے وقت آنا (علیٰ جسدی  
 کرنا  
 اَبْقَار - کنواریاں - ۱۰۰ پیکر  
 اَبْقَم - مادر زاد گونگا۔ جہ: اَبْقَم  
 اَبِل - و ایل اونٹ (جنس) جہ: اَبِل  
 اَبیل - فریہ اونٹوں کا ہوشیار خدمت گار۔  
 اَبِل - بھگڑا الو بیجا۔ بہت بچیل۔ تادہند۔  
 ظالم و فاجر۔ جہ: اَبِل  
 اَبِلَاء - تجربہ کرنا۔ آزمانا۔ نعمت دینا۔ عذر قبول  
 کرنا۔ پرانا کرنا۔  
 اَبِلَاس - رحمت خدا سے نا امید ہونا۔ متحیر غمگین اور  
 شکستہ خاطر ہونا۔  
 اَبِلَاط - مفلس ہونا۔ مفلس کر دینا۔  
 اَبِلَاع - نکلنا اور دینا۔  
 اَبِلَاغ - پہنچا دینا۔  
 اَبِلَاق - ابلق (سفید وسیاہ رنگ والا) ہونا۔ دروازہ  
 کھول دینا۔ دروازہ بند کر دینا۔  
 اَبِلَال - تر ہونا (مرض سے) شفاء پانا۔ درخت کا  
 پھل والا ہونا۔  
 اَبِلَالہ - احمق بنانا۔  
 اَبِلَج - روشن۔ ظاہر۔ کشادہ اور۔ جہ: اَبِلَج

اَبْنَد - احمق۔ بے وقوف۔  
 اَبْنَدخ - انتہا کو پہنچا ہوا (کلام)  
 اَبْنَدق - سیاہ و سفید چنگبر  
 اَبْنَداح - (مکان کا) کشادہ ہونا (روضی کا) منہدم  
 شکستہ ہونا (روئیدگی کا) ویران ہونا  
 اَبْنَدیس - رحمت خدا سے نا امید شیطان جہ: اَبْنَدیس  
 اَبْن - (رن۔ ض) عیب لگانا  
 اَبْن - بیٹا۔ جہ: اَبْنَاء  
 اَبْن اِذی - گیدڑ۔  
 اَبْن یَقْبَع - کتا۔  
 اَبْن جَلَا - مشہور۔ صبح۔ چاند  
 اَبْن تَمْبُو - شب۔ ماہتاب۔ چاندنی رات۔  
 اَبْن الْحَرَب - جنگی مرد۔  
 اَبْن دَاوِیة - کوا۔  
 اَبْن دُكَا - صبح۔  
 اَبْن مَلِیْئَة - شہر آدمی۔ مہذب و عقل مند۔  
 اَبْن السَّبیل - مسافر۔  
 اَبْن الْکَبُوْن - اونٹ کا بچہ جس کا تیسرا سال لگ گیا  
 ہو (سوں دودھ والی) (مؤنث)  
 اَبْنَةُ الْکَبُوْن -  
 اَبْنُ حَاض - اونٹ کا بچہ جس کو دوسرا سال لگ گیا  
 ہو (حاض) حاملہ قریب الولادہ)  
 اَبْنَاء - مکان دیدینا۔ یا اس کے بنانے کے لئے  
 سامان دینا۔  
 اَبْنَة - پڈٹ بیٹی جہ: اَبْنَات - ہڈت  
 الشَّقَّة کلمہ - ہڈت العَیْنِ اَنَسُو  
 ہڈت الکرّم شراب۔  
 اَبْنَة - ایک بیاری جس کا دوسرا نام طرہ اشباح  
 ہے۔

کڑھی کی گرہ کینڈہ دشمنی - جیب - جہ -  
 اہن -  
 اہو - اہو - اہو - اہو (ن) باپ بننا کسی کو پرورش کرنا -

اہتہ - غفلت - بڑائی - شوکت  
 اہتر - پٹھ کی ایک رگ - گردن کی ایک رگ -  
 ماتھی کی ایک رگ -

اہواب - دروازے - وہ - سیاب  
 اہوالب - اونٹ -  
 اہوالبکر - حضرت آدم علیہ السلام  
 اہوجابر - روٹی -  
 اہوجامع - دسترخوان -  
 اہوجعنا - بھیریا -  
 اہو الخارت - شیر -  
 اہو الخصین - لومڑی -

اہسل - ہاؤ بیر (ایک میوہ)  
 اہسح - برکلا - توٹا - گونگا - جہ - بھم  
 اہسینا - (د) ملک حبش -  
 اہسین - سفید -  
 اہلہب - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاقرچچا،  
 عبدالعزیٰ کی کنیت -  
 اہین - فصیح تر -

ت

اہود - (رض) مقیم ہونا - ناقابل فہم شعر کہنا -  
 جانور کا وحشی ہونا -

اتابک - افسر  
 اتان - گدھی - جہ - اشن  
 اتادہ - خراج - رشوت - جہ - آتاوی  
 اتب - سینہ بند - عورتوں کا پیراہن - پیراہن  
 کہ چادر درمیان سے چاک کر کے بغیر  
 آستین کے کفنی کے مشابہ بنایا جاتا ہے

اہوقراس - شیر -  
 اہوقینس - مکہ میں ایک پہاڑ کا نام  
 اہویقمان - مرغ  
 آسہ - (ف) بھولنے کے بعد پھر یاد کرنا کسی کام کا  
 اہساء - اگھر خالی کر دینا - خوبصورت ہونا -  
 اہہاجر - خوش کرنا (حکد کا) سرسبز ہونا -  
 اہہاس - متلون مزاج ہونا - تعجب تیرے کام کرنا -  
 غربت کے بعد مالدار ہونا - دوپہر کی دھوپ  
 سہنا - دوپہر کے وقت آنا -

ج - اتاب  
 اتب الشعیب - جو کی بھوسی -  
 اتباس - خشک ہونا -  
 اتباع - پیچھے چلنا - پیروی کرنا کسی کسی کے پیچھے  
 بھیڑنا - جا پہنچنا -  
 اتباسع - پیچھے چلنا - پیروی کرنا -  
 اتبجار - سوداگری کرنا -  
 اتبجاہ - رات، سوجھنا (انی) کسی طرف پھر جانا -  
 رخ کرنا (د) رجحان -

اہہاض - کام کا کسی پرگرا ہونا اور اس کو بوجھل  
 کر دینا -  
 اہہال - کسی کو اس کی مرضی پر چھوڑ دینا -  
 اہہام - اگلوٹھا - جہ - آباہم - آباہیم -  
 (رض) کلام کا مشکل بنا دینا (دروازہ)  
 بند کرنا -

اتحاد - متفق اور ایک ہونا (د) اتفاق - فیڈریشن  
 اتحادی - (د) الاٹمز (انگلستان - امریکہ - روس)

اِتِّصَاع - کھیندنا اہل اور ذلیل ہونا  
 اِتِّغَاب - تھکا دینا - جوڑی ہونی شے کو پھر توڑ ڈالنا۔  
 اِتِّعَاد - وعدہ قبول کرنا۔ باہم وعدہ وعید کرنا۔  
 اِتِّعَاس - ہلاک کرنا۔  
 اِتِّعَاط - نصیحت ماننا۔  
 اِتِّعَاق - آپس میں ایک ہونا۔ باہم موافقت کرنی۔  
 اِتِّغَال - بدبودار کروینا۔  
 اِتِّغَاء - پرہیز کرنا۔  
 اِتِّغَاد - آگ جلانا۔  
 اِتِّغَاس - آہستگی کرنی برباد ہونا۔ تحمل کرنا۔  
 اِتِّتْكَاء - دعوئی آہم دوسر کرنا۔  
 اِتِّتْكَاس - گھونسلنا بنانا۔  
 اِتِّتْكَال - کسی پر کام چھوڑ دینا اور اس پر اکتفا کرنا  
 اِتِّتْلاء - کسی کو کسی کے پیچھے کر دینا۔ پیچھے سے آگے نکل جانا۔ صاحب اولاد ہونا۔  
 اِتِّتْلَاج - داخل کرنا۔ داخل ہونا۔  
 اِتِّتْلَاف - ہلاک کرنا۔  
 اِتِّتْلَاہ - غمگین ہونا۔ پریشان ہونا۔ بخیر و ہونا  
 اِتِّتْلَح - دراز گردن - ج - ہ - تْلَح  
 اِتِّتْمَاس - کھجور کے درخت کا پھل لے آنا۔ اس کے پھلوں کا پک کر خشک ہو جانا دخر یا ہو جانا بہت قمر (دخر) والا ہونا۔  
 اِتِّتْمَاہ - پورا کرنا۔ پورا ہونا۔  
 اِتِّتْمَن - بلند زمین۔  
 اِتِّتْمَق - ہم عمر۔ بھولی ج - ہ - اِتِّتْمَان  
 اِتِّتْمُو - مسکے سبوت مرض۔ سرعت سیر۔ بزرگ۔

یونینٹ پارٹی۔  
 اِتِّصَاف - تھک دینا۔  
 اِتِّصَام - سیاہ ہونا۔  
 اِتِّصِغَاد - پکڑنا۔ اختیار کرنا۔  
 اِتِّصِغَات - پھسلنا۔  
 اِتِّصِغَام - غذا کا تھم پیدا کرنا۔ ہیضہ میں مبتلا کر دینا۔  
 اِتِّصِغَام - تھم میں مبتلا ہونا۔  
 اِتِّتْمَاء - بخون بہا لینا۔  
 اِتِّتْمَاع - آرام کرنا۔ تن پروری اختیار کرنا۔ قرار پکڑنا۔  
 اِتِّتْرَاب - کسی پر مٹی ڈالنا۔ مال کام ہو جانا۔ بہت مالدار ہونا۔  
 اِتِّتْرَاب - و - تِزْب ہم عمر۔ بھولی۔ سبیلی۔  
 اِتِّتْرَاف - نافرمانی پر اصرار کرنا۔ ناز و نعم سے پانا پار بار نافرمانی کرنا۔ احسان کے مقابلہ کج روی اختیار کرنا۔  
 اِتِّتْرَاک - چھوڑ دینا۔  
 اِتِّتْرَاک - و - تِشْرَک قوم مشہور  
 اِتِّتْرَاس - گناہ کرنا۔  
 اِتِّتْرَآن - عمد و پیمان کر لینا۔ شعر کا وزن پر ہونا مقدر ہونا۔ تھلا ہوا لے لینا۔  
 اِتِّتْسَاخ - میلا ہونا۔  
 اِتِّتْسَاع - فراخ ہونا۔  
 اِتِّتْسَاق - ترتیب دینا۔ تمام ہونا۔ جمع کرنا۔  
 اِتِّتْصَاف - صفت قبول کرنی۔ تعریف کرنا۔ تعریف کیا جانا۔  
 اِتِّتْصَال - پیوستہ جانا۔ مل جانا۔ کسی کام کا مسلسل ہونا  
 اِتِّتْصَاح - ظاہر ہونا

اَشَاہ - (ض) ابدی کا بدلہ دینا۔  
 اَشَاہ - گناہ۔ عذاب۔ جہنم کی ایک وادی۔  
 اَشَابَات - اچھی طرح سے پہچاننا۔ قائم رکھنا۔ ایسا  
 ذبحی کرنا کہ بل بیل نہ سکے۔ بیماری کا دور  
 نہ ہونا۔ قرار و آرام دینا۔ کھٹا ٹھات کرنا  
 اَشَابِط - بیماری کا دور نہ ہونا۔  
 اَشَابِیْہ - بڑی جماعت۔ جہز۔ اَشَابِیْہ  
 اَشَابِاس - قصاص پانا۔  
 اَشَابِغَاس - دودھ کے دانت گرا دینا۔ دانت نکلانا۔  
 اَشَابِغَاس - ایشید دوہرا ہونا۔ اکڑ کر چلنا۔  
 پھر جانا۔  
 اَشَاخَان - بہت تخریبی کرنا۔ سست کرنا۔  
 دیکھی کام میں، مبالغہ کرنا۔  
 اَشَوْر - اَشَارَۃ (ض) حدیث کو نقل و روایت  
 کرنا۔  
 اَشَد - بقیہ۔ نشان عمر جو میرزہ کے بعد وفات  
 رہے۔ جہز۔ اَشَاد - اَشَوْر حدیث  
 اور سنت نبوی جہز۔ اَشَاد  
 اَشَرَاۃ (ض) دوسروں کو پھیر کر صرف اپنے  
 لئے اچھی چیزوں کا انتخاب کرنا۔  
 اَشَوْرَاۃ - اَشَارَاۃ - علم کا بقیہ جو سلف سے منقول  
 و محفوظ ہو۔  
 اَشَر - بعد تجھے جو ہر شمشیر۔ روحن خالص۔  
 جہز۔ اَشَوْر۔  
 اَشَرَاۃ - بہت مالدار ہونا (رادہ ٹرو) زمین کا تر  
 ہونا۔ بارش کی تری کا زمین کی اصل تری  
 سے مل جانا (رادہ ٹری)  
 اَشَرَاد - ٹرید جانا۔  
 اَشَرَسَی - بہت مالدار آدمی۔

آدمی۔ عطیہ  
 اَشَوَا - خاک کرنا۔  
 اَشَوْر - تنگ فرج والی عورت۔ وہ عورت جس کی  
 فرج اور دیر ایک ہو گئی ہو۔  
 اَشَوْن - بھٹی۔ تنور۔ جہز۔ اَشَوْن  
 اَشَبَاب - بخشش قبول کرنا۔  
 اَشَبَال - شادی کرنا۔ بیوی والا ہونا  
 اَشَبَاہ - تہمت لگانا۔ تہمت اُٹھانا۔ بدنام ہونا۔  
 مقہوم ہونا۔  
 اَشَبَاہ - کسی پر تہمت لگانا۔  
 اَشَبِیساہ - دودھ والی بکری کو ذبح کرنا۔  
 اَشَبِیَان - اَشَبَاۃ (ض) آنا۔ کوئی کام کرنا۔  
 اَشَبِاس - ناامید ہونا۔ مایوس ہونا۔

## اَش

اَشِم - گنگار۔  
 اَشَابِیۃ - بدلہ دینا۔ (مخوض کا) بھرنا۔ دوڑنا۔  
 لاغری کے بعد فرس ہونا۔ اعادہ کرنا۔  
 اَشَاث - گھر کا سامان (د) فرنیچر مع (ضرب)  
 بال یا گھاس کا گھٹا ہونا  
 اَشَابِی - چولہا۔  
 اَشَاہ - علامتیں۔ نشانات۔ تاریخی عمارت  
 و۔۔ اَشَر  
 اَشَاہ - قصاص پانا  
 اَشَارَاۃ - وہ تحریریں کا اثر باقی رہ گیا ہو۔  
 اَشَارَاۃ - ہراغینہ کرنا۔ زمین جو تننا۔ بونا۔ علم  
 شرآن کی بحث کرنی۔  
 اَشَابِی - چولہا۔  
 اَشَال - فضیلت ذاتی۔ فضیلت خانہ دانی۔

اَشْرِي - (د) ماہر آثار قدیمہ۔

اِشْعَال - (کام کا) بڑھ جانا مہانوں کا زیادہ ہونا۔  
اِشْعَاد - بچک کا دودھ کے دانت گرا دینا۔ دانت  
ٹکنا۔

اِثْف - (ض) پیروی کرنا۔

اِثْفَاء - چولھا بنانا۔

اِثْعَال - کسی چیز کی پھٹ کا نیچے پلٹ جانا۔

اِثْفِيَّة - چولھے کا ایک پایاجہ۔ اَشَارِي -

اِثْقَال - بوجھل کر دینا۔ بوجھ لادنا۔ حمل کا گراں  
اور ظاہر ہونا۔

اِثْقَال - بوجھ و ثقل۔

اِثْكَال - (ماں کا) اولاد سے محروم ہو جانا بے فرزند  
کردینا۔

اِشَل - جھاڑ کا درخت (جنس) اَشَلَّة ایک  
درخت جج۔ اَشَلَّج

اِشَلَات - تین ہونا۔

اِشْلَاج - برف برسانا برف میں پہنچنا۔ مطمئن ہونا  
خوش کرنا۔ فرخ پانا۔ رہائی پانا۔

اِشْلَال - رخنہ دور کرنا اور اس کو درست کرنا  
بھیر بکریوں کے ریوڑ بہت رکھنا۔

اِشْم - گناہ، ناجائز کام جہاں گناہ کرنا  
درخت کا چھل لانا۔ مسک نکل کر جمع ہونا  
بہت مالدار ہونا۔

اِشْمَال - کچھ چیز باقی چھوڑ دینا۔ دودھ پر بہت  
بالائی بننا۔

اِشْمَان - مول کرنا۔ مول دینا۔

اِشْمِد - سرمہ کا پتھر۔

اِشْتَاء - تعریف کرنی۔ دوسرا ہونا

اِشْتَان وَاذْكَر اِشْتَان وَاذْكَر (مؤنث)

یوم الاثنین (دوشنبہ)

اِشْتَاعَشْر - بارہ - م - اِشْتَاعَشْرَة

اِشْتِئَاء - دوسرا ہو جانا۔ پھر جانا۔

اِشْوَاء - اترنا۔ مکان میں دیر تک رہنا۔

اِشْوَال - دیوانہ۔ احمق۔ بیخبر۔ کام میں سست۔  
سست چلنے والا۔

اِشْوَال (ن) جڑ پکڑنا۔ مضبوط ہونا

اِشْوَم - گناہ گار۔ جھوٹا۔

اِشْوَب - (د) ایک لطیف سیال مادہ جو اجسام میں  
بھی سرایت کر جاتا ہے۔

اِشْوِش - مضبوط جڑ والا (درخت)

اِشْوِش - جھوٹا۔ گناہگار۔

## اِح

اِحَاء - نبی طے کے ایک پہاڑ کا نام۔

اِحَاءَة - (ان) کے آنا۔ مضطرب کرنا۔

اِحَابَة - ماننا۔ جواب دینا۔ دعا قبول کرنا۔ جواب۔

اِحْتِاج - کھاری اور کڑوا پانی۔

اِحْتِاجَة - ہلاک کرنا۔ جڑ سے اکھاڑ پھینکنا۔

اِحْتِادَة - اچھی اور کھری بات کہنی۔ بخشنا۔ زور  
سٹور سے بارش کا ہونا۔

اِحْتِارَة - مزدوری پر دینا۔ ظلم سے رہائی دلانا۔

اِحْتِاه دینا، مدد کرنا (معنی) کسی چیز سے  
غافلہ کرنا۔

اِحْتِادَة - جائز رکھنا۔ حکم دینا۔ زخمی کو مار ڈالنا۔

اِحْتِاف طے کرنا۔ گزارنا صلہ اور بخشش دینا  
(کھیتی میں) پانی دینا۔ دوسرے کی رائے کو

صحیح قرار دینا۔ (د) لائسنس۔ رخصت۔

اِحْتِاص - اولو بخارہ

اجتہاد - گھولنا۔	اجتماع - بھوکا کر دینا۔ بھوکا رکھنا۔
اجتہاد - دیوار بنانا۔	اجتماع - دروازہ کھولنا۔ پیٹ تک نیزہ اتارنا۔
اجتہاد - کھینچنا۔ اچکنا۔	سڑنا۔
اجتہاد - خوش و حشر ہونا۔	اجالہ - پھرانا (تلوار سے کھیلنا)۔
اجتہاد - دلیر ہونا۔	اجالہ - کڑے دھوئے کا گھڑاجہ۔ اجلیجین
اجتہاد - (گناہ) کمانا۔ اختیار کرنا۔	اجتہاد - جبر کرنا۔ دباؤ ڈالنا۔
اجتہاد - کھینچنا۔	اجتہاد - (د) لازمی۔
اجتہاد - جمع کرنا۔ کمانی کرنا۔	اجتہاد - پہاڑ پر جانا۔ جبل پانا (علیٰ) محبوب کرنا۔
اجتہاد - جمع کرنا۔ کمانی کرنا۔	اجتہاد - بزدل پانا۔ کسی کو بزدل سمجھنا۔
اجتہاد - جمع کرنا۔ کمانی کرنا۔ اچک لے جانا۔	اجتہاد - کچے کھیت کو بیج ڈالنا۔
اجتہاد - درخت سے کڑی توڑنا۔ پانی میں کسی چیز کو نیچے لے جانا۔	اجتہاد - ظہیر و روشادہ پیشانی۔ بڑے کچے جڑی کا
اجتہاد - جڑ سے اکھاڑنا۔ سب کو لے جانا۔ ہلاک کرنا۔	اجتہاد - گرمی کی تیزی۔
اجتہاد - درخت پر پھیلوں کا تخمید کرنا۔ مال کمانا۔ گناہ کرنا۔	اجتہاد - قبول کرنا منتخب اور پسند کر لینا۔ مال کو اس کے اصلی مقامات سے لینا۔
اجتہاد - اکتفا اور قناعت کرنی (مادہ جزی) کا بدلہ جہتا (مادہ جزی) کاٹنا۔	اجتہاد - کاٹنا۔
اجتہاد - کاٹنا۔	اجتہاد - کھینچنا۔
اجتہاد - توڑنا۔ کاٹنا۔	اجتہاد - ٹوٹے ہوئے کو جوڑنا۔ دولت مند کر دینا۔ دولت مند ہونا۔
اجتہاد - بغیر ناپے تو لے صرف اندازے سے خریدنا اور بیچنا۔	اجتہاد - پیہرنا۔ بزدل پانا۔
اجتہاد - اندازہ کرنا۔ خریدنا۔ لینا۔	اجتہاد - خلاف طبع اور ناگوار سمجھنا۔
اجتہاد - چوڑے بنانا۔ ملا ہوا ہونا۔	اجتہاد - جڑ سے اکھاڑ ڈالنا۔ کاٹ ڈالنا۔
اجتہاد - (درخت کو) اکھاڑنا۔	اجتماع - جمع ہونا۔
اجتہاد - کرنا۔ مردود رہنا، لینا۔	اجتہاد - پرہیز کرنا۔
اجتہاد - کسی کو اس کی جگہ سے دور کر دینا (مادہ جزی) اکھاڑنا (مادہ جزی)۔	اجتہاد - ایک طرف مائل ہونا۔ گھوڑوں کا دوڑنے میں ایک پہلو پر جھکنا۔
اجتہاد - گھر بار سے باہر نکال دینا غور سے دیکھنا۔	اجتہاد - سوراخ کرنا۔
عماہر پیشانی سے اونچا کرنا۔	اجتہاد - اچک لینا۔ کھینچ لینا۔ ہلاک کرنا۔
	اجتہاد - مالٹنا۔
	اجتہاد - قبرستانی۔

اجْتِلاب - ایک جگر سے دوسری جگر پہنچ کر لے جانا۔	اجْتِاس - سوراخ میں گھسا دینا۔
اجْتِلاب - تلوار سے ایک دوسرے کو مارنا۔ سب کا سب پی جانا۔	اجْتِاف - وہ لہجہ جانا۔ محتاج کر دینا۔ نقصان پہنچانا۔ نزدیکی ہونا۔
اجْتِلاب - جڑ سے اکھاڑ دینا۔	اجْتِام - زمین کو کھڑکھانا۔ رک جانا۔
اجْتِاس - عود کو بیٹھی میں جلاتا۔	اجْتِام - سر آنکھوں والا
اجْتِماع - اکٹھا ہونا۔ قری اور جوان ہونا مرد کا اور اس کی تمام وارثی کا نکل آنا۔ (د)	اجْتِاب - زمین کو خشک اور ٹھیل پانا (قوم کا) قحط زدہ ہونا۔ زمین کا خشک و بے نباتات ہونا۔
اجْتِمَاعُ سَتَوِی - (د) جلسہ سالانہ	اجْتِاث و اجْتِاث - جدت۔ قبر
اجْتِمَاعِی - (د) سوشل - معاشرتی	اجْتِاد - وہ جتد واد۔ نانا۔
اجْتِنَاء - پھل توڑنا۔ بارش کے پانی پر اترنا اور اس کو پینا۔	اجْتِاد - تجدید کرنا [رقی] کو شش کرنا۔ ٹھان لینا
اجْتِنَاب - دور ہونا۔ گوشہ میں بیٹھنا۔ پرہیز کرنا۔ بچنا۔ بے غسل ہونا۔	اجْتَد - زیادہ لائق
اجْتِناح - مائل ہونا۔	اجْتَدع - شیطان۔ ناک یا کان یا ہونٹ یا ہاتھ کا ہوا۔
اجْتِنان - پوشیدہ ہونا۔	اجْتَدل - شکرہ ج۔ اجْتادل
اجْتِناء - (کسی شہر میں قیام) ناپسند کرنا۔	اجْتَداد - لہجہ کا نانا۔ تیز چلنا۔ تیز دوڑنا [میں] رکنا [رعلی] [قصہ کرنا۔
اجْتِنواس - بڑوسی بنانا ایک دوسرے کو۔	اجْتَداد - ہاتھ کا ہوا جس کی انگلیاں گھٹی ہوں
اجْتِنہاد - کوشش کرنا صحیح راستے تلاش کرنا۔ اپنی طرف سے زور لگانا۔ مسائل فقہیہ کا قرآن و حدیث سے استخراج کرنا۔	اجْتَداد - مبتلا، جذام
اجْتِنہار - لشکر کو بہت بھنا بے پردہ دیکھنا۔ اود قابل دید پانا۔	اجْتَد - بدلہ۔ ثواب۔ جہ۔ اجْتوس ڈرنیک
اجْتِنیاب - (لباس) پہننا (کنوآں) کھودنا۔ بھاڑنا۔ (مسافت) قطع کرنا۔	اجْتَد (مص) (رض) (بدلہ دینا) (د) مزدور ہونا۔ کرایہ پر دینا (ٹوٹی ہڈی کا) پاندھنا، بندھنا۔
اجْتِنیاح - ہلاک کرنا جڑ سے اکھاڑ دینا۔	اجْتَدہ - بکی اینٹ۔ جہ اجْتد
اجْتِنیاز - گزرتا۔ مسافت طے کرنا۔ بخت چاہنا	اجْتَداء - بائین۔ جاری کرنا کسی کو دلیل کرنا۔ دلیل بھیجنا۔
اجْتِنیاف - اندر آنا۔	اجْتِراءات - (د) کارروائی۔
اجْتِناء - گھنٹوں کے بل بٹھانا۔	اجْتِناب - خادش اور ٹوں والا ہونا۔
	اجْتِناس - زمین کا چھیل ہونا (ادب) کا بل ہونا

اِحْتِجَاس - مدت و عملت - عمر کی انتہا - جہ :- اِحْتِجَال - مال (صفت ایجاب) اِحْتِجَال - سبب - وجہ - اِحْتِجَالَاء - دور ہونا - تیز چلنا [معن] جلا وطن کرنا - جلا وطن ہونا - اِحْتِجَالِب - جمع ہو کر شہر چھوڑنا - کٹائی کرنا - ڈانٹنا مدد کرنا - ڈرانا - جمع کرنا - اِحْتِجَالَال - بزرگ مرتبہ کر دینا - قوی ہونا ضعیف ہونا - اِحْتِجَالِح - بے سینگ جانور - اِحْتِجَالِي - جس کی پیشانی کے بال دسبے ہوں واضح اِحْتِجَالِيَاب - تیر چلنا - اِحْتِجَالِاس - خوشبو وارد دھونی کرنا کپڑوں کو تڑپوڑ دھونی دینا - دوڑانا - اِحْتِجَالِع - متفق ہونا - بارش کا تمام مقامات پر برسنا - کام سمیٹنا - تیار اور آمادہ کرنا ہلکا کرنا - عزم اور پختہ ارادہ کرنا - اِحْتِجَال - پھیلی ہوئی چیزوں کو سمیٹنا - بھلائی کرنا ہمت اونٹوں والا ہونا - اِحْتِجَالِه - جانور کو آرام دینا کام کا مزد دیک ہونا اِحْتِجَالَت - بھاڑی - بن - شیروں کے رہنے کا مقام جہ - اِحْتِجَالَت - اِحْتِجَالَت - جہ :- اِحْتِجَالِه - اِحْتِجَالِع - سب - جہ :- اِحْتِجَالِعُون اِحْتِجَالِون (ن ص) پانی کا مزہ اور رنگ بدل جانا - اِحْتِجَالِن - (ن ص) پانی کا مزہ اور رنگ بدل جانا اِحْتِجَالِے - منہ کے پانی گزنا (ادہ جنا) پھلوں کا پک جانا (ادہ جینی)	خشک سالی میں آبیڑنا مجبور کرنا اِحْتِجَاس - تیزی سے اڑنے کے وقت پروں کا آواز پیدا کرنا - زیور کی جھککار سناتا اونٹوں کے ساتھ گانے والے (حادی) کا آواز نکالنا - اِحْتِجَاس - گناہ - اجسام وہ - جُرم و جرم عملی ترتیب - اِحْتِجَاس - گناہ کرنا [عملی] کسی کے ذمہ گناہ نکالنا [مالی] بزرگ اور بڑا ہونا - اِحْتِجَاب - خاشی - اِحْتِجَابَة - مردوری - کرایہ - اِحْتِجَاد - بے بالوں والا - چٹیل - رنگا - جہ :- اِحْتِجَارِد - جُود - اِحْتِجَااِع - معن [بے پردہ کرنا کافی ہونا - حق ادا کرنا - اِحْتِجَااِع حَااِعَة (د) دواخانہ - ڈسپنسری اِحْتِجَااِعِي - (د) دوا فروش - اِحْتِجَااِس - (ادھل کا) ذبح کرنا - ذبح کرنے کا وقت آہانا (خاکے) پھیل توڑنے کا وقت آہانا - اِحْتِجَااِسِن - (خرما کا) پختہ اور خشک ہو جانا (کھیتی اور پھلوں کے) کاٹنے اور توڑنے کا وقت آپہنچنا - اِحْتِجَااِع - بے صبر اور بے تاب کر دینا - باقی رکھنا اِحْتِجَااِل - ہمت دینا - اِحْتِجَااِم - کسی پر کسی کام کا بوجھ ڈالنا - اِحْتِجَااِل - دوڑانا - بھاگنا - اِحْتِجَااِن - وہ - جَفَن پک نیام - اِحْتِجَال - آخرت - وہ چیز میں کے طے میں دیر ہو - اِحْتِجَال - جنگل گائے - جہ :- اِحْتِجَال
---	---



آجینج - آگ کا شعلہ (مص) (د) آگ کی لوکا اٹھنا۔

آجیندہ - وہ آدمی جس کی گردن لمبی اور خوبصورت ہو۔ ج۔:۔ مجود۔

آجیندہ - مزدور۔ ج۔:۔ اُجَدَاء

## ح

آح - (د) کھانسا۔

آحاشہ - زمین کرید کر چیرہ تلاش کرنا۔ متفرق کرنا۔

آحاد - ایک ایک

آحادیث - کہانیاں۔ باتیں۔ و۔:۔ اُحْدُو۔ حدیث

آحاطہ - [ب] گھیر لینا کسی شے کو پورے طور پر جان لینا۔

آحاطہ - [ب] احاطہ کرنا۔

آحاکتہ - (تلموز کا) کام کر جانا۔ کاٹنا۔ اثر کرنا۔

آحالہ - سال پورا کر دینا۔ مسلمان ہونا۔ پورا

سال گذر جانا۔ محال بات کہتی [ب]

سال بھر تک رہنا [ع] [ضعیف جانا

رق] [اچھل کر چڑھ بیٹھنا۔

آحباء - نشاۃ خطا کرنا۔

آحباء - پیارے۔ دوست۔ و۔:۔ حَبِيب

آحباس - فی سبیل اللہ گھوڑا وقف کرنا۔

آحباط - مٹا دینا۔ منسوخ کرنا۔ موقوف کرنا۔

أَحْبُوْش - اُحْبُوْشہ ج۔:۔ آخا پائیش

(مختلف القبائل) آدمیوں کا انبوہ

أَحْوَال - اُحْوَالۃ حال۔ ج۔:۔ آخا میل

أَحْتَبَاء - کپڑے سے کمر اور نپٹالیوں کو باندھ کر

اکڑوں بیٹھنا۔

آجٹا - کبریا۔ مؤنث جنشاء  
آجٹاب - دور رکھنا۔ جنب ہونا۔ جنوبی ہوا میں  
آہنا۔

آجٹاح - [الحی] مال ہونا۔ خواہش کرنا۔ مال کرنا

آجٹان - کسی طرف جھکنا۔

آجٹان - پھپھالینا۔ پوشیدہ کرنا۔ کفن پستانا،

دل میں پوشیدہ رکھنا۔

آجٹب - غیر آدمی۔ غریب مسافر۔ تاجر۔

آجٹبی - غیر آدمی۔ غریب مسافر۔

آجٹف - جھکی ہوئی پیٹھ والا۔ مؤنث۔ جنفاء

ج۔:۔ جُتْف۔

آجٹخہ - و۔:۔ جٹاح بازو

آجٹمہ - رخسارے کا ابھرا ہوا حصہ۔

آجٹہ - و۔:۔ جینین پیٹ کا بچہ۔

آجٹوب - قطع کرنے والا۔

آجٹوت - بڑے پیٹ کا شیر۔ کلمہ مقتل عین۔

آجٹوقان - پیٹ اور فرج۔

آجٹہاد - چومپا پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ

لا دینا۔ آرزو مند ہونا۔ احتیاط کرنا۔

آجٹہاق - قریب آنا اور خوب نمایاں ہونا۔

آجٹہاق - رل مل جانا۔ نیست و نابود کرنا۔ منتشر

کرنا۔

آجٹہاد - زنجی کو مار ڈالنا۔

آجٹہاش - [الحی] رونے کے لئے آمادہ ہونا۔

روانسا ہونا۔

آجٹہاض - (حاملہ اونٹنی کا) بچہ گر دینا۔

آجٹہال - جہاں پانا۔

آجٹہاء - (فضا کا) کھلا ہونا۔ کھلی فضا میں پہنچنا۔

اِحْتِباس - رک جانا - بند ہو جانا - بند کرنا - روکنا  
 اِحْتِبات - (کپڑا) اچھی طرح بننا (آزار) باندھنا -  
 مضبوط اور درست کرنا - نیز بمعنی  
 احتیاط -

اِحْتِبَال - جمال سے شکا کرنا جمال پھیلانا -  
 اِحْتِبات - (علی) برا بیخبر کرنا - برا بیخبر ہونا -  
 اِحْتِباب - پردہ میں ہونا -  
 اِحْتِباب - بھگڑنا - حجت لانا -

اِحْتِباس - حجرہ بنانا - زمین کی حد بندی کرنا بغیر میں  
 لینا [ب] پناہ تلاش کرنا -

اِحْتِجَاز - جمع ہونا - مجاز میں آنا - بغیر میں کوئی چیز  
 اڑس لینا کر رہنا دھنا -

اِحْتِجَاف - رہائی دلانا - اچک لینا - جمع کرنا (عن)  
 روکنا -

اِحْتِجَام - سینگلی سے خون نکالنا یا نکلوانا -  
 اِحْتِجَان - اپنی طرف کھینچنا - مال اکٹھا کرنا -

اِحْتِجَاد - تالیخ ہونا - پیچھے آنا -  
 اِحْتِجَاد - غصہ کرنا - جوش میں آنا (دُار) تیز ہونا

اِحْتِجَاد - پرہیز کرنا -  
 اِحْتِجَاب - باہم جنگ کرنا - ایک دوسرے کا مال  
 پھینچنا -

اِحْتِزَان - گھبٹی کرنا - کمانی کرنا -  
 اِحْتِزَان - پرہیز کرنا - احتیاط کرنا -

اِحْتِزَان - چوری کرنا - اپنی حفاظت رکھنی -  
 اِحْتِزَان - لاپٹی ہونا - کوشش کرنا -

اِحْتِزَان - پیشہ ور ہونا -  
 اِحْتِزَان - جل جانا - تیز دوڑنا -

اِحْتِزَام - عزت کرنا - تعظیم و توقیر کرنی -  
 اِحْتِزَاد - کاٹنا -

اِحْتِزَان - غم گین ہونا -  
 اِحْتِساب - گمان کرنا - امتحان کرنا - ثواب اور عوقب  
 کی امید رکھنا - بڑی بات سے منع کرنا -  
 باز رہنا -

اِحْتِشَاہ - [من] شرم کرنا (من) [عفتہ] ہونا -  
 اِحْتِصَاد - درستی سے کھیت کاٹنا -

اِحْتِصَاد - حاضر ہونا (گھوڑا) دوڑنا - وطن میں ہونا  
 (مجبولا) موت کا وقت آ جانا -

اِحْتِصَان - گود میں لینا - دایہ گری کرنا - بچھ پانا -  
 حاجت سے روکنا -

اِحْتِطَاب - لکڑیاں جمع کرنا - لکڑیوں کے ٹکڑے کھانا  
 (علی) شریک ہونا -

اِحْتِطَاط - کم کرنا - اتارنا -  
 اِحْتِطَاء - بہرہ مند اور دولت مند ہونا -

اِحْتِطَاء - ننگے پاؤں چلنا - جو تاتا رہنا -  
 اِحْتِطَاد - جلدی چلنا - خدمت کے لئے دوڑنا -  
 جلدی کرنا -

اِحْتِطَاز - اکر دو بیٹھنا - سرینا پر سیدھا بیٹھنا -  
 دامن سمیٹ کر آمادہ اور مستعد ہونا -  
 چلنے میں کوشش کرنا -

اِحْتِطَاف - غصہ ہونا [ب] اپنے لئے خاص کرنا -  
 نگاہ رکھنا -

اِحْتِطَاف - (منہ کے بال) صاف کرنا (بال) بندھوانا  
 (گھاس) کاٹنا - طواف کرنا -

اِحْتِطَال - ستوارنا - جمع ہونا - (پانی سے) بھر جانا  
 ڈرنا (گھوڑے کا خرک) تھکا ہوا ظاہر  
 کرنا - در راستہ کھلا اور صاف ہونا -

اِحْتِطَان - اکھاڑنا - اپنے لئے لینا - زائرین دونوں  
 ہاتھ ڈال کر کسی کو اٹھانا -

اِحْتِم - سیاہ۔	اِحْتِقَاب - ذخیرہ جمع کرنا
اِحْتِمَاء - پرہیز کرنا۔ پرہیز	اِحْتِقَاد - بارش کا رک جانا
اِحْتِمَاس - باہم جنگ کرنا۔	اِحْتِقَار - کسی کو ذلیل و خوار سمجھنا۔
اِحْتِمَاش - باہم جنگ و پیکار کرنا۔ غصے سے بھرا دکھنا۔	اِحْتِقَاق - آپس میں جھگڑنا (اونٹ کا) موٹا ہونا
اِحْتِمَال - بوجھ اٹھانا۔ احسان لینا۔ اور شکر گزار ہونا۔ غلام خریدنا۔ کوچ کرنا (مجبوراً) غصہ کرنا اور بھڑک اٹھنا۔	اِحْتِقَاق [ب] فرداً مار ڈالنا۔ سرین میں ہڈی پر زخم پہنچنا۔ (گھوڑے کا) پتلی کرنا ہونا
اِحْتِمَام - غم زدہ ہونے کی وجہ سے رات کو نہ سونا بغیر درد کے آنکھ کا نہ لگنا۔	اِحْتِقَاق [ب] شخصیت اور جھگڑا (راہم مصدر)
اِحْتِمَاج - میلان کرنا اور جھک جانا۔	اِحْتِقَاق - پیشاب رکنا۔ حقہ لینا۔ زخم میں خون جمع ہونا۔
اِحْتِمَاک - جانور کی ڈھائی باندھنا۔ قابو میں کر لینا۔ تجربہ کار ہونا۔ غالب آنا۔ زمین کی روئیدگی کھانا۔ سارا مال چھین لینا۔	اِحْتِقَاق - گرہ باندھنا۔ گرہ سخت ہونا۔
اِحْتِمَآء - ہر طرف سے گھیر لینا۔	اِحْتِقَاق - گرانی میں بیچنے کے لئے غلہ جمع کرنا۔
اِحْتِمَاش - شکار کرنا [کافی کرنا۔ جمع کرنا۔	اِحْتِقَاق - تخرابش ہونا۔ کھیلانے کا حاجتم ہونا۔
اِحْتِمَاج - ضرورت مند ہونا۔ رجوع کرنا۔	اِحْتِقَاق [ب] دل میں کھٹنا [ب] ملنا۔ رگڑنا
اِحْتِمَاط - بیداری اور ہوشیاری سے کام کرنا۔ گھیرنا۔	اِحْتِقَاق [ب] کسی چیز سے۔
اِحْتِمَاک - کپڑوں کو سمیٹ کر اوپٹ کر گھٹنوں کو کھڑا کر کے پٹھنا۔	اِحْتِقَاق - دشوار ہونا۔ عربی کے بعد عجمی زبان کا سیکھنا۔
اِحْتِمَال - پورا سال گزار جانا۔ اپنا حق کسی پر اتار دینا۔ حیل کرنا۔ درمیان میں لینا۔ حیلہ (راہم مصدر)	اِحْتِقَاق - (علی) حکم کرنا۔ حاکم ہونا [الی] حاکم کے پاس جھگڑا لے جانا۔ [وق] حسب خواہش تصرف کرنا۔
اِحْتِم - بہت اچھا کرنے والا۔	اِحْتِقَاب - دوہنا۔
اِحْتِمَات - [علی] اچھا رتا۔	اِحْتِقَاب - روئی و دھننے کی اجرت لینا۔
اِحْتِمَال - زمانہ کا ناموائف ہونا۔ بری غذا سے بری طرح پرورش کرنا۔	اِحْتِقَاب - اپنا حق لینا۔
اِحْتِمَاج - حج کے لئے بھیجنا۔	اِحْتِقَاب - قسم کھانا۔ جھگڑنا [علی] غصہ کرنا۔
	اِحْتِقَاب - جلدی کرنا [من] بے قرار و بیقرار ہونا۔
	اِحْتِقَاب - ہال منڈنا۔
	اِحْتِقَاب - (د) کسی ملک پر کسی غیر قوم کا قبضہ یا قبضہ کرنا۔
	اِحْتِقَام - خواب میں جماع کرنا۔ خواب دیکھنا۔

اِحْدَاج - گناہ میں مبتلا کرنا۔ مجبور کرنا۔  
 اِحْدَاد - تیر چیلنا۔ اکیلا کر دینا۔  
 اِحْدَاس - دن کا گرم ہونا۔  
 اِحْدَاس - شرفار۔ آزاد لوگ۔ و:۔ اِحْدَ (د)  
 لبرل۔ آزاد خیال۔  
 اِحْدَاز - مضبوط کرنا۔ جمع کرنا۔ اور مزدوری لینا  
 بچانا۔ پناہ دینا اور حفاظت میں لینا۔  
 اِحْدَاس - مدت دراز تک ٹھہرنا۔  
 اِحْدَاف - نفیس اور ترقی پذیر دولت کا مالک ہونا  
 کماٹی کرنا۔ بدلہ دینا۔  
 اِحْدَاق - آگ میں پوری طرح جلاتا۔ ستانا۔  
 اِحْدَاف - حرم میں آنا۔ آشہر محرم میں داخل ہونا  
 احرام باندھنا۔ حرام کرنا۔ حائفہ ہونا  
 اِحْدَاص - برطالچی۔  
 اِحْدَی - نہایت مناسب۔ موزوں ترین  
 اِحْدَاب - بہت سے گروہ۔ کفار کے گروہ کے متفق  
 ہو کر جنگ کے لئے مدینہ پر آئے تھے۔  
 و:۔ اِحْدَاب  
 اِحْتِرَان - غم گین کرنا۔ سخت زمین میں ہونا۔ جگہ کا سخت  
 ہونا۔  
 اِحْسَاب - گدے پر بیٹھنا۔ پیٹ بھر کر کھلانا۔ یا پلانا  
 کافی ہونا۔ دینا۔  
 اِحْسَاس - حس و حرکت دریافت کرنا۔ جمانا۔ آگاہ  
 ہونا۔ دریافت کرنا۔  
 اِحْسَان - نیکی کرنا۔ کام کو نمدگی سے کرنا۔ اوپنے  
 ٹیلے پر بیٹھنا۔ رانی اچھا سلوک کرنا۔  
 اِحْسَن - بہت اچھا۔  
 اِحْسَام - غصہ دلانا۔ شرمندہ کرنا۔ دکھ دینا۔  
 اِحْسَاء - انتہا یاں۔ پیٹ اور سینہ کے اندر کے

اِحْجَام - [عن] رک جانا۔ ٹھہرنا۔ سچھے مہننا۔  
 چھاتیوں کا بھر آنا۔ عورت کا پہلی بار  
 دودھ پلانا۔  
 اِحْجَن - پیرلھا۔ کبرطال گھونگیا لے ہال ٹکے  
 ہوئے۔  
 اِحْجَوَّة - اِحْجِيَّة - پسیلی۔ چپستان۔ ج:۔  
 اِحْجَوِّج -  
 اِحْد - اکیلا۔ یکتا۔ لیک۔ پہلا۔ اتوار کا دن۔  
 کوئی ج:۔ اِحْدَاد  
 اِحْدَاق - گیارہ۔ (مذکر کے لئے)  
 اِحْد - (س) عمد و پیمان کرنا۔  
 اِحْد - مدینہ کا ایک پہاڑ۔  
 اِحْدَاء - قصد کرنا۔  
 اِحْدَاب - کبرطال دینا۔ اعلیٰ مہربان کرنا  
 اِحْدَاث - زنا کرنا۔ وضو توڑنا۔ نیا پیدا کرنا۔  
 صیقل کرنا۔  
 اِحْدَاد - پھری وغیرہ کا تیز کرنا۔  
 اِحْدَاق - زب [گھڑنا۔ اساطیر کرنا۔  
 اِحْدَاب - کبرطال پینچے کی ایک رنگ۔ کلمہ منظر کا ایک  
 پہاڑ۔ دشوار۔  
 اِحْدَابَاب - کبرطال ہونا۔  
 اِحْدَوِّشَة - کہانی۔ بات۔ ج:۔ اِحْدَوِّث  
 اِحْدَوِّم - نیچی زمین۔  
 اِحْدَابَاب - کبرطال ہونا۔  
 اِحْدَاء - عطار بخشش کرنا جو تہ پیماننا (دادہ صدقہ)  
 قیمت میں حصہ دینا (دادہ صدی)  
 اِحْدَاء - گھٹا دینا۔  
 اِحْدَاب - رطالی کا بھارتا۔ غار مگرمی پر رہبری کرتی  
 شگورہ دار ہونا۔

<p>وہ۔ حِقْف</p> <p>اِحْتِقَاق - حق بات کہنا۔ حق سے غلبہ کرنا۔ درست کرنا۔ درست جاننا۔ یقین کرنا۔ اونٹنی کے بچے کا یقین برس کا ہو کر حق ہو جانا۔</p> <p>اِحْتِکَاث - کھجلا نا۔ دل میں کھٹنا۔</p> <p>اِحْتِکَاہ - مضبوط کرنا۔ فساد سے روکنا۔ پھیرنا۔ روکنا۔ نگام کا دہانہ بنانا۔ ثابت کرنا۔</p> <p>اِحْتِخْلَاء - شیریں کرنا۔ شیریں پانا۔ میٹھی بات کہتی۔</p> <p>اِحْتِخْلَاب - شیروار جانور دینا۔ دوہنے میں مدد کرنا۔ دودھ تازہ دوہا ہوا دینا۔ دودھ دودھ کر گھر بھیجنا۔</p>	<p>اعضاء۔ وہ۔ حَسَنًا</p> <p>اِحْتِصَاء - شمار کرنا۔ نگاہ رکھنا۔ دریافت کرنا۔ حفظ کرنا (زادہ حصی) سیراب کرنا مادہ حصاً</p> <p>اِحْتِصَاءُ النُّفُوسِ بَرَدَمٌ شَمَارِی -</p> <p>اِحْتِصَاد - کھیتی کا کالنے کے وقت کو پہنچنا۔ کھیتی کھینا۔ رسی کا سخت بننا۔</p> <p>اِحْتِصَار - روک دینا۔ محاصرہ کرنا اور سخت گیری کرنا قبض ہونا۔</p> <p>اِحْتِصَان - حصہ دینا (معن) [معروف کرنا۔</p> <p>اِحْتِصَاب - آگ بیکڑ کاٹی۔ آگ بیکڑ پیاں ڈالنا۔</p> <p>اِحْتِصَاس - حاضر کرنا۔ دوڑنا (دھوڑے کا)۔</p>
<p>اِحْتِلَاف - قابل جن میں باہم عہد و پیمان ہو۔</p> <p>وہ۔ حِلْف</p> <p>اِحْتِلَاف - قسم دینا۔ زبان کا تیز اور فصیح ہونا۔ لڑکے کا بالغ ہو جانا۔</p> <p>اِحْتِلَال - آنا۔ اِحْرَام سے باہر آنا۔ حلال کرنا (عقلی) واجب کرنا۔ حرم سے حل میں آنا۔ عہد و پیمانے سے باہر آنا۔ اشہر حرم سے باہر آنا۔ سزا کے لائق ہونا۔</p>	<p>اِحْتِطَاب - کسی مقام میں سوکھی لکڑیوں کا بکثرت ہونا</p> <p>اِحْتِطَاف - آگور کی بیل کو تراشنے کا وقت آجانا۔</p> <p>اِحْتِظَاف - خوش قسمت نصیبہ دار اور باہرہ ہونا۔</p> <p>اِحْتِضَاء - مونہوں کو خوب کھڑا کرنا۔ بار بار سوال کرنا سوال میں اصرار کرنا اور گڑگڑانا۔</p> <p>[ب] [جہربانی کرنا۔ عجیب بیان کرنا۔ برہنہ پاکر دینا۔ بھلائی کے لئے سبب بننا۔</p>
<p>اِحْتِلَام - خوابیں۔ وہ۔ حِلْمٌ خَوَاب</p> <p>اِحْتِلِيل - سوراخ ذکر۔ سوراخ پستان۔ جہ۔</p> <p>اِحْتَالِيل -</p>	<p>اِحْتِقَاد - دوڑانا۔</p> <p>اِحْتِقَاد - کھونٹے میں مدد کرنا۔ اگلے چار دانٹ رگڑ پڑنا۔</p>
<p>اِحْتَم - سیاہ۔ سفید۔ مخصوص ترین۔</p> <p>اِحْتَمَاء - اپنی مخصوص چر آگاہ بنانا۔ کسی جگہ ایسی چر آگاہ کا ملنا۔ گرم کرنا۔</p>	<p>اِحْتِظَاف - غصہ دلانا۔</p> <p>اِحْتِقَات - سر میں مدت تک تیل نہ ڈالنا۔ تیز دوڑانا برائی سے یاد کرنا۔</p>
<p>اِحْتِمَاد - کام کا قابل تعریف ہونا۔ قابل تعریف کام کرنا۔ قابل تعریف پاتا۔ دل میں کسی کے فعل و طریقہ سے خوش ہونا اور اظہار کرنا</p> <p>اِحْتِمَاس - غصہ دلانا</p>	<p>اِحْتِقَاب - اسی اسی سال کی مدتیں۔ زمانے وہ۔</p> <p>حَقِيب</p> <p>اِحْتِقَاد - کینہ پر آمادہ کرنا۔</p> <p>اِحْتِقَات - ریت کے لیے توڑے۔ قوم عااد کا مسکن</p>

اِحْمَاش - غصہ دلانا۔ ورغلانا۔ ابھارنا۔ لاندھی کے نیچے بہت سی لکڑیاں لگا دینا۔  
 اِحْمَاض - کھٹا کر دینا۔ مزاج کرنا۔ کھٹا ہونا [عن] باز رکھنا۔  
 اِحْمَاق - احمق پانا۔ احمق بچے بننا۔  
 اِحْمَال - بوجھ اٹھوانا۔ بغیر حمل کے دودھ اڑانا  
 اِحْمَاہ - پانی گرم کرنا۔ تقدیر میں کھٹنا۔ نزدیک ہونا حاضر ہونا۔ غم میں ڈالنا۔ کالا کرنا۔ تجار آنا۔ تجا کی بیماری کا پھیل جانا بیبا ہونا۔

اَحْوَرِي - سفید و نازک۔  
 اَحْوَر - تیز نم۔ ذہین۔ ہوشیار و چالاک۔  
 اَحْوَل - ہمنگ۔ حیدرگر۔  
 اَحْوَال - بھینگنا ہونا۔  
 اَحْوِي - سیاہ سبزی مائل۔ سرخ سیاہی مائل سیا گھاس بہت سبز کہ مائل سیاہی ہو۔  
 اَحْوَاء - مؤنث اَحْوِي کا نام زوہر حضرت آدمؑ

## اِخ

اِخَاَصَة - پانی میں گھسانا۔ پانی میں گھسنا  
 اِخْتَبَاء - آگ بھانا (مادہ نمبو) خیمہ بنانا ٹیمپر کرنا (مادہ تھی)  
 اِخْتَبَات - عاجزی و فروتنی کرنا  
 اِخْتَبَات - خمیٹ دوست اکٹھے کرنا خمیٹ بیٹے بننا۔ خمیٹ سکھانا۔ گندی بات کہنا۔ یہودہ کہنا۔  
 اِخْتَبَاس - خبر دینا۔ اولٹنی کہ بہت دودھا رہ پانا۔  
 اِخْتَبَان - پیشاب اور پاخانہ بیخوابی اور گندہ ذہنی بے قراری اور بے خوابی۔  
 اِخْتَبَل - دیوانہ۔ ننگرا۔ لولا۔  
 اِخْت - بہن۔ جہ۔ آخوات  
 اِخْتَبَاء - پھینا۔ پھپھانا۔ بطور سمار کے کچھ کہتا اور پھر مطلب دریافت کرنا۔  
 اِخْتَبَاد - آزمانا۔ جانتنا۔  
 اِخْتَبَاذ - روٹی پکانا۔  
 اِخْتَبَاس - دبردستی لینا۔ اپکان۔  
 اِخْتَبَاط - بغیر احسان کے دوسرے سے احسان کا امیدوار ہونا۔ بغیر میل کے سوال کرنا۔  
 اِخْتَبَال - دیوانہ کر دینا۔ عقل اور اعضاء خراب کر دینا

اِحْمَد - بڑا سرا ہوا۔ ناقم الانبیاء کا اسم گرامی جو انجیل میں آیا۔  
 اِحْمَد - سرخ۔ غیر مسلح۔ جہ۔ خنس۔ سفید سونا۔ زعفران۔ گوشت۔ شراب۔  
 مرد سرخ جہ۔ آخا۔ قتل شدید موت سخت۔  
 اِحْمَاد - سرخ ہونا۔ عذاب اور رنج کا سخت ہونا  
 اِحْمَق - بے وقوف و بے عقل جہ۔ جحمت جحقی  
 اِحْمَاد - سرخ ہونا۔  
 اِحْتَاء [علی] مال کا بچوں پر مہمان رہنا اور ان کے باپ کے مرجانے کے بعد دوسرا خاوند نہ کرنا۔  
 اِحْتَات - قلم کے خلاف کام کرنا۔ مائل کرنا۔  
 اِحْتَاق - غصہ دلانا۔ بہت کینہ رکھنا۔ پیٹ کا لگ جانا۔ کثرت جماع سے دبلا ہوجانا۔  
 اِحْوَاج - حاجت مند ہونا۔ حاجت مند کرنا۔  
 اَحْوَس - مرد جس کے آنکھ کی سیاہی بہت سیاہ اور سفیدی بہت سفید ہو۔

اِخْتِنَاف - پھپھ کر سنا۔ بجا در ہونا۔ اچک لے جانا  
اِخْتِنَاف - ستوار میان سے نکالنا (انگور کا کچھا) کھینچ  
کر توڑ لیسنا۔  
اِخْتِنَاف - پوشیدہ ہونا۔  
اِخْتِنَاب - فریفتہ کرنا۔ لیھانا۔ فریب دینا  
اِخْتِنَاف - کھینچ کر نکالنا۔ پھڑکن۔ کا پینا۔ تھھرانا  
اِخْتِنَاف - اچکنا۔ جلدی سے اچک کر لے جانا۔  
اِخْتِنَاف - لینا گھوڑے کا، چلنے میں کمی کرنا۔ خراب  
اور پریشان عقل کا ہونا (ادوات کا) فریب ہونا۔  
اِخْتِنَاف - مال لے لینا۔ مال دے کر طلاق لینا۔  
اِخْتِنَاف - الگ الگ ہونا۔ قائم مقام ہونا (الی) [اسماں  
کی دیر سے پاشماں میں بار بار آنا جانا۔ گھٹ  
میں گئے رہنا۔ اور شوہر کی غیبت میں اس کی  
بیوی کے پاس جانا۔  
اِخْتِنَاف - بھوٹ گراھنا۔  
اِخْتِنَاف - سر کر ہونا۔ سر کرنا (الی) [حاجت مند ہونا  
د بلا ہونا۔ میٹھے چارہ میں پہنچنا چھینا۔  
اِخْتِنَاف - خمیر ہونا۔ خمیر کرنا۔ دوپڑ اور مٹھا۔ شراب کا  
تیار ہونا اور جوش مارتا۔  
اِخْتِنَاف - گلا گھٹنا۔  
اِخْتِنَاف - چھاٹ لینا۔ پسند کرنا۔ کسی چیز پر دل  
رکھنا۔  
اِخْتِنَاف - (پانی میں) گھسنا۔  
اِخْتِنَاف - دھوکہ بازی اور خیانت کرنا۔  
اِخْتِنَاف - شہر مندہ کرنا۔  
اِخْتِنَاف - (رگڑا کر کے) سوال کرنا (مادہ نجی) بہت  
جبار کرنا (مادہ نجی)  
اِخْتِنَاف - خادم دینا۔  
اِخْتِنَاف - دوست۔ یار۔ آشنا۔ ۵: خَدَان

(جانور کا) پاؤں لٹھکھٹانا۔  
اِخْتِنَاء - (ال) فریب دینا۔ (صن) خوف یا شرم سے  
پھینسا۔ ڈرنا۔ بچنا۔ رنگ متغیر ہو جانا۔  
اِخْتِنَات - کسی کا حصہ کم کرنا [صن] شرم کرنا۔  
اِخْتِنَال - پھپھ کر سنا۔ کنسورٹے لینا۔ فریب کرنا  
اِخْتِنَاء - اقیسہ پہنچانا۔ ختم کرنا۔ تمام کرنا۔  
اِخْتِنَاع - فریب دینا۔ بیخبری میں برائی پہنچانی چاہنا  
اِخْتِنَام - اپنی خدمت کرنا۔ نوکر چاہنا۔ خدمت لینا۔  
اِخْتِنَاع - چیرنا۔ ناپید کرنا۔ نئی بات نکالنا۔ خیانت  
کرنا۔ گھڑتا کسی کا مال چھین لینا اور تباہ کر  
دینا۔ دے کر واپس کر لینا۔  
اِخْتِنَاف - بھوٹ گراھنا۔ گذرنا اور چلا جانا۔  
اِخْتِنَال - شارٹ ہیٹ۔ مختصر ٹوپی (۵)  
اِخْتِنَاف - اپنے آپ کو غصی کر لینا۔  
اِخْتِنَاف - بات کو کوتاہ کرنا۔ کوکھ پر ہاتھ رکھنا۔  
زوائد کو دور کر دینا۔  
اِخْتِنَاف - خاص ہونا [ب] خاص کر دینا۔  
اِخْتِنَاف - کسی خاص فن کا ماہر خصوصی اسپیشلسٹ  
اِخْتِنَاف - آپس میں لڑنا۔  
اِخْتِنَاف - خضاب کرنا۔  
اِخْتِنَاف - کٹا ہوا ہوتا۔ بوجھ اٹھانا۔ موسم سے پہلے  
پھل کھانا۔ بلوغ سے پہلے بیکارت کا زائل  
کرنا۔ ہری گھاس کو کاشنا (جھول) جوان مر  
جانا۔ تروتازہ ہونا۔  
اِخْتِنَاع - عاجزی کرنا۔ جلدی سے گذرنا۔ ترکاؤٹی  
کو جھپتی کے لئے بٹھانا۔  
اِخْتِنَاف - عورت سے ملگنی کرنا۔ شادی میں بلانا۔ ملگنی  
مستعمل کرنا۔  
اِخْتِنَاف - خط کھینچنا اور حد بندی کرنا۔ سبزہ آغاز ہونا

اِخْذَاء - رسوا کر دینا۔	اُخْدَاع - گردن کی ایک رنگ جہاں کھینچے لگتے ہیں۔
اِخْذَان - غربت کے بعد دولت مند ہونا مال جمع کرنا۔	(اور وہ ڈوبیں) بہت زیادہ قریب دینے والا۔
اِخْذَلَى - بہت ذلیل۔ بہت رسوا۔ بہت شرمسار۔	اِخْدَاد - زمین میں لمبا شگاف۔ جہہ۔ اُخْدَادِیْنَا
اِخْسَاد - کمی کرنا۔ کمی۔	اُخْدَادُ - گھر کے کونز میں لڑکیوں کے لیے پردہ
اِخْسَاس - کینئر پن کرنا۔ کسی کو کینئر اور خسیس پاتا۔	اُخْدَا - دن (پکڑنا برائی میں مبتلا کرنا۔ تپش کرنا۔
حصہ کم دینا۔ گھٹانا۔	باندھنا۔ گرفتار کرنا (علیٰ) روکنا۔ داغ
اِخْسَرُ - بہت ٹوٹے میں رہنے والا۔	دینا۔ کھانا اور کم کرنا۔
اِخْشَاه - گوشت کا سرطانا۔	اِخْدُ - پکڑو ہکڑو (اسم مصدر)
اِخْشَب - سخت۔ کھردرا۔ سخت اور بڑا اچھا۔	اِخْر - اِخْیِر - پھینکا۔ جہہ۔ آواخِر -
اِخْشَن - کھردرا۔ جہہ۔ اِخْشَن	اِخْر - دومرا۔ جہہ۔ اِخْرُون مَوْتِ اُخْرَى
اِخْشِیْشَان - بہت موٹا اور کھردرا لباس پہننے کی	و اِخْرَاة جہہ۔ اِخْرِیَات و اُخْر
عادت کرنا۔ بہت سخت بات کہنا۔ بہت	اِخْرَاب - دیران کرنا۔ اجماعا۔
سخت زندگی میں جینا۔	اِخْرَاج - نکالنا۔ محصول اور کرنا۔ سرخ رنگ مورک
اِخْص - بہت خاص۔	نکاح کرنا۔ فریخی و تنگی کا سال گذر جانا۔
اِخْصَاب - ارزانی ہونا خوش حالی ہونا۔	اِخْرَاد - شرم کرنا۔ ذلیل و خوار ہونے کی دیر سے
اِخْصَاص - جب [ذلیل و خوار رکھنا۔ عیب کرنا۔	خاموش رہنا زالی (کھیل کی طرف مائل ہونا
اِخْصَاف - ننگوں کا بدن پر پتے لپیٹنا۔ جلدی کرنا۔	اِخْدَاس - گر آویٹا۔
اِخْصَاس - سبز کر دینا۔	اِخْدَاس - گونگا بنا دینا۔
اِخْضَاع - نرم گفتگو کرنا۔ نیاز مند کر دینا۔ پست گردن	اِخْرَاط - تھیلی کے منہ کو تسمہ سے باندھنا۔
کر دینا۔	اِخْرَاف - عقل زائل کر دینا۔ فصل خریف میں آنا
اِخْضَال - پانی سے ترک کرنا۔	خریف میں بچھو دینا۔
اِخْضَر - سبز۔ سیاہ۔	اِخْرَاق - حیران و پریشان کرنا۔ دہشت زدہ کرنا
اِخْضَرَاد - سبز ہونا۔ سیاہ ہونا۔	اُخْدَاة - اِخْرِیَاتِ بیچھے۔
اِخْضَع - ذلت و خوار ی پر راضی۔ پست گردن۔	اِخْرَاة - مہلت۔ ادھار
اِخْطَاء - قدم اٹھانے پر آمادہ کرنا۔ آمادہ خطو (خطا	اِخْرَاة - دوسرا جہان یعنی آخرت۔
کرنا۔ خطا کی طرف منسوب کرنا (آمادہ خطا)	اِخْرَس - گونگا جہہ۔ خُرْس۔ خُدْسَان
اِخْطَاف - تیرکا نشانہ سے چوک جانا۔ چھوڑ دینا۔	اِخْدَق - بے وقوف اجت۔
اِخْطَم - لمبی ناک والا۔ سیاہ۔ مرنٹ	اِخْدِیْرَاق - پھٹ جانا۔
جہہ۔ خَطْم مہہ۔ خَطْمَا	اُخْرَى - عالم آخرت سے پہلے (آخر کا مَوْتِ)



اِحْتِمَاد - ٹھہرنا اور خاموش ہونا۔ کو کو دبانا  
اِحْتِمَاس - ڈھکتا۔ چھپانا۔ کینہ و ریز ہونا۔ داخل ہونا  
چھپ جانا۔ چھپانا۔ ہیرہ دیتا۔ دل میں  
رکھنا۔ خمیر کرنا۔

اِحْتِمَاس - پارچ ہونا۔  
اِحْتِمَال - گمنام اور بے قدر کر دینا۔ کپڑے کو روئیں  
دار کر دینا۔

اِحْتِمَاد - گوشت متغیر ہونا۔ پیدل واد ہونا۔  
اِحْتِمَاص - تلوے کا وہ حصہ جو زمین سے نہ لگے۔  
اِحْتِئَاء - ہلاک کرنا۔ بخش کین۔ چراگاہ کا گھاس سے

بھر جانا۔ علیٰ زمانہ کا دراز ہونا۔  
اِحْتِئَاب - ننگا ہونا۔ ہلاک ہونا۔ ہلاک کرنا۔  
ضعیف کرنا۔

اِحْتِئَاس - پیچھے کر دینا۔  
اِحْتِئَاع - عاجز اور سرنگوں کرنا۔  
اِحْتِئَان - دیوار کر دینا۔

اِحْتِئَاس - چھپنا۔ ناگ والا۔ چھپڑی۔ شیر  
اِحْتِئَاء - بھوکا ہونا۔ جوتا ہونا۔ چھتا کا آگ  
نہ دینا۔ بے باراں ہونا۔ سب کا سب  
لے لینا۔

اِحْوَال - ماموں و: خَال  
اِحْوَان - و: اِحْوَان - بھائی بندہ۔ و: آخ  
اِحْوَانِ اِحْتِیَاف - وہ بھائی کہ ماں ایک ہو اور باپ  
الگ الگ۔

اِحْوَانِ - بھائی ہونا۔  
اِحْوَانِ - دودھ کا ترش ہونا  
اِحْوَانِ - اصطبل (فارسی)

اِحْوَانِ - جس کی آنکھ اندر کو گڑھے میں گھس گئی  
ہو۔

اِحْقَاء - پوشیدہ ہونا۔ پوشیدہ کرنا  
اِحْقَاس - پیمانہ و عہد توڑنا۔ رہبر کو ساتھ بھیجنا۔  
اِحْقَاص - جھکتا۔ پست کرنا۔

اِحْقَاف - لٹکا ہونا۔ لٹکا کرنا۔  
اِحْقَاق - اونگھنا زمین کی وجہ سے، جھونکے کھانا۔  
اڑنے میں، بازو مارنا (تارہ کا اڑو پ کے

قریب ہونا۔ جہاد کرنا اور غنیمت میں شاکا  
کا خالی واپس آنا۔ تلاش کرنے والے کا خالی  
آجانا۔ زمین پر دوسے مارنا۔

اِحْقَاف - بہت پوشیدہ۔  
اِحْقَاق - خالی ہونا۔ خالی کرنا۔ خالی پانا۔ خالی جگہ  
میں آ پڑنا۔ خلوت کرنا (مادہ غلو)

اِحْقَاب - پانی کا کلدرا اور گرد آلود ہونا۔  
اِحْقَاد (ب) مقیم ہونا۔ ہمیشہ رکھنا۔ ایلن میلان کرنا  
اِحْقَاص - خلاصہ اور جوہر نکالنا۔ طاوٹ نہ کرنا۔ عیادت

دکھانے سنانے کے لئے نہ کرنا۔ خالص اللہ  
کے لئے کرنا۔ خالص دوستی کھنی۔ نفاق  
نہ ہونا۔

اِحْقَاف - روزہ دار کے زمین پو آجاتا دودھ اور  
کھانے کا مزہ اور بول کا متغیر ہونا دودھ  
کے تھلان کرنا۔ متاع شہ چیز کی جگہ میں

دوسری چیز اختیار کرنا۔ کرہ کرنا۔ ہر سبق  
ہونا۔  
اِحْقَاق - پرانا کپڑا پہنانا پرانا ہونا پرانا کرنا

اِحْقَاق - عادات۔ خصائل۔ مزاج طبعی و۔  
اِحْقَاق - خلق۔

اِحْقَالَ - دب (ب) کام میں کوتاہی کرنا۔ خلل ڈالنا  
ڈھیلا ہونا۔ چھوڑ دینا۔

آدب - (ص) کھانا کھانے کے لئے بلانا  
 آدب - مہمانی میں بلانے والا ج:۔ آدبیت  
 ہوشیارى - ہر چیز کی حدود پر نگاہ رکھنا  
 ج:۔ آدب نیز وہ علم جس کے  
 ذریعہ سے آدمی زبان میں عملی کرنے  
 سے محفوظ رہتا ہے۔  
 آدب - (ص) مہمانی کا یا شادی کا کھانا تیار کرنا  
 (ش) ہوشیار ہونا - ہر چیز کی حد کا  
 نگاہ رکھنے والا ہونا۔  
 آدبیت - ہوشیار اور ہر چیز کی حدود پر نگاہ  
 رکھنے والا۔ زبان کا علم رکھنے والا۔  
 ج:۔ آدبیت  
 آدب - بہت بالوں والا۔  
 آدب سخا - (د) پاختہ (ترکی)  
 آدبباس - پھیر پھیرنا - پیچھے ہٹنا - مرنا  
 آدببار - پیٹھیں - پیچھے - د:۔ دیکھو  
 آدبیت - تعجب - مہمانی کا کھانا - شادی کا کھانا  
 آدبجی - (د) علمی - نظری -  
 آدبشاس - بہت سے مال میں سے انتخاب کر لینا  
 پھاٹ لینا۔  
 آدبکاخ - محنت باطل کرنا۔ پاؤں کا ڈکھا دینا۔  
 آدبخار - ذیل و خوار اور چھوٹا کر دینا - حقیر کرنا۔  
 آدبخار - ذمیرہ جمع کرنا۔  
 آدبخال - داخل ہونا۔  
 آدبخال - داخل کرنا۔ اندر لے آنا۔  
 آدبخان - دھواں نکلنا۔ دھواں یا سگریٹ پدنا۔  
 آدبخان - دھواں نکلنا۔  
 آدبس - (س) مرد کا مرض اور وہ میں مبتلا ہونا  
 آدبس اور وہ میں مبتلا ج:۔ آدبس

آخول آخول پریشان و پرانگندہ - تتر بتر۔  
 آخوی - آخر اور اخت کی طرف منسوب - بھائی  
 یا بہن والا۔  
 آخیاسا - بھلے لوگ - نیک آدمی - د:۔ حقیر  
 آخیاں - مختلف۔  
 آخیٹا - تیدی - گرفتار - بوڑھا مسافر۔  
 آخیٹ - پچھلا۔  
 آخیڈ - بہتر۔

اد

آد - اد - اد - تعجب اور اچھبنا - بڑی مصیبت  
 سخت اور بری بات ج:۔ آداد  
 ادد - اد - اد - غلج اور قوت۔  
 آداء - حق کا پورا دینا - پہنچانا۔  
 آداب - (ف) کام کرنے سے سبک جانا اور اس  
 میں رنج و مشقت پانا - رنج میں ڈالنا  
 تھکا دینا۔  
 آدایہ - اوزار - برتن ج:۔ آدوآت  
 آدادہ - کھانے میں کیرٹے پرٹھکانا۔  
 آدادہ - پھرنا - گھومنا - پھرانا - گھماتا (د)  
 دفتر - انتظام - نظم و نسق۔  
 آدام - ساکن ج:۔ آدمیت - ادام  
 آدام - چڑھا بیچنے والا۔  
 آدامتہ - ہمیشہ رکھنا - دھیل کرنی - پھرنا مسلسل  
 برستا - تلاش کرنا۔  
 آداتہ - قرض دینا اور لینا۔ ادائش کی مدت  
 مقرر کر کے خریدنا۔ قرض خریدنا۔  
 آدآورہ - لوٹنا - پھاگل ج:۔ آدوی  
 آدب - تعجب - اچھبنا ج:۔ آدآب

ادقآء - گرم کپڑا کسی کو پہننے کے لئے دینا۔  
 گرم کرنا۔ جمع ہونا۔  
 ادق - بہت دقیق۔ بہت مشکل۔  
 ادقاق - باریک کرنا۔ اٹا نرم کرنا۔  
 ادقاس - یاد کرنا۔ سوچنا۔  
 ادلاء - نکلنا۔ [ب] دلیل لانا۔ جانور کا اپنے  
 ذکر کو نکالنا [ف] برا کرنا۔  
 ادلاج - اول شب میں چلنا۔  
 ادلاج - آخر شب میں چلنا۔  
 ادلال - عملی [گ] گستاخی اور جرات کرنا۔ ناز کرنا۔  
 حد سے گزر جانا۔ وسیلہ تلاش کرنا۔  
 ادم - سالن جہ۔ اداہ۔  
 ادم - آدمیوں کے باپ حضرت ابولہب رضی اللہ عنہما  
 ادصاء - خون آلودہ کرنا۔  
 ادتاء - نزدیک ہونا۔  
 ادتاء - نزدیک ہونا۔ نزدیک کرنا۔  
 ادنیٰ - زیادہ قریب۔ زیادہ کم۔ کینہ۔ سفلہ  
 بہت نیچا۔  
 ادواء - بیمار ہونا۔ بیمار کرنا۔ تہمت لگانا۔  
 ادھاش - حیران کر دینا۔ پریشانی میں ڈال دینا  
 ادھان - اپنے اوپر تیل ملنا۔ چٹنا ہونا۔  
 ادھم - سیاہ۔ پرانے اور بوسیدہ آثار۔  
 نئے آثار۔ ہتکڑی۔  
 ادھی - سخت تر۔ بڑی آفت۔  
 ادیان - قرض لینا۔ قرض خریدنا۔ قرض بیچنا۔  
 ادیب - زیرک و عقل مند۔ زبان کا علم رکھنے والا  
 جہ۔ ادبائے  
 ادیبہ - چڑا۔ نرمی۔ وباغت دیا ہوا چڑا۔  
 جہ۔ ادم۔ ادمۃ۔ اداہ

ادس - جس کے غصے سوچے ہوئے ہوں۔  
 ادسآء - سکھانا۔ آگاہ کرنا۔ تعلیم دینا۔  
 ادراج - لپیٹنا۔ ترکرنا۔ [د] اخبار میں کسی مضمون  
 کو درج کرنا۔  
 ادسآء - بہت دودھ دینا۔ بہت تیر گھمانا۔  
 حرکت دینا۔ دوہنا۔  
 ادسآء - ادسآء - سبق پڑھانا۔  
 ادسآء - زرہ پہننا۔ مہینہ کا نصف سے  
 تجاوز کرنا۔  
 ادسآء - زرہ پہننی۔ قمیص پہننا۔  
 ادسآء - پہنچ جانا۔ بالغ ہونا۔ پک جانا۔  
 وقت آجانا [ب] دیکھنا۔  
 ادسآء - میلا پھیلا ہونا۔ میلا پھیلا کر دینا۔  
 ادسآء - ادسآء - خصیہ میں آنت اتر آنا۔ اور اسکا  
 اس سبب پھول جانا۔  
 ادسآء - [د] ایڈریا نویل (ترکی شہر)  
 ادسآء - ایک جلیل القدر متغیر کا نام جو کثرت  
 درس کی وجہ سے ادسآء مشہور ہوئے۔  
 ادسآء - دعویٰ کرنا۔ اپنا نام و نسب مقابل کے  
 سامنے بیان کرنا۔ ۵۔ رپورٹ درج  
 کرنا۔  
 ادسآء - ستون پر سہارا لگانا۔  
 ادسآء - لے پاگ بیٹے۔ ۶۔ دعتی  
 ادسآء - دعائیں۔ ۷۔ دعتا  
 ادسآء - ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل  
 کرنا۔ دوسروں کے جلدی کھانے کے  
 خوف سے لقمہ کو بغیر جہانے نکل جانا۔  
 ادسآء - ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل  
 کرنا۔

## اَذَّ

اَذَّ - جب جبکہ جس وقت - جس وقت کہ  
اِذَا - ناگاہ - جب کہ -  
اِذَا مَا - جب - جو نہی کہ -  
اِذَا رَاكَ - اس صورت میں - لہذا - تب -

(حرف جوار ہے)

اِذَا آتَتْ - گلانا - پھلانا - کام کو خوب کرنا - لوٹنا -  
اِذَا آه - رجش -

اِذَا عَتَ - عہد ظاہر کرنا - اعلان کرنا - د -

سرگھر گشتی حکم -

اِذَا عَتَ - اَللّٰهُ سَلِّطَ (د) براؤ کا سنگ

اِذَا قَه - چکھانا -

اِذَا لَه - لاغر کرنا - جا بجا رکھنا -

اِذَا نَ - سادینا - نازکے بکھلاوا - اِذَا نَانَ

اذان او اقامت -

اِذَا نَ التَّوَسُّمَ - گاؤں زبان -

اِذَا تَبَّاحَ - ذبح کرنا -

اِذَا تَبَّالَ - مہیا دینا - دہلا کرنا -

اِذَا خَاسَ - ذخیرہ بنانا - ذخیرہ جمع کرنا - برگزیدہ کرنا

اِذَا خَسَرَ - ایک خوشبودار گھاس - جو - اِذَا اِجْحَدَ

اِذَا سَاءَ - غصہ دلانا - ڈرانا [یا] حریص کرنا -

جاری کرنا - آفسو بہانا - گردینا -

اِذَا عَمَّارَ - ڈرانا -

اِذَا عَمَّاتَ - جلدی سے مار ڈالنا -

اِذَا عَمَّانَ - [ل] عاجزی کرنا - ذلیل و خوار ہونا -

اقرار کرنا - فرمانبرواری میں محبت کرنا -

گردن ہچکانا -

اِذَا خَسَرَ - گندہ بیل - تیز رو -

اَذَّقَانَ - ٹھوڑیاں -

اِذَا كَاسَا - یاد دلانا - بیٹا بننا -

اِذَا كَرَتَا - یاد دلانا -

اَذَّلَ - نہایت ذلیل - نہایت کمزور -

اِذَا لَالُ النَّاسِ - کم رُستے کے لوگ - بیچ قوم

اِذَا لَالَ - خوار جانا - خوار سمجھنا - نرم کرنا کسی کو

خوار پانا -

اِذَا لَبَّهَ - ذلیل - نرم - وہ - ذلیل

اِذَا لَقَّ - تیز زبان - تیز برہمی جو - خلق

اِذَا مَسَّهَ - ملامت شدہ پانا - ذلیل و خوار کر دینا -

[ب] امان لینا - پناہ دینا -

اِذَا نَ - دربان - ضامن -

اِذَا نَ - برٹے کانوں والا -

اِذَا نَ - (س) سننا [الی] ل -

اِذَا نَ - اجازت، دانست - حکم - ارادہ -

(س) اجازت دینا - جانتا (صلب)

اِذَا نَ - کان - وہ شخص جو کان لگا کر سنے اور مانے

جو - اِذَا نَ (مؤنث ہے)

اِذَا نَ البَرِيدَ (د) پوسٹل آرڈر -

اِذَا نَابَ - گناہ کرنا -

اِذَا نَابَ النَّاسَ - کم مرتبہ لوگ - نوکر چاہتے چلنے والے

اِذَا نَسَتْ - وہ آدمی کو چوکھٹے اس کو صحیح سمجھے -

اِذَا دَاعَ - مہیا دینا -

اِذَا وَابَ - اِذَا وَابَتْ يَكْفَنُ جَوْهَرِيَّ كَالنَّاسِ كَيْفَ يَكْفَنُ دِجْمِيَّ

میں ڈالاجائے -

اِذَا هَابَ - دور کرنا - لے جانا -

اِذَا حَىَّ - تکلیف - پلیدی - رستہ کا کوڑا کرکٹ -

روڑے - پتھر

اِذَا يَالَ - دامن - وہ - ذلیل -

اَدْوِيَالُ النَّاسِ - پچھے چلنے والے -

ا - س

اِرَاعَا - دکھانا -

اِرَابَاة - شک میں ڈانا - اضطراب میں ڈانا -  
نا پسند بات دیکھنا - شک اور تہمت والا  
ہونا -

اِرَاَحَا - ہوا میں آنا [من] بھلائی اور احسان کو  
حاصل کرنا - [علی] حق واپس کرنا -  
راحت دینا - بومحسوس کرنا - بدبودار ہونا  
مڑنا - آرام پانا -

اِرَادَاة - چاہنا

اِلِرَادَاةُ السَّنِيَّةِ (د) فرمان شاہی

اِرَادِل - کھینے - و: اِرْدَل -

اِرَاَس - بڑے سرکا -

اِرَاَقَا - بہانا

اِرَاَك - پیلو کا درخت - زمین کا قلعہ جہ -

اِرَاَك - آسمانیک

اِرَاَصِل - بیوگان - و: اِرَاَمَلَا

اِرَاَيَاك - بہت سے تحت - اِرَاَيَاكَا

اِرَاَب - انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی کا  
درمیان (ص) گرہ مضبوط کرنا -

اِرَاب - (د) عاقل دہوشیار ہونا

اِرَاَبِي - عقل مند

اِرَاَب - عقل مندی - ہوشیاری - مکر - برائی -

عقل - حاجت - فرج - عضو - دین -

اِرَاَب - حاجت - عقل (ص) اِرَاب [حلیص ہونا

معدہ کا فاسد ہونا - زمانہ کا سخت ہونا -

اہر ہونا - بیٹا ہونا (اعضاء کا) ساقل ہونا

گٹا ہوا ہونا -

اِرْتِبَاع - بڑھانا - امید دلانا -

اِرْتِبَاب - پرورش کرنے والے - معبود - و: دِب

اِرْتِبَاَح - نفع دینا -

اِرْتِبَاع - چار ہونا -

اِرْتِبَاة - حاجت - احتیاج - فرج - عقل مندی

حیلہ - بہانا -

اِرْتِبَاَح - چار (مؤنث) کے لئے -

اِرْتِبَاع - چہار شنبہ - جہ - اِرْتِبَاعَات

اِرْتِبَاع - ستون -

اِرْتِبَاة - چار (مذکر) کے لئے

اِرْتِبَاعُون - چالیس (۴۰)

اِرْتِبَاَح - ہر چیز بہت -

اِرْتِبَاَح - سوتیلے ماں اور باپ - سوتیلے بیٹا اور

بیٹی -

اِرْتِبَاَح - زیادہ چڑھا ہوا -

اِرْتِبَاَح - پھینکا (مچھلی)

اِرْتِبَاب - بے پردائی کے بعد سوال کرنا - گھسا ہوا

ہونا -

اِرْتِبَاب - باغ ہونے تک پرورش کرنا -

اِرْتِبَاَت - پرانگندہ ہونا - بکھر جانا -

اِرْتِبَاَط - بندھ جانا - پھنس جانا - گھوڑے کو

"رباط" کے لئے مقرر کرنا - اسے کرایہ پر لینا

اِرْتِبَاع - چار زانو بیٹھنا - گول بدن والا ہونا (ب)

موسم ہمارے مقیم ہونا -

اِرْتِبَاَت - حال میں پھنس جانا - کام میں پڑ جانا -

اِرْتِبَاَك - حال میں تڑپنا - کچھ میں پھنس جانا -

اِرْتِبَاَق - بکارت کا لہستہ ہونا - سمبستری کے لائق

نہ ہونا - مل جانا -

اِرتِجَاء - ڈرنا۔ امید رکھنا۔  
 اِرتِجَاح - چلنے میں عورت کے سر نیوں کا ہلنا۔  
 اِرتِجَاع - عمارت کا ہل جانا۔ گرجنا۔  
 اِرتِجَاع - فروخت کرنے کے بعد قیمت کو فائدہ مند چیز میں صرف کرنا۔  
 اِرتِجَات - کانپنا۔  
 اِرتِجَال - فی البدیہہ کہنا۔ فوراً اور حاضر جوابی سے بات کہنا۔ اپنی رائے میں تنہا ہونا۔  
 اِرتِجَال - اونٹ پر کجاوہ رکھنا۔ کچر کرنا۔  
 اِرتِیخَاص - ارزاں بھینا۔ ارزاں خریدنا۔  
 اِرتِیْدَاء - چادر اوڑھنا۔ پرتلہ ڈالنا۔  
 اِرتِیْدَاء - پھر جانا۔ بے دین ہوجانا۔  
 اِرتِیْدَاع - ٹھہرنا۔ ڈرنا۔  
 اِرتِیْدَات - چھپے سوار کرنا۔ چھپے سوار ہونا۔ چھپے چکھوتا۔  
 اِرتِیْرَاق - د - نوکری کرنا۔  
 اِرتِیْسَاء - حکم ماننا (ل) ٹھیکر کرنا۔ پناہ ڈھونڈنا  
 روک دینا۔ دعا کرنا۔  
 اِرتِیْسَاء - رشوت لینا۔  
 اِرتِیْسَاف - چوسنا۔  
 اِرتِیْسَاق - چھٹنا مضبوط ہونا۔  
 اِرتِیْقَاء - پسندیدہ اور برگزیدہ کرنا۔  
 اِرتِیْعَاب - ڈرنا۔  
 اِرتِیْعَاج - کانپنا۔  
 اِرتِیْعَاد - بے قرار اور بے چین ہونا۔ کانپنا۔  
 اِرتِیْعَاس - کانپنا۔  
 اِرتِیْعَاش - کانپنا۔  
 اِرتِیْعَاص - پیچ و تاب کھانا۔ ہلنا۔ خوشی سے اُھلنا۔

بکھرا ہوا ہونا۔ ترخ کا گراں ہونا۔  
 اِرتِیْعَاب - (فنی) خواہش کرنا۔ رغبت کرنا۔  
 اِرتِیْعَاع - بلند کرنا۔ بلند ہونا۔ مدعا علیہ کے ساتھ حاکم کے پاس جانا۔  
 اِرتِیْقَاء - سیر طہی پر چرھنا۔  
 اِرتِیْقَاب - راہ دیکھنا۔  
 اِرتِیْکَاب - سوار ہونا (بڑے کام کو) اختیار کرنا۔  
 اِرتِیْسَاء - ایک دوسرے پر تیر چھینکا۔ چھینکا۔ گرجانا۔  
 اِرتِیْهَان - گروی رکھنا۔  
 اِرتِیْیَاب - شک کرنا (ب) تہمت لگانا۔  
 اِرتِیْیَاح - خوش ہونا۔ خوشی کرنا۔ مصیبت سے بڑی دینا۔ راحت دینا۔  
 اِرتِیْیَاد - ڈھونڈنا۔ تلاش کرنا۔  
 اِرتِیْیَاص - سدھ جانا۔ مطیع ہوجانا۔  
 اِرتِیْیَاف - میراث۔ اصل۔ پرانی مودوں کی چیز۔ رکھ  
 آرتِج - (ن) درغلانا۔ اچھارنا۔  
 آرتِج - خوشبو (س) خوشبو پھینکا۔  
 آرتِجَاء - کنارے۔ و۔ رَجَا  
 اِرتِجَاء - کام کو مہلت اور تاخیر میں ڈالنا۔ شکار کی کے ہاتھ شکار نہ لگنا۔  
 آرتِجَاب - انتروپاں۔  
 اِرتِجَاح - مائل اور راج کرنا۔  
 اِرتِجَاع - پھیر دینا۔  
 اِرتِجَاف - زلزلہ آنا۔ ہلانا۔ کپھانا۔ لوگوں کو بڑبگھینا  
 کرسنے کے لئے بری چیز میں پھیلانا  
 آرتِجَاف - گڑھی ہوئی خبر۔ ج۔ :-  
 آرتِجَاف - آرتِجَاف۔  
 اِرتِجَال - چھوڑ دینا۔ مہلت دینا۔ پیادہ پا کر دینا۔

اِرْجَوَان - سَرخ - ایک بہت سرخ رنگ - سرخی - ایک  
 درخت سرخ پھولوں کا - ارغوان کا معرب -  
 اِرْجَوَان - جھولا -  
 اِرْجَوَان - طوطی کی مہولی چیر -  
 اِرْجَوَان - وہ شخص جس کا پورا پاؤں زمین سے لگتا ہو  
 ضد اخص -  
 اِرْجَوَان - فراخ کرنا - فراخ ہونا -  
 اِرْجَوَان - کسی کو سوار کی جا بھرا دینا -  
 اِرْجَوَان - برادر ہم کرنے والا - اِرْجَوَان -  
 رشتہ دار -  
 اِرْجَوَان (ن) تاریخ لکھنا -  
 اِرْجَوَان - سست اور نرم کرنا - رسی لمبی کرنا -  
 پردہ لٹکانا - تیز لٹکانا -  
 اِرْجَوَان - فرخ کا سستا کرنا  
 اِرْجَوَان - سستا کرنا -  
 اِرْجَوَان - پیچھے پیچھے جانا کسی کو کسی کے ساتھ سوار  
 کر دینا - ایک کا دوسرے کے پیچھے  
 آنا -  
 اِرْجَوَان - اسفندیار کے بیٹے بہمن کا لقب -  
 خشتناک -  
 اِرْجَوَان - بیمار اور سست کرنا - ہلاک کرنا -  
 مشقت  
 میں ڈالنا -  
 اِرْجَوَان - ذلیل اور کمینہ کر دینا - کمینوں کا دوست ہونا -  
 اِرْجَوَان - کمینہ اور بیخ ذات آدمی - زیادہ بد ذات -  
 جہ - اِرْجَوَان -  
 اِرْجَوَان - آخر عمر میں عقل کم ہو جاتی ہے مثلاً  
 ۵۵ سال یا ۸۰ تو سے سال -  
 اِرْجَوَان - اِرْجَوَان - سدا - چاول -  
 اِرْجَوَان - گرج کر زور سے آواز کرنا -

اِرْجَوَان - لرزہ - برف کے مشابہ اولے - نیزہ کا  
 خیم  
 اِرْجَوَان - جگہ پر گھومنا اور مضبوط ہونا کشتی یا جہاز  
 کو بند کرنا اور کرنا - قائم کرنا -  
 اِرْجَوَان - ثابت اور پائیدار کرنا -  
 اِرْجَوَان - بھیجنا - چھوڑ دینا - رہا کرنا - پیغام دیکر  
 بھیجنا -  
 اِرْجَوَان - نام حکیم یونانی کا جو سکندر کا استاد  
 تھا -  
 اِرْجَوَان - شخصی سلطنت -  
 اِرْجَوَان - رشوت تیاوان جہ - اِرْجَوَان  
 (ن) ہلکانا - عطا کرنا -  
 اِرْجَوَان - رشوت دینا - ڈول میں رسی باندھنا  
 راستہ دکھانا -  
 اِرْجَوَان - ایک پہاڑ (ہلکا میدان) برسانا -  
 اِرْجَوَان - چوستنا  
 اِرْجَوَان - نظر کو جانا - تیر کو سامنے کی طرف چلانا -  
 اِرْجَوَان - بہت سیدھا اور بہت قریب راستہ  
 (مقصد کی طرف)  
 اِرْجَوَان - بہت اچھے قدم والا -  
 اِرْجَوَان - گھات لگانا دل میا کرنا دل بدل دینا  
 آدھ ہونا -  
 اِرْجَوَان - (مؤنث) (جنس) زمین - جہ - اِرْجَوَان  
 اِرْجَوَان - اِرْجَوَان -  
 اِرْجَوَان - راضی کرنا - چیر دے کر خوش کرنا -  
 اِرْجَوَان - عودت کا پتہ کو چھاتی سے دودھ پلانا -  
 اِرْجَوَان - ویک جہ - اِرْجَوَان  
 اِرْجَوَان - (د) ڈیرج - پارسل کے میعاد مقررہ کے  
 بعد پڑے رہنے کا محصل -

اِرْتِطَاء - لڑکی کا بالغ ہونا  
 اِرْتِطَه - (د) بٹالین - دستہ فوج -  
 اِرْتِعَاد - ڈرانا - براہِ عہد کرنا - روک کر پہلی کا کرنا  
 لڑوہ آجانا (جمہولاً)  
 اِرْتِعَاس - اِسْتِعَاش - اِسْتِعَاص - کپ کپا دینا -  
 اِرْتِعَاف - تیز کرنا - ابھارنا - جاری کرنا - فلم میں  
 روشنائی کا زیادہ ہونا -  
 اِسْتِعَاء - دودھ کا جھاگ لے آنا - زیادہ کرنا -  
 اِرْتِعَاب - راغب کرنا - طلب گار کرنا -  
 اِسْتِعَاہ - غصہ کرنا - ناک کو خاک آلودہ کرنا -  
 خاک میں ملانا -  
 اِرْتِعْن - (د) آرگن (باجر)  
 اِرْتِعَات - ریزے ریزے ہونا  
 اِرْتِعَاق - نفع پہنچانا - نرمی کرنا -  
 اِسْتِعَاہ - آسودہ اور تن آسان رکھنا - پانی پر لے  
 آنا -  
 اِرْتِعَات - کٹنا - ریزہ ریزہ ہونا -  
 اِرْتِعِضَاض - بھرتا اور پریشان ہونا - چلنا -  
 بہنا -  
 اِسْتِق - رات کی بیداری (س) رات کو بیخواب  
 اور بیدار رہنا -  
 اِسْتِقَاء - غلام - د - رَقِیْب  
 اِسْتِقَاد - سلانا - مقیم ہونا -  
 اِسْتِقَاع - رکھنے کے لائق ہونا - حماقت  
 کا کام کرنا -  
 اِسْتِقَاق - چٹکارنا - غلام بنانا - برے حال سے  
 ہونا -  
 اِرْتِقَاہ - لکھنا -  
 اِسْتِقْم - بدترین ساتپ شکر اسانپ - کوڑیا لا  
 کرنا -

اِرْتِکَاب - سواری کا جانور عطا کرنا (بھیجے کا)  
 سواری کے لائق ہونا -  
 اِرْتِکَاذ - زمین میں سے دفینہ یا کان کا مال حاصل  
 کرنا - کان میں سونے چاندی کے  
 ٹھوسوں کا ہونا -  
 اِرْتِکَاس - پھیلی حالت پر رد کر دینا - اوندھا کر دینا  
 لڑکی کی چھتیاں اُبھارنا - شروع  
 ہونا -  
 اِسْتِکَب - بڑے گھٹنے والے -  
 اِسْتِہ - پتھر جو نشان راہ کے طور پر میدان میں  
 نصب ہو - قوم عاد کے آثار - ایک  
 قبیلہ کا نام جو اِرْم بن سام بن نوح  
 کی طرف منسوب ہے (فستران میں  
 آخر معنی مراد ہیں) -  
 اِسْتِصَاء - پھینکنا - جلا وطن کرنا -  
 اِسْتِصَال - عورت کا بیوہ ہونا - یورپ کو باریک  
 بننا - سفر میں محتاج ہو جانا -  
 اِسْتِصَاد - خاکستری رنگ کا جس کی آنکھیں دکھتی  
 ہوں - چن دھیا -  
 اِسْتِصَال - زنبو - محتاج - جہ - آرا و سل  
 آرا و سل  
 اِرْتِصَلَة - بیوہ عورت جو غریب و مفلس ہو  
 جہ - آرمیل - اِرْتِصِل  
 اِسْتِصَال - سائن بورڈ  
 اِسْتِصَان - ارمنی قوم -  
 اِسْتِصَاب - خرگوش -  
 اِسْتِصَاء - میراب کرنا - شعر نقل کرنے پر مقرر  
 کرنا -



اِذْوَا ح - بوسو گھنا۔ شکار کا آدمی کی بو کو معلوم کر لینا (بانی کا) بدبودار ہو جانا۔

اِذْوَا ح - جلنے میں دونوں پاؤں کشادہ رکھنے والا۔

اِذْوَا ح - اپنی شجاعت سے یا اپنے حسن و جمال سے تعجب میں ڈال دینے والا۔ ج۔

## رُذُوعٌ

اِرْوَمَةٌ - درخت وغیرہ کی جڑ۔ ج۔ اِرْوَمٌ  
اِرْهَابٌ - ڈرانا۔ اونٹ پر سوار ہو جانا۔ آستین کا لمبا ہونا۔

اِرْهَاقٌ - نافروانی پر اُبھارنا۔ تاخیر کرنا۔ پالیتا۔ دق کرنا۔ مشقت میں مبتلا کرنا۔

اِرْهَاقٌ - لگا تار بونڈا باندی ہونا۔

اِرْهَاقٌ - گروی کرنا۔ ثابت اور قائم رکھنا۔ بست کرنا۔ تیر میں لٹ دینا۔

اِرْهَاقٌ - د۔ گاؤں۔ دریا کے کنارے کے زرخیز کھیت۔

اِرْهَاقٌ - عقلمند۔ دانا۔

اِرْهَاقٌ - تخت جس پر تکیہ لگا ہوا ہو۔ ہر وہ چیز جس پر بیٹھنے کے لئے تکیہ لگایا گیا ہو۔ آراستہ نشست گاہ ج۔ آراستہ

## اِرْهَاقٌ

## اِرْهَاقٌ

اِرْهَاقٌ - (دن) کسی کام پر بھارنا۔ اٹلی کا جوش مارنا  
اِرْهَاقٌ - ساتھ کسی چیز کے مقابل۔

اِرْهَاقٌ - کام کو تمام کرنا۔ انجام کو پہنچانا۔ جگہ سے ہٹانا۔ مائل کرنا۔

اِرْهَاقٌ - زیارت پر رنجش کرنا۔

اِرْهَاقٌ - پھر دینا سچ کہ دینا۔

اِرْهَاقٌ - دور کرنا۔ جگہ سے پھیرنا۔ ہٹانا۔

اِذْآئِنَہ - آراستہ کرنا۔

اِذْآئِنَہ - بہت بالوں والا۔ فراموشی اور زانی کاسال ہر ایک سسے کا نیزہ۔

اِذْآئِنَہ - جھڑکن۔

اِذْآئِنَہ - تجھ کو کرنا۔ جمع ہونا۔

اِذْآئِنَہ - حقیر سمجھنا۔

اِذْآئِنَہ - دلہن کو خاندان کے گھر بھیجنا۔ بوجھ اٹھانا

اِذْآئِنَہ - آپس میں ہم نشین ہونا۔ باہم جوڑا ملانا۔

اِذْآئِنَہ - زیارت کرنا۔

اِذْآئِنَہ - زیادہ ہونا۔

اِذْآئِنَہ - حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد یا چچا کا نام۔

اِذْآئِنَہ - غضب کرنا۔ عقاب کرنا۔ عیب بیان کرنا۔

اِذْآئِنَہ - عیب ناک کرنا۔ ذلیل و خوار اور حقیر سمجھنا۔

اِذْآئِنَہ - کھیتی کا بڑھنا۔ کھیتی پر قدرت پانا۔

اِذْآئِنَہ - آنکھ کا کسی طرف پھرنا اور اس کی سپیدی کا ظاہر کرنا۔

اِذْآئِنَہ - نیلگوں۔ مگر جھٹیم۔ نا بینا۔ ج۔ ذُرُقٌ نہایت صاف۔

اِذْآئِنَہ - اٹھا کرنا۔ بے آرام کرنا۔

اِذْآئِنَہ - امیدوار کرنا۔ حریفوں کو کرنا۔ فراموشی کرنا۔ قابو میں ہونا۔

اِذْآئِنَہ - اِرْوَفٌ۔ رس، کوپڑ کا وقت قریب آنا جلدی کرنا۔ ووٹنا۔

اِذْآئِنَہ - سرعت پر اُبھارنا۔ سرعت سے اٹکنا دفع کرنا۔ دلہن کو شوہر کے گھر پہنچانا۔

اِذْآئِنَہ - قیامت۔

اِذْآئِنَہ - بہت پاکیزہ۔

اِذْآئِنَہ - ہلشہ۔ زمانہ جس کا شروع نہیں۔

پہنچانا۔ قبل نکاح زیور وغیرہ دینا۔  
 اِسَالَۃ - بہانا۔ نیزے کے ٹوک کا کہا کرنا۔  
 اِسَامَۃ - قیمت کو گرا کرنا۔ قیمت پوچھنا۔ چرانا  
 والی نظر ڈالنا۔

اِسَاوِس - کنگن و :- سیواس۔  
 اِسَبَاب - ذرائع۔ علاقے و :- سَبَب  
 اِسْبَاط - فرزندان یعقوب علیہ السلام و :-  
 سِبْط - بمعنی پوتا۔ قبائل یہود۔  
 اِسْبَاع - پورا کرنا یا مکمل کرنا۔  
 اِسْتِبَال - بارش کا مسلسل ہونا۔ افسوں کا تار بند ہونا  
 تہہ بند ٹھٹھنے سے نیچے بکرا دیکھنا یا راستہ  
 کا بہت جاری ہونا۔ [علیٰ کسی پر بہت  
 زیادہ کلام کرنا۔

اِسْتِوَع - ہفتہ جز :- اَسَا بَیج۔

اِسْتِ

اِسْتَاذ - (د) پروفیسر۔

اِسْتَاَس - ڈیڑھ تولہ چار۔

اِسْتَاۃ - قسطنطنیہ۔

اِسْتِیَاب - باہم کالی گھوج کرنا۔

اِسْتِیَاۃ - مباح کرنا۔ مباح پانا۔ جڑ سے اکھاڑنا۔

اِسْتِیَاعۃ - بیع کی خواہش کرنا۔ کسی سے گناہ کہ یہ

چیز ہمارے ہاتھ بیچ دو۔

اِسْتِیَاق - ایک دوسرے پر سبقت کرنا۔ باہم تیرا تیرا  
 کرنا۔ بھڑونا۔

اِسْتِیْبَاۃ - پیشاب لگنا۔

اِسْتِیْبَاۃ - ظاہر اور عیاں کرنا۔

اِسْتِیْحَاث - کسی امر میں کاوش کرنا۔ تفتیش کرنا۔

اِسْتِیْحَاذ - فراخ اور کشادہ مثل بھر کے ہوجانا۔

اِسْتِیْبَاد - بذاتِ خود تنہا کسی کام کے لئے کھڑا ہونا

اِسْتِیْلَاف - قریب کرنا۔  
 اِسْتِیْلَاق - پھسلانا یا تیر نظر سے دیکھنا۔  
 اِسْتِیْکَال - پھسلانا۔ ڈنگا دینا۔ گناہ پر برائی سمجھتے  
 کرنا۔

اَزْلَاح - فال نکلنے کے تیر۔ و :- ذَکَم۔

اِزْتِمَال - کپڑے کو پہنا اور اس میں لپٹنا۔

اِزْتِمَان - بہت زمانہ گذرانا۔ باہر کج کر دینا۔

اَزْمِیذ - سمرنا۔ ترکی شہر۔

اِسْتِوَاۃ - جوڑے۔ اقران و :- زَوْج۔

اِسْتِہَاق - باطل کو نیست و نابود کر دینا۔ تیر کو نشانہ  
 سے گزاردینا۔ برتن کا پڑ کرنا۔

اَزْهَر - سفید۔ روشن۔ کرم کے سبب بارونق

اور روشن چہرہ۔

اَزِیْز - سردی۔ سرد۔ شدت سیر بجلی کی کرک۔

دیگ کی آواز۔

اِس

اَسَا، اَسَمی - رنج۔ غم۔

اَسَاۃ - برائی کرنا۔

اَسَاۃ - اَسَاۃ - تکیہ۔

اَسَاوُن - ایک گھاس کی جڑ کہ دواؤں میں مستعمل  
 ہے۔

اَسَاۃ - قیدی۔ و :- اَسِیْر۔

اَسَاۃ - چہرہ کی خوبی اور دونوں رخساروں کی  
 خوب صورتی۔

اَسَاۃ - بنیاد۔ جڑ۔

اَسَاۃ - ح۔ بنیادی، اصلی۔

اَسَاۃ - کہانیاں۔ قصے و :- اَسْطُوۃ۔

اَسَاۃ - ہانکنے کے لئے اونٹ دینا۔ دھن کو مہر

اِسْتِثْنَاء - انعام چاہنا۔ دیا ہوا مال مانگنا۔	ح۔ کسی یا شاہ کی خوردائی و طلق العنانی
اِسْتِثْنَاء - بدل چاہنا۔	اِسْتِبْدَاع - نادر سمجھنا۔
اِسْتِثْنَاء - برائیگنہتر کرنا۔ اِجْزَاؤا۔	اِسْتِبْدَال - بدل میں لینا۔ بدل میں چاہنا۔
اِسْتِثْنَاء - ثبوت طلب کرنا۔ ڈھیل دینا۔	اِسْتِبْرَاء - حق کی تحقیق کرنا۔ حیض تک ترک جماع
اِسْتِثْنَاء - مرض کا غلبہ کرنا۔	کرنا۔ پیشاب کے بعد استنجی کرنا۔ بیزاری
اِسْتِثْنَاء - چوس لینا۔ خشک ہونا۔ بھلائی اور احسان کا طالب ہونا۔	چاہنا۔
اِسْتِثْنَاء - پھل چھیننا۔	اِسْتِبْرَاد - سرد پانا۔ سرد سمجھنا۔
اِسْتِثْنَاء - قاعدہ عام سے نکالنا۔ قسم میں انشاء اللہ کہنا۔	اِسْتِبْرَاف - باہر نکالنا۔
اِسْتِثْنَاء - جواب دینا۔ قبول کرنا۔ ماننا۔	اِسْتِبْرَق - گھٹ دار ریشمی کپڑا۔ ویسا کسوٹے کے تاروں سے بنی ہوئی ہو۔
اِسْتِثْنَاء - کسی چیز کو اچھا پانا۔ عمدہ جاننا۔ عمدہ چیز طلب کرنا۔ تیز رو گھوڑا مانگنا۔	اِسْتِیْسَال - مارنے یا مرنے کے لئے لڑائی میں گھسنا۔
اِسْتِثْنَاء - پناہ چاہنا۔	اِسْتِیْنَاد - [ب] اچھی چیز پر خوش ہونا۔ بشارت پانا۔
اِسْتِثْنَاء - اجازت چاہنا۔ صلہ مانگنا۔	اِسْتِیْقَاد - غور کرنا۔ سمجھنا۔ ظاہر ہونا۔
اِسْتِثْنَاء - لشکر طلب کرنا۔	اِسْتِیْقَاء - ویر لگانا
اِسْتِثْنَاء - بہت بھوکا ہونا۔ اپنے آپ کو ہر وقت بھوکا ظاہر کرنا۔	اِسْتِیْقَاء - زندہ اور باقی چھوڑنا۔ شرم رکھنا [من] بعض کو چھوڑ دینا۔
اِسْتِثْنَاء - کشادہ ہونا۔ جوف دار پانا۔	اِسْتِیْقَاد - دُور جانا۔ بعید سمجھنا۔
اِسْتِثْنَاء - فقیری کے بعد خوشحال اور دولت مند ہونا	اِسْتِیْقَاء - رلانا۔
اِسْتِثْنَاء - نیا کر دینا۔ نیا ہونا۔	اِسْتِیْلَال - بیماری سے صحت پانا۔ بعد لازی اور سختی کے تندرست ہو جانا۔
اِسْتِثْنَاء - بہ تکلف جری بننا۔	اِسْتِیْہَاج - خوش ہونا۔
اِسْتِثْنَاء - عیب دار ہونا۔ قاسد ہونا۔	اِسْتِیْہَاہ - گونگا ہو جانا۔ بات نہ کر سکا۔ مشتہ اور غیر واضح ہونا۔
اِسْتِثْنَاء - کسی کو اپنے اوپر قدرت دینا۔ بس میں ہو جانا۔ کھینچنا۔	اِسْتِیْتَاد - پوشیدہ ہونا۔ پردہ میں ہونا۔
اِسْتِثْنَاء - کھیتی کا کٹنے کے قابل ہونا۔	اِسْتِیْتَاع - پیروی کرنے کی خواہش کرنا۔
اِسْتِثْنَاء - سخت سمجھنا۔	اِسْتِیْتِاف - بدکار اور نافرمان ہو جانا۔
اِسْتِثْنَاء - کسی چیز کو کسی جگہ سے کھچوا ہٹانا۔	اِسْتِیْتَاء - کسی کے پیچھے پیچھے چلنے کی خواہش کرنا۔
اِسْتِثْنَاء - سنگریزوں سے استنجی کرنا۔ دار الحرب	اِسْتِثْمَام - پورا کرنا۔ پورا کرنے کی خواہش کرنا۔

اِسْتِحْصَاد - تھک جانا۔	میں مقیم ہونا [علی] جمع ہونا۔
اِسْتِحْصَان - نیک اور اچھا جانا۔ پسند کرنا۔	اِسْتِجْمَاع - جمع ہونا۔ سمٹ آنا۔
اِسْتِحْشَاشِي - (ماحقہ کا) اہل ہونا۔ پیاسا ہونا (شاخ کا) دراز ہونا۔ بازو کا موٹا ہو کر پھیلنے کی تیلا ظاہر کرنا۔	اِسْتِجْمَاع - زمین کا گھاس سے چر ہوجانا۔ پانی کا بہت ہونا۔ اکٹھا ہونا۔ تکان دور کرنا۔
اِسْتِحْشَاف - خشک ہونا۔ سکوٹا۔ پرانے کپڑے مینا	اِسْتِجْمَاب - جنبی ہونا۔ منی کا نکلنا۔
اِسْتِحْصَاد - غصہ کرنا۔ فصل کا کاٹنے کے قابل ہونا	اِسْتِجْمَاح - جھک آنا۔ نائل کرنا۔
اکٹھا ہونا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا	اِسْتِجْمَان - رعن [پرشیدہ ہونا۔ خوشی کی طرف بلانا۔ دلوانا ہونا (مجبولاً)]
مضبوط بنا ہونا۔	اِسْتِجْمَال - نادان جانا۔ ذلیل سمجھنا۔ ذلت پہنچنا
اِسْتِحْصَاف - مضبوط ہونا [علی] سخت ہونا۔	اِسْتِحْصَاس - مرغ کا سحر کے وقت اذان دینا۔
تنگ اور خشک ہونا۔	اِسْتِحْجَارَة - جواب مانگنا (مادہ حور) مقہر ہونا [ب] پانی سے بھرتا خوشگوار ہونا (مجبولاً) مادہ حیر۔
اِسْتِحْصَاس - بلانا (گھوڑا) دوڑانا آپے میں آنا۔	اِسْتِحْجَاف - ہوا کا ابرو اڑا کر لے جانا۔
اِسْتِحْطَاب - درخت کی شاخیں تراشنے کے قابل ہونا	اِسْتِحْجَالَة - پہلی حالت سے پھرجانا۔ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف پھرتا۔ مشکل ہونا۔ مشکل جانا۔
لکڑیوں کی خواہش کرنا۔	اِسْتِحْجَاب - درست کرنا۔ پسند کرنا۔
اِسْتِحْصَاف - خیر پوچھنا۔ [عن] پوچھنے میں کوشش اور اصرار کرنا۔	اِسْتِحْصَاف - ایک دوسرے کے من پر تکان ڈالنا (مستی لاریم)
اِسْتِحْصَاس - کھودنے کی خواہش کرنا۔ کھودنے کے لائق ہونا۔	اِسْتِحْجَان - مرا لکھینہ کرنا۔
اِسْتِحْصَاف - یاد کرنا۔ یاد کرنے کی خواہش کرنا۔	اِسْتِحْجَاف - (گوشت کا) بودار ہوجانا۔
تکجبان جانا۔	اِسْتِحْجَاب - دربان جانا۔ درباری کا خواستگار ہونا
اِسْتِحْصَاف - سارا مال لے لیسنا۔	اِسْتِحْجَار - اپنے لئے تجرہ بنانا [علی] دلیر ہونا مٹی کا پتھر کی مانند ہوجانا۔
اِسْتِحْصَاب - ذخیرہ جمع کرنا۔	اِسْتِحْجَاث - نیچ چیر لانا۔ نیا پانا۔
اِسْتِحْصَاس - حقیر سمجھنا۔ ذلیل کرنا۔	اِسْتِحْجَاد - تیر کرنا۔ باڑ رکھی۔ غضبناک ہونا۔
اِسْتِحْصَاف - لائق ہونا۔ مستحق ہونا۔	موتے زیر ناز کو استرہ سے صاف کرنا
اِسْتِحْصَاك - کھلی اٹھنا۔ کھانے کی خواہش کرنا۔	اِسْتِحْصَاس - (لڑائی) گرم ہونا۔ زیادہ ہونا۔ سخت ہونا
اِسْتِحْصَاك - مضبوط ہونا۔	اِسْتِحْصَاد - حرمت عزت والا ہونا۔ حرام سمجھنا۔
اِسْتِحْصَال - شیریں سمجھنا۔	
اِسْتِحْصَاب - کسی سے دودھ دوہنا۔	
اِسْتِحْصَاف - گھاس کا گنجان ہونا۔ ہر وقت خوفزدہ	

اِسْتِحْبَاد - خبر پوچھنا۔  
اِسْتِحْدَاد - خدمت کرنا۔ خدمت لینا۔ خادم چاہنا  
اِسْتِحْدَاء - [ل] عاجزی کرنا اور فرما بردار ہونا  
اِسْتِحْضَاء - مصیبت کی وجہ سے شکستہ ہو جانا۔  
[ال] آرزو مند ہونا۔  
اِسْتِحْضَاء - باہر نکال لانا۔ نکالنے کی خواہش کرنا  
اِسْتِحْضَاء - رونے میں مبالغہ کرنا۔ بہت رونا۔  
اِسْتِحْضَاء - غم میں جانا۔  
اِسْتِحْضَاء - کسی چیز کو کھور پانا۔  
اِسْتِحْضَاء - اپنے خواص میں سے بنا لینا۔  
اِسْتِحْضَاء - پوشیدہ ہونا۔  
اِسْتِحْضَاء - ذلیل و خوار قرار دینا۔  
عقل کھو دینا۔  
اِسْتِحْلَاف - خالی ہونا۔ خلوت چاہنا۔  
اِسْتِحْلَاف - کھیتی کاٹنا۔ قطع کرنا۔  
اِسْتِحْلَاف - اپنے لئے خاص کرنا۔ رٹائی ڈھونڈھنا  
اِسْتِحْلَاف - کسی کو اپنا جاننشین کرنا۔ تخلیق بنانا  
حاکم بنانا۔  
اِسْتِحْضَاء - زبردستی اپنی غلامی میں لینا۔ بکثرت  
شراب پینا۔  
اِسْتِحْضَاء - کوئیں کا بد بودار ہو جانا۔  
اِسْتِحْوَال - اپنا نوکر چاکر بنا لینا۔ پتیا ہوں بنا لینا  
اِسْتِدَاء - [رائی] لبا لبا تھکرنا [ب] کھینا۔  
پسینہ لے آنا۔  
اِسْتِدَاد - سیدھا ہونا۔ مضبوط ہو جانا۔  
اِسْتِدَاد - پھرتا۔ گھومنا۔  
اِسْتِدَامَة - ہمیشہ رکھنا۔ ہمیشگی چاہنا۔ نرمی کرنا  
تاخیر کرنا۔  
اِسْتِدَانَة - قرض لینا۔

رہنا۔ پانی پینا۔  
اِسْتِحْلَاف - [ب] قسم دینا۔  
اِسْتِحْلَاق - عورت یا گدھی کا جماع سے سیر ہونا  
اور حاملہ نہ ہونا۔  
اِسْتِحْلَال - حلال کر لینا۔ حلال جانا۔ حلال کرنے  
کی خواہش کرنا  
اِسْتِحْضَاء - غصہ کی وجہ سے بیچرک اٹھنا  
اِسْتِحْضَاء - ترش پانا۔  
اِسْتِحْقَاق - احمق اور بیوقوف ہونا۔ حماقت کا کام کرنا  
کسی کو احمق جانا۔  
اِسْتِحْجَال - بوجھ اٹھوانے کی خواہش کرنا۔  
اِسْتِحْمَار - پسینہ لے آنا۔ گرم پانی سے غسل کرنا۔  
حمام میں جانا۔  
اِسْتِحْنَاد - دھوپ میں کودنے کے بل لینا تاکہ کسبہ  
آوے۔  
اِسْتِحْنَاب - مرنے پر دلیر ہونا۔  
اِسْتِحْنَاك - کم کھانے کے بعد بہت کھانے لگنا۔  
اِسْتِحْنَان - بہت خوشی کرنا۔  
اِسْتِحْوَاد - غالب ہونا۔ کسی کو قابو میں کرنا۔  
اِسْتِحْوَاس - رگ جانا۔ کاہلی کرنا۔  
اِسْتِحْوَاف - حوض کی شکل میں پانی جمع ہونا۔ اپنے  
لئے حوض بنانا۔  
اِسْتِحْيَاء - زندہ اور باقی چھوڑنا بشرم کرنا۔  
حیا کرنا۔  
اِسْتِحْرَاء - دوام میں سے بہتر کو چاہنا۔ جلائی  
ڈھونڈھنا کسی سے کسی پر مہربانی کرنا۔  
اِسْتِحْزَالَة - غرور اور بڑائی ظاہر کرنا۔  
اِسْتِحْزَانَة - خائف جانا۔  
اِسْتِحْضَاء - خیمہ بلند کرنا۔ خیمہ میں آنا۔

اِسْتِدْبَارِ۔ بعد میں اس چیز کا معلوم ہونا جو شروع سے معلوم نہ تھی۔ اختیار کرنا۔ پیچھے پھیرنا۔  
 اِسْتِدْبَارِج۔ پیچھے چلنا۔ فریب دینا۔ گرویدہ کرنا۔  
 ہر چیز کے بڑھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندگی کی آزمائش کے لئے ہمت دینا۔  
 اِسْتِدْبَادِ۔ دودھ کی کثرت ہونا۔ دودھ کی خواہش کرنا۔  
 اِسْتِدْبَاغِ۔ بڑی کا بدلہ نیکی سے دینا۔ کسی بات کی تلافی کرنا۔ تدارک کرنا۔ اصلاح کرنا۔  
 اِسْتِدْبَاعِ۔ بلانا۔  
 اِسْتِدْبَاغِ۔ گرم کپڑا پہننا۔  
 اِسْتِدْبَاعِ۔ دفع کرنے کی خواہش کرنا۔  
 اِسْتِدْبَاعِ۔ کام کا مکمل اور ٹھیک ٹھاک ہونا۔  
 جب اُسے زینت کو صاف کرنا۔  
 اِسْتِدْبَاعِ۔ باریک ہونا۔  
 اِسْتِدْبَاعِ۔ دلیل مانگنا۔ دلیل لانا۔  
 اِسْتِدْبَاعِ۔ قرص دار سے اپنا حق نرمی سے مانگنا۔  
 اِسْتِدْبَاعِ۔ قریب ہونے کی خواہش کرنا۔  
 اِسْتِدْبَاعِ۔ [ب] پناہ لینا۔ (درخت کے سایہ میں آنا۔)  
 اِسْتِدْبَاعِ۔ [ب] کسی کی آرمی میں ہونے کو وسیلہ بنانا۔  
 اِسْتِدْبَاعِ۔ گرم ہونا۔ گرم ہونے کی خواہش کرنا۔  
 اِسْتِدْبَاعِ۔ کسی چیز کا موجود ہونا اور آسانی سے ہاتھ لگنا۔ کام کا بنا بنایا ہونا۔  
 اِسْتِدْبَاعِ۔ یاد کرنا۔ پڑھنا پڑھانا۔ نگاہ دکھنا۔  
 اِسْتِدْبَاعِ۔ ذلیل جاننا۔ نرم کر لینا۔  
 اِسْتِدْبَاعِ۔ ڈھونڈ لینا۔  
 اِسْتِدْبَاعِ۔ قابلِ ملامت ہونا۔

اِسْتِدْبَارِ۔ کام کا پورا اور درست ہونا پیچھے چلنا۔  
 اِسْتِدْبَارِ۔ جانے کی اجازت چاہنا۔ جانے کی خواہش کرنا۔  
 اِسْتِدْبَارِ۔ [ب] بھلا دینا۔  
 اِسْتِدْبَارِ۔ اختیار کرنا۔ پسند کرنا (مادہ سرو) رات کو چننا (مادہ سری)۔  
 اِسْتِدْبَارِ۔ دیکھنا۔ جاننا۔ دیکھنے کی خواہش کرنا۔  
 مشورہ طلب کرنا۔  
 اِسْتِدْبَارِ۔ [ب] کسی میں شک کی ڈالنے والی بات دیکھنا۔  
 اِسْتِدْبَارِ۔ سست پانا۔ سست سمجھنا۔ تاخیر کرنا۔  
 تاخیر چاہنا۔  
 اِسْتِدْبَارِ۔ راحت پانا۔ راحت تلاش کرنا۔ آسودہ ہونا۔ سو گھٹنا۔  
 اِسْتِدْبَارِ۔ فراخ ہونا اور سیراب ہونا خوش دل ہونا پسند آنا۔  
 اِسْتِدْبَارِ۔ لقمہ کو نگل جانا۔  
 اِسْتِدْبَارِ۔ حیران و پریشان ہونا۔  
 اِسْتِدْبَارِ۔ چرانا۔ چھپ کر کسی بات پر کان لگانا۔  
 اِسْتِدْبَارِ۔ (گھاس کا) بڑھنا۔ دماڑ ہونا۔  
 اِسْتِدْبَارِ۔ تہہ جہنا۔ بلند ہونا۔ سیر و سفر پر قادر ہونا۔  
 اِسْتِدْبَارِ۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَيْہِ رٰجِعُوْنَ کہنا۔  
 رومی چیز کو پھیر لینا۔  
 اِسْتِدْبَارِ۔ کسی سے کوچ کی اجازت لینا۔  
 اِسْتِدْبَارِ۔ سست ہونا۔ ٹپک پڑنا۔ ٹھکانا۔  
 حسرتی۔ نرمی۔  
 اِسْتِدْبَارِ۔ ارزاں سمجھنا۔ ارزاں چاہنا۔  
 اِسْتِدْبَارِ۔ لوٹنا۔ نیکی خواہش کرنا۔

استزاداف - روین پینے کی یعنی سواری پر پیچھے بیٹھنے کی خواہش کرنا۔

استزادال - کسی کو گھینے اور تابل پانا۔

استزاداع - کسی کو ذلیل اور ضعیف شمار کرنا۔

استزادال - بالوں کا لٹکا ہوا ہوتا۔ خوش دلی کرنا اور انس کرنا۔ انس تلاش کرنا۔

استزاداء - رشوت چاہنا۔ اطاعت کرنا۔ رضا مندی تلاش کرنا۔

استزاداء - خوشنودی چاہنا۔

استزاداع - دودھ پلانے والی چاہنا۔ کسی سے دودھ پلانے کو کرنا۔

استزاداع - حفاظت کرنا۔ حفاظت چاہنا۔

استزاداف - آگے نکل جانا۔ دوسرے پر بڑھ جانا۔

استزاداع - سنگریوں کا سٹم کو خون آلودہ کرنا۔

استزاداع - بکریوں کا آگے پیچھے جینا۔ رطالی میں گروہ کے آگے آگے چلنا۔

استزاداع - کسی کو کابل اور کزور پانا۔

استزاداع - مدد چاہنا۔

استزاداف - فراخ ہونا۔

استزاداف - اٹھانا۔ اٹھوانا۔ اٹھانے کا وقت آجانا۔

استزاداف - آرام میں رہنا۔

استزاداع - کسی سے منتر چاہنا۔ عمل پڑھو اور دم کرنا۔

استزاداع - کپڑے کا قایل پیوند ہونا۔

استزاداف - غلام بنانا۔ تپلا ہونا۔

استزاداع - سست اور کزور خیال کرنا۔

استزاداع - سست و کزور پانا۔

استزادات - کسی کے لئے اس کے مال میں سے

باقی چھوڑنا

استزادہ - دیوار کا قابل مرمت ہونا۔ عمارت بنوانی چاہنا۔

استزادہاب - ڈرانا۔

استزاداع - زیادتی چاہنا۔

استزاداع - زیارت چاہنا۔

استزاداع - کسی کو حقیر شمار کرنا۔

استزادال - پھسلانا۔ ہسکانے کی تاک میں گئے دینا۔

استزاداع - ٹھٹھہ بازی کرنا۔ قیصے لگانا۔

استزاداع - پرستیدہ ہونا۔

استزاداع - کام کرانے کا طلب گار ہونا۔ کام کرنا حکم دینا۔

استزاداع - نیک بخت سمجھنا۔

استزاداع - عورت کا تند خو اور دہڑان مانند ہستی (سیغلۃ) کے ہونا۔

استزاداع - پیچھے سے آکر اونٹ پر سوار ہونا۔

استزاداع - وضاحت چاہنا۔ پوچھنا۔

استزاداع - جلد کی بیماری۔ ایک مرض ہے کہ مرض پانی سے سیر نہیں ہوتا۔ پانی ادبائش کا طلب گار ہونا۔

استزاداف - پہلے قیمت لے لینا۔ قرض مانگنا۔

استزاداع - گردن جھکانا۔ مطیع و منقاد ہونا۔

ح - لینا۔ وصول پانا۔

استزاداع - کسی کو برا سمجھنا۔ جھوٹا جانا۔

استزاداع - ح - معافی چاہنا۔ معذرت کرنا۔

استزاداع - فریب چاہنا۔ فریب پانا۔ بہت فریب سمجھنا و دشمن چاہنا۔

استزاداع - بڑی عمر گار ہونا۔ راستہ میں چلنا۔ راستہ کا پانل اور بہت زیادہ گذرگاہ ہونا

- اِسْتِشْهَال - آسان سمجھنا۔ آسان کرنا۔  
اِسْتِشْہَام - آپس میں قہر ڈالنا۔  
اِسْتِشْآرَة - مشورہ طلب کرنا۔ ظاہر ہونا۔ قیمتی لباس پہننا۔  
اِسْتِشْآطَة - غصے سے بھر پورا۔ خوب ہنستا۔  
پرندہ کا خوشی سے اڑنا۔ مڑنا ہونا۔  
اِسْتِشْرَاس - اونٹوں کے بڑے گئے کا مالک ہونا۔  
اِسْتِشْرَاط - درستی کے بعد حیرت کا خراب ہوجانا۔  
اِسْتِشْرَاف - ظلم و ستم کرنا جھانگنا۔ کسی چیز کے دیکھنے کے لئے ہاتھ سے آنکھ پھاڑنا اور کھانسی کے مال کی تاک میں رہنا۔ شریف اور کامل چیز کو چاہنا۔  
اِسْتِشْہَاَس - شعار دہ کپڑا جو سب کپڑوں کے نیچے پہنا جاتا ہے۔ دل میں ڈر کو پوشیدہ رکھنا۔  
اِسْتِشْہَاَس - شفا چاہنا۔  
اِسْتِشْہَاَع - کسی کی دوسرے سے سفارش چاہنا  
اِسْتِشْہَاَف - کسی چیز کے پرے کی چیز کو دیکھنا۔  
اِسْتِشْہَاَم - سوچنے کی خواہش کرنا۔  
اِسْتِشْہَاَع - کسی کو برا سمجھنا۔ برا بھلا ہونا۔  
اِسْتِشْہَاَن - مشک کا پرانا ہونا اور پھٹ جانا۔  
دبلا ہونا (ازلی) دودھ کا حل نہیں ہونا  
اِسْتِشْہَاَد - گواہی چاہنا۔ گواہ بنانا۔ جہاد میں مارا جانا۔ راہِ خدا میں قتل ہونا۔ شہید ہونا۔  
اِسْتِصَابَة - کسی سے صواب چاہنا۔ درست اور صحیح سمجھنا کسی کے فعل کو درست چاہنا۔  
اِسْتِصْبَاح - چراغ چاہنا۔ چراغ روشن کرنا۔  
اِسْتِصْبَاد - نگاہ اور تکلیف ہونا۔  
اِسْتِصْبَاَع - رہنے کا طالب ہونا۔  
اِسْتِصْبَاب - کسی کو صحت اور ہم نشینی کی طرف بلانا
- اِسْتِصْحَاَح - بیماری سے مرین کا شفا پانا۔  
اِسْتِصْحَاَح - فریاد چاہنا۔  
اِسْتِصْحَاف - واپس کرنے کی خواہش کرنا۔  
اِسْتِصْحَاب - دشوار ہونا۔ دشوار پانا۔  
اِسْتِصْحَاَف - خالص شے کو پسند کرنا اور لینا۔  
کسی کو خالص دوست سمجھنا۔ صفایا کر دینا۔ یعنی سارا مال لے لینا۔  
اِسْتِصْحَاَع - بھوننا چاہنا۔  
اِسْتِصْحَاَح - اچھا کرنے کی رغبت اور خواہش کرنا (مضد استفساد)  
اِسْتِصْحَاَع - کچل کر گوند نکالنا۔ بدن پر زخم ہونا۔ گوند مانگنا۔  
اِسْتِصْحَاب - ٹھیک ٹھیک مشورہ چاہنا۔ ٹھیک سمجھنا۔ درست پانا۔  
اِسْتِصْحَاَع - روشن کرنا۔  
اِسْتِصْحَاَقَة - تنگ کرنا۔ تنگ کرنے کا ارادہ کرنا۔  
اِسْتِصْحَاَمَة - کسی کے حق کو کم کرنا۔  
اِسْتِصْحَاَك - ہنسنا۔ ہنسننا چاہنا۔  
اِسْتِصْحَاب - شہد کا کاڑھا ہونا۔ قریب دینا۔ فری خواہش کرنا۔  
اِسْتِصْحَاَح - آگ بھڑکانی۔  
اِسْتِصْحَاَف - کمزور اور سست سمجھنا۔ کمزور و ناتوان خیال کرنا کسی کو کمزور پانا۔ مغلوب کرنا۔  
اِسْتِصْحَال - گراہی طلب کرنا۔ گراہی میں پڑنا۔  
اِسْتِصْحَال - جہاں تک ممکن ہو ہر چیز کو تلاش کرنا۔  
اِسْتِصْبَاَبَة - پاکی ڈھونڈنا۔ پاک و صاف پانا۔  
پانی یا ڈھیلے وغیرہ سے استنجاء کرنا یعنی زیر ناف صاف کرنا بیٹھا پانی چاہنا



اِسْتِعَاذَة - کسی چیز کا خوگر ہونا۔ کام دوبارہ کرنے کی خواہش کرنا۔ عادت ڈالنے کی خواہش کرنا۔

اِسْتِعَاذَة - پناہ لینا۔

اِسْتِعَاسَا - آگ کا پھول کا یا جانا چھروں کا حرکت میں آنا۔ جنگ اور برائی کا پھیل جانا شدید ہونا۔

اِسْتِعَاسَا - کسی چیز کو عاریت چاہنا۔ تنہا ہونا۔ کسی چیز کو دست بدست پھرانا کسی نظر کو غیر معنی لغوی میں استعمال کرنا۔

اِسْتِعَاذَة - عوض ڈھونڈنا۔ عوض چاہنا۔ بدلہ چاہنا۔

اِسْتِعَاظ - اپنی ناک میں دوا ڈالنا۔

اِسْتِعَاظَة - مدد چاہنا۔ مرے عزیزان صاف کرنا۔ غلامی میں لینا۔ غلام کی مانند کر لینا۔

اِسْتِعَاسَا - آنسوؤں کا جاری ہونا۔ تعبیر چاہنا۔ آرزو کرنا۔ برائی سے بچنا۔ رضامندی کرنا۔ رضامند ہونا۔

اِسْتِعْجَاب - تعجب کرنا۔

اِسْتِعْجَال - جلدی کرنے پر آمادہ کرنا۔ جلدی کرنے کا حکم دینا۔ جلدی کرنا۔ سبقت کرنا۔ جلدی چاہنا۔

اِسْتِعْجَام - سائل کے جواب سے خاموش رہنا۔ زبان کارک جانا اور صاف گفتگو نہ کر سکتا۔

اِسْتِعْدَا - مدد چاہنا۔ گھوڑے کو دوڑوانا۔

اِسْتِعْدَاد - آمادہ ہونا۔ آمادگی کرنا۔ مستعد ہونا۔

ح۔ سلمان جنگ سے صلح ہونا۔

اِسْتِعْدَاء - کسی مقام کو موافق اور پسندیدہ پانا۔

اِسْتِعْدَاب - پاکیزہ اور شیریں پانی مانگنا۔ پاکیزہ

اِسْتِطَاس - لکھنا

اِسْتِطَاسَة - پھیلنا منتشر ہونا۔ زیادہ ہونا۔

پیشکش جلدی سے سوتنا۔ اڑایا جانا ڈرایا جانا۔ بسوت جھکا یا جانا (مجمولاً)

اِسْتِطَاعَة - اِسْطَاعَة - (بجھت تا) قدرت رکھنا کسی کام کو کر سکتا۔

اِسْتِطَاقَة - کسی چیز کے گرد پھرنا۔

اِسْتِطَاقَة - دراز ہونا۔ تکبر کرنا۔ بلند ہونا۔

اِسْتِطِيبَاب - طبیعت علاج پوچھنا۔ دوا کرنا۔

اِسْتِطْرَاب - خوشی و طرب چاہنا۔ اونٹ کو راگ سے حرکت میں لانا۔

اِسْتِطْرَاد - مکر و فریب سے بچنے پھینا میل ملاپ چاہنا اِسْتِطْرَاف - نیا بھنا، نیا پیدا کرنا تعجب کرنا۔

اِسْتِطْرَاق - راہ ڈھونڈنا۔ راستہ اختیار کرنا۔ اِسْتِطْطَاعَام - طعام چاہنا۔ قزاقوں میں امام کا لقبہ چاہنا۔

اِسْتِطْلَاع - غور سے دیکھنا کسی کی تدبیر کو معلوم کرنا رائے معلوم کرنا۔

اِسْتِطْلَاق - پیٹ کا جاری ہونا۔ دستوں کا آنا۔ چرواہے کا اونٹنی کو پسند کرنا۔

اِسْتِطْلَال - کسی چیز پر اوپر سے نگاہ ڈالنا۔ معائنہ کرنا۔

اِسْتِطْلَال - (ب) سایہ کی خواہش کرنا۔ سایہ میں پناہ لینا اور اس میں بیٹھنا۔ خوشہ دارانگور کی شاخوں کا آپس میں پٹنا۔ آٹھ کا گڑھے میں گھس جانا۔ خون کا پیٹھ میں جاری ہونا۔

اِسْتِطْطَهَار - یاد کرنا۔ کتاب کو یاد سے پڑھنا۔ قوی پشت ہونا (ب) مدد چاہنا۔

اِسْتِعْقَابَ - تکلیف کو معاف کرنے کی خواہش کرنا۔  
اِسْتِعْقَاتَ - پارسائی کرنا۔ حوام سے رکنے کی خواہش کرنا۔

اِسْتِعْقَابَ - عوض چاہنا کسی کی لغزش ڈھونڈنی۔  
اِسْتِعْقَابَ - کسی چیز پر چڑھ جانا۔ بلندی چاہنا غلبہ چاہنا۔ دن کا چڑھ آنا۔

اِسْتِعْقَابَ - (چوپایہ کا) چارہ مانگنا۔  
اِسْتِعْقَابَ - خبر دریافت کرنا۔ حقیقتات گفتیش۔  
اِسْتِعْقَابَ - آباد کرنا۔ حرفی کسی جگہ لوگوں کو بسانا نوآبادی بنانا۔

اِسْتِعْقَابَ - کام میں رکھنا۔ کام کرنے کی خواہش کرنا عمل چاہنا۔

اِسْتِعْقَابَ - بچا لینا۔ عام مر پر باندھنا۔  
اِسْتِعْقَابَ - نکتے کو کسی پر بھونکنا۔ کسی سے مدد چاہنا۔

اِسْتِعْقَابَ - (زمانہ کسی کے ساتھ عہد پیمان کرنا) عہد لکھنا۔ تادان دینا۔

اِسْتِعْقَابَ - فریاد چاہنا۔ فریاد کرنا۔  
اِسْتِعْقَابَ - (دعویٰ کسی پر دوڑے جانا) چڑھائی کرنا  
اِسْتِعْقَابَ - دودھ پلائی ہوئی عورت کا جماع کو چاہنا درخت کی شاخ و برگ کا لپٹنا ہوا ہونا۔

اِسْتِعْقَابَ - منہ پھاڑ کر زور سے ہنسنا (معوذاً و مجہولاً) کسی چیز کو انوکھی سمجھنا کسی چیز کو مشکل یا مبہم پانا۔

اِسْتِعْقَابَ - (دب) غفلت میں پڑنا۔ بے خبری میں آنا۔

اِسْتِعْقَابَ - سب کو گھیر لینا۔ خوب مزہ پھاڑ کر ہنسنا

اِسْتِعْقَابَ - کپڑے میں اس طرح چھپ جانا کہ کہیں سے کچھ نظر نہ آئے۔

خیال کرنا۔ پاکیزہ اور شیریں پاتا (عن) رک جانا۔

اِسْتِعْقَابَ - عذر چاہنا۔  
اِسْتِعْقَابَ - ترخرا مکھانا۔

اِسْتِعْقَابَ - عربوں میں گھل مل کر عرب بن جانا۔  
اِسْتِعْقَابَ - دشوار ہونا۔ کھردرا ہونا۔ سخت ہونا۔

سکڑا اور سٹھا ہوا ہونا۔  
اِسْتِعْقَابَ - کسی کو بنا گفتیش حال قتل کر دینا۔

پیش کرنے کی خواہش کرنا۔ متمم ہونا۔  
سرسبز زمین کی پررتا۔ موٹا ہوتا (مجہولاً) ح۔ جائزہ لینا۔

اِسْتِعْقَابَ - معرفت چاہنا۔ پہچننا۔  
اِسْتِعْقَابَ - پسینہ لانے کے لئے حرارت کے آگے

آنا۔ درخت کا جڑ کو چھوڑ دینا۔  
اِسْتِعْقَابَ - (دب) مرض کا سخت ہونا اور حواس کو غفل

کر دینا۔ خدا تعالیٰ کا کسی کو موت دینا  
دعویٰ کسی پر غلبہ کرنا۔

اِسْتِعْقَابَ - (دعویٰ) سخت اور مضبوط ہونا۔ دشوار ہونا  
بیکار بیٹھنا۔ دشواری چاہنا۔

اِسْتِعْقَابَ - شہد مانگنا۔ شہد ڈھونڈھنا۔  
اِسْتِعْقَابَ - حیران و پریشان پانا۔ روشنی کی طرف

جانا۔

اِسْتِعْقَابَ - اس چیز پر ہاتھ مارنا جو کرنے سے روکے  
روکنا۔ تھمنا۔

اِسْتِعْقَابَ - درخت کا ٹٹا۔ میوہ توڑنا۔  
اِسْتِعْقَابَ - بخشش چاہنا۔

اِسْتِعْقَابَ - عطر منا۔ عطر ملنے کی خواہش کرنا۔  
اِسْتِعْقَابَ - مہربانی چاہنا۔

اِسْتِعْقَابَ - کسی کو بڑا اور بزرگ سمجھنا۔ بڑائی جتاننا

- اِسْتِعْشَاش - کسی کو خائن سمجھنا۔ کھوٹ کا گمان کرنا  
 خیانت کرنا۔ خیانت چاہنا۔  
 اِسْتِعْشَاس - گناہ کی بخشش چاہنا۔  
 اِسْتِعْظَاظ - ڈپرے کو بسبب موٹے اور کھردرے  
 موٹے کے نہ خریدنا۔ موٹا اور دلدار ہونا  
 موٹا سمجھنا۔  
 اِسْتِعْظَاق - گفتگو میں بند ہو جانا۔ بیع کو ختم کرنا کہ  
 پھر چیر واپس نہ ہو سکے۔  
 اِسْتِعْظَال - غڈ لانے کا ارادہ کرنا۔ غڈ تلاش کرنے  
 پر مقرر کرنا۔ آمد لی لینا۔  
 اِسْتِعْتَا - بے نیا ز ہونا۔  
 اِسْتِعْتَاة - رجوع کرنا۔ غنیمت لینا۔  
 اِسْتِعْتَاة - فائدہ حاصل کرنا۔ فائدہ دینا۔ فائدہ  
 لینا۔ فائدہ چاہنا۔  
 اِسْتِعْتَاَصَة - پانی جاری کرنا۔ چاہنا۔ خیر کا جاری  
 ہونا۔ اور پھیلنا۔  
 اِسْتِعْتَاظ - کسی کام میں انتہا کرتی۔ کوزہ کا تمام  
 پانی پی لینا۔  
 اِسْتِعْتَاَف - سفوف بنانا۔ سفوف کھانا۔  
 اِسْتِعْتَاَقَة - (صن) بیماری دور ہونی شروع ہونا۔  
 صحت کا متروکھانا۔ ہوش میں آنا۔  
 اِسْتِعْتَاَسَا - فتویٰ چاہنا۔  
 اِسْتِعْتَاَسَا - فتح چاہنا۔ کھولنا۔ شروع کرنا۔ مدد  
 چاہنا۔  
 اِسْتِعْتَاَل - کام کا بڑھ جانا۔ بھیا تک پہنچانا۔ مشکل  
 ہو جانا۔  
 اِسْتِعْتَاَد - اکیلا چھوڑنا۔ تنہا کام کرنا۔ چہن لینا۔  
 اِسْتِعْتَاَدَاغ - معدہ کو فصلات سے خالی کرنا۔ قے کرنا  
 کام میں اپنی قوت کو صرف کرنا۔  
 اِسْتِعْزَاك - غڈ کا پالی میں پک جانا۔  
 اِسْتِعْزَاذ - جوش میں لانا۔ چالاک بنا دینا۔  
 بھڑکانا۔ دھوکہ دینا۔  
 اِسْتِعْزَاذ - فساد چاہنا۔  
 اِسْتِعْزَاذ - پوچھنا۔  
 اِسْتِعْزَاال - اپنے حصے سے زیادہ لینا۔ فضیلت چاہنا  
 بھلائی تلاش کرنا۔ اپنی بڑائی اور  
 بزرگی کی خواہش کرنا۔ دمن ہا کچھ باقی  
 چھوڑ دینا۔  
 اِسْتِعْزَاع - کسی چیز کو بہت برا پانا۔  
 اِسْتِعْزَاح - رٹائی پانا۔  
 اِسْتِعْزَاتَان - گھوڑے کو مختلف قسم کی چال چلانا۔  
 اِسْتِعْزَاهَا - دریافت کرنا۔  
 اِسْتِعْزَاہ - پانی چاہنا۔ کنوئیں میں سے پانی کھینچنا۔  
 اِسْتِعْزَاة - تکلف سے قے کرنا۔  
 اِسْتِعْزَاہ - غذا طلب کرنا۔ روزی طلب کرنا۔  
 اِسْتِعْزَاة - حاکم سے قصاص کا حکم چاہنا۔ دل [انتہا]  
 کی باگ کسی کے ہاتھ میں دینا۔ کسی  
 کا فرماں بردار ہونا۔  
 اِسْتِعْزَاة - بیع کی واپسی کا طالب ہونا۔ ح نوکری  
 سے استعفا دینا۔  
 اِسْتِعْزَاة - سیدھا کھڑا ہونا۔ درست ہونا۔ قیمت  
 لگانا۔ مضبوط ہونا۔  
 اِسْتِعْزَاح - بہت قبیح اور بھونڈا سمجھنا۔  
 اِسْتِعْزَاال - سامنے آنا۔  
 اِسْتِعْزَااسَا - قدرت چاہنا۔ اندازہ چاہنا۔  
 اِسْتِعْزَاادہ - آگے آنا۔ بہت پیش قدمی اور دلیری  
 کرنا۔ آگے آنے کا خواہش گار ہونا۔  
 اِسْتِعْزَااس - پلید سمجھنا۔ کراہت کرتی۔

اِسْتِغْذَار - بزرگی حاصل کرنا۔ با وقعت اور بڑی ہیچو کا طالب ہونا۔ کسی کو گرامی اور بزرگ

پانا  
اِسْتِغْذَار - ناپسند کرنا۔ ناگوار سمجھنا۔ مجبور کیا جانا (مجبوراً)

اِسْتِغْشَات - کسی کے ننگا کرنے کی خواہش کرنا کسی چیز کے انکشاف کی خواہش کرنا۔

اِسْتِغْفَاء - کسی سے اونٹوں کی ایک سال پیدا نش مانگنا۔ کسی کے برتن کی چیز۔ الموانا۔

اِسْتِغْفَاف - گھیر لینا اور دیکھنا۔ دور کی چیز دیکھنے کے وقت ارد گرد پر ہاتھ رکھ لینا۔ مانگنے میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلا نا۔

اِسْتِغْلَاء - زمین کا بہت گھاس والا ہونا۔ مہلت اور تاخیر چاہنا۔

اِسْتِغْلَاب - آدمی کا کٹے کی مانند بھونکن تاکہ کتے بھونکیں اور آبادی معلوم ہو جائے۔

اِسْتِغْمَال - تمام کرنا۔ اچھا کرنا۔ تکمیل چاہنا۔

اِسْتِغْنَان - پوشیدہ اور پردہ میں ہونا۔

اِسْتِغْوَاه - داغ لگانے کی خواہش کرنا۔

اِسْتِغْلَاء - مسکے سے روغن نکالنا۔

اِسْتِغْلَاب - پھین لینا۔

اِسْتِغْلَام - انگلی سے صاف کرنا۔

اِسْتِغْلَال - تلوار وغیرہ کو سوتنا۔

اِسْتِغْلَاه - زہ پہننا۔

اِسْتِغْلَاه - پتھر کو ہونٹھ یا ہاتھ سے چھوٹا۔ کھیتی کا خوش مکانا۔

اِسْتِغْلَامَہ - مستحق طاعت ہونا۔

اِسْتِغْلَانِہ - نرم سمجھنا۔ نرم پانا۔

اِسْتِغْلَابَات - کسی کو سست اور دیر کرنے والا سمجھنا۔

اِسْتِغْرَاء - ڈھونڈھنا۔ تفتیش کرنا۔ سمجھا کرنا۔ (مادہ قرئی) دعوت چاہنا (مادہ قرئی)

اِسْتِغْمِاس - آرام لینا۔ قرار اور ثبات پکڑنا۔ جگہ پکڑنا۔

اِسْتِغْرَاض - ادھار چاہنا۔

اِسْتِغْرَان - ڈالنی کسی کام کو کرنا۔

اِسْتِغْسَام - قسم کھلانا۔ قمار کے تیروں کے ذریعہ تقسیم چاہنا۔

اِسْتِغْصَاء - پوری کوشش کرنا۔ انتہا اور آخری حد تک پہنچ جانا۔

اِسْتِغْصَاد - مہانہ رومی اختیار کرنا۔

اِسْتِغْصَاس - کسی کو کوتاہی کی طرف نسبت کرنا۔ چھوٹا سمجھنا۔

اِسْتِغْصَاص - قصاص لینا۔

اِسْتِغْصَاء - قرض کی ادائیگی چاہنا۔ قاضی بنانا (مجبوراً)

اِسْتِغْطَاس - بارش چاہنا۔

اِسْتِغْلَال - اٹھانا۔ بلند کرنا۔ بلندی پر چڑھنا۔

اِسْتِغْلَاب - گھاس کا اونچا اور لمبا ہوجانا کوچ کرنا۔

اِسْتِغْلَاب - سامان لینا۔ پانا۔ تھوڑا سمجھنا۔ رزانا

اِسْتِغْلَاب - جب [حاکم کا] مطلق العنان ہونا۔ خود راستے ہونا۔

اِسْتِغْلَابَہ - عاجزی اور آنکساری کرنا۔

اِسْتِغْلَابَہ - کسی کو بزرگ اور بڑا سمجھنا۔ بزرگی دکھانا۔ سرکشی کرنا۔ رطائی جتاننا۔

اِسْتِغْلَابَہ - چھپا رکھنے کی خواہش کرنا۔

اِسْتِغْلَابَہ - بہت چاہنا۔ کثرت چاہنا۔ بہت مالدار ہونا۔ بہت زیادہ جمع کر لینا۔

اِسْتِغْلَابَہ - گراہ پر لیستنا۔

اِسْتِیْلَان - دودھ تلاش کرنا

اِسْتِیْحَاق - اپنے ساتھ مال لیتنا۔

اِسْتِیْحَاہ - راستہ کا سبب ہونا۔ راہ پر چلنا مصیبت میں گھر جانا۔

اِسْتِیْلَاذ - کسی چیز کو مزید ارا پانا۔ مزید ارا شمار کرنا۔ اِسْتِیْلَسَاہ - ڈھونڈھنا۔ طلب کرنا۔ مانگنا۔

اِسْتِیْلَہَاہ - طہا پنجر مارنے کی خواہش کرنا

اِسْتِیْلَعَاب - کھیلنے کی خواہش کرنا۔

اِسْتِیْلَعَاء - کسی سے بولنے کی خواہش کرنا کسی کی گفتگو کو سننا۔

اِسْتِیْلَعَات - متوجہ کرنا

اِسْتِیْلَقَاء - چت سونا۔

اِسْتِیْلِقَاح - نر کھجور کا شگوفہ مادہ کھجور پر ڈالنے کا وقت آنا۔ کھجور کے وقت کا بار دار ہونے کے قریب ہونا۔

اِسْتِیْمَاتۃ - مرنے کی خواہش کرنا۔ بے کھٹکے کوئی کام کرنا۔

اِسْتِیْمَاح - عذر کرنا

اِسْتِیْمَاحۃ - بخشش ڈھونڈھنا۔ شفاعت چاہنا

اِسْتِیْمَاع - سننا۔ کان لگانا۔

اِسْتِیْمَال - کسی کی آنکھ کو چھوڑنا۔

اِسْتِیْمَالۃ - بہت مالدار ہونا۔ (مادہ مول) مال ہونا کسی کو اچھی باتوں سے اپنی طرف مائل کر لینا۔ (مادہ میل)

اِسْتِیْمَاع - نفع اٹھانا۔ حج کے ساتھ عمرہ کرنا۔

اِسْتِیْمَاجاد - عزت چاہنا۔

اِسْتِیْمَاحِض - خالص چیز چاہنا۔

اِسْتِیْمَاد - مدد چاہنا۔ دوات میں سے سیاہی لیسنا۔

اِسْتِیْمْدَاع - کھانے کا پینا۔

اِسْتِیْمْدَاع - گذرنا اور ہمیشہ چلنا۔ ایک روش پر چلنا ہمیشگی کرنا۔ قوی اور مضبوط ہونا۔

اِسْتِیْمْدَاف - (ب) جنگل مارنا۔ ہاتھ میں پکڑنا۔ مضبوط تھا مٹا (عن) کسی کا کسی چیز سے اپنے آپ کو روکنا۔

اِسْتِیْمْدَاس - بارش چاہنا۔

اِسْتِیْمْدَاع - اِطَا پوچھنا۔ اِطَا چاہنا۔ معتبر ضمانت پر قرض دینا۔

اِسْتِیْمْدَاح - یلیح سمجھنا۔

اِسْتِیْمْدَال - آزرده ہونا۔ رنجیدہ ہونا۔ عاجز ہونا۔

اِسْتِیْمْدَاع - منی باہر نکالنی۔

اِسْتِیْمْدَاح - بخشش چاہنا۔

اِسْتِیْمْدَال - مہلت چاہنا۔

اِسْتِیْمْدَاحۃ - توجہ کرنا۔ بھیڑیلے کا آواز کرنا۔ روننا۔ رلانا۔

اِسْتِیْمْدَاع (دالی) کسی چیز سے کرگنا۔ کسی پر اعتماد کرنا۔

اِسْتِیْمْدَارۃ - روشن ہونا۔ روشنی ڈھونڈھنا۔ بورت کو تہمت سے دور رکھنا (علی) [

فتح پانا۔

اِسْتِیْمْدَاعۃ - آرام و قرار پکڑنا۔ اپنے آپ کو سوا ہوا ظاہر کرنا۔

اِسْتِیْمَان - مسواک کرنا۔ دانت ملنا۔

اِسْتِیْمْبَاط - پانی نکالنا۔ کنواں کھودنے والے کا پانی پر پہنچ جانا۔ پوشیدہ ہونے کے بعد ظاہر ہونا (مجمولاً) کسی چیز کا پہلے

پہل معلوم کرنا۔

اِسْتِیْمْدَاس - ناک صاف کرنا۔ ناک میں پانی داخل کرنا

اِسْتِحْضَاء - ہنسی کرنا - انگ رکرنا ہنسی کرنے پر  
اچانک پکڑتا یا اس کا بدلہ دینا -

اِسْتِحْلَاك - موت دینا - ہلاک کرنا۔ مال کو جمع کرنا۔  
مال کو نیست و نابود کرنا -

اِسْتِحْلَال - ایر کا بہت برسنا۔ نئے چاند کا نکلنا  
(معدوماً و مجہولاً) ولادت کے وقت پتھر

کا آواز سے رونا۔ آواز کو بلند یا پست  
کرنا۔ تلوار سونٹا چہرے کا خوشی سے چمکنا -

اِسْتِحْوَاء - حد سے زیادہ محبت پیدا کر دینا۔ مروتنا  
لہکانا۔ راستہ بھلا دینا -

اِسْتِيَانِس - مایوس ہونا -

اِسْتِيَاك - دانت مٹنا۔ مسواک کرنا -

اِسْتِيْحَاس - کراہی پر کوئی چیز لینا -

اِسْتِيْحَاش - محکمین ہونا۔ وحشت پانا -

اِسْتِيْتِدَاب - ادب سیکھنا -

اِسْتِيْتِيَاَع - نیکبانی چاہنا۔ ودیعت رکھنا -

اِسْتِيْتِيَاَن - اجازت مانگنا -

اِسْتِيْتِيَاَد - پانی وغیرہ پر آنا۔ گھاٹ پر اتارنا -

اِسْتِيْتِيَاَح - میلا ہونا -

اِسْتِيْتِيَاَس - آسان ہونا (مادہ لیسر) قیدی بننے کے  
لئے گردن جھکانا (مادہ اسر) -

اِسْتِيْتِيَاَع - فراخ ہونا -

اِسْتِيْتِيَاَل - جڑ سے اکھاڑ ڈالنا (مادہ صل) بالوں  
میں اور بال ہلا کر لہا کرنا (مادہ وصل) -

اِسْتِيْتِيَاَح - وینفسہ و عن آکچہ کے اوپر اُٹھ کر  
دیکھنا تاکہ نظر آجائے۔ ظاہر کرنا چاہنا -

اِسْتِيْتِيَاَن - رہنے کی جگہ بنا لینا۔ وطن بنا لینا -

اِسْتِيْتِيَاَب - ساری چیز لے لینا۔ جڑ سے اکھاڑنا

اِسْتِيْتِيَاَع - پورا کرنا -

اِسْتِيْتِيَاَع - نجات پانا۔ پانی اور ڈھیلے سے بدن کی  
گندگی صاف کرنا۔ جلدی کرنا -

اِسْتِيْتِيَاَد - قوی ہونا۔ دلیر ہونا۔ اب کسی سے  
مدد مانگنا -

اِسْتِيْتِيَاَق - ناک میں پانی چڑھانا۔ ناس لینا -  
سونگھنا -

اِسْتِيْتِيَاَس - مدد مانگنا -

اِسْتِيْتِيَاَق - مال کو صرف کر کے ختم کر دینا -

اِسْتِيْتِيَاَذ - رائی دلانا۔ پھڑانا -

اِسْتِيْتِيَاَس - نہ پہچانا بغیر معلوم شے کو دریافت  
کرنا۔ پوچھنا -

اِسْتِيْتِيَاَك - تنگ و غار رکھنا۔ برائی کرنا -

اِسْتِيْتِيَاَح - راہ کا واضح ہونا۔ دوسری راہ پر چلنا -

اِسْتِيْتِيَاَس - زجر کرنا۔ فراخ ہونا۔ نہر کے لئے سخت  
زمین منتخب کرنا۔ خوب ہونا -

اِسْتِيْتِيَاَن - کام کے لئے اُٹھنے کا ارادہ کرنا -

اُٹھنے کا حکم دینا -

اِسْتِيْوَاء - آپس میں برابر ہونا۔ معتدل ہونا -

سیدھا ہونا۔ جو رائی اور عقل کی انتہا  
کو پہنچنا۔ چڑھنا۔ ارادہ کرنا۔ متوجہ

ہونا۔ قائم اور درست کرنا۔ غالب ہونا  
قرار پکڑنا -

اِسْتِيْتِيَاَم - آپس میں قرعہ ڈالنا -

اِسْتِيْتِيَاَتَة - کسی کو حقیر و خفیف سمجھنا -

اِسْتِيْتِيَاَس - ح۔ خود کشی -

اِسْتِيْتِيَاَبَان - کسی کو تیسرے سمجھنا -

اِسْتِيْتِيَاَد - رہنمائی چاہنا۔ تحفہ چاہنا -

اِسْتِيْتِيَاَذ - پاؤں مار ہونا۔ بلند ہونا۔ دل کسی چیز  
کا نشانہ بن جانا -

(س) شیر سے ڈر کر بے ہوش ہونا شیر  
بیتا - غضب ناک ہونا - نادان ہونا  
(ض) دزدہ ہونا - قوم میں فساد ڈالنا  
لڑا دینا -

اَسَدًا - درست اور محکم  
اِسَدًا - درست اور راستی پر پہنچنا - صواب  
اور درستی کو طلب کرنا -

اِسَدًا اس - چھ ہونا -  
اِسَدًا ال - بالوں کا لٹکانا -  
اَسْر - قوت - رستی - قسمہ (اسی سے ہے

لٹ یا سب سے لے کر سب سے لے  
ہے قسمہ سمیت یعنی تمام بدن کے  
جوڑ بند - مص (ض) اچھا پیدا کرنا -  
پیدا کرنا - باندھنا - قہری بنانا -

اِسْرَاع - رات کو چلنا - رات کو میر کرانی -  
اِسْرَائِيل - حضرت یعقوبؑ کا نام -  
اِسْرَاج - گھوڑے پر زین رکھنا - چراغ روشن  
کرنا اور اس کا اکسانا -

اِسْرَاس - پوشیدہ کرنا - ظاہر کرنا - کسی کے ساتھ  
اپنا بھید لے بیٹھنا - آہستہ سے کوئی  
بات کہنا -

اِسْرَاع - جلدی کرنا - تیز رو چوپایہ والا ہونا -  
اِسْرَاف - بے انداز خرچ کرنا - بیجا اور بے معنی  
خرچ کرنا (کام میں) درمیانی حد سے  
گذرنا -

اِسْرَائِيل - ایک فرشتہ کا نام

اَسْرَدَا - کنبر - خاندان -

اَسْرَدَع - بہت تیز -

اَسْرُوْب - ۴ - جبت - سیسہ

اِسْتِيفَاق - خدا تعالیٰ سے توفیق چاہنا - توفیق تلاش  
کرنا -

اِسْتِيفَاد - آگ سلگانا - آگ بھڑکانا اور روشن  
ہونا -

اِسْتِيفَاق - جاگنا -  
اِسْتِيفَاع - کسی چیز کے وقوع میں آنے کا انتظار  
کرنا - ڈرنا -

اِسْتِيفَاق - کھڑا رہنے کی خواہش کرنا -  
اِسْتِيفَان - تحقیق کے ساتھ جاننے کی خواہش  
کرنا - یقین کے ساتھ جاننا -

اِسْتِيفَاء - دعلیٰ غلبہ پانا - انتہا کو پہنچنا -  
اِسْتِيفَان - امن چاہنا - اعتماد کرنا -

اِسْتِيفَاس - [ب] کسی سے مانوس ہو جانا [ل]  
خوڑے دیکھ کر پہچانا -

اِسْتِيفَان - نئے سرے سے کام کرنا - از سر نو  
شروع کرنا - ح - مقدمہ میں اپیل کرنا -

اِسْتِيفَاب - بخشش چاہنا -  
اِسْتِيفَات - برباد کر دینا - حرام مال کھانا -

اِسْتِيفَاس - صبح کے اوقات - د - سحری  
اِسْتِيفَاس - صبح کے وقت سونا - صبح کے وقت  
کہیں جانا -

اِسْتِيفَاق - ایک پیغمبر علیہ السلام کا نام مبارک ہے  
(کپڑے کا) پرانا ہونا - گھسا ہوا ہونا  
دودر کرنا - برباد کرنا -

اِسْتِيفَان - مسواک کا درخت -

اِسْتِيفَاق - غصہ دلانا - بیرار کرنا -

اِسْتِيفَان - گرم کرنا -

اَسَد - شیر نر - ج: اَسَاد - اَسُوْد  
اَسَد (مؤنث) اَسَدَاة مص

آسٹریا - اسٹریا (ملک)  
 آسٹوآکے - ستون چوپایہ کے ہاتھ پاؤں ذکر ہے۔  
 آسٹوٹین - ح۔ گراموفون کا ریکارڈ۔  
 آسٹوٹوٹا - قفہ۔ کہانی۔ فسانہ ج۔ ۵۔ آسٹوٹوٹو۔  
 آسٹول - ح۔ جنگی جہازوں کا پیرہہ  
 آسٹاد - نیک نعت کرنا۔ مدد کرنا۔  
 آسٹا - ناک میں دو اڈا لانا۔ ناک پر نیرہ مانا۔  
 آسٹاف - [ب] کسی کی حاجت روائی کرنا۔  
 آسٹاف اولیٰ - ح۔ فرسٹ ایڈ۔ بیمار کی فوری امداد  
 آسٹا - غم و غصہ۔ غص (س) غم گین ہونا۔  
 آسٹاد - نر سے مادہ پر حقیقی کرانا۔  
 آسٹاس - بڑی کتاب کے صفحے۔ تورات کے پارے  
 آسٹاس - دن کی روشنی میں آنا۔ صبح کا روشن ہونا  
 چہرہ کا روشن اور تاباں ہونا۔  
 آسٹاناخ - پاک۔  
 آسٹیل - سب سے نچلا۔  
 آسٹینج - آسٹینجیٹ ایک درخت کی جڑ اور ریس  
 ہیں یا ابر مردہ ہے جو دریا کے کنارے  
 کے پتھروں پر پیدا ہوتا ہے اور سو سردار  
 ہوتا ہے۔  
 آسٹیفی - افسوس۔  
 آسٹقاء - پانی دینا۔ پانی پلانا۔ مشک دینا۔  
 آسٹقاٹ - عورت کا نام بچہ کرانا۔ کلام غلطی کرنا  
 ح۔ کمیشن۔  
 آسٹقاہ - بیمار کرنا۔  
 آسٹقف - عیسائیوں کا مذہبی پیشوا۔ ج۔ ۵۔  
 سٹقف - سٹقف۔  
 آسٹکان - سٹگاف۔ موچی۔  
 آرام دینا۔ حرف کو بے حرکت کرنا۔  
 آسٹکن - بہت بڑی عمر کا۔

گھر میں جگڑنا۔ مسکین ہونا۔ مسکین کرنا  
 آسٹکت - پھلی پلک۔  
 آسٹکتہ - دروازے کی چوکت۔  
 آسٹکتہ - ح۔ تپائی۔ موٹڑھا۔  
 آسٹکندار - ایک بادشاہ کا نام جس نے دارا کو قتل کیا  
 اور بہت ملک فتح کئے۔  
 آسٹکندریقہ - ملک مصر کی سرحد پر ایک شہر۔  
 آسٹلاف - کسی کام کو پہلے زمانہ میں کرنا۔ آگے  
 بھیجنا۔  
 آسٹلاہ - گردن جھکانا۔ اسلام لانا۔ کام کسی کو  
 سپرد کرنا۔ بیع سلم کرنا۔  
 آسٹلیقہ - ہتھیار وہ۔ سلاخ  
 آسٹلوب - طرز۔ روش۔ ج۔ ۵۔ آسٹلیب۔  
 آسٹہ - نام۔ علامت۔ نشان۔ صفت  
 ج۔ ۵۔ آسٹہاء۔ آسٹہی۔  
 آسٹہاء - بلند کرنا۔ نام رکھنا  
 آسٹہاع - بات سننا۔ قبول کرنا۔ گالی دینا  
 آسٹہاعیل - حضرت ابراہیم کے بڑے صاحبزادے کا  
 نام جبرانی میں یعنی اللہ کا فراتر دار۔  
 آسٹہان - پیدا نشی ہونا ہونا۔ فریہ کرنا۔ بھی میں  
 تو کرنا۔ موٹا تازہ خریدنا۔  
 آسٹہح - بہت آسان۔  
 آسٹہد - گندم گوں۔  
 آسٹہیع - کیا خوب سنتا ہے (صیغہ تعجب)  
 آسٹہنت - ح۔ سیمنٹ۔  
 آسٹن - آسٹون (صن س) پانی کا رنگ اور  
 مردہ بدل جانا۔  
 آسٹن اسم فاعل یعنی بد بود بد رنگ  
 بہت بڑی عمر کا۔



اِسْتِیَا - بلند کرنا بجلی کی روشنی گھر میں آنا۔ برق کا  
 زمین پر گرنا۔ یا آسمان پر گرتنا۔  
 اِسْتِیَاد - چڑھنا چڑھانا۔ مہارادینا۔ بات کو اس  
 کے کہنے والے کی طرف نقل کرنا۔ حدیث  
 کے راویوں کو ذکر کرنا۔ یا اس کو کسی کی طرف  
 منسوب کرنا۔ فعل و قائل کے درمیان  
 تعلق (مخوک اصطلاح)  
 اِسْتِنَان - بڑی عمر کا ہونا۔  
 اِسْوَاء - سب سے بُرا۔  
 اِسْوَاء - برابری کرنا۔ ہموار کرنا۔ زنا کرنا۔ سوا ہونا  
 مصیبت میں پڑنا۔  
 اِسْوَأَس - کنگن۔ جہ:۔ اِسْوِیَہ  
 اِسْوِیَہ - اِسْوِیَہ - صبر۔ تسلی۔ نمونہ۔ مثال۔ چال  
 ڈسک جہ:۔ اِسْوِیَہ اِسْوِیَہ  
 اِسْوِج - جہ:۔ سوین۔  
 اِسْوِد - کالا سانپ جہ:۔ اِسْوِد (موت)  
 اِسْوِدَہ  
 اِسْوِدَاد - سیاہ ہونا۔  
 اِسْوِدَان - تشبیہ اِسْوِد (پانی اور کھجور سانپ اور کچھو  
 اِسْوِیَہ - کنگن۔ وہ:۔ اِسْوِیَہ  
 اِسْوِیَہ - لمبی پٹلی والا۔  
 اِسْتِیَاد - بیدار کرنا (ب) یکبارگی گرا دینا۔  
 اِسْتِیَاس - بیدار رکھنا۔  
 اِسْتِیَال - زمین نرم پر پہنچنا۔ جلاب کی دوا کا دست  
 جاری کر دینا۔  
 اِسْتِہَام - کسی کا حصہ کسی چیز میں لگانا۔  
 بہت ہلکا۔  
 اِسِی - طبییب و معالج جہ:۔ اِسَاہ  
 اِسِی - غمگین ہونا۔ اِسِی (دفا) اِسِیہ (موت)

جہ:۔ اِسْتِیَانون - اِسْتِیَانَات  
 اَسْتِیَا - جہ:۔ ایشیا  
 اَسْتِیَا الصُّغْرٰی - ایشیائے کوچک  
 اِسِیَہ - ستون مضبوط عمارت جہ:۔  
 ختم کرنے والی عورت۔ فرعون کی بیوی  
 کا نام۔  
 اَسِیْر - گرفتار۔ مقید۔ محبوس۔ قیدی جہ:۔  
 اِسْوَاء - آساری۔ اِسْوِیَہ و اِسْوِیَہ  
 اَسِیْف - قیدی۔ پیرفانی۔ ناراض۔ غمزدہ۔  
 جہ:۔ اِسْقَاء  
 نرم اور ہموار۔ برابر۔ دراز رخسارہ  
 مرد جس کا چہرہ کتابی ہو۔

## اِش

اِشَادَہ - بلند کرنا۔ آواز کو بلند اور اونچی کرنا۔  
 تعریف کرنا۔ مشہور کرنا۔ ہلک کرنا۔  
 اِشَارَہ - ہاتھ وغیرہ سے کسی کی طرف اشارہ کرنا۔  
 حکم دینا۔  
 اِشَادَات - سگنل۔ جہ:۔  
 اِشَاعَہ - وب (ظاہر کرنا۔ پھیلانا۔ مشہور کرنا۔  
 شائع کرنا۔  
 اِشْتَاع - پیٹ بھڑنا۔  
 اِشْتِیَاہ - مانند ہونا۔ عاجز اور ضعیف ہونا۔  
 اِشْتِیَاہ - مانند۔ وہ:۔ شیبہ  
 اِشْتَات - پرانہ کرنا۔  
 اِشْتِیَاک - اچھا ہوا ہوتا پلٹنا۔ پیچیدہ ہونا۔  
 اِشْتِیَاہ - مانند اور مشابہ ہونا۔ کام کا مشتبہ ہونا۔  
 اِشْتِیَاس - باہم جھگڑا کرنا۔ نظر لگانا۔  
 اِشْتِیَاد - سخت اور قوی اور مضبوط ہونا۔ دوڑنا

اشْتِراء - خریڈنا - بیچنا - چیز کو نقد سے دینا اور دوسری چیزیں چنگل مارنا۔	اشْتِراء - خریڈنا - بیچنا - چیز کو نقد سے دینا اور دوسری چیزیں چنگل مارنا۔
اشْتِراء - عمد و پیمان - ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ معلق کرنا۔	اشْتِراء - عمد و پیمان - ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ معلق کرنا۔
اشْتِراء - قانون بنانا - ح۔	اشْتِراء - قانون بنانا - ح۔
اشْتِراء - گوشت کچل کر یا پارچے کا ٹکڑا کر دھوپ میں سکھانا۔	اشْتِراء - گوشت کچل کر یا پارچے کا ٹکڑا کر دھوپ میں سکھانا۔
اشْتِراء - سا بھا کرنا - ح۔ رسالہ یا اخبار کا خریدار بننا - چنڈہ۔	اشْتِراء - سا بھا کرنا - ح۔ رسالہ یا اخبار کا خریدار بننا - چنڈہ۔
اشْتِراء - سوشلزم - ایک سیاسی مذہب۔	اشْتِراء - سوشلزم - ایک سیاسی مذہب۔
اشْتِراء - سوشلسٹ - ح۔	اشْتِراء - سوشلسٹ - ح۔
اشْتِراء - آگ بھڑکنا - سرد کا سفید ہالوں سے چمکنا	اشْتِراء - آگ بھڑکنا - سرد کا سفید ہالوں سے چمکنا
اشْتِراء - کام میں مشغول اور مصروف ہونا۔	اشْتِراء - کام میں مشغول اور مصروف ہونا۔
اشْتِراء - شفا پانا۔	اشْتِراء - شفا پانا۔
اشْتِراء - کسی چیز میں سے آدھا لینا - ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ سے بنانا۔	اشْتِراء - کسی چیز میں سے آدھا لینا - ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ سے بنانا۔
اشْتِراء - زانی (دکھی ہونا - شکایت کرنا۔	اشْتِراء - زانی (دکھی ہونا - شکایت کرنا۔
اشْتِراء - کام کا مشتبہ ہونا۔	اشْتِراء - کام کا مشتبہ ہونا۔
اشْتِراء - دو طرفہ (ب) اپنے اوپر دچاوا لپیٹنا۔	اشْتِراء - دو طرفہ (ب) اپنے اوپر دچاوا لپیٹنا۔
اشْتِراء - سونگھنا۔	اشْتِراء - سونگھنا۔
اشْتِراء - جھینا ہوا ہونا - کباب بنانا۔	اشْتِراء - جھینا ہوا ہونا - کباب بنانا۔
اشْتِراء - چاہنا - آرزو کرنا - دوست رکھنا۔	اشْتِراء - چاہنا - آرزو کرنا - دوست رکھنا۔
اشْتِراء - بھوک لگنا۔	اشْتِراء - بھوک لگنا۔
اشْتِراء - ظاہر کرنا - ظاہر ہونا۔	اشْتِراء - ظاہر کرنا - ظاہر ہونا۔
اشْتِراء - آرزو مند ہونا - مشتاق ہونا۔	اشْتِراء - آرزو مند ہونا - مشتاق ہونا۔
اشْتِراء - زمین کا درخت لگانا۔	اشْتِراء - زمین کا درخت لگانا۔
اشْتِراء - بہادر - دلاور - شیر لیے قد کا آدمی۔	اشْتِراء - بہادر - دلاور - شیر لیے قد کا آدمی۔
اشْتِراء - بجیل لوگ - ح۔ شکیبہ	اشْتِراء - بجیل لوگ - ح۔ شکیبہ
اشْتِراء - بہت سخت۔	اشْتِراء - بہت سخت۔
اشْتِراء - نادر بات کہنا - نادر کام کرنا۔	اشْتِراء - نادر بات کہنا - نادر کام کرنا۔
اشْتِراء - رس - محترم اور بھتر کرنا - ارکٹنا۔	اشْتِراء - رس - محترم اور بھتر کرنا - ارکٹنا۔
اشْتِراء - پانی پلانا - پانی دینا - پانی پینا - پیاسا ہونا	اشْتِراء - پانی پلانا - پانی دینا - پانی پینا - پیاسا ہونا
اشْتِراء - محبت دل میں پیوست ہونا - دھمو لانا	اشْتِراء - محبت دل میں پیوست ہونا - دھمو لانا
اشْتِراء - کپڑے کو خوب گہرا رنگ پلانا - کپڑے کا خوب گہرا رنگ پینا۔	اشْتِراء - کپڑے کو خوب گہرا رنگ پلانا - کپڑے کا خوب گہرا رنگ پینا۔
اشْتِراء - نشانیاں - علامات - ح۔ شرط	اشْتِراء - نشانیاں - علامات - ح۔ شرط
اشْتِراء - چڑھنا - نزدیک ہونا - دعویٰ اور پر سے نیچے دیکھنا - بیمار کا قریب مرنے کے ہونا - اطلاع پانا - شفقت اور مہربانی کرنا - ح۔ برہنہ	اشْتِراء - چڑھنا - نزدیک ہونا - دعویٰ اور پر سے نیچے دیکھنا - بیمار کا قریب مرنے کے ہونا - اطلاع پانا - شفقت اور مہربانی کرنا - ح۔ برہنہ
اشْتِراء - آفتاب کا نکلنا - طلوع آفتاب کے وقت آنا - یا اس وقت جانا - آفتاب کا بلند اور روشن دیکھنا اور ہونا - کپڑے کو خوب رنگ دینا - دشمن کو ٹھگین اور غضبناک کرنا۔	اشْتِراء - آفتاب کا نکلنا - طلوع آفتاب کے وقت آنا - یا اس وقت جانا - آفتاب کا بلند اور روشن دیکھنا اور ہونا - کپڑے کو خوب رنگ دینا - دشمن کو ٹھگین اور غضبناک کرنا۔
اشْتِراء - شریک کرنا - کھڑ کرنا۔	اشْتِراء - شریک کرنا - کھڑ کرنا۔
اشْتِراء - دل - الٹی (دیکھنے کے لئے گردن بلند کرنا۔	اشْتِراء - دل - الٹی (دیکھنے کے لئے گردن بلند کرنا۔
اشْتِراء - حکم میں جو روستم کرنا - دور چلا جانا۔	اشْتِراء - حکم میں جو روستم کرنا - دور چلا جانا۔
اشْتِراء - آگاہ کرنا - کسی کو شاعر پہنانا - قوم کا شاعر کے ساتھ ہونا - یا اپنے شاعر کے ساتھ نرا کرنا - قربانی کے اونٹ کے کوٹان کو خون لود کرنا - مشہور کرنا - شعر کہنا۔	اشْتِراء - آگاہ کرنا - کسی کو شاعر پہنانا - قوم کا شاعر کے ساتھ ہونا - یا اپنے شاعر کے ساتھ نرا کرنا - قربانی کے اونٹ کے کوٹان کو خون لود کرنا - مشہور کرنا - شعر کہنا۔
اشْتِراء - آفتاب کا نور پھیلانا۔	اشْتِراء - آفتاب کا نور پھیلانا۔
اشْتِراء - آگ کو بھڑکانا۔	اشْتِراء - آگ کو بھڑکانا۔
اشْتِراء - اچھے ہوئے ہالوں والا۔	اشْتِراء - اچھے ہوئے ہالوں والا۔
اشْتِراء - بہت بالوں والا۔	اشْتِراء - بہت بالوں والا۔
اشْتِراء - کام میں لگانا۔	اشْتِراء - کام میں لگانا۔
اشْتِراء - مشغول - مشغولہ - کاروبار۔	اشْتِراء - مشغول - مشغولہ - کاروبار۔

اشفاق - (صحنہ) ڈرنا (حکام) ہرمانی کرنا۔ کم کرنا۔  
 ایک گوند (مفتی) میں ایسا ہی ہے مگر اقرب  
 میں اشفت ہے)  
 اشقر - لال خوبصورت رنگ والا۔ گلابی زرد  
 مائل پر سرخی۔ م۔ ۱۔ شقر۔ اء۔  
 ج۔ ۲۔ شقر۔

آشہب - شیر۔ گھوڑا۔ قوی لشکر مسلح سخت کام  
 سخت سال۔ ٹھنڈی ہواد نادان۔  
 آشہر - مینے۔ وہ۔ شہس  
 آشہی - مرغوب۔  
 آشیاء - چیزیں۔ وہ۔ نشئی

## ا۔ ص

اصابۃ - قصد کرنا۔ چر لہنا۔ ٹھیک کرنا۔ پانا۔  
 پہنچنا۔ حاجت مند ہونا۔  
 اصابع - انگلیاں۔ وہ۔ اصبع  
 اصابتہ - آواز کرنا۔ پکارنا۔  
 اصاحۃ - سنا۔ کان لگانا۔

اصالتہ - (دس) مضبوط ہونا۔ اصل ہونا۔ اچھی بات  
 والا ہونا۔  
 اصیباۃ - روکپن کی طرف مشتاق کرنا۔ روکپن کی  
 طرف بلانا۔ یاد صہا میں آنا۔ دل لے  
 جانا۔

اصباب - نیچی جگہ میں اترنا۔  
 اصباح - صبح صبح کو آنا یا صبح کو کہیں جانا۔  
 صبح کرنا۔ صبح ہو جانا۔ خبر دار ہونا۔  
 اصحابا - صبر کرنا۔ صبر کا حکم دینا۔ روک دینا  
 اصباح - نعمت کو تمام اور کامل کرنا۔

اصحیح - اصحیح۔ اصحیح۔ اصحیح۔ اصحیح۔  
 اصحیح۔ اصحیح۔ اصحیح۔ اصحیح۔  
 اصحیح۔ اصحیح۔ اصحیح۔ اصحیح۔  
 اصحیح۔ اصحیح۔ اصحیح۔ اصحیح۔

اصبوحة - صبح  
 اصحیح - بہت زیادہ صبح  
 اصحاب - دوست و مصاحب والا ہونا۔ مصاحب  
 کرنا۔ حفاظت کرنا۔ روکنا

اشقی - بہت بد بخت  
 اشکال - کام کا پورے طور پر ہونا اور مستحکم ہونا۔  
 حروف کو اعراب اور نقطے دینا۔

اشلال - ہاتھ کو خشک کرنا۔  
 اشتم - اونچی تاک والا۔ بہت سونگھنے والا۔  
 بلند پہاڑ۔

اشیمناز - کسی سے بچنا۔ نفرت کرنا۔  
 اشتمال - کسی کو شتم یعنی چاوردینا۔ چاورد والا ہونا  
 شمالی ہوا میں جانا۔  
 اشتماء - سونگھنا۔ سونگھنا۔ حرف کو ضمہ یا کسرہ  
 کی پودینا کر مثنیٰ نہ جاوے۔

اشتان - ایک گھاس ہے کہ پتا اس میں نہیں ہوتا۔  
 اسے غاسول بھی کہتے ہیں کیوں کہ بطور  
 صابون کے کپڑا دھونے میں بھی اس کو  
 استعمال کیا جاتا ہے۔

اشتیع - بہت بڑا۔ زشت۔  
 اشواء - گوشت بھڑونا۔ بھنا ہوا گوشت  
 کھلانا۔

اشہاد - حاضر کرنا۔ راہ خدا میں مارا جاتا ہوا جموٹا گواہ  
 کرنا۔ روک لی کا پالغ ہونا۔

اشہار - مشہور کرنا۔ مہینہ صبر تک ایک حالت  
 پر درمنا۔ حاضر عورت کا نوں مسینہ  
 میں پہنچنا۔

اصطلاح - باہم صلح کرنا کسی فن سے متعلق کوئی طے شدہ عمارت۔  
 اصطناع - دعوت کرنا۔ بھلائی کرنا اپنی طرف سے ایک کام نکالنا۔ حکم دینا۔ کسی کو اپنی ذات کے لئے چھانٹنا اور اختیار کرنا۔  
 اصطیاد - شکار کرنا۔  
 اصغاب - کام کا دشوار ہونا۔ دشوار پانا۔  
 اصغاد - سیر و سفر کرنا۔ وادی میں اترنا۔ اوپر چڑھنا۔  
 اصعب - بہت سخت۔  
 اصغاء - کسی کی بات پر کان لگانا۔ کان کو خوب متوجہ اور نکل کرنا۔ برتن کو کچ کرنا۔  
 اصغاس - چھوٹا کرنا۔ خوار کرنا۔  
 اصغدر - بہت ہی چھوٹا۔  
 اصغاء - مال سے خالی ہونا۔ ختم کر دینا۔ اختیار دینا خالص دوستی کرنا۔  
 اصفاح - پھیرنا۔ پلٹنا۔  
 اصغاد - مضبوط باندھنا۔ اور قید کرنا۔  
 اصغر - زرد۔  
 اصغاد - زرد ہونا۔  
 اصغیاء - برگزیدہ لوگ۔ وہ۔ صغیہ  
 اصطل - جڑ۔ بنیاد۔ قاعدہ۔ جہ۔ اصول  
 اصلاک - آگ میں ڈالتا۔  
 اصلاح - درست کرنا۔ بھلائی کرنا۔  
 اصلاح - آپس میں نیکی کرنا۔ باہم صلح کرنا۔ جمع ہونا۔  
 اصلاک - زمین کا سمت ہونا چھتاق کا آگ نہ دینا۔  
 اصلمہ اللہ - اللہ بھلا کرے (دعا)  
 اصلم - جس کے سر کے آگے کے بال نہ ہوں۔  
 اصم - ہرا۔ بات نہ سننے والا۔ جہ۔ صم

اصحاب الشمال - دوزخی۔  
 اصحاب الفیل - لشکر ابرہہ جس نے قبل بخت غزوہ کعبہ کو مسمار کرنے کا ارادہ کیا۔  
 اصحاب الیمنین - جنتی۔  
 اصحاب - تندرست کنبہ والا ہونا۔ تندرستی عطا کرنا۔ خدو لگانے کا مرقن کو دہر کرنا۔  
 اصحاب - بائبل کا باب۔  
 اصحاب - کتابوں کا جمع ہونا۔ کتابوں کا جمع کرنا۔  
 اصحہ - سیاہ زردی ناکل ہونا۔ جہ۔ صغہ  
 اصداد - زخم کا مواد والا ہونا اور کسی کام سے روکنا۔  
 اصدا - صادر کرنا۔ ظاہر کرنا۔ وعاہ لوٹانا۔  
 اصدا - اخبار نکالنا۔ حکم جاری کرنا۔  
 اصداغان - صد فیہ یعنی کپٹیوں کے نیچے دوڑیں۔  
 اصداق - بہت سچا۔  
 اصدر - بوجھ۔ گناہ۔ پیمان۔ قسم۔ کان کا سوراخ۔ جہ۔ اصاس۔  
 اصراح - ظاہر کرنا۔  
 اصراخ - فریاد کو پہنچنا۔ مدد کرنا۔  
 اصراس - یعنی کام کا قصد کرنا اور اس پر دوام اور ثبات کرنا۔ دور چلا جانا۔ جلدی کرنا۔  
 اصترم - محتاج مرد۔ بہت عیالدار۔ بال بچوں والا۔  
 اصطباس - صبر کرنا۔ قصاص کے درپے ہونا۔ اپنے نفس کو چھڑا دینا۔  
 اصطبیل - چرواہے کے رہنے کی جگہ (شامی لغت)  
 اصطباخ - آپس میں شور اور فریاد کرنا۔ چلاتا۔  
 اصطفاہ - کسی کو دوسرے پر اختیار کرنا۔ پسند کرنا۔  
 اصطکاک - دروازہ کھٹکھٹانا۔  
 اصطلاہ - آگ میں تپنا اور گرم ہونا۔

إضراب - [رفی] رہنا [عن] اعراض کرنا۔  
 اَضْرَابٌ فِي الْعَمَلِ - اسطراک کرنا۔  
 اَضْرَابٌ - ضرر پہنچانا۔ دکھ دینا۔  
 اَضْرَاهُ - آگ بھڑکا کرنا۔  
 اَضْرَابُ - پہلو پر سونا سینہ کا زمین چھپان کرنا۔  
 اَضْرَابٌ - حرکت کرنا۔ غراب ہو جانا۔ باہم جگ  
 کرنا۔ آہستگی سے لمبا ہونا۔  
 اَضْرَابٌ - [انی] کسی کو مجبور اور حاجت مند کرنا۔

احتیاج۔  
 اَضْرَامٌ - آگ کا بھڑکانا۔ برص ہلچے کا آجانا اور  
 بال سفید ہو جانا۔  
 اَضْعَاثٌ اَخْلَاهُ - پراگندہ خواب۔

اَضَلَّ - بہت گمراہ  
 اِضْلَالٌ - گم کرنا۔ دفن کر کے غائب کر دینا۔  
 ضائع کرنا۔ ہلاک کرنا۔

اِضْمَاسٌ - پوشیدہ رکھنا۔ پوشیدہ کرنا۔ فریبی کے  
 بعد لا کر کرنا۔ انتہا کو پہنچنا۔  
 اِضْمِخَالٌ - بکھر جانا۔ فنا ہو جانا۔

اِضْتِئَاءٌ - عورت کا کثیر العیال ہونا۔ بہت والد ہونا  
 کسی کو بیماری کا سست اور کمزور کر دینا۔

## ا-ط

اَطْبِيطُ - (ض) پالان وغیرہ کا آواز کرنا۔ چر کرنا۔  
 اَطَابَةٌ - خوش کرنا۔ خوشبو بنانا۔ حلال اور پاکیزہ کرنا  
 اچھی اور شیریں بات کہنا۔ مزید رکھنا لانا  
 حلال عورت کو نکاح میں لانا۔ خوش مزہ  
 بنانا۔ پاک کرنا۔ استنجاء کرنا۔

اَطَاحَةٌ - ہلاک و تباہ کرنا۔ نیست و نابود کرنا۔  
 بال گرا دینا۔

سخت اور چکنا پتھر۔ کینہ  
 اِضْمَاءٌ - جلدی کرنا۔ ہلکا ہونا۔ پھرتیلا ہونا۔  
 اِضْمَاتٌ - خاموش ہونا۔ خاموش کرنا۔  
 اِضْمَامٌ - بہرا ہونا۔ بہرا کر دینا۔  
 اِضْتِنَافٌ - قسمیں۔ وہ۔ صنف  
 اِضْتَاهُ - بُت۔ وہ۔ صتم  
 اِضْوَالٌ - جڑ۔ بنیاد۔ وہ۔ اصل۔  
 اِضْهَاتٌ - کسی کا داماد ہونا۔ کسی کے ساتھ نبی تعلق  
 کا ہونا۔

اِصِيلٌ - ہلاکت۔ موت۔ محکم۔ استوار۔ ذہین۔  
 شریف۔ وقت ماہین عصر و مغرب۔  
 ج۔ : اصل

## ا-ض

اِضَاعَةٌ - روشن ہونا۔ روشن کرنا [ب] پیشاب کرنا  
 اِضَاعَةٌ - ہلاک کرنا۔ نامکمل چھوڑ دینا۔ ناکارہ کرنا  
 اِضَاقَةٌ - ہمانداری کرنا۔ غم دینا اور موڑنا نسبت کرنا  
 برطھانا۔ لگانا۔ تیز دوڑنا۔  
 اِضَاقَةٌ - تنگ کرنا۔ مال کا ہاتھ سے جانا۔ مفلس  
 ہو جانا۔ نیاز مند ہونا۔

اِضْبَادَةٌ - قائل۔ ح۔  
 اِضْجَاسٌ - غمگینی کرنا۔ ملول کرنا۔  
 اِضْجَاعٌ - پہلو پر ٹانہ نیچے اتارنا۔ جھکانا۔  
 اِضْجَاكٌ - منسووانا۔ تعجب میں لانا۔  
 اِضْجُوکَةٌ - ہنسی کی بات۔  
 اِضْغَى - سفید گھوڑا۔

رَبْوَمُ الْاَضْحَى - قربانی کا دن۔ یوم عید قربان۔  
 اِضْجِيْبَةٌ - قربانی کا جانور کہ چاشت کے وقت یا روز  
 اضحیٰ میں ذبح کریں ج۔ : اَضْحَى

اَطْعَاء۔ نافرمانی کرنا۔ ظلم رابھارنا (مادہ طعمہ)	اَطْعَام۔ فریم۔ چوکھٹا۔ حر۔
سرکش بنانا۔ (مادہ طعمی)	اَطْعَامَات۔ اُطْطَا۔ مال کے حصے بھرے کرنا۔
اَطْعَى۔ برطاسرکش۔	اَطْعَاعَت۔ فرماں برداری کرنا۔ تابعداری کرنا
اَطْعَاء۔ آگ بجھانا۔	اَطْعَاة۔ (یعنی رات کو اگر اترا تو ب) قریب ہونا اور احاطہ کرنا۔
اَطْفَال۔ لڑکے۔ و۔ و۔ طفل	اَطْعَاة۔ طاقت رکھنا۔ کر سکتا۔
اَطْلَاع۔ آفتاب کا نکلنا۔ اپنے عہد سے واقف کرنا۔ گھاس کا شگوفہ نکال لانا۔ طلوع فجر کے وقت اس کی طرف دیکھنا۔ بھلائی کرنا۔ قے کرنا۔ تیرے نشانہ کو پار کر جانا۔	اَطْعَاة۔ دراز کرنا۔
اَطْلَاع۔ بھانگنا۔ مطلع ہونا۔	اَطْعَاة۔ ملک اٹلی۔
اَطْلَاق۔ قید سے چھوڑنا۔ طلاق دینا۔ مویشی کو چرنے پھوڑ دینا (کوئی بات) بغیر قید لگانے کنا (دل) کسی کو اجازت دینا۔	اَطْعَاة۔ پکا ہوا ہوتا۔ پکا کر کوئی چیز تیار کرنا۔ بھرتنا۔ ہانڈی چڑھانا۔
اَطْلَاقُ النَّار۔ فائر کرنا۔	اَطْعَبَاق۔ ڈھک لینا۔ اجماع اور اتفاق کرنا۔ ساری پکا کثرت سے اور خوب نمایاں ہونا۔ مینہ کا مسلسل برسنا۔ کسی چیز کو نیچے اوپر کر کے رکھنا۔ تہ بہ تہ ہنسنے برابر کرنا۔
اَطْلَس۔ ریشمی کپڑا۔ حر۔ اٹلس۔	اَطْعَاء۔ خوب تعریف کرنا۔
اَطْمَاع۔ امید وار کرنا۔ حریفوں کو	اَطْعَاح۔ ڈال دینا۔ دور کرنا۔
اَطْمِئْتَان۔ (زمین کا) نیچا ہونا۔ مطمئن ہونا۔ وہاں کہیں ٹھہرنا (اٹلی) کسی پر بھروسہ کرنا۔	اَطْعَاد۔ دور کرنے کا حکم دینا۔ شہر بدر کرنا۔
اَطْنَاب۔ لمبا کرنا۔	اَطْعَاد۔ کسی کام کا سلسلہ جاری رہنا۔ بہنا۔
اَطْنَب۔ لمبا۔ لمبی پیٹھ والا جبر۔ اَطْنَبُون۔	اَطْعَاف۔ صحیحہ۔ کنا رے وہ طہرات
اَطْوَاء۔ اپنے آپ کو بھوکا رکھنا اور کچھ نہ کھانا۔	اَطْرَاق۔ خاموش ہو جانا۔ آنکھیں پٹی کر لینا۔ سر جھکانا۔
اَطْوَاء۔ لپٹا ہوا ہونا۔	اَطْتَاب۔ طول دینا۔ شاعر کا تعریف یا مذمت میں مبالغہ کرنا۔ ستر کا ٹوراڑ ہونا اور دور تک چلا جانا۔
اَطْوَال۔ دراز کرنا۔	اَطْعَام۔ کھانا۔ درخت کا میدہ کو پکا دینا۔ پھل کا پکانا۔ درخت میں بیوند لگانا۔
اَطْوَل۔ بہت لمبا۔ جبر۔ اَطْوَال۔	اَطْعَام۔ (کھانا) لذیذ ہونا۔ پھل کا پکا ہوا ہونا۔
اَطْهَد۔ بہت پاکیزہ۔	اَطْعَان۔ ایک دوسرے کو بیوند مارنا۔ آپس میں طعن کرنا۔ طنز کرنا۔
اَطْهَد۔ پاک ہونا۔ حیض وغیرہ کے بعد عورت کو غسل کرنا۔ گناہ اور برہنہ فعل قبیح سے پرہیز کرنا۔	
اَطْيَب۔ بہت پاکیزہ۔	
اَطْيَبَان۔ (تشنہ اَطْيَب) کھانا اور جماع کرنا۔	

دہن اور فرجِ صحت اور جوانی

## ۱-ظ

اَطْقَاسِ - کسی چیر میں ناخن گھسانا - فخمند کرنا۔  
 اَطْلَالِ - سایہ دار ہونا۔ سایہ ڈالنا کسی کی طرف مرکزنا  
 اَطْلَافِ - رات کا تاریک ہونا۔ تاریکی میں داخل ہونا  
 تاریکی میں جانا۔ ظلم پر اتر آنا۔  
 اَطْلَافِ - ظلم سہنا اور برداشت کرنا۔ تحمل کرنا۔  
 اَطْلَحَ - بڑا ظالم۔  
 اَطْلَمَاءِ - پیاسا کرنا۔  
 اَطْمَاسِ - ظاہر کرنا۔ ظہر کی نماز پڑھنا اور علیٰ فتح دینا۔  
 بہت ظاہر

## ۱-ع

اِعَادَہ - کسی کو اس کی جگہ پر پھیر دینا۔ لوٹانا۔  
 اِعَادَۃ - حفاظت کی دعا کرنا۔ پناہ دینا۔  
 اِعَاثَۃ - کوئی چیز مانگی ہوئی دینا۔ مستعار دینا۔  
 (گھوڑے کا) چرائی پر چھوڑنا۔ موٹا کرنا۔  
 اِعَالَۃ - مفلس و محتاج ہو جانا۔ اخراج کے حساب  
 میں سهام زیادہ ہونا۔ نفقہ دینا۔  
 اِعَاثَۃ - مدد کرنا۔  
 اِعْتَاد - تیار کرنا۔ مہیا کرنا۔  
 اِعْتَقَاقِ - آزاد کرنا۔  
 اِعْتِبَاسِ - غور کرنا۔ دفعت کرنا۔ غور سے دیکھنا۔  
 جب کسی چیر سے نصیحت حاصل کرنا۔  
 عبرت حاصل کرنا۔ من کسی چیز پر تعجب  
 کرنا۔  
 اِعْتَدَاہ - و علیٰ ظلم کرنا۔ زیادتی کرنا۔  
 اِعْتِدَادِ - شمار میں آنا۔ شمار میں لانا۔ عدت میں بیٹھنا

اِعْتِدَالِ - میانہ روی اختیار کرنا۔ سیدھا ہونا۔  
 اِعْتِدَادِ - شکایت کرنا۔ عذر بیان کرنا۔ معدوم ہونا  
 (نشان کا) مٹ جانا۔  
 اِعْتِرَآءِ - آگھیرنا۔ گھیر لینا۔ آگے آنا۔  
 اِعْتِرَآضِ - خود کو دکھانا۔ پیش کرنا۔ ظاہر ہونا۔  
 [دودن] [حالی ہونا] [علیٰ] [عیب بیان  
 کرنا۔  
 اِعْتِرَآفِ - اقرار کرنا [ولی] [اپنی حالت سے] آگاہ کرنا  
 ذیل و خوار ہونا۔  
 اِعْتِرَآسِ - عزت دار ہونا۔ جب کسی کی وجہ سے اپنے  
 آپ کو معزز سمجھنا۔  
 اِعْتِزَالِ - جدا اور کیسو ہونا۔ علم کی قبول کرنا۔ دُور  
 ہونا۔ آپ منی کو ہمبستی کے وقت روکنا  
 اور محل کا قیام نہ چاہنا۔  
 اِعْتِسَافِ - خدمت چاہنا۔ ملازم رکھنا۔ دعوہ بلوہ  
 چلنا۔ راستہ سے ہٹ جانا۔  
 اِعْتِصَامِ - جب کسی سے لپٹ جانا۔ دامن میں چنگل  
 مارنا۔ گناہ سے لطفِ خدا تعالیٰ کی امید  
 پر باز رہنا۔  
 اِعْتِصَادِ - بازو میں لینا۔ جب مدد چاہنا۔  
 اِعْتِقَادِ - ایمان لانا۔ یقین کرنا۔ ذخیرہ جمع کرنا۔  
 ثابت ہونا۔ زمین دجا نداد وغیرہ حاصل کرنا  
 اِعْتِکَاسِ - پھرا ہوا ہونا۔ اٹھا ہونا۔  
 اِعْتِکَافِ - رکن۔ گوشہ نشین ہونا۔ انتظار کرنا۔  
 اِعْتِیْلَافِ - (دن کا) چڑھنا۔ بلندی پر چڑھنا۔ بلند  
 ہونا۔ اٹھنا۔  
 اِعْتِیْلَالِ - بیمار ہونا۔ کمزور ہونا۔  
 اِعْتِجَادِ - بہتسمہ دیا جانا [علیٰ] کسی پر بھروسہ کرنا  
 کسی کو اپنے کام سپرد کرنا۔

ہونا۔ زخمی کرنا۔ ہلاک ہونے کے قریب ہونا  
جلگ کرنا پاک ہونا۔

اِعْتِدَاء - تنگ کرنا۔ کھل جگہ میں قیام کرنا۔

اِعْتِدَاب - ریگستانی علاقہ کے عرب۔ بدو

اِعْتِدَاب - ظاہر کرنا۔ دوڑنا۔ دوڑانا۔ کلام کو  
درست کرنا۔ کلمہ کو معرب کرنا۔

اِعْتِرَاج - ننگڑا کر دینا۔ غروب کے وقت آنا۔

اِعْتِرَاس - بیوی کو گھر میں لانا۔ خلوت کرنا۔ صحبت

اور ہمبستی کرنا۔ جماع کرنا۔ ولیمہ کی دعوت  
کرنا۔

اِعْتِرَاض - چوڑا اور لمبا کرنا۔ چوڑا اور فراخ ہونا۔  
[عین] مزہ پھیرنا۔

اِعْتِرَاف - جنت اور دوزخ کے درمیان ایک درجہ  
ہے۔ ایک قسم کی کھجور۔

اِعْتِرَاج - ننگڑا۔

اِعْتِرَاس - مجتمع ہونا۔ تہ بہ تہ ہوجانا۔

اِعْتِرَاف - بہت شریف۔ بہت قوی بہت تادار۔  
بہت معزز۔

اِعْتِرَاف - عزت والے۔ و:۔ عجزین

اِعْتِرَاس - قوی کرنا۔ بزرگ سمجھنا۔ دوست رکھنا

اِعْتِرَاف - بے ہتھیار۔ غیر مسلح۔

اِعْتِسَاد - محتاج اور تنگ دست ہونا۔ مشکل میں پڑ  
جانا۔ بچہ جنینے میں عورت کو تکلیف ہونا۔

اِعْتِسَاد - قرض دار پر باوجود ناداری کے تقاضا کرنا  
بہت مشکل۔ سخت اور برداں۔ بائیں ہاتھ  
سے کام کرنے والا۔

اِعْتِسَاس - ٹھکے ٹھکے۔ ج:۔ اَعَايشَتِي

اِعْتِشَى - نابینا۔ کمزور نظر والا۔ جسے رونمہ کا مرض  
ہو۔ ایک مشہور عربی شاعر کا نام۔

اِعْتِمَاس - عمرہ کرنا۔

اِعْتِمَال - اپنے آپ کو کام میں رکھنا۔ عمل میں لانا۔

اِعْتِمَاف - عمامہ باندھنا۔ لہر کا اوپر چڑھنا۔ بالغ  
لڑکے کا قہہ آدر ہونا۔

اِعْتِنَاء - رنج دیکھنا اور غم خواری کرنا۔ کسی چیز کی  
پرہیز کرنا۔ کسی بات کی طرف توجہ کرنا۔

اِعْتِنَاق - ایک دوسرے کی گردن میں ہاتھ ڈالنا۔ آپس  
میں گلے ملنا۔

اِعْتِوَاس - چیز کو نرت نبوت لینا اور دست بردست  
پھرانا۔

اِعْتِبَاد - خوگر ہونا۔ پے در پے آنا۔

اِعْتِبَادِي - معمولی۔

اِعْتِسَاس - گرا دینا۔ یعنی کسی کو کسی چیز سے آگاہ کرنا

اِعْتِجَاب - تعجب میں لانا۔ تعجب میں آنا اور خوش ہونا  
خود کو فضیلت دینا۔

اِعْتِجَاس - عاجز ہونا۔ عاجز کرنا۔ کسی چیز کا فوت ہونا  
بلیغ کلام ہونا۔

اِعْتِجَاس - تنے۔ جڑیں۔ و:۔ عَجْزٌ

اِعْتِجَال - سبقت کرنا۔ جلدی کرنا۔ سرعت پر  
بر آہنگی کرنا۔ اونٹنی کا کچا بچہ کرنا۔

اِعْتِجَم - گزنگا جو صاف طور پر اور پوری بات نہ  
کر سکے بغیر مسرتی۔ ج:۔ اَعَايِجِم

اِعْتِجُوبَة - انوکھا کام۔ ج:۔ اَعَايِجِب -  
اِعْتِدَاء - دشمن۔ و:۔ عَدَاؤٌ

اِعْتِدَاد - تیار کرنا۔

اِعْتِدَاہ - نابود کرنا۔ مٹانا۔ ج:۔ مَرَاثِي مَوْت -  
اِعْتِدَاد - بہانہ کرنا۔ بستی کرنا۔ عذر کرنا۔ مبالغہ کرنا

مبالغہ کرنا۔ گناہ کار اور عیب دار ہونا۔ گناہ  
دینا۔ عذر کرنا۔ انصاف کرنا۔ صاحب عذر



اِعْصَاص - بگولا سخت ہوا اگر دلی ہوئی آندھی (مص) وقت بصر میں آنا۔ لڑکی کا بالغ ہونا۔	اِعْلَوْنَ - اظہار۔ تشہیر۔ نوٹس اَعْلَى - غالب۔ بلند مرتبہ۔ ۱۰۔ اَعْلَى اَعْلَى - بلند۔ اِعْتَمَاء - اندھا کر دینا۔
اِعْصَاب - ہوا کا سخت چلنا۔ ہلاک ہونا۔ سرعت سے چلنا۔ کھیت کے پنے نکلنا۔	اِعْتِمَاد - ستون قائم کرنا۔ سہارا لگانا سہارا دینا اِعْتِمَاس - کسی کو کسی جگہ کا باشندہ بنا دینا۔ زمین کو آباد پانا کسی کو کسی جگہ بسانا بعمرو کرنا۔
اِعْصَاب - کسی کے دامن کو مضبوط تھا مینا۔ برائی سے محفوظ رہنا۔ مشک کے منہ پر سبز بازو ہونا اِعْضَال - کام کا دشوار ہونا۔ تنگ آنا۔ ناخوش ہونا ناخوش رکھنا۔	اِعْتِمَاق - گہرا کرنا۔ اِعْتِمَال - کام میں لانا۔ کام کا حکم دینا۔ اپنی رائے اور سمجھ سے کام کرنا۔
اِعْطَاء - آپس میں لینا دینا۔ بخشش کرنا۔ تباہی بھرا ہونا دعا کو قبول کرنا۔	اِعْتِمَاح - بہت چھون والا ہونا۔ چچا ہونا۔ اِعْتِمَاش - کمزور نگاہ والا۔ وہ جس کی آنکھوں سے رطوبت بہتی رہے۔
اِعْطَاش - پیاسا کرنا۔ پیاسا پانا۔	اِعْطَاش - نابینا ہونا۔ بھینسی (موتی) عَمِيَاءُ نادان اِعْطَال - خالی کرنا۔ چھوڑنا۔
اِعْطَر - زیادہ خوشبو والا۔	اِعْطَاف - پاک و مبرا کر دینا۔ معافی دینا۔ بالوں کا چھوڑ دینا۔ زائد مال کو خرچ کرنا۔
اِعْظَم - بزرگ۔ بڑا بزرگ۔	اِعْقَاف - پارہ کر دینا۔ حرام سے روک دینا۔
اِعْقَاء - خداتعالیٰ کا رنج و بلا سے محفوظ رکھنا پاک و مبرا کر دینا۔ معافی دینا۔ بالوں کا چھوڑ دینا۔ زائد مال کو خرچ کرنا۔	اِعْقَاب - ایڑیاں۔ وہ۔ عقیب۔
اِعْقَاب - بزرگ۔ بڑا بزرگ۔	اِعْقَاب - باری باری سے سوار ہونا۔ بدلہ اور جزا دینا۔ جان نشین چھوڑنا۔
اِعْقَاء - خداتعالیٰ کا رنج و بلا سے محفوظ رکھنا پاک و مبرا کر دینا۔ معافی دینا۔ بالوں کا چھوڑ دینا۔ زائد مال کو خرچ کرنا۔	اِعْقَاد - بانجھ کر دینا۔ رحم کا ہیما کر دینا۔ ڈرانا سہانا۔
اِعْقَاء - خداتعالیٰ کا رنج و بلا سے محفوظ رکھنا پاک و مبرا کر دینا۔ معافی دینا۔ بالوں کا چھوڑ دینا۔ زائد مال کو خرچ کرنا۔	اِعْلَاء - کسی چیز پر چڑھنا۔ بلند کرنا۔ کناہ کش ہونا۔
اِعْقَاب - باری باری سے سوار ہونا۔ بدلہ اور جزا دینا۔ جان نشین چھوڑنا۔	اِعْلَال - بیمار کر دینا۔ خبر دینا۔
اِعْقَاد - بانجھ کر دینا۔ رحم کا ہیما کر دینا۔ ڈرانا سہانا۔	اِعْلَان - ظاہر کرنا۔ مشہور کرنا۔ کھولنا۔ پھیلانا۔
اِعْقَاء - خداتعالیٰ کا رنج و بلا سے محفوظ رکھنا پاک و مبرا کر دینا۔ معافی دینا۔ بالوں کا چھوڑ دینا۔ زائد مال کو خرچ کرنا۔	

اغتشاش - کسی چیز میں کھوٹ کا گمان کرنا دھوکہ کھانا۔  
 اغتصاب - عین لینا۔  
 اغتصاب - غصہ میں آنا۔  
 اغتلام - شہوت جوارح کا تیز ہونا۔ لواطت کرنا۔  
 اغتیار - پانی میں نیچے گھسنا۔ پانی کا اپنی کفرت کے سبب کسی چیز کو ڈھانپ لینا۔  
 زعفران سے رنگنا۔  
 اغتنام - غم گین ہونا۔ گھاس کا لمبا ہونا۔  
 اغتباب - غیبت میں پڑنا۔ کسی کے نیچے اس کی برائی کرنا۔  
 اغتباط - غصہ ہونا۔  
 اغتبال - ہلاک کرنا۔ دھوکے سے قتل کرنا۔ بچہ سکا موٹا تازہ ہونا۔  
 اغتزاز - نیک آدمی۔ نیک کردار۔ شریف مزاج فیاض۔ سخی حسین۔ سفید پیشانی والا۔ گھوڑا۔ م۔ غترا۔ ج۔ عتار۔ غلطان  
 اغتراء - برہنہ کرنا۔ بھڑکانا۔ دو آدمیوں میں دشمنی کرنا۔ لگانا۔  
 اغتراد - آواز کو بلند کرنا اور خوش الحانی کرنا۔ اور آواز کو گلے میں پھرانا۔ گانا۔  
 اغتراس - درخت جمانا۔  
 اغتراق - ڈبڑو دینا۔ پیالہ کو اوپر تک بھر دینا تعریف و مہمت میں مبالغہ کرنا۔  
 اغترار - تادان ڈالنا۔  
 اغتریق - یونانی قوم۔ ج۔  
 اغترسال - بیوی کا شوہر سے لڑنا۔ روانی کا سامان

آغواہ - سال - وہ - عام۔  
 آغویج - بدخو۔ ٹیڑھا۔ ج۔ عویج۔  
 آغویجاہ - ٹیڑھا ہونا۔  
 آغوس - کان آدمی۔ ج۔ عوس بے نشان راستہ  
 آغین - بڑی آنکھوں والا۔ ج۔ عین  
 آغیان - خواص۔ ح دارالامراء کے گمن۔ وہ بچی

ا-ع

اغتاتہ - فریاد کو پہنچنا۔  
 اغتاسا - لوثنا۔ کھسوٹنا۔ مدد کے لئے آنا بغیر دلانا۔  
 اغتاصتہ - پانی کو کم کر دینا قیمت کو کم کر دینا۔ زمین میں پانی کھسا دینا۔  
 اغتباب - بچا کا ایک دن نافذ کر کے آنا۔ گوشت کا بدبودار ہوجانا۔ ایک دن نافذ کر کے کھیں جانا۔ رات گزارنا۔  
 اغتباس - زوق کو کوشش کرنا۔ گردا گردانا مینہ کا زور سے برستا۔  
 اغتبر - بھیرٹ یا۔ خاک کی رنگ کی چیز۔ ناپا تدار۔  
 اغتبراد - غبار آلودہ ہونا۔  
 اغتباط - اچھی حالت میں ہونا۔ خوش ہونا۔  
 اغتبداء - کھانا۔ پرورش پانا۔  
 اغتباب - اپنے ملک سے دور ہوجانا بغیروں میں نکاح کرنا۔  
 اغتراس - فریفتہ ہونا۔ غافل۔ بیخبر ہونا بخلت میں پڑنا۔ بے خبری میں آنا۔  
 اغتراف - پانی کو چلو سے لینا۔  
 اغترال - کاتنا۔  
 اغترسال - غسل کرنا۔

اَعْلَب - اکثر۔ موٹی گردن والا۔  
 اَعْلَبِيَّة - اکثریت۔ مجاہدی - ح۔  
 اَعْلَف - جو چیز غلاف میں ہو۔ بے قوتتہ کیا ہوا۔  
 دل نہ کسی چیز کو یاد نہ رکھے۔  
 اَعْلُوَطَة - غلط بات۔ دھوکے میں ڈالنے والی بات  
 جہ۔ اَعْلُوَطَات - دہ۔ آخالیط  
 اِعْمَاء - بیہوشی۔ بیہوش کرنا۔ پوشیدہ اور مشتبہ  
 ہونا۔ اس اخیر معنی میں مجہولاً مستعمل سے  
 اِعْتَاء - بے پروا بنانا۔ غنی کرنا (عن کسی کی جگہ  
 کافی ہونا۔ قائم مقام ہونا۔  
 اِعْوَاء - بہکانا۔

## ا-ف

اُف - ہوں۔ تھو تھو۔ واسے (کل نفرت) میں کچل  
 تراشہ۔  
 اِقَاعَة - پھر جانا۔ پھیر دینا "فی" میں دینا۔ سایہ  
 کا پلٹنا۔  
 اِقَاتَة - چھوڑنا۔ فوت کرنا۔  
 اِقَابَة - دوڑنا۔ تیر چلنا۔  
 اِقَادَة - فائدہ پہنچانا۔ ہلاک کرنا۔ مروا دینا (من)  
 فائدہ حاصل کرنا۔ ح۔ خط۔ پیغام۔  
 اِقَادَة دَسِيمِيَّة - اعلان سرکاری۔  
 اِقَارَة - جوش دینا۔  
 اِقَارَة - فخر مند کرنا۔  
 اِقاصَة - پانی بہانا۔ عرفات سے معنی کی طرف روانہ ہونا  
 برتن پر کرنا کہ اس میں سے بریکے آتسو  
 بہانا۔ منتشر ہونا۔  
 اِقاصَة - مریض کا صحت کی طرف مائل ہونا جاگ جانا  
 ہوش میں آنا۔

مہینا کرنا۔ لڑائی پر ابھارنا۔ مہلت  
 دینا۔  
 اِعْتَال - نکلے کو پھارنا۔  
 اِعْزَل - بخارجہ دورہ کے ساتھ معین وقت پر آئے  
 بہت زیادہ غزل پڑھنے والا۔  
 اِعْسَاق - رات کا خوب تاریک ہونا۔ تاریکی میں  
 داخل ہونا۔ مغرب کے وقت دیر میں  
 اذان کہنا۔  
 اِعْسَاطَس - ماہ اگست۔ ح۔  
 اِعْشَاء - ڈھک لینا۔ اندھا کر دینا۔ نکال لانا۔  
 کسی پر کام ڈال دینا۔  
 اِعْصَاء - چشم پوشی کرنا۔ خاموش ہونا۔ ظاہر نہ کرنا  
 ڈھک لینا۔  
 اِعْطَاس - رات کا تاریک ہونا۔ تاریک کرنا۔  
 بھول جانا اور چھوڑ دینا۔ خاموش کرنا۔  
 اِعْقَال - غافل پانا۔ غافل کہنا۔ باوجود یاد کے  
 چھوڑ دینا۔  
 اِعْشَاء - نزع منگنا کرنا۔ گراں خریدنا۔ برطھنا۔  
 اور پیچیدہ ہونا (مادہ غلو) جو شش دینا۔  
 (مادہ غلی)  
 اِعْطَاط - غلطی میں ڈالنا۔  
 اِعْشَاط - سخت بات کہنا۔ سخت زمین پر ہینچنا سخت  
 اور موٹا کپڑا خریدنا۔ کپڑے کو سخت پانا  
 اِعْتَلَف - لباس بنانا۔ غلاف میں کرنا۔  
 اِعْتَلَق - دروازہ بند کرنا۔ ظلم و ستم سے باز رکھنا  
 اِعْتَلَال - لوہے کے طوق - د۔ غل  
 اِعْتَلَال - خیانت کرنا۔ پھینسا رکھنا۔ غلہ پیدا کرنا۔  
 غلہ منگوانا۔ پانی جمع کرنا۔  
 اِعْلَاه - شہوت تیز کر دینا۔

اِفْتِعال - جھوٹ اور بہتان باندھنا۔	آفَاک - بڑا جھوٹا۔
اِفْتِقاس - محتاج اور مفلس ہونا۔	اَفْک - تکلیف - رنج - محنت۔
اِفْتِکاک - شے مر ہونے کو پھیرنا۔	اِفْتِساء - ظاہر کرنا۔ فتویٰ کا جواب کہنا۔
اِفْتِکاس - کسی بات کو سوچنا۔ غور کرنا۔	اِفْتان - فتنہ میں ڈالنا۔ عورت کا دل کو لے جانا اور مفتون کر لینا۔
اِفْتِشار - تڑپ کے کئے وقت آنا۔ باہر پانا۔ زنا کرنا۔ چشمہ کے پانی کو باہر نکالنا۔	اِفْتتاح - شروع کرنا۔ کھولنا۔
اِفْتِاش - فحش گوئی کرنا۔ بدکلامی کرنا۔	اِفْتِتاحیہ - لیڈنگ آرٹیکل۔ مقالہ افتتاحیہ۔
اِفْتِشاہ - بولنے سے روک دینا۔ خاموش کرنا۔ شعر گوئی اور جواب دہی میں عاجز پانا۔	اِفْتِشاش - ڈھونڈنا۔
اِفْتِثار - (عملی) فہم میں کسی کو کسی پر فضیلت دینا اچھی اولاد پیدا کرنا۔	اِفْتِشان - فتنہ میں پڑنا۔
اِفْتِداء - قیدی کی جان پھرائی کی رقم اپنے ذمے لینا۔	اِفْتِتاحو - کسی پر اچانک آجانا۔
اِفْتِراج - چھوڑنا۔ کیسو ہونا۔ ختم کرنا۔ چھٹ جانا۔	اِفْتِتحار - ناز کرنا۔ اپنے پر اتنے فضائل و مناقب بیان کرنا۔
اِفْتِراح - خوش کرنا۔	اِفْتِتداء - قدیم دینا۔ جان پھیرنا۔
اِفْتِراد - تنہا کسی کام کو شروع کرنا۔ تنہا کام کرنا۔	اِفْتِترام - پوسٹ میں پہنچانا (دو) جھوٹ گھڑنا (ماہ ذری)
یکسو کرنا۔ جدا کرنا۔ حج مفرد ادا کرنا۔	اِفْتِراس - شیر کا گرون کی ہڈیاں توڑنا۔
اِفْتِساد - بھگا دینا۔	شکار کرنا۔
اِفْتِسامن - جدا کرنا۔ تمیز دینا۔ نزدیک ہونے اور شکار ہو جانے پر شکار کا موقع دینا۔	اِفْتِراس - صحبت و ہمبستی کرنا۔ زمین پر دونوں بازو پھیلاتا۔ غالب ہونا۔ کسی کو زمین پر کھچاڑنا۔
اِفْتِشاش - بری بات کہنا۔ بغیبت کرنا۔ تلوار کو تیز کرنا۔ فرش بچھنا۔ دروازے کا قفل بند کرنا۔	پھیلا یا جانا۔ کسی چیز کو ظلمًا لینا یا لوٹل کے پیچھے پامال کرنا۔
زعم آگ ہونا۔ دور ہونا۔	اِفْتِراس - فرصت کو غنیمت جانا۔
اِفْتِراس - فرصت کا حاصل کرنا۔	اِفْتِراض - فرض کرنا۔ ضروری قرار دینا۔ قوم کا نیست نابود ہونا۔
اِفْتِراض - عطا کرنا۔ چوپایہ کا عدد میں حد نصاب کو پہنچ جانا۔ زائل ہونا۔ کوئی چیز فسخ اور لازم کر دینا۔	اِفْتِراع - اپنے اوپر خوب پائی بہانا۔
اِفْتِراط - حد سے گذرنا۔ جلدی کرنا۔ ابر ہمارا کاجلد پر بنا بھول جانا۔ بھڑانا اور بیریہ کرنا۔	اِفْتِراق - الگ الگ اور جدا ہونا۔
اِفْتِراع - بہانا۔ ڈالنا۔	اِفْتِصاد - قصہ کھولنا۔
	اِفْتِصاح - رسوا ہونا۔ ظاہر اور عیاں ہو جانا۔
	اِفْتِضاض - بکارت زائل کرنا۔ پانی تھوڑا تھوڑا بہانا۔

اِحْقَاس - درویش اور فقیر کو دینا۔ عاریت دینا بشکار  
کا شکاری کو منقوع دینا۔

اِحْق - اِحْقُوت - اِحْقُوت (رض س) جھوٹ بولنا۔  
تہمت لگانا۔

[اِحْقَاك - اِحْقَانك - اِحْقُوك وصف کے  
صیغے ہیں۔ جہ:- اِحْقَك]

اِحْق - جھوٹ - تہمت - بہتان۔

اِحْقَاس - سوچنا۔ اندیشہ کرنا۔

اِحْقُودَهة - عجیب و غریب چیز۔ اعجب بہ۔ ظرافت

اِحْقَل - رخنہ دار تلوار۔

اِحْقَلَاء - جنگل میں ہونا۔ بیابان میں داخل ہونا۔

اِحْقَلَاك - حاصل کرنا۔ کامیاب ہونا۔ غالب آنا۔

اِحْقَلَات - چھوڑنا۔ رہا کرنا۔ رہا ہونا۔

اِحْقَلَاك - فلاح پانا۔ نیک کرنا۔

اِحْقَلَاك - مفلس ہونا۔ اس درجہ کو پہنچنا کہ لوگ کہنے

لگیں یہ ایک پیسہ نہیں رکھتا۔ دیوالیہ

ہوجانا۔

اِحْقَلَاك - آسان - وہ:- قَلَّتْ

اِحْقَلَاك - آسان اور الگ الگ دانوں والا۔

اِحْقَلَاء - نیست کر دینا۔ فنا کر دینا۔

اِحْقُول - (رض س) غائب ہونا۔ چھپ جانا۔

غریب ہونا۔

اِحْقَام - سمجھانا۔

اِحْقِيُون - ایفیم۔

## اِحْق

اِحْقَادَة - کھینچنے کے لئے کسی کو چوپایہ حوالہ کرنا۔

اقبال کو مار ڈالنا۔ قصاص کا حکم دینا

اِحْقَارِب - رشتہ دار لوگ۔ بھائی بند۔ کنبہ

اِحْدَاق - (من) صبح اور نندرست ہوجانا۔ بیاری  
سے صمت پانا۔

اِحْدِجَة - اِحْدِج - اِحْدِج کا معرب۔ یوروپین۔

مشرقی۔

اِحْدِيقَة - بڑا عظیم افریقہ۔

اِحْدِاع - مدد کرنا۔ فریاد کو پہنچنا۔ ڈرانا۔ آگاہ کرنا

بے خون کرنا۔

اِحْسَاح - حلیہ کا فراخ ہونا۔

اِحْسَاد - تباہ و خسراب کر دینا۔

اِحْسَاء - ظاہر کرنا۔ بھید کرنا۔

اِحْصَاح - فصاحت سے بات کرنا۔ صبح کا روشن ہونا

کلام کو خوب واضح کرنا ظاہر اور عیاں

کرنا۔

اِحْصَاح - بہت فصیح بہت گویا۔

اِحْصَاء - کھلے میدان میں جانا۔ فراخ ہونا۔ وسیع

ہونا زانی امور کی دونوں راہوں یعنی

قبل اور دبر کو ایک کر دینا۔ جماع کرنا۔

راز بیان کرنا۔

اِحْصَال - باقی چھوڑ دینا۔ زیادتی اور افزودنی عطا

کرنا۔ زیادتی اور افزودنی کرنا بجھائی

کرنا۔

اِحْصَاح - کم سپید۔

اِحْقَاس - روزہ کھولنا۔ روزہ کھلوانا۔ روزہ کھولنے

کا وقت آجانا۔

اِحْقَام - بچے کا دودھ پھرانے کے وقت کو پہنچنا۔

اِحْقَاع - بڑا سانپ۔ ایک قسم کا خبیث سانپ

جہ:- اِحْقَاعِی -

اِحْقُوق - اِحْقُوق - کنارہ۔ آسمان کا کھلا ہوا کنارہ۔

جہ:- اِحْقَاق

دوسری سے متصل ہونا۔ شادی کرنا۔  
 اِقْتِسَاط - تقسیم کرنا۔ اپنا حصہ لینا۔  
 اِقْتِسِمَہ - تقسیم کرنا۔  
 اِقْتِسِمَا د - میانہ روی کرنا۔  
 اِقْتِسَامَہ - علم اِقْتِسَامَہ - اکا نوکس۔ ح۔  
 اِقْتِسَاس - کافی ہونا۔ کسی چیز پر رک جانا آگے نہ  
 بڑھنا۔  
 اِقْتِسَاص - کسی کے نشانات قدم پر چلنا۔ قصاص لینا۔  
 پیروی کرنا۔ روایت کرنا۔  
 اِقْتِسَاہ - تقاضا کرنا۔ لازمی ہونا۔ حاجت مند ہونا  
 اِقْتِسَاط - بے تکلف شعر کہنا۔ کاٹنا۔  
 اِقْتِسَاص - جوان رطل کی بکارت زائل کرنا۔ کوارپن  
 توڑنا۔  
 اِقْتِسَاط - میوہ چننا  
 اِقْتِسَاہ - کسی کے پیچھے چلنا۔ خاص کرنا حصہ رکھنا  
 اِقْتِسَاص - پیچھے چلنا۔ پیروی کرنا۔ گوشت کو ہڈی  
 سے جدا کر کے کھانا۔  
 اِقْتِسَاع - جڑے لے اٹھانا۔ اٹھ جانا۔ اچک کر  
 لے جانا۔  
 اِقْتِسَاہ - کافی کرنا جمع کرنا۔ لازم پکڑنا۔ ڈھیر  
 جمع کرنا۔  
 اِقْتِسَاص - شکار کرنا۔  
 اِقْتِسَاع - دب [تخاص] کرنا۔ راضی ہونا۔ مائل ہونا  
 قائل ہونا۔  
 اِقْتِسَامَہ - غذا حاصل کرنا۔ روزی میا کرنا۔  
 اِقْتِسَامَہ - چہ پایہ کوھینچنا چہ پایہ کاھینچنا لازم و  
 متعدی۔  
 اِقْتِسَامَہ - باونہ۔ ح۔۔۔ آخاری  
 اِقْتِسَامَہ - قوت اور کرنا۔

۱۰۔ اِقْتِسَاب -  
 اِقْتِسَابَہ - عقرب سے کوفخ کر دینا۔ گنا معاف کرنا۔  
 ح۔ نوکری سے عملدہ کر دینا۔  
 اِقْتِسَامَہ - کھڑا کرنا۔ سیدھا کرنا اور کجی دور کر دینا  
 ہمیشہ رہنا۔ ہمیشہ قائم رکھنا۔  
 اِقْتِسَامَہ - وطن کرنا۔ قہر بنانا۔  
 اِقْتِسَال - [علی] سامنے آنا۔ سامنے سے آنا۔ کسی کے  
 سامنے کوئی چیز رکھنی۔ نادانی کے بعد عقلمند  
 ہونا۔  
 اِقْتِسَامَہ - حشر چ میں تنگی کرنا۔ ضرورت مند اور حاجت مند  
 ہونا۔  
 اِقْتِسَال - قتل کرنے کے لئے دینا۔ قتل گاہ میں  
 لے جانا۔ قتل پر صابر بنانا۔  
 اِقْتِسَامَہ - آگ کی لو کو پکڑنا (فائدہ اور ظلم حاصل کرنا  
 فائدہ دینا۔ اور ظلم دوسرے کو رکھنا۔  
 اِقْتِسَال - باہم لڑنا۔ مخاصمہ جنگی کرنا۔  
 اِقْتِسَامَہ - حملہ آور ہونا۔ اچانک ٹوٹ پڑنا۔  
 اِقْتِسَاہ - کسی کے پیچھے چلنا۔  
 اِقْتِسَاد - قادر ہونا۔ ہانڈی میں پکانا۔  
 اِقْتِسَاہ - پڑھنا (مادہ قراء) مہمانی کرنا۔ مہمانی پاتنا  
 (مادہ قری)  
 اِقْتِسَاب - نزدیک ہونا۔  
 اِقْتِسَامَہ - حاضر جوابی سے بات کہنا۔ نئی بات کہنا۔ بغیر  
 اس کے کہ کسی سے سنی ہو۔ پسند کرنا۔  
 [علی] سختی سے مطالبہ کرنا۔  
 ح۔ ایجاد۔ تحریک۔ درخواست۔  
 اِقْتِسَامَہ - [من] ادھار لینا۔ غیبت کرنا۔  
 اِقْتِسَامَہ - کانا۔ گناہ میں پڑنا۔ متہم ہونا۔  
 اِقْتِسَامَہ - کسی کا بارود مدگار بننا [دب] ایک چیز کا

اَقْصَى - بہت دور۔ انتہائی حد۔ کان کٹا ہوا اونٹ  
ج:۔ اَقْصَى۔

اَقِط - اَقِط۔ پنیر۔ ج:۔ اَقِطَان  
اَقْفَاس - کٹارے جتنے۔ قطعات زمین۔ و:۔  
قَطْر۔

اِقْطَاع - کاٹنے کا حکم دینا۔ کاٹنے کا وقت آجانا  
کٹنا۔ خاموشی اور لاجواب ہوجانا۔

اِقْطَاع - تمکید لگا کر بیٹھنا۔ پیچھے مٹھانا۔ بلند ہونا  
سجدے میں دونوں سرینوں کو ایڑیوں  
پر رکھنا۔ اس طرح بیٹھنا کہ سرین میں سے گئے  
ریں اور تپڑیاں کھڑی رہیں اور پیچھ کو سارا  
لگا لیا جائے۔

اِقْتَاد - بعضی اقعار۔ بٹھانا۔ ننگڑا ہونا۔ تھکانا  
خدمت کرنا۔

اِقْفَاس - جگہ کا خالی ہونا۔ جگہ کا بغیر گھاس اور پانی  
کے ہونا۔ جنگل میں دور بھوکا پیا سا چاڑھنا  
بھوکا ہونا۔ کسی مقام کو خالی اور بے  
آب و گیاہ پانا۔

اِقْفَال - قفل لگانا۔ کسی کو دیکھنا و عن، ٹوٹنا  
واپس کرنا۔

اِقْقَاع - زعن کا م سے باز رہنا۔ قلعہ بنانا۔ بنجار  
اتر جانا۔

اِقْقَال - کم کرنا۔ تھوڑا سالانا۔ اٹھانا مفلس اور  
فقیر ہونا۔

اَقْلَفْت - غیر مغنون۔ ج:۔ قُلْفْت اچھی اور  
فراخی کی زندگی۔ از زانی اور فراخی کا سال

اِقْدِيم - ربح مسکون کا ساتواں حصہ۔ ج:۔ صوبہ  
ج:۔ اَقْدِيم۔

اِقْلِيمِيَا - چاندی اور سونے کا دھواں کہ گلخانے

اِقْتَاد - جرأت کر کے سامنے آنا و علی و دلیری کرنا  
سامنے بھیجنا۔

اَقْدَس - بہت پاک۔  
اَقْدَاه - سب سے مقدم  
اِقْتَدَاء - آنکھ میں تنکا پڑ جانا۔ آنکھ میں سے تنکا  
بھاگنا۔

اِقْتَرَاء - پڑھانا، سلام پہنچانا، جینے آنا جینے سے  
پاک ہونا پیچھے رہ جانا پیچھے چھوڑنا۔  
ح:۔ (علی) تجویز منظور کرنا۔

اِقْوَا س - ثابت کرنا۔ زبان سے کہہ کر اپنے اوپر کوئی  
چیز لازم کر لینی۔

اِقْوَا ض - کسی کو ترض دینا۔  
اِقْتِرَاع - زعن، روکن، قرع ڈالنا۔ گدھوں کا باہم  
لائیں چلاتا۔ منزل کے قریب پہنچنا۔

اِقْتِرَان - حج اور عمرہ اکٹھا کرنا۔ دو قیدیوں کو ایک  
رسی سے باندھنا (ال) کام کرنے کی قدرت  
ہونا زعن [کام کرنے کی قدرت نہ ہونا۔

اَقْرَب - زیادہ نزدیک۔ ج:۔ اَقْرَاب۔  
اَقْرَع - گنجا۔ چٹیل (میدان) ج:۔ قْرَع۔

اَقْرَن - طے ہونے اور دالا۔ دو سیگوں والا۔  
ج:۔ اَقْرَان۔

اِقْسَاط - عدل کرنا۔ انصاف کرنا۔  
اِقْسَاه - قسم کھانا۔

اَقْسَس - پھلا ہوا۔ سرخ جلد کا آدمی۔  
اِقْسَعَار - بدن پر بالوں کا کھڑا ہوجانا۔

اِقْصَاء - دور کرنا۔  
اَقْصَا س - کسی کام سے رک جانا۔ شام کے وقت آنا۔

اَقْصَر - کوتاہ قامت۔ ج:۔ اَقْصَر خَشَك  
گردن والا۔

اَلْتِسَاب - گمانا - روزی تلاش کرنا - جمع کرنا -  
اَلْتِسَاب - ننگا کرنا - نرکا مادہ کے ساتھ جفتی کرنا -  
ح - نئی دریافت -  
اَلْتِسَاب - کلمہ تائید ہے - جہ - اَلْتِسَاب  
اَلْتِسَاب - کافی ہونا -  
اَلْتِسَاب - پوشیدہ ہونا -  
اَلْتِسَاب - اپنی کنیت مقرر کرنا - کنیت بیان کرنا -  
کنا یہ کرنا -  
اَلْتِسَاب - احاطہ کرنا -  
اَلْتِسَاب - ڈھانک لینا - پوشیدہ ہونا - سفید ہو  
جانا -  
اَلْتِسَاب - کسی چیز کی انتہائی حد کو پہنچنا کسی چیز کی  
اصلیت معلوم کرنا -  
اَلْتِسَاب - وزن کرنا - پیمانہ میں وزن کر کے دینا -  
اَلْتِسَاب - زیادہ کرنا - بہت کرنا - بہت بولنا -  
بہت مال دار ہونا -  
اَلْتِسَاب - بہت زیادہ -  
اَلْتِسَاب - مہارتی - ح -  
اَلْتِسَاب - سرنگیں آنکھ والا - رگ ہفت اندام -  
اَلْتِسَاب - بخل کرنا - اپنی حاجت میں ناکام ہونا -  
دینے سے انکار کرنا -  
اَلْتِسَاب - دھندلا - میلنا - جو کہ صاف و شفاف نہ ہو -  
اَلْتِسَاب - دھندلا ہونا -  
اَلْتِسَاب - چھوٹ -  
اَلْتِسَاب - کسی چیز کو کراہی پر دینا - زیادہ ہونا - کم ہونا  
طول دینا - تاخیر کرنا -  
اَلْتِسَاب - بزرگی کرنا - عزت کرنا -  
اَلْتِسَاب - زبردستی کرنا کسی سے بغیر اس کی رضا مندی  
کے کام لینا -

کے وقت اٹھتا ہے حضرت آدم علیہ السلام  
کی بیٹی کا نام -

اِقْتِسَاس - روشن ہونا - چاندنی میں داخل ہونا چاند  
کے نکلنے کا منتظر رہنا -

اِقْتِسَاس - سفید بخور صورت - مر جیں -  
اِقْتِسَاس - کسی کو کسی چیز کا مالک بنانا - عطا کرنا -  
اِقْتِسَاع - قائل کرنا - قانع کرنا - ترغیب دینا -  
اِقْتِسَام - اصل - افراد - تشلیف میں سے ایک  
(خدا، بیٹا، روح القدس) جہ :-

اِقْتِسَام - غریب ہونا - فقیر ہونا - مکان کا خالی ہونا  
جنگل میں ٹھہرنا - بے توشہ ہو جانا -

## اَلْاِكْتِسَاب

اَلْاِكْتِسَاب - جھوٹ - فریب - وہ - اَلْاِكْتِسَاب  
اَلْاِكْتِسَاب - مجلس علماء - اکاڈمی - ح -  
اَلْاِكْتِسَاب - پالان -  
اَلْاِكْتِسَاب - بہت کھانے والا -  
اَلْاِكْتِسَاب - ٹھیکنا اور مائل ہونا - اوندھا ڈال دینا -  
اوندھا اور منہ کے بل ڈال دینا -  
اَلْاِكْتِسَاب - بڑا سمجھنا - بڑائی کرنا -  
اَلْاِكْتِسَاب - بڑا بزرگ تر - جہ :- اکاڈمی -  
اَلْاِكْتِسَاب - نقل کرنا - اپنا نام لکھانا - اپنا نام قہرمت  
میں درج کرنا - جہ - چندہ - چندہ کی قہرمت  
کھونا -  
اَلْاِكْتِسَاب - پوشیدہ رکھنا - پوشیدہ ہونا -  
اَلْاِكْتِسَاب - سرمہ لگانا - شدت اور سختی میں بڑھنا -  
اَلْاِكْتِسَاب - کراہی پر لینا -  
اَلْاِكْتِسَاب - لباس پہننا، لباس پہننے ہوئے ہونا -



اَكْمَان - پوشیدہ رکھنا۔  
 اَكْمَان - مادرناد اندھا۔  
 اَكْمَان - کسی کی مدد کرنا۔  
 اَكْمَان - پھپھانا۔ پناہ دینا۔  
 اَكْمَان - پردے۔ ڈھکن۔ وہ۔ کت۔  
 اَكْمَان - پختہ۔ مضبوط۔  
 اَكْمَان - عقلمند و ہوشیار۔  
 اَكْمَان - اَكْمَانِ خوب کھانے والا۔

اَل

اَل - (یعنی الف لام جو اسموں پر داخل ہوتا ہے) بعضی الذی یعنی وہ کہ معنوی و خارجی کے لئے معنوی و ذہنی کے لئے۔ جنس کے لئے استفراق کے لئے۔ کبھی زائد ہوتا ہے۔

اَل - رشتہ داری۔ قرابت۔  
 اَل - اہل و عیال۔ پیروکار اور اتباع کرنے والے دوست احباب۔ ذی شرافت۔ خواہ شرافت دینی ہو یا ذہنی اور اہل عام ہے۔

اَلَا - (حرف تمہید) تبردار۔ آگاہ رہ (حرف متنا) کاش کہ۔

اَلَا - (حرف تخصیص) کیوں نہیں۔  
 اَلَا - (حرف استنثار) گھر۔ سوا۔ غیر۔

اَلَا - آب۔  
 اَلَا - کادمائی کپڑا۔ ج۔  
 اَلَا - تلوار چمکانا۔ طلوع ہونا۔ ڈرنا۔ پرہیز کرنا۔ ہلاک کرنا۔ اچکانا۔

اَلَا - نرم کرنا۔  
 اَلَا - مقیم ہونا اور ایک جگہ کو لازم کرنا (تثبیت) میں تیرے علم کی بجا آوری کے لئے مقیم اور حاضر ہونا۔

اَكْرَم - بڑی عزت والا۔  
 اَكْرَم - بزرگی۔ جواں مردی۔ مردانگی۔  
 اَكْرَم - کمونانا۔ حاصل کرنا۔ بخشنا۔  
 اَكْرَم - و بازار کا کھوٹا ہونا۔ کھوٹا کر دینا۔  
 اَكْرَم - بغیر انزال کے جماع کرنا۔ انزال رحم سے باہر کرنا تاکہ حمل قرار نہ پاوے سست کرنا۔  
 اَكْرَم - کھوٹا۔ بازار میں کچھ بکری نہ ہو۔  
 اَكْرَم - دوسرے سے زیادہ لباس پہننے والا یا لباس پہننے والا۔

اَكْرَم - کیما۔  
 اَكْرَم - ہنستا اتنا کہ دانت ظاہر ہو جائیں۔  
 اَكْرَم - برتن کو ٹیڑھا اور خم کرنا۔ اکتا۔ ارادہ سے پھیرنا۔

اَكْرَم - کسی کو قفر بنانا۔ ناقربانی کرنا۔ کفر کا الزام لگانا۔ گاؤں میں رہنے لگانا۔

اَكْرَم - کسی سے ضمانت دلوانا۔ کسی کو ضمان قرار دینا۔

اَكْرَم - کھانا معدوم کرنا۔ فسخ کرنا اور غالب آنا و صفت) ایک۔ اکیل۔ ج۔ اکتہ۔

اَكْرَم - پھل۔ روزی۔ قسمت۔ ج۔ اگال۔ عقل داری۔ قوت۔ فہم۔ کپڑے کی سخت بناوٹ۔

اَكْرَم - زمین کا گھاس سے چر ہونا۔ چارہ کھانا۔ عمر کو ختم کرنا۔ قیمت پہلے دینا۔ اوبیح سلم کرنا۔

اَكْرَم - لقمہ۔ روٹی کا ٹکڑہ۔ کھانا۔

اَكْرَم - تاج۔ ج۔ اگالیش۔

اَكْرَم - ناخود جو بطور دوا کے مستعمل ہے۔

اَكْرَم - تمام کر دینا۔ چھاننا۔ کامل کر دینا۔

اِنِّیَات - عدلت کا حکم دینا۔ دیر کرنا۔ ٹھہرا رکھنا۔  
 اِنِّیَات - ڈھا بھکا کپڑے پہننا۔  
 اِنِّیَات - کام کا پریشیدہ اور مشتبہ ہونا۔  
 اِنِّیَات - چہرہ کا ڈھکنا۔ چھپانا۔  
 اِنِّیَات - پناہ لیٹنا۔  
 اِنِّیَات - دستدر کا مشاطہ ہونا۔ قلع غراؤہ ہونا۔  
 اِنِّیَات - رط کے کی ڈاڑھی نکھارنا (بڑھ لٹی) درخت کی  
 پھال اتارنا (بڑھ لٹی)  
 اِنِّیَات - قدر رخ راستہ میں چلنا۔  
 اِنِّیَات - خم کھانا۔ میلان کرنا۔ دین سے پھر جانا۔  
 اِنِّیَات - اپنے آپ کو کپڑے میں لیٹنا۔  
 اِنِّیَات - جگ کا سخت ہونا۔  
 اِنِّیَات - چٹخار سے بھرنا۔ لطف اٹھانا (جگ اڑانا)۔  
 اِنِّیَات - چٹنا۔  
 اِنِّیَات - بغل میں لینا۔ کسی کے ہر وقت ساتھ رہنا۔  
 اِنِّیَات - چٹنا۔  
 اِنِّیَات - چٹنا۔ چٹنا۔ چٹنا۔  
 اِنِّیَات - چٹنا۔ چٹنا۔  
 اِنِّیَات - ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔  
 اِنِّیَات - پھال اتارنا۔ برہنہ کرنا۔  
 اِنِّیَات - مراد رکھنا۔  
 اِنِّیَات - لیٹنا۔ گھاس کا زیادہ ہونا اور اس کا  
 آپس میں لیٹنا۔  
 اِنِّیَات - ملاقات کرنا جمع ہونا۔ باہم ایک دوسرے  
 کو دیکھنا۔  
 اِنِّیَات - زمین سے کسی چیز کو اٹھانا۔ پرندہ کا دلنے  
 چلنا۔ بلاعدت کسی چیز سے آگاہ ہونا۔  
 اِنِّیَات - لقمہ کرنا۔ نکل جانا۔  
 اِنِّیَات - تلاش کرنا۔ طلب کرنا۔  
 اِنِّیَات - خم کھانا۔ پھینا۔  
 اِنِّیَات - آگ کا بھڑکانا۔  
 اِنِّیَات - پیاس اور تکان کے سبب زبان باہر  
 نکال دینا۔ بانہنا۔  
 اِنِّیَات - اسم موصول ہے (مؤنث) وہ (عورت)  
 جو کہ تشبیہ اللتان جم۔ آ لآ قی  
 اِنِّیَات - طاعت کیا جانا۔ ملامت قبول کرنا (بڑھ  
 لٹی) لوم، زخم کا بھڑا اور پھانچا ہونا (بڑھ لٹی)  
 اِنِّیَات - مجبور و مضطر کرنا۔ خدا کے سپرد کرنا (حفظ  
 کرنا)۔  
 اِنِّیَات - کسی چیز کو اصرار کے ساتھ مانگنا۔ مینہ کا  
 لگا تا رہنا۔ تنگ کرنا۔ آہستہ چلنا۔  
 اِنِّیَات - دین سے پھر جانا۔ پھر جانا۔ مردہ کے لئے  
 لحد بنانی۔ مہنگا بیچنے کے لئے غلہ محفوظ  
 رکھنا۔  
 اِنِّیَات - سوال میں اصرار کرنا۔ نقصان پہنچانا (بڑھ  
 لٹی) سے دامن کشاں چلنا۔ کپڑے پہننا۔  
 اِنِّیَات - پہنچنا۔ پہنچا دینا۔ جھکا دینا۔ خم کر دینا۔  
 اِنِّیَات - بات سمجھانا۔  
 اِنِّیَات - زیادہ سمجھ دار۔ خوش آواز۔  
 اِنِّیَات - بڑا بھگروالو۔ جم۔ لآ د۔ لآ  
 اِنِّیَات - بہت لذیذ۔  
 اِنِّیَات - اسم موصول ہے۔ وہ مرد جو کہ (بڑھ  
 لٹی) تشبیہ آ لآ قی جم۔ آ لآ قی  
 اِنِّیَات - چمٹنا۔  
 اِنِّیَات - لازم کرنا۔ ذمہ لگانا۔  
 اِنِّیَات - خوش بیان۔ خوش تقریر۔ ماہر زبان۔  
 اِنِّیَات - چمٹنا۔

اِنِّیَات - عدلت کا حکم دینا۔ دیر کرنا۔ ٹھہرا رکھنا۔  
 اِنِّیَات - ڈھا بھکا کپڑے پہننا۔  
 اِنِّیَات - کام کا پریشیدہ اور مشتبہ ہونا۔  
 اِنِّیَات - چہرہ کا ڈھکنا۔ چھپانا۔  
 اِنِّیَات - پناہ لیٹنا۔  
 اِنِّیَات - دستدر کا مشاطہ ہونا۔ قلع غراؤہ ہونا۔  
 اِنِّیَات - رط کے کی ڈاڑھی نکھارنا (بڑھ لٹی) درخت کی  
 پھال اتارنا (بڑھ لٹی)  
 اِنِّیَات - قدر رخ راستہ میں چلنا۔  
 اِنِّیَات - خم کھانا۔ میلان کرنا۔ دین سے پھر جانا۔  
 اِنِّیَات - اپنے آپ کو کپڑے میں لیٹنا۔  
 اِنِّیَات - جگ کا سخت ہونا۔  
 اِنِّیَات - چٹخار سے بھرنا۔ لطف اٹھانا (جگ اڑانا)۔  
 اِنِّیَات - چٹنا۔  
 اِنِّیَات - بغل میں لینا۔ کسی کے ہر وقت ساتھ رہنا۔  
 اِنِّیَات - چٹنا۔  
 اِنِّیَات - چٹنا۔ چٹنا۔ چٹنا۔  
 اِنِّیَات - چٹنا۔ چٹنا۔  
 اِنِّیَات - ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔  
 اِنِّیَات - پھال اتارنا۔ برہنہ کرنا۔  
 اِنِّیَات - مراد رکھنا۔  
 اِنِّیَات - لیٹنا۔ گھاس کا زیادہ ہونا اور اس کا  
 آپس میں لیٹنا۔  
 اِنِّیَات - ملاقات کرنا جمع ہونا۔ باہم ایک دوسرے  
 کو دیکھنا۔  
 اِنِّیَات - زمین سے کسی چیز کو اٹھانا۔ پرندہ کا دلنے  
 چلنا۔ بلاعدت کسی چیز سے آگاہ ہونا۔  
 اِنِّیَات - لقمہ کرنا۔ نکل جانا۔  
 اِنِّیَات - تلاش کرنا۔ طلب کرنا۔

اَلَم - درد - جہہ اولام (مص) - درد کرنا  
 اَلَمِح - اسم فاعل  
 اَلَمَاح - دیکھنا کسی کو نگاہ پر اگر دیکھنے پر گناہ کرنا  
 چمکدار بنانا -  
 اَلَمَاس - ہیرا - ایک قیمتی پتھر ہے -  
 اَلَمَاح - صغیر گناہوں کا مرتکب ہونا - بچہ کا قریب  
 بلوغ ہونا - ۳ - علم تجزیہ -  
 اَلَمَان - جرمن - ۳ -  
 اَلَمَانِیَا - ملک جرمنی - ۳ -  
 اَلَمَیْحِ - نگاہ پر اگر دیکھنے والا -  
 اَلَمَعِ - ہوشیار آدمی - تیز ذہن -  
 اَوَّلُوا اَلْاَمْرَ - اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان  
 کی اتباع کرنے والے اہل علم اور اہل امارت  
 حکام -  
 اَلْوَا - سرکشی کرنا - اعراض کرنا - سر پھیرنا -  
 اَلْوُ - نعمت - عطیہ - میٹکتی  
 اَلْوُب - ٹھنڈی ہوا -  
 اَلْوَقَہ - قسم  
 اَلْوَهَّہ - اَلْوَهَّیۃ پرستش معبودیت (مص)  
 (ف) پوجنا - اسی سے ہے نام پاک جناب  
 احدیت کا اللہ لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ غیر  
 مشفق ہے -  
 اَلْوِی - جھگڑالو - ٹیڑھا - بنا ہوا پھیلا ہوا  
 اَلہ - معبود جسے پوجا جائے - ۲ - اَلہتہ  
 اَلِہ - عشق کے سبب حیران و سرگشتہ -  
 اَلہ - (س) پریشان ہونا - بہت بے صبر ہونا -  
 ڈرنا زالی پناہ پکڑنا -  
 اَلہ - پرستش معبودیت (ف) پوجنا  
 اَلہَا - مشغول کرنا -

اِنطاف - نرمی اور بھلائی کرنا - پہلو سے چٹانا -  
 اِنطاب - کھیل پر اُبھارتا - کھلوتا لانا - منہ سے لعاب  
 جاری ہونا - منہ کا لعاب سے پُر ہونا -  
 اِنطَاء - نا اُمید وار ہوس کرنا - بیکار کرنا کسی شمار  
 میں نہ لانا - جس کسی حصول کو معاف کر دینا -  
 اِنطَاس - سربستہ اور بہم بات کہنا چھیستاں کہنا -  
 اِنطاط - آواز کرنا - شور مچانا -  
 اِنطَوَہ کا - چھیستاں - سیلی -  
 اِنط - مجرد آدمی - مرد بے عورت - ایک حرف کا  
 نام - ایک - ہاتھ کی ایک رگ -  
 اِنط - ہزار (مذکر ہے) - جہہ - اَلْوَقَہ اَلَات  
 (مص) - ضد - ہزار دینا اَلِیفا اسم فاعل  
 اِنط - دوستی - دوست جہہ - اَلَات ہم خواب  
 اور محبت رکھنے والی ہوتی -  
 اِنط - (س) کسی کی عادت اور خوبی کرنا - دوست  
 بنانا - اِنط اسم فاعل مذکر - جہہ - :-  
 اَلَات مؤنث اِنطہ جہہ - اِنطات  
 اَو اِنط کسی جگہ سے اِنط کرنا اور  
 انس پکڑنا -  
 اِنطاف - جماعتیں - گروہ - گھنٹہ باغ - :- اِنط  
 اِنطاف - پزندہ کا سر کو اپنے پروں میں لینا کسی کو  
 اپنے جتے کے نیچے چھپا لینا -  
 اِنطہ - دوستی - موافقت - اجتماع -  
 اِنطَاوہ ڈالنا -  
 اِنطَاوہ اِنطہ تقریر کرنا - بکھر دینا -  
 اِنطاب - وہ - لَقَب  
 اِنطاح - مادہ کھجور کے شکر ذمیں زکھجور کا شکر ڈالنا  
 حاصل کرنا - ہوا کا درخت کو بار آور کرنا -  
 اِنکن - کند زبان - گفتگو میں عاجز -

اَلْقَاب۔ انگ کا بھڑکانا۔ بجلی کا بار بار چمکانا۔  
اَلْقَاه۔ نیکی کا دل میں ڈال دینا۔ سکھانا جو چیز  
خدا تعالیٰ دل میں ڈالے۔

اَللّٰهُمَّ۔ اے اللہ!  
اَلهُوَّة۔ اَلْهَيْبَةُ۔ کھونا۔  
اَلْیٰ۔ بہت قسمیں کھاننے والا۔

اَلْیٰ۔ اَلْیٰ۔ اَلْیٰ۔ اَلْیٰ۔ نعمت۔ جہ۔ اَلْاَد۔  
اَلْیٰ۔ (دس) کلاں سرین ہونا (صفت مذکر)

اَلْیٰبَان۔ مؤنث) اَلْیٰبَانَةُ۔  
اَلْوَلٰی۔ وہ لوگ۔ وہ۔ اَلَّذِی (لیکن جمع واحد کے

لفظ سے نہیں بنائی گئی ہے)  
اَلْیٰ۔ حرف جر ہے۔ طرف۔ تک۔

اَلْیٰتَةُ۔ قسم۔ جہ۔ اَلْاَلِیَا  
اَلْیٰس۔ اَلْیٰسِیْن۔ نام ایک پیغمبر علیہ السلام کا

یہ لفظ عجیب ہے۔  
اَلْیٰبَال۔ مات کو داخل ہونا۔

اَلْیٰبَان۔ نرم کرنا۔  
اَلْیٰتَةُ۔ دم۔ سرین۔ جہ۔ اَلْیٰبَات۔ اَلْاَلِیَا

اَلْیٰف۔ یار۔ دوست۔  
اَلْیٰتُہ۔ جانب

اَلْیٰم۔ دردناک۔

ر۔

اَمْر۔ حرق عطف ہے یعنی یا۔ بلکہ۔  
اَمْر۔ (ن) قصد کرنا۔ دماغ میں مارنا پیشوا  
اور امام ہونا۔

اَمْر۔ گردہ۔ مال۔ بڑھیا جو رو۔ ہر چیز کی اصل  
جہ۔ اَمَات۔ اَمَاتَات

اَمْرُ الْجَبِیْش۔ فوج کا چھنڈا۔

اَمْرُ الْخَيْبَاتِ۔ شراب۔  
اَمْرُ الدَّمَاح۔ دماغ کی جلد

اَمْرُ الدَّرَاس۔ دماغ  
اَمْرُ الْعَبَّار۔ اَمْرُ صَبُوْنَا۔ مصیبت سخت جنگ

اَمْرُ الْعَبَّیْبَان۔ بچوں کی مرگی ایک مرض ہے۔  
اَمْرُ الْقُرْیٰ۔ مگر معظمہ۔

اَمْرُ الْقُدْرَان۔ سورۃ فاتحہ  
اَمْرُ الْاَلْکِیَاب۔ لوح محفوظ۔ سورۃ فاتحہ۔ قرآن شریف

اَمْرُ الْمُنُوْنِ۔ بیوی۔  
اَمْرُ الْمَجْمُوْم۔ کمشال۔

اَمْرُ عَبْرَانَ۔ ایک خاردار درخت  
اَمْرُ لَکْتُ۔ مذمت کا کلمہ ہے یعنی توفیق اور

پرٹا پایا ہوا ہے۔ کبھی بطور مدح بھی  
استعمال کرتے ہیں۔  
اَمْرُ الْوَلَد۔ وہ باندی جس کے آقا کے نطفے سے

اولاد ہو جائے۔  
اَمَّا۔ جمان لے۔ آگاہ رہ۔

اَمَاتَةُ۔ مار ڈالنا۔  
اَمَّاس۔ حکم دینے والا۔  
اَمَّاس۔ حکم اَمَّاسِ عِلَامَات

اَمَّادَةُ۔ علامت۔ پہچان۔ وقت جہ۔ اَمَّارَات  
اَمَّارَةُ (دک) حکم چلاتا۔ حاکم ہونا۔ ریاست

اسٹیٹ۔  
اِمَّاطَةُ۔ دور کرنا۔ دور ہونا۔

اِمَّالَةُ۔ مال و دولت دینا (مادہ مول) پھیرنا  
ختم دینا (مادہ میل)

اِمَّار۔ سامنے دسم طرف ہے)  
اِمَّار۔ پیش نماز۔ پیشوا۔ قرآن مجید کتاب نبی

صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلیفہ۔ امیر لشکر۔

اِمَامٌ مُبِينٌ - لوح محفوظ - کھلا راستہ -

اِمَامَةٌ - (ن) امام اور پیشوا ہونا -

اِمَانٌ - پناہ بے خوفی، اَمَانٌ - اَمَانٌ (دس) بے خوف ہونا - پناہ دینا - امانت رکھنا

اِمَانَةٌ - راستی - دیانتداری - خیانت کی ضد - بے خوفی -

اِمَانَتٌ - (دک) قابل اعتماد اور امین ہونا -

اِمْبْرَاهِيْمٌ - شہنشاہ - ج -

اِمْبْرَاهِيْمِيَّةٌ - شہنشاہیت -

اِمَّةٌ - سر کی چوٹ جو داغ تک پہنچ گئی ہو -

اِمَّةٌ - لوثی - ج - اِمَاءٌ

اِمَّةٌ - شریعت - دین - طریقہ نبوی - جامع الکلمات

اِدْمِيٌّ - لوگوں کا مقتدر اور پیشوا - جماعت

جس کی طرف پیغمبر آیا ہو - گروہ - وقت

مدت - قد و قامت - ج - اِمَاتٌ - اِمَمٌ

اِمَّةٌ النَّبِيَّةُ - نبی کی قوم -

اِمَّةٌ اللّٰهُ - خلق خدا -

اِمْتِنَاعٌ - نفع دینا - نفع پانا - باقی رکھنا اور کمال

کو پہنچنا - کسی سے بے نیاز ہو جانا -

اِمْتِيَالٌ - فرما تیرداری کرنا - پیروی کرنا - مثل بیان

کرنا - داستان کہنا [قصص میں]

اِمْتِيْحَانٌ - آزمائش - کسی قول میں غور کرنا [چاندی کو]

خالص کرنا -

اِمْتِيْحَاطٌ - تاک صاف کرنا - اچکانا - باہر کھینچنا -

تلوار سونستنا -

اِمْتِيْدَاحٌ - تعریف کرنا - زمین کا فراخ ہونا -

اِمْتِيْدَادٌ - دراز اور کھینچا ہوا ہونا -

اِمْتِيْدَادٌ - ڈھیلا لیٹنا -

اِمْتِيْدَاجٌ - آمیختہ اور ملا ہوا ہونا -

اِمْتِسَاكٌ - چنگل مارنا - مضبوط رکھنا -

اِمْتِيْصَاصٌ - چوسنا -

اِمْتِيْطَاءٌ - چھپا ہوا کو سواری بنانا -

اِمْتِيْلَاءٌ - مڑنا - بھڑنا -

اِمْتِنَاعٌ - رکنا - باز رہنا - قوی ہو جانا -

اِمْتِنَانٌ - نعمت - احسان - فضل - مہربانی -

احسان جتنا - طاعت کر کے احسان جتنا -

اِمْتِيْحَانٌ - خدمت کے کام میں رکھنا - خدمت میں رکھا جانا

خرچ کرنا - خوار و ناتواں کرنا -

اِمْتِيَاذٌ - جدا ہونا - متاثر ہونا - ج - حق - لائسنس -

اِمْتِيَالٌ - مشہ کرنا - مقتول کے تاک کا ٹکنا -

اِمْتِيَالٌ - افضل - شریف تر - ج -

اِمْتِيَالٌ - زیادہ شریف - زیادہ معزز - ج -

اِمْتِيَالٌ

اِمْتِيْعَاوٌ - مٹ جانا -

اِمْتِيْعَاوٌ - اٹنا - منتہی -

اِمْتِيَادٌ - ہمت دینا - مدد دینا - فریاد کو پہنچنا -

بخشنا - دوات میں سیاہی ڈالنا - کاتب کو تکلم

میں سیاہی دینا - دن کی روشنی پھیلنا -

اِمْتِيَادٌ - ملاوٹ کرنا - گھورے کو چراگاہ میں پھوڑنا -

پینے کی کسی چیز میں زیادہ ملاوٹ کرنا -

اِمْتِيَادٌ - بہت کڑوا -

اِمْتِيَادٌ - حکم ج - احوال کام - سادہ ج - اِمْتِيَادٌ

مص (ن) حکم کرنا (ن س دک)

حاکم ہونا -

اِمْتِيَادٌ - مص (س) بہت ہونا - کامل ہونا

بہت مالدار ہونا -

اِمْتِيَادٌ - سخت - شدید - عجیب -

اِمْتِيَادٌ - خوش کرنا -

کا اٹکا رکرنا کسی کے حق کا اقرار کرنا۔  
پانی کا رواں ہونا۔

امکان - ممکن ہونا (من) قادر کرنا۔ قدرت دینا  
آصل - امید جو۔ اہمال - مص - اہل (ت)  
امید رکھنا۔

املاء - لکھنا۔ ہولی کرکھوانا۔ فائدہ پہنچانا۔ سی  
ورا کرنا۔ بھرتا۔

املاح - کھاری پانی میں آترنا۔ شیریں ہونیکے بعد  
کھاری ہو جاتا۔ کھاری پانی پلاتا۔ نمک  
بہت ڈال دینا۔

املاص - پھسلانا۔ حمل گرا دینا۔  
املاق - مفلس ہونا۔ غریب ہونا۔

املاک - بادشاہ بنا دینا۔ چیر۔ کو کسی کی ملک میں پیرنا  
کارج کرنا۔ طلاق دیا جانا۔ بیوی چاہنا۔  
بیوی دینا۔

املال - آزرہ کرنا۔ عاجز کرنا۔ سفر کا دراز ہونا  
لکھوانا۔

املبج - آملہ سے آب و گیاہ میدان۔ بجز زمین۔  
املس - نرم و چمکدار۔ درست پیٹھ والا۔

امسج - جماعتیں، گردہ۔ ود۔ اہل  
امین - پناہ چاہنے والا۔ نڈر۔

امین - بے خوف۔ نڈر۔  
امین - (س) بے خوف ہونا۔ سلامت رہنا۔

امتاء - منی خارج کرنا۔ میاں میں داخل ہونا۔  
امنیقہ - آرزو۔ جو۔۔ آمافی

اموتہ - مال ہونا۔  
امہاس - مہر مقرر کرنا۔

امہال - مہلت دینا۔ تاخیر کرنا۔ نرمی اور آسانی کرنا  
عذر لانا۔ مبالغہ کرنا۔

اصراط - عورت۔ جو۔۔ نساء۔ نشوان  
اصراط القیس - عربی کا مشہور شاعر جس کا زمانہ بخت  
سے چالیس سال قبل تھا۔

اصساس - کرٹو کرنا۔ کرٹو ہونا (علی) گزار دینا۔  
وب (ب) بھارنا اور برا بیگینہ کرنا۔

اصصان - بیمار کرنا۔ بیمار ہونا۔  
امرتہ - ایک ہارمک ماننا۔

اصرة - اصادہ - ولی ہونا۔ قرآن روانی۔ مال کی زیادتی  
اور کثرت۔

امرد - روٹ کا جس کی داڑھی نہ نکلی ہو۔ بے برگ  
شاخ جو۔۔ مژد۔ آماد

امس - کل کا روز جو گزر گیا۔ جو۔۔ امس  
اموس - اماس۔

امساء - شام کرنا۔ ہونا۔ (فصل ناقص)  
امساس - چھوٹا۔ مس کرنا۔

امساک - ہاتھ سے مضبوط تھامنا۔ بند کرنا۔ رکنا۔  
خاموش ہونا۔ بچل کرنا۔ ح۔ قبض

امسیقہ - شام۔  
امشاء - چلانا۔ اٹکنا۔

امصاص - چوسوانا۔  
امصاء - جاری کرنا۔ جائز رکھنا۔ گزروا دینا۔

طے کرنا۔ دستخط کرنا۔  
امضی - بہت تیز۔ بہت کاٹنے والا۔

امطاء - چوپایہ۔ سواری کے لئے دینا۔  
امطام - برستا۔ پیشانی پر پسینہ لے آنا۔  
سرھکانا۔ خاموش رہنا۔

امعاء - آنتیں۔ وہ۔ وعاء۔ معی  
امعاق - کوئیں کو بہت گد کرنا۔ گدھا کرنا۔

امعان - (فی) دور اندیشی کرنا (ب) کسی کے حق

اناختہ - اونٹ کو بٹھانا -  
 انکارۃ - روشن ہونا۔ کسی جگہ کو روشن کرنا۔ درخت  
 کا پھول لانا۔ خوبصورت ہونا۔ ظاہر ہونا۔  
 اناس - الناس لوگ۔  
 اناضول - اناطولیہ (ترکی)  
 انالۃ - دنیا۔ عطا کرنا۔  
 انانہ - انانہ۔ خلق جن دامنِ سب جو کچھ زمین  
 پر ہے۔  
 انامۃ - سلا دنیا۔ مار ڈالنا۔ شکست دینا۔ توڑ  
 ڈالنا۔ کسی کو سوسا ہوا پانا۔  
 انبساء - آگاہ کرنا۔ کسی کو اپنے سے دور کرنا۔  
 انبات - گھاس کا آگاہ گھاس آگانا۔ لڑکے کا مرنے  
 زہار نکال لانا۔  
 انبہاح - کتے کا بھونکنا۔  
 انبہاس - ڈھیر کرنا۔ گودام بنانا۔ بھنڈا رہنا۔  
 انبط - کنواں کھودنے والے کا پانی پر پہنچ جانا۔  
 پانی نکالنا۔ پریشیدہ چوہ کا ظاہر کرنا۔ حکم و  
 مسائل کا استخراج کرنا۔  
 انبثات - پھیلنا۔ پراگندہ ہونا۔  
 انسجہ - آم کا درخت۔ آم  
 انبجاس - چھوٹ نکلنا (چشمہ وغیرہ کا)  
 انبجات - (عن) تقشیش کرنا۔ (کذا فی منتہی الارب)  
 انبساط - پھیلا ہوا اور فراخ ہونا۔ کشادہ رو ہونا۔  
 شوخ دے پاک ہونا۔  
 انبغات - کسی کو بھڑکانا اور برا بھلا بھینکتے کرنا۔ دوڑنا۔  
 نکلنا۔ روانہ ہونا۔  
 انبوب - پائپ۔ ح۔ جو۔ آکا۔ بیب  
 انہسار - سانس پھول جانا۔  
 انہیاء - و۔ انہی

آفھق - بغیر جیک کے چرنے کی طرح نہایت سفید۔  
 ارقی - امان۔ بے پرہا۔ غیر تعلیم یافتہ۔  
 اصیبر - بادشاہ۔ حاکم۔ سردار۔ گورنر۔ جہ۔ امراء  
 اندھ کی لٹھی پکڑ کر لے جانے والا ہمسایہ  
 مشورہ کرنے والا۔  
 امید الہی - کرنل۔ رحمت کا افسر۔ ح۔  
 امیرال - امیر البحر۔ ایڈمرل۔ ح۔  
 امیرکا - امریکہ۔ ح۔  
 امیرکان - امریکہ۔ ح۔  
 امیر اللواء - بریگیڈیئر جنرل۔  
 امیرۃ - ملکہ۔ بادشاہ کی بیوی۔ سردارنی۔  
 امیمہ - امیر کی تصغیر۔ چھوٹی ماں۔ ہتھوڑی۔  
 جہ۔ آما۔  
 امیہ - حضرت معاویہ کے دادا کا نام۔ خاندان۔  
 بنی امیہ کا مورث اعلیٰ۔  
 امین - اہم فعل ہے بمعنی "اسے خدا قبول کر"۔  
 امین - معتمد۔ ح۔ ٹرسٹی۔ جہ۔ امناء۔  
 امین السر - سکرٹری۔ ح۔

زین

ان - آئین۔ آئین۔ رض و ناپانی بہانا۔  
 ان - ان - یقیناً بے شک۔  
 ان - اگر جو۔  
 انسا - میں (ضمیر واحد محکم)  
 آناۃ - وقار۔ حلم۔ انتظار۔ مہلت  
 اساء - برتن۔ جہ۔ آئینہ۔ حجہ۔ آواقی  
 اساء - دور کرنا۔ چھپ چھپو کرنا۔  
 انابۃ - خاتم مقام کرنا۔ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا  
 انات - عورتیں۔ و۔ انشی

اِنْتِشَاق - (تو مرد)  
 اِنْتِشَاق - (تو عورت)  
 اِنْتِشَاق - (ادنی کا بچہ کو جنمنا اس معنی میں معمولاً مستعمل ہے) محل کا ہر موئے کا وقت آنا۔  
 اِنْتِشَاق - الگ ہو جانا۔ ایک طرف چلا جانا رکھو روں سے، شراب بنانا۔ بے بند جانا۔  
 اِنْتِشَاق - (من) بیدار ہونا۔  
 اِنْتِشَاق - پراگندہ اور منتشر ہونا تاکہ میں پانی لینا۔ پانی ڈالنے کے بعد ناک صاف کرنا۔  
 اِنْتِشَاق - زور سے رونا۔ گریہ و زاری میں آواز بلند کرنا۔ زور سے سانس لینا۔  
 اِنْتِشَاق - خود کو ذبح کرنا (یعنی کسی چیز کی حرص اور اس کے دیتے سے بخل کرنا اس حد تک کہ کشت و خون اور نواح و فساد کی نوبت آجائے۔)  
 اِنْتِشَاق - دوسرے کی کتاب یا شعر کو اپنی طرف منسوب کرنا۔ کسی مذہب میں داخل ہونا۔  
 اِنْتِشَاق - چھانٹنا۔ اُکھڑنا۔  
 اِنْتِشَاق - ناک صاف کرنا۔ ناک کا پانی صاف کرنا مشابہ ہونا۔  
 اِنْتِشَاق - دل بیکار کرنے والے کو فوراً جواب دینا۔ گفتگو میں کسی سے بحث کرنا۔ قبول کرنا۔ تسلیم کرنا کسی کام کے لئے پکارنا۔ کسی یا دوست طاقت کا کسی کو درملک پر متصرف ہونا۔  
 اِنْتِشَاق - روکنا۔ اکھاڑنا جیسے کہنے لینا۔ اکھڑا ہوا ہونا کسی شعر وغیرہ کو مثال میں لانا۔ کسی کی طرف خود کو منسوب کرنا۔  
 اِنْتِشَاق - لکھنا۔ نقل کرنا۔ رائل کرنا۔  
 اِنْتِشَاق - مرتب ہونا۔ منظم ہونا۔  
 اِنْتِشَاق - بچا ہوا اور پھیلا ہوا ہونا۔ دن کا دراز ہونا۔ قاش و ظاہر ہونا۔ ذکر کا چھوٹا اور استاد ہونا۔ سیر و سیاحت کرنا۔ پراگندہ ہونا۔  
 اِنْتِشَاق - درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا۔  
 اِنْتِشَاق - پاؤں پر کھڑا ہونا (زل) مستعد ہونا جوف کا منصوب ہونا۔  
 اِنْتِشَاق - خاموش رہنا۔  
 اِنْتِشَاق - نصیحت قبول کرنا۔  
 اِنْتِشَاق - (من) کسی سے بدلہ لینا (یعنی کسی پر غالب آنا فریخ پانا۔ مار بھگانا۔ ہرا دینا۔  
 اِنْتِشَاق - کسی سے اپنا تمام حق وصول کرنا۔ سر پر دوپٹا اوڑھنا۔ (نصاف چاہنا) (دن کا) آدھا گزر جانا۔  
 اِنْتِشَاق - تیر کے پیکان کا نکل جانا۔  
 اِنْتِشَاق - آنسوؤں کا جوش مارنا۔ پانی پھوٹنا۔  
 اِنْتِشَاق - باہم تیر اندازی کرنا۔ ٹکنا۔ باہم فخر کرنا شعر و سخن میں مقابلہ کرنا  
 اِنْتِشَاق - جہاں توڑوں کا آپس میں ایک دوسرے کے سینگ مارنا۔  
 اِنْتِشَاق - ٹیککا یا نڈھنا۔ بات کہنا۔  
 اِنْتِشَاق - کسی کی راہ دیکھنا۔ توقع کرنا۔  
 اِنْتِشَاق - (موتی کا) پر جانا۔ مرتب ہونا سلسلہ وار ہونا  
 اِنْتِشَاق - بیاہر کا آفا ق پانا۔ صحت پانا۔ پھینکنے کے بعد اٹھنا۔  
 اِنْتِشَاق - بلندی پر چڑھ جانا کسی چیز کو چھوڑ کر دوسری کو قبول کرنا۔  
 اِنْتِشَاق - جوتہ پیننا۔ پیادہ ہا چلنا۔ سخت زمین میں

اِنْتِشَاق - مرتب ہونا۔ منظم ہونا۔  
 اِنْتِشَاق - بچا ہوا اور پھیلا ہوا ہونا۔ دن کا دراز ہونا۔ قاش و ظاہر ہونا۔ ذکر کا چھوٹا اور استاد ہونا۔ سیر و سیاحت کرنا۔ پراگندہ ہونا۔  
 اِنْتِشَاق - درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا۔  
 اِنْتِشَاق - پاؤں پر کھڑا ہونا (زل) مستعد ہونا جوف کا منصوب ہونا۔  
 اِنْتِشَاق - خاموش رہنا۔  
 اِنْتِشَاق - نصیحت قبول کرنا۔  
 اِنْتِشَاق - (من) کسی سے بدلہ لینا (یعنی کسی پر غالب آنا فریخ پانا۔ مار بھگانا۔ ہرا دینا۔  
 اِنْتِشَاق - کسی سے اپنا تمام حق وصول کرنا۔ سر پر دوپٹا اوڑھنا۔ (نصاف چاہنا) (دن کا) آدھا گزر جانا۔  
 اِنْتِشَاق - تیر کے پیکان کا نکل جانا۔  
 اِنْتِشَاق - آنسوؤں کا جوش مارنا۔ پانی پھوٹنا۔  
 اِنْتِشَاق - باہم تیر اندازی کرنا۔ ٹکنا۔ باہم فخر کرنا شعر و سخن میں مقابلہ کرنا  
 اِنْتِشَاق - جہاں توڑوں کا آپس میں ایک دوسرے کے سینگ مارنا۔  
 اِنْتِشَاق - ٹیککا یا نڈھنا۔ بات کہنا۔  
 اِنْتِشَاق - کسی کی راہ دیکھنا۔ توقع کرنا۔  
 اِنْتِشَاق - (موتی کا) پر جانا۔ مرتب ہونا سلسلہ وار ہونا  
 اِنْتِشَاق - بیاہر کا آفا ق پانا۔ صحت پانا۔ پھینکنے کے بعد اٹھنا۔  
 اِنْتِشَاق - بلندی پر چڑھ جانا کسی چیز کو چھوڑ کر دوسری کو قبول کرنا۔  
 اِنْتِشَاق - جوتہ پیننا۔ پیادہ ہا چلنا۔ سخت زمین میں



انتیکہ خان - بجا بگر۔  
 انتیکہ - رخنے دار ہوجانا۔  
 انتیکہ - دودھ ہوجانا۔ مرطنا۔ (عن) پھرنا لوٹ جانا  
 انتیکہ - عورت۔ مادہ۔ جہا۔ نکات۔ آنا۔  
 انتیکہ - بجات دنیا چھوڑ کر رادنا۔ بول و براز سے  
 فراغت پانا۔  
 انتیکہ - حاجت پوری کرنا۔ کامیاب ہونا۔  
 انتیکہ - وعدہ وفا کرنا۔ حاجت روائی کرنا۔ زخمی  
 کو مار ڈالنا۔  
 انتیکہ - ناپاک کرنا۔  
 انتیکہ - چوپایہ کا گھاس میں چھوڑ دینا۔  
 انتیکہ - اگلیاں کا معوب۔ ایک بوٹی ہے سرخ رنگ  
 کی۔ مص۔ ہڈی کا جڑ جانا۔  
 انتیکہ - سوراخ میں آنا  
 انتیکہ - کھینچ جانا۔ پھرنا۔ تیر چلنا۔  
 انتیکہ - برہنہ ہونا۔ کپڑے کا پرانا ہونا۔ میر سیر  
 کا طویل ہونا۔ گھوڑے کا چھوٹے اور ہار یک  
 بالوں والا ہونا۔  
 انتیکہ - کھینچا ہوا ہونا۔  
 انتیکہ - روشن اور نمایاں ہونا۔ دور ہونا۔  
 انتیکہ - ایک جگہ سے دوسری جگہ کھینچ جانا۔  
 انتیکہ - انگریز۔  
 انتیکہ - حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ  
 کتاب (مذکورہ مؤلف)  
 انتیکہ - ہانپتے ہوئے سانس لینے والا۔ بخیل  
 آدمی کو جب اس سے کوئی چیز مانگی جائے  
 کھنکھارنے لگے۔ ج۔: اُنتح  
 انتیکہ - مٹا دینا۔ پھیر دینا۔ (دعویٰ) آگے بڑھنا  
 کسی کی طرف جانا۔

انتیکہ - بچ بونا۔  
 انتیکہ - دودھ ہونا۔ کیسو ہونا۔  
 انتیکہ - پھول جانا۔ سوچ جانا۔ بلڈ ہونا۔ دن  
 چڑھنا۔  
 انتیکہ - جھاڑا جانا۔ بقیہ پیشاب سے ذکر کو  
 پاک کرنا۔  
 انتیکہ - نفع پانا۔  
 انتیکہ - پاؤں میں سے کاٹنا نکالنا۔ نقاش کر گینے  
 پر نقش کرنے کا حکم دینا۔ نکالنا۔  
 انتیکہ - کم کرنا۔ کم ہونا۔ عیب بیان کرنا۔  
 انتیکہ - جگہ بدنا۔ منتقل ہونا۔  
 انتیکہ - (من) بدل لینا۔ عقاب کرنا۔  
 انتیکہ - سر کے بل گر پانا۔ بیماری کا لوٹ آنا۔  
 انتیکہ - بارش سے محروم ہوجانا۔ ایک مقام سے  
 دوسرے مقام پر جانا (رکی کا) ٹوٹ جانا۔  
 (پسینہ) پوچھنا۔  
 انتیکہ - تم سب مرد۔  
 انتیکہ - کسی کی طرف منسوب ہونا۔ اپنا نسب کسی  
 سے ملانا۔  
 انتیکہ - رگنا۔ آخری حد کو پہنچنا۔ خیر کا پہنچانا۔  
 انتیکہ - لوٹنا۔ قیمت لینا۔ گھوڑے کا رفتار میں  
 قالب ہونا۔  
 انتیکہ - جھڑکنا (رگ سے خون کا) منقطع ہونا۔  
 (پٹ) کا جاری ہونا۔  
 انتیکہ - فرصت کو قیمت سمجھنا اور اس سے فائدہ  
 اٹھانا۔ کسی چیز کو قبول کرنا۔  
 انتیکہ - اگلے وقتوں سے کاٹنا۔ قیمت کرنا۔  
 انتیکہ - اٹھنا۔  
 انتیکہ - پے در پے اور تہمت بہ تہمت آنا۔

<p>اِنْجِذَالُ - اسپین (ایک مغربی ملک) پر سینکڑوں برس مسلمانوں کے زیرِ نگیں رہا۔</p>	<p>اِنْجِذَاکَاد - نیچے زمین میں اترنا۔ بدن کی جلد سوج جانا اِنْجِذَات - پھر جانا۔ اِنْجِذَاکَا - روکا جانا۔ ماندھا جانا۔ مجبور ہونا۔ دل تنگ ہونا۔</p>
<p>اِنْجِذَاکَا - ایک چیز کا دوسری چیز میں پیوست ہوجانا کام کا درست ہونا۔</p>	<p>اِنْجِذَاکَا - منزل پر اترنا۔ نیچے جانا۔ جلدی جانا۔ کم ہونا۔</p>
<p>اِنْجِذَاکَا - زخم کا اچھا ہوجانا۔ اِنْجِذَاکَا - آگاہ کرنا۔ دوڑنا۔ اِنْجِذَاکَا - کدوانا۔</p>	<p>اِنْجِذَاکَا - گرہ کھلنا۔ اِنْجِذَاکَا - بیوقوف اور ناحق ہونا۔ حماقت کا کام کرنا۔ ذلیل و خوار ہونا۔ فروتنی کرنا۔ کپڑا پرانا ہونا۔ یا زار کا بے رونق ہونا۔</p>
<p>اِنْجِذَاکَا - کنوئیں کا تام پانی یا اس کی بڑی مقدار کھینچ لینا۔</p>	<p>اِنْجِذَاکَا - ٹیڑھا اور خم دار ہونا۔ اِنْجِذَاکَا - فریب کھانا۔ بیخبری میں نقصان اٹھانا۔ بازار کا بے رونق ہونا۔</p>
<p>اِنْجِذَاکَا - کنوئیں کا پانی خشک ہوجانا (مجمولاً مستقل ہے) کنوئیں کا پانی کھینچ لینا کسی کے آسنو ٹھہرانا۔ چشمہ اور کنوئیں کے پانی کا باقی نہ رہنا۔ شراب کا ختم ہوجانا۔</p>	<p>اِنْجِذَاکَا - پھیلا جانا۔ جلدی چلنا۔ دوڑنا۔ یکا یک آپڑنا۔</p>
<p>اِنْجِذَاکَا - نیچے بھیجنا۔ نیچے اتارنا۔ مٹی کا خارج ہوجانا۔ اِنْجِذَاکَا - رنگ جانا۔ ہاڑ رہنا۔ اِنْجِذَاکَا - ایک خاردار درخت ہے۔</p>	<p>اِنْجِذَاکَا - بھٹ جانا۔ اِنْجِذَاکَا - نیچے جگہ کرنا۔ گرا ہوا ہونا۔ پست ہونا۔ اِنْجِذَاکَا - گلا گھٹ جانا۔</p>
<p>اِنْجِذَاکَا - گوشہ گیر ہوجانا۔ اِنْجِذَاکَا - آدمی۔ خوشی و خوشی۔ جماعت کثیر قبیلہ جو کہیں ٹھہرا ہوا نہ ہو۔ ج۔ آناس</p>	<p>اِنْجِذَاکَا - نام اور شرمندہ کرنا۔ اِنْجِذَاکَا - داخل ہونا۔ (اس باب سے اس معنی میں شعر ہی میں آتا ہے۔ نثر میں غیر شہر ہے کذا فی اقرب المولد)۔</p>
<p>اِنْجِذَاکَا - آکس۔ آکس۔ (سی۔ جی۔ لک) کسی کے ساتھ مانوس ہونا۔ خوش و خرم ہونا اور کسی کے ساتھ دل کا لگنا۔</p>	<p>اِنْجِذَاکَا - کسی قوم کا خاتمہ ہوجانا۔ تباہ ہوجانا۔ داخل ہونا۔</p>
<p>اِنْجِذَاکَا - انیس۔ پکڑنے والا۔ اِنْجِذَاکَا - خوشی اور دل کا لگاؤ۔ اِنْجِذَاکَا - آدمی (اس جنس) وہ۔ اِنْسِی۔ اِنْسِی۔ ج۔ آناس</p>	<p>اِنْجِذَاکَا - مٹ جانا۔ محو ہوجانا۔ اِنْجِذَاکَا - اچانک سپینچنا۔ تیزی سے چلنا (بات میں) غور و فکر کرنا۔ دور کیا جانا۔ دھکیلا جانا۔</p>
<p>اِنْجِذَاکَا - دوست۔ محبوب۔ اِنْجِذَاکَا - تاخیر کرنا۔ بھلانا۔ دور کرنا۔ ادھار بیٹھنا۔</p>	<p>اِنْجِذَاکَا - کھا ہوا ہونا۔ ٹھنسا۔</p>

اَنسَاب - ذاتیں - وہ - نَسَب -

اَنسَاخ - لکھوانا - منسوخ پانا -

اَنسَان - آدمی - (واحد و جمع اور مذکر و مؤنث اس میں یکساں ہے) آنکھ کی پتلی -

حج :- اَناسِی اَناس -

اَنِسْتَة - نیک اور شریف مزاج لڑکی -

اَنِسْبَاک - سونے چاندی وغیرہ کا گل جانا -

اَنِسْبَاک - بہنا - رواں ہونا -

اَنِسْحَاق - گھسا ہوا ہونا - فراخ اور کشادہ ہونا -

اَنِسْدَاد - بند ہوجانا -

اَنِسْدَال - کپڑے اور بالوں کا ٹٹکا ہوا ہونا -

اَنِسْرَاب - سوراخ میں گھستا - لمبا ہونا (پانی سے)

بھر جانا -

اَنِسْرَاط - آسانی سے گلے میں اتر جانا -

اَنِسْرَاق - خون اور آنسوؤں کا بہنا -

اَنِسْرَاب - پانی وغیرہ کا بہنا -

اَنِسْرَاة - کسی کا لیے خبری میں چلا جانا - ٹٹک جانا

کھسک جانا -

اَنِسْرَاخ - کسی چیز کا دوسری چیز میں سے باہر آنا

مہینہ کا ختم ہونا - دن کارات سے باہر

آنا - سانپ کا کیمچلی سے باہر آنا -

اَنِسْرَال - کسی چیز میں سے چھپ کر باہر نکلنا - آہستہ

آہستہ نکلنا -

اَنِسْرِي - ضد وحشی - ہر چیز کی جانب چپ - ہاتھ

پیروں میں سامنے کا رخ - اور پیچھے کے

رُخ کو وحشی کہتے ہیں -

اَنِسْرِيَاک - ہانکا جانا

اَنِسْرَاء - (صن) باہر نکلنا - پیدا کرنا - پرورش کرنا

حدیث وضع کرنا - شروع کرنا - بڑھانا -

ح - ایڈیٹری

اَنِسْبَاب - (رقی) جمانا - چکانا - گرونا -

اَنِسْبَاد - گم شدہ چیز کا پتہ معلوم کرنا - گم شدہ چیز کا

پتہ بتانا - شعر پر مٹھنا (ب) ہجوم کرنا -

اَنِسْبَاط - چارہ کا چوپایہ کو موٹا کر دینا - خوش باش

نوگوں والا ہونا - گرہ کھولنا - ساپ کا

کاٹنا - اچکنا -

اَنِسْرَاح - کشادہ ہونا -

اَنِسْعَاب - پراگندہ ہونا (درخت کا) بہت شاخ دار

اور پھیلنا ہوا ہونا - راستہ میں اور

بہت سے راستوں کا نکلنا - مَر

جانا - ایک دوسرے سے دُور ہونا

صحیح پانا -

اَنِسْحَاق - پھینا - چرنا - کام کا پریشان اور غیر منظم

ہونا - بجلی چمکانا - صبح ہونا -

اَنْصَاب - پتھر کو خانہ کعبہ کے چاروں طرف کھڑے

کر کے ان کو پوجنے تھے اور ان پر جانوروں

کی قربانی کرتے تھے - و :- اَنْصَاب

بُت - مجسمہ - بیماری - بلا -

اَنْصَات - خاموش کرنا (ب) خاموش رہنا - کان لگانا

مائل ہونا -

اَنْصَاص - رسول اللہ صلعم کے مدنی مددگار -

و :- ناصی - نصیب

اَنْصَاب - رسنا - بہنا - اترنا - انڈلنا

اَنْصِيَاغ - رنگا جانا

اَنْصِيَاغ - پھٹ جانا -

اَنْصَرَات - پھیر جانا - پلٹ جانا -

اَنْصَرَاہ - کٹ جانا - گزر جانا - ختم ہوجانا -

اَنْصِيَاب - مہینہ برساتا - پڑھنا - گرنا - اترنا -

انصاف - لاغر کرنا۔	انصاف - پھرنانا۔
انصاج - پکانا۔ پختہ کرنا۔	انصاف - گناہ سے باز رہنا۔
انصباط - قابض اور آجائتا۔ محفوظ ہو جانا۔ لکھا جانا۔	انصاف - دوسرا ہونا۔ پھر جانا۔ ٹیڑھا ہونا۔
انصہام - بل جانا۔	انصاف - بندھنا۔ منعقد ہونا۔
انصاق - بات کرانا۔ گویا کرنا۔	انصاف - عکس قبول کرنا۔ پھرا ہوا ہونا۔
انصاریکہ - ملک شام کا ایک قدیم شہر۔	انصاف - ستون پر کھڑا ہونا۔
انصباخ - بکا ہوا ہونا۔	انصاف - پانی میں گھسنا۔ ڈوبنا۔ سرایت کرنا۔
انصباع - نقش ہو جانا۔ عبرت ہو جانا۔	انصاف - حرکت کرنا۔ تعجب سے سر ہلانا اور علیٰ زندگی
انصباق - موافق و برابر ہونا۔	کسی کی تلخ اور کندہ کر دینا۔
انصباء - آگ بجھنا۔	انصاف - بند ہو جانا۔ مقل ہو جانا۔ قید ہو جانا۔
انصلاق - جانا۔ چلا جانا (زبان کا) کھل پڑنا۔	انصاف - داخل ہونا۔
انصہاس - (چہرہ کا) بے تاب ہونا۔	انصاف - پانی میں غوطہ مارنا۔
انصواء - ناپاؤ نڈار ہونا۔ مٹ جانا۔ پوشیدہ ہونا	انصاف - پانی میں غوطہ مارنا۔ ڈوبنا۔ پانی میں خود کو
تہ کیا جانا۔ لپٹ جانا۔	ڈال دینا۔
انصاس - کان لگانا۔ ٹوٹ کرنا۔ مہلت دینا۔	انصاف - آنکھوں کا بند ہونا۔
انصاس - سلانا۔	انصاف - غم گین ہونا۔ ڈھکا ہوا ہونا۔
انصاش - بند کرنا۔ اٹھانا۔ کسی کو بہتر حالت میں کر	انصاف - پانی کم ہو جانا۔ اور اس کا زمین میں جذب
دینا۔ خوش و خرم کرنا۔	ہو جانا۔
انصاظ - ذکر کو استادہ کرنا۔ عورت اور درک کا جماع	انصاف - ناک۔ سردار قوم۔ پشتہ۔ پہاڑ کا باہر کو
کے لئے مشتاق ہونا۔ مادہ کا زکے اشتیاق	نکلا ہوا گوشہ۔ روٹی کا ٹکڑا۔ مصی
ہیں دم کو اٹھائے ہوئے رکھنا۔	(ن جف) ناک پر مارنا۔
انصام - چربائے۔ مویشی۔ و۔ نصح۔ (یعنی گھر)	آنف - آنف۔ (س) (من) عار آنا عورت کا حمل کی
انصام - نعمت دینا۔ زیادہ ہونا۔ نعم کرنا۔ قرار گاہ	وجہ سے کسی چیز کی رغبت نہ کرنا۔ تاجدار
اور منزل کا مسافروں کو آرام دینا۔	اور متناہد ہونا (صفت) آنف - آنف۔
انصاف - پھر جانا۔	انصاف - آنف۔ اب۔ ابھی۔
انصاف - مٹ جانا۔ ناپود ہو جانا۔	انصاف - ختم کر دینا۔ سفر کے لئے گوشہ اور سواری
انصاف - سورج کا ڈھلنا اور مغرب کی طرف جھکتا	میر جو نہ ہونا۔ ختم ہو جانا۔
مڑنا۔ ٹیڑھا ہونا۔	انصاف - گزار دینا۔ جاری کرنا۔ (خط وغیرہ) بھیجنا۔
انصاف - گوشہ نشین ہونا۔ دور اور کیس ہو جانا۔	لوگوں کے مجمع کو تیر کر وسط میں داخل ہونا۔

انْقَاءُ - بھڑانا، فقیر و محتاج ہونا۔ بار برداری اور دودھ کے جانوروں کا ہرجانا۔ اور سامان خوراک ختم ہو جانا۔ دور کرنا۔	انْقَاءُ - برگزیدہ کرنا (ادنیوں کا) فریب ہونا۔ انْقَاذ - رہائی دلانا۔ بیکسو کرنا۔ انْقَاصُ - کم کرنا۔
انْقِطَاعُ - کام کرنے کے سبب ہاتھوں میں آٹیلے پڑ جانا۔ بکری کا پیشاب کرنا۔	انْقِطَاعُ - سکا ہوا اور سٹھا ہوا ہونا۔ جمع ہونا۔ تیز جانا۔ جہد و جہد کرنا۔ تنگنشل دہنا۔ دکھی ہونا۔
انْقِطَاعُ - غنیمت دینا۔	انْقِرَاضُ - گزر جانا۔ جانا۔ قوم کا برباد و تباہ ہو کر خاتمہ ہو جانا۔
انْقِطَاعُ - کھلنا۔	انْقِسَاءُ - بٹ جانا۔ حصہ حصہ ہونا۔
انْقِطَاعُ - کھلنا۔ چرنا۔ عورت کی فرج کا کشادہ ہونا	انْقِشَارُ - پھلنا۔ درخت وغیرہ کا پوست اتر جانا۔
انْقِطَاعُ - صبح ہو جانا۔ صبح کا روشن ہونا۔ پانی جاری ہونا۔ قیاضی کرنا۔	انْقِشَاعُ - ابر کا پراگندہ ہو جانا۔ دل کا غم سے ہلکا ہو جانا۔
انْقِرَاتُ - حاملہ عورت کا جی مٹلانا۔	انْقِضَاءُ - ختم اور نیست و نابود ہونا۔ گزر جانا۔
انْقِرَاجُ - دروازہ شکافت۔ شکافت ہونا۔	انْقِضَاضُ - گر پڑنا۔ پراگندہ ہونا۔ منتشر ہونا۔
انْقِرَادُ - اکیلا ہونا۔ کام کو تمنا انجام دینا۔	انْقِطَاعُ - کٹ جانا۔ ارقا قلم سے الگ ہو کر راستہ میں رہ جانا (پانی) ختم ہو جانا (رسی) ٹوٹ جانا۔
انْقِسَاحُ - سبکدوشی کا ٹوٹنا۔	انْقِطَاعُ - پھر جانا۔ ٹوٹنا۔ بدلنا۔
انْقِصَالُ - جہد ہونا۔ علمدہ ہونا۔ طے پانا۔	انْقِطَاعُ - اکھڑنا۔ دور ہونا۔ علمدہ ہونا۔
انْقِصَادُ - منقطع اور علمدہ ہونا۔ شکستہ ہونا۔	انْقِطَاعُ - تارخ ہو جانا۔ مطیع ہو جانا۔
انْقِطَاعُ - پھر جانا۔ پراگندہ ہونا۔	انْقِطَاعُ - عورت کو تھاوند دینا۔ نکاح کرنا۔
انْقِطَاعُ - پھڑنا۔	انْقِطَاعُ - نہ بچنا۔ نہ بچنا۔ کھر جانا۔ حال کا متغیر ہونا۔ زمانہ تسلیم نہ کرنا۔
انْقِطَاعُ - [دع] رکن۔ اتماء کو پہنچ جانا۔	انْقَالَ - دور کرنا۔ دفع کرنا۔
انْقِطَاعُ - آزاد ہو جانا۔ انگلیوں کے درمیان کشادگی ہونا اور ان کا الگ الگ ہونا۔	انْقِطَاعُ - مزے کے بل گر پڑنا۔ سامنے نہ آنا کسی کے ساتھ گئے رہنا۔
انْقِطَاعُ - جھاگ جانا۔ تیزی سے چل دینا۔	انْقِطَاعُ - گدلا ہو جانا۔ بے نور ہو جانا۔
انْقِطَاعُ - بھٹ جانا۔	انْقِطَاعُ - ٹوٹنا۔ عاجزی کرنا۔
انْقِطَاعُ - ٹوٹنا۔ دہار کا رخسہ دار ہو جانا۔ لشکر کا شکست پانا۔	انْقِطَاعُ - سورج کا یا چاند کا گہنہ ہونا چھپ جانا۔
انْقِطَاعُ - انفلوینزا۔ نزلہ۔ بخار۔ ح۔	

اِنكِشَات - کھلا ہوا در پر ہنر ہوتا۔ خوف کا باقی نہ رہتا۔

اِنكِشَات - برہنہ اور ظاہر ہونا۔ اپنے آپ کو دکھانا۔ مشہور ہونا۔

اِنكِشَاء - پھر جاننا (الی) لڑنا۔ رنگ کا بدلنا۔ اِنكِشَات - رک جانا۔ چھوڑ دینا۔

اِنكِکَلَتَا - انگلستان۔ اِنكِکَلِيز - انگریز۔ ح۔

اِنْسَاء - پھولنا۔ برطھنا۔ پھولانا۔ برطھانا۔ بات کو فاش کرنا۔

اِنْسَاء - مٹ جانا۔ گھس جانا۔ اِنْسِلَّة - اِنْسِلَّة - اِنْسِلَّة - اِنْسِلَّة - اِنْسِلَّة - انگلی کا سرا۔ پورا۔ ج۔ اَنَائِل - اِنْسَلَات

اِنْسُو - رات کی ایک ساعت۔ ج۔ اَنَاء

اِنْسُوَس - ظاہر ہو جانا۔ اِنْسُوَاط - وہ چیزیں جن کو ٹسکا دیں۔ ذ۔ نُوَظ

اِنْسُوَح - بہت سانس لینے والا۔ بیل آدمی کجب اس سے کھرا لگیں تو کنگھارنے لگے۔

اِنْسُوَس - خوب صورت۔ روشن۔ اِنْسُوَس - کتا جو کٹے نہیں۔ ضد عقور۔ ج۔ اِنْسُوَف - افعال زدیل سے ناک چڑھانے والا۔

ناکارہ چیزوں سے عار کرنے والی عورت مغرور۔

اِنْسَاء - پورا کرنا۔ انتہا کو پہنچانا (الی) پہنچانا اطلاع کرنا۔

اِنْسَاء - ہمانا۔ نہر کو فراخ کرنا۔ خون زہمتنا۔ فراخ زخم لگانا۔ دن کرنا۔

اِنْسَاء - پہلی بار پانی پر ادرتوں کو لانا۔ قوم کے ادرتوں کا پہلی بار پانی پینا۔ میرا ب

اِنْتِهَات - کرنا۔ غصہ کرنا۔ اِنْتِهَات - بردہ کا پھٹنا۔ چاک ہونا۔ ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔

اِنْتِهَاد - شکستہ اور حیران ہونا۔ کھنڈ ہونا۔ اِنْتِهَاد - ویران ہونا

اِنْتِهَاد - شکست کھانا۔ شکستہ ہونا۔ اِنْتِهَاد - ریزہ ریزہ ہو جانا۔ ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا

اِنْتِهَاد - شکستہ ہو جانا۔ اِنْتِهَات - اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا۔

اِنْتِهَالَ - آنسوؤں کا جاری ہونا۔ ابراہیم کا بارش کا زور کے ساتھ برسنا۔

اِنْتِهَاس - پانی کا ہٹنا۔ جاری ہونا۔ منہدم ہونا۔ مسما ہونا۔

اِنْتِهَات - کسی امر میں کوشش اور اصرار کرنا۔ اِنْتِهَالَ - آنسوؤں کا جاری ہونا۔ ہٹنا۔

اِنْتِهَاد - اوپر سے نیچے کرنا۔ گذر جانا۔ اِنْتِهَاد - گر پڑنا۔ مسما ہو جانا۔

اِنْتِهَات - بے باکانہ کسی چیز میں اُپرٹا۔ حیران د پریشان ہونا۔

اِنْتِهَالَ - ریت اور مٹی کا نیچے کرنا۔ کسی پر بار پٹ کے لئے ٹوٹ پڑنا۔

اِنْتِهَات - (س) حلیم اور برد بار ہونا۔ اِنْتِهَات - تمام روز۔ ج۔ اِنَاء اِنْتِهَات وقت

انتہا۔ پختگی۔ اِنْتِهَات - بردباری۔ وقار۔

اِنْتِهَات - کیوں کر کس طرح۔ کہاں۔ کہاں سے جہاں۔ جہاں کہیں۔

اِنْتِهَات - رتی۔ رتی۔ رضی (س) مہیلا کرنی۔ سستی کرنی۔ اِنْتِهَات - اِنْتِهَات - رضی (س) کسی چیز کا یا اس کے بچنے کا

اَوْرَاقُ صَالِحِيَّةٍ نَوَاطٍ -

اَوْرَاقُ - آدمیوں کے گروہ - و :-

اَوْرَاقُ - بھیر پٹیا - قرصت - غنیمت - انصار مدینہ کے ایک قبیلہ کا نام -

اَوْرَاقُ - درمیان کا - دو کنا روں کا مابین -

اَوْرَاقُ الْقَوْمِ - قوم کا برگزیدہ اور منتخب آدمی -

اَوْرَاقُ - ہر عضو علیحدہ - و :- وصال -

اَوْرَاقُ - پیداہ - ح -

اَوْرَاقُ - رطل کا بارہواں حصہ ۳ تولہ - اونس -

ح :- اَوْرَاقُ - اَوْرَاقُ

اَوْرَاقُ - (ن) زانی (رجوع ہونا) پھر جانا -

زئیل وغیرہ کا اگا ٹھا ہونا - گا ٹھا کرنا -

مال کی درستی اور اصلاح کرنا (س)

سبقت کرنا -

اَوْرَاقُ - پہلا - ضد - آخر ج :- اَوْرَاقُ - اَوْرَاقُ

اَوْرَاقُ - مالک - صاحب (جیسے) اَوْرَاقُ اَوْرَاقُ

صاحب علم -

اَوْرَاقُ اَوْرَاقُ - حکام - علماء -

اَوْرَاقُ اَوْرَاقُ - وہ پیغمبر جو اس وصف میں نمایاں ہیں

کہ انھوں نے تبلیغی خدمات کو بہت

کوشش اور صبر و استقلال سے انجام دیا -

حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پیغمبروں میں

پیغامِ رسائی کا وصف اور ملکی قوت بہت

بڑھی ہوئی تھی -

اَوْرَاقُ - زیادہ لائق - زیادہ مناسب (دعا اور

جمع دونوں میں مستعمل ہے - ح :-

اَوْرَاقُ -

اَوْرَاقُ

وقت آجانا - گرمی کا انتہا کو پہنچا (فا)

اِن - بَیِّنٌ صَیْبٌ اِن - انتہا درجہ کا سخت گرم -

اَیْنِسُ - مانوس چیز - اُنس دینے والا -

اَرْنِشَقُ - خوبصورت - خوش کن -

اَرْنِشَقُ - آہ و زاری -

## ا - و

اَوْرَاقُ - حرتِ عطف ہے - یا

اَوْرَاقُ - ہر چیز سے پھر کر خدا تعالیٰ کی طرف رجوع

کرنے والا - تسبیح کرنے والا -

اَوْرَاقُ - روشن راتیں یعنی ۱۳/۱۴/۱۵ اترتاریخ کی

راتیں -

اَوْرَاقُ - وقت - ح :- اَوْرَاقُ -

اَوْرَاقُ - نرم دل آدمی - بہت دعا و زاری کرنے والا

بایقین آدمی -

اَوْرَاقُ - ابر - ہوا - سرعت - قصد - عادت -

استقامت شہد کی کھی - راستہ - طرف

مص (ن) لوٹ آنا اپنی پر رات کو آنا

غائب ہونا - ہر طرف سے لوگوں کا آنا -

توہ کرنا -

اَوْرَاقُ - میٹھی - و :- و تَدَا -

اَوْرَاقُ اَوْرَاقُ - پہاڑ - رئیس اور بڑے آدمی

اَوْرَاقُ - بُت :- و :- و تَدَا -

اَوْرَاقُ - بلندی -

اَوْرَاقُ - خوف زدہ مرد (مؤنث) و جِلَّةُ

اَوْرَاقُ - یگانہ - خاص -

اَوْرَاقُ - کچی مص (ن) گراں بار کرنا - دبا دینا -

اَوْرَاقُ - گردن کی رگیں - و :- و تَدَا -

اَوْرَاقُ - ورق - پتہ - و :- و تَدَا -

اُدنی - اُدنی کا مؤنث ہے پہلی۔  
 اُدنی - اُدنی۔ اُدنی۔ اُدنی۔ (اُدنی تسمیہ ہے) اُدنی  
 کاف خطبا سے ہے یہ الفاظ جمع کے ہیں۔ مذکر  
 اور مؤنث ان میں یکساں ہے۔ یہ لوگ۔  
 ذمہ۔ مذکر۔ اُدنی۔ اُدنی۔ اُدنی۔ اُدنی۔  
 لفظہ)

اُدنی و اُدنی۔ نو نو سو سٹی۔ ج۔

اُدنی۔ اُدنی۔ اُدنی۔ اُدنی۔ اُدنی۔

اُدنی۔ بہت بودا۔

اُدنی۔ اُدنی۔ (رض) پناہ اور ٹھکانا پکھڑانا پناہ

اور بگڑنا۔

اُدنی۔ بھڑیا۔ ایک مشہور تالیفی کا نام۔

۱ - ۵

اُدنی۔ کچا چڑھ۔ وہاغت نہ کیا ہوا چڑھا۔

اُدنی۔ پبلک۔ عام باشندے۔ ج۔

اُدنی۔ حقیر و ذلیل کرنا۔

اُدنی۔ باشندگان ہند۔ اہل ہند

اُدنی۔ (کھڑو) کھا کر ڈالنا۔

اُدنی۔ نیچے اتارنا۔

اُدنی۔ آلمہ۔ آؤزار۔ سامان جنگ۔ ج۔ اُدنی

اُدنی۔ نابالغ لڑکی کے ساتھ جماع کرنا۔

اُدنی۔ سیدھا راستہ ملنا۔ دلہن کو شوہر کے پاس  
 بھیجنا۔

اُدنی۔ حرکت کرنا۔ صدی کی آواز پر اُدنی کا وہ

میں آتا خوش ہونا۔ پھلنا پھولنا۔ لشکر

کی آواز اور شور۔ غروب کے وقت سانسے

کا چمکنے۔ گھاس کا بڑھنا۔

اُدنی۔ خود کو ہلاکت میں ڈالنا۔

آہٹم۔ جس کے اگلے دانت ٹوٹ گئے ہوں۔

اُدنی۔ اندوہ مند ہونا۔ بخجاری کرنا وہ کسی  
 معاملہ میں دوڑ دھوپ کرنا۔ کوشش  
 کرنا۔

اُدنی۔ آرام دینا۔ بچہ کو سنانے کے لئے تھپکنا  
 تحفہ بھیجنا۔ تحفہ دینا۔ دولہن کو خاوند  
 کے گھر بھیجنا۔

اُدنی۔ خون کو مباح کر دینا۔

اُدنی۔ جس کی پلکوں کے بال بہت ہوں جس  
 کی پلکوں کے بال لمبے ہوں۔

اُدنی۔ بوڑھا کر دینا۔

اُدنی۔ مذہب۔ شائستہ۔ واحد اور جمع دونوں

کے لئے آتا ہے ج۔ اُدنی۔ اُدنی۔ اُدنی۔  
 صاحب لائق۔ بیوی۔

اُدنی۔ مرد کے خویش و اقارب۔

اُدنی۔ گھروالے۔

اُدنی۔ حافظ قرآن اور اس پر عامل۔

اُدنی۔ یہود و نصاریٰ۔

اُدنی۔ گاؤں کے رہنے والے۔

اُدنی۔ صحرائے رہنے والے۔

اُدنی۔ جس کے بیوی بچے ہوں۔

اُدنی۔ جاتے فراخ اور کھینے میں آیا پس

مانوس ہو جاتا اور متوحض نہ ہو یہ استقبال  
 کے وقت کہتے ہیں۔

اُدنی۔ مار ڈالنا۔ ہلاک کرنا۔ مال و اسباب  
 فروخت کرنا۔

اُدنی۔ پہلی تاریخ کا چاند نکلنا۔ ہلال کی پہلی تاریخ

کا چاند دیکھنا۔ بچے کا پیدائش کے وقت

آواز سے دونا۔ مجرم کا تلبیہ میں آواز



آیاتک من - اس بات سے خبردار رہنا ؛  
آیاتک آن - اس بات سے بچنا -

آیالسا - صوبہ - ۳ -

آیتاہ - دن - و یومہ

آیاتم العوب - عوب کی لڑائیاں -

آیاتم مخلوقات - پہلی ذی الحجہ سے دسویں تک -

آیاتی - بیوہ عورتیں - ۵ - آیتھ رندو سے مرد

آیات - کب (استفہام زمانی)

آیۃ - پند و نصیحت - عورت - نشان - مشران

شرفین کا ایک محدود حصہ - ۳ - آیات

ای - آیات - حج - آوایا -

آیتاء - والی کسی کی طرف کوئی چیز - لانا - کسی کو

کچھ دینا - بدلہ اور جزا دینا -

آیتاد - میخ ٹھوکنا -

آیتزاسا - آزار پہننا (اتزار صحیح نہیں ہے، تحریف ہے)

آیتلاف - اکٹھا ہونا - موافقت کرنا -

آیتعمار - فرمانبرداری ظاہر کرنا - اپنی رائے سے

کام کرنا - مشورہ کرنا - قصد کرنا - آپس میں

حکم کرنا -

آیتماہ - قصد کرنا - جب اقتداء کرنا -

آیتیمان - کسی کو امین بنانا -

آیتیتاف - از سر نو کام شروع کرنا -

آیتیاہ - بیوہ عورت سے نکاح کرنا -

آیتسما - عورت کرنا - دوسروں کے فائدہ اور غرض

کو اپنے فائدہ اور اپنی غرض پر مقدم

رکھنا -

آیتاق - مضبوط کرنا - باندھنا -

آشردۃ - اسم مصدر ہے بمعنی فضیلت

آیتاہ - گناہ میں ڈالنا -

بلند کرنا - تلوار سے مار ڈالنا - تلوار

سے کاٹنا -

آہلتہ - لوگ گھر کے لوگ -

آہلی - پالتو جانور - ۳ - سودیشی -

آہلیبہ - (جنس) ہلیہ - ہرط -

آہلیبجۃ - ایک ہرط - خواہ سیاہ ہو یا زرد

آہتہ - زیادہ سنجیدہ - اہم -

آہمال - چھوڑ دینا - ترک کرنا - بھول جانا -

آہماہ - فکر میں ڈالنا - غمگین کرنا -

آہتاء - خوشگوار اور خوش منہم کھانا کھلانا یا دینا

آہواء - خواہشیں - ۵ - آہوی

آہوج - طویل احمق -

آہون - آسان تر - نرم تر -

آہوی - زیادہ دوست - زیادہ پسندیدہ -

## ای

آئی - (استفہام) کون جو شخص (شرط)

گاہق (کاف جاہ - تخرین بصورت نون)

جو کچھ جو کوئی بہت - کونسا - کتنے -

(مؤنث) آیتہ -

آئی - حرف تفسیر یعنی حرف ندا (او -

ای - حرف ایجاب) ہاں - قسم کے ساتھ بھی متصل

ہے جیسے - ای و اللہ -

آیاہیا - ندائے بعید کے لئے ہے - ارے - او -

آیاب - آیوب - آفتاب کا غروب ہونا -

آیادی - نعمتیں - ۵ - آید

آیادجۃ - ایک مجموعہ ہے نہایت تلخ جس کا جزو

اعظم ایلو ہے -

آیاس - عورت کا بچہ ہونے کی عمر سے گذر جانا -

<p>ح۔ آمدنی۔ مالگذاری۔  <b>اِنْبِطَانِ</b> ۱۔ آرٹریلز۔  <b>اِنْبِطَاع</b> - دب [ اچھلنا۔ اکسانا۔ ترقیق دینا۔ سمجھانا      [ بین [ تقسیم کرنا۔  <b>اِنْبِطَاس</b> - دولت مند اور مالدار مہرجانا عورت کا آسانی      سے جننا۔  <b>اِنْبِطَاس</b> - بائیں جانب بہت آسان بہت آرام دہ  <b>اِنْبِطَاش</b> - جلدی کرنا یوں شیت اِن تِی کون الھو      کام جلد ہو جائے گا۔ گویا کام ہونے کے لئے      جلدی کر رہا ہے۔  <b>اِنْبِطَاس</b> - وصیت کرنا۔ لازم کرنا۔ وصی بنانا۔  <b>اِنْبِطَاد</b> - دروازہ بھیرنا۔ جا ٹوروں کے لئے پتھر کا      پاؤہ بنانا۔  <b>اِنْبِطَال</b> - پہنچانا۔ پیوند لگانا۔  <b>اِنْبِطَان</b> - بھیجی۔ وہی۔ نیز۔  <b>اِنْبِطَاح</b> - صاف کرنا۔ نظر کرنا۔ عیاں کرنا۔  <b>اِنْبِطَاع</b> - جلدی کرنا۔ جلدی کروانا۔ تیر۔ چلنا۔  <b>اِنْبِطَاع</b> - زلی [ کسی بات پر متفق ہونا۔ سمجھوتہ کرنا۔      زلی [ شعرا [ نظم کے قافیہ کو مکر کرنا۔  <b>اِنْبِطَالِیہ</b> - اُلی۔ ح۔  <b>اِنْبِطَان</b> - کسی جگہ قیام پذیر ہونا اور وہاں بود و      باش اختیار کر لینا۔ وطن بنالینا۔  <b>اِنْبِطَاد</b> - ڈرانا۔ دھمکانا۔ تنبیہ کرنا۔  <b>اِنْبِطَاع</b> - وعدہ پورا کرنا۔ عہد اور دوستی کو نبھانا      کسی کا حق پورا ادا کرنا۔  <b>اِنْبِطَاص</b> - گردن توڑنا۔  <b>اِنْبِطَاط</b> - جگانا۔ بیدار کرنا۔ گردوغبار اڑانا۔  <b>اِنْبِطَاط</b> - جاگنے والے۔ و۔ یقظ۔ یقظان  <b>اِنْبِطَاع</b> - لڑانا۔ واقع کرنا۔</p>	<p><b>اِنْبِطَاب</b> - فرض قرار دینا۔ ضروری اور لازم کرنا۔ ایسا      کام کرنا جس کے سبب دوزخ یا جنت لازم      ہو جائے۔  <b>اِنْبِطَاد</b> - پیدا کرنا۔ قوت دینا۔ مقصد تک پہنچانا۔      دولت مند اور بے نیاز کر دینا [ زلی [ کسی      کام پر مجبور کرنا۔  <b>اِنْبِطَاس</b> - کسی چیز کو گرایہ پر لینا چاہنا۔ بدلہ دینا۔      گرایہ پر دینا۔  <b>اِنْبِطَان</b> - مختصر بات کرنا۔ کلام کا مختصر ہونا [ عطا      بخشش میں جلدی کرنا۔  <b>اِنْبِطَاس</b> - خوفزدہ ہونا۔ خیال کرنا۔ محسوس کرنا۔  <b>اِنْبِطَات</b> - گھوڑے دوڑانا۔ حرکت دینا۔  <b>اِنْبِطَاع</b> - زلی [ دوجی بھیجنا۔ الہام کرنا۔ کوئی بات      دل میں ڈالنا۔  <b>اِنْبِطَاش</b> - کسی مقام کو لے آ کر گیاہ اور غیر آباد      اور ویران پانا۔ کسی مقام کا ویران ہوجانا      جھوکا اور بغیر توشہ کے ہونا۔  <b>اِنْبِطَان</b> - قوت۔  <b>اِنْبِطَاع</b> - کسی کے پاس ودیعت رکھنا۔ کسی کی ودیعت      اپنے پاس رکھنا۔ صلح کرانا۔  <b>اِنْبِطَاع</b> - رنج دینا۔  <b>اِنْبِطَان</b> - اعلان کرنا۔ اذان دینا۔ تعجب میں ڈالنا۔      روکنا۔ کان میں مارنا [ دب [ آگاہ      کرنا۔  <b>اِنْبِطَان</b> - ذکر جم۔ اِنْبِطَان - ایسے فرزند      بادشاہ۔ ہاوشمال۔  <b>اِنْبِطَات</b> - وارث کرنا۔ میراث دینا۔ سبب بننا۔  <b>اِنْبِطَاح</b> - تاریخ لکھنا۔  <b>اِنْبِطَاد</b> - لانا۔ گھاٹ پر پانی پلانے کے لئے لانا۔</p>
--	--

ایقان - یقین کرنا۔  
 ایکاد - مضبوط کرنا یا بچھڑ کرنا [الگ الگ بہ نسبت  
 آؤگڈنا زیادہ فصیح ہے]۔  
 ایکاء - مشک کے منہ کو باندھنا۔ بچل کرنا۔ سخت  
 کوشش کرنا۔  
 ایکاف - بھت وغیرہ کا ٹپکنا۔ گناہ میں ڈالنا۔  
 اینکال - کھانے کو دینا۔ دعویٰ کرنا۔ کام کسی کے سپرد  
 کرنا اور اس پر چھوڑ دینا۔ کسی کو کسی پر قدرت  
 دینا۔ کسی کو کسی پر برا بھلا بچھڑ کرنا۔ درخت کا  
 چھل لے آنا۔ بے بسن جمنی کرنا۔  
 آیشکۃ - بن۔ نخلستان۔ درختوں کا بھٹ۔  
 ایسل - باری تعالیٰ کا نام عبرانی زبان میں (اسرائیل)  
 جب تھیل۔ ہیک تھیل وغیرہ میں اسی  
 سے ترکیب ہے۔  
 ایسلاء - قسم کھانا۔ نزدیک کرنا۔ کسی کے ذمہ کام  
 ڈال دینا۔ وصیت کرنا۔ ہلاک ہونا۔ اولیٰ  
 لاف۔ بچھڑ ہلاکت ہو۔  
 ایسلاج - داخل کرنا۔  
 ایسلاد - جننا۔ عورت کا جننے کے نزدیک پہنچنا۔  
 ایسلاف - ہزار پورے کرنا۔ ہزار پورے ہونا۔  
 عادی ہونا۔ الفت کھڑا ہونا۔ الفت دینا۔  
 مانوس کر دینا۔  
 ایسلاہ - تکلیف پہنچانا۔ دردناک کرنا۔  
 آیسہ - رض، عورت کا بغیر کراچ کئے رہنا۔ سناپ  
 جم۔ آیوہ۔ آیوہ اللہ خدا کی قسم۔  
 آیسہ - بے خاوند عورت (کنواری ہو یا بیوہ)  
 جم۔ آبی اخی مرد بے عورت (کنواری ہو یا  
 رنڈوا) آزاد عورت یعنی حرہ۔ سناپ۔  
 آیسما - کونسا جرنسا (مرکب آتی اور صا)۔

ایسما۔ اشارہ کرنا۔  
 ایسما۔ عورت کا فحش بننا۔  
 ایسماض۔ چکنا۔ کوندنا۔ خفیہ اشارہ کرنا۔ دزدیدہ دیکھنا  
 ایسما۔ اعتماد کرنا۔ پناہ دینا۔ بے خوف کرنا۔  
 تصدیق کرنا۔ مان لینا۔ شریعت کا قبول کرنا  
 دائیں طرف چلنا۔ دائیں طرف پھرنے میں  
 میں لانا۔  
 آیسما۔ بیوگی۔  
 آیسمن۔ مبارک۔ جم۔ آیسمن  
 آیسن۔ وقت۔ ساعت۔ مص (رض) وقت آجانا۔  
 آیسن۔ کہاں۔  
 آیسنما۔ جہاں کہیں۔ ہر جگہ۔  
 اینتاب۔ عورت کا لڑکی جننا۔  
 اینتاس۔ مانوس کرنا۔ دیکھنا اور جانا۔ آواز سننا  
 اینتاع۔ میوہ کا پھلنا۔  
 اینواء۔ پتہ اور جگہ دینا۔  
 آیوان۔ محل۔  
 آیوب۔ نام ہے ایک پیغمبر کا علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ  
 والسلام)۔  
 آیسہا۔ اے۔ ارے۔  
 اینہا۔ حساب میں غلطی کرنا۔ گمان میں ڈالنا بغیر  
 ارادہ کے کسی چیز کی طرف جانا۔ چھوڑنا۔  
 تہمت لگانا۔  
 اینہان۔ سست کرنا۔ آدھی رات میں داخل ہونا۔

## ب - ۱

ب - بطور حرف جر، ان معنی کے لئے آتا ہے۔  
 ساتھ۔ اشارہ۔ دوران۔ واسطے۔ بدلہ۔  
 پر۔ میں۔ کو۔ بسبب۔ قسم۔

بادِ خ - مغرور - متکبر - بادِ زنجبویہ - باد رنگبویہ کا معرب - ایک مشہور بوٹی ہے بادِ زنجب - پہاڑی ریحان - بادِ ذق - انور کا شیرہ جو معمولی جوش دے کر گڑھا کیا گیا ہو - بادِ ذل - سختی - بادِ نجان - ہاذ نجان کا معرب - بیگن - میاں - مہربان - نہایت نیک ماں یا بچہ فرمانبردار ج - ہذرتہ - بارِ حجتہ - جنگی جہاز - ح - بارِ ح - گرمی کی تیز ہوا - گرم ہوا - شکار جو آسنے سے بائیں کو چائے - بارِ حجتہ - گذشتہ شب - بادِ د - ٹھنڈا - بارِ لیان - پارلیمنٹ - ح - بارِ من - شکل کھڑا ہونے والا - ظاہر - بارِ منقہ - کھلی - ظاہر ہونے والی - بادِ دئی - پیدا کرنے والا - نام خدا تعالیٰ کا - بارِ یس - پیرس - بادِ بازی - ہاز (ایک شکاری پرندہ) بارِ زغ - چمکنے والا - چمکنے والا - بارِ زغہ - چمکنے والی - بادِ ذل - اونٹ جو نوزیرس میں لگا ہو - ج - ہوا ازل - بائیس - بڑا سہ - خراب ہے - ہذرتین ہے (کلمہ) بائیس - خوب - عذاب - سختی - جنگ میں قوت اور دیری مص (لش) مضبوط ہونا بہادر ہونا بائساء - سختی - مصیبت - افلاس - بائیس - سخت بُرا -	تائس - بد حال - فقیر - باب - دروازہ - ج - ابواب البابُ العالی - خلافت عثمانیہ کا سرکاری بائیا - پوپ - عیسائیوں کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا ببایہ - وجہ حجت - ببایل - ایک بر باد شدہ قدیم شہر - (عراق میں) ببائوس - انجن والی گاڑی - بابونج - بابونڈ کا معرب - ایک پھول کا نام - ببائی ننت و آئی - میرے ماں باپ تجھ پر قربان! ببامت - لاغر - قاطع - قطعی - ببایتڈ - قاطع - بڑا - ج - ہوا ایتو ببائٹق - بچھارنے والا بابٹق (الکڈم) بڑا سختی بباجوچ - سلیم - ح - بباجٹ - کھودنے والا - بباجتہ - صحن (مکان) کھجوروں کا جنگل - پانی یا پانی کا بڑا حصہ - بباجرہ - اسٹیم - ج - ہوا آخر ح - بباجح - جان کو ہلاک کرنے والا - بباجل - کیموس - ج - بچل ببایوس - پورا چاند - جوان رکا - پکا میوہ ببایدتہ - سفتاب زدگی - خطا جو غصہ میں واقع ہو - (غصہ اور تلوار کی تیزی) - ج - ہوا اید بادِ زہم - زہر مہرہ (تچھر) بادِ تہ - جسیم عورت - ج - ہوا اید ببایدی - ظاہر - باہر کا رہنے والا - ببایدی الترای - ظاہر ہی - بظاہر ببادیہ - صحرا - جنگل - ج - ہوا اید بادِ التھیاتہ - بد حال - دیدہ ہیات - بادِ ام - ہادم کا معرب -
--	--

بایسز۔ پائوٹہ ترشرد۔ بدبویات و ٹمکین۔ اداس  
 بایسٹ۔ فراخ کرنے والا۔ پھیلائیوالا خاتم کا ایک نام  
 بایشفوی۔ دریائے باسفورس (قسطنطنیہ)  
 بایسیق۔ بلند و بالا (کھجور کا درخت)  
 بایسل۔ شیر۔ بہادر۔ ج۔۔۔ ٹیسلا۔۔۔ ٹیسٹ  
 باسور۔ مقعد کی ایک بیماری۔ ج۔۔۔ بو آسینر  
 ناک کی ایک بیماری۔  
 بایشا۔ پاشا۔ ایک اعلیٰ ترکی خطاب۔ افسر۔  
 بایشق۔ شکر۔ جہ۔ بو اشق  
 بایسکر۔ آنکھ دیکھنے والی۔ ج۔۔۔ بو اھی۔  
 بایضہ۔ سر کی چوڑے جو گوشت پھل سے۔ بکریوں کا بڑا ٹکڑا  
 باطل۔ ناحق۔ بے ثبات۔ پور۔ غلط۔ ج۔۔۔  
 باطل  
 باطن۔ پوشیدہ۔ ج۔۔۔ بو اطن خدا تعالیٰ  
 کے ناموں میں سے ایک نام۔  
 باطنہ۔ چھپی ہوئی۔  
 باع۔ دونوں ہاتھوں کا پھیلاؤ (طویل)۔  
 الباع صاحب کرم۔  
 باعد۔ بعید۔ دور۔ ج۔۔۔ بعد ا۔۔۔ بعد  
 باعی۔ طلب گار۔ متلاشی۔ ظالم۔ ج۔۔۔ بھاتا  
 باقلاء۔ (غنیم) باقسی لویا۔  
 باقے۔ رساگ کی گڑھی۔ ج۔۔۔ گلہ دستہ  
 باقس۔ پھاڑنے والا۔ شیر۔ ائمہ اہل بیت میں  
 سے ایک امام کا لقب۔  
 باقی۔ زندہ۔ خدا تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام  
 باقیات۔ پیچھے رہنے والیاں  
 باکڑہ۔ کنواری عورت۔  
 باکوڑہ۔ پہلا پکا ہوا میوہ۔ ہر سبلی چیز۔ ج۔۔۔ بو ایکڑ  
 بال۔ حال۔ نشان۔ تن آسانی۔ خاطر۔ دل۔

بالت

بالغ

بالغۃ

بالوغۃ

بالون

باہیاء

بان

باری

بائو

بایہ

بایس

بایس

بایٹ

بایجہ

بایسہ

بایس

بایح

بایعۃ

بایقۃ

بایکھ

بایتہ

ب - ب

ببغاء۔ طوطا۔

برطی ٹھیل۔ لوسے کا ٹیلہ۔  
 تورشردان (سوداگر کا) پھارا۔ کاٹنا۔  
 (ٹھیل کے شکار کا)  
 جوحد بلوغ کو پہنچ جانے (لگا ہوا بلوغ کی  
 (قسم) موکد۔ عمدہ چیز کی ہوئی۔ پہنچنے والا  
 پہنچانے والا۔  
 پہنچنے والی۔ پوری۔  
 چوبچہ۔ منہ کا تھ دھونے کی جگہ۔  
 عجارہ۔ ج۔  
 بھنڈی۔  
 ایک درخت ہے۔  
 بنانے والا۔ شادی کرنے کے بعد بیوی کو  
 گھر میں لانے والا۔  
 دفن۔ فخر کرنا۔ تکبر کرنا۔  
 نکاح۔ جماع۔  
 روشن۔  
 ہاسی (روٹی۔ پانی)  
 سمیٹتی۔  
 ہلاک شدہ۔ ج۔۔۔ بو سوس  
 ناقابل زراعت۔ زمین۔ حیران آدمی۔  
 مصیبت زدہ۔ محتاج و مفلس۔ بد حال۔  
 چغل خورد بیچنے والا۔ خریدنے والا۔ ج۔۔۔  
 سمیٹتی۔ ج۔۔۔ بو ایشق  
 گودام۔ ج۔  
 وہ طلاق جس میں رجعت درست نہیں دور۔

## ب - ت

بَتَّ - بَتَّتَة - (ن) ص) کاٹنا فیصلہ کر دینا کسی کو قافلہ میں پہنچنے سے روک دینا - راستہ میں رُہ جانا۔  
بِئْتَر - (ن) دم کٹا ہوا گردینا - کاٹنا - نا تمام رکھنا۔  
جِط سے اکھاڑ ڈالنا۔

بِئْتَر - (س) دم کٹا ہوا ہونا - لا ولد ہونا - بے فیض ہونا۔

بِئْتَرُول - پٹرول - ح۔

بِئْتَشْك - (م) ص) ن) کاٹنا (بال وغیرہ) پکڑ کر کھینچنا۔

بِئْتَشَل - بِئْتَلَة - (م) ص) ن) کاٹنا - جدا کرنا - ممتا دکھانا۔

بِئْتَسُول - مجرد عورت جو نکاح وغیرہ سے علیحدہ رہے۔

عورت جو خدا تعالیٰ کے لئے دنیا سے علیحدہ

ہوگئی ہو۔ درخت کا پودا جو درخت کی جڑ

سے نکل کر مستقل ہو گیا ہو۔

بِئْتَسِيل - عورت جو خدا تعالیٰ کے لئے دنیا سے علیحدہ

ہوگئی ہو۔ درخت کا پودا جو درخت کی جڑ

سے نکل کر مستقل ہو گیا ہو۔ ج۔ بِئْتَسِيل

درخت جس کے خوشے آویزے ہوں۔

بِئْتَسِيلَة - سرین - ہر ایک عضو پر گوشت ج۔ بتائیل

عورت جو دنیا سے منقطع ہو اور خدا تعالیٰ کی

طرف متوجہ ہو۔ پودا جو دوسرے درخت

کی جڑ سے نکلا ہو اور مستقل ہو گیا ہو۔

## ب - ت

بِتَّ - حال - سخت صدمہ - شدید مرقع منتشر پانگڑہ

مص (م) ص) ن) خیر نظر کرنا اور پھیلا دینا۔

(ن) ہمارا اڑانا - پراگندہ کرنا - پھیلا دینا۔

اَلْبِتَّةُ الْمَلَا سِلْكِي - براڑ کا شنگ۔

## ب - ج

بَجَّ - (ن) نشر گانا - چرنا۔  
بَجَس - (ن) پانی بہانا - زخم پھیرنا۔  
بَجَسِل - (ك) معوز ہونا - مکرم ہونا۔

## ب - ح

بِحَات - بہت بحث کرنے والا۔

بِحْتَاَس - جہاز راں - کشتیان - ج۔ بَحَارَة

بِحَاَسَة - فن جہاز رانی - ح۔

بِحَاَوِيَة - بچوں بیچ - درمیان۔

بِحْت - سادہ اور خالص چیز۔

بِحْتَة - گھر گشتگی۔

بِحْر - بڑی نہر - سمندر - دریا کے شور ج۔

بِحْرِي - مچھڑ پتھر - تصغیر - ا۔ بَحْرِي

الْبَحْرُ الْاَبْيَضُ - دریا کے روم۔

الْبَحْرُ الْاَحْمَرُ - دریا کے قندلم۔

الْبَحْرُ الْاَسْوَدُ - بحر اسود۔

الْبَحْرُ الْاَطْلَانْطِيْقِي - دریا کے اطلانتک۔

بِحْرُ الْحَزْمِ - دریا کے کاسپیہ۔

بِحْرُ الْعَطْلَمَاتِ - دریا کے اطلانتک۔

الْبَحْرُ الْمَجِيْطُ - دریا کے کابل۔

بِحْرَان - ہیمان جو بخارا کی حالت میں مرہق کو ہوا اس

دن کو پھیرا کہتے ہیں۔

بِحْرَة - نشیبی سطح کا شہر - تالاب - نالاجہ - بجلا

بِحْرِي - ملاح - ح۔

بِحْرُوْث - بہت بحث کرنے والا - مرد جو باعورت

سورہ توبہ

بِحْرُوْث - سورہ توبہ بحث کی جمع۔



دفعہ آنا۔

## ب - ذ

بَدَا - (ف) بد حال ہونا۔ بد مہینت ہونا۔

بَدَا الْهَيْئَةَ - بد حال۔ بد مہینت

بَدَا - (ک) بہودہ گور ہونا۔ حقیر ہونا

بَدَا - (ف) کسی کے حال سے نفرت کرنا۔ حقیر سمجھنا۔ ذمت کرنا۔

بَدَا - بیچ جو زمین میں بولنے کے لیے ہو۔ جہ۔

بَدَا - زمین سے گھاس نکلنا۔ بھید ظاہر کرنا۔ مال

کو بے موقع صرف کرنا۔

بَدَا - رہبر۔ محافظ و نگہبان رہنا۔ رہبر ہونا۔

بَدَا - بخشش عطا گھوڑے کی دوڑ۔ مص

(رض) دینا۔ بخشش کرنا۔

بَدَا - وہ کپڑا جسے ہر روز پہنیں۔

بَدَا - بہودہ باتیں کہنے والا۔ بد زبان (مؤنث)

سیناریتہ۔

## ب - م

بَدَا - مہربان۔ خدا تعالیٰ کے ناموں میں سے

ایک نام۔ پیچ بولنے والا۔ ماں یا بچہ یا نانا

بڑا نیک۔ جہ: آیت اس قسم کی

سچائی۔

بَدَا - نیکی۔ تحفہ۔ بہشت۔ فراخی۔ احسان۔

صلہ رحم۔ سچائی۔ قسم کی سچائی۔ ماں باپ

کی فرماں برداری۔

بَدَا - (س) قسم میں سچا ہونا۔ بات میں سچا

ہونا۔ ناز کا مستبد ہونا۔ والدین کی

جہ۔ بَدَا - بَدَاؤ -

بَدَاؤ - دس ہزار کی بہیمانی۔ بڑی آنکھ چاند کی

مانند جہ۔ بَدَاؤ - بَدَاؤس۔

بَدَاؤ - محافظ و رہبر۔

بَدَاؤ - پاؤ ڈر۔ جہ۔

بَدَاؤ - نوا بجا دھیر۔ پر گوشت بدن۔ وسیع الاطلاق

جو ان آدمی جو اپنے ہم عمروں سے علم و

شرافت وغیرہ میں فائق ہو۔ جہ: بَدَاؤ

آبَدَاؤ (مؤنث) بَدَاؤتہ۔

بَدَاؤتہ - دین میں نیکی کے بعد نبی رسم۔ نبی صلی اللہ علیہ

وسلم کے بعد نبی نابت۔

بَدَاؤ - بدلا۔ تھکے پاؤں جوڑوں اور ہڈیوں کا درد

جہ: آبَدَاؤ - آ - قیمت

بَدَاؤ - ایشیائک۔ چند اخبار و رسالہ۔ جہ۔

بَدَاؤ - جو چیز کہ دوسری چیز کی جگہ میں آئے۔

جانشین۔ کیم بشریت۔ جہ: آبَدَاؤ

بَدَاؤ - کپڑوں کا جوڑا۔

بَدَاؤ - سر کے علاوہ باقی جسم عضو۔ جہ: آبَدَاؤ

بَدَاؤتہ - (مکر و مؤنث) قربانی کا اونٹ یا گائے جس

کو مکہ لیا جائے۔ جہ۔ بَدَاؤ

بَدَاؤ - جنگل بَدَاؤتہ - جنگل کا رہنے والا۔

بَدَاؤ - بَدَاؤتہ - بَدَاؤتہ - (ن) ظاہر ہونا

خیال آنا سوچنا۔

بَدَاؤتہ - خدا تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام بغیر

نومنے کے کسی چیز کو پیدا کرنے والا۔

نوا بجا دھیر۔

بَدَاؤتہ - جو کسی چیز کی جگہ آئے۔

بَدَاؤتہ - جسم و تناور۔ جہ۔ بَدَاؤتہ

بَدَاؤتہ - شروع۔ اچانک بے سوچیا بات۔



بَط - سارنگی۔  
 بُرّاق - فرماں برداری - مہربان عورت  
 بُرّاشن - پنچہ - شیر کا پنچہ - شکاری جانوروں کا پنچہ  
 جہ: بُرّاشن۔  
 بُرّجہتہ - بیچ کا جوڑ۔ انگلی کے جوڑوں میں سے کہ  
 جب مٹھی بند کی جائے تو بلند رہے۔  
 جہ: بُرّاجہ۔  
 بُرّحاء - بخار وغیرہ کی شدت۔  
 بُرّود - سردی - ٹھنڈک - سرد - مص - سرد کرنا  
 برف ملانا - ملازم ہونا - کمزور و سست  
 ہونا - آسان ہونا - رتی کرنا - مرجانا۔  
 دن کا سرد ہونا۔  
 بُرّودّہ - ٹھنڈک - سرد ہونا۔  
 بُرّود - ادلا۔  
 بُرّرد - اولے برسانے والا بادل۔  
 بُرّرد - بُرّردہ - دھار پدار کپڑا - دھار پدار چادر۔  
 کسی فقیر کا جبہ - جہ: بُرّود - اَبْراد  
 بُرّرداء - جاڑا بخار - طبریا۔  
 بُرّردی - مصری - سرکڑا - ایک گھاس جس سے  
 کاغذ بنتا تھا۔  
 بُرّردعہ - نجر کا زین - فرین کا کپڑا - جہ: بُرّردع  
 بُرّردون - چوپایہ - تاتاری گھوڑا (مؤنٹ) بُرّردو  
 بُرّردسن - (ف س) [زل] ظاہر ہونا - کسی کا روپوشی  
 کے بعد خود کو ظاہر کرنا - نمایاں ہونا۔  
 بُرّردسرخ - دو چیزوں کے بیچ میں روک - دینا اور  
 آخرت کے درمیان عالم جس میں مرے کے  
 وقت سے قیامت تک آدمی رہتا ہے۔  
 (د) خاکستائے۔  
 بُرّردسرخ - جوانی کے ترنگ - جوان پرگوشنت۔

تباہ کاری کرنا۔  
 بُرّرد - (جس) گیہوں - بُرّردہ - ایک گیہوں۔  
 بُرّرد - بُرّردع (ف) پیدا کرنا - جاندار کو پیدا کرنا۔  
 بُرّرد - بُرّردع - بُرّردع - (ف س) مریض کا پھاری  
 سے شفا پانا اور اٹھ کھڑا ہونا۔  
 بُرّرداء - مہینہ کی پہلی رات - پاک - پیردار - اسمیں  
 تشبیہ جمع اور تائید نہیں آتی۔  
 بُرّرداء - بُرّرداء - بُرّردع - (س) پیرا ہونا - پاک ہونا  
 قرص سے سبکدوش ہونا۔  
 بُرّرداء - لائسنس - ج۔  
 بُرّردائستنت - پیرڈٹنٹ (عیسائی فخر)۔  
 بُرّرداء - چھیل میدان۔  
 بُرّردادہ - ریسے جو رتی کرنے سے گریں - براہ۔  
 بُرّردادہ - پانی ٹھنڈا کرنے کا برتن - پانی پینے کا گھٹ  
 پانی کا صراحی نما برتن۔  
 بُرّرداسن - جنگل - فراخ میدان - کھلی ہوئی جگہ جہاں  
 درخت وغیرہ نہ ہو۔  
 بُرّرداسن - آدمیوں کا پانخانہ - مص - برائی کے لئے  
 صف میں سے باہر نکلنا۔  
 بُرّرداعہ - برودع - (س ن) علم و فضل میں کامل  
 ہونا - ہم عصروں سے علم و بصیرت میں  
 فائق ہونا۔  
 بُرّرداق - چوپایہ جس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
 وسلم شب معراج میں سوار ہوئے۔  
 بُرّرداق - جگ دار۔  
 بُرّرداقہ - حسین عورت - چمکیلی اور گوری عورت  
 بُرّرداہمہ - برہمن لوگ - وہ: بُرّردہمت۔  
 بُرّردیرتہ - وحشی پن - خونخواری - ج۔  
 بُرّردیبط - عود ایک باجا - بربط کا موع یعنی سینہ

برش - دھتورہ -	برلیمان - پارلیمنٹ - (د)
برشت - ہلکا ہلکا ہوا اٹنا -	برمتہ - دیگ - پتھر کی بانڈی جہ - بڑھ
برص - (س) چنگر ہونا - فساد مزاج کے سبب بدن کا داغدار ہونا -	برمتہ - ایک آتش پرست پیشوا کے دین جس کی طرف خاندان براہمہ منسوب ہے -
برطلتہ - لیڈیوں کے استعمال کی چھوٹی چھتری (د)	برمیل - پیرا - گپتا - (د)
برغراہ - پروگرام - نظام کار (د)	برناج - خمرست - بھٹ (د)
برغوث - لیسو - جہ - بڑا عینتہ -	برنس - لمبی ٹوپی -
برق - چمک بجلی - جہ - بڑوق مص (ن)	برنیٹھ - ہمیت - انگریزی ٹوپی -
عودت کا مزین اور آراستہ ہونا - چمکنا -	برود - سرد - دوا جو ٹھنڈک پیدا کرے -
برق - میلگرام -	آنکھوں کی دوا کہ ٹھنڈی دواؤں سے بنائی جائے -
برق - بڑوق - (س) آنکھوں کا چندھیانا -	برونس - (ن) میدان میں لکنا اور ظاہر ہونا -
گھرا جانا -	نمودار ہونا -
برقع - بڑوق - عورتوں کا نقاب -	بروق - (ن) چمکنا - بجلی کا آسمان میں ظاہر ہونا
برقعہ - برقع پہنانا - دونوں کانوں کے بیچ میں مارنا -	ڈرانا - ڈرنا - ستارہ کا ٹکنا - عورت کا آراستہ و مزین ہونا -
برقوق - زرد آلہ - خوبانی - زرد بیر - شفتالو -	بروک - (ن) اونٹ کا بیٹھنا - ثابت و قائم رہنا
برقیقہ - ٹیلیگرام - تار (د)	مسلل برسننا -
برقیقہ لاسیڈھیقہ - وائریس - بے تار کا دریو خیرسانی - (د)	برہان - دلیل - حجت - واضح بیان - جہ -
برک - بیٹھے ہوئے اونٹوں کا گروہ - بہت سے اونٹ - وہ - ہارٹ سینیہ - اونٹ کے سینے کی جلد جو زمین سے لگ جاتی ہے	برہتہ - زمانہ دراز - طویل زمانہ - زمانہ کا ایک حصہ -
برکاس - پروکار (د)	برہتہ - حجت قائم کرنا - ثبوت دینا -
برکون - کوہ آتش فشاں (د)	بریقہ - صحرا - زمین خشک - خلاف ریقیقہ -
برکے - زیادتی و افزونی - نیک بختی - جہ -	جہ - بڑاوسی -
برکات -	بریقیقہ - پیدا کئے ہوئے - مخلوق - عالم جہ -
برکات السماء - بارش -	بڑاایا -
برکات الارض - نباتات -	برشید - قاصد - پیغام رسال - ڈاکہ - خیر جو ہر
برکے - تالاب - حوض - تلیا - جہ - پوک	

بارہ میل پر بادشاہوں کے پاس خطوط پہنچانے کے لئے مقرر ہوتے تھے۔ دم بریدہ کا معرب - جہ - بژد بارہ کوس کی مسافت۔ وہ جانور کوشیر کے آگے آگے چینٹتا ہوا جاتا اور جانوروں کو اس کے آنے سے خبردار کرتا ہے (د) ڈاک  
 بَرِيْدٌ جَوِّي - ہوائی ڈاک  
 بَرِيْدٌ مُسْتَعَجَل - ارجحٹ ڈاک (د)  
 بَرِيْدِيْنِيَّة - برطانیہ - برٹن (د)  
 بَرِيْعَةٌ - عقل و جمال میں فائق عورت  
 بَرِيْقٌ - چمکا ہٹ مص (ن) چمکنا  
 بَرِيْمِيَّة - پیس کس - اسکو  
 بَرِيْمِيَّة - سبکدوش - پاک - ہزار - جہ -  
 بَرِيْوَنٌ - بڑا - آبراء - بیماری  
 شفا پانے والا - جہ - بڑا -

ب - ز

بَسَاق - تھوک  
 بَسَالَةٌ - بَسَال (ک) بہادر اور دلیر ہونا  
 بَسِيَّاسَةٌ - جاوتری  
 بَسْتَانٌ - باغ - بوستان کا معرب - جہ -  
 بَسَاتِيْنِيَّة -  
 بَسْتَانِيٌّ - باغبان  
 بَسْتَنٌ - مونگا (مستحق الارب)  
 بَسْتَرٌ - نئی اور تازہ چیز - تازہ پانی - جہ -  
 بَسَارٌ - کھجور جو کھینے کے قریب ہو  
 بَسَطٌ - (ن) بچھانا یا تھلہا کرنا - خوش کرنا - فراخی کرنا  
 بَسِطٌ - کشادہ  
 بَسِطَةٌ - کشادگی - وسعت  
 بَسْفِيْحٌ - بسپاہ کا معرب - ایک گڑھ دار جڑ ہے اندر سے سبز مزہ تیز و شیریں  
 بَسُوْقٌ - (ن) تھوٹا  
 بَسْكَلِيْتٌ - بائیسکل (د)  
 بَسْمٌ - (ض) مسکانا (فا) - ہبائیم چھنا  
 بَسْمَلَةٌ - بسم اللہ کہنا  
 بَسْمُوْسٌ - (ن) منہ بنانا - منہ بگاڑنا  
 بَسْمُوْسٌ - شیر  
 بَسِيْطٌ - بچھائی ہوئی - خالص چیرہ - بغیر طاوٹ کی - فراخ  
 بَسِيْطَةٌ - زمین - فراخ و مہرا زمین - زبان زود  
 کبھی کو لوجیا - سائیکالوجی - علم النفس

ب - ش

بَشٌّ - بَشَّاشَةٌ - خوشی - خندہ پیشانی  
 (ف) خوش ہونا - ترم کلامی اور خندہ پیشانی

بَزَّ اَبْرَتٌ - پاسپورٹ  
 بَزَّ اَسْمٌ - کپڑا بچینے والا  
 بَزَّ اَسْرًا - کپڑا فروخت کرنا  
 بَزَّ اَقٌ - تھوک  
 بَزَّ اَمُوْسٌ - ٹونٹی (د)  
 بَزَّ اَقٌ - (ن) تھوٹا

ب - س

بَسْتٌ - (ن) اونٹ کو آہستہ بہکانا - مال کو ٹٹانا  
 بریدہ ریزہ کرنا  
 بَسَاطٌ - دری بھرتا - فشرش - وسیع میدان - جہ -  
 بَسِطٌ

بَصْبَصَةٌ - کتے کا دم لہانا - پہلے پہل آنکھیں کھولنا شروع کرنا۔

بَصْر - بینائی - آنکھ - جہ - آبصار دانائی اور علم مص (ن) بینا ہونا جاننا۔

بَصْط - کشائش - یعنی بسط۔  
بَضْط - (ن) تھوکتا۔

بَصَل - پیاز بَصَلَّةً ایک پیاز

بَصِير - بینا خدا تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام دانائے مند۔

بَصِيرَةٌ - بینائی - یقین - عقل مندی - دلیل واضح جہ - بصائر - عبرت - گراہ۔

## ب - ص

بِصَاع - جماع کرنا۔  
بِصَاعَةٌ - پونجی کچھ مال جس سے تجارت کریں وغیرہ جہ - بِصَانِع -

بِضَح - بَضْح - کچھ حشرات کا - کچھ حصہ عدد کی تین سے نو تک - چند (من)۔

بِضْعَةٌ - (م) بَضْح - جماع - عورت کا مہر - فرج - نکاح - طلاق

## ب - ط

بَط - (ام جنس مذکر مؤنث) ایک قسم کی مرغابی بطخ۔

بَطَاطَةٌ - آلو - (د)

بَطَاقَةٌ - کاغذ کا پرزہ - آنکھ کی سیاہی - پتہ ٹکٹ - قیمت کا پرچہ جہ -

بَطَّال - نکما - کاہل - سست - بہادر۔

بَطَّالَةٌ - ولیری - بیکاری - بیوہ دگی (د) تعطیل

سے پیش آنا۔

بَشَارَةٌ (س ص) خوش ہونا۔

بَشَارَةٌ - اچھی چیز - انجیل - انعام جہ - بَشَائِر - بَشَاش - کشادہ پیشانی - ہنس مکھ۔

بَشِير - کشادہ روئی - بَشَاشَت - کَسْبَر - آدمی - واحد و جمع مذکر مؤنث سب کے لئے ہے

بَشِير - خوش خبری۔

بَشِيرَةٌ - ظاہر جلد - جہ - بَشِير -

بَشِيرٌ - (ن) پھیلنا تراشنا - بڑی کاکھیت صاف کر دینا (ض) [ب] کسی چیز پر خوش

ہونا۔

بَشِيرِي - خوشخبری - مص (ن) خوشخبری دینا۔  
بَشِيح - بد مزہ اور ناگوار کھانا - وہ جس نے ایسا

کھانا کھایا ہو - وہ جس کے مزہ میں بدبو آئے بدبو - گینہ - بد ذات - ترش رو۔

چیں پر جسے -

بَشِيح - بَشَاعَةٌ - کھانے کا بد مزہ ہونا - مسواک کرنے سے مزہ میں بدبو ہونا۔

بَشِكْرٌ - تولیہ (د)

بَشِيكٌ - گرمیوں -

بَشِيحٌ - بد معنی - پیٹ کی تکلیف - مص (س) بد معنی محسوس کرنا۔

بَشِيرٌ - خوش خبری دینے والا - مبلغ مؤنث (بَشِيرَةٌ)

## ب - ص

بِصَارَةٌ - سمجھ - نظر۔

بِصَاقٌ - تھوک تھوک ہوا - اور جب تک مس میں رہتا ہے رِثِيق کہتے ہیں۔

بِصَالٌ - پیاز فروخت کرنے والا۔

بطیخ (جنس) اگرو۔ گلابی۔ خوبوترہ وغیرہ۔ (مفرد)  
 بَطِيخَةٌ -  
 بطیخی - خوبوترے فروخت کرنے والا۔  
 بَطِيئِش - سخت گیر۔  
 بَطِيئِن - دولت مند۔ برطے پیٹ والا۔  
 بَطِيئِيٌّ - سست رفتار سے چلنے والا جہ۔ بَطَاءٌ

## ب - ط

بَط - (ن) باجے کے تاروں کو درست کرنا۔  
 بَطْرَا - فرج کے لبوں کے درمیان کا ابھار۔  
 جہ: بَطْوَر - اٹکھٹی۔  
 بَطِيئِظ - موٹا آدمی۔

## ب - ع

بَعَاد - لعنت و نفرین۔  
 بَعَاد - دُور۔  
 بَعَا سَا - مینگنی کرنا۔  
 بَعَال - میاں بیوی کا اختلاط جماع کرنا۔ آپس میں  
 سمجھانا کرنا۔ ہم نشینی کرنا۔  
 بَعَثَ - بعثت - گروہ جو کہیں بھیجا جائے۔ وفد  
 لشکر۔ جہ: بَعُوث  
 بَعَثَ - (ن) برا بیگینہ کرنا۔ اٹھانا بھیجنا۔ زہرہ  
 کرنا۔ جگانا۔ متفرق کرنا۔  
 بَعَثَ - (س) بیدار رہنا۔  
 بَعِثَ - شب بیدار۔ تہجد گزار۔  
 بَعَثْرَه - پراگندہ کرنا۔ باہر رکھ دینا۔ چھان مارنا  
 بَعْدَ - دُوری۔ موت۔ لعنت۔ مص (لٹس)  
 دُور ہونا۔ مرنا۔ (حقیقت) ابعید۔ باعید  
 بَعَادَ جہ: بَعْدَاءُ - بَعْدُ - بَعْدَان -

مص (لٹ) دلیر ہونا۔ بہادر ہونا (ن)  
 فاسد ہونا۔ بیکار رہنا۔ مذاق کرنا۔  
 بطانۃ - پوشیدہ راز۔ ولی دوست۔ کپڑے کا آستر  
 نسبتی کا وسط۔ خاص آدمی۔  
 جہ: بَطَائِن -

بَطَّطَ - تیل کا برتن۔ بطخ - (بطل کا واحد)  
 بَطِج - بَطِيحٌ - بَطِيحَاءٌ - پتھر ملی زمین کی وادی۔  
 جہ: بَطِجَا ح - بَطَايِحٌ - اَبَا بَطِد -  
 بَطْر - (س) ہمت خوشی کرنا۔ اترانا۔ نکتہ کرنا۔  
 پریشان ہونا۔ ناشکری کرنا۔ حق بات کو  
 نہ ماننا۔ اور گردن کشی کرنا (صفت)  
 بَطْرَس -

بَطْرِيقٌ - شکر آدمی۔ دس ہزار رومی فرج کا سپہ  
 سالار جہ: بَطَارِقَةٌ -

بَطَش - (ن ص) [ب] حملہ کرنا۔ سخت گرفت کرنا

دلیری کرنا۔ بخار سے آفاق پانا۔

بَطَل - بہادر آدمی۔ جہ: اَبْطَال -

بُطْل - بُطْلَانٌ - بغوث۔ بیہودگی۔ جھوٹ  
 بے بنیاد بات۔

بُطْلَاتٌ - بیہودگیاں۔ لغو و لایعنی باتیں۔

بَطْن - دولت مند۔ مغرور۔ بہت کھانے والا۔  
 پیٹ۔ جہ: بَطْنَان -

بَطَن - (لٹ س) برطے پیٹ والا ہونا۔

بَطْن - (مفرد) پیٹ۔ تقلید کی شاخ۔ جہ:۔

بَطُونٌ - مص (ن) پیٹ پر مارنا۔ پوشیدہ

ہونا۔ حقیقت اور ماہیت جان لینا۔

بَطْوَاءٌ - (لٹ) بَطَاءٌ - (ن) دیر لگانا۔

آہستہ آہستہ کام کرنا۔

بَطْوَاءَةٌ - (لٹ) بہادر اور دلیر ہونا۔

بَعْد - پیچھے - ضد قبل -  
 بَعْد - (اسم جنس) مینگنی (مفرد) بَعْدَة جہ :-  
 اَبْعَاس مَص (س) مینگنی کرنا -  
 بَعْض - حصہ - ٹکڑا - جہ :- اَبْعَاض -  
 بَعْل - شوہر - بیوی - آدمی کا لقب - سردار -  
 یونس علیہ السلام کی قوم کا بت - بلذبین  
 جہ :- یَعَال - بَعُول - بُعُولَة -  
 بَعْلَة - بیوی -  
 بَعْلِكْ - شام کا ایک برباد شدہ شہر -  
 بَعُوْصَة - پھر - جہ :- بُعُوْص -  
 بُعُوْلَة - خاوند ہونا - بیوی ہونا -  
 بَعِيْد - دور - واحد و جمع دونوں کے لئے ہے -  
 بَعِيْر - (مذکر و مؤنث) اونٹ - گدھا - ہر ایک لڑو  
 چوپایہ - جہ :- اَبْعِيْرَة - اَبَا عِيْس -  
 اَبَا عِيْر - (منشی الارب)

## ب - ق

بَقَاء - زندگی - مص (س) زندہ رہنا - دنیا  
 میں رہنا - ثابت و قائم رہنا -  
 بَقَال - سب سے بڑی بیچنے والا - عوام بظرفوش  
 کو بقال کہتے ہیں حالانکہ صحیح بَدَال ہے  
 بَقَالَة - ساگ کا کھیت -  
 بَقْبَاق - بک بک کرنے والا - بکواسی -  
 بَقْبَقَة - صراحی وغیرہ کی آواز پانی نکالنے کے وقت  
 بَقْبَق - کھٹل - جہ :- بَق -  
 بَقْسَة - گائے - بیل - جہ :- بَقْس - بَقْس - بَوَاقِر  
 اسم جمع - باقور - باقورَة  
 بَقْسَمَاط - بکٹ -  
 بَقْل - (جنس) ساگ - سبزی (مفرد) بَقْلَة  
 جہ :- بَقُول -  
 بَقْل - ساگ - موسم بہار کا سبزہ (منشی الارب)  
 بَقْلَة - ساگ کا کھیت - سرسبز زمین -  
 بَقْلَة اَلْاَنْصَار - گوبھی - گرم کلمہ -

## ب - ع

بَعَا - زنا کرنا -  
 بَعَاث - وہ پرندے جو شکار نہیں کرتے -  
 بَعَال - نچر والا - نچر کا محافظ -  
 بَعْتَة - ناگمانی حملہ - خلاف امید واقعہ - جہ :-  
 بَعْتَات -  
 بَعْض - دشمنی  
 بَعْضَة - بَعْضَاء - نفرت - دشمنی -  
 بَعْل - نچر - جہ :- بَعَال (م) بَعْلَة -  
 بَعْم - موتیوں کی والا -  
 بَعُو - زنا کار عورت -  
 بَعُوَة - کھجور کا شگوفہ -  
 بَعِي - (ص) زنا کرنا - ظم اور زیادتی کرنا جس سے

بَقْلَةُ الْحَمَاءِ - خرفہ - لوبیا۔

ب - ک

بِکَاءُ بُکِي - آواز سے روننا۔ گانا۔ (خا) بَکِي  
ج: - بُکَاةٌ - بُکِي۔

بِکَارَةٌ - کنواریں۔

بَيْعَةٌ - مکہ معظمہ۔

بَيْعَةٌ - (ن) پھاڑنا۔ پارہ پارہ کرنا۔ ریزہ ریزہ  
کرنا۔ مزاحمت کرنا۔ کسی کی نخوت کو روکنا  
دینا۔ پست کرنا۔ گردینا۔ گردن توڑنا۔

بِکْرٌ - بکرو۔ جوان اونٹ۔ ج: - اَبْکَرٌ - بَکْرَانٌ۔  
بِکَارَةٌ -

بِکْرٌ - (مذکورہ موٹ) کنوارہ۔ کنواری۔ ج:۔

اَبْکَارٌ - ہر چیز کا پہلا۔ جوان لڑکا۔ ہر  
نیا کام کا پہلے ویسا نہ ہوا ہو۔ گائے کہ  
ابھی حاملہ نہ ہوئی ہو۔ پہلا بیٹا کہ اس کے بعد  
دوسرا ابھی نہ ہوا ہو۔ انگور کا درخت کہ اس  
دفعہ سے پہلے پہل نہ لایا ہو۔ تلوار کی  
ضرب جو ایک بار میں صاف کاٹ  
دے۔

بِکْرٌ - ترط کا۔ مص۔ جلدی کرنا۔

بِکْرَةٌ - ترط کے کا وقت۔

بِکْرُورِيَا - بیچلر یا گریجویٹ کا درجہ۔ بی اے کی سند  
بِکْرٌ (س) گونگا ہونا۔ اَبْکَمٌ گونگا۔ ج:۔  
بِکْمٌ۔

بِکْرُوسٌ - پہلی بارش۔ کھجور کا درخت جس کے پھل  
جلد پھیں۔

بِکْرُوسٌ - (ن) ترط کے سے اٹھنا۔ ترط کا کرینا۔

علی الصباح جانا۔

سبکی - بہت رونے والا۔ تھوڑی سی چیز۔

ب - ل

بَلٌ - حرف عطفت ہے (جبکہ فرد پر داخل ہو)  
اور اضراب کے لئے بھی آتا ہے (جبکہ جملہ  
پر داخل ہو) یعنی ایک مقصد سے دوسرے  
مقصد کی طرف انتقال کے لئے یا ما قبل  
کے ابطال کے لئے۔ نیک۔

بَلَاءٌ - آزمائش (نعت سے ہو یا سختی اور محنت  
سے) صدمہ غم کہ جو دہلا کر دے۔ مص  
(س) کپڑے کا پرانا ہوجانا۔

بَلَاءٌ بِل - غم کی شدت۔ تفکرات

بِلَاءَةٌ - کند ذہنی۔ ذہن کی سستی۔ مص  
(س) کند ذہن ہونا۔

بِلَاطٌ - فرش۔ پتھر جس سے فرش بنایا جائے۔

بِلَاطُ الْمَلِكِ - دربار شاہی

بِلَاحٌ - (اسم) ابلاغ اور تبلیغ کا پہنچا دینا۔ نامرد  
پیغام۔ پیغام۔ کافئ حصہ۔

بِلَاحٌ اَحْمَرٌ - (اسم) میٹھ۔ آخری تہیہ۔ (د)

بِلَاحَاتٌ - چغلیاں۔ جھوٹی سخن آرائیاں۔

بِلَاحَةٌ - (ک) بلیغ ہونا کلام کا۔ کامل اور عمدہ ہونا  
بِلَاحَةٌ - تحریر و تقریر کی شکل۔ فصاحت۔

رَبِّعِلْمٌ اَلْبِلَاحَةُ - معانی دہیان۔

بِلَالٌ - پانی۔ تری۔ نام مؤذن جناب رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم۔

بِلَالَةٌ - تری۔ بقیہ دوستی۔

بِلَالَانٌ - ایک خاردار درخت۔

بِلْبَالٌ - رنج کی شدت۔ دوسوسہ۔ بھیرٹیا۔

بِلْبَالٌ - شوق دلانا۔ بہرگانا۔ بہت زیادہ منہاک





بِمْد - بُوهر - بُوْمَة - (مذکورہ مؤنث) اَلو۔  
 آواز - جہ - بُوْموہ -

## ب - ن

بِنْت - کافی - کافی کا پھل - (د)

بِنْتَاء - مکان - گھر - جہ - اَبْنِيَّة - حج اَبْنِيَّات  
 مص ہن گھر بنانا - بھلائی کرنا - شادی  
 کر کے بیوی کو گھر میں لانا - موٹا کرنا - کلمہ  
 کے آخر حرف کا عوامل کے اختلاف کے باعث  
 ایک حالت پر رہنا -

بِنْتَاءٌ عَلِيٌّ - لہذا - اس سبب سے -

بِنْتَاءٌ - معمار -

بِنَات - گڑیاں - بیٹیاں - وہ - بِنْتٌ -

بِنَاتُ الدَّاهِر - حوادث - شدائد

بِنَاتُ التَّقْش - قطب شمالی کے قریب سات

ستارے جو نسبتاً بڑے اور روشن ہیں -

بِنَان - (جنس) پورہ - انگلی (مفرد) بِنَانَةٌ -

جہ: بِنَانَات -

بِنْتٌ - بیٹی - جہ: بِنَات (دو یا ان کا مؤنث)

نہیں ہے بلکہ علیحدہ مستقل لفظ ہے -

بِنْتُ الْكَوْم - شراب -

بِنْتُ الْفَعْد - خیال -

بِنْبُج - بھنگ -

بِنْد - جھنڈا - نشان - دس مرہ اور کا دستہ -

باب - دفعہ - جہ: - بِنْدُو (د)

بِنْدَر - جہازوں کا اسٹیشن - سمندر کا کنارہ

جہاں جہاز ٹنگا نماز ہوں -

بِنْدُوْرَة - ایک درخت مثل اَلو -

بِنْدُوْق - مٹی کا غلہ - جہ: - بِنَادِق -

بِنْدُ قَارِسِي - چلوڑہ -

بِنْدُ قِي هِنْدِي رِيْجَا -

بِنْدَقَة - غلہ بنانا - گھوڑنا -

بِنْدُقِيَّة - بندوق - رانفل -

بِنْدُوْق - حرامی - جہ: - بِنَادِق -

بِنْدِيْرَة - جھنڈا - پھریرہ -

بِنْدَسِر - (مؤنث ہے) انگلی جو پچ کی انگلی اور

چھوٹی انگلی کے درمیان ہے - جہ: بِنَادُو

بِنْدُوْن - پستون - (د)

بِنْفَسْبَج - بنفشہ -

بِنْدَك - بِنْدَكَة - بَنِيَك (د)

بِنْتُ التَّوْفِيْد - سیونگ بنگ -

بِنْتُوَّة - بیٹیاں -

بِنْتِي - (رض) گھر بنانا - بھلائی کرنا - شادی کر کے

بیوی کو گھر میں لانا - موٹا کرنا -

بِنْتِي - میرے چھوٹے بیٹے -

بِنْتِيَاتُ الطَّرِيْق - چھوٹے راستے کر پڑے راستہ

سے پھینک - گلی کو چے -

بِنْيَان - مکان - احاطہ کی دیوار - مص (رض)

گھر بنانا - بھلائی کرنا - شادی کر کے

گھر آباد کرنا - موٹا کرنا -

بِنْيِيْكَ - بِنْيِيْكَه عمارت بناوٹ - جہ:

بِنْيِيْ بِنْيِيْ

بِنْيِيْفَه - کپڑے کی کلی - انگوڑی نسی شاخ -

جہ: - بِنْيَاتِق -

## ب - و

بِسُوء - نکاح - جماع - رجوع کرنا - موافق ہونا

اقرار کرنا - گناہ کرنا - برابر کرنا -

توآء - برابر - جواب - برابری - مشابہت -  
 توآب - دربان -  
 توآبیتہ - دربانی -  
 توآوح - ظاہر و آشکارا - علانیہ بکلمہ کھلا -  
 توآس - ہلاکی - ہلاک ہونا - بیوہ عورت کی بے وقتی  
 ردائے التوآس - دوزخ (اصطلاح قرآنی)  
 توآسیئر - ایک خاص قسم کے سسے - بواسیر -  
 توآب - (ن) دل و دربان ہونا -  
 توآتقتہ - بوتر کا معرب - سنار کی کوٹھالی -

## ب - ۵

توآء - حسن و خوبی - مص (دس) حسین و خوشناما  
 ہونا - حسن و خوبی میں غالب آنا -  
 توآس - ایک زرد رنگ کا خوشبو دار پھول -  
 خوبصورتی -

توآس - بت - دُھتی ہوئی روٹی  
 توآت - بہت - (ف) بہتان لگانا - غالب ہونا -  
 (س) ک (حیران ہونا - متحیرہ جمانا عاجز  
 ہونا -

توآت - بہت - جھوٹ - بہتان -  
 توآتک - جھوٹ - افتر کسی پر جھوٹی تہمت لگانا -  
 توآج - (س) (ب) خوش ہونا (ف) خوش کرنا -  
 توآجتہ - خوبی اور حسن - شادمانی اور خوشی مص  
 (س) خوش ہونا خوب اور عمدہ ہونا -

توآر - (ف) روشن ہونا خوش نظر آنا فلک کرنا  
 ہمصروں سے فضیلت و مرتبہ میں بڑھ جانا  
 توآق - چھپ - مص (ف) چھپ کی بیماری  
 بڑھانا (صفت) بھتی -

توآمن - ایک بوٹی کی جڑ ہے - مولیٰ کے مشابہ اس  
 کی دو قسمیں ہیں -  
 توآو - خیمہ جو مہمانوں کے لئے گاڑا جائے بیٹھک

توآب - (ن) دل و دربان ہونا -  
 توآتقتہ - بوتر کا معرب - سنار کی کوٹھالی -  
 توآوح - (ن) ظاہر ہونا (ب) بھید ظاہر کر دینا -  
 توآس - غیر مزدور و غیر زمین (ن) آزمانا - ہلاک  
 ہونا - باطل ہونا - زمین کا بخیر چلا رہنا  
 توآس - بڑا خراب آدمی - ادباش -

توآرق - سہانگہ -  
 توآریج - ایک قسم کی مچھلی - پھنکنی -  
 توآریتہ - بوڑھیا - ترکل کی چٹائی -  
 توآس - سختی و مصیبت - جہ - آبوآس

توآس - بوسہ -  
 توآسطہ - ڈاک خانہ - ڈاک (د)  
 توآسطیجی - ڈاکہ - (د)  
 توآسئی - سختی - مشقت - غلات نعمی -

توآش - بازاری - جہ - آدباش آوارہ لوگ  
 توآص - ریشم -  
 توآطہ - سناروں کی کوٹھالی - میل بوٹا کپڑے  
 وغیرہ میں -

توآغاز - دریا کا دانہ - آبنائے -  
 توآق - بگل - سنگہ - جہ - بیٹقان -  
 باطل - دروغ -  
 توآول - پیشاب جہ - آبوآل -



ہاتان - ہوا لاء۔ اور بسا اوقات  
کاف خطاب کے ساتھ بلحاظ معنی کاف  
کے تمام مواقع میں اس کا استعمال ہوتا  
ہے تَاكَ - تَاَنِكَ - اُولَیْكَ - تصغیر کیسا  
ہتّٰی۔

تَاب - بزرگ مرد۔ ضعیف اونٹ۔ گدھا اور  
اونٹ جس کی پشت زخمی ہو۔ جر۔  
اَبَاب -

تَابَب - کسی چیز پر اپنہنا کرنا۔

تَابَس - ویران ہونا۔ اجاڑ ہونا۔

تَابَط - کسی چیز کو بغل میں لینا۔

تَابَع - پیروی کرنے والا۔

تَابُوت - مردہ کا صندوق۔ صندوق۔

تَابُورَة - فوج کا حصّہ۔ دستہ۔ جر۔ توأبؤر (د)

تَابُيْتَا - اہدی ہونا۔ وحشی ہونا۔ مکان کا اجاڑ ہونا۔

تَابُيْر - تَابُور - مادہ بھجور کے شکر ذمیں زکھور کا شکر  
ڈالنا تاکہ خوب بار آور ہو۔

تَابِيْن - مردہ پر اس کی بھلائیاں بیان کر کے رونا

کسی کے روبرو اس کا عیب بیان کرنا۔

تَابِي - مینا ہونا۔ سہل ہونا۔ ذمّی اختیار کرنا  
مائل ہونا۔ صحت مند ہونا۔

تَابِر - اثر قبول کرنا۔

تَابَر - گناہ سے تائب ہونا۔ گناہ سے علیحدہ رہنا  
خود کو گناہ گار سمجھنا۔

تَابِرْ - [فی] کسی چیز میں اثر چھوڑنا۔ اثر کرنا۔

تَابِرْتِم - گناہ کی جانب منسوب کرنا۔ ایسا کام کرنا  
جو حلال اور جائز نہیں۔ گناہ۔

تَابِح - سونے اور جو اہرات کی ٹوپی بادشاہ کے  
واسطے۔ جر۔۔ ریتجنان۔

بیا باجانا۔

بَیِّن - درمیان۔ بیچ۔

بَیِّن بَیِّن - سامنے۔

رَدَاتُ البَیِّن - دوستی۔ رشتہ داری

بَیِّن - ظاہر۔ عیاں۔ جر۔ اَبَیْنَاء

بَیِّنَة - روشن دلیل۔ وجہ ثبوت۔ جر۔

بَیِّنَات -

بَیِّنَات - جس پر رات گزر چکی ہو۔

بَیِّن - (حق) زعمًا حرا ہونا۔ علیحدہ ہونا

بَیِّنِس - بہادر آدمی۔ شدید وسخت۔

عَدَابُ بَیِّنِس - سخت عذاب۔

ت - ۱

ت - حرف قسم اور حرف جر ہے۔ مختص ہے

اسم ذات اللہ کے ساتھ کسی اور اسم پر

داخل نہیں ہوتا۔ اور تا اسماء کے آخر میں

علامت تائید کے طور پر آتی ہے اور کبھی

وحدت یا جمع یا مبالغہ کے لئے بھی آتی

ہے جیسے قَدَمَاتُ ، قَدَمَاتُ ، عِلْمَاتُ

فعل ماضی کے آخر میں بھی تا آتی ہے

(مفتوح خطاب واحد مذکر کے لئے اور

مکسورہ خطاب واحد مؤنث کے لئے اور

مضموم واحد متکلم کے لئے اور ساکن علامت

تائید کے طور پر)۔ مضارع کے شروع

میں خطاب مذکر مؤنث کے لئے آتی

ہے۔

تَا - اسم اشارہ مؤنث ہے۔ تشبیہ تان

جر۔ اُولَاء (مذکر مؤنث) اُولَاء

اس پر پائے تنبیہ بھی داخل ہوتی ہے۔

اپنے بزرگوں کے خصائل اختیار کرنا۔ [علیؑ] بہانہ ڈھونڈنا۔	تَا جَج - آگ کی لوکا اٹھنا۔ آگ بھوکنا۔ دن کا سخت گرم ہونا۔
محمم کا نواں دن۔	تَا جِد - سوداگر۔ ج۔:۔ تَجَار - تَجَار۔
تَسْتِی - تسلی پکڑنا۔ تشفی پانا۔ آرام پانا۔ سنا۔	تَا جِجِم - آگ کو بھوکنا۔
تَا یَسِی - غمخواری کرنا اور ایک دوسرے کو تسلی دینا۔	تَا جِجِل - مدت معین کرنا۔ مدت دینا۔ بند کرنا۔
تَا یَسِیۃ - کسی کے لئے کرہنا۔ اور اس کو تسلی دینا۔	روکنا۔ تالاب میں پانی جمع کرنا۔
تَا یَسِس - بنیاد رکھنا۔ جڑ بنانا۔	تَا یَحْر - دیر کرنا۔ دیر لگانا۔ پیچھے رہ جانا۔
تَا یَقِف - اُفت کنا۔ تھو تھو کرنا۔	تَا یَحِی - دو جماعتوں کا آپس میں برادری قائم کرنا۔
تَا یَحُق - اُفت سے آنا۔	تَا یَحِی - بھائی ہونا۔ کسی کو بھائی بنا لینا یا بھائی کنا۔
تَا یَحِیْف - اُفت کنا۔ تھو تھو کرنا	تَصَدِّق - قصہ کرنا۔
تَا یَحِیْث - جھوٹ کنا۔	تَا یَحِیْث - پیچھے چھوڑ دینا۔ پیچھے کر دینا۔
تَا یَحِیْث - وقت میں کرنا (معنی توقیت)	تَا دَب - ادب سیکھنا۔
تَا یَحِیْث - مضبوط ہو جانا۔ توکل۔ تاکد سے زیادہ۔	تَا دِی - پہنچانا۔ ادا کرنا۔ پہنچنا۔
تَا یَحِیْث - ملوار۔ بجلی وغیرہ کا چمکنا۔	تَا دِیْب - ادب سکھانا۔
تَا یَحِیْث - آپس میں کھانا۔ آپس میں کشت و خون کرنا	تَا دِیۃ - پہنچا دینا۔ امانت اور قرض کو ادا کرنا۔
تَا یَحِیْث - مضبوط کرنا تو کھیند۔ تاکید سے زیادہ فصیح ہے۔	تَا دِیۃ (اسم مصدر) ادا
تَا یَحِیْث - خاطر و مدارات کرنا۔ اپنی طرف مائل کرنے کے لئے کوئی چیز دینا۔ آپس میں متفق ہونا۔	تَا دِیۃ - آگاہ کرنا۔ حاکم کو شہید کے ساتھ منادی کرنا
تَا یَحِیْث - بجلی کا چمکنا عورت کا مزین اور آراستہ ہونا۔ رٹنے کے لئے عورت کا دامن اٹھانا یا شکر کے لئے اس کا آمادہ ہونا اور سر کو بلند کرنا۔	تَا دِیۃ - قسم کھانا۔
تَا یَحِیۃ - درد مند ہونا۔ دکھ پانا۔	تَا دِیۃ - رنج اٹھانا۔ آزرہ ہونا۔
تَا یَحِیۃ - پرستش کرنا۔ پوجنا۔ عبادت کرنا۔ معبود بنانا۔	تَا دِیۃ - اذان کنا۔ خوب اعلان کرنا۔ اجازت دینا۔ گوشائی کرنا۔
تَا یَحِیۃ - بیخود و سرگشتہ۔ (مادہ تہ)	تَا دِیۃ - ایک مرتبہ۔ ج۔:۔ تَدِیۃ۔
تَا یَحِیۃ - قسم کھانا۔	تَا دِیۃ - کسی چیز کے تیار ہونے کا وقت کھنا کسی چیز کے تیار اور مکمل ہونے کا وقت۔
	تَا دِیۃ - ازار پہنانا۔ مضبوط اور پختہ کرنا۔
	تَا دِیۃ - نواں۔
	تَا دِیۃ - کسی پر رنج کرنا۔ کسی پر طول اور اندوگیں ہونا۔
	تَا دِیۃ - پانی کا رنگ دمڑہ بدل جانا۔ دیر لگانی۔

تآئی - قسم کھانا۔  
 تآئی - دیکھنے والی چیز تھوڑا تھوڑا ڈوڑکا۔  
 تآئیستہ - قصور کرنا۔ دیر لگانا۔ تکبر کرنا۔  
 تآئیفت - آپس میں صلح اور موافقت کر دینا۔ اکلھا کر دینا۔ ہر اہل پورے کر دینا۔  
 تآہ - پورا۔ مکمل۔  
 تآاہر - ایک دوسرے پر حکم کرنا۔ مشورہ کرنا۔  
 تآامدل - کام میں تاخیر کرنا۔ انجام سوچنا۔  
 تآامم - مال بنانا۔ کسی کو مال کھنا۔ قصور کرنا۔  
 تآاموس - جان۔ زندگی۔ دل۔ خون۔ زعفران۔  
 بچہ۔ بچہ دان۔ وزیر۔ بادشاہ۔  
 تآامسٹم - خاک کی طرف وضو کے لئے قصور کرنا۔  
 تآامول - پان۔  
 تآامید - حاکم بنانا۔ تیار کرنا۔ داغ دینا۔ مسلط کر دینا۔ ہمت کر دینا۔  
 تآامپیل - امید رکھنا۔  
 تآامیہم - قصور کرنا۔  
 تآامین - آمین کہنا۔ دیا ننداری کرنا۔ دیا نندار بھینا۔  
 اعتماد کرنا (د) بیمہ کرانا۔  
 تآانٹ - مؤنث ہونا۔ نرم ہونا۔  
 تآانس - کسی سے دل کو چین ملنا۔ مانوس ہونا۔  
 تآائی - مستی۔ ڈھیل۔ ڈھیل دینا۔ انتظار کرنا۔  
 تآائیٹ - عورت کی طرف منسوب کرنا۔ مؤنث شمار کرنا۔ محنت بنانا۔ دل [ نرم ہونا۔  
 تآانیس - افس بکھڑنا۔ سچانے کے لئے غور کرنا۔  
 تآائیفت - غار پر برانگیختہ کرنا۔ پیکان کا تیر کرنا۔  
 اونٹوں کو چراگاہ تازہ میں چھوڑنا۔  
 تآائیشتی - اچھنبے میں ڈالنا۔  
 تآاؤب - پھر جانا۔

تآاؤخ - قصور کرنا۔  
 تآاؤل - تاویل کرنا۔ تفسیر کرنا۔ تشریح کرنا۔  
 تآاؤک - آہ کھنا۔  
 تآاؤوی - پناہ لینا۔  
 تآاؤیستہ - پناہ اور جگہ بکھڑنا۔ پناہ اور جگہ دینا۔  
 تآاؤیل - کسی کو کسی کی طرف پھیر دینا۔ تاویل کرنا۔ تفسیر کرنا۔ تشریح کرنا۔  
 تآاؤیستہ - آہ کھنا۔  
 تآاؤہب - تیار ہونا۔ سامان کرنا۔  
 تآاؤل - شادی کرنا۔ متعلقین کے ساتھ ہونا۔  
 تآاؤہ - آہ کرنا۔  
 تآایب - پھر جانا۔  
 تآایب - توبہ کرنے والا۔  
 تآاؤشج - تاجدار۔  
 تآایب - پھر جانا۔  
 تآایب - قوت دینا۔  
 تآانیس - ناامید کرنا۔ حقیر و ذلیل سمجھنا۔ اثر کرنا۔ نرم کرنا۔  
 تآایبم - بیوہ کرنا۔

## ت - ب

تآب - تبتہ - نقصان۔ ہلاکت۔ موت۔  
 تآب - تباہ۔ (ص) ہلاک ہونا۔  
 تآادس - جلدی کرنا۔ کسی بات کا فوراً خیال آنا۔  
 تآادل - اولاد لاکرنا۔  
 تآادی - صحرا نشین کی مشابہت اختیار کرنا۔  
 آپس میں کھل جانا۔  
 تآاس - ہلاکی۔  
 تآاسرد - آپس میں نیکی کرنا۔

تَبَارُكٌ - پاک اور منزہ ہونا۔ یہ صفت خاص سے  
 اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔  
 تَبَارَى - ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی  
 کوشش کرنا۔  
 تَبَاثُرٌ - ایک دوسرے کو خوش خبری دینا۔  
 تَبَاثِيرٌ - اوائل تھے۔  
 تَبَاعٌ - کسی کے کام کی پیروی کرنا۔  
 تَبَاعُدٌ - دُور ہونا۔  
 تَبَاعُلٌ - جماع کرنا۔ شوہر و بیوی کا باہم ملنا۔  
 تَبَاغُضٌ - باہم دشمنی کرنا۔  
 تَبَارَكِي - جھوٹ موٹ رونا۔ رونے کی صورت  
 بتکلف بنانا۔  
 تَبَاكٌ - خود کو جھوٹ موٹ بیوقوف ظاہر کرنا۔  
 تَبَاكِي - آزمانا۔  
 تَبَاكٌ - جاگیا۔ ٹکڑی۔ ٹکڑی۔ جہ:۔ تَبَاكِيَيْنِ  
 تَبَاكِيَانِ - گھانس بیچنے والا۔  
 تَبَاوُشٌ - باہم ایک چیز کو لے لینا۔  
 تَبَاهَلٌ - آپس میں ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔  
 تَبَاهِيٌ - آپس میں فخر کرنا۔  
 تَبَايِعٌ - باہم خرید و فروخت کرنا۔ بیعت کرنا۔  
 تَبَاكُلٌ - کٹا ہوا ہونا۔ ماسوا اللہ سے کٹ کر اللہ جل  
 جلالہ کی طرف متوجہ ہونا۔ عورتوں کی طرف  
 سے بے پردا اور بے رغبت ہونا۔ رخصت  
 کی جڑ میں سے پودہ کا نکل کر مستقل ہوجانا  
 تَبْتِيْلٌ - کاٹنا۔ الگ کرنا۔  
 تَبْتِيْرٌ - جلد بدن کا پھنسیاں ظاہر کرنا۔  
 تَبْتِيْتٌ - خبر کا فاس کرنا۔ منتشر کرنا۔ بجا رٹا نا۔  
 تَبْتِيْلٌ - بزرگ سمجھنا۔ تعظیم کرنا۔  
 تَبْتِيْحٌ - کھودنا۔ تفتیس کرنا۔

تَبَخَّرَ - بہت مالدار ہونا۔ بہت ذی علم ہونا۔  
 تَبَخَّرَ - ناز سے ملنا۔  
 تَبَخَّرَ - خوش ہو کر کسی چیز کو سلگانا۔  
 تَبَخَّرَ - کسی کو بخیل کہنا۔  
 تَبَخَّرَ - بدعتی ہونا  
 تَبَخَّرَ - بدل میں لینا۔ پہلی حالت سے دوسری حالت  
 پر ہوجانا۔ بدل جانا۔  
 تَبَخَّرَ - نکلتا۔ ظاہر ہوتا۔ جنگل میں رہنا۔  
 تَبَخَّرَ - متفرق کر دینا۔ تھک جانا۔ بیٹھے بیٹھے  
 اونگھنا۔  
 تَبَخَّرَ - کسی کو بدعتی کہنا۔  
 تَبَخَّرَ - بدل میں لینا۔ پہلی حالت میں فرق کر دینا۔  
 بدل دینا۔  
 تَبَخَّرَ - تبتکار مصروف آدمی۔ بیجا خرچ کرنے  
 والا۔  
 تَبَخَّرَ - خود کو اور اپنے کپڑوں کو میلا پھیلا رکھنا۔  
 حفاظت نہ کرنا۔ مار دینا۔  
 تَبَخَّرَ - بے موقد مال ٹٹانا۔ بیخ ہونا۔ بھید ظاہر  
 کرنا۔ متفرق کرنا۔ آزمانا۔  
 تَبَخَّرَ - رخصت، توڑ پھوڑ دینا۔ تہس نہس کرنا۔  
 تَبَخَّرَ - سوتا چاندی کچی دھات کا گڑا اور گڑانے  
 کے بعد ذکھبِ فَضْمَةِ وغیرہ کہتے ہیں۔  
 جہ:۔ تَبَخَّرَ  
 تَبَخَّرَ - عورت کا اپنی زیب و زینت مردوں کو  
 دکھاتے پھرنا۔  
 تَبَخَّرَ - ہمذب و مستعد ہونا (د)  
 تَبَخَّرَ - فرماں برداری کرنا۔ اطاعت گزار ہونا۔  
 تَبَخَّرَ - قضائے حاجت کے لئے جنگل کی طرف جانا  
 تَبَخَّرَ - بظرف ثراب اپنی خوشی سے کوئی فعل کرنا۔

کردینا۔ تعریف اور توضیح کرنا۔ بصرہ میں آنا۔

تَبَطَّل - شجاع و دلیر ہونا۔ باطل چیزوں کو آپس میں نبرد اور لینا۔ لغویت پسند ہونا۔

تَبَطَّن - کسی کو اپنے نیچے لے لینا۔ حقیقت کار سے واقف ہونا۔ کسی کے درمیان بھڑنا

تَبَطَّيْن - پیٹ پر ماننا۔ استرگانا۔ ٹھوڑی کے نیچے کے بال منڈولنے۔ چوپا پر ترنگ باندھنا۔

تَبَطَّيْنِي - تاخیر کرنا۔ کام کو سچھے ڈالنا۔

تَبَطَّيْر - عورت کا خفتہ کرنا۔

تَبَّح - (داعد و جمع) کچھ چلنے والے۔ ۶۷۔ آتباع (س) پیچھے چلنا۔ کسی کے پیچھے جانا اور اس سے جا ملنا۔

تَبَّح - سایہ۔ ایک قسم کی شمدی تھی۔ ۶۷۔ تَبَّاحِيَّة - شاہان میں قدیم کا لقب۔ ۶۷۔ تَبَّاحِيَّة -

تَبَّعَة - انجام دہ۔ برائیتجہ۔

تَبَّعْت - نکلنا۔ ہماری ہونا۔

تَبَّعْتُر - جی ملنا۔

تَبَّعْد - دور جانا۔

تَبَّعَض - حصہ حصہ ہونا۔ ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔

تَبَّعَق - بادل کا زور سے مینہ برسانا۔ یکا یک گفتگو کرنے لگنا۔

تَبَّعَل - شوہر کی فرمانبرداری کرنا۔ شوہر کے لئے آراستہ ہونا۔ ایک آدم کو دوسری قوم میں رشتہ داری کرنا۔ ۱۔

تَبَّعِيْد - دور کرنا۔

تَبَّعِيْر - انفرادی میں سے سنگینی نکالنا۔

تَبَّرَقَم - برقعہ پہننا۔

تَبَّرَوْتُ - برکت حاصل کرنا۔

تَبَّرَم - ناجزہ آنا۔ طول ہونا۔

تَبَّرَس - ٹوپی اوڑھنا۔

تَبَّرَوِي - رہائی پانا۔ بیراد ہونا۔

تَبَّرَأ - بیراد ہونا۔

تَبَّرِيْب - پاک کردینا۔ بیراد کرنا۔

تَبَّرِيْج - برج بنا نا۔

تَبَّرِيْد - ٹھنڈا کرنا۔ برف میں ملانا۔ ایسی چیز پلانا جو ٹھنڈک پہنچائے۔ کمزور اور سست کرنا۔

تَبَّرِيْق - آراستہ ہونا۔ گھورنا۔ لمبا سفر کرنا۔ دشوار ہونا۔ زینت دینا۔ منقش کرنا۔

تَبَّرِيْق - تھوکرنا۔

تَبَّبَسَط - پھمایا ہوا اور فراخ ہونا۔ شہروں میں ہر طرف جانا۔

تَبَّبَسَم - مسکرانا۔ چمکانا۔

تَبَّبَسِي - سببنا (د)۔

تَبَّبَسِيْط - بھگانا۔

تَبَّبَشِيْش - تَبَّبَشِيْش - خوش اور تازہ رو ہونا۔ خدا تعالیٰ کا راضی ہونا۔

تَبَّبَشِيْر - خوشخبری دینا۔

تَبَّبَص - چمکانا۔

تَبَّبَصَض - کتے کا دم پلانا۔

تَبَّبَصَّر - پہچانا۔ اچھی طرح سے دیکھنا۔ تاہل کرنا دیکھنے کی خواہش کرنا۔

تَبَّبَصَّرَة - واقعیت بہم پہنچانا۔ پہچننا دینا۔ بنا کر دینا۔

تَبَّبَصِيْر - کسی چیز سے واقفیت کرنا۔ دیکھیں روشن



تَبْعِيض - حصہ حصہ کرنا۔ ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔

تَبْعَض - دشمنی کرنا۔

تَبْعُغ - ٹھکی تھکا کو (د)

تَبْعُج - ناز کرنا۔ ادائیں کھانا۔

تَبْعُجِي - تلاش کرنا۔

تَبْعِيض - دشمن بنا دینا۔

تَبْعِي - تَبْعِيَّة - زندہ اور باقی رکھنا۔

تَبْعِيَّت - سختی کرنا۔ ملامت کرنا۔ بھت و دہلیز میں

غلطہ حاصل کرنا۔

تَبْعِيَّة - کسی پر اس کی غریبیاں بیان کر کے رونا۔

میت پر رونے کے لئے کسی کو آنا دہ کرنا۔

تَبْعِيذ - صبح کے وقت آنا۔ جلدی آنا۔ علی الصبح بیدار

کر دینا۔ آگے ہونا۔ نماز کے لئے اقل

وقت آنا۔

تَبَدُّد - بناوٹ سے اپنے آپ کو کندہ من ظاہر

کرنا۔ تالی بجانا۔ متیر ہونا۔ کسی شہر میں

مستط ہونا۔ کسی خالی مقام کو آباد کرنا۔

تَبَلُّل - تر ہونا۔ بھینکنا۔

تَبَدُّد - جھوٹ موٹ بیوقوف بن جانا۔ گمشدہ کو

تلاش کرنا۔ بغیر راہبر اور بغیر استفسار

راہ طے کرنا۔

تَبْلِيَّة - پرانا کرنا۔

تَبْلِيض - سنگین۔ قرش کرانا (د)

تَبْلِيغ - پہنچانا۔

تَبْلِيص - تر کرنا۔

تَبْن - (رام جنس) جس (مفرد) ج۔۔ آجنان

تَبْن - (رض) چوپایہ کو جیس دینا۔

تَبْتِي - بیٹا بنانا۔ (موتی عورت کا) چار زانو بیٹھنا۔

تَبْنِيَّة - گھر بنانا۔

تَبْوِش - باجم مل جانا۔

تَبْوِغ - لمبے قدم رکھنا۔ جست لگانا۔ رسی کا لہا

ہونا۔

تَبْوِغ - غلبہ کرنا۔

تَبْوِغ - اترنا اور تقسیم ہو جانا۔ قابو پانا۔

تَبْوِيْب - البراب میں تقسیم کرنا۔ اقسام اور درجوں

میں ترتیب دینا۔

تَبْهِيْج - خوبصورت اور اچھا کر دینا۔

تَبْط - پہلو پر سونا۔ اعراض کرنا۔

تَبْيَان - ظاہر اور عیاں کرنا۔ تشریح۔ توضیح۔

تفصیل۔ کھلا کھلا بیان۔

تَبْدِيح - بدکار۔ بچھے چلنے والا۔ بھڑام (م) تَبْيِيَّة

ج۔۔ تباع

تَبْيِيْن - ظاہر و عیاں ہونا۔ سمجھنا۔ ظاہر کرنا۔ احتیاط

سے امتحان کرنا۔

تَبْيِيْت - کسی کام کارات میں ارادہ کرنا۔ تدبیر کرنا۔

ششون مارنا۔ گڑھنا۔ تراشنا۔

تَبْيِيض - سفید کرنا۔ سفید لباس پہننا۔ قلعی کرنا۔

بھرنا۔ خالی کرنا۔

تَبْيِيْن - ظاہر و عیاں ہونا۔ ظاہر و عیاں کرنا۔

بیٹی بیاہ دینا۔ اگنا۔

## ت - ت

تَتَايُح - بے درپے ہونا۔ ایک دوسرے کی پیروی کرنا

تَتَارُث - ایک دوسرے پر کام کو چھوڑ دینا۔

تَتَاوَلِي - ایک دوسرے کے پیچھے ہونا۔ بے درپے آنا۔

تَتَبِع - تتبع۔ کسی کو اس کے پیچھے پیچھے جا کر

ڈھونڈھنا۔

تَتَرَّب - خاک آلودہ ہونا۔

تَشْبِيْهُ - تُوڑ پھوڑ ڈالنا - ہلاک کرنا۔	تَشْبِيْہ - تُوڑنا۔ پھوڑ کا ڈھکنا۔
تَشْبِيْس - تَشْبِيْس - ڈھال آگے رکھنا۔	تَشْبِيْس - سوراخدار کرنا۔ سوراخدار ہونا۔ آگ بھڑکانا
تَشْبِيْس - ناز و نعمت میں زندگی بسر کرنا۔	تَشْبِيْس - سوراخ کرنا۔ آگ بھڑکانا۔ بڑھاپے کا ظاہر ہونا۔
تَشْبِيْس - غریب ہونا۔ دولت مند ہونا۔ خاک ڈالنا۔ خاک آلودہ کرنا۔	تَشْبِيْس - وزن بھاری کر دینا۔
تَشْبِيْس - متواثر پہلے در پہلے۔ ایک کے پیچھے ایک	تَشْبِيْس - رخسہ دار ہونا۔
تَشْبِيْس - ناز و نعمت میں پرورش کرنا۔	تَشْبِيْس - تین حصہ کر دینا۔ خدا تعالیٰ کا تین جہان بنا۔
تَشْبِيْس - آف کھنا۔	تَشْبِيْس - (تعالیٰ اللہ عن ذلک علوًّا کبیراً) رخسہ دار کر دینا۔
تَشْبِيْس - پیچھے پیچھے جانا۔ تاخیر کرنا۔ نذر آدا کرنا۔ مرنے کے قریب پہنچنا۔	تَشْبِيْس - بہت مالدار ہونا۔ دولت کا ڈھیر لگایا۔
تَشْبِيْس - تمام کرنا۔ کسی چیز کی مداومت کرنا۔	تَشْبِيْس - دوہرا ہونا۔ پھر جانا۔ شک کر چلنا۔
تَشْبِيْس - خشک کرنا۔ تیر کھجوروں کا خشک ہو کر تر ہو جانا۔	تَشْبِيْس - ثواب حاصل کرنا۔ قرض کے بعد نفل پڑھنا۔
تَشْبِيْس - تمام کرنا۔ مداومت کرنا۔ ہلاک کرنا۔ گلے میں تعویذ ڈالنا۔	تَشْبِيْس - چلے جانے کے بعد واپس آنا۔ بدلہ دینا۔
تَشْبِيْس - تاج پہننا۔	تَشْبِيْس - اذان کہنا۔ تکبیر کہنا۔ دوبارہ بلانا۔ پکارنا
تَشْبِيْس - توبہ کرنا۔ کسی کے روبرو خدا تعالیٰ کا ذکر کرنا تاکہ وہ تائب ہو جائے۔	تَشْبِيْس - اذان کے بعد الصلوٰۃ رحمکمہ اللہ کہنا۔
تَشْبِيْس - تاج پہننا۔	تَشْبِيْس - اذان بغیر الصلوٰۃ خیر من التوبہ کہنا۔
	تَشْبِيْس - عورت کا بیوہ ہو جانا۔

## ت - ج

تَشْبِيْس - تاج پہننا۔	تَشْبِيْس - زانو پر بیٹھنا۔
تَشْبِيْس - کاپی کرنا۔ کسی سے پیچھے رہنا۔ بھاری ہو کر پڑا رہنا۔ لڑائی میں ہدلی کرنا۔	تَشْبِيْس - آپس میں انکار کرنا۔
تَشْبِيْس - جمائی لیٹنا۔	تَشْبِيْس - آپس میں جھگڑا کرنا۔
تَشْبِيْس - دیر لگانا۔ جگہ پر لانا۔ برقرار رہنا۔ جمارہنا	تَشْبِيْس - باہم کشاکشی کرنا اور جھگڑنا۔ کھینچ جانا۔
تَشْبِيْس - قائم رکھنا۔ برقرار آدہر جارا رکھنا۔	تَشْبِيْس - ایک دوسرے کو آزمانا۔ مناظرہ کرنا۔
تَشْبِيْس - چماتے رکھنا۔	تَشْبِيْس - سوداگری۔ خرید و فروخت مص (ن) خرید و فروخت کرنا۔
تَشْبِيْس - قصور پر سرزنش اور ملامت کرنا۔	تَشْبِيْس - باہم مل کر چلنا۔
تَشْبِيْس - لپیٹنا۔ تکرنا۔	تَشْبِيْس - قرض کا تقاضا کرنا۔

## ت - ت

تَشْبِيْس - کاپی کرنا۔ کسی سے پیچھے رہنا۔ بھاری ہو کر پڑا رہنا۔ لڑائی میں ہدلی کرنا۔	تَشْبِيْس - آپس میں انکار کرنا۔
تَشْبِيْس - جمائی لیٹنا۔	تَشْبِيْس - آپس میں جھگڑا کرنا۔
تَشْبِيْس - دیر لگانا۔ جگہ پر لانا۔ برقرار رہنا۔ جمارہنا	تَشْبِيْس - باہم کشاکشی کرنا اور جھگڑنا۔ کھینچ جانا۔
تَشْبِيْس - قائم رکھنا۔ برقرار آدہر جارا رکھنا۔	تَشْبِيْس - ایک دوسرے کو آزمانا۔ مناظرہ کرنا۔
تَشْبِيْس - چماتے رکھنا۔	تَشْبِيْس - سوداگری۔ خرید و فروخت مص (ن) خرید و فروخت کرنا۔
تَشْبِيْس - قصور پر سرزنش اور ملامت کرنا۔	تَشْبِيْس - باہم مل کر چلنا۔
تَشْبِيْس - لپیٹنا۔ تکرنا۔	تَشْبِيْس - قرض کا تقاضا کرنا۔

تجاسر - دن خرید و فروخت کرنا۔	دلیر ہونا - جری ہونا - شوخ ہونا۔
تجاسر - آذمانا۔	تجاسر - (عین) دور ہٹنا - چھوڑ دینا۔
تجاسر - گھونٹ گھونٹ کر کے پینا۔	تجاسر - تلوار سے ایک دوسرے کو مارنا۔
تجاسر - ختم ہو جانا۔ گذر جانا (علی) کسی پر حرم کا	تجاسر - آپس میں مل بیٹھنا۔
تجاسر - ہجو ڈالنا۔	تجاسر - ظاہر ہونا۔
تجاسر - دلیر ہونا۔	تجاسر - دور ہونا - برطوت ہونا۔
تجاسر - زخمی کر دینا۔	تجاسر - ایک دوسرے کو جواب دینا۔
تجاسر - ننگا کرنا۔ پوست آ مار دینا۔ تلوار سونٹنا۔	تجاسر - پڑوسی بننا۔
تجاسر - کتاب میں اسباب اور نقطے نہ دینا۔	تجاسر - (عین) قصور معاف کرنا۔ چشم پوشی کرنا۔
تجاسر - خوب کھینچنا۔	تجاسر - زنی (عین) سے بڑھ جانا۔
تجاسر - دلیر کر دینا۔	تجاسر - جنگ اور مقابلے میں پینترے بدن۔
تجاسر - اکٹھا کرنا۔ ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔	تجاسر - منہ کے سامنے - مقابل۔
تجاسر - جسیم اور بھاری بدن کا ہونا۔ جسم والا ہونا۔	تجاسر - خوب کوشش کرنا۔ زور قوت کو صرف کرنا۔
تجاسر - بھاری بدن کا ہونا۔ جسم والا ہونا۔ بلندی پر	تجاسر - خود کو نادان ظاہر کرنا۔
تجاسر - چڑھنا۔ بڑے کام پر تعین ہونا۔	تجاسر - خوشحال اور دولت مند ہونا۔ مکتبہ کرنا۔
تجاسر - دلیر کر دینا۔	تجاسر - مریض کا بحال اور تندرست ہو جانا۔ تلافی
تجاسر - مصیبت ہو گنا۔ تکلیف اٹھانا۔	تجاسر - واقعات ہو جانا۔
تجاسر - ڈکار لینا۔	تجاسر - دودھ کا دہی ہو جانا۔
تجاسر - عمارت کو چوڑے سے پختہ کرنا۔ برتن کو	تجاسر - ٹوٹے ہوئے کو باندھنا۔ کسی کا حال درست
تجاسر - بھرتا (علی) حملہ کرنا۔	تجاسر - کر دینا۔ دولت مند کر دینا۔
تجاسر - تیز دوڑنا۔ (علی) لڑائی کا قصد کرنا۔	تجاسر - کسی کو بے دل کرنا۔
تجاسر - تیروان بنانا۔ بچھڑ جانا۔	تجاسر - اپنی پیشانی کو جھکا کر زانی و زانیہ کی تشہیر کرنا۔
تجاسر - خشک کرنا۔ سکھانا۔ گھوڑے پر پا کھر	تجاسر - سوراخ میں گھسنے۔ آنکھ کا اندر کو گھس جانا۔
تجاسر - ڈالنی۔	تجاسر - نیا ہونا۔ جدید ہونا۔
تجاسر - بڑے بڑوں میں کھلانا۔ بہت جماع کرنا۔	تجاسر - نیا کرنا۔ کسی کام کو نئے سرے سے کرنا۔
تجاسر - چادر اوڑھنا۔	تجاسر - دونوں کان کا ڈان۔ قحط کا گھاس کو
تجاسر - حرکت کرنا۔ زمین میں گھس جانا۔	تجاسر - مر جھاننا۔ پتہ کو بدستوار بنا دینا۔
تجاسر - (بہ تکلف) چالاک بننا۔ بہادر بننا۔ مبار	تجاسر - زمین پر گر پڑنا۔ زمین پر دوسے مارنا۔
تجاسر - بننا۔	تجاسر - پینا۔

تَجْوِز - قصور معاف کرنا۔ درگزر کرنا۔ چشم پوشی کرنا آسانی کرنا۔ کھولنے کے قبول کر لینا۔ ہلکی ناز پر ڈھنا۔	تَجَلَّى - منکشف اور ظاہر ہونا۔ اوپر چڑھنا۔ کسی کو دیکھنا۔
تَجْوِج - جھوکا ہونا۔ قصداً خود کو جھوکا رکھنا۔	تَجَلَّىب - شور برپا کرنا۔ بہر طرف سے اکٹھا ہونا۔
تَجْوِجَات - کسی چیز کے اندر داخل ہونا۔	تَجَلَّىتہ - روشن اور ظاہر کرنا۔ دلوں کا منہ دکھ کر دوہکا کا کچھ دینا۔ نگاہ ڈالنا۔ غور سے دیکھنا
تَجْوِجِیغ - زمین پر گر ادینا۔ سیلاب کا شکر کے کنارہ کو کاٹ دینا۔	تَجَلَّىشد - پوست اتار لینا۔ پوست پہنانا۔ جلد بندی کرنا۔
تَجْوِجِیڈ - عمدہ اور اچھا کر دینا۔ قرآن کریم کو عمدگی سے پڑھنا۔	تَجَلَّىس - جھولی پہنائی۔ گھیر لیتنا۔ اساطیر کرنا۔
تَجْوِجِیذ - جان لڑ رکھنا۔ ادنیوں کو کھینچنا۔ ادنیوں کو پانی پلانا۔	تَجَلَّىسٹل - خود کو آراستہ اور مزین کرنا۔
تَجْوِجِیج - جھوکا رکھنا	تَجَلَّىسھر - دراز دوستی کرنا۔
تَجْوِجِیغ - بیخ میں سے کسی چیز کو نکالی کر دینا۔ کھوکھلا کر دینا۔	تَجَلَّىسید - جتنا۔ ٹھہرنا۔ کسی سائل چیز کو جمانا۔
تَجْوِجِیڈ - کسی کے گرد پھرنے۔	تَجَلَّىسیر - کپڑوں کو خوشبودار دھونی دے کر سانا۔
تَجْوِجِیذ - مردہ اور مسافر کا سامان تیار ہونا۔ لشکر مردہ اور مسافر کا سامان تیار ہونا۔	تَجَلَّىسکر - لنگری پھینکنا۔ اکٹھا کرنا۔ اعلیٰ کسی کام کے لئے جمع ہوجانا۔
تَجْوِجِیڈ - تر ضروری برتنی۔	تَجَلَّىسوع - بڑا مجمع اکٹھا کرنا۔ جموں کی نمازیں حاضر ہونا
تَجْوِجِیذ - لشکر۔ مردہ۔ مسافر اور غازی وغیرہ کا سامان تیار کرنا۔ کسی پر گھوڑا دوڑانا۔	تَجَلَّىسول - آراستہ اور مزین کرنا۔ خوشنما بنانا۔ لشکر کو وہرتک ٹھہر لئے رکھنا۔
تَجْوِجِیڈ - کسی جاہل کوٹنا۔	تَجَلَّىتیب - دور ہونا۔ جنب ہوجانا کیسو ہوجانا۔
تَجْوِجِیڈ - لشکر کا جمع کرنا۔	تَجَلَّىتیب - دور ہونا۔ دور رکھنا
	تَجَلَّىتیم - جھکانا۔ سجدہ میں پتھیلیوں پر سہارا لگانا اور دونوں بازوؤں کا کشادہ رکھنا۔
	تَجَلَّىتید - لشکر اکٹھا کرنا۔
	تَجَلَّىتیس - ایک ایک قسم کو الگ الگ کرنا۔ مشابہ ہونا اصطلاح میں ایسے دو کلمے لانا کہ لفظ میں متفق ہوں اور معنی میں مختلف۔
	تَجَلَّىتیق - متعین سے پتھر پھینکنا۔
	تَجَلَّىتین - دیوانہ بنانا۔
	تَجَلَّىتود - گر بڑنا۔ منہم ہوجانا۔ پہلو پر سونا۔
	تَجَلَّىتوب - پانچا پہننا۔

## ت - ح

تَجَاہب - ایک دوسرے کو درست بنا لینا۔

تَجَاہب - کبڑا ہوجانا۔

تَجَاہبٹ - آپس میں گفتگو کرنا۔ بات چیت کرنا۔

تَجَاہب - باہم لڑنا جھگڑنا۔

تَجَاہب - غمگین ہونا۔

تَحَا سُد - ایک دوسرے سے حسد اور بغض رکھنا۔  
 تَحَا شِی - کنارہ کش اور ایک جانب کو ہونا۔  
 تَحَا صَب - ایک دوسرے پر تنکے یاں پھینکنا۔  
 تَحَا فِی - حاکم کے پاس مقدمہ لے جانا۔  
 تَحَا کُھ - مد علیہ کے ساتھ حاکم کے پاس جانا۔  
 تَحَا لِق - آپس میں ایک دوسرے کا سر مونڈنا۔  
 تَحَا لَل - ایک دوسرے کے ساتھ اوہل جہل کراڑنا۔  
 تَحَا لُہ - ہواٹ سے برہ بار بننا۔  
 تَحَا لِی - زینت دکھانا۔ آراستگی دکھانا۔  
 تَحَا مَق - خود کو راجع بنانا۔  
 تَحَا مَل - وحی، مشقت برداشت کر کے کوئی کام اپنے ذمہ لینا، یعنی طاقت سے زیادہ کام کا حکم کرنا، ظلم و ستم کرنا۔  
 تَحَا مِی - خود کو دوسرے سے بچانا اور احتیاط و حفاظت رکھنا۔  
 تَحَا وِی - آپس میں بات چیت کرنا۔  
 تَحَا یَب - دوستی ظاہر کرنا۔ اظہار محبت کرنا۔  
 تَحَا یَس - زعلی، خود کو کسی چیز پر مقید رکھنا۔  
 تَحَا یَسَل - شکار کو جال میں پھانس لینا۔ شکار کر لینا۔  
 تَحَا یَسِب - دوست بنا لینا۔  
 تَحَا یَسِیو - زینت دینا۔ سنوارنا۔ دوات میں روشنائی ڈالنا۔  
 تَحَا یَسِیْس - بند کر دینا۔ روک دینا۔ اصل چیز اپنے قبضہ میں رکھنا۔ اور آمدنی مصارف خیر کے لئے وقف کر دینا۔  
 تَحَا یَسِیْک - لپیٹنا۔ مروڑ دینا۔ مضبوط کرنا۔  
 تَحَا یَس - نیچے۔ فوق کی ضد۔  
 تَحَا یَسْم - واجب و لازم کرنا، لے بھائی چاہنا۔  
 تَحَا یَسْم - نیک فال لینا۔  
 تَحَا یَسِیْد - چھٹ لینا۔ انتخاب کر لینا۔  
 تَحَا یَسِیْث - برائی سمجھ کرنا۔ شوق دلانا۔  
 تَحَا یَسِیْب - پردہ میں ہو جانا۔  
 تَحَا یَسِیْج - حجرہ بنانا۔ تنگی کرنا۔ دام کا سخت ہو جانا۔  
 تَحَا یَسِیْز - کمر پر (ازار) باندھنا۔  
 تَحَا یَسِیْجِی - گنگنا نا کسی مقام پر مقیم ہونا کسی مقام کی طرف جلدی کرنا۔  
 تَحَا یَسِیْجِیْل - گھوڑے کے ٹانگوں کی سفیدی کرنا ان سے اوپر تک بڑھی ہوئی نہ ہو۔ عورت کا انگلیوں کے پوروں کو زنگنا۔ دو لہن کے لئے پردہ دار مسہری تیار کرنا۔ دلہن کو مسہری (جیلہ) میں بٹھانا۔  
 تَحَا یَسِیْث - (پ) (عن) کسی کی نسبت بات کہنا۔ گفتگو کرنا۔ واقعات بیان کرنا۔  
 تَحَا یَسِیْس - نیچے کو ڈھک آنا۔  
 تَحَا یَسِیْی - قصہ کرنا۔ کسی کام میں دوسرے کی براہی کرنا دشمن کو مقابلہ کے لئے پکارنا۔ اور اس پر غلبہ چاہنا۔  
 تَحَا یَسِیْث - بات کہنا۔ روایت کرنا۔ ذکر کرنا۔  
 تَحَا یَسِیْیْد - کسی چیز کی حد ظاہر کرنا۔ پھری وغیرہ کو تیز کرنا۔ گھور کر دیکھنا۔  
 تَحَا یَسِیْیْق - گھور کر دیکھنا۔  
 تَحَا یَسِیْیْق - بناوٹ سے خود کو ہر شیا روٹھلند ظاہر کرنا۔ ڈرانا۔  
 تَحَا یَسِیْیْف - سنوارنا۔ بالوں کا طرہ جانا۔  
 تَحَا یَسِیْیْج - گناہ سے توبہ کرنا اور پرہیز رکھنا۔ تنگی سے نکل جانا۔  
 تَحَا یَسِیْیْس - آزاد ہو جانا۔  
 تَحَا یَسِیْیْز - پرہیز کرنا۔ اپنی حفاظت رکھنا۔

تَحَا یَسِیْیْس - بند کر دینا۔ روک دینا۔ اصل چیز اپنے قبضہ میں رکھنا۔ اور آمدنی مصارف خیر کے لئے وقف کر دینا۔  
 تَحَا یَسِیْیْک - لپیٹنا۔ مروڑ دینا۔ مضبوط کرنا۔  
 تَحَا یَسِیْی - نیچے۔ فوق کی ضد۔  
 تَحَا یَسِیْیْم - واجب و لازم کرنا، لے بھائی چاہنا۔  
 تَحَا یَسِیْیْم - نیک فال لینا۔

تَحَسُّس - قوم کی بات سننا۔ حالات معلوم کرنا۔	تَحَرُّت - پھر جانا۔
تَحَسُّس - تھوڑا تھوڑا کر کے پینا۔	تَحَرُّق - جل جانا۔
تَحْسِیْد - بہت حسد کرنا۔	تَحَرُّك - ہلنا۔ حرکت کرنا۔
تَحْسِیْب - تھکا دینا۔ افسوس دلانا۔ آزرده کرنا۔	تَحَرُّم - رومن کسی کے ذمے میں ہو کر بچاؤ ڈھونڈنا
تَحْسِیْن - سنوارنا۔ اچھا کرنا۔ نیک کرنا۔ تعریف کرنا	تَحَرُّی - قصد کرنا۔ صبح رائے تلاش کرنا۔
تَحْسِیْد - قوم کا جمع ہونا۔	تَحْرِیْج - تنگ کرنا۔ کسی پر تنگ کرنا۔ بہت قسمیں کھانا
تَحْسِیْف - پرانے کپڑے پہننے۔	حرام کرنا۔
تَحْسِیْس - جماعت میں سے کسی کو نکال لانا۔ کسی سے عار رکھنا۔ حاشا کہنا۔	تَحْوِیْد - آزاد کرنا۔ خدا تعالیٰ کی عبادت و طاعت اور مسجد کی خدمت کے لئے بیٹے کو نام زد کرنا
تَحْصُل - اکٹھا ہونا۔ ثابت ہونا۔	کلام کو مشورہ و زوائد سے پاک کرنا۔ ادارت کرنا۔ خط۔ نوٹ۔
تَحْصُن - عورت کا پارا سہوتا یا عقد کر لینا۔ قلعہ میں محفوظ ہونا۔	تَحْوِیْز - خوب حفاظت کرنا۔ کسی حکم کا پناہ گاہ بننا۔
تَحْصِیْل - حاصل کرنا۔	تَحْوِیْش - (دبیں) برابر کیچھ کرنا۔ بھرا کا نا۔ فساد ڈالنا۔
تَحْصِیْن - پختہ اور مضبوط کرنا۔ قلعہ میں کر دینا۔	تَحْوِیْن - (علی) برابر کیچھ کرنا۔ شوق دلانا۔
شذہب کا بیوی کو چھپانا۔	تَحْوِیْف - بات کا مطلب بدل دینا۔ قلم میں ٹیڑھا نقطہ لگانا۔
تَحْصِر - سا بیٹے آنا۔ تیار ہونا۔	تَحْرِیْق - آگ میں پوری طرح جلا دینا۔
تَحْصِیْن - برائے پختہ کرنا۔ ترغیب دینا۔ ابھارنا۔	تَحْوِیْث - حرکت دینا۔
تَحْطَم - ٹوٹ جانا۔	تَحْرِیْم - حرام کر دینا۔ نماز کی نیت باندھنا۔ حرم میں آنا۔ اس حرمت سے منصف ہونا۔
تَحْطِیْم - توڑ ڈالنا۔	جس کا جنگ جاکر نہیں۔
تَحْفَة - ہدیہ۔ سوغات۔ نادر شے۔ جہ۔ تحفہ	تَحْرُوب - پارٹی بندی۔ گروہ درگروہ ہونا۔
تَحْفَظ - برہیز کرنا۔ ہوشیار اور بیدار رہنا۔ یاد رکھنا	مجتمع ہونا۔
تَحْفِیْظ - کسی کو کتاب وغیرہ یاد کرانا۔	تَحَدُّث - (علی) غمگین ہونا۔ ترس کھانا۔
تَحْفَل - آراستہ ہونا۔ محفل کا پھر جانا۔ پانی کا جمع ہونا۔	تَحْرِیْب - گروہ اکٹھے کرنا۔ قرآن مجید کا ورد کرنا۔
تَحْفِیْل - بکری کو دو دنہا تاکہ فروخت کے وقت اس کے تھن بڑے نظر آئیں۔ سنوارنا۔ جمع کرنا۔	تَحْرِیْز - کاٹنا۔ تراشنا۔ دندانے ڈالنا۔
تَحْقِیْق - کینر رکھنا۔	تَحْرِیْب - نمکین کرنا۔ آواز بھرائی۔
تَحْقِیْق - خبر کا صحیح اور درست ہونا۔ کسی چیز کو ٹھیک لہو پر جانا۔	تَحْسِیْر - تنگ جانا۔ (علی) کھچھٹانا۔
تَحْقِیْق - کسی کو ذلیل و خوار کرنا۔ حقیق کھنا۔	

تَحْمِيسُ - غفّہ دوانا۔ سخت اور کھردرا کرنا۔ تَحْمِيشُ - جمع کرنا۔ غفّہ دوانا۔ تَحْمِيطُ - کسی کو تھوڑا کرنا۔ ذلیل و خوار کرنا۔ درخت کو آفتاب سے بچانا۔ تَحْمِيقُ - کسی کو حق کہنا۔ کسی کو بے وقوف بنانا (مجمولاً) شراب پینا۔ تَحْمِيسُ - بوجھ اٹھانے کے لئے حکم دینا۔ لادنا۔ بار کرنا۔ تَحْمِيسُ - پانی گرم کرنا۔ کوسٹ سے منہ کا کالا کر دینا۔ ڈاڑھی نکل آنا۔ منڈانے کے بعد سر کے بال نکل آنا۔ تَحْمِيسُ - مہندی سے رنگین ہونا۔ تَحْمِيبُ - بڑھاپے سے کبڑا ہوجانا۔ تَحْمِيشُ - چند رات عبادت کرنا۔ گناہ سے بچنا۔ تَحْمِيشُ - شہریہ کار اور دانشمند بنانا۔ تعلیم دینا۔ تالو کو مٹانا۔ تَحْمِيشُ - تیر دھا ہونا۔ - وعلیٰ [عمران ہونا۔ تَحْمِيشُ - گٹھڑی اٹھانا۔ جلد کرنا۔ ایسا وقت ملاش کرنا جس میں انسان خوشی سے نصیحت مان لے و عنہ۔ (الی) ایک حال سے دوسرے حال کی طرف پھر جانا۔ تَحْمِيشُ - حوض بنانا۔ درخت کے لئے تعالہ بنانا۔ راغب ہونا۔ تَحْمِيشُ - کسی کو کسی کی طرف پھیر دینا۔ پھر جانا۔ محال کر دینا۔ التَحْمِيشُ - وعلیٰ السبید۔ علی البوسطہ؟ منی آرڈر کرنا (د) التَحْمِيشُ - وعلیٰ المشتری [دوی پی کرنا (د)	تَحْقِيقُ - واجب کرنا۔ جاننا اور تصدیق کرنا۔ درست کرنا (د) انکوائری۔ تَحْكُكُ - گھوننا کسی کے ساتھ ہدی سے پیش آنا۔ تَحْكُمُ - فرمانبرداری کرنا۔ حکم کرنا۔ تَحْكِيكُ - خوب بھجانا۔ تَحْكِيكُ - حاکم بنا دینا۔ رد کرنا۔ صلح کر دینا۔ اپنے مال میں کسی کو حکم کر دینا۔ تَحْكِبُ - ہٹنا۔ ٹیکنا۔ جونا۔ رستنا۔ تَحْكِبُ - ابر کا ہلنا۔ چمکنا کسی چیز کا دل میں کھٹکنا۔ تَحْكِقُ - حلقہ حلقہ ہو کر بیٹھنا۔ چاند کا ہال میں ہونا۔ تَحْكِيكُ - زیور پہننا۔ آراستہ ہونا۔ مزین ہونا۔ تَحْلِيَّةُ - تَحْلِيَّةُ - مٹھاس ڈالنا کسی چیز کو کسی کو سنوار کر دکھانا۔ عورت کو زیور پہنانا۔ تَحْلِيْفُ - قسم کھلانا۔ تَحْلِيْقُ - اچھی طرح سے سرمونڈنا۔ آنکھوں کا گوشے میں دھنس جانا۔ چاند کا ہال میں ہونا۔ تَحْلِيْلُ - مکان میں اترنا۔ اچھی طرح سے گرہ کھولنا حلال کر دینا۔ قسم کا کفارہ دینا۔ تَحْلِيْلُ - بردبار بنانا۔ اونٹ کی چیچڑی دور کرنا۔ تَحْمِيسُ - دین میں مضبوط اور سخت ہونا۔ تَحْمِيشُ - غصّہ سے بھڑک اٹھنا۔ تَحْمِلُ - کام کا بوجھ اپنے اوپر اٹھالینا۔ سفر کرنا کوچ کرنا۔ تَحْمَمُ - حمام میں جانا۔ تَحْمِي - بیمار کا مضر چیزوں سے پرہیز کرنا۔ تَحْمِيْدُ - خدا تعالیٰ کی حمد کرنا تَحْمِيْرُ - کسی کو گرہا کھنا۔ سرخ رنگن۔
--	--

تَخَاطُبَ - آپس میں رو برو ہو کر بات چیت کرنا۔	تَجْوِبَ - اونٹ کے کوبان کے گرد کیل ڈالنا۔ اٹھنا کرنا۔ حلقہ ہونا۔
تَخَاذُلَ - چھپا کر کام کرنا۔	تَجِيْبَةَ - سلام۔ تہا۔ ملک۔ جہ۔۔ تَجِيْبَات۔
تَخَالُجَ - زنی الصدور، دل کو نکلیں ڈبو دینا۔ دل کو ترد سے بھر دینا۔	زندہ رکھنا۔ مالک کر دینا۔ سلام کرنا۔
تَخَالُسَ - چھیننے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا۔	تَحْيُوَ - پریشانی ہو جانا۔ متحیر ہو جانا۔
تَخَايَلَ - غرور کرنا۔	تَحْيَانُ - کنارہ کش ہونا۔ سانپ کا کڈلی مارنا۔ ایشیٹنا۔
تَخْبِطَ - اٹکل کے بے راہ چلنا۔ کسی کا آسیب سے دیوانہ ہونا۔ بے چینی کی حالت میں ہونا۔	تَحْيِضَ - ایام حیض میں عورت کا ناز سے رک جانا۔ تَحْيِنَ - وقت ڈھونڈنا۔ ہلاک ہو جانا۔ اونٹنی کو ایک وقت دو دھنا۔
تَخْبِيْ - خیمہ بنانا۔ خیمہ بلند کرنا۔	تَحْيِيْنَ - وقت مقرر کرنا۔ اونٹنی کو ایک وقت دو دھنا۔ ہلاک کر دینا۔
تَخْبِيْتَةَ - چھپانا۔ پوشیدہ کرنا۔	
تَخْبِيْرَ - خریدنا۔ آگاہ کرنا۔	
تَخْتَ - بلیک۔ تخت شاہی۔ (د)	
تَخْتَةُ الْكِبْتَابَةِ - بلیک۔ بورڈ (د)	
تَخْتَمَ - (ب) اٹکھٹی پہننا۔ سر پر تھامنا۔ (د)	
(د) اپنے کام کو چھپانا (عن غفلت کرتے ہوئے چُپ ہو جانا۔	
تَخْتِيْمَ - عمر لگانا۔	
تَخْتِيْلَ - شرمندہ کرنا۔	
تَخْتَادَ - سکڑنا۔ جھریاں پڑ جانا۔	
تَخْتَسَ - چھیننا۔ پردہ میں بیٹھنا۔	
تَخْتَعَ - بناوٹ کے طور پر فریب دینا۔	
تَخْتَجِمَ - کسی مدرسے سے فارغ التحصیل ہونا (د)	
تَخْتَمِصَ - (د) کسی پر اتر کرنا۔ تہمت لگانا۔	
تَخْتَرَقَ - بھوٹ گردھنا۔ چھٹا ہوا اور پارہ پارہ ہونا۔ سخاوت میں ہاتھ کو کھولنا۔	
تَخْتَرِبَ - دربان کرنا۔	
تَخْتَرِيْسَ - عورت کی رنگی کے زمانہ کے لئے کھانا پکانا۔	
تَخْتَرِيْقَ - پھاٹنا۔ پارہ پارہ کرنا۔ بہت بھوٹ بولنا۔	
	تَخْتَرُشَ - خیر کارش ہونا۔ چھٹا پڑنا ہونا۔
	تَخْتَاتَلَ - ایک دوسرے کے ساتھ فریب کرنا۔ دھو کر دینا۔
	تَخْتَادِعَ - ایک دوسرے کو فریب دینا۔ بھوٹ موٹ اپنے آپ کو فریب خوردہ ظاہر کرنا۔
	تَخْتَادِنَ - ایک دوسرے کے ساتھ دوستی میں تخاص ہونا۔
	تَخْتَادُلَ - ایک دوسرے سے دست بردار اور برطرف ہو جانا اور چھوڑ دینا۔
	تَخْتَارِجَ - جائداد کی تقسیم اس طرح کرنی کہ بعض شریک مکانات لے لیں۔ اور بعض زمین۔
	تَخْتَارِبَ - شہد کی مکھی کا سوراخ۔
	تَخْتَاصُوَ - ایک دوسرے کی بغل میں ہاتھ دے کر چلنا۔
	تَخْتَاصُمَ - باہم جھگڑا کرنا۔ باہم مقدمہ بازی کرنا۔ باہم تکرار کرنا۔

## ت - خ



کسی بات کا ہور ہنا۔	ہلاک کرنا کسی کو نقصان پہنچانا۔ مٹانا۔
تَخْلِيْد - ہمیشہ رکھنا۔	تباہ کرنا۔
تَخْلِيْص - خاص بنانا۔ رہائی دلانا۔ خلاصہ نکالنا۔	گریہ وزاری اور فروتنی کرنا۔
پچھلانا۔	فروتنی کرنا۔ عاجزی کرنا۔
التَخْلِيْصِ عَلَي الْمَلْتُوْبِ - خط پوسٹ کرنا (د)	کھر درا ہونا کھر درا اور سخت لباس پہنا۔
تَخْلِيْط - ملا دینا۔ کام میں گڑبڑ کر دینا۔	سخت بات کہنا سخت اور سخت کی زندگی بسر کرنا
تَخْلِيْف - کسی کو اپنی جگہ حلیف بنا کر کسی کو اپنے	تَخْتِيْبِي - تَخْتِيْبِيَّة - ڈرانا۔ دھمکانا۔ خوفزدہ کرنا۔
بچھے پھوڑنا۔	تَخْتِيْص - خاص ہونا۔
تَخْلِيْق - کسی کی خلقت کو مکمل کر دینا۔ ہموار اور	تَخْتِيْص - خاص کرنا۔
برابر کرنا۔ خوشبو ملانا۔	رنگین خضاب کرنا۔
تَخْلِيْل - سرکہ بنانا۔ دانتوں میں خمال کرنا۔ سرکہ	تَخْلِيْط - غلطی کرنا۔ خطا کی طرف منسوب کرنا۔
ہوجانا۔	تَخْطِيْم - اچکنا۔ پھینکا۔ جھبٹنا۔
تَخْجَم - (رض) حد بندی کرنا۔	تَخْطِي - لوگوں کی گردنوں پر سے پھانڈ کر گز رہانا
تَخْجَم - (سن) بد بھمنی اور تخرم ہوجانا۔	تَخْطِيْط - دھاری دار کپڑا بننا۔ کسی کو دھاری دار
تَخْجَم - حد۔ حد کا نشان۔ سرحد۔ جم۔ ۱۔ تَخْوَه	بنانا۔ تھوڑا کھانا۔
تَخْمَة - تَخْمَة - بد بھمنی جم۔ ۲۔ تَخْمَات	تَخْص - کسی سے پناہ چاہنا۔
تَخْمَس - دوپٹہ اوڑھنا۔	تَخْصَف - موزہ پہننا۔
تَخْمِيْط - غرور کرنا۔ غفہ کرنا۔	تَخْفِيْر - نگہبانی کرنا۔ بچانا۔ فیصل بنانا۔
تَخْمِيْر - خمیر کرنا۔ ڈھک دینا۔	تَخْفِيْص - آستہ ہونا۔ اپنے اوپر کام کو آسان کر لینا
تَخْمِيْش - گمان اور انگل سے کہنا۔	تَخْفِيْص - ہلکا کرنا۔
تَخْتِيْت - دوہرا ڈھانچا اور خمدار مہجانا عورتوں	تَخْرِيْم - بلنا۔ کانپنا۔
کی طرح نرم نرم باتیں کرنا۔	تَخْس - اچک لے جانا۔
تَخْتِيْق - گلا گھونٹنا۔ برتن کو بھرننا۔	تَخْلِص - رہائی پانا۔ پھٹکارا پانا۔
تَخْتُوْد - (شاخ کا) دوہرا مہوجانا۔	تَخْلَف - پیچھے رہ جانا۔
تَخْتُوْف - ڈرنا۔ خوف کرنا۔ کہہ کر دینا۔	تَخْلُوْ - جھوٹ گھنٹنا جھوٹو لگانا کسی کی خواہش پر کرنا
تَخْتُوْل - خبر گیری اور غمخواری کرنا۔ ماموں بنالینا۔	تَخْلَل - درمیان میں آنا۔ خمال کرنا۔ کسی چیز میں کپڑا پار
کسی میں یکی اور صلاحیت کا اثر دیکھنا۔	سوراخ کرنا۔
تَخْتُوْنِيْش - کم کرنا۔	تَخْتِيْرِي - دُعا کسی سے سروکار نہ رکھنا۔ چھوڑ دینا
تَخْتُوْنِيْص - تاج کو سونے کے ٹکڑوں سے مزین کرنا۔	دل ہا کسی کے لئے خود کو وقف کر دینا۔

تَدَاوُل - کسی چیز کو باہری باری سے لینا - (د) یا بھی گفتگو۔

تَدَاوُد - گرد پھرنا۔

تَدَاوِی - (د) اپنا علاج کرنا۔

تَدَاوِیْن - ادھار خریدنا - ادھار بیچنا۔

تَدَاوِیْر - غمزدگی کرنا - چیز کی حقیقت دریافت کرنا۔

تَدَاوِیْب - بہت آہستہ آہستہ چلنا - ریگانا۔

تَدَاوِیْز - کام کے انجام کو دیکھنا - مرنے کے بعد غلام کو آزادی دے دینا۔

تَدَاوِیْس - پرستیدہ کرنا۔

تَدَاوِیْق - ناسر سے شکا کرنا۔

تَدَاوِیْر - کپڑا پہننا - کوکر سوار ہونا۔

تَدَاوِیْج - ہتھیاروں سے آراستہ ہونا۔

تَدَاوِیْج - رات کا تار یک ہو جانا۔

تَدَاوِیْج - روھکنا۔

تَدَاوِیْج - داخل ہونا - تھوڑا تھوڑا داخل ہونا۔

تَدَاوِیْج - دھویں کی بو ہو جانا - کسی چیز میں دھواں نکلنا۔

تَدَاوِیْج - آگہی سے دھواں نکلنا - دھوئی دینا۔

تَدَاوِیْج - (د) سگریٹ پینا۔

تَدَاوِیْج - خوگر ہونا - حریص ہونا۔

تَدَاوِیْج - سبق پڑھانا۔

تَدَاوِیْج - تھوڑا تھوڑا قریب ہونا۔

تَدَاوِیْج - زرہ پہننا - عورت کا کرتہ پہننا۔

تَدَاوِیْج - خوگر کر دینا - کسی سے مانوس کرنا۔ ورزش کرانا۔ ہدایت کرنا۔

تَدَاوِیْج - خط کو لپیٹنا - تکرنا۔ آہستہ آہستہ زد و کوب کرنا۔

تَدَاوِیْج - زرہ پہننا - عورت کو کرتہ پہننا۔ آگے آنا۔

تَخْوِیْف - ڈرانا۔

تَخْوِیْق - کشادہ کرنا - وسیع کرنا۔

تَخْوِیْل - مالک کر دینا - دنیا۔

تَخْوِیْش - کسی کو خائف کرنا - کم کرنا - غم خیزی کرنا۔

تَخْوِیْز - پسند کرنا - چھاننا۔

تَخْوِیْف - متغیر ہونا - رنگ برنگ ہونا۔

تَخْوِیْل - فراست سے کسی میں خیر اور نیکی کا اثر معلوم کرنا - کسی چیز کا خیال بندھ جانا - غرور کرنا۔

تَخْوِیْل - برستے کے لئے ابر کا تیار ہونا۔

تَخْوِیْل - خیمہ کھڑا کرنا - کپڑے کو خوشبو میں بسانا۔

تَخْوِیْب - ناامید کرنا۔

تَخْوِیْب - ایک کو دوسرے پر فضیلت اور ترجیح دینا - اختیار کرنا۔

تَخْوِیْب - بالوں کی سفیدی کا سیاہی کے ساتھ مل جانا۔

تَخْوِیْل - کسی میں فراست سے خیر دریافت کرنا۔

تَخْوِیْل - تہمت لگانا - (د) ذکر رک جانا اور بڑول ہو جانا۔

## ت - د

تَدَاوِیْر - کسی سے پیٹھ ٹوڑنا - پرہیز کرنا - بغیبت کرنا۔

تَدَاوِیْر - سبق پڑھانا۔

تَدَاوِیْر - ایک حصہ کا دوسرے سے مل جانا - ملائی کرنا۔

تَدَاوِیْر - لڑائی میں ایک دوسرے کو دھکیلنا۔

تَدَاوِیْر - آپس میں مذاق کرنا - ہنسی اڑانا۔

تَدَاوِیْر - دشمن کا سامنے آنا - ٹھکستہ اور دیران ہو جانا۔

تَدَاوِیْر - چیشیاں کھانا - جمع ہونا۔

تَدَاوِیْر - لڑائی میں ایک دوسرے کو دھکیلنا - آپس میں کسی چیز کو دفع کرنا اور حوالہ کرنا۔

تَدَاوِیْر - ایک دوسرے کو سینے سے دھکیلنا - ریلنا۔

تَدْوِیْن - ترتیب دینا - جمع کرنا - تالیف کرنا - فرست  
 بنانا  
 تَدَهْم - عمارت کا گرہ پڑنا -  
 تَدَهْس - چلنا ہونا - اپنے بدن پر تیل ملنا -  
 تَدَهْوَس - گر پڑنا -  
 تَدَهْوَس - تیل ملنا - وارنش کرنا -  
 تَدَهْوَس - دیوٹ ہونا - بھڑو اپن کرنا -  
 تَدَهْوَس - دیندار ہونا - کوکار ہونا (ب) کسی کے مذہب  
 کا پیرو ہونا - (من) کسی سے قرض  
 لینا -

ت - ذ

تَدْوِیْب - حرکت کرنا - ہلنا -  
 تَدْوِیْب - ٹھگ کرنا - ناز سے چلنا -  
 تَدْوِیْب - برہمی وغیرہ کو تیر کرنا - سوار وغیرہ کو زہر  
 میں بھجانا -  
 تَدْوِیْب - آنسو بہانا - (موت کے) قریب کرنا -  
 تَدْوِیْب - ٹھوڑی / ٹھوڑا لایاٹھی وغیرہ پر رھنا -  
 تَدْوِیْب - یاد کرنا - بات کرنا - بیس پر ہٹنا (د) یادگار  
 تَدْوِیْب - یاد کرنا - نصیحت ماننا - مؤنث لفظ کا مذکر ہونا  
 تَدْوِیْب - یادگار - یاد دلانے والی شے (د) یادداشت  
 ٹھٹھ  
 تَدْوِیْب - عمومی - سرگھر (د)  
 تَدْوِیْب - پروانہ - راہ بازی (د)  
 تَدْوِیْب - ٹھٹھ فروش - (د)  
 تَدْوِیْب - بکری وغیرہ کو ذبح کرنا - آگ بھڑکنا - بڑی  
 علم کا ہونا -  
 تَدْوِیْب - یاد دلانا - زکی طرف منسوب کرنا - خلاف  
 تالیف - نصیحت کرنا -

ظاہر ہونا -  
 تَدْوِیْب - بکھر جانا -  
 تَدْوِیْب - پلر شیدہ ہونا -  
 تَدْوِیْب - گرم کپڑا پہننا -  
 تَدْوِیْب - خوب کوٹنا - باریک کرنا - آٹے کا نرم کرنا  
 تَدْوِیْب - معزز ہونا - تمکیر کرنا - (علی) ناز کرنا -  
 تَدْوِیْب - سامان مرتب کرنا - تہ بہ تہ رکھنا -  
 تَدْوِیْب - ہلک پڑنا - لٹکتے ہوئے ہونا -  
 تَدْوِیْب - پوشیدہ رکھنا - قوم کا اندھیرے میں  
 آکر اترنا -  
 تَدْوِیْب - چلنا - آہستہ چلنا -  
 تَدْوِیْب - بدن ملنا -  
 تَدْوِیْب - (علی) ناز کرنا -  
 تَدْوِیْب - بے عقل ہونا - جینو ہونا - نتیجہ ہونا -  
 تَدْوِیْب - ناز سے چلنا - اوپر سے نیچے آنا - قریب ہونا  
 لٹک پڑنا - فرستی اور عاجزی کرنا -  
 تَدْوِیْب - لٹھڑ جانا -  
 تَدْوِیْب - خون آلودہ کرنا -  
 تَدْوِیْب - داخل کرنا -  
 تَدْوِیْب - ہلاک کرنا -  
 تَدْوِیْب - دھکنا - دفن کرنا - چھپانا - (بیتہم)  
 صلح کرانا -  
 تَدْوِیْب - عورت کو بٹھ لگانا -  
 تَدْوِیْب - آہستہ آہستہ قریب ہونا -  
 تَدْوِیْب - بے آبرو کرنا - کپڑے کو میلنا کرنا -  
 تَدْوِیْب - نزدیک کرنا -  
 تَدْوِیْب - انتظار کرنا  
 تَدْوِیْب - قابو میں کر لینا - مسلط ہونا -  
 تَدْوِیْب - گھڑی میں کوک دینا - د



تَرْبِيَّة - پرورش کرنا۔ کھلانا پلانا۔ بچے کو تھپکن تاکہ سو جائے۔  
 تَرْبِيْع - کسی چیز کو چوکھونٹا بنانا۔ دائرہ کے چوتھے حصے سے ستاروں کا آئنے سامنے ہونا۔  
 تَرْتِب - اپنی جگہ پر بٹھیرنا۔ مرتب ہونا۔ جمع ہونا۔  
 تَرْكُشَل - کلام کو آہستہ آہستہ پڑھنا۔ اچھی طرح پڑھنا اچھی طرح ترتیب دینا۔  
 تَرْتِيْب - ثابت اور مضبوط کرنا۔ چیزوں کو درجوں میں درست کرنا۔ مرتب کرنا۔  
 تَرْتِيْل - اچھی طرح پر جمع کرنا کسی چیز کو بے تکلف ظاہر کرنا۔ کھول کھول کر کیساں اور آرام سے پڑھنا۔ اچھی طرح پڑھنا۔  
 تَرْتِيْت - مردہ کی تعریف کرنی اور اس پر روننا۔  
 تَرْجُل - پیادہ پا چلنے سے پاؤں گھس جانا۔ پیدل چلنا۔ بالوں میں گتھی کرنا۔  
 تَرْجَمَان - وہ آدمی جو واسطہ بین کر دوسری زبان کو سمجھا دے۔ جہ:۔ تَرْجَم -  
 تَرْجَمَة - ایک بات کو دوسری زبان میں بیان کرنا۔ حالات زندگی۔  
 تَرْجِي - امید رکھنا۔  
 تَرْجِيَّة - امید رکھنا۔  
 تَرْجِيْم - پڑھا چھکا دینا۔ پورے وزن سے زیادہ دینا زعلی مافوقیت دینا۔  
 تَرْجِيْع - "اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَيْہِ رٰجِعُوْنَ" کہنا۔ آواز کو خلق میں پھرانا۔  
 تَرْجِيْل - بال لگانا۔ قوی کرنا۔  
 تَرْح - غم۔ صدمہ۔ فشر۔  
 تَرْحَل - کوچ۔ کوچ کرنا۔ سوار ہونا۔ کسی کے ساتھ بڑائی سے پیش آنا۔

تَرْحَم - مہربانی کرنا۔ شفقت ظاہر کرنا۔  
 تَرْحِيْب - کسی کو فراخی کی طرف بلانا۔ مہربان کرنا۔  
 تَرْحِيْل - کسی کو کوچ کا حکم دینا کسی زملوار اٹھانا۔  
 تَرْحِيْم - مہربانی کرنا۔ کسی کو رحیم اللہ کرنا۔  
 تَرْحِيْص - زنی (آسان اختیار کرنا۔  
 تَرْحِيْص - کسی کو کسی امر میں رخصت و اجازت دینا۔  
 تَرْحِيْم - اپنے آپ کو نرم گفتگو بنانا (مردگی کو اندوہ پر اٹھانا۔ ضرورت کے وقت نڈانگیوں میں آخر کلمہ سے حرف گرا دینا۔ (اصطلاح)  
 تَرْدَاد - بہت پھیرنا۔ بار بار کرنا۔  
 تَرْدَد - آمد و رفت کرنا۔  
 تَرْدِي - کنہوں میں گر پڑنا۔  
 تَرْدِيَّة - کنہوں میں ڈال دینا۔  
 تَرْدِيْد - بہت پھیرنا۔ رو کرنا۔  
 تَرْس - ڈھال۔ جہ:۔ اَسْرَاس - تیرا اس  
 تَرْسَانہ - تَرْسَانَا - السخا خانہ کا نذرانہ جہاز سازی (د)  
 تَرْسَل - آہستہ آہستہ اور صاف صاف پڑھنا۔ آہستگی اور بردباری کرنا۔  
 تَرْسِيْل - بہت دو دو والا ہوجانا۔ ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف پڑھنا۔  
 تَرْسِيْل - ٹپکنا۔ چلنا۔  
 تَرْسِيْش - ٹپکنا۔  
 تَرْسِيْف - پانی وغیرہ کو چھڑنا۔  
 تَرْسِيْح - کسی عمدہ یا انتخاب کی (میدواری (د)  
 تَرْسِيْح - تربیت۔ درخت کو سنوارنا۔ پالنا۔ اوپنا۔  
 تَرْسِيْف - پانی وغیرہ کو چھڑنا۔  
 تَرْسِيْک - انتظار کرنا۔ دیکھتے رہنا۔  
 تَرْسِيْص - استوار اور ٹھیک کرنا۔ تلغی کرنا۔

تَرْصُوہ - ہنسلی چبڑی گردن - حجہ - تَرْصُوہ	تَرْصِيح - کسی چیز میں جو اہرت کو بڑھانا - کسی چیز کو تریب اور درست حالت کے ساتھ رکھنا - خوشی مانا -
تَرْصُوہ - سیراھی بڑھانا - درجہ بدرجہ بڑھانا -	تَرْصَب - آب دین چرسانا -
تَرْصُوہ - مختلف رنگوں سے رنگنا - بوتلموں کرنا -	تَرْصِيح - تَرْصِيح - کسی کی خوشنودی چاہنا - خوش کرنا -
تَرْصِيح - کپڑے پر پیوند لگانا -	تَرْطِيب - تَرْطَب - کرنا - رطب ہو جانا - لوگوں کو رطب کھلانا -
تَرْصِيح - پتلا کر دینا - کلام کو خوبی اور عمدگی سے بیان کرنا (غلام کا) مالک بننا -	تَرْطَب - ہلنا اور کاہنا -
تَرْصِيح - کپڑے کو دھاری دار بننا - دھاری دار بننا -	تَرْطَب - (لوہے کا) جوان ہو جانا (دانت کا) ہلنا -
تَرْصِيح - (دراڑھی) حنا یا زعفران سے رنگنا - رخط (میں) نقطہ لگانا -	تَرْطَب - ڈرانا - کوٹان کا ٹٹنا -
تَرْصِيح - ایک قوم یا فتنہ بن کر عید الاسلام کی نسل سے حجہ - اَثْرَاک -	تَرْطَب - (سحلی) غصہ کرنا -
تَرْصِيح - (ان) چھوڑ دینا - کام کرنا - لغات اصداؤ سے ہے -	تَرْطَب - ذلیل کرنا -
تَرْصِيح - بیہوش شرم رخ - لوسے کا خود -	تَرْطَب - شوق دلانا - خواستگار کرنا -
تَرْصِيح - میراث - چھوڑی ہوئی چیز -	تَرْطَب - (دیں) آرام و آسائش میں زندگی بسر کرنا -
تَرْصِيح - تصرف کرنا - مجلس میں کھل کر بیٹھنا - دیر کرنا -	تَرْطَب - آرام سے زندگی بسر کرنے والا -
تَرْصِيح - مضبوط ہونا - بھاری ہونا -	تَرْطَب - شکستہ ہو جانا - ٹوٹا چھوٹا ہو جانا -
تَرْصِيح - ترکی (د)	تَرْطَب - دولت و آسائش کے سبب فراغت - مزید اڑکھانا - تحفہ -
تَرْصِيح - جوڑنا - طائنا - جھا کر بیٹھانا - گھوڑے کو اُدھی تینیمت پر عاریت دینا -	تَرْطَب - بلند ہونا - بلند کرنا -
تَرْصِيح - نیزہ کو زمین میں گاڑنا -	تَرْطَب - نرمی کرنا -
تَرْصِيح - آگاہ ہونا - ہلنا -	تَرْطَب - بزرگ بنانا - سرواڑ بنانا -
تَرْصِيح - تھرا میٹر - (د)	تَرْطَب - اُٹھنا - دور ہونا - ڈور کرنا -
تَرْصِيح - گھونٹ گھونٹ پینا -	تَرْطَب - خدا تعالیٰ کا کسی کو خوش حال اور آسودہ رکھنا - آسائش و آرام دینا -
تَرْصِيح - نشانہ پر تیر پھینکنا -	تَرْطَب - انتظار کرنا - راہ دیکھنا -
تَرْصِيح - عورت کا پیرہ ہو جانا -	تَرْطَب - پانی کا آہستہ آہستہ جاری ہونا - آنکھ کا آنسو سے بھرنا -
تَرْصِيح - پانی کا گدلا ہو جانا -	تَرْطَب - (کھام کا) رنگین ہونا - مزین ہونا -
تَرْصِيح - ٹرین (د)	تَرْطَب - غلام بننا دل [مہربانی اور نرمی کرنا -
	تَرْطَب - عورت کا اپنے آپ کو حنا سے رنگنا -

تَرْبِیۃ - آواز کو کھینچنا۔ کبوتر کا غرغوں کرنا۔

(لہریاں) باریک بننا۔ حقیر بنانا۔

تَرْوَم - وہ [وہ] کسی کا مذاق اڑانا۔

تَرْوَم - تَرْوَم - اچھی آواز۔ گانا۔ آواز کا پھرانا کبوتر

کا آواز کرنا۔ ہراس چیرے کا بولنا جس کی آواز

بھلی معلوم ہو۔ تلاوت قرآن مجید میں خوش الحانی کرنا۔

تَرْوَمَۃ - اچھی آواز۔

تَرْوَمَۃ - تَرَۃ - گیت۔ بھجن۔ (د)

تَرْوَمَۃ - حدیث کی روایت کرنا۔ میراب ہونا۔ غورو

فکر کرنا۔ درخت کا شاخ داب ہونا۔

تَرْوَمَۃ - مطیع کرنا۔ سدھانا۔ چیلنے کی مشق کرنا۔

تَرْوَمَۃ - غور و فکر کرنا۔ میراب کرنا۔ انجام پر نظر

کرنا جو اب میں جلدی تہ کرنا۔

تَرْوَمَۃ - آرام دینا۔ جاری کرنا۔ رات کے وقت

جانا۔ خوشبو دار کرنا۔

تَرْوَمَۃ - الکتاب - کتاب کا سرورق۔ ٹائٹل (د)

تَرْهَب - ڈرانا۔ دھمکانا۔ پرستش۔

تَرْهَب - لغو بے فائدہ بات۔ باطل۔ ہوا۔

بادل۔ آفت۔ بے آب و گیاہ زمین۔

جہ: تَرْهَبَات

تَرْهَبَا - جسم کا ناز و نعمت کے سبب سرخ و سفید

ہونا۔ سراب کا پے در پے چلنا۔

ہنا۔ مضطرب ہونا۔

تَرْهَبَۃ - بست کھانا۔ سواری پر گھاتار بیٹھا ہونا

تَرْهَبَۃ - ڈرانا۔ ادنیٰ کا چیلنے چیلنے پر حال ہو جانا

اور پھر چارہ کھا کر مجال ہو جانا۔

تَرْهَبَۃ - کسی کو ہدی سے مہم کرنا۔ الزام لگانا۔

تَرْهَبَۃ - شراب ایک ودا کا نام۔

تَرْبِیۃ - سبز کی ہڈی۔ سبز کا ادھر کا حصہ۔ ۳۰۔

تَرْبِیۃ -

تَرْبِیۃ - مضبوط۔ استوار

تَرْبِیۃ - گھاس والی زمین میں پھینچنا۔

تَرْبِیۃ - کھجور کا درخت جس کا پھل توڑ لیا ہو۔ انگور کا

خوش مزہ جس کا دان کھالیا ہو۔

تَرْبِیۃ - نرم کرنا۔ تھکانا۔ عاجز ہونا۔

## ت - ز

تَرْأَم - اکٹھا ہونا۔ ہجوم کر کے آنا۔

تَرْأَم - آپس میں جوڑا ملانا۔

تَرْأَم - آپس میں زیارت کرنا۔ پھر جانا۔

تَرْأَم - کسی کام میں مشغول رہنا۔ آپس میں کوشش

کرنا۔

تَرْأَم - کسی کو حقیر سمجھنا۔

تَرْأَم - زیادہ ہونا۔ کلام وغیرہ میں تکلف زیادہ

کرنا۔

تَرْأَم - ایک دوسرے کی طرف جھکنا۔

تَرْأَم - پرانہ ہونا۔ جدا ہونا۔

تَرْأَم - مسکے نکل جانا۔ قسم میں جلدی کرنا۔ دتر کا

بھاگ لے آنا۔

تَرْأَم - انگور کو خشک کر کے مویر کرنا۔ بھاگ لے

آنا۔ آفتاب کا غروب کے قریب ہونا۔

تَرْأَم - باہوں کا بھاگ لے آنا۔ روٹی کو

دھکانا۔

تَرْأَم - نرمی سے ہانکنا۔ دور کرنا۔

تَرْأَم - سپٹ کا پھینچ میں مبتلا ہونا۔ عورت کا

پھینچنا۔

عہ تراویح رمضان المبارک کا تسبیح اسی سنی پر مبنی ہے کیونکہ ہر چار رکعتوں کے بعد آرام کا موقع دیا جاتا ہے ۱۷۔

## ت - س

تَسَات - ایک دوسرے کو گالی دینا۔ رسوا کرنا۔  
تَسَاتِی - ایک دوسرے کو گرتا کرنا۔  
تَسَاتِیْق - ایک دوسرے پر سبقت کرنا۔  
تَسَاتِر - رازداری کی باتیں کرنا۔  
تَسَارِع - جلدی کرنا۔  
تَسَاخِر - زنا کرنا۔  
تَسَاخُد - جھفتی کرنا۔  
تَسَاخَف - بہ تکلف بے وقوف بننا۔  
تَسَاخَط - ادا پر تلے کرنا۔ گر پڑنا۔ ڈالنا۔ خود کو کسی چیز پر گرادینا۔  
تَسَاتِق - ایک دوسرے کو پانی پلاتا۔ ساقی ہونا۔  
تَسَاوُل - مانگنا۔ طلب کرنا۔ [معنی دریافت کرنا۔  
تَسَال - مانگنا۔ طلب کرنا [معنی دریافت کرنا۔  
حال معلوم کرنا۔  
تَسَاتَف - باہم ساڑھوں جانا۔  
تَسَالَم - آپس میں صلح کرنا۔  
تَسَاخَر - آپس میں آسانی کرنا۔ باہم شریفانہ برتاؤ کرنا۔ عبادت کا کمزور ہونا (۵)  
بے تعصبی  
تَسَامَح - ایک دوسرے سے سنا۔ خبر کا فاش ہونا۔  
تَسَاوِی - بزرگی میں آپس میں مقابلہ کرنا۔  
تَسَاوُن - ٹیک لگانا [اعتماد کرنا۔  
تَسَاوَم - ہماؤ کرنا۔  
تَسَاوِی - آپس میں برابر ہونا۔  
تَسَاوُل - آپس میں کسی چیز کو آسان سمجھ لینا۔  
تَسَاوَم - آپس میں قرعہ ڈالنا۔  
تَسَاوِی - ساتھ ساتھ چلنا۔

تَسْوَم - دور ہونا۔  
تَسْوَن - دریا کا پانی سے پُر ہونا۔  
تَسْوِیْف - بہت ہونا۔ خوش تقریری کرنا۔ انگلیوں کے اشارہ سے کلام کرنا۔  
تَسْوِع - حرکت کرنا۔ ہلنا۔  
تَسْوِی - برطھانا۔ پھیلا نا۔ صدقہ کرنا۔ زکوٰۃ دینا  
تَسْوِیْت - مال میں سے زکوٰۃ دینا۔ پاکیزہ کرنا۔ اپنی تعریف کرنا۔ کسی سے زکوٰۃ لینا۔  
تَسْوِیْر - مشک کو پُر کرنا۔ بھرنا۔  
تَسْوِیْل - ہلنا۔ کانپنا۔  
تَسْوِیْل - لباس میں پٹنا۔  
تَسْوِیْر - بانسری وغیرہ بجانا۔  
تَسْوِیْم - اونٹ کی ناک میں مہار ڈالنا۔  
تَسْوِیْق - زندیق ہونا۔  
تَسْوِیْت - کسی کو تنگ کرنا۔ کسی کو زانی کرنا۔  
تَسْوِیْد - چھماق میں سے آگ نکالنا۔ جھوٹ ہونا۔  
جرم سے زیادہ سزا دینا۔  
تَسْوِیْج - نکاح کرنا۔  
تَسْوِیْج - نکاح کرنا۔  
تَسْوِیْد - زادراہ لینا۔  
تَسْوِی - گوشہ گیری اختیار کرنا۔  
تَسْوِیْر - جھوٹ بول کر فریب دینا۔ سزاوارنا کام رکھنا۔ زائر کی تعظیم کرنا۔  
تَسْوِیْد - عبادت کرنا۔  
تَسْوِیْل - متفرق ہونا۔  
تَسْوِیْن - آراستہ ہونا۔  
تَسْوِیْج - ٹیڑھا کرنا۔ ٹیڑھے کو سیدھا کرنا۔  
تَسْوِیْف - سکوں کو کھوٹا کرنا۔  
تَسْوِیْن - آراستہ کرنا۔



تَسَايُفٌ - باہم شمشیر زنی کرنی۔

تَسَايِلٌ - لشکر کا ہر طرف کو سیلاب کی طرح چلنا۔

تَسْبِيبٌ - بہت گالیاں دینا، موجب باعث بننا۔

تَسْبِيحٌ - سبحان اللہ کہنا۔ پانی کے ساتھ یاد کرنا۔

خدا تعالیٰ کا ذکر اور اس کی صفت بیان کرنا۔

نماز

تَسْبِيكٌ - دہاتوں کو پھلانا۔ ساچھیں ڈھالنا۔

تَسْتَرٌ - پوشیدہ ہونا، پرہیز کرنا، پردہ میں ہونا، کسی

چیز کو دور رکھنا۔

تَسْجِيْرٌ - پانی جاری کرنا، تنور میں لکڑیاں بھرنا (د)

رجھڑی کرنا۔

تَسْجِيْعٌ - باق فیہ کلام کرنا۔

تَسْجِيْلٌ - درج رجھڑ کرنا۔ رجھڑی کرنا [ب]

ازروئے قانون فیصلہ کرنا [ع] کسی کے

خلاف فیصلہ کرنا۔

تَسْحِبٌ - [ع] کسی کے ساتھ ناز کرنا۔

تَسْحَدٌ - سحری کھانا۔

تَسْحِيْرٌ - جادو کرنا۔ لہجھانا۔ دھوکہ دینا۔ دغا کرنا۔

تَسْحِيْرٌ - مطیع و متقاد کر لینا۔ ہنگامہ لینا۔

تَسْحِيْرٌ - مطیع بنانا۔ بیگاریاں لینا۔ مذاق اڑانا۔

تَسْحِيْرٌ - گرم کرنا۔

تَسْوَدٌ - رخنہ و سوراخ کا بند ہو جانا۔

تَسْوِيٌّ - تَسْوِيَّةٌ - تاننا، بنا کر بنا کر بنا

تَسْوِيْدٌ - راست اور درست کرنا۔ صواب اور راستی

کی توفیق دینا۔ میاں تروی اختیار کرنا۔

صواب ڈھونڈنا۔ صواب کی توفیق پانا۔

(د) ادائیگی

تَسْوِيْبٌ - سوراخ میں گھسنا۔

تَسْوِيْلٌ - لباس پہننا۔

تَسْوَدٌ - انزار پہننا۔

تَسْوِيْرٌ - لوندی رکھنا۔ حرم بنانا۔

تَسْوِيْحٌ - بال کھونا۔ بال لگانا۔ بیوی کو طلاق دینا

چوپالیوں کو چرنے کے لئے بھیجنا۔ لنگھی کرنا

غلام آزاد کرنا۔

تَسْوِيْطٌ - ہموار کرنا۔ کشادہ کرنا۔

تَسْوِيْطٌ - کھٹا۔ جمع کرنا۔ بھیجا جانا۔

تَسْوَعٌ - نو میں کا ایک۔

تَسْوَعٌ - (رض) نواں حصہ لینا۔ نواں ہو جانا۔

تَسْوَعٌ آيَاتٌ - نوشتنیاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام

کو عطا ہوئی تھیں۔ غصا، قحط، دنیا، بڑی

جوں، سخن، پدھیجا، بینڈکٹ۔

طوفان۔

تَسْوَعٌ - تو (مؤنث)

تَسْوَعَةٌ - نورنگر

تَسْوَعِدٌ - آگ کا بھڑکانا۔

تَسْوَعَسٌ - عمر کا اکثر حصہ گزر جانا۔ سینے کا اکثر گزر جانا

بہ حال ہونا۔

تَسْوِيْحٌ - آگ بھڑکانا۔ نرخ مقرر کرنا۔ لڑائی پھڑکانا

تَسْوِيْلٌ - پست ہونا۔ نشیب میں آنا۔

تَسْوِيْرٌ - سفر میں جانا۔ تدارک کرنا، جورت کا منہ

کھلوانا۔

تَسْوِيْرٌ - سفر میں بھیجنا۔ آگ کو بھڑکانا۔

تَسْوِيْفٌ - نادانی کرنا۔ نادانی کی طرف غسوب کرنا۔

نادان کرنا۔

تَسْوِيْفٌ - پادری بننا۔

تَسْوِيْفٌ - سیراب ہونا۔ کسی چیز کا پانی کو قبول کرنا۔

تَسْوِيْفَةٌ - پانی دینا۔ سَتَقَاتُ اللّٰهُ يَأْسِفِيْ لَكَ

کہنا۔

تَسْوِيف - چھت ڈالنا - پادری بنانا۔	تَسْوِيف - کسی کو آواز سنانا۔
تَسْوِيف - پانی کو بہانا۔ پانی کا بہنا۔ جاری ہونا۔	تَسْوِيف - موٹا ہونا۔
تَسْوِيف - دروازہ کی چوڑی بنانا۔	تَسْوِيف - نام رکھا جاتا منسوب ہونا۔
تَسْوِيف - چُپ کرنا۔	تَسْوِيف - نام رکھنا۔ نام لے کر پکارنا۔ نام بتانا۔
تَسْوِيف - گلا کھولنا۔ دروازہ بند کرنا۔	(د) کسی خدمت پر نامزدگی۔
تَسْوِيف - آرام دینا۔ ہمیشہ تیز روگدھے پر سوار ہونا	تَسْوِيف - راستہ اختیار کرنا زل آچھینے والے کے
نیزہ کو آگ سے سیدھا کرنا۔	لئے یوحنا اللہ کننا زل کسی چیز
تَسْوِيف - ہتھیار ہینٹا۔ مسلح ہونا۔	پرخدا کا نام لینا۔
تَسْوِيف - پرست و خیرہ کا بیماری سے پھل جانا۔	تَسْوِيف - بھونڈا کر دینا۔
تَسْوِيف - پانی کا اور پریچھے جاری ہونا۔ کپڑے کا	تَسْوِيف - آچھا رویہ رکھنا۔ جلدی کرنا۔ دوڑ جانا۔
استعمال کے سبب پتلا ہو جانا۔	تَسْوِيف - زمین میں کھا دینا۔
تَسْوِيف - (یعنی) قابو یافتہ ہونا۔	تَسْوِيف - گٹھڑی کو کاٹھی پر باندھنا۔ قرضدار کو پھپھلا
تَسْوِيف - قرض لینا۔ قیمت پہلے لے لینا۔	دینا کسی کے مصرعہ پر مصرعہ لگانا۔
تَسْوِيف - دیوار پر چڑھنا۔	تَسْوِيف - تشہیر کرنا۔ بدنام کرنا۔ کسی کو مشہور کرنا
تَسْوِيف - کسی چیز میں سے پوشیدہ طور پر باہر	آواز سنانا۔ کسی کی گنئی دور کرنا۔
نکل آنا۔	تَسْوِيف - موٹا کرنا۔ کھانے کو گھی سے چرب کرنا۔
تَسْوِيف - قبول کرنا۔ اسلام قبول کرنا۔ راستہ طے کرنا	ٹھنڈا کرنا۔ گھی دینا۔
اور اس میں غلطی نہ کرنا۔	تَسْوِيف - تلاش کرنا۔
تَسْوِيف - بے غمی۔ بے غم ہونا۔	تَسْوِيف - سڑنا اور متغیر ہو جانا۔ لیک راستہ پر ہونا
تَسْوِيف - تسلی دینا۔	تَسْوِيف - متغیر اور خراب ہو جانا۔ پرانا اور سال خوردہ
تَسْوِيف - جو اہرات یا موتیوں کا ہونا۔	ہو جاتا۔ تنگ سالی برداشت کرنا۔ کسی
تَسْوِيف - کسی کو حاکم بنا کر بھیجنا۔ حکم و اختیارات کو	کے پاس سال پورا کر دینا۔ کھجور کے ڈرت
جاری کرنا۔	کا ہر سال پھل ملنا۔
تَسْوِيف - ناشتہ دینا۔ آگے بھیجنا۔	تَسْوِيف - ہانڈی میں ڈوٹی چلانا۔
تَسْوِيف - مصیبت سے پھر آنا۔ سپرد کرنا اور	تَسْوِيف - بہشت کا ایک چٹھہ جو بلندی سے گرتا
سونپ دینا۔ فیصلہ پر راضی رہنا۔ سلام	ہے۔ چڑھ آتا۔ چارہ کی افراط کا اونٹ
کرنا۔	کے کو ان کو بڑا کر دینا۔
تَسْوِيف - سخنا۔ کسی کی طرف کان لگانا۔ تھوڑا	تَسْوِيف - تیرہ کو تیر کرنا۔ نیزہ بھونکن۔ وادنت مانا
تھوڑا استنا۔	تَسْوِيف - وفاق کپڑوں میں گر پڑنا۔

تَسْوِس - دیوار پر چڑھنا۔ لنگن پہننا۔  
تَسْوُوق - بازار ڈھونڈنا۔ خرید و فروخت کرنا۔  
تَسْوُوك - مسواک کرنا۔  
تَسْوِي - سہوار ادر برابر ہونا۔ زمین میں ہلک ہونا۔  
تَسْوِيَّة - ایک چیز کو دوسری چیز کے برابر کر دینا۔ پورا کرنا۔ ٹھیک ٹھاک کرنا۔ سہوار کرنا۔  
زہین اور شخصوں کے درمیان صلح کر دینا  
تَسْوِيْد - دلیری کرنا۔ سردار کرنا۔ کسی قوم کے سردار کو مار ڈالنا۔ سیاہ کرنا۔  
تَسْوِيْر - کسی کے ہاتھ میں لنگن ڈالنا۔ شہرناہ اور تفصیل بنانا۔  
تَسْوِيْع - کسی چیز کو راد رکھنا۔ دل عطا کرنا۔  
تَسْوِيْف - تاخیر کرنا۔ سونے فعل کننا۔ حاکم مختار بنا دینا۔  
تَسْوِيْل - دل شیطان کا کسی کو بہکانا دینا۔  
تَسْوِيْم - (گھوڑوں پر) نشان لگانا۔ (گھوڑوں کو) چراگاہ میں بھونڈنا۔ کسی کو مشکل کام سپرد کرنا۔ (علی) کسی قوم پر لوٹ ڈالنا۔  
تَسْهَر - بیدار رہنا۔  
تَسْهَل - آسان و نرم ہونا۔  
تَسْهِيْد - کسی کو بے خواب اور بیدار کرنا۔  
تَسْهِيْل - نرمی اور آسانی کرنا۔  
تَسْهِيْب - چوپایوں کو اپنی مرضی پر پھوڑ دینا۔  
تَسْهِيْر - ہانگ دینا۔ شہر سے باہر کر دینا۔ دہاری دار کو پٹا بننا۔ چوپایہ کے اوپر سے بھول اُتارنا۔  
تَسْهِيْل - پانی وغیرہ کا جاری کرنا۔ بہانا۔

## ت - ش

تَشَابُه - فریقین کا ادائیگی میں نزدیک ہونا۔

تَشَابُهت - امور کا عخلط ملط ہونا۔

تَشَاب - مانند ہونا۔ (علی) کسی شخص پر معاملات کا

پہنچیدہ ہوجانا۔

تَشَابُهت - ایک دوسرے کو گالی دینا۔

تَشَابُجِد - دو گروہ کا آپس میں منادعت کرنا۔ ایک

دوسرے پر نیزہ مارنا۔

تَشَارِك - شرکت کرنا۔

تَشَاتِق - آپس میں دشمنی و مخالفت کرنا۔

تَشَاكُس - مخالفت کرنا۔ ایک دوسرے سے بری طرح

ادرجی کھلتی سے پیش آنا۔

تَشَاكُل - مواقت کرنا۔ مشابہ ہونا

تَشَاكِي - آپس میں گلہ کرنا۔

تَشَاوُر - مشورہ کرنا۔

تَشَاوِم - فال پد لیسنا

تَشَايِيْج - بہ تکلف پوڑھا بن جانا۔

تَشَابُهت - کسی چیز میں ٹک جانا۔ کسی چیز میں جنگل

مارنا۔

تَشَابُهت - درختوں کا گنجان ہونا۔

تَشَابُهت - کسی چیز کے اجزاء کا آپس میں گٹھا ہوا ہونا۔

تَشَابُهت - لٹکانا۔ کاموں کا عخلط ملط ہونا۔

تَشَابُهت - مشابہ ہونا۔

تَشَابُهت - غزل کننا۔ یعنی عورت کا حسن و جمال

اور اس سے اپنے عشق کا حال اور تزلزلے

وصال بیان کرنا۔

تَشَابُهت - ملانا۔ دو چیزوں کو آپس میں داخل کرنا۔

تَشَابُهت - پراگندہ ہونا۔

تَشَابُهت - کسی مقام پر موسم سرما میں سکونت اختیار کرنا۔

تَشَابُهت - پراگندہ کر دینا۔

خریدی ہوئی چیز سے کچھ خرید کی قیمت پر بیچ ڈالنا۔

تشریح الاول۔ رومی مہینہ مطابق اکتوبر (د)

تشریح الثانی۔ رومی مہینہ مطابق نومبر (د)

تسطیط۔ حد اور اندازہ سے گذر جانا۔

تثعب۔ پرانگندہ ہونا۔ پرانگندہ کرنا۔ راستہ کا یا

درخت کا شاخ شاخ ہونا۔ مرجانا۔ دست

ہونا۔ دور ہونا۔

تثعب۔ پرانگندہ اور پریشان ہونا۔ لینا۔ تھوڑا سا

کھانا۔ بالوں کا گرد و غبار اور میل کی وجہ

سے حج جانا۔

تثعل۔ آگ کا بھروکنا۔

تثعب۔ الگ الگ اور متفرق کرنا۔ ٹوٹے ہوئے کو

جوڑنا۔ لغات اصداو سے ہے۔

تثعب۔ دو کرنا۔ دفع کرنا۔ پریشان کرنا۔ طاعت

کرنا۔

تثعب۔ آگ کا بھروکنا۔

تثعب۔ سفارش کرنا۔

تثعب۔ شفا پانا۔

تثعب۔ دوگنا کرنا۔ سفارش قبول کرنا۔

تثعب۔ (لکڑیاں) چیرنا۔ سبلی کا خوب چمکنا۔

تثعب۔ پھٹ جانا۔

تثعب۔ (ذہب کے اعضا کو جدا کر کے) شرکار کے

درمیان برابر حصے تقسیم کرنا۔ فروخت

کے گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔

تثعب۔ خشک لکڑیوں کو چیرنا۔ کلام کو اچھے طور

سے بیان کرنا۔

تثعب۔ دل [شکر] ادا کرنا۔

تثعب۔ وہم کرنا۔

تثعب۔ دلیر کرنا۔ تعریف کے طور پر کسی کو بہادر کرنا۔

تثعب۔ تیز کرنا۔ دھار نکالنا۔

تثعب۔ جدا اور ممتاز ہونا۔

تثعب۔ جدا اور ممتاز کرنا۔ پہچانا۔ (د) تھیر میں

ایکٹ کرنا۔

تثعب۔ سختی کرنا۔

تثعب۔ قوت دینا۔ بھاری کرنا۔ احتیاط میں سختی

برتنا۔

تثعب۔ سرایت کر جانا۔ کپڑے کا پسینہ کو پی لینا۔

تثعب۔ پریشان اور متفرق ہونا۔

تثعب۔ کسی چیز کے اوپر چڑھنا۔ بزرگ جاننا۔

تثعب۔ بزرگ صفت ہو جانا۔ (مجبوراً) قوم کے اشرف

اور سرداروں کا مارا جانا۔ دل [کسی چیز کی

طرف دیکھنا] ب [اشرف] جاننا۔

تثعب۔ دھوپ میں بیٹھنا۔

تثعب۔ خوب ظاہر کرنا۔ قطع کرنا۔ طب کا ایک فن۔

جس میں اعضائے انسانی کی ترکیب اور

اجزا اور تیلے جاتے ہیں۔

تثعب۔ [نکن] پرانگندہ کرنا۔ کسی کے عیب کو مشہور

کرنا۔

تثعب۔ راستہ بیان کرنا۔ کسی امر دینی کا حکم دینا۔

(د) قانون بنانا۔

تثعب۔ بلندی پر چڑھنا۔ تعظیم کرنا۔ بزرگ سمجھنا۔

گھر کا کنگرہ بنانا۔

تثعب۔ رسمی جلسہ (د)

تثعب۔ خوبصورتی۔ چھوکی چمک۔ مشرق کی طرف

جانا۔ مشرق کی طرف منہ کرنا۔ عید کی نماز

پڑھنا۔ گوشت کو دھوپ میں سکھانا۔

تثعب۔ جوتی کے لئے شراک (تسمہ) بنانا۔

کام کو۔	تَشْكُلُ - صورت اختیار کرنا۔ انکور کا پکنے لگنا۔
تَشْوِقُ - بہ تکلف شوق کو ظاہر کرنا۔ آرزو کرنا۔	تَشْكِي - گھر کرنا۔
تَشْوِيْبَةٌ - کسی کو بھوننے کے لئے گوشت دینا۔ بھنا ہوا گوشت کھانا۔	تَشْكِيْرٌ - بہت شکر یہ ادا کرنا۔
تَشْوِيْشٌ - پریشان کرنا۔	تَشْكِيْكٌ - کسی کو شک میں ڈالنا۔
تَشْوِيْقٌ - کسی کو کسی چیز کا مشق بنانا۔	تَشْكِيْلٌ - صورت بنانی۔ انکور کا پکنے لگنا۔ چھو پایہ کے پاؤں کو رستی سے باندھنا (د) کوئی جماعت قائم کرنا۔
تَشْوِيْكٌ - کاٹنا لگانا۔ درخت کا خار دار ہونا۔ دیوار پر وغیرہ پر کانٹے رکھنا۔ لٹکے کی موچھوں کا سخت ہوجانا۔ لٹکی کی چھتیاں نکلنے لگنا۔ نوڈنے کے بعد بال نکل آنا۔	تَشْمُرٌ - [ل] کسی کام کے لئے مستعد ہونا۔ کپڑے کو اٹھانا اور سمیٹنا۔ شک شک کرتیزی سے چلنا۔
تَشْهَدُ - اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کہنا۔ نمازیں اس کلمہ تک بیٹھا رہنا۔	تَشْمِسُ - دھوپ میں کھڑا ہونا۔
تَشَاهِيٌ - کسی چیز کی خواہش کرنا اور اس کا آرزو مند ہونا۔	تَشْمِطُ - سکھانا۔ سمیٹنا۔
تَشَاهِيَةٌ - کسی کو کسی چیز کی خواہش پر برا بھلا کہنا۔ مشوق دلاتا۔	تَشْمِجُلٌ - متفرق ہوجانا۔ منتشر ہوجانا۔
تَشَاهِيْدٌ - مشہور و ظاہر کرنا۔ تلوار کو سونتنا۔ اور لوگوں پر اس کو اٹھانا۔	تَشْمِجٌ - سوکھنا۔
تَشَاهِيْجٌ - بوڑھا ہوجانا۔	تَشْمِيْتٌ - پھینکنے والے کے لئے دعا کرنا یعنی وہ الحمد للہ کہے تو برحکم اللہ کرنا۔ محروم یاوس کرنا۔ جمع کرنا۔
تَشَاهِيْطٌ - کثرت جماع کی وجہ سے لاغر ہوجانا۔	تَشْمِيْرٌ - تیزی سے چلنا۔ چلنے میں شکننا۔ جمع کرنا۔ کپڑے کو اٹھانا اور سمیٹنا (الی) پختہ قصد کرنا (الی) کوشش و اسہام کرنا۔
تَشَاهِيْطُنٌ - دیو ہونا۔ نافرمان اور سرکش ہونا۔	تَشْمِيْسٌ - کسی چیز کو دھوپ دینا۔ آفتاب کو پوجنا۔
تَشَاهِيْجٌ - شیعیت کا دعویٰ کرنا۔ خود کو شیخ ظاہر کرنا۔	تَشْمِيْعٌ - موم جامہ بنانا۔
تَشَاهِيْمٌ - عادات و خصائل میں اپنے باپ کے مشابہ ہونا۔	تَشْمِيْلٌ - دامن سمیٹنا۔ دوڑنا۔
تَشَاهِيْبٌ - علم کا کسی کو بوڑھا کرنا۔ علم کا سر کو سفید کر دینا۔	تَشْمِيْمٌ - سوکھنا۔ سنگھانا۔
تَشَاهِيْجٌ - بوڑھا ہونا۔ بزرگی کے سبب تعظیم نامی کو بوڑھا کہنا (علی) عیب لگانا (پ) رسوا کرنا (لغات اعضاء سے ہے)۔	تَشْمِيْرٌ - کھال کا سکھانا۔
	تَشْمِجٌ - تیر۔ چلنا۔ لوٹ ڈالنا۔ ہتھیار پہننا [ل] کسی کام کے لئے آمادہ ہونا۔
	تَشْمِيْجٌ - کسی کی بُرائی کرنا (علی) بُرا سمجھنا کسی

تَصْبِيْہُ - صبح کے وقت سونا۔ صبح کے وقت ناشتہ کرنا یا صبح کے وقت کسی سے ملاقات کرنا۔

تَصْبِيْہُ - خود کو زبردستی کسی چیز سے روکنا۔

تَصْبِيْہُ - [رفی] دین میں پکا ہونا۔ دین کا رنگ پر طہ چانا۔

تَصْبِيْہُ - روکپن کی طرف مائل ہونا۔ مرد کا عورت کو فریفتہ کر لینا اور فتنہ میں ڈال دینا۔

تَصْبِيْہُ - صبح کے وقت آنا۔ چاشت کا کھانا کھانا صبح کی شراب پلانا۔ صبح کا سلام کرنا یعنی اَللّٰہُمَّ صَبَّأْنَا کُنَا۔

تَصْبِيْہُ - کسی کو صبر دینا۔ کسی سے صبر چاہنا۔

تَصْبِيْہُ - مہر کا کھانا۔ بیخ۔ (د)

تَصْبِيْہُ - کپڑے کو خوب رنگنا۔

تَصْبِيْہُ - شرم کرنا۔

تَصْبِيْہُ - لکھے ہوئے کو غلط پڑھنا۔

تَصْبِيْہُ - درست کرنا۔ کسی چیز کو درست کرنا۔

تَصْبِيْہُ - کچھ ہونے میں چوکنا اور غلطی کرنا۔

تَصْبِيْہُ - روکنا۔

تَصْبِيْہُ - سید کو بیٹھنے کی حالت میں سیدھا رکھنا۔

تَصْبِيْہُ - صدک جگہ بیٹھنا۔ دوڑ میں آگے نکل جانا۔ (د)

تَصْبِيْہُ - چھٹنا۔ بھاگ کر غائب ہو جانا۔ متفرق اور پریشان ہونا۔

تَصْبِيْہُ - [وعن] اعراض کرنا۔ مزہ پھیر لینا۔

تَصْبِيْہُ - صدق کرنا۔

تَصْبِيْہُ - روکنا۔ پٹانا۔

تَصْبِيْہُ - درپے ہونا۔ سامنے آنا۔

تَشْبِيْہُ - کسی چیز کو بلند کرنا۔ دیداروں پر چڑھنا۔

تَشْبِيْہُ - تعلق کرنا۔

تَشْبِيْہُ - رخصت کرنے کے لئے ساتھ جانا۔ بخشید کے روزے رکھنا۔ آگ میں ایندھن بھونکنا۔ تقویت کرنا۔

## ت - ص

تَصَابِيْہُ - عورت کو دھوکا دینا۔ عورت کو فریفتہ کر لینا۔

تَصَابِيْہُ - لہو و لعب کی طرف مائل ہونا۔

تَصَابِيْہُ - آپس میں فسریا کرنا۔ ایک دوسرے کو مارنا۔

تَصَادِقُ - آپس میں دوستی کرنا۔

تَصَادُمُ - آپس میں ٹکرانا۔ بھرم کرنا۔

تَصَادَحُ - آپس میں شور اور فریاد کرنا۔

تَصَادُمُ - آپس میں قطع تعلق کرنا۔

تَصَاعُلُ - چڑھنا۔ دشوار ہونا۔

تَصَاعُلُ - غوار و حقیقہ ہونا۔ خود کو بھونکا دکھانا۔

تَصَاعُلُ - دوسروں کے ساتھ مل کر صفت بستہ ہو جانا۔

تَصَاعُلُ - آپس میں دو قطار ہو جانا۔

تَصَاعُنُ - بیعت یا بیع کے وقت آپس میں ہاتھ مارنا۔

تَصَاعُنُ - باہم پانی تقسیم کرنا۔

تَصَاعُلُ - آپس میں صلح کرنا۔

تَصَاعُلُ - اپنے آپ کو بہر اظہار کرنا۔

تَصَاعُلُ - ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔ اور حسرت لگانا۔

تَصَاعُلُ - قصور کی جمع۔

تَصَاعِيْجُ - ایک دوسرے کو آزار دینا۔ تلوار کی میلاں کا پھٹ جانا۔

تَصَابِيْہُ - گزنا۔ ادھر سے نیچے کی طرف پانی کا اترنا۔

نَصْبِيَّة - ہاتھ پر ہاتھ مارنا - تالی بجانا -

نَصْبِيْد - تالی بجانا -

نَصْبِيْدِيُو - آگے نکل جانا - پھیر دینا - کسی کو صدر مجلس

میں بٹھانا [ب] [عنوان (مضمون کی

سرخی) لکھنا (کتاب کو) کسی خاص تمہید

کے ساتھ شروع کرنا (د) ملک سے مال

تجارت کا لہر جانا یا بھیجنا -

نَصْبِيْدِيَج - کسی کو دروسر پہنچانا - سر میں درد ہونا -

الگ الگ کرنا -

نَصْبِيْبِيَج - اونٹ کی کنپٹی پر وارغ و نشان لگانا -

نَصْبِيْبِيَق - کسی کو راست گو کہنا - تکذیب کی ضد

صدقات لینا

نَصْرِيْح - کوشش کر کے چینیٹا -

نَصْرِيْت - کسی کام میں اٹھنا (ان وجہ) پھر جانا -

نَصْرِيْم - چستی کرنا - کٹ جانا - سال کا گذر جانا

نَصْرِيِيَّة - (بر کی) ڈوھنا تاکہ ٹھنوں میں بہت سا

دودھ جمع ہو جائے -

نَصْرِيْح - کھولنا اور ظاہر کرنا - ظاہر دیاں ہونا کھلی

ہوئی اور صاف بات کہنا - خلاف تعریض

(د) اعلان - بیان سیاسی -

نَصْرِيْح - پچھاڑنا - شعر کے پہلے مصرع میں قافیہ لانا

نَصْرِيْتِيْت - آیات کو کھول کھول کر اور واضح طور پر

بیان کرنا - کسی تجارتی شے یا کسی کے کردار

دینا - ایک بات دوسری بات سے نکال لینا -

ہوا کا ادھ سے ادھر پھرتا - ہوا کو ادھر

سے ادھر پھینا -

نَصْرِيْم - درخت کو چرط سے اکھاڑ دینا - رسی کو

ٹکڑے ٹکڑے کرنا -

نَصْحَاق - (س) بے ہوش ہو جانا -

نَصْعَب - دشوار ہونا - دشوار کرنا -

نَصْعَد - چڑھنا - کسی امر کا شاق اور دشوار ہونا -

نَصْعَر - شجر کی دہر سے چروچ کرنا -

نَصْعَلْك - فقیر و محتاج ہو جانا -

نَصْعِيْب - مشکل کر دینا -

نَصْعِيْد [رفی دعلی] پہاڑ پر چڑھنا [رفی] [دادی میں

اڑنا - اوپر تلے دیکھنا -

نَصْعِيْبِيَر - پھوٹا کرنا - اسم کو فعیل وغیرہ میں پھوٹنا

نَصْفَح - لوگوں کے حالات پر کھنکھانی کے کام

پر نظر رکھنی اور اس کی اصلیت کو تلاش کرنا -

نَصْفَق - متروک ہونا [ول] کسی کام کے لئے آمادہ ہونا

نَصْفِيْح - چرڑا کرنا - تالی بجانا -

نَصْفِيْد - اچھی طرح سے قید کرنا - پختہ اور مضبوط کرنا

نَصْفِيْدِيَر - زرد رنگ میں رنگنا - چینیٹا چلانا - کھر کو

خالی کرنا (د) ریل کا سینٹی دینا -

نَصْفِيْف - صفت میں کھرا ہونا - صفت میں کھرا کرنا -

(د) ٹائپ کو کمپوز کرنا - حروف آہنی کو باہم

ملانا -

نَصْفِيْق - ہاتھ پر ہاتھ مارنا - بھرتا جانا - کسی چیز کے

گرد پھرنے [ب] پرندوں کا پردوں کو

پھر پھڑانا (د) چیر

نَصْب - سختی کرنا -

نَصْبَل - زبرد کا بچنا - آواز کو سلیق میں پھرتا کچھڑکا

خشک ہو جانا -

نَصْلَح - سُورج کا روشن ہونا اور بادل سے

نکل آنا -

نَصْلَف - چاہلوسی کرنا -

نَصْلِيِي - آگ کی گرمی کو ہٹانا - آگ سے تپنا -

آگ پر سپید ہا کرنا -

تصویر - صورت بنانا۔ پیدا کرنا۔ شکل۔ رسم۔ تصاویر  
تصویر شمسی - قزوگرانی  
تصتک - شکار ڈھونڈنا  
تصیف - ایام گرامیں کسی مقام پر سکونت اختیار  
کرنا۔  
تصیید - پھیر دینا۔ مائل کرنا۔

## ت - ض

تصاجر - خود کو ملول اور غم گین کرنا  
تصاوج - کئی آدمیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ  
پہلو پر سونا۔ کئی آدمیوں کا اپنے پہلو  
زمین پر رکھ کر لیٹ جانا۔  
تصاجم - کچھ ہونا ایسا لوگوں کے درمیان کسی  
کام کا مختلف ہو جانا۔  
تصاحک - ہنستا۔ آپس میں ہنستا۔ مزاح کرنا۔  
تصاوب - آپس میں لڑنا۔  
تصاعف - دو چند ہونا۔  
تصاعظ - جمع ہونا۔ مجرم کرنا۔ بھیڑ لگانا۔ ایک  
دوسرے کو بھیجنا۔  
تصاھن - آپس میں کینہ رکھنا۔  
تصافر - آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ مدد کرنا  
تصافحہ - اکٹھا ہونا۔ کسی چیز کی طرف کھنچ جانا  
تصائب - بچے کا خوب موٹا ہونا  
تصایق - تنگ ہونا۔ نہ سہانا۔  
تصابت - کسی کو زبردستی گرفتار کرنا۔ تھوڑی سی  
گھاس پر ہینچنا۔ چرسے میں جلدی کرنا۔  
موٹا ہونا۔  
تصاجر - بے قرار ہونا۔ چیخ پکار کرنا  
تصاجم - [عن] کوتاہی کرنا۔

تصلیب - سخت اور مضبوط ہونا۔ سخت اور مضبوط  
کرنا۔ سولی پر کھینچنا۔  
تصلیہ - نماز پڑھنا۔ درود پڑھنا (مادہ صلہ)  
آگ میں ڈال دینا۔ آگ میں مقیم ہونا  
ناٹھی وغیرہ کو آگ سے سیدھا کرنا۔  
(مادہ صلی)  
تصلیح - کسی چیز کو ٹھیک کرنا۔  
تصلیم - ناک۔ کان جڑ سے اکھاڑنا۔  
تصمیمہ - خاموش رہنا۔ خاموش کرنا۔  
تصمیم - اچھی رائے پر سچگی سے عمل کرنا۔ کسی چیز کو  
کاٹنا اور اس میں دانت گھسانا۔ تلوار کا  
کاٹ کر گزر جانا۔  
تصتم - خود کو آراستہ کرنا۔ کسی کے لئے نیک  
بننا اور بناوٹ کے طریقہ سے خوش خلقی  
اور بھلائی سے پیش آنا۔  
تصنیف - کسی چیز کی قسمیں الگ الگ کرنا۔ کسی چیز  
میں سے بعض کو بعض سے جدا کرنا اور  
تیسرے دینا۔ رحمت کا پتہ لگانا۔ کتاب  
لکھنا۔  
تصنیف - تصویر بنانا۔  
تصوب - اوپر سے نیچے آنا۔ مینہ برسنا۔  
تصویر - صورت بنانا۔ چیر کی شکل کو خیال میں لانا  
چیر کی شکل کا سامنے آنا۔ گرنا۔ گرنے  
کے فریب ہونا۔  
تصویب - کسی کو سچا سمجھنا۔ سچا کہنا۔ سر کو نیچا رکھنا  
تیز چلنے کے لئے گھوڑے کی باگ ڈھیلی  
کردینا (د) گولی نشا نہ پر مارتا۔  
تصویت - آواز کرنا (د) رائے دینا۔ ووٹ دینا۔  
تصویب - صاف لکھنا۔



تَضْمِيحٌ - کسی چیز کو دو گنا یا زیادہ کرنا۔ کمزور کرنا۔

تَضْمِيحٌ - بال گو نہ دھنا۔

تَضْمِيحٌ - کسی کو گراہ کہنا۔

تَضْمِيحٌ - پیٹ بھر کر کھانا یا پینا یہاں تک کہ

پیسلیوں تک پہنچ جائے۔

تَضْمِيحٌ - باطل ہونا۔

تَضْمِيحٌ - گراہوں کی صحبت اختیار کرنا۔

تَضْمِيحٌ - کسی کو گراہ کہنا مگر اہ کرنا۔ غلطی میں ڈالنا

تَضْمِيحٌ - خوشی میں بیسنا۔

تَضْمِيحٌ - لیب لگانا۔

تَضْمِيحٌ - کھال کا لائزہ کی وجہ سے سکر جانا۔

تَضْمِيحٌ - کسی چیز کا ذمہ دار ہونا۔ لازم پکڑنا۔

تَضْمِيحٌ - مشتمل ہونا یعنی کسی چیز کو اپنے اندر

لے لینا۔

تَضْمِيحٌ - خزش میں بسانا۔

تَضْمِيحٌ - پٹی نا دھنا لیب لگانا۔ آلودہ کرنا۔

تَضْمِيحٌ - موٹے کو دلا کرنا۔

تَضْمِيحٌ - تادان دینا کسی دوسرے کے شعر کو اپنے

اشعار میں داخل کرنا۔ چاہ میں لانا۔

تَضْمِيحٌ - روشنی میں رہنے والوں کو دیکھنے کے لئے

اندھیرے میں کھڑا ہونا۔ اندھیرے میں

ٹھہرنا تاکہ جو روشنی میں ہیں ان کو دیکھے۔

تَضْمِيحٌ - وادی کے غولوں اور موڑوں کا بہت چو

جانا۔

تَضْمِيحٌ - بو پھینا۔ ممکن۔

تَضْمِيحٌ - کثیر الاولاد ہو جانا۔

تَضْمِيحٌ - دودھ کا پالی میں ملنا۔

تَضْمِيحٌ - گوشت کا آدھ کچا پکانا۔ کمان وغیرہ کو

سیدھا کرنے کے لئے آگ پر رکھنا۔

تَضْمِيحٌ - سورج کا غروب کے قریب ہونا [عن]

تَضْمِيحٌ - کتا بھ کرنا۔

تَضْمِيحٌ - سراب کا چمکانا کسی کام کا واضح ہونا۔

تَضْمِيحٌ - ہنسا۔

تَضْمِيحٌ - چاشت کے وقت کھانا۔ چاشت کے وقت

تک سوتا۔ دھوپ میں لگنا۔

تَضْمِيحٌ - چاشت کے وقت کھانا [چاشت

کے وقت فوج کرنا۔] عن [تاخیر کرنا۔]

تَضْمِيحٌ - قربانی (مالی یا بدنی)

تَضْمِيحٌ - حرکت کرنا۔

تَضْمِيحٌ - مثل بد حال کسی۔ سستی۔ تنگ۔ جہ۔

تَضْمِيحٌ - تھوڑا۔

تَضْمِيحٌ - خون آلودہ ہونا۔ کلی کا کھلنا۔ رخسارہ کا

سرخ ہو جانا عورت کا اپنی زیب زینت

دکھانا۔

تَضْمِيحٌ - نقصان پانا۔

تَضْمِيحٌ - ذلیل ہونا۔ سایہ کا پھرتا [انی] خدا تعالیٰ

کے سامنے مجھ و دنیا ظاہر کرنا اور اس سے

حاجت مانگنا۔

تَضْمِيحٌ - شیر بننا۔ ولیہ ہونا۔

تَضْمِيحٌ - آگ کا بھڑکنا۔ خفت سے بھڑکنا۔

تَضْمِيحٌ - بہت ماننا۔ برا کیجئے کرنا [ایک چیز

کو دوسری چیز میں خلط کرنا] یہیں [لوگوں

کے درمیان لڑائی ڈالنا۔

تَضْمِيحٌ - مہرے گوز کی آواز نکالنا۔ کسی سے گوز

کروانا۔

تَضْمِيحٌ - آگ کو بھڑکانا۔

تَضْمِيحٌ - عاجز و تیار نہ ہونا۔

تَضْمِيحٌ - کمزور جانا۔ کسی بات کو کمزور کرنا۔

تَضْيِيقُ - تنگ ہونا۔

تَضْيِيقُ - دودھ کو پانی میں ملانا۔

تَضْيِيقُ - بیکار اور تنگ کر دینا۔ بغیر سرپرست کے چھوڑنا۔

تَضْيِيفُ - کسی کا مہمان ہونا۔ رحم کھانا۔ ترس کھانا۔ چھکنا۔ چھکنے یا کتاب کا غروب کے قریب ہونا۔

تَضْيِيقُ - تنگ کرنا۔ کسی پر تنگی کرنا۔

## ت - ط

تَطَابُقُ - اتفاق کرنا۔

تَطَامُدٌ - ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔

تَطَامُشٌ - بہ تکلف بہرا بننا۔

تَطَامُحٌ - دونوں کا ایک دوسرے کے پیچھے چلنا۔

تَطَاطُؤٌ - سر کو بےست کرنا اور جھکا دینا۔

تَطَاعَمٌ - فرکیو تر کا اپنا منہ کی بوتری کے منہ میں اٹھل کرنا۔

تَطَاعُنٌ - ایک دوسرے کو نیرہ مارنا۔

تَطَالُكٌ - دور کی چیز دیکھنے کے لئے گردن لمبی کرنا۔

تَطَاوُحٌ - جب [دور] ڈال دینا۔ جھگڑا کرنا۔

تَطَاوُعٌ - اطاعت کرنا۔

تَطَاوُلٌ - دیکھنے کے وقت گردن لمبی کرنا۔ گردن کٹی کرنا۔ جھکی کرنا۔ بلند ہونا۔ زیادہ ہونا۔ عمارت کی بلندی پر فخر کرنا۔

تَطَبُّحٌ - کسی کی خصلت اختیار کرنا۔ برتن کا پیر ہونا۔ خلاف طبع کام کو بہ تکلف کرنا۔

تَطَبُّقٌ - بند ہونا۔ ڈھکا ہونا۔ کسی سے متفق ہونا۔

رُغْلٌ [کسی چیز کے لئے ڈھکنا] بن جانا۔

تَطْبِيقُ - برتن چڑھ کرنا۔ برتن بچس کرنا۔ سواری کو

ریاضت کرنا اور مطیع بنانا۔

تَطْبِيقُ - ساری چیز کو اپنے اندر لے لینا۔ ڈھک لینا۔ گھورتے کا چلنے میں اور دوڑنے میں

سب پر سب رکھنا۔ برابر کرنا۔ موافق کرنا۔

تَطْبِيلٌ - ڈھول بجانا۔

تَطْرِبٌ - راگ گانا۔ خوشی میں آنا۔

تَطْرِيذٌ - کپڑے کا نقش دار ہونا۔

تَطْرِيْبٌ - خوشی میں لانا۔ راگ گانا۔ آواز کا چھٹا کرنا [معن] پھر جانا۔

تَطْرِيْبَةٌ - تروتازہ کرنا۔ کپڑے کو فر کرنا۔ خوشبو سے

دوسری چیز کو مضر کرنا۔ کسی چیز کو خوشبو میں بسانا

تَطْرِيْعٌ - ڈال دینا۔ ڈور کرنا۔

تَطْرِيْدٌ - کسی کو دور کرنے کا حکم دینا۔

تَطْرِيْزٌ - کپڑے کو نقش دار کرنا۔ زردوزی کا کام کرنا

تَطْرِيْفٌ - لشکر کے کنارے پر مارنا۔ جنگ میں دشمن کو

پھیر دینا۔ دانت گرہنے۔ عورت کا اپنی انگلیوں کو منہ ہی سے رگھنا۔

تَطْرِيْقٌ - کسی کے لئے راستہ بنانا۔ لوسہ کو پتلا اور

لہا کرنا۔

تَطْسِيْسٌ - [ب] انکار کر کے پھر اقرار کرنا۔ دنیا کی سیر

سیاحت کرنا۔

تَطْعَمٌ - چکھنا۔

تَطْعِيْمٌ - ایک درخت کی شاخ کا دوسرے درخت کی

شاخ میں پیوستہ لگانا۔ بڈی کا پڑ مغز ہونا۔

(د) ٹیکہ لگانا۔

تَطْعَمٌ - رُغْلٌ [اسے] آپ کو بہ تکلف یہ وقت ظاہر

کرنا۔

تَطْفُلٌ - بن بلائے دعوت کھانے کے لئے پہنچا۔ طفلی

ہوتا۔ بچوں کی عادتیں اختیار کرنا۔

تَطْفِيح - برتن کو بریز کرنا۔  
تَطْفِيْف - پیمانے سے کم ناپنا۔ پرندہ کا اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلاتا۔  
تَطْفِيْل - بن بلائے دعوت میں جانا۔ کلام کی حقیقت دریافت کرنا۔  
تَطْلِبُ - مسلسل تلاش کرنا۔ تلاش کرنا۔  
تَطْلِسُ - مٹ جانا۔  
تَطْلَحُ - واقف اور آگاہ ہونا۔ ناز و ادا سے چلنا۔ پیمانہ کا پر ہونا۔ منتظر ہونا۔  
تَطْلُقُ - خنہ پیشانی سے پیش آنا۔  
تَطْلِيءُ - کھیل کود اور عیش و عشرت میں مصروف رہنا۔ آلودہ ہونا۔  
تَطْلِيَّةٌ - گانا۔ قید کرنا۔ گالیاں دینا۔ اونٹوں پر قطر ان ملنا۔  
تَطْمَسُ - لکھے ہوئے کا مٹ جانا۔ چھپ جانا۔  
تَطْمَمُ - حریص ہونا۔  
تَطْمِيحُ - گھوڑے کا اپنے اگلے پاؤں اٹھانا۔ زب (پھینکنا)۔  
تَطْمِيْرُ - لپینا۔ گھر کے پورے ٹکانا۔  
تَطْوَاتُ - وہ کپڑا جس میں طواف کیا جائے۔  
تَطْوِيْحُ - جہان میں سرگرداں پھرنا۔ مارا مارا پھرنا۔ گرتا۔  
تَطْوِيْسُ - تبدیلی۔ انقلاب۔  
تَطْوِيْسٌ - عورت کا اپنے آپ کو مزین کرنا۔  
تَطْوِيْعُ - بلور خود بخود ٹپکے پیش کرنا۔ نفل نماز پڑھنا یا نفل روزہ رکھنا یا صدقہ دینا [قی] [شکر میں بھرتی ہونا۔  
تَطْوِيْفٌ - کسی چیز کے گرد پھرنا۔  
تَطْوِيْقٌ - گردن میں طوق پہننا۔

تَطْوَل - لمبی رسی جس سے چوپایہ کو چرنے کے لئے بانڈیں رسی جس سے چوپایہ کے پاؤں بانڈیں جڑیں۔  
تَطْوَلٌ - وعلیٰ [احسان کرنا۔ اپنی طرف سے زیادہ نینا سانپ کا حلقہ مار کر بیٹھنا۔  
تَطْوِيْحٌ - آوارہ پھرانا۔ ادھر ادھر لے جانا۔ ہلاک کرنا کسی کو ایسی جگہ بھیجنا کہ وہاں سے آ کر سکے حرم و حوا میں مبتلا کر دینا [زب] خطرناک میدان میں جانے کے لئے آمادہ کر دینا حیران و پریشان کرنا۔  
تَطْوِيْعٌ - حکم کو قبول کرنا۔ مدد کرنا۔ قدرت دینا۔ آسان کرنا۔  
تَطْوِيْفٌ - کسی چیز کے گرد پھرنا۔  
تَطْوِيْقٌ - گردن بند پہننا نکلے میں طوق ڈالنا کسی چیز کی تکلیف دینی ایسی چیز ذمہ کرنا جو طاقت سے زیادہ ہو۔ قدرت دینا نفس کا اجازت دینا۔  
تَطْوِيْلٌ - چراگاہ میں چوپایہ کی رسی دراز کرنا۔ مہلت دینا۔ لمبا کرنا۔  
تَطْوِيْرٌ - پاک ہونا حیض وغیرہ کے بعد عورت کا غسل کرنا۔ ہر گناہ اور مہل بد سے پرہیز کرنا بچنا۔  
تَطْوِيْلٌ - پانی کا رنگ مزہ بدل جانا۔  
تَطْوِيْمٌ - کھانے کو مکروہ سمجھنا۔  
تَطْوِيْرٌ - پاک کرنا۔ دھوتا غفلت کرنا۔  
تَطْوِيْحٌ - موٹا ہونا۔  
تَطْوِيْبٌ - (صن) خوش مزہ اور پاکیزہ ہونا۔ حلالی ہونا۔ زب [خود کو خوشبو میں بسانا۔  
تَطْوِيْحٌ - (برائی مٹانا) آلودہ ہونا۔  
تَطْوِيْرٌ - بڑی فال لینا۔

تَطَيَّبُ - مٹی سے لپینا، رب، مٹی سے آلودہ ہونا۔  
 تَطْيِيبٌ - پاک پانا۔ خوش کرنا۔ جلال و پاکیزہ  
 بنانا۔  
 تَطْيِيرٌ - اڑانا۔ حصے حصے تقسیم کرنا۔  
 تَطْيِيفٌ - بہت طوائف کرنا۔  
 تَطْيِيزٌ - مٹی سے لپینا۔

## ت - ظ

تَخَالُمٌ - آپس میں ظلم کرنا۔  
 تَخَاهُلٌ - آپس میں مدد کار ہونا۔ بیٹھ کے بل کرنا۔  
 تَخَطُّرٌ - بہ تکلف عقل مند بننا۔  
 تَطْيِيرٌ - فرج دلانا۔ ناخوش گھسانا  
 تَطْتَلٌ - سایہ میں آنا۔  
 تَطْلُمٌ - کسی کا حق کم کرنا۔ کسی کے ظلم کی شکایت  
 کرنا۔ ظلم برداشت کرنا۔  
 تَطَلِّيٌ - سایہ کو ادرتن آسانی کو لازم پکڑنا۔  
 تَطْيِيٌ - گمان کرنا۔  
 تَطْمَسٌ - دوپہر کو کہیں جانا۔ شوہر کا بیوی کو آنت  
 عتیقہ کٹھنہ اُچی کنا (یعنی تو بھر پر  
 میری ماں کی پشت کی طرح ہے)۔  
 تَطْيِيرٌ - جھول جانا۔ دوپہر کے وقت میں داخل  
 ہونا۔ دوپہر کو کہیں جانا (من) مرد کا اپنی  
 بیوی کو آنت عتیقہ کٹھنہ اُچی کرنا۔

## ب - ع

تَعَاثُبٌ - آپس میں ایک دوسرے پر ہنسنے کرنا۔ ناز  
 کرنا۔  
 تَعَاجُلٌ - آپس میں دوڑنا  
 تَعَاجِيبٌ - انوکھی اور نادر چیزیں (اس کا دامن میں

ہے)۔  
 تَعَاوُجِي - دور ہونا، اختلاف ہونا۔ آپس میں دشمنی  
 کرنا۔ ایک کا دوسرے کے بعد مچانا۔  
 دوزخ میں مقابلہ کرنا۔ تاہم وار جگہ تباہی  
 دوری۔ فساد۔  
 تَعَاوُزٌ - بیدار رہنا۔ رات کو کڑی میں بدلتے اور  
 کراتے کاٹنا۔  
 تَعَاوُجٌ - ننگڑا کر چلنا۔  
 تَعَاوُزٌ - منقبض ہونا۔ زچ بچ ہونا۔  
 تَعَاوُفٌ - ایک دوسرے کو جاننا اور سچا بننا۔  
 تَعَاوُزِيٌ - ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔  
 تَعَاوُسٌ - سخت اور مضبوط ہونا۔ دشوار ہونا۔  
 ملتوی ہونا۔ آپس میں دشواری کرنا۔  
 تَعَاوُشٌ - لوگوں کا آپس میں جتنا جتنا۔ بڑھ چل کر رہنا۔  
 تَعَاوُشٌ - آپس میں ایک دوسرے کا عاشق ہونا۔  
 عشق بازی کرنا۔  
 تَعَاوُصٌ - ایک دوسرے کو مزے کاٹنا۔  
 تَعَاوُصٌ - آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا۔  
 تَعَاوُصٌ - تکلف چھینکنا۔  
 تَعَاوُطٌ - چلنے میں سر ہلانا۔ آہستہ چلنا۔ ناز سے  
 چلنا۔ آپس میں مہربان ہونا۔  
 تَعَاوُطِيٌ - ہاتھ میں لینا۔ کسی چیز کو ناحق لینا کسی  
 معاصرین وغیرہ کے ساتھ گھسنا۔ پکڑنے  
 میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا۔  
 کسی چیز کی طرف پاؤں کی انگلیوں پر پھرتے  
 ہو کر ہاتھ لہا کرنا۔ ایک کام کا مرتکب ہونا  
 یا نیک کرنا۔  
 تَعَاوُطٌ - کسی سے بڑا ہونا۔  
 تَعَاوُصٌ - ہاتھ کشی کرنا۔ ایک دوسرے کو پھانسا

تَعَابِيَّة - لشکر کا سامان تیار کرنا - لشکر کو جنگ کے لئے تیار کرنا - لشکر کی صفیں قائم کرنا -  
تَعَبِيَّة - غلامی میں لینا - تابعدار کرنا - ذلیل و خوار رکھنا  
تَعَبِيَّة - غلامی میں لینا - تابعدار کرنا - ذلیل و خوار رکھنا  
تَعَبِيَّة - خواب کا مطلب بیان کرنا - پارا ترنا  
تَعَبِيَّة - بات کو بیان کرنا - بیان کی طرف سے یا اپنی طرف سے بات کرنا -  
تَعَبِيَّة - ترش روئی کرنا -  
تَعَبِيَّة - گلا کا ٹٹا -  
تَعَبِيَّة - آپس میں عقدہ کرنا - ناز سے خطاب کرنا -  
تَعَبِيَّة - عیب بیان کرنا -  
تَعَبِيَّة - کسی بات پر اصرار کرنا - اسے بار بار دہرانا -  
تَعَبِيَّة - بیوقوف ہو جانا - پاگل ہو جانا -  
تَعَبِيَّة - مغرور ہونا - سرکش ہونا -  
تَعَبِيَّة - آمادہ کرنا - تیار کرنا - مہیا کرنا -  
تَعَبِيَّة - پورا کرنا - بوڑھا کرنا -  
تَعَبِيَّة - دودھ دینا - دیر کرنا - عشاء کے وقت جانا -  
تَعَبِيَّة - لغزش کرنا - سرکے لمبے گر پڑنا - کلام میں زبان کا لغزش کرنا - لڑکھڑانا -  
تَعَبِيَّة - کھجور کی بیڑ کا بہت خورشید دار ہونا -  
تَعَبِيَّة - فریب دینا - فتنہ میں ڈالنا - منہ چنبھا کرنا -  
تَعَبِيَّة - گھر کا دھوئیں سے بھر جانا -  
تَعَبِيَّة - زعلی [ اپنے آپ کی بڑائی کرنا کسی کے ساتھ زور کرنا -  
تَعَبِيَّة - جلدی کرنا - دھڑلانا -  
تَعَبِيَّة - گوندھا جانا - اونٹ کا مڑنا ہونا -  
تَعَبِيَّة - کسی کو تعجب یعنی اچھٹے میں ڈالنا -  
تَعَبِيَّة - چہرہ کو ٹیڑھا کرنا -

تَعَابٍ - بچھا کرنا -  
تَعَابٍ - آپس میں عہد و پیمانہ کرنا -  
تَعَابٍ - عقل مند بننا یعنی خود کو عقل مند ظاہر کرنا -  
تَعَابٍ - اور عقل نہ رکھنا - خون بہا اور دیت کو آپس میں بانٹ لینا -  
تَعَابٍ - اُد (اسم فعل) -  
تَعَابٍ - آپس میں جانا -  
تَعَابٍ - بہت بلند ہونا - چڑھنا - کسی کے اوپر آنا  
تَعَابٍ - اندھا بننا -  
تَعَابٍ - محبت میں ایک دوسرے کی گردن میں ہاتھ ڈالنا -  
تَعَابٍ - (لڑائی میں) ایک فریق کا دوسرے فریق کی طرف پلٹ کر آنا -  
تَعَابٍ - ایک دوسرے کی مدد کرنا -  
تَعَابٍ - جمع ہونا - اکٹھا ہونا -  
تَعَابٍ - غم خواری اور خبر گیری کرنا - حفاظت کرنا -  
تَعَابٍ - نیا عہد یا پیمانہ کرنا -  
تَعَابٍ - ایک دوسرے کا عیب بیان کرنا -  
تَعَابٍ - بل جل کر بیکرنا - رہتا رہتا -  
تَعَابٍ - [ب] کام میں عاجز نہ جانا [و] کام کا دشوار ہو جانا -  
تَعَابٍ - تکان - مشقت - پریشانی - محنت - مص [و] تھک جانا - محنت کرنا -  
تَعَابٍ - تھکا ہوا - ماندہ -  
تَعَابٍ - خدا تعالیٰ کی پرستش کرنا - کسی کو اپنا غلام بنا لینا - عبادت میں تکلف کرنا - اونٹ کا سرکشی کرنا - اونٹ کو اتنا ڈانٹنا کہ عاجز اور تھک ہوا اور تھک جائے -  
تَعَابٍ - ناخوش اور ترش رو ہونا - منہ بگاڑنا -

تَعَذِّيبُ - شگفتگی میں کھینچنا۔ سزا دینا۔ سخت تکلیف دینا۔	تَعَجُّبُ - گھرو وغیرہ کو دھوس سے بہنا۔ ہوا کا غبار کو اٹھانا۔
تَعَذِّیْرُ - کسی کے لئے کوئی نڈر ثابت نہ ہونا۔ عذر بیان کرنے میں مبالغہ کرنا۔ بجا سرت میں آلودہ کرنا۔ گھر کے نشانات مٹانا۔	تَعَجِّیْرُ - روک دینا۔ دیر لگانا۔ کسی کو عاجز کرنا۔ بہت بوڑھا ہونا۔ گلاب سربس ہونا۔
تَعَذِّیْلُ - ملامت کرنا۔	تَعَجِّیْفُ - کھانے سے خود کو باز رکھنا۔
تَعَذِّیْبُ - جنگل میں سکونت اختیار کرنا۔ صحسرائی ہونا۔ عرب کے ساتھ مشابہت پیدا کرنا۔	تَعَجِّیْلُ - جلدی کرنا۔ جلدی کرنے کا حکم دینا۔ آگے نکل جانا۔ شوق دلانا۔ قیمت بہت جلد دینا۔ گوشت کو جلد پکانا۔ کسی کو بہت جلد پکڑنا۔
تَعَدُّجُ - [علی] کہیں رہنا سستا۔ ٹھہر جانا۔ ادھر ادھر بھگانا۔	تَعَجِّیْمُ - عجیبی زبان میں بات کرنا۔ حروف پر نقطہ دینا۔
تَعَدُّدُ - سخت دشوار ہونا۔ منقبض ہونا۔	تَعَدُّفُ - تھوڑا چکھنا۔
تَعَدُّسُ - بیوی سے محبت رکھنا اور اس پر رخصت ہونا۔	تَعَدُّی - حد سے باہر نکل جانا۔ متعدی ہونا [علی] کسی کے حق پر دست اندازی کرنا۔
تَعَدُّشُ - کسی چیز سے لپٹ جانا۔ چرٹ جانا۔	تَعَدُّیْتہ - کسی کام سے کسی کو پھیر دینا۔ جائز رکھنا نافرمان کرنا۔
تَعَدُّضُ - کسی کے آگے آنا۔ ظاہر ہونا [لی] درپے ہونا۔ مخالفت کرنا۔ تردید کرنا۔	تَعَدُّیْدہ - کسی چیز کے لئے ساز و سامان بنانا۔ آخر تک شمار کرنا۔ بہت مال جمع کرنا۔ شمار کرنا۔ خطرہ میں لانا۔
تَعَدُّوُ - کسی چیز کو اس حد تک تلاش کرنا کہ وہ مل جائے اور شناخت کرنی جائے۔ پہچان کا خواہاں ہونا۔	تَعَدُّیْلُ - سیدھا کرنا۔ گواہ کی سچائی بیان کرنا۔ ترازو کو برابر کرنا۔ کام کو ٹھیک طور پر انجام دینا۔
تَعَدُّوُ - کسی چیز سے پھر جانا۔ جیلہ کرنا۔ لومڑی کے مانند بنانا۔	تَعَدُّیْنُ - کان کنی (د)
تَعَدُّوُ - بڑی سے گوشت کو جھانکنا [علی] تکبر کرنا۔ اترانا۔	تَعَدُّدُ - کام کا دشوار ہونا۔ عذر اور درجہ بیان کرنا بھاگ جانا۔ مضبوط ہونا۔ گھس کے نشانات کا مرٹ جانا۔ چپھے رہنا۔ نجاست میں آلودہ ہونا۔
تَعَدُّوُ - برعزت ہونا خالی ہونا۔	تَعَدُّلُ - ملامت مستیوں کرنا۔
تَعَدُّیْبُ - کلام عجیب کو عربی کرنا۔ صاف صاف بات کہنا [علی] جھلکا کرنا۔ ملامت کرنا۔	

[عن] کسی کی طرف سے ہونا۔ وکالت کرنا۔

تَعْرِیۃ - تبرہ کرنا۔  
تَعْرِیۃ - جھکا دینا۔ ٹھہرا دینا۔ سورج غروب ہونے کے وقت میں داخل ہونا۔

تَعْرِیۃ - اوچھا اٹھنا۔ بھاگنا۔  
تَعْرِیۃ - آخرات میں اُترنا۔  
[لِبَیۡتِہٖ] التَعْرِیۃ - ایک رات ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے اور سو گئے تھے۔

تَعْرِیۃ - غلطی کا نام کاسخت اور دشوار ہونا کسی پر کلام کا مفہوم مشتبہ اور مشکل ہونا۔  
تَعْرِیۃ - بھڑپے کے رات کو شکار ڈھونڈنا۔  
تَعْرِیۃ - بوسونگھنا۔  
تَعْرِیۃ - ظلم کرنا [عن] بے راہ چلنا۔ راستے سے کھٹانا۔

تَعْرِیۃ - گھر کی چھت بنانا۔ انگوڑی کی پیل کے لئے ٹٹی بنانا۔ لکڑی کا مکان بنانا۔

تَعْرِیۃ - حریف ہونا چیلنا [اعلیٰ] اصرار کرنا۔  
تَعْرِیۃ - دشوار کرنا۔ خلافت کرنا۔ بائیں طرف سے آنا۔

تَعْرِیۃ - جالی دار کھڑکی (د)  
تَعْرِیۃ - اونٹ پر خوب سواری کرنا۔ گوشت کوز سوکھنے کے لئے لٹکانا۔

تَعْرِیۃ - تھکا دینا۔  
تَعْرِیۃ - شہد سے کھانا تیار کرنا۔ شہد کا قودہ دینا۔ شہد کی کھیوں کا شہد جمع کرنا۔

تَعْرِیۃ - بات صاف صاف نہ کہنا۔ کنایہ میں کہنا۔ خلافت تصریح چھوڑ کرنا۔ پیٹھ کرنا۔

تَعْرِیۃ - اونٹ کا ترگھاس کو کھا کر موٹا ہو جانا۔  
تَعْرِیۃ - عشق کرنا۔  
تَعْرِیۃ - خشک ہونا۔

تَعْرِیۃ - پھینا دینا۔ آگاہ کر دینا۔ عرفات میں ٹھہرنا۔ اسم نکرہ کو معرفہ کرنا۔ خوشبودار کرنا۔

تَعْرِیۃ - رات کا کھانا کھانا۔ شب کو رہنا۔  
تَعْرِیۃ - زمین کا سہرہ گھاس کو اُگا کرنا۔  
تَعْرِیۃ - رات کا کھانا کھانا۔ رات کے وقت اونٹوں کو چرانا۔

تَعْرِیۃ - مال تجارت کا بیجک (د)  
تَعْرِیۃ - پسینہ نکالنا کسی پینے کی چیز میں، طمانا۔

تَعْرِیۃ - لوگوں کے حال میں سے وسواں سے لینا۔  
تَعْرِیۃ - اونٹنی کے حمل پر دس ماہ گزر جانے۔  
تَعْرِیۃ - پردہ کا گھونسل بنانا۔ درخت کا ہار یک تنے والا اور کم شاخوں والا ہونا۔

تَعْرِیۃ - غیر حاضری کو طویل کرنا۔ چراگاہ کی طرف دور جانا۔  
تَعْرِیۃ - مصیبت زدہ کو مبرک ہدایت کرنا۔  
تَعْرِیۃ - طامت کرنا۔ ادب دینا۔ تعظیم کرنا۔ مدد کرنا۔ طاقتور بنانا۔

تَعْرِیۃ - عورت دینا۔ قوی کرنا۔ دشوار کرنا۔

تَعْرِیۃ - عورت دینا۔ قوی کرنا۔ دشوار کرنا۔

تَعَطُّش - پیاسا کرنا۔ پانی سے روکنا۔	تَعَصُّ - (س) بہت چلنے سے ٹھوں کا دکھ جانا۔
تَعَطُّب - کپڑے کو لمبائی میں پھاڑنا	تَعَصَّب - سر پرچی باندھنا۔ اپنے گروہ کی حمایت کرنا
تَعَطُّبِل - خالی کرنا۔ صنایع کرنا۔ نکما کرنا۔ زیور اتار لینا (د) کسی کام کو وقت میں لے کے بند کر دینا۔	کسی چیز پر قناعت کرنا اور اس پر راضی ہونا۔ بھوک کی شدت سے کمر باندھنی۔
تَعَطُّبِن - چوپایوں کی خراب گاہ پانی کے قریب بنانا	تَعَصَّر - بخور اچھانا [ب] کسی کی طرف پناہ لینا
اونٹوں کا اپنی آرام گاہ میں سیراب ہونا۔ کھال کو دباغت دینا تاکہ اس کے بال صاف ہو جائیں۔	تَعَصَّص - کسی کے رنگ میں رنگا جانا۔
تَعَطُّم - رات کا تاریک اور بہت سیاہ ہونا۔	تَعَصَّصِي - کام کا دشوار ہونا۔ سخت ہونا۔
تَعَطُّم - بڑا بننا۔ بیکر کرنا۔	تَعَصَّيْب - سر پرچی (عصایہ) باندھنا۔ کسی کو عصبہ قرار دے کر میراث دینا۔ سردار بنانا جبکہ رکھنا۔ ہلکا کرنا۔
تَعَطُّب - تاخیر میں ڈالنا۔	تَعَصَّبُو - عصر کے وقت میں داخل ہونا۔ لڑکی کو حیض آنا اور اس کا بالغ ہوجانا۔ بار بار پھوٹنا۔
تَعَطُّبِل - کسی کے مارے کے لئے ہجوم کرنا۔	تَعَصَّبِل - دیر کرنا۔
تَعَطُّبِم - بڑا سمجھنا۔ کسی بڑے معاملہ میں حصہ لینا	تَعَصَّبِل - عورت کا نکاح سے زبردستی باز رکھنا۔
کسی حیوان کی بڑی بڑی کاٹنا۔ (د) فرجی سلام۔	مُجِب کی کثرت اور ہجوم کی وجہ سے جگہ کا تنگ ہونا۔ بچہ کا دشواری سے پیدا ہونا
تَعَصَّر - خاک میں لوٹنا۔	کام کا مشکل ہونا۔
تَعَصَّرَت - دیوبننا۔ دیو ہونا۔ چالاک اور شریر ہونا۔	تَعَطَّر - خوشبودار ہونا۔ عطر ملنا۔ عورت کا اپنے ماں باپ کے گھر رہنا اور نکاح نہ کرنا۔
تَعَصَّف - حرام سے رکن۔ سوال کرنے سے رکا رہنا	تَعَطُّش - بے تکلف پیاسا بننا۔
پاک دامن بننا۔ باقی ماندہ دودھ کو دوہنا اور پینا۔	تَعَطَّف - (اپنے اوپر چادر) اٹھانا۔ مہربانی کرنا۔
تَعَقُّق - [ب] کسی کے ساتھ پناہ پکڑنا۔	تَعَطَّل - عورت کا بغیر زیور کے رہ جانا۔ مزدور کا بیکار ہونا۔
تَعَقَّن - بہت سرط جانا اور خراب دیوبلوار ہو جانا۔	تَعَطَّن - اونٹوں کا پانی پی کر سو جانا۔
تَعَقُّقِي - مٹ جانا۔ نیست و نابود ہوجانا۔	تَعَطَّقِي - بخشش اور عطا چاہنا۔ برے اور ذلیل کام کو شروع کرنا۔ برے کام کا مرتکب ہونا۔ جلدی کرنا۔
تَعَقِّيَّة - مٹانا۔ اچھا کر دینا۔	تَعَطُّبِي - درست کرنا۔
تَعَقُّبِر - خاک میں لوٹنا۔ دھوپ میں گوشہ نشین	تَعَطُّبِيَس - کسی کو چھینک دلانا۔



تَعَكُّبٌ - غم اور رنج کا پیش آنا۔  
 تَعَكَّنٌ - پیٹ کا شکنتوں سے بھرا ہوا ہونا۔  
 کسی چیز کا تہ بہہ ہونا۔  
 تَعَكَّزٌ - [وعلى] عکاز پر ٹیک لگانا (عکاز وہ عصا جس میں لوہے کا پیکان لگا ہوا ہو)۔  
 تَعَكَّرٌ - تلخٹ کو ملانا۔ پانی کو گدانا۔ میلان کرنا۔  
 تَعَكِّيفٌ - موتیوں کو رسی میں پرونا۔ بال بٹنا۔  
 [وعن] کسی کو کسی چیز سے روک دینا۔  
 تَعَلَّقٌ - کسی چیز کے ساتھ لگ جانا اور لٹک جانا [ب] دوست رکھنا۔  
 تَعَلَّلٌ - بہانہ کرنا [ب] بیوی کے ساتھ کھیل کرنا۔  
 عورت کا ایام نفاس سے فارغ ہونا۔  
 تَعَلَّمٌ - سیکھنا جانا۔ کام کو مضبوط کرنا۔  
 تَعَلَّمَتِ تَعَلَّامَةٌ - بڑا اداانہ ذہین۔ عالم۔  
 لوگوں کے نسب جاننے والا۔  
 تَعَلَّى - آستکی سے اُپر جانا کسی چیز پر چڑھنا۔  
 عورت کا مرض سے صحت یاب ہونا۔  
 تَعَلَّيْسٌ - کھانا کھلانا۔ بیماری کا سخت ہوجانا۔  
 تَعَلَّيْقٌ - [ب] [وعن] لٹکا دینا۔ لگا دینا۔  
 دروازہ بند کرنا۔ مجھولا دوستی کرنا ایک قسم کا خط۔  
 تَعَلَّيْلٌ - بار بار میوہ توڑنا۔ سیراب کرنا۔ مشغول رکھنا۔  
 تَعَلَّيْمٌ - سکھانا۔ آگاہ کرنا۔ [ب] فوجی سپاہیوں کا اپنے اوپر نشانات لگانا۔  
 التَّعْلِيمُ [ب] جباری۔ جبری تسلیم۔  
 تَعَلَّسٌ - قصد کرنا۔  
 تَعَلَّمْتُ - کام میں دورانہ شیج کرنا۔ کلام کی تہ کو پہنچنا۔

سکھانا۔ عورت کا اپنی پستانوں پر کچھ خاک لگانا تاکہ بچہ دودھ پینے سے باز رہے۔  
 تَعْفِينٌ - گوشت کی بڑا اور مزہ کو بدل دینا۔  
 تَعَقَّبٌ - گناہ اور قصور پر مؤاخذہ کرنا۔ شک ہونے کی وجہ سے دوبارہ پوچھنا کسی کے عیب وغیرہ کو ڈھونڈنا۔  
 تَعَقَّدٌ - گاڑھا ہونا۔ گرہ لگانا۔ دھنگ۔  
 (قوس قزح) کا محراب نما ہونا۔  
 تَعَقَّفٌ - مرطنا۔ کچ ہونا۔  
 تَعَقَّلٌ - ہوش مند اور دانا ہونا۔ پاؤں کو موڑ کر ان یا زین پر رکھنا۔ ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پھنسانا۔  
 کھڑے اونٹ پر سوار ہونے کے لئے۔  
 تَعَقَّيْبٌ - کسی کی پشت کی طرف سے آنا۔ مراد رکھنا کسی کام کو دوبارہ کرنا۔ کسی چیز کا بدل لینا [ب] [ب] وورڈ دھوپ کرنا۔  
 تَعَقَّيْبُ الصَّلَاةِ - نماز کے بعد دعا کے لئے بیٹھنا نماز کا استغفار کرنا۔ تراویح کے بعد نماز پڑھنا۔  
 تَعَقَّيْدٌ - خوش دینا اور گاڑھا کرنا۔ بغیر استغفار کے بچہ قسم کھانا۔ کلام کے اندر ایسی لفظی یا معنوی الجھنیں ڈال دینا جو معنی مراد کی سمجھنے میں خلل ہوں۔  
 تَعَقَّيْرٌ - کچ کر دینا۔  
 تَعَقَّيْلٌ - اونٹ کی پٹلی کو دان سے باندھنا کسی کو عقل مند قرار دینا عقل مند بنانا۔ آگور کی پیل کا خوشے نکالنا۔  
 تَعَقَّيْمٌ - ہاتھ کر دینا۔ خاموش کرنا۔

تَعَسَى - رنج کھینچنا۔ کسی کے ساتھ جھگڑا کرنا اور کسی کے لئے دکھ اٹھانا۔	تَعْمَلُ - [ل] کسی کے لئے سنتی کھینچنا۔ خود ہی کسی کام کو اپنے ذمہ لینا۔
تَعْنِيسُ - روٹی کا بغیر نکاح کے مکرر سیر ہوجانا۔	تَعَسَى - اندھا ہوجانا۔
تَعْنِيقُ - کسی کی گردن کو پکڑنا [عربی] چلنا جھانکنا۔	تَعْمِيْتُ - کاتنے کے لئے پڑنی بنانا۔
تَعْنِيْنُ - قاضی کا کسی پر نامردی کا حکم لگانا۔ کتاب کا عنوان لکھنا۔ لگام بنانا۔ نامردی۔	تَعْمِيَّةٌ - اندھا کر دینا۔ شعر کے مطلب کو معنی رکھنا۔
تَعْنِيْتَةٌ - نامردی۔	تَعْمِيْدٌ - رو کو ایک جگہ رو کرنا تاکہ پانی ایک ہی جگہ اکٹھا ہوجائے۔
تَعْنِيْتَةٌ - نامردی۔	تَعْمِيْرٌ - خدا تعالیٰ کا عرصہ دراز تک کسی کو سلامت رکھنا۔ ہمیشہ آباد رکھنا۔ طویل عمر کا عواہل ہونا۔
تَعْنِيْتَةٌ - رنج دینا۔ قیدی بنانا۔ روک رکھنا۔	تَعْمُوْتُ - متحیر ہونا۔
تَعْوَجٌ - ٹیڑھا ہونا۔	تَعْوَجٌ - مسجد میں خدا تعالیٰ کا ذکر کرنا اور علم دین
تَعْوَدٌ - کسی چیز کا عادی ہوجانا۔ مریض کی مزاج پر برسی کے لئے جانا۔	تَعْوَدٌ - اس میں پرٹھانا اور اس میں دنیوی
تَعْوَدٌ - پناہ لینا۔	تَعْوَدٌ - کلام سے باز رہنا اور اس کی شکست
تَعْوَسٌ - عاریت لینا۔ آپس میں نوبت بر نوبت ایک چیز کو لینا۔	تَعْوَسٌ - درخت کی مرمت کرنا اور اس کو پانک
تَعْوَصٌ - بدل لینا۔	تَعْوَصٌ - صاف رکھنا اور چسپارغ وغیرہ سے روشن رکھنا۔
تَعْوَيْحٌ - کچ کرنا۔ ہاتھی دانت لگانا کسی چیز میں۔	تَعْوَيْشٌ - اللہ تعالیٰ کا کسی کی صنعت بصارت کو دور کر دینا [عن] کسی کام سے غفلت برتنا۔
تَعْوَيْدٌ - کسی چیز کا عادی بنانا۔ اونٹ کا بوڑھا ہوجانا۔	تَعْوَيْقُ - گڑھا کرنا [ق] کام میں دورا اندیشی کرنا۔
تَعْوَيْدٌ - کوئی آیت یا دعا جو حصول مقصد یا دفع بلا کے لئے ساتھ رکھیں۔ حفاظت کی دعا کرنا	تَعْوَيْلٌ - مردوری ادا کرنا۔ کسی کو حاکم مقرر کرنا۔
تَعْوَيْدٌ - کاناکہ دینا۔ مٹی سے چٹمہ وغیرہ کو بند کر دینا [عن] باز رکھنا۔ پھیر دینا۔	تَعْوَيْمٌ - سردار بنانا۔ کسی کے صانع یا ہندھا۔
تَعْوَيْصٌ - اپنے قول یا فعل میں ثبات قدم نہ رہنا دشوار فہم کلام کرنا یا شعر کہنا۔	تَعْوَيْصٌ - کسی کو چھاپنا۔ سر پر سہا مہ باندھنا۔
تَعْوَيْصٌ - بدلہ دینا۔	تَعْوَيْصٌ - نام کرنا۔ (د) عام حکم۔ سرکلہ۔
تَعْوَيْصٌ - بدلہ دینا۔	تَعْوَيْسٌ - جھگڑا جو ہے کا اپنے سوراخ میں گھس جانا۔

## ت - ع

تَعَابُنُ - ایک کا دوسرے کو دھوکا اور نقصان دینا۔

تَعَابُنُ (یَوْمُ) التَّعَابُنُ - قیامت کا دن کیوں کہ اس روز اہل دوزخ نقصان میں رہیں گے مجازاً افسوس کا دن۔

تَعَابِي - [عن] غفلت اختیار کرنا۔

تَعَاذُلُ - آپس میں عشق بازی کی باتیں کرنا۔ آپس میں عشق کرنا۔

تَعَاذِي - آپس میں جگ کرنا۔

تَعَاَضِي - آنکھیں بند کرنا تاکہ کچھ نظر نہ آئے۔ [عن] غفلت اختیار کرنا۔

تَعَاُقُلُ - غافل ہونا۔ چشم پوشی کرنا۔

تَعَاَلِي - زرخ کا گراں ہونا۔ گھاس کا بڑھنا اور گنجان ہونا۔ تیر اندازی میں دوری میں مقابلہ کرنا۔

تَعَاَمُزُ - ایک کا دوسرے کو آنکھ سے اشارہ کرنا۔

تَعَاَوُدُ - باہم لوٹ مار کرنا۔

تَعَاَوُظُ - باہم پانی میں غوطہ لگانا۔

تَعَاَوِي - بہ تکلف جاہل بننا۔ ہدی اور گراہی پر جمع ہونا۔ اور اس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا۔

تَعَاَيِبُ - باہم غائب ہو جانا۔

تَعَاَيِدُ - نرمی و نزاکت سے دیرا ہو جانا۔

تَعَاَبُ - ہلاکت۔ میل۔ قسا۔ بھوک (س)

تَعَاَبُ - ہلاک ہونا۔ قاسد ہونا۔

تَعَاَبُو - بچی ہوئی چیز کو لینا۔ بچے ہوئے دودھ کو دوہنا۔ عورت سے لڑکا حاصل کرنا۔

تَعْوِيقُ - [عن] باز رکھنا۔ مشغول رکھنا۔ پھیر دینا۔ تَعْوِيقُ - زور سے رونا۔ چیخنا [علی۔ ب۔ الی] مدد چاہنا۔ پناہ پکڑنا۔

تَعْوِدُ - غم خواری کرنا۔ عہد و پیمانہ کو تازہ کرنا۔

تَعْوِيسُ - اونٹ کا سفیدی اور سیاہی مائل ہونا۔

تَعْوِيسُ - سامان اور ضروریات زندگی فراہم کرنے کے لئے گزارہ (معاش) تلاش کرنا۔

تَعْوِيسُ - [فی المستی] ناز و ادا کے ساتھ چلنا۔

تَعْوِيسُ - نظر بد لگانا۔ کسی چیز کا مخصوص ہونا کسی پر کسی مخصوص چیز کو لازم کرنا۔ کسی کو یقینی طور پر دیکھ لینا۔ (د) کسی خدمت پر مقرر ہونا۔

تَعْوِيسِي - کام میں عاجز رہ جانا۔ کام کو ٹھیک طور پر نہ کر سکتا۔ کام کا دشوار ہونا۔

تَعْوِيبُ - عیب دار کر دینا۔ کسی کو عیب دار کہنا۔

تَعْوِيبُ - عید کے دن جمع ہونا۔

تَعْوِيشُ - زندہ کرنا۔

تَعْوِيسِيلُ - بال بچوں والا ہونا۔ بال بچوں کا خوچ دینا۔ لوگوں کو احسان و سلوک سے بہتر اور اولاد کے نہالینا۔ گھوڑے کو جنگل میں چھوڑ دینا۔

تَعْوِيسِيْنُ - بلا سود کے قرض دینا۔ تمام میں سے ایک چیز کو مخصوص کرنا۔ عین لکھنا۔

تَعْوِيسِيْنُ - موتی میں سوراخ کرنا۔ سرسبز ہونا۔

تَعْوِيسِيْنُ - لڑائی پر اکسانا۔ درخت کا شکوہ دار

تَعْوِيسِيْنُ - ہونا۔ کم قیمت پر دوبارہ خریدنا (د) کسی خدمت پر تقرر کرنا۔

تَغَشِّيٌّ - جماع کرنا۔ ڈھک لینا۔ کام کا کسی کو دبا لینا یعنی کسی اور کام کا نہ رکھنا۔	تَغَشُّمٌ - فریب دینا۔ ظلم کرنا۔
تَغَشِّيَّةٌ - پردہ ڈالنا۔ اندھا کر دینا کسی کو دبا لینا ڈھک لینا۔	تَغَشِّيْقٌ - شام کے وقت دودھ دوہنا۔
تَغَشِّيْمٌ - غنہ میں لانا۔	تَغَشِّيْرٌ - غبار آلودہ کرنا۔ گرداڑانا۔ کام پر کسانا
تَغَشِّنٌ - کھال کا سکر جانا۔ چہرہ میں چھریاں پڑ جانا۔	تَغَشِّيْطٌ - رشک دلانا۔
تَغَطِيٌّ - ڈھک جانا۔ چھپ جانا۔	تَغَشِّيْنٌ - ایک کا دوسرے کو نقصان پہنچانا۔
تَغَطِيَّةٌ - ڈھک لینا۔ چھپا لینا۔	تَغَشِّيْدٌ - قسم کھانا۔ بھگنا۔
تَغَفَقِيٌّ - تمام دن شراب پینا۔	تَغَشِّيٌّ - چاشت کے وقت کا کھانا کھانا
تَغَفَقُلٌ - قصدِ انحراف برتنا۔	تَغَشِّيَّةٌ - چاشت کا کھانا کھانا۔
تَغَفِيْلٌ - کسی کو سبے خیر رکھنا کسی کو مافل سمجھنا۔ احمق کر دینا۔ ڈھکنا۔ چھپانا۔	تَغَشِّيَّةٌ - کھانا۔
تَغَلْبٌ - طاقت کی وجہ سے کسی پر قابو پانا۔	تَغَشِّيَّةٌ - خوراک دینا۔ پالنا۔ رگ سے خون کا جاری ہونا
تَغَلْطٌ - غلطی میں ڈال دینا۔ غلطی میں پڑ جانا۔	تَغَزَبٌ - مغرب کی جانب سے آنا۔ دور جانا۔ جدا ہونا۔ دوری قبول کرنا۔
تَغَلْغُلٌ - تیز چلنا۔ [رفی] کسی چیز میں مشغولت کے ساتھ داخل ہونا۔	تَغَزْدٌ - پرندہ کا آواز کو بلند اور طرب آگیز کرنا یعنی گانا اور چہچہانا۔
تَغَلِّيٌّ - خوشبو لگانا۔	تَغَزِيْعٌ - حلق میں پانی پھلنا یعنی بوغزہ کرنا۔
تَغَلِيْبٌ - غالب کر دینا۔	تَغَزِيْفٌ - کل کا کل لے لینا۔
تَغَلِيْبَةٌ - جوش دینا۔ دور سے اشارہ سے سلام کرنا	تَغَزِيْبٌ - پر دوسری ہوجانا۔ مغرب کی طرف جانا۔ شہر بدر کر دینا۔ دور کر دینا۔
تَغَلِيْسٌ - آخر شب کی تاریکی میں چل دینا۔ اخیر رات کی تاریکی میں پانی پراترنا۔	تَغَزِيْثٌ - بھوکا رکھنا۔
تَغَلِيْطٌ - غلطی کی طرف منسوب کرنا۔ یوں کہنا کہ اس نے غلطی کی۔ یا یہ بات غلط ہے۔	تَغَزِيْبٌ - گانا۔ چہچہانا۔
تَغَلِيْظٌ - کسی چیز کو کسی پر مشکل اور سخت کرنا۔	تَغَزِيْقٌ - ڈبو دینا۔ مار ڈالنا۔ کمان کو زور سے کھینچنا۔
تَغَلِيْفٌ - غلات میں کرنا۔	تَغَزَلٌ - بہ تکلف آپس میں غزل گوئی کرنا۔ عشق بازی کرنا۔
تَغَمُّدٌ - ڈھک لینا۔ چھپانا۔ آنسو بہا کرنا۔	تَغَسُّلٌ - غسل کرنا۔
تَغَمُّدٌ - چہرہ پر زعفران ملنا۔	تَغَسِيْلٌ - بہت جماع کرنا۔ بدن دھونے میں مہا لڑ کرنا۔
تَغَمِيْدٌ - ڈھک لینا۔ پڑ کرنا۔	تَغَسْمٌ - ظلم کرنا۔

تُعْمِيضٌ - آنکھ بند کر لینا - خرید و فروخت میں آسانی کرنا۔  
 تَعْمِيْمٌ - پوشیدہ کرنا۔  
 تَعْتِجٌ - ناز کرنا اور اداسی دکھانا۔  
 تَعْتَمٌ - غنیمت سمجھنا۔  
 تَعْتَمِيٌّ - گانا۔ راگ الاپنا۔ عورت کے ساتھ گانا گولین کرنا۔ مذمت کرنا۔ بے نیاز ہو جانا۔  
 تَعْتِيَّةٌ - راگ گانا۔ عورت کے ساتھ عشق بازی کرنا۔ تعلق کرنا۔ مذمت کرنا۔ کبود کرنا۔ آواز نکالنا۔  
 تَعْتِيْمٌ - کسی کو غنیمت دینا۔  
 تَعْوِطٌ - کسی گٹھے میں جا کر قضاے حاجت کرنا۔ قضاے حاجت کرنا۔  
 تَعْوَلٌ - مشکوٰۃ و بولتھون ہونا۔ ہلاک کرنا۔  
 تَعْوِيَّةٌ - گراہ کرنا۔ دودھ کا دہی بنانا۔  
 تَعْوِيْثٌ - واغوثاۃ۔ کہتا۔ فریاد کرنا۔  
 تَعْوِيْطٌ - گراگنواں کھودنا۔  
 تَعْوِيْرٌ - اپنے حال سے بدل جانا [علیٰ] رشک غیرت کرنا۔  
 تَعْوِيْطٌ - جھجھکانا۔ غصہ کرنا۔  
 تَعْوِيْرٌ - ایک حال سے دوسرے حال پر گردنا۔ ڈٹا دینا۔  
 تَعْوِيْرٌ (و) [علیٰ الجرح] مرہم پٹی کرنا۔  
 تَعْوِيْضٌ - قیمت کم کرنا۔ آسودہ کرنا۔  
 تَعْوِيْطٌ - غصہ میں لانا۔  
 تَعْوِيْجٌ - آسان برا کھود ہونا۔ رات کا ابر کی مانند ہونا۔

تُقَاعٌ - سبب تَقَاعَةٌ ایک سیب جہاں۔ تَقَاعٌ فیجہ تَقَاعٌ۔ بے حیائی کی بات بڑا کہنا۔ بے حیائی اور بدکاری کا حد سے زیادہ ہو جانا۔  
 تَقَاعِيَّةٌ - سیب بیچنے والا۔  
 تَقَاعُحُرٌ - آپس میں فخر کرنا۔  
 تَقَاعِدِيٌّ - ایک دوسرے پر فدا ہونا [من] الگ رہنا۔ دور رہنا۔  
 تَقَاعِرٌ - دگرودہ کا آپس میں ایک دوسرے سے بھاگنا۔  
 تَقَاعِرٌ - پانی کے لئے خاص وقت مقرر کرنا۔  
 تَقَاعِطٌ - رنج و غم زیادتی کے ساتھ پہنچنا۔ عجزوں کا کسی کی طرف بڑھنا۔ دوڑنا۔ کسی چیز کا اتنی دیر میں آنا کہ خواہش مند کو نہ ملے۔  
 تَقَاعِزٌ - جانتیوں کی صفوں میں سے دو شخصوں کا جنگ کے لئے نکلنا۔  
 تَقَاعِيٌّ - مجلس میں کھل کر بیٹھنا۔  
 تَقَاعِصٌ - عزیز داری کے تعلقات توڑ دینا۔ ہانپنا۔ اختلاف واقع ہونا۔  
 تَقَاعِصٌ - بہ تکلف فصیح بننا۔  
 تَقَاعِصٌ - آپس میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہونا۔ آپس میں فضیلت کے اندر مقابلہ کرنا۔  
 تَقَاعِطُوٌّ - سینہ ابھارنا اور پشت کو اندر کی طرف دہانا [من] پیچھے رہنا۔  
 تَقَاعِصٌ - ایک دوسرے کو ٹم کرنا۔  
 تَقَاعِصٌ - کام کا سخت اور دشوار ہو جانا۔  
 تَقَاعِصٌ - ایک کا دوسرے سے الگ ہونا۔ مختلف ہونا۔  
 تَقَاعِصٌ - آپس میں بات چیت کرنا۔ شریک ہونا۔

تَقَاعِيٌّ - گانا۔ راگ الاپنا۔ عورت کے ساتھ گانا گولین کرنا۔ مذمت کرنا۔ بے نیاز ہو جانا۔  
 تَقَاعِيَّةٌ - راگ گانا۔ عورت کے ساتھ عشق بازی کرنا۔ تعلق کرنا۔ مذمت کرنا۔ کبود کرنا۔ آواز نکالنا۔  
 تَقَاعِيْمٌ - کسی کو غنیمت دینا۔  
 تَقَاعِطٌ - کسی گٹھے میں جا کر قضاے حاجت کرنا۔ قضاے حاجت کرنا۔  
 تَقَاعِوَلٌ - مشکوٰۃ و بولتھون ہونا۔ ہلاک کرنا۔  
 تَقَاعِوِيَّةٌ - گراہ کرنا۔ دودھ کا دہی بنانا۔  
 تَقَاعِوِيْثٌ - واغوثاۃ۔ کہتا۔ فریاد کرنا۔  
 تَقَاعِوِيْطٌ - گراگنواں کھودنا۔  
 تَقَاعِوِيْرٌ - اپنے حال سے بدل جانا [علیٰ] رشک غیرت کرنا۔  
 تَقَاعِوِيْطٌ - جھجھکانا۔ غصہ کرنا۔  
 تَقَاعِوِيْرٌ - ایک حال سے دوسرے حال پر گردنا۔ ڈٹا دینا۔  
 تَقَاعِوِيْرٌ (و) [علیٰ الجرح] مرہم پٹی کرنا۔  
 تَقَاعِوِيْضٌ - قیمت کم کرنا۔ آسودہ کرنا۔  
 تَقَاعِوِيْطٌ - غصہ میں لانا۔  
 تَقَاعِوِيْجٌ - آسان برا کھود ہونا۔ رات کا ابر کی مانند ہونا۔

ت - ف

تَقَاعِلٌ - نیک فال لینا۔  
 تَقَاعِلٌ - آپس میں پوشیدہ بات کرنا۔  
 تَقَاعِيٌّ - بہ تکلف جو ان بننا [الی] کسی عالم کے پاس ہانپنا۔ فتویٰ لے جانا۔

لَفْتَاة - کپڑا (د)  
 تَفَرُّج - کھل جانا -  
 لَفْتَق - پھٹ جانا -  
 لَفْتِيح - کھول دینا -  
 تَفْتِيذ - سست کر دینا - ابر کا کھل جانا - ابر کا  
 ٹھہر جانا - ابر کا برسنے کے لئے تیار ہونا  
 تَفْتِيْسِن - تلاش کرنا (د) کسی خفیہ بات کی تحقیقات  
 کرنا -  
 تَفْتِيْسِي - چرنا - کھولنا -  
 تَفْتِيْسِيْت - رُوئی دھننا -  
 تَفْتِيْسِيْن - فتنہ مٹی ڈالنا -  
 تَفْتَا - میل کھیل جو کام حج کے بعد کئے جاتے  
 ہیں جیسے ناخن تراشنا - سر منڈوانا  
 وغیرہ -  
 تَفَجُّج - صبح کا روشن ہونا - پانی کا جاری ہونا -  
 [ب] قیاضی کرنا -  
 تَفْتِيْح - سختی اور غم کی وجہ سے مصیبت زدہ ہونا  
 تَفْتِيْحِيْز - پانی بہانا -  
 تَفْتِيْحِيْم - درد مند اور مصیبت زدہ کرنا -  
 تَفْتِيْسِن - [ع] بیہودہ بننا -  
 تَفْتِيْحِيْس - کسی چیز کی تلاش اور جستجو کرنا -  
 تَفْتِيْسَل - سانڈ کے مشابہ ہونا - درخت کا پھل ہونا  
 تَفْتِيْحِيْم - کسی چیز کو سیاہ کرنا -  
 تَفْتِيْحِيْد - قدم کو قبیلہ قبیلہ کر کے بلانا -  
 تَفْتِيْحِيْم - پھوڑ دینا [دین] متفرق کر دینا -  
 تَفْتِيْحِيْم - تعظیم کرنا - حرف کو بغیر اہل پر پھنا حرف  
 کو پُر پڑھنا -  
 تَفْتِيْدِيَّة - تیرے قربان جاؤں گے -  
 تَفْتِيْدَا - بیع و شرار میں زور زور سے بولنا - کبکیر

کے ساتھ چلنا -  
 تَفَرُّت - متفرق ہو جانا - حاملہ عورت کا بچہ متلانا  
 تَفَرُّج - سیر کرنا - (د)  
 تَفَرُّجَة - شگاف - جہ - تَفَرُّجِيْج  
 تَفَرُّد - تنہا ہونا - یکسو ہونا - کنارہ کشی اختیار  
 کرنا -  
 تَفَرُّس - نشان و علامت کے ذریعے جان لینا -  
 یہ بات دکھانا کہ وہ سواری کا ماہر  
 ہے -  
 تَفَرُّسِن - پرندہ کا کسی چیز پر اترنے کے لئے پردوں  
 کو کھولنا -  
 تَفَرُّع - کسی چیز سے نکلنا - درخت کا بہت  
 شاخ دار ہونا برابر ہونا -  
 تَفَرُّو - ظالم و ستمگہ ہونا - بدخلق ہونا -  
 تَفَرُّوْع - کسی کام سے منٹ جانا - خود کو کسی کام  
 کے لئے ٹھالی کرنا -  
 تَفَرُّوِيْ - جدا ہونا - تتر بتر ہونا -  
 تَفَرُّوِيْح - انگلیوں کا چٹھنا -  
 تَفَرُّوِيْح - فرنگی بننا - فرنگیوں کے عادات و خصائص  
 اختیار کرنا -  
 تَفَرُّوِيْجِيْج - کشادہ کرنا [ع] غم دور کرنا -  
 تَفَرُّوِيْجِيْج - خوش و خرم کرنا -  
 تَفَرُّوِيْدَا - خدا تعالیٰ کے امر و نہی کی محافظت کے  
 لئے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا -  
 گوشہ نشین ہونا -  
 تَفَرُّوِيْسِن - فرش بچھانا - پتھر بچھانا - پرندہ کا اترنے  
 کے لئے بازو پھیلانا -  
 تَفَرُّوِيْسِن - ایک چیز کو تھوڑا تھوڑا جب کرنا اونٹوں میں  
 لڑکے کا واجب ہونا - جدا جدا ہونا -

تَفْصِيل - ظاہر اور بیان کرنا۔ جدا کرنا۔ کتاب اور کلام کو فصل فصل بنانا۔ قصا ایک بکری کے عضو عضو کو الگ کرنا۔

تَفْضُض - متفرق ہونا۔

تَفْضُل [عربی] کسی پر زیادہ ہونا۔ زیادہ دینا بھلائی کرنا۔ اپنے ہمسروں پر فضیلت رکھنے کا دعویٰ کرنا۔

تَفْضِيح - خوب رسوا کرنا

تَفْضِيض - چاندی کا طبع کرنا۔

تَفْصِيل - کسی کو ترجیح اور فضیلت دینا اور اس کے افضل ہونے پر حکم لگانا۔

تَفْطُر - چھنا۔ چرنا۔

تَفْطِير - روزہ کھلانا۔

تَفْطِين - سمجھانا۔

تَفْطَم - کسی چیز کو خراب اور بڑبڑا پانا۔

تَفْقِد - گم شدہ کو تلاش کرنا۔

تَفْقَهُ - سمجھنا۔ فقیہ ہونا۔ عالم ہونا۔

تَفْكَر - سوچنا۔

تَفْكَرَة - نوٹ بک (د)

تَفْجَن - شرمندہ ہونا تعجب کرنا۔ فکر کرنا۔

افسوس کرنا۔

تَفْكَ - میوہ کھانا۔ میوہ سے پرہیز کرنا [ب]

نفع اٹھانا [من] تعجب کرنا۔ پشیمان ہونا۔

تَفْكِت - چھوڑنا۔ راکرنا۔

تَفْكِت - لوگوں کے لئے میوہ لانا۔ لوگوں کو میوہ کھلانا۔ عمدہ عمدہ باتیں کرنا۔

تَفْ - (ن ص) تھوکتا۔ بدبو خورشید نکلنے سے جسم میں پیدا ہوجائے (صفت) نقل

رخسہ ڈالنا۔

تَفْرِيط - صنایع کو دینا چھوڑ دینا۔ حد سے بڑھ کر تفریح

یا بھوکنا [فی] [کوتا ہی کرنا۔] [من] [درگزر کرنا اور چھوڑ دینا۔ فراموش کرنا۔

تَفْرِيع - مسکوں کو ان کی اصل سے نکالنا [فی] [پہاڑ پر چڑھنا] [من] [پہاڑ سے اترنا۔

تَفْرِيع - پانی وغیرہ کو بہانا۔ برتن کو مثالی کرنا۔

تَفْرِيق - تفریق۔ جدا جدا کرنا۔ ڈرانا۔ اپنے حق کو

تَفْرِيق - قسطوں اور وصول کرنا۔ [ج۔]۔ تَفْرِيق

تَفْرِيز - غالب آنا۔

تَفْرِيع - ڈرانا۔ بیخوف کرنا۔ لغات اصدا سے ہے

تَفْرِيح - مکان کا فراخ اور کشادہ ہونا [فی] مکان کو

فراخ کرنا۔ مجلس میں کھل کر بیٹھنا۔

تَفْرِيح - چوسے وغیرہ کا پانی میں ریزہ ریزہ ہونا۔

مردار کے بالوں کا کھال گل جانے کی وجہ سے

الگ اور پراگندہ ہونا۔ اونٹ کا بوجھ کے

نیچے تھک جانا

تَفْسِيح - پیشاب کرنے کے لئے دونوں پاؤں کو کشاؤ

کرنا

تَفْسِيح - کسی کے لئے مجلس میں جگہ کرنا۔

تَفْسِيْد - خراب و تباہ کر دینا۔

تَفْسِيْر - کلام کا مفہوم بیان کرنا۔ ظاہر و نمایاں کرنا

طیب کا تشخیص مرض کے لئے قارورہ

دیکھنا۔

تَفْسِيْق - فسق کی طرف منسوب کرنا۔

تَفْسِي - پھیل جانا۔ زخم کا فراخ ہونا۔

تَفْصَح - عجمی کا عربی میں گفتگو کرنا۔ یہ تکلف فصیح

بننا۔

تَفْصَد - خون جاری ہونا۔ خون بہنا۔

تَقَاتُلُ - آپس میں کشت و خون کرنا۔	تَقَلُّ - تھوک - جھاگ۔
تَقَادُمٌ - پرانا ہونا۔	تَقَلُّجٌ - پرجانا - بچٹ جانا۔
تَقَاتَسٌ - ثبات و قرار اختیار کرنا - دم لینا۔	تَقَلُّدٌ - پھری وغیرہ کا کندھو جانا بشکر کا شکست کھانا۔
تَقَادُبٌ - ایک دوسرے کے نزدیک ہوجانا - ہیت کا پکنے کے قریب ہونا۔	تَقَلُّقٌ - پاس پاس قدم رکھنا - ناز و ادا کے ساتھ چلنا۔
تَقَارُضٌ - جنگ کے اندر نیزوں کا آپس میں مل جانا	تَقْلِيْبَةٌ - سر سے جوئیں تلاش کرنا۔
تَقَارُضٌ - آپس میں شعر پڑھنا - ایک دوسرے کے ساتھ نیکی یا بدی کرنا - ایک دوسرے کی تعریف کرنا۔	تَقْلِيْبٌ - پارہ پارہ کر دینا۔
تَقَارُطٌ - آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کرنا۔	تَقْلِيْسٌ - انلا س کی طرف منسوب کرنا - کسی کے مفلس ہونے کا حکم لگانا۔
تَقَاْسَمٌ - آپس میں بانٹنا - آپس میں قسم کھانا - آپس میں بٹھنا۔	تَقْلِيْلٌ - پھری وغیرہ کو کندھ کر دینا - شکست دینا۔
تَقَاَصُرٌ - کوتاہی کا اظہار کرنا - رکا رہنا۔	تَقْلِيْدٌ - بھٹلانا - طامت کرنا۔
تَقَاَضَى - قرض کا تقاضا کرنا - قرض وصول کرنا۔	تَقْلِيْدٌ - تیلانا [علی] ہمیشہ شراب پینا - ہمیشہ کوئی کام کرنا۔
تَقَاَطُرٌ - کسی چیز کا بار بار ہونا یا آنا - لوگوں کا گروہ گروہ آنا - پانی وغیرہ کا قطرہ قطرہ بہنا۔	تَقْلِيْنٌ - ایجا و کرنا (د)
تَقَاَطِعٌ - دو گروہ کا آپس میں جدا ہوجانا - باہم کٹ جانا۔	تَقْوِيْتٌ - مار ڈالنا۔
تَقَاعُدٌ - [عن] توقف کرنا [ب] کسی کا حق ادا کرنا (د) پنشن لینا۔	تَقْوَاةٌ - کسی جگہ میں اس کے دہانے سے داخل ہونا [ب] بات کرنا۔
تَقَالِيْدٌ - رسوم - رواج (د)	تَقْوِيْنٌ - کسی پر کام بھڑو دینا - بغیر مہر کے عورت دے دینا۔
تَقَاَهٌ - شرط لگانے میں مقابلہ کرنا جو اکیلے۔	تَقِيْبٌ - پھیکا۔
تَقَاَهٌ - آپس میں شرط بد کرنا۔	تَقِيْمٌ - تھوڑا تھوڑا سمجھنا۔
تَقَاَوُلٌ - باہم گفت و شنید کرنا۔	تَقِيْمٌ - سمجھنا۔
تَقَاَيُلٌ - بیع کا معاملہ فسخ کر دینا۔	تَقِيْمٌ - سایہ میں آنا - سایہ کا ٹھہر جانا - سایہ کا ڈھل جانا۔
تَقَاتِبٌ - قبہ میں داخل ہونا۔	
تَقَاتِبُنٌ - اکٹھا ہونا - سکر طبعانا [عن] کوتاہی کرنا۔	
[الحی] کر دنا [علی] مطلع ہونا۔	

## ت - ق

تَقَابُلٌ - آمنے سامنے ہونا - آپس میں رو برو ہونا



تَقْبِيْهِ - کسی کے کام کی پرانی نظر اور بیان کرنا۔ نیکی اور خیر سے دور کرنا۔ آبلہ توڑنا۔ انڈا توڑنا۔	تَقْبِيْهِ - تیار کرنا۔ مہیا کرنا۔
تَقْبِيْض - چیر کر کسی کے قبضہ میں اور کسی کے ہاتھ میں دینا۔ سمیٹنا۔ جمع کرنا۔	تَقْبِيْض - کسی کو پلید سمجھنا۔ کراہت کرنا۔ مکروہ جاننا۔
تَقْبِيْل - بوسہ دینا۔ چومنا۔	تَقْبِيْل - آکھ میں تنکا وغیرہ ڈال دینا۔ اس کو نکال دینا۔
تَقْتَال - (ن) مار ڈالنا۔	تَقْتَال - کسی کے ذریعہ سے نزدیکی ڈھونڈھنا۔
تَقْتَر - عفتہ کرنا۔ رطنے کے لئے آمادہ ہونا دھوکہ دینے کا قصد کرنا [عن] بیکسو مہر جانا۔	تَقْتَر - کوکھ پر ہاتھ رکھنا۔ جلدی کرنا۔
تَقْتِيْت - چھلنے زری کرنا۔ ہانڈی کے مصالحوں کو جمع کر کے پکانا۔	تَقْتِيْت - ٹھہر جانا۔ معین ہونا۔ ثابت ہونا۔ بیان ہونا۔
تَقْتِيْر - اہل و عیال پر خرچ میں تنگی کرنا کسی کو گرد و غبار پر کرنا۔	تَقْتِيْر - لوشٹا۔ کروٹیں بدلنا [عن] باز رہنا۔ پھر جانا۔
تَقْتِيْل - مرد اور انا۔ کثرت سے قتل کرنا۔	تَقْتِيْل - شہر شہر پھرنے۔
تَقْتَحِل - چڑھے کا بڑی پروسکھ جانا۔	تَقْتَحِل - نزدیک کر دینا۔ گھوڑے کا اس طرح دوڑنا کہ دونوں اگلے قدم اکٹھے اٹھائے اور اکٹھے رکھ دے۔
تَقْتَحِم - تکلیف اٹھا کر کسی کام میں گھس جانا گھوڑے کا اپنے مالک کو منہ کے بل گرانے۔	تَقْتَحِم - بھرانہ [ب] اقرار کرنا (د) پرپوٹ تجویز منظور کرنا۔
تَقْتَدِس - پاک ہونا۔	تَقْتَدِس - کسی کی مدح یا جھجیوں شعر کہنا۔
تَقْتَدِه - آگے آنا [الی] وصیت کرنا۔ فرمانا [علی] سبقت لے جانا۔	تَقْتَدِيْط - کسی کے کان میں بالی بنانا۔
(د) ترقی	تَقْتَدِيْظ - حق یا ناحق زندہ آدمی کی توفیق کرنا۔
تَقْتَدِيْمَة - کتاب وغیرہ کسی کے نام منون کرنا (د)	تَقْتَدِيْج - سرزنش کرنا۔ لعنت ملامت کرنا۔ پریشان کرنا۔
تَقْتَدِيْمِي - اپنی روش پر قائم رہنا۔	تَقْتَدِيْمِيْن - ایک چیز کو دوسری سے ملا دینا۔
تَقْتَدِيْر - [ب] اندازہ لگانا۔ سوچنا۔ ایک چیز کو دوسری چیز پر قیاس کرنا۔	تَقْتَدِيْر - میل کچیل سے پاک ہونا۔
[علی] حکم دینا۔ فیصلہ کرنا [ل]	تَقْتَدِيْر - قاصد کو تیز بھیجنا۔ گھوڑے کو تیز دوڑانے کے لئے تیار کرنا۔

تَقْصَبُ - کٹ جانا۔	تَقْوِيَّةٌ - زمیں پر کھینا ڈھینا۔
تَقْوِيَّةٌ - کسی کی حاجت پوری کرنا۔ (تقاضی بنانا۔)	تَقَسَّطٌ - حصہ وصول کرنا۔ (پس میں کسی چیز کے حصے برابر برابر لینا۔)
تَقَطَّرٌ - ٹپکنا۔ گرنا۔ عود کی خوشبو میں بسانا۔	تَقَسَّمٌ - بکھرنا۔ بکھیرنا۔ تقسیم کرنا۔
[ب] پہلو پر گرنا۔ کسی چیز کو کوثر کے رُخ پر گرنا۔	تَقْسِيْطٌ - تقسیم کرنا۔ قسط کر کے قرضہ دینا (علیٰ علیٰ)
تَقَطَّعٌ - ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ چھوٹا ہونا۔	تَقْسِيْمٌ - حصہ حصہ کرنا۔ زمانہ کا لوگوں کو تفرق و
تَقَطِيْبٌ - ٹپکانا۔ قطرہ قطرہ کر کے ٹپکانا۔ پہلو پر ڈال دینا اور ایک گوشہ پر گر ادینا۔	تَقْسِيْمٌ - پریشان کرنا۔
تَقَطِيْبٌ - ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ شعر کو اجراء و عرض پر وزن کرنا۔ ڈیل ڈول۔ سائز۔	تَقْسِيْرٌ - پوست کا اتر جانا۔ پھلنا۔
تَقَطِيْبٌ - میوہ چیننا۔ کسی چیز کو اچانک لینا۔	تَقْسَطٌ - آسمان کا ابر سے صاف ہو جانا۔ لاشی سے بٹ جانا۔
تَقَعْدٌ [عن] کسی معاملہ کو چھوڑ کر بیٹھ رہنا کسی کو اس کی حاجت سے روک دینا۔	تَقْسَحٌ - آسمان کا ابر سے صاف ہو جانا۔ دل کا غم سے ہلکا ہو جانا۔
تَقَعِبٌ - کھو کھلا ہونا۔ تہ میں کھس جانا۔ پلٹ جانا۔	تَقْسِيْرٌ - چھیننا۔
تَقَعِنٌ - دستا نہ پہننا۔	تَقْصَادٌ - گردن بند جہز۔ تقاصیر۔
تَقْفِيٌ - کسی کے پیچھے چلنا۔ پیروی کرنا۔ کسی کو کسی کے پیچھے بھیجنا۔ (کلام مقفیٰ اور کدوائی شعریٰ و جسمیہ ہی ہے کہ ملتے جلتے الفاظ کیے بہت دیکھے تھے میں)	تَقْصَرٌ - چھوٹا ہونا۔ سکڑ جانا۔ ناکافی ہونا۔
تَقْفِيْلٌ - دروازہ میں تالہ ڈالنا۔ (مقفل کرنا) پوست کا خشک ہونا۔	تَقْصَبٌ - بات کو یاد کر لینا۔ پیچھے جانا۔
تَقَلْبٌ - الٹ پلٹ ہونا۔ لوٹنا۔ اپنی مرضی سے کسی کام میں تصرف کرنا۔	تَقْصِيْفٌ - شکستہ ہونا (علیٰ) قوم کا جمع ہونا۔
تَقَلْدٌ - قلابہ پہننا۔	تَقْصَمٌ - ٹوٹ جانا۔
تَقَدَّرٌ - کسی چیز کو نکلنا۔ نکل اور کونجھری کی دہر سے مر جانا۔	تَقْصِيْبٌ - انتہا کو پہنچ جانا۔
	تَقْصِيْبٌ - بالوں کی چوٹی بنانا۔ بالوں کو گھنکھریالا بنانا۔ گالی دینا۔
	تَقْصِيْرٌ - کام میں سستی کرنا۔ کام سے رُک رہنا۔ بکھر جانا۔ کوتاہ کرنا۔ جو چیز قابل میں تہ آئے اس کو چھوڑ بیٹھنا۔
	تَقْصِيْرٌ التَّوْبِ - کپڑے کو کوثر۔
	تَقْصِيَّةٌ - ناخن تراشنا۔ اونٹنی کا قھوڑا سا کان کاٹنا۔

تَقَلُّسٌ - ٹوپی پہننا۔	تَقَنَّصٌ - کر کے باندھنا۔
تَقَلِّسِي - ٹوپی پہننا۔	تَقَنَّصِي - شکار کرنا۔ شکار ڈھونڈنا۔
تَقَلِّصُ - گھم جانا۔ منغم ہونا۔ نزدیک ہونا۔	تَقَنَّحُ - عورت کا دوپٹہ اوڑھنا۔ خود کو کپڑے سے ڈھکانا۔
تَقَلِّكُ - حرکت کرنا۔	تَقَنَّيَ - مال جمع کرنا۔ ذخیرہ رکھنا۔
تَقَلِّسُ - ٹوپی پہننا۔	تَقَنَّيْتُ - نا امید کرنا۔
تَقَلِّيَ - [الحی] دشمنی کرنا [علی] [بھپونے پر] ترپنا۔	تَقَنَّيْعُ - راضی کرنا۔ قائل کرنا۔ ترغیب دینا عورت کو دوپٹہ اوڑھنا۔
تَقَلِّيْبُ - پھراتا۔ پلٹ دینا۔	تَقَنَّيْفُ - کاٹنا۔ ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔
تَقَلِّيْحُ - دانتوں کی زردی دور کرنا۔ دانت مانچھنا۔	تَقَنَّوُسُ - بیڑھا ہوجانا۔ کمان سمیت ہونا۔
تَقَلِّيْدُ - کسی کی گردن میں تلادہ ڈالنا۔ تلوار گلے میں جمائل کرنا۔ کوئی کام کسی کے ذمہ کر دینا۔ قریابی کے جانور کے گلے میں نشان کے طور پر کوئی چیز لٹکانا۔	تَقَنَّوِعُ - اس طرح چلنا جیسے خاردار گلے سے گزرنا۔
تَقَلِّيْسُ - کسی کو ٹوپی پہنانا۔ دف بجانا [ل] کسی کے سامنے قواعد برتنا۔	تَقَنَّوِفُ - روکنا۔ کسی کو بات کہنا۔ سکھانا۔ کسی کی بات پر اعتراض کرنا۔
تَقَلِّيْحُ - بڑے اکھاڑ دینا۔	تَقَنَّوِلُ - افترا کرنا۔ بھوٹا گڑھنا۔
تَقَلِّيْبُ - کم کرنا۔ کم دکھلانا۔	تَقَنَّوِي - قوی ہونا۔
تَقَلِّيْحُ - ناخن تراشنا۔	تَقَنَّوِيَّة - طاقت دینا۔ قوی کرنا۔
تَقَنَّحُ - اونٹ کا سر اونچا کر لینا اور پانی پینے سے روک رہنا۔	تَقَنَّوِيْسُ - بیڑھا ہوجانا۔ بڑھا پانے کے سبب کبڑا ہونا۔
تَقَنَّسُ - جوئے میں جھیننا۔ چاندنی میں باہر نکلتا شکار کو چاندنی رات میں تلاش کرنا۔	تَقَنَّوِيْنُ - اکھاڑنا۔ مہندم کرنا۔
چاندنی رات میں عورت کو گھر میں لانا اور اس سے صحبت کرنا۔	تَقَنَّوِيْلُ - کسی سے وہ بات منسوب کرنی کہ جو اس نے نہیں کہی۔
تَقَنَّصُ - کرتے پہننا۔	تَقَنَّوِيْمُ - سیدھا کرنا۔ قیمت لگانا۔ مول کرنا
تَقَنَّيْصُ - کرتے پہننا۔ کپڑے سے کرتے بیوتنا۔	(۱۵) جِنْتَرِي
تَقَنَّيْطُ - قیدی کے دونوں ہاتھ پاؤں ایک جگہ	تَقَنَّوِيْمُ السَّنَةِ - کلنڈر۔
	تَقَنَّصُ - ایڑیوں کی طرف الٹا چلنا۔ واپس جانا الٹا لوٹنا۔
	تَقَنَّيَ - پدم پریز۔
	تَقَنَّيَ - پدم پریز کا رجم۔ آتقیاء۔
	تَقَنَّيَ - تَقَنَّيَ - (حق) پدم پریز گاری کرنا۔

تَكَارُوه - ناپسند کرنا۔ بڑا سمجھنا۔	تَقِيَّتْ - جمع کرنا۔
تَكَارِي - کرایہ پر لینا۔	تَقِيَّتْ - زخم کا پيپ سے بھر جانا۔
تَكَاشْفْ - عیب کا ایک دوسرے پر آپس میں کھل جانا۔	تَقِيَّتْ - خود کو قید کرنا۔ پابند کرنا۔
تَكَافُوْ - برابر ہونا۔ شکست کھانا۔	تَقِيَّتْ - کسی جگہ موسم گرما گذرنا۔
تَكَاْوْ - بزدل ہونا۔ پیچھے ہٹنا اور علیٰ جمیع ہونا	تَقِيَّتْ - دوپہر کو سونا۔ کسی کے ساتھ مشا بہر ہونا
تَكَاْوْ - آپس میں بات چیت کرنے لگنا۔	تَقِيَّتْ - پانی کا جمع ہونا۔
تَكَامْلْ - تمام و کامل ہونا۔	تَقِيَّتْ - آراستہ ہونا۔ سنوارنا۔
تَكَاْيْ - آپس میں فریب دینا۔ کسی پر کام کا دشوار ہونا۔ سختی اور دشواری۔	تَقِيَّتْ - کوشش کر کے قے کرنی۔ عورت کا خاوند کے پاس آنا۔ اور خود کو اس پر ڈالنا۔
تَكَبُّدْ - ایک چیز کا دوسری چیز کے بیچ میں آنا۔	تَقِيَّتْ - (دو) اکا کسی کو قے کر دینا۔
تَكَبُّدْ - مشقت برداشت کرنا۔ قہر کرنا	تَقِيَّتْ - قید کرنا۔ عورت کا خاوند کو جادو اور منتر سے بند کرنا۔ کتاب پر نقطے لگانے
تَكَبُّرْ - بڑائی مارنی۔ گردن کشی کرنی۔	تَقِيَّتْ - کتاب پر اعراب لگانے (گو یا مختلف
تَكَبِيْبْ - کہا ب نانا۔	تَقِيَّتْ - صعد تول میں سے ایک صورت کے
تَكَبِيْرْ - اللہ اکبر کہنا۔ بڑا کر دینا۔ بڑا سمجھنا۔	تَقِيَّتْ - ساتھ مقید کرنا) روکنا۔ اندازہ کرنا۔
تَكَبِيْرْ - کسی کو بزرگی کے ساتھ متصف کرنا۔	
تَكَبِيْلْ - قید کرنا۔ ہمت دینا۔	
تَكَبْتْ - ازار بند۔ کمر بند۔ ج۔:۔ تَكَبْتْ	
تَكَبِيْبْ - لکھنا سکھانا۔ لشکر اکٹھا کرنا۔	
تَكَبِيْرْ - خوب پوشیدہ کرنا۔ پوشیدہ کرنا۔	
تَكَبْرْ - زیادہ ہونا۔ بڑھنا۔ کسی چیز پر شہمی مارنا۔	
تَكَبْرْ - حیران ہونا۔ توقف کرنا۔	
تَكَبِيْرْ - زیادہ کر دینا۔ بڑھانا	
تَكَبِيْفْ - دلدار کر دینا۔ گاڑھا کر دینا۔	
تَكَبْحَلْ - سرمہ لگانا۔ زمین کا گھاس نکالنے لگنا	
تَكَبْحِيْلْ - سرمہ لگانا۔	
تَكَبْحْرْ - کھال پھل جانا۔	
تَكَبْحْسْ - گدلا ہوجانا۔ میلا ہونا۔ پریشان ہونا۔	
	تَكَابِيْرْ - تکبر اور غرور کرنا۔ بڑائی جتاننا۔
	تَكَابِيْرْ - تکبر۔ لاشمی۔ بہت زیادہ تکبر لگانے والا۔
	تَكَابِيْرْ - ایک دوسرے کو خط لکھنا۔
	تَكَابِيْرْ - باہم کوئی بات چھپانا۔
	تَكَابِيْرْ - آپس میں قوم اور مال کی کثرت میں مقابلہ کرنا اور غرور کرنا۔
	تَكَابِيْرْ - اجراء کا ایک دوسرے کے ساتھ چپٹ جانا۔ جم جانا۔ گاڑھا ہوجانا۔ موٹا اور دلدار ہونا۔
	تَكَابِيْرْ - آپس میں ایک دوسرے سے جھوٹ پوننا۔ جھوٹ بات کہنا۔
	تَكَابِيْرْ - نجل اور کینین پر سے دور ہونا۔

## ت - ل

چائے جیسے رجال۔ ساجل کی جمع  
تکلیف - محکومے محکومے کرتا۔

تکلیف - جامع کرنا۔  
تکلیف - برمنہ ہوتا۔ کھلجانا۔ بجلی کا آسمان کو  
بھرونا۔

تکلیف - کوک پر داغ لگانا۔ پھلکا اتارنا۔  
تکلیف - برمنہ کرنا۔ کھولنا۔ زبردستی برمنہ  
کرنا اور کھولنا۔

تکلیف - زور سے چٹ جانا۔  
تکلیف - کسی چیز کو چوکوشہ کرنا۔ رطکی کے  
پیشوں کا نیا کلنا اور ملندہ ہوتا۔ رطکی  
کی چھاتیوں کا اُبھر آنا۔

تکلیف - سوال کے لئے کسی کے ہاتھ  
پھیلانا۔

تکلیف - ٹھہرنا۔ رکنا۔  
تکلیف - کسی کا ضامن اور ذمہ دار بننا۔  
تکلیف - ناز و انداز سے چلنا۔

تکلیف - سوال کرنا۔  
تکلیف - کسی چیز کو پوشیدہ کرنا۔ کسی کو کافر  
بنانا [عن] گناہ وینا دل [گناہ کو  
نظر انداز کر دینا۔ معاف کر دینا۔

تکلیف - ضمانت دینا۔ قبول کروانا۔ غم خواری  
کرنا۔

تکلیف - مردہ کو کفن پہنانا۔ مردہ کے لئے کفن  
پہنانا۔

تکلیف - تکرار۔ تکرار۔ خوش بیان۔ خوش تقریر۔ بہت  
بولنے والا۔

تکلیف - عاجزی کا اظہار اور دوسرے پر کام  
کی سپردگی۔

تکلیف - کلفت زدہ ہونا۔  
تکلیف - کا نڈھا ہلاتے ہوئے تیر چلنا۔ غلہ وغیرہ  
کا ڈھیر لگانا۔

تکلیف - کسی کے مزہ کو چھیل دینا یا اس کو کسی اور  
طرح معیوب کر دینا۔

تکلیف - بانٹنا۔ دینے کرنا۔  
تکلیف - بہت جھوٹ بولنے والا (صیغہ مبالغہ)  
تکلیف - جھوٹ بولنا۔ کسی کو دروغ گو خیال کرنا۔

تکلیف - خوب انکار کرنا۔ کسی کو جھوٹا کہنا۔ کسی کو  
کسی سے پھیر دینا۔

تکلیف - بار بار ایک چیز کو پھرانے۔ لوٹانا۔  
تکلیف - قرظینہ میں بس کرنا (د)  
تکلیف - روٹی میں پھونی لگ جانا، اور حنراب  
پو جانا۔

تکلیف - کر دہ ہونا۔ دوبارہ ہونا۔  
تکلیف - نجل اور کیتھین سے دور ہونا۔ تکلیف  
سناوت کرنا۔

تکلیف - تعظیم کرنا۔ تکریم۔ تکریم و تکریمات۔  
تکلیف - ناپسند کرنا۔

تکلیف - سو جانا۔  
تکلیف - ایک چیز کو بار بار پھرانے۔ لوٹانا۔

تکلیف - تعظیم کرنا۔ عیبوں سے بری کرنا۔  
تکلیف - پھلکا دور کئے بغیر میوہ کھانا۔

تکلیف - گمانا اور جمع کرنا۔ روزی تلاش کرنا۔  
تکلیف - کوشش کر کے کمانا۔

تکلیف - ٹوٹ جانا۔  
تکلیف - لباس پہننا۔

تکلیف - بہت توڑنا  
(جمع) اکتلیف۔ وہ جمع جس میں واحد کا وزن ٹوٹ

تکلف - عاجز آدمی کو اپنا کام دوسرے کو سونپے اور اُس پر بھروسہ کرے۔

تکلیف - تڑپ روٹی کرنا۔ بجلی کا پیہم چکنا مسکرانا  
تکلف - بغیر کسی کے لئے خود ہی اپنے ذمہ کوئی کام لے لینا۔ اپنے اوپر بوجھ رکھنا۔

تکلف - مشقت، دشواری۔

تکلف - احاطہ کر لینا، گھیر لیٹنا۔ تاج پہننا۔

تکلف - نیکلام بات کہنا۔

تکلیف - کسی کو کسی کام کا مکلف بنانا۔ کسی کو کام کرنے کا حکم دینا (د) محصول۔ میکس۔

تکلیف - تاج پہننا، تلوار زبان پھیری اور بیانی کا (تیرہ درجہ تاج) کو شش کرتا دزدہ کا حملہ کرنا [عن] رُک جانا اور بڑی کرتا۔ لغات اصدا سے ہے۔

تکلیف - کسی کے ساتھ بات چیت کرنا۔ زخمی کرنا

تکلف - تمام ہونا۔ تمام کرنا۔ انجام کو پہنچانا۔

تکلیف - پوشیدہ اور پنہاں کرنا۔ پوشیدہ ہونا بار بار جانا۔

تکلیف - سینکنا۔ گرم کرنا۔

تکلیف - تمام کرنا۔ کامل کرنا۔ اچھا کرنا۔

تکلیف - استیناس بنانا۔ درخت کا ٹکڑا ٹکڑا کرنا۔

تکلیف - (عورت کا) خیمہ میں داخل ہونا عورت کا ہودہ میں داخل ہونا۔ ہرن کا اپنے بچے کی جگہ (گناس) میں پوشیدہ ہونا۔

تکلیف - کام کا کسی پر دشوار ہونا۔ غم گہی کر دینا۔  
تکلیف - کسی کی کینت رکھنی کسی کو کینت (سببی نام) سے پکارنا۔

تکلیف - تکلف۔ گھیر لینا۔ احاطہ کرنا۔  
تکلیف - ڈھک لینا۔

تکلیف - غبار کا بہت ہو جانا۔

تکلیف - زمین پر گر پڑنا۔ ٹپکنا۔ دامن وغیرہ کا اوپر کو اٹھا ہوا ہونا۔

تکلیف - جمع ہونا۔

تکلیف - اوندھا ہو جانا۔

تکلیف - ہونا۔ حرکت کرنا۔

تکلیف - سر پر بگڑی کا لپیٹنا۔ پیٹنا۔ جمع کرنا۔ بگڑا دینا۔ کھودنا۔ رنگ بدلنا۔

پریشید کرنا دبا لینا۔ زیادہ کرنا۔ رات

کودن میں یا دن کو رات میں داخل کرنا۔

تکلیف - اوندھا کرنا۔ پلٹنا۔

تکلیف - موجود کرنا۔ خدا تعالیٰ کا موجودات کو پیدا کرنا۔

تکلیف - پہاڑ کا غاروں والا ہونا۔

تکلیف - ادھیڑ عمر والے کے مشابہ ہونا۔

تکلیف - کاہن بننا۔

تکلیف - بناوٹ اور کوشش سے عقلمندی اور

ہوشیاری ظاہر کرنا۔ ظرافت کرنا۔

تکلیف - زمین و ہوشیار کر دینا۔

تکلیف - قطع کرنا

## ت۔ ل

تلا - خاک کا تودہ۔ ٹیلہ۔ جہ۔ تلال۔ مکیہ

مص (ن) زمین پر ڈکارنا۔ پیشانی اور منہ کے

بل زمین پر ڈالنا۔ اونٹنی کو تھپانا۔ تہمت

لگانا۔ ہاتھ میں دینا۔ ڈال دینا۔

تلا القرآن - قرآن مجید کی بہت تلاوت کرنے والا۔

تَلْبِيَّة - حج میں لبیک کہنا۔ پکار کر لبیک کہنا۔  
 تَلْبِيَّت - ٹھہرے رہنے کا حکم دینا۔ کسی کو ٹھہرانا  
 تَلْبِيْد - بالوں میں سریش لگانا تاکہ جم جائیں اور  
 برحالت احرام ٹوٹیں نہیں۔ زمین کو  
 ٹھوس کرنا۔  
 تَلْبِيْس - کسی سے اپنا کرا اور عیب پوشیدہ رکھنا  
 بات کو لاگ لپیٹ میں رکھنا۔  
 تَلْبِيْق - نرم کر دینا۔  
 تَلْبِيْن - اینٹیں تھکانا۔  
 تَلْبِيْج - ڈھالنا ہانڈھنا۔  
 تَلْبِيْج - لحاف بنانا۔  
 تَلْبِيْج - بھینور میں گھس جانا  
 تَلْبِيْج - دردناک آواز سے اور خوش الحانی سے  
 پڑھنا۔ خطا کار بنانا۔  
 تَلْبِيْص - خالص اور بغیر طاوٹ کا کرنا۔ خلاصہ کلام  
 بیان کرنا۔ ظاہر اور روشن کرنا۔  
 تَلْبِيْء - حیران ہونا۔ دائیں بائیں مڑ کر دیکھنا  
 [رقی] کسی جگہ ٹھہرنا۔  
 تَلْبِيْء - پیرو کو خوش مزہ اور لذیذ پانا۔ لذت  
 حاصل کرنا۔  
 تَلْبِيْج - لیس دار ہونا چمپدار ہونا۔ دھونے سے  
 سرکھات نہ ہونا۔  
 تَلْبِيْز - مضبوط اور قوی الخلق بنا تا۔  
 تَلْبِيْج - دور بین (د)  
 تَلْبِيْص - چور بننا۔  
 تَلْبِيْخ - آلودہ ہونا  
 تَلْبِيْط - نرمی کرنا۔ مہربانی کرنا۔  
 تَلْبِيْط - [وعی] دشمن کی غفلت کا انتظار کرنا۔  
 تَلْبِيْخ - آلودہ کرنا۔ لٹھیرنا۔

تَلَا حَقَّ - ایک دوسرے تک پہنچ جانا  
 تَلَا حَقَّ - آپس میں لڑائی جھگڑنا۔ کالم گلوچ کرنا  
 تَلَا زَن - اکٹھا ہونا۔  
 تَلَا شِي - معدوم ہوجانا۔  
 تَلَا طَف - آپس میں نرمی کرنا۔  
 تَلَا طَه - آپس میں طہا پتہ مارنا۔ سمندر کا طوقان  
 میں آنا۔ تھپڑے مارنا۔  
 تَلَا عِب - کھینا۔  
 تَلَا عُن - آپس میں ایک دوسرے کو گالی دینا۔ ایک  
 دوسرے کو لعنت کرنا۔  
 تَلَا فِ - ایک چیز کو دریافت کرنا۔ کسی چیز کا  
 تدارک کرنا۔  
 تَلَا هَس - کالم گلوچ کرنا۔  
 تَلَا قِ - دیدار کرنا۔ ملاقات کرنی۔ آپس میں ایک  
 دوسرے کو دیکھنا۔  
 چکنا۔  
 تَلَا وَاة - (د) پڑھنا۔ سچ کا پھر مہل لینا۔  
 تَلَا وَاة - ایک دوسرے کو طاعت کرنا۔  
 تَلَا حَقَّ - آپس میں کھینا۔ کھلونے کے ساتھ کھیلنا  
 جماع کرنا۔  
 تَلْبِيْب - [ول] کسی کام کے لئے آمادہ ہونا۔  
 تَلْبِيْت - ٹھہرنا۔ دیر کرنا۔  
 تَلْبِيْد - فراست سے تامل جانا۔ اون وغیرہ کے  
 اجزاء کا باہم مل جانا۔  
 تَلْبِيْس - مل جانا۔ مشتبہ ہوجانا۔ کھانا ہاتھ میں  
 لگ جانا۔  
 تَلْبِيْط - اونٹ وغیرہ کا زمین پر پاؤں بدلتے ہوئے  
 دوڑنا۔ خاک پر لوٹنا۔ [رقی] کوشش  
 اور جلد کرنا۔

تَلَطُّوْ - خوب طہا پڑھا رہنا۔ کتاب پڑھ کرنا۔  
تَلَطُّظْ - شدت غضب سے سانپ کا اچھے پھین

تَلَطُّی - آگ بھڑکانا۔  
تَلَطُّیۃ - آگ کو بھڑکانا۔

تَلْعَاب - تلعباً۔ بہت کھلاڑی مرد۔  
تَلْعَب - بہت کھیلنا۔

تَلْعۃ - ٹیلہ جہ :-  
تَلْعَج - عورت کا تیرہ شہوت ہونا۔

تَلْعِيب - کھیل کرنا  
تَلْعِيبِیۃ - شہوت میں کھینچنا۔ عذاب دینا۔

تَلْعِرَات - ٹیل گرات۔ تار (د)  
تَلْعِرَات لائسکی۔ وار لیس (د)

تَلْعِیۃ - (د) ہلاک ہونا۔  
تَلْعِیۃ - مر کر دیکھنا۔ التفات کرنا۔

تَلْعِیۃ - بات کہنا۔ زبان سے لفظ نکالنا۔  
تَلْعِیۃ - اپنے کپڑوں میں لپیٹنا۔ [علی]

تَلْعِیۃ - جمع ہونا۔  
تَلْعِیۃ - نور سے لپیٹنا۔ پھیک لپیٹنا۔

تَلْعِیۃ - کسی چیز کو جگہ جگہ سے جمع کرنا۔  
تَلْعِیۃ - دیدار۔ طرف برابر۔ مقابل۔

تَلْعِیۃ - تَلْعِیۃ - بڑا نوالہ۔  
تَلْعِیۃ - لقب والا ہونا۔

تَلْعِیۃ - اونٹنی کا حائل دکھائی دینا حالانکہ وہ  
حائل نہ ہو [علی] کسی کو گناہ ناکرہ کی

طرف منسوب کرنا۔  
تَلْعِیۃ - بڑی چوٹی چیز کا اٹھا لینا۔

تَلْعِیۃ - پانی کا کثرت کی وجہ سے آواز کرنا لقمہ  
کو دیر سے نگلنا۔

تَلْقِیۃ - دریافت کرنا کسی چیز کو لے لینا۔  
تَلْقِیۃ - ملاقات کرنا۔ دیدار کرنا۔ سامنے آنا۔

کسی چیز کو لے لینا۔ بھرت کا حائل  
ہونا۔

تَلْقِیۃ - کسی کا لقب رکھنا۔  
تَلْقِیۃ - کوئی چیز کسی کی طرف ڈالنا۔

تَلْقِیۃ - تر کھجور کے شکوڈ کو مادہ کھجور کے شکوڈ  
میں ڈالنا۔ ہوا کا درخت کو بار آد کرنا۔

(د) چھپک وغیرہ کا ٹیکہ لگانا۔  
تَلْقِیۃ - نگلوانا۔ کھلانا۔

تَلْقِیۃ - سمجھانا سکھانا۔ بتانا۔ مرتے وقت مردہ  
کو کلمہ یاد دلانا۔

تَلْقِیۃ - تری۔ نمناکی۔  
تَلْقِیۃ - غار جو زمین میں پانی کی وجہ سے ہو جاتا

ہے۔ جہ :- آستلاہ  
تَلْقِیۃ - چکنا۔

تَلْقِیۃ - شاگرد جہ :- تَلْقِیۃ - تَلْقِیۃ  
تَلْقِیۃ - بار بار ڈھونڈھنا۔

تَلْقِیۃ - اچھک لے جانا۔  
تَلْقِیۃ - پیچھے چلنے والا۔ بلند۔ اونٹنی کا پھر کہ

مال کے پیچھے چلے۔ جہ :- آستلاہ  
گدھے اور چمچ کا پچھ۔

تَلْقِیۃ - (ن) کسی کے پیچھے جانا۔  
تَلْقِیۃ - آلودہ ہونا۔

تَلْقِیۃ - (ن) مال کا قدیمی اور پرانا  
ہونا۔

تَلْقِیۃ - اُغلام بازی کرنا۔  
تَلْقِیۃ - رنگ برنگ کا اور طرح طرح کا

ہونا۔



## ت - م

تَمَّ - تَمَّاه - تَمَّامَة - (رض) پورا ہونا - تمام کرنا ہمیشگی کرنا -  
 تَمَّج - تبر - بلیچہ - تکمیل - خاتمہ -  
 تَمَّاش - ایک دوسرے کی مانند ہونا - بیماری سے شفا پانا - بمیسا رکاشفا کے نزدیک ہونا -  
 تَمَّاجِد - کسی کی بزرگی بیان کرنا - آپس میں بزرگی میں فخر و متقابل کرنا - آپس میں بزرگی اور بڑائی ظاہر کرنا -  
 تَمَّادِح - آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کرنا -  
 تَمَّاجِح - باہم بے باکی کرنا اور قرض یکن -  
 تَمَّادِی - اصرار کرنا - زیادہ وقت لینا - کسی معاملہ میں دُور تک جانا -  
 تَمَّار - خرامشروش -  
 تَمَّارِض - بغیر بیماری کے خود کو زہین ظاہر کرنا -  
 تَمَّارِی - آپس میں جھگڑا کرنا - جھگ میں ہونا -  
 تَمَّارِج - خوش طبعی کرنا - مذاق کرنا -  
 تَمَّاس - ایک کا دوسرے کو چھونا - جماع کرنا -  
 تَمَّاسک - جنگل مارنا - خود کو عزت سے رکھنا اپنے کو لئے دینے رکھنا -  
 تَمَّاشِی - ساتھ ساتھ چلنا -  
 تَمَّانِج - جنگ میں آپس میں جانفشانی اور مشقت کرنا -  
 تَمَّالک - مالک ہونا -  
 تَمَّالو - جمع ہونا - بجوم کرنا -  
 تَمَّامَة - کسی چیز کا بقیہ -  
 تَمَّامِک - بلی کھاتے ہوئے چلنا -

تَمَّوْہ - سراب کا چمکنا -  
 تَمَّوِی - مڑا ہوا اور بٹا ہوا - اور دوبرا ہوجانا -  
 خم کھانا - مزہ پھیر لینا - پراگندہ ہونا -  
 ابریں بجلی کا چمکنا -  
 تَمَّوِیَة - زور سے بٹنا - موڑنا - خم دینا -  
 تَمَّوِیْت - آلودہ کرنا - ساننا -  
 تَمَّوِیج - چمکانا - آگ میں گرم کرنا دھوپکے پتھر کے رنگ کو بھلا دینا - بڑھاپے کا کسی کو سفید بالوں والا کر دینا -  
 تَمَّوِیْد - بہت ملامت کرنا - نام لکھنا -  
 تَمَّوِیْن - طرح طرح کا اور رنگ رنگ کا کرنا -  
 تَمَّوِیْت - رائے گاں - ہلاکت -  
 تَمَّوِیْت - آگ کا روشن اور بھرا کا ہوا ہونا -  
 تَمَّوِیْت - کھانا قطع کرنا -  
 تَمَّوِیْت - افسوس کرنا -  
 تَمَّوِی - کھینا - غفلت کرنا - فراموش کرنا -  
 ترک کرنا - کسی کے ساتھ زمانہ گزارنا -  
 تَمَّوِیْب - آگ کا خوب بھڑکانا -  
 تَمَّوِیْت - کسی کو ایک چیز میں مشغول رکھنا - کھیل میں لگانا -  
 تَمَّوِیْت - (مذہب کے طور پر) اَلْهَضَاہ (ہائے افسوس) لکنا -  
 تَمَّوِیْت - اٹالین - باشندگان اٹلی (د)  
 تَمَّوِیْت - شیر کے مشابہ ہونا -  
 تَمَّوِیْت - تالیف - پراتا اور موروثی مال تالیف - علم کی پیدائش اور عرب کا پرورش یافتہ -  
 تَمَّوِیْت - ٹیلی فون - ٹیلی فون (د)  
 تَمَّوِیْت - فرم ہوجانا - چالوسی کرنا -  
 تَمَّوِیْت - نرم کر دینا -

تَمَدَن - شہر والوں کو تہذیب اختیار کرنا۔	تَمَام - جو شخصت اور ہمیم بہت بولے۔
تَمَدَن - روغن دان بنانا۔	تَمَام - بکواس کرنے والا دم (تَمَامَتہ)
تَمَدَن - کھینچنا۔	تَمَتَان - خیمہ کی دوڑی۔
تَمَدَن - شہر بنانا۔ (د) متمدن بنانا۔	تَمَتَم - نفع اٹھانا۔ سچ کے ساتھ عمرہ کرنا۔
(جنس) کھجور۔ تَمَدَن - تَمَدَن - کھجور۔	تَمَتِيح - نفع پہنچانا۔ توشہ دینا۔ لانا بنانا۔
تَمَدَن - تَمَدَن - تَمَدَن - تَمَدَن	تَمَتِيح - تمیز کرنا۔ عورت کو طلاق کے بعد تودینا
تَمَدَن - تَمَدَن - تَمَدَن - تَمَدَن	تَمَتَال - تصویر نقش و نگار۔ شکل۔ مجسمہ۔
تَمَدَن - تَمَدَن - تَمَدَن - تَمَدَن	تَمَتَال - تَمَتَال - تَمَتَال - تَمَتَال
تَمَدَن - تَمَدَن - تَمَدَن - تَمَدَن	تَمَتَال - مثل بیان کرنا [ب] داستان کہنا [ل]
تَمَدَن - تَمَدَن - تَمَدَن - تَمَدَن	تَمَتَال - کسی چیز کی مثل اور مشابہہ ہونا قصاص
تَمَدَن - تَمَدَن - تَمَدَن - تَمَدَن	تَمَتَال - لینا۔ محبت بیان کرنا۔
تَمَدَن - تَمَدَن - تَمَدَن - تَمَدَن	تَمَتَال - مثل بیان کرنا۔ تصویر بنانا جو بے تناک
تَمَدَن - تَمَدَن - تَمَدَن - تَمَدَن	تَمَتَال - سرزدینا۔ (د) تھیٹر میں ایکٹ کرنا۔
تَمَدَن - تَمَدَن - تَمَدَن - تَمَدَن	تَمَتَال - کسی جماعت کا نمائندہ بننا۔
تَمَدَن - تَمَدَن - تَمَدَن - تَمَدَن	تَمَتَال - مجوسی ہونا۔
تَمَدَن - تَمَدَن - تَمَدَن - تَمَدَن	تَمَتَال - کا پینا۔ حرکت کرنا۔
تَمَدَن - تَمَدَن - تَمَدَن - تَمَدَن	تَمَتَال - تعظیم کرنا۔ تعریف کرنا۔ بزرگ بنانا۔
تَمَدَن - تَمَدَن - تَمَدَن - تَمَدَن	تَمَتَال - بہت دینا۔
تَمَدَن - تَمَدَن - تَمَدَن - تَمَدَن	تَمَتَال - مجوسی کرنا۔
تَمَدَن - تَمَدَن - تَمَدَن - تَمَدَن	تَمَتَال - مٹنا۔ گھٹنا۔ معدوم ہونا۔ خاک میں
تَمَدَن - تَمَدَن - تَمَدَن - تَمَدَن	تَمَتَال - ملنا۔
تَمَدَن - تَمَدَن - تَمَدَن - تَمَدَن	تَمَتَال - مٹانا۔ معدوم کرنا۔
تَمَدَن - تَمَدَن - تَمَدَن - تَمَدَن	تَمَتَال - تری کو نرم کرنا اور کھینچنا۔
تَمَدَن - تَمَدَن - تَمَدَن - تَمَدَن	تَمَتَال - دو دھکا دہی ہونا۔
تَمَدَن - تَمَدَن - تَمَدَن - تَمَدَن	تَمَتَال - ناک صاف کرنا۔ گرتے پڑتے چلنا۔
تَمَدَن - تَمَدَن - تَمَدَن - تَمَدَن	تَمَتَال - کسی سے بیزار ہونا۔ شکایت کرنا۔
تَمَدَن - تَمَدَن - تَمَدَن - تَمَدَن	تَمَتَال - گودے کا ہڈی میں سے نکالنا۔
تَمَدَن - تَمَدَن - تَمَدَن - تَمَدَن	تَمَتَال - تعریف کرنا۔ فخر کرنا۔
تَمَدَن - تَمَدَن - تَمَدَن - تَمَدَن	تَمَدَن - کھینچنا۔

تَمَنِّيَات - خاک میں لٹانا۔	تَمَنُّونَ - تھوڑی تھوڑی شراب پینا۔
تَمَنِّيَات - کورٹ اسٹامٹ (د)	تَمَنُّونَ - پارہ پارہ ہونا۔ ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔
تَمَنِّيَات - جی مستانا۔	تَمَنُّونَ - پارہ پارہ کرنا۔ ٹکڑے کرنا۔ منتشر کرنا۔
تَمَنِّيَات - دشمن بنا لیستنا۔	تَمَنُّونَ - اٹھ پھیرنا۔ مسح کرنا
تَمَنِّيَات - ٹھہرنا۔ رُکنا۔	تَمَنُّونَ - [ت] [ت] چکل مارنا۔ اٹھ بکڑنا۔ تھامنا
تَمَنِّيَات - سرمہ دانی بنانا۔	تَمَنُّونَ - فقیر و محتاج ہونا۔ فقر کی طرح ہونا۔
تَمَنِّيَات - جگہ بکڑنا۔ کسی چیز پر قیاد ہونا۔ بادشاہ کے نزدیک مرتبہ پانا۔	تَمَنُّونَ - ذلیل و خوار ہونا۔
تَمَنِّيَات - چا پلوسی کرنا۔ خوشامد کرنا۔	تَمَنُّونَ - مسلمان کسٹانا۔
تَمَنِّيَات - زبردستی ملک بننا۔ خود مختار ہونا۔	تَمَنِّيَات - اٹھ پھیرنا۔ غریب دینے والے کا باتیں بنانا۔ اونٹ کو چلاتے چلاتے تھکا دینا اور ڈبلا کر دینا۔ اور اس کی پشت کو زخمی کر دینا۔
تَمَنِّيَات - مذہب میں داخل ہونا۔ بخارا کا پسینہ لے آنا۔ بیماری اور غم کے سبب بے چین ہونا اور کرو میں بدلنا۔	تَمَنِّيَات - مشک کی خوشبو دینا۔ [ب] [ب] چنگل مارنا چلنا۔
تَمَنِّيَات - اپنی عمر سے فائدہ اٹھانا۔	تَمَنِّيَات - درخت کے پھلوں کے لئے پتے نکلنا
تَمَنِّيَات - ہانڈی میں بہت نمک ڈال دینا اور نمک کا تیز ہو جانا۔ شاعر کا نکلیں اور عمدہ کلام بیان کرنا۔	تَمَنِّيَات - غنی ہونا۔ اپنے اہل خانہ کے لئے کہنا۔
تَمَنِّيَات - دیوار کو مٹی سے لیسنا۔	تَمَنِّيَات - چلانا۔ ہانکنا۔
تَمَنِّيَات - ایک چیز کسی کی ملک میں کر دینا۔ بادشاہ بنانا۔ سخت اور اچھا خمیر بنانا۔	تَمَنِّيَات - چوسنا
تَمَنِّيَات - دوسرے کو کھلانا۔	تَمَنِّيَات - پانی منہ میں پھرانا اور کلی کرنا۔
تَمَنِّيَات - [عن] [رکنا] [علی] غالب آنا۔	تَمَنِّيَات - گذرنا۔ انجام پانا۔
تَمَنِّيَات - منی بہانا۔ منی ڈالنا۔ آرزو دل میں ڈالنا۔ آرزو مند کرنا۔ بدلہ دینا۔	تَمَنِّيَات - مینہ میں جانا اور اس کی سروی میں داخل ہونا
تَمَنِّيَات - روکنا۔ منع کرنا۔	تَمَنِّيَات - انگوٹھی لینا۔ ناز سے چلنا۔
تَمَنِّيَات - روحی مہینہ۔ مطابق جولائی۔	تَمَنِّيَات - غصہ کی وجہ سے چہرہ کا رنگ بدل جانا۔ بالوں کا گر پڑنا۔
تَمَنِّيَات - بہت گرا ہونا۔ بدحوہ ہونا۔	تَمَنِّيَات - بہت گرا ہونا۔ بدحوہ ہونا۔
تَمَنِّيَات - خاک میں لٹانا۔	تَمَنِّيَات - خاک میں لٹانا۔
تَمَنِّيَات - غصہ سے چہرہ کو متغیر کر دینا۔	تَمَنِّيَات - غصہ سے چہرہ کو متغیر کر دینا۔
تَمَنِّيَات - بہت مال دار ہونا۔	تَمَنِّيَات - توشہ کا ختم ہو جانا۔ عزیز ہو جانا۔

تَنَاجُز - آپس میں کشت و محرم کرنا۔	تَمَوَّیْل - مالدار کو دینا۔
تَنَاجُش - بیع وغیرہ میں زیادتی کرنا۔	تَمَوَّیْہ - کسی چیز پر سونا یا چاندی چڑھانا (میع کرنا)
تَنَاجِی - ایک دوسرے کو پکارنا۔ لوگوں کا جمع ہونا	دھوکہ دینا۔ خلاف واقعہ اور بھیڑ بیان
ایک مجلس میں اٹھتے ہو کر بیٹھنا۔	سنانا۔ جگہ کا پانی سے ترمز ہونا۔ بہت
تَنَاجِد - ایک دوسرے کو ڈرانا۔	پانی ڈالنا۔
تَنَاجِی - تنور بنانے والا۔	تَمَهَّس - فلاں ہونا۔ کام کا سہل ہونا
تَنَاجِع - آپس میں جھگڑانا۔ آپس میں ایک چیز کو	تَمَهَّس - ماہر ہونا۔
لینا۔	تَمَهَّل - توقف کرنا۔ ٹھہرنا۔
تَنَاسُخ - میراث کی تقسیم سے پہلے کسی وارث کا	تَمَهَّیْد - بچھانا۔ کام کو ٹھیک اور درست کرنا۔
مخارجا۔ زمانہ کا گردش کرنا۔ رجحوں	عذر بیان کرنا۔ عذر سنانا۔
کا جسموں کی طرف لوٹنا (ایک عقیدہ	تَمَهَّیْر - مہر مانگنا۔ مہر مقرر کرنا۔
باطل)۔	تَمَهَّیْل - مہلت دینا۔ ڈھیل دینا۔ ملتوی کرنا
تَنَاسِق - چیزوں کا مرتب اور اپنی اپنی جگہ پر	تَمَیَّال - [عن] پھر جانا۔ تم کھانا [انی] راعب
ہونا۔	ہونا۔
تَنَاسِل - ایک دوسرے سے پیدا ہونا۔	تَمَیَّز - جُدا ہونا۔ غصہ کے مارے پارہ پارہ ہونا
تَنَاسِی - بھول جانا۔ انجان بننا۔	تَمَیَّج - ناز سے چلنا۔
تَنَاسِد - آپس میں شعر پڑھنا۔	تَمَیَّمَہ - تعویذ۔ سیاہ و سفید دلنے جو نذر گند
تَنَاسِر - ایک دوسرے کی مدد کرنا۔	کے لئے گردن میں ڈالتے ہیں۔ جہ۔
تَنَاصِف - آپس میں انصاف کرنا۔	تَمَایْہ -
تَنَاصِل - تیر اندازی میں مقابلہ کرنا۔	تَمَیِّیْت - مرواڈالنا۔
تَنَاصِل - سینڈھوں کا آپس میں سینگ ملنا۔	تَمَیَّیْز - جُدا کرنا۔ علوہ کر دینا۔ ممتاز کر دینا۔
تَنَاصِر - ایک کا دوسرے کو دیکھنا۔ مقابلہ کرنا۔ کام	تَمَیَّیْس - دامن درا کرنا۔
پس محنت و مشقت بروا شت کرنا۔	تَمَیَّیْل - پھیر دینا۔ تم دینا۔
تَنَاصِس - اپنے آپ کو یہ تکلف سویا ہوا ظاہر کرنا	
تَنَاصِم - تن آسان اور آرام طلب ہوجانا۔	
تَنَاصِی - آپس میں جنگ پر براہِ نگیختہ کرنے کے لئے	
مقتولین کی خبر دینا۔	
تَنَاصِر - لوگوں کا جمع ہو کر حاکم کے پاس جانا۔	
لڑنا جھگڑانا۔	

## ت - ن

تَسَنَہ - ٹن (وزن مساوی ۲۸ من) (۵)

تَسَابُز - ایک دوسرے کو عیب لگانا۔ آپس میں ایک دوسرے کا برا بھلا کہنا۔

تَسَاوُد - پراگندہ ہوجانا۔ لوگوں کا تیمار ہونا۔

تَنَسُّیْتُ - کسی چیز کی رغبت کرنا اور حاصل کرنے میں مقابلہ کرنا۔  
 تَنَسُّیْتُ - خیر دینا۔ آگاہ کرنا۔  
 تَنَسُّیْتُ - نچوڑنا۔ پھینک دینا۔ کھجوروں وغیرہ کو بھگو کر زلات (زمبید) تیار کرنا۔  
 تَنَسُّیْتُ - (برا) لقب رکھنا۔  
 تَنَسُّیْتُ - کفن میں سے پانی نکالنا۔  
 تَنَسُّیْتُ - بیدار کرنا۔ آگاہ کرنا۔ نام لے کر پکارنا۔  
 تَنَسُّیْتُ - گم نامی سے نام آدر اور مشہور کر دینا۔  
 تَنَسُّیْتُ - بال اکھاڑنا۔  
 تَنَسُّیْتُ - بدبودار کر دینا۔  
 تَنَسُّیْتُ - پرانگندہ اور منتشر ہو جانا۔ بکھر جانا۔  
 تَنَسُّیْتُ - منتشر اور پرانگندہ کرنا۔ بکھیرنا۔ [عن]  
 تَنَسُّیْتُ - تلاش کرنا۔ تحقیق کرنا۔  
 تَنَسُّیْتُ - وعدہ پورا کرنے کی خواہش کرنا۔ پینے پر اصرار کرنا۔  
 تَنَسُّیْتُ - ناپاک اور پلید کرنا۔ نظر بد کے لئے تعویذ گنڈہ لٹکانا۔  
 تَنَسُّیْتُ - بے خوابی یا عشق کے مارے استاسے گنسننا۔  
 تَنَسُّیْتُ - رانی دینا (شاخ) تراشنا۔ کھال اتارنا۔  
 تَنَسُّیْتُ - نپند و نصیحت کا کارگر ہونا۔  
 تَنَسُّیْتُ - ستاروں کا حال پہچاننا۔ قرض کو قسط قسط کر کے ادا کرنا۔  
 تَنَسُّیْتُ - ناپاک ہونا۔  
 تَنَسُّیْتُ - دوسرے کے شعر کو اپنا بنا لینا۔  
 تَنَسُّیْتُ - گلاصاف کرنا۔ پیٹ میں قراقر ہونا۔  
 تَنَسُّیْتُ - [عن] دور ہونا۔ خود کو ہٹانا۔ ایک طرف

تَنَسُّیْتُ - کسی چیز کی رغبت کرنا اور حاصل کرنے میں مقابلہ کرنا۔  
 تَنَسُّیْتُ - ایک دوسرے کی ضد ہونا۔ منافی ہونا۔  
 تَنَسُّیْتُ - عمد توڑنا۔ رسی کے ٹل کھولنا۔  
 تَنَسُّیْتُ - باہم نقص عمد کرنا۔  
 تَنَسُّیْتُ - [عن] پانی کو آپس میں مزہ دار لینا کسی کام کو باری باری کرنا۔  
 تَنَسُّیْتُ - کھیر لینا۔ پچھے رہنا۔ ہاتھ بھجکانا۔ اور کسی چیز کو لینا۔  
 تَنَسُّیْتُ - لینا۔ حاصل کرنا۔ ہاتھ بڑھا کر کرنا۔  
 تَنَسُّیْتُ - خود کو سویا ہوا ظاہر کرنا۔  
 تَنَسُّیْتُ - کسی شہر کی امارت کے لئے باہم سبقت کرنا۔  
 تَنَسُّیْتُ - چیر کا اینچی آخری حد پر پہنچنا۔ پانی کا حوض میں جمع ہو کر ٹھہر جانا۔ خبر کا پہنچنا۔  
 تَنَسُّیْتُ - [عن] کام سے رک جانا۔  
 تَنَسُّیْتُ - دور ہونا۔  
 تَنَسُّیْتُ - کتے۔ ہرن۔ بکرے اور سانپ کا آواز کرنا۔  
 تَنَسُّیْتُ - بڑی کا سوچ جانا۔  
 تَنَسُّیْتُ - پانی کا تھوڑا تھوڑا نکلا۔ رستا۔  
 تَنَسُّیْتُ - ایرانی تمباکو (د)  
 تَنَسُّیْتُ - باہر ہونا۔ ذکی ہونا۔ تیروں کو ایک ایک کر کے لیٹنا۔ کسی کے پاس جو کچھ ہو اس کا بہتہ لے لینا۔  
 تَنَسُّیْتُ - تٹا ٹپول۔ پان۔  
 تَنَسُّیْتُ - نبوت کا دعویٰ کرنا۔ پیشین گوئی کرنا۔ غیب کی خبر بتانا۔  
 تَنَسُّیْتُ - بیدار رہنا۔ نیند سے جاگنا۔  
 تَنَسُّیْتُ - درخت لگانا۔ پودا لگانا۔ پرورش

تَنَسُّیۃ - بانگنا - فراموش کروینا۔	کو چلا جانا [ کسی چیز پر ٹیک لگانا۔
تَنَسُّیۃ - سنوارنا - ترتیب دینا۔	تَنَجُّل - چھاننا - انتخاب کرنا۔
تَنَسُّیۃ - زندہ کرنا [ کسی کام کا شروع کرنا۔	تَنَجُّم - کھنکار - تھوکانا - ناک صاف کرنا۔
تَنَشُّد - خبریں معلوم کرنا۔ یاد دلانا۔	تَنَجُّج - اونٹ کا بیٹھنا۔
تَنَشُّر - بچھا ہوا ہوتا - بچھنا منتشر ہونا۔	تَنَدُّل - رومال سے ہاتھ وغیرہ پونچھنا۔ رومال کو سر پر باندھنا۔
تَنَشُّط - خوشی منانا - شاد ہونا۔	تَنَدُّم - شرمندہ اور پشیمان ہونا۔
تَنَشُّف - جذب کرنا - خشک کرنا۔ پونچھنا۔	تَنَدُّی - بہ تکلف سخاوت کرنا۔ بڑھ جانا۔
تَنَسُّی - سونگھنا - مست ہو جانا۔	تَنَدُّل - ٹھہر ٹھہر کر نیچے اترنا۔ تھوڑا تھوڑا نازل ہونا۔
تَنَشُّیۃ - پرورش کرنا۔ زندہ کرنا۔ نشوونما کرانا۔	تَنَدُّو - دُور ہونا (د) تفریح کرنا۔ سیر کرنا۔
تَنَشُّیۃ - بچھانا۔ پھیلاتا۔ بکھیرنا۔ مجنون کا ڈھنگ سے علاج کرنا۔	تَنَدُّو - جلدی کرنا - کودنا۔
تَنَشُّیۃ - آسان گدہ باندھنا کسی کو خوش کرنا۔	تَنَدُّوۃ - کودنا۔ کودانا۔ نرسے مادہ پر حفتی کرنا۔
زالی - فی [ کسی کام میں بہت دلانا۔	تَنَدُّوۃ - کم کرنا۔
تَنَشُّیۃ - (صحت پر طے وغیرہ سے) پانی سکھانا۔ خشک کرنا۔	تَنَدُّوۃ - عورت کا حمل میں خون لے آنا۔
تَنَصُّب - اٹھنا - کھڑا ہونا (ستون کا) نصب ہونا۔	تَنَدُّوۃ - نیچے لانا۔ ترتیب دینا۔ تھوڑا تھوڑا اٹھنا۔
تَنَصُّح - ناصحوں کے ساتھ مشاہیر ہونا۔ ناصح بننا۔ کڑا سینا۔	تَنَدُّوۃ - اوتارنا۔ (د) اگیش۔
تَنَصُّد - کسی کی مدد میں جانفشانی اور مشقت اٹھانا۔ نصرانی ہونا۔	تَنَدُّوۃ - بڑائی اور عیب سے دُور رکھنا۔ بدی سے احتیاط رکھنا۔
تَنَصُّف - دوپٹہ اوڑھنا۔ آدھا آدھا۔ یا ٹٹ لینا۔ خدمت کرنا۔ عاجزی کرنا۔ انصاف چاہنا۔ بال سفید ہو جانا۔	تَنَسُّ - ٹینس (ایک کھیل) (د)
تَنَصُّی - کسی قبیلہ کی سردار عورت سے نکاح کرنا۔ بالوں میں کٹ گھی کرنا (دب) کسی چیز کے متصل ہونا۔	تَنَسُّب - کسی کے ساتھ عزیز واری کا دعویٰ کرنا۔
تَنَصُّیۃ - اٹھانا اور کھڑا کرنا۔ ستون کھڑا کرنا۔ کسی کا حصہ میں کرنا۔ کسی کی بڑائی ظاہر ساتھ ہونا۔	تَنَسُّق - مرتب اور اپنی اپنی جگہ پر خوشنمائی کے ساتھ ہونا۔
تَنَصُّیۃ - عبادت کرنا۔ زہدانہ زندگی گزارنا۔	تَنَسُّک - عبادت کرنا۔
تَنَصُّیۃ - سانس لینا۔ جگہ کا خرشیو دار ہونا۔ ہوا کا نرمی اور آہستگی سے چلنا۔ پچھلے کا جاندار ہونا۔	تَنَسُّم - سانس لینا۔ جگہ کا خرشیو دار ہونا۔ ہوا کا نرمی اور آہستگی سے چلنا۔ پچھلے کا جاندار ہونا۔

تَنْعِيْسُ - سلانا۔  
 تَنْعِيْلُ - چرپا یہ کے پاؤں میں نعل لگانا۔ اونٹ  
 کے سم کو چمڑے یا لیسے سے باندھنا۔  
 تَنْعِيْمٌ - فراخی اور آسانی سے زندگی بسر کرنا۔  
 لاڈ پیارے رکھنا تَعْمَمٌ (ماں)  
 کہنا۔  
 تَنْعِيْرٌ - وعلیٰ عفتہ ہونا۔  
 تَنْعِيْضٌ - زندگی کا مکدر ہونا۔ پریشان ہونا۔  
 تَنْعِيْجٌ - گانا۔  
 تَنْعِيْضٌ - مکدر کر دینا۔ پریشان کر دینا۔  
 تَنْعِيْبٌ - چھوٹنا۔ گزرتا۔  
 تَنْعِيْسٌ - سانس لینا۔ سر و ہوا کھینچنا۔ صبح کا  
 روشن ہونا۔ دن کا نکلنا۔ گمان کا چر  
 جانا۔ سمندر کا لہروں کے سبب  
 پانی چھوٹنا۔  
 تَنْعِيْسٌ - پرندہ کا پر جھاڑنا۔ اونٹ کا رات کو  
 بغیر چرواہے کے چرنا۔  
 تَنْقِلٌ - نعل نما زاد کرنا [عربی] غنیمت میں  
 سے اپنے ساتھیوں سے زیادہ  
 حصہ لینا۔  
 تَنْقِيْحٌ - دھونکنا۔ پھونک مارنا۔  
 تَنْقِيْدُ الْحُرُوفِ - ٹائپ کمپوز کرنا (د)  
 تَنْقِيْبٌ - (حکم) جاری کرنا (خط) روانہ کرنا چھپر کرنا  
 آر پار کرنا۔  
 تَنْقِيْسٌ - آرام دینا۔ غم سے رہائی بخشنا۔  
 تَنْقِيْضٌ - اچھی طرح جھاڑنا۔ جھگڑنا۔  
 تَنْقِيْلٌ - غنیمت دینا۔ قسم کھلانا [عرب]  
 دُور کرنا۔  
 تَنْقِيْهٌ - (ض) سزا دینا۔ بدل لینا، عتاب کرنا۔

کرنی تھکانا۔ دکھ دینا۔ لڑائی کی بنیاد  
 ڈالنا۔ کسی حرفت پر زبر لگانا۔  
 تَنْصِيْبُ - تھرائی بنانا۔  
 تَنْصِيْفٌ - لڑکی کو دوپٹے اڑھانا کسی چیز کو آدھا  
 آدھا کرنا۔  
 تَنْصِيْلٌ - تیر میں پیکان جمانا۔ تیر میں سے پیکان  
 نکالنا۔ لغات اصداد سے ہے۔  
 تَنْصَالٌ - آپس میں تیر اندازی کرنا۔ تیر اندازی میں  
 مقابلہ کرنا۔ اور جنگ کرنا۔  
 تَنْصِيْحٌ - آنسوؤں کا جوش مارنا [عربی] دُور ہونا۔  
 تَنْصِيْدٌ - اسباب کو ترتیب سے رکھنا۔ اوپر تلے رکھنا  
 تَنْصِيْبُ - چہرہ کو تروتازہ کر دینا۔ تازہ نعمت  
 میں پالنا۔  
 تَنْطَفٌ - کان میں بالاپھیننا۔  
 تَنْطِقٌ - اپنی کمر میں ٹپکا باندھنا۔  
 تَنْطِيْقٌ - ٹپکا کسی اور کی کمر میں باندھنا۔  
 تَنْظَاہُ - غور سے دیکھنا۔  
 تَنْظَرٌ - غور سے دیکھنا۔ دیر لگانا۔ مہلت دینا  
 اُمید رکھنا۔  
 تَنْظَفٌ - بہ تکلف پاکی ظاہر کرنا۔ پاکی ڈھونڈھنا۔  
 پاکیزہ ہونا۔  
 تَنْظَرٌ - موقی کا لڑی میں پرویا ہوا اور مرتب ہونا  
 تَنْظِيْفٌ - پاک کرنا۔ صاف کرنا۔  
 تَنْظِيْمٌ - موقی پر دونا۔ ترتیب دینا۔  
 تَنْعَابٌ - کوسے کا آواز کرنا۔  
 تَنْعَلٌ - جوتی پہننا۔  
 تَنْعَمٌ - فراخی اور آسانی سے زندگی بسر کرنا۔  
 تلاش کرنا ننگے پاؤں چلنا۔ موافق  
 کرنا۔

تَنَقُّد - پرکھنا جانا پھینا۔  
 تَنَقُّیۃ - پھرانا۔  
 تَنَقِّیۃ - تفتیش کرنا۔ تحقیق کرنا۔  
 تَنَقِیۃ - عیب بیان کرنا اور برار کرنا۔  
 تَنَقِض - بڑی کا آواز کرنا۔ عمارت کا ڈھانے کے وقت آواز کرنا۔ قطرہ قطرہ کا نکلنا۔  
 تَنَمِیۃ - پھینا۔ رسوا کرنا۔ پھیر دینا۔ بھگانا پھانا۔  
 تَنَمِیۃ - بڑھانا۔ حدیث یا خبر کو کسی کی طرف مرقوع اور منسوب کرنا کسی کی برائی کے ساتھ بات دوسروں تک پہنچانا۔  
 تَنَمِیۃ - چغل خوری کرنا۔ آگ پر ٹکڑی رکھنا۔  
 تَنَمِیۃ - غصہ کرنا۔  
 تَنَمِیۃ - کتاب کو خوب لکھنا منفتق کرنا۔  
 تَنَمِیۃ - اونٹنی کو جھتی کے لئے ٹھکانا۔  
 تَنَمِیۃ - تیز۔ سطح زمین۔  
 تَنَمِیۃ - روشن ہونا۔ چمکنا۔ جھلکانا۔ بھونکنا۔ گرم ہونے سے داغ دینا۔  
 تَنَمِیۃ - روشن خیالی (د)۔  
 تَنَمِیۃ - سایہ (انگریزی لباس) (د)۔  
 تَنَمِیۃ - طرح طرح کا ہونا۔ شاخ کا حرکت کرنا چلنے میں آگے ہونا۔  
 تَنَمِیۃ - خواب دیکھنا۔ خواب میں جماع کرنا۔  
 تَنَمِیۃ - روشن ہو جانا۔ روشن کرنا۔ صبح کا روشن ہونا۔ کھیت کا پک جانا۔ عورت کو تہمت سے دور رکھنا۔ عورت کا پھول لے آنا۔  
 تَنَمِیۃ - کم کرنا۔  
 تَنَمِیۃ - طرح طرح کا کرنا تقسیم کرنا۔ دھرتی کرنا۔  
 تَنَمِیۃ - دینا۔  
 تَنَمِیۃ - سلا دینا (د) مسمریزم۔  
 تَنَمِیۃ - اسم پر دو زہر۔ دولہہ یا دولہہ پر پڑھنا۔ نون ساکن جو اسموں کے آخر میں ہو جاتا ہے۔

تَنَقُّد - بہت پھرنا۔ شراب کے بعد نقل کھانا۔  
 تَنَقِّیۃ - پرکھنا۔ بڑی کی میٹنگ نکالنا۔  
 تَنَقِیۃ - پاک کرنا۔ صاف کرنا۔ خالص کرنا۔  
 تَنَقِیۃ - بڑی میں سے گودا نکالنا۔  
 تَنَقِیۃ - پھرنا۔  
 تَنَقِیۃ - لکھنا۔ نقش و نگار کرنا۔  
 تَنَقِیۃ - کم کرنا۔ گھٹانا۔ کوتاہ کرنا۔  
 تَنَقِیۃ - حرف پر نقطہ لگانا۔  
 تَنَقِیۃ - بہت نقل و حرکت کرنا۔ جوتی۔ موزہ۔ اور اونٹ کے نم کی اصلاح کرنا۔  
 تَنَقِیۃ - ٹہن۔  
 تَنَقِیۃ - پھر جانا۔ تیروں کو یا کمان کو کندھے پر ڈالنا۔  
 تَنَقِیۃ - بدل جانا۔ پھر حال سے بدل حال ہو جانا۔  
 تَنَقِیۃ - پہچاننے میں نہ آنا۔ ہمیں بدلنا۔  
 تَنَقِیۃ - پیچیدہ ہو جانا۔ بھیل اختیار کرنا۔  
 تَنَقِیۃ - یکسر کرنا۔ راستہ سے پھیر دینا۔ (ع)۔  
 تَنَقِیۃ - ایک طرف کو چلا جانا۔ پھر جانا۔  
 تَنَقِیۃ - ہمیں بدلنا۔ ایسا کر دینا کہ پہچان میں نہ آوے۔ اسم کو نکرہ کرنا۔  
 تَنَقِیۃ - اونڈھا کر دینا۔  
 تَنَقِیۃ - سزا دینا۔ دوسروں کے لئے عبرت



تَوَاصُف - باہم کنارہ کشی اختیار کرنا۔  
 تَوَاكُل - ایک دوسرے پر اعتماد کرنا۔ کسی کو  
 بغیر مدد و غنیے چھوڑ دینا۔  
 تَوَالِد - قوم کا بہت ہونا۔ آپس میں بعین کا بعین  
 سے پیدا ہونا۔  
 تَوَالِي - بچے درپے ہونا۔  
 تَوَاہ - ساتھ ساتھ پیدا ہونے والا بہن و دادو  
 ہوں یا زیادہ عورت ہو یا مرد: تَوَاثِم  
 تَوَاصَان - دو بچے جو اکٹھے پیدا ہوں۔  
 تَوَارِي - تھک جانا اور سست ہو جانا۔  
 کوتاہی کرنا۔  
 تَوَاوُص - مجتمع ہونا۔ پانی پر بھیر ڈگانا۔  
 تَوَاهِب - ایک دوسرے کو خوشنما۔  
 تَوَب - تَوْبَة - تَابَة - تَوْبَة - گناہ سے برگ  
 رہنا۔ توبہ کی توفیق دینا۔ دشواری کو  
 آسان کرنا پھر مرہبان ہونا۔  
 تَوَبَل - گرم مصالح وغیرہ جو ہانڈی میں ڈالا  
 جاتا ہے۔ جہ: تَوَابِل -  
 تَوَبَلَة - ہانڈی میں گرم مصالح وغیرہ ڈالنا۔  
 تَوَبِيخ - ملامت کرنا۔ ڈرانا دھمکانا۔  
 تَوَبِيش - چنگاری کا بھوکا دیر سے ظاہر ہوجانا۔  
 تَوَبِيح - گردانا۔  
 تَوَبِيَاء - سہمہ کا پتھر۔  
 تَوَبِيْدَا - میخ قائم کرنا۔  
 تَوَبِيْز - کمان کے چلہ کو سخت کرنا۔ کمان پر تانت  
 چڑھانا۔  
 تَوَبِيْم - کودنا۔ کسی پر ظلمت غالب ہونا۔  
 تَوَبِيْب - کسی کو تکیہ پر بیٹھانا۔ بیٹھنے کے لئے کسی  
 کے سامنے تکیہ ڈالنا۔

تَوْبِيَة - بلند کرنا (ب) کسی کو باواز بلند پکارنا۔  
 تَوْبِيْدَا - عورت کی پستانوں کا مچھرا نا۔  
 تَوْبِيْطَة - چیز کو آخری حد پر پہنچانا۔ کسی چیز کی  
 آخری حد پر پہنچ جانا۔  
 تَوْبِيْن - اژدہا۔ جہ: تَوْبِيْن - دم و راستہ

## ت و

تَوَاتُر - بچے درپے آنا۔ ایک دوسرے کے پیچھے  
 ٹھہر ٹھہر کر آنا۔  
 تَوَاتُب - ایک کا دوسرے کی طرف کودنا۔ آپس  
 میں ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔  
 تَوَاتِيْر - خدمت گار۔ واہ: تَوَاتِيْر  
 تَوَاجِب - باہم مقابل ہونا روبرو ہونا۔  
 تَوَاذ - ایک دوسرے کو دوست رکھنا۔  
 تَوَاوِي - پوشیدہ ہونا۔ چھپنا۔  
 تَوَاوِيْك - سرین پر تکیہ لگانا۔  
 تَوَاوِيْن - ہم وزن ہونا۔ آپس میں تول کر لینا۔  
 تَوَاوِي - ایک دوسرے کو نصیحت اور نصیحت کرنا  
 تَوَاوِيْل - میل کرنا۔  
 تَوَاوِيْم - عاجزی کرنا۔  
 تَوَاوِيْم - کسی امر پر موافقت کرنا۔  
 تَوَاوِيْدَا - آپس میں ایک دوسرے کے لئے وعدہ کرنا  
 (اس کا استعمال خیر میں ہے اور شر کے لئے  
 ایقاعا ہے۔  
 تَوَاوِيْق - آپس میں ایک دوسرے کے لئے ذمہ داری ہونا  
 آپس میں موافقت کرنا۔ آپس میں ایک  
 دوسرے کی مدد کرنا۔  
 تَوَاوِي - قوم کا پورا ہونا۔  
 تَوَاوِيْف - دُکروہ کا آپس میں جنگ کے لئے کھڑا ہونا

تَوَدَّرُ - سوج جانا۔	تَوَثَّقُ - مضبوط ہونا۔ پختہ ہونا۔
تَوَدَّرِيَّةٌ - حقیقت حال چھپانا اور اس کا غیر ظاہر کرنا۔	تَوَثَّقِيَّةٌ - مضبوط و مستحکم کرنا۔ اعتماد اور بھروسہ کرنا۔ کسی کو مستبر کرنا۔
تَوَدَّرِيْدٌ - رخصتوں کو گلگلوں کرنا۔	تَوَثَّقِيْلٌ - مضبوط و استوار کرنا۔
تَوَدَّرِيْحٌ - تاریخ لکھنا۔	تَوَثَّقِيْدٌ - بیخوابی وغیرہ کی شکایت کرنا۔ غمگین ہونا۔
تَوَدَّرِيْشٌ - درغلانا۔ برا ٹیگھنا۔ کرنا۔	تَوَثَّقِيْحٌ - درد و تکلیف میں ہونا۔ مردہ کا مرنیہ کرنا۔
تَوَدَّرِيْقٌ - درخت کا پتے نکال لانا۔	تَوَثَّقِيْہٌ - شکست کھانا۔ منہ پھرننا۔ بڑھا ہونا۔
تَوَدَّرِيْثٌ - چرپایہ پر پاؤں سمیٹ کر بیٹھنا۔ زین پر ایک سرین پر بیٹھنا۔	[الی] کسی کی طرف منہ کرنا۔
تَوَدَّرِيْمٌ - سوچا ہوا کردینا۔ گھاس کا لمبا ہونا [یا آفتہ] غصہ دلانا	تَوَدَّرِيْمٌ - کسی کی طرف منہ کرنا۔ کسی کو ایک کام کی طرف بھیجنا۔
تَوَدَّرِيَّةٌ - منالشی (د)	تَوَدَّرِيْمٌ - یکا تہ دیے ہوتا ہونا۔ پیشل ہونا۔
تَوَدَّرِيْسٌ - وزیر ہونا۔ وزارت کرنا۔	تَوَدَّرِيْسٌ - مکان کا دیران ہونا۔ جھگڑا کا بے آب و گیاہ ہونا۔
تَوَدَّرِيْعٌ - متفرق و منتشر ہونا۔ منقسم ہونا۔	تَوَدَّرِيْسٌ - ایک جاننا۔ خدا تعالیٰ کو ایک کرنا۔
تَوَدَّرِيْعٌ - منتشر اور پراگندہ کرنا۔ تقسیم کرنا۔	ادراس کی یکتائی پر اعتقاد کرنا۔
تَوَدَّرِيْعٌ الْبَرِيْدٌ - ڈاک کی تقسیم (د)	تَوَدَّرِيْسٌ - بھاگنے میں ہتھیار اور کپڑے اپنے اذیرے پھینک دینا۔
تَوَدَّرِيْحٌ - میلہ ہو جانا۔ گندہ ہونا۔	تَوَدَّرِيْسٌ - خاطر عورت کو حسب منشا کھلانا۔
تَوَدَّرِيْسٌ - کسی چیز کو تکبیر بنا لینا۔ ٹیک لگانا۔	تَوَدَّرِيْحٌ - کھانے وغیرہ کا ہضم نہ ہونا۔
تَوَدَّرِيْسٌ - درمیانی چیز لینا۔ بہت بہت گھٹیا نہ بہت بڑھایا لوگوں کے درمیان میں بیٹھنا۔	تَوَدَّرِيْحِيٌّ - ٹھیک بات تلاش کرنا۔ خوشی چاہنا۔
بیچ میں پڑنا۔	تَوَدَّرِيْسٌ - دوستی کرنا۔ [الی] دوست رکھنا۔
تَوَدَّرِيْحٌ - مجلس میں کھل کر بیٹھنا۔ فراخی۔	تَوَدَّرِيْسٌ - نرم ہو جانا۔
تَوَدَّرِيْسٌ - کسی سے نزدیک ہونے کے لئے کسی کو سبب اور ذریعہ بنا نا۔ چڑانا۔ چوری۔	تَوَدَّرِيْحٌ - رخصت کرنا۔ چھوڑ دینا۔ ایک کپڑے کو دوسرے کپڑے میں رکھنا۔
تَوَدَّرِيْسٌ - دیکھ کر سمجھ جانا۔ علامت سے کسی چیز کا پتہ چلا لینا۔ تاثر لیستنا۔ دسمہ لگانا۔	تَوَدَّرِيْسٌ - شہر میں کم داخل ہونا۔ پانی پر آنا۔
تَوَدَّرِيْسٌ - سوتی ہوئی عورت سے جماع کرنا۔	تَوَدَّرِيْحٌ - پرہیز کرنا اہل باذر ہونا۔ پرہیزگاری اختیار کرنا۔
تَوَدَّرِيْحٌ - میلہ کر دینا۔ گندہ کر دینا۔	تَوَدَّرِيْسٌ - پتے کھانا۔
تَوَدَّرِيْسٌ - کسی چیز کو تکبیر بنا لینا [الی] منسوب کرنا۔	تَوَدَّرِيْسٌ - سرین پر بیٹھنا۔

تَوَعَّلَ - کسی چیز کو درمیان میں لانا۔ کسی چیز کو بیچ  
 میں سے کاٹ کر دو ٹکڑے کرنا۔  
 تَوَسَّعَ - فراخ کرنا۔ مالدار اور فراخ دست کو دینا۔  
 تَوَسَّيْلَ - کسی چیز کے ذریعہ زندگی تلاش کرنا۔  
 ایسا کام کرنا جو زندگی کا باعث ہو۔  
 تَوَسَّطَ - کسی چیز کو اپنی گردن میں لٹکانا۔  
 تَوَسَّيْطَ - کسی چیز کو دوسرے کی گردن میں  
 لٹکانا۔  
 تَوَسَّيْعَ - کپڑے کو منقش کرنا۔ روٹی سے پونی  
 بنانا۔  
 تَوَسَّلَ - نرمی کے ساتھ طلب چاہنا  
 تَوَسَّيْتَهُ - نصیحت کرنا (د) سفارش۔  
 تَوَسَّيْدَ - ڈرانا۔  
 تَوَسَّيْلَ - کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ جوڑنا۔  
 تَوَسَّوْءَ - دھوکا دینا۔ لٹکے اور لٹکی کا بالغ ہونا۔  
 تَوَسَّيْحَ - ظاہر کرنا۔ کھولنا۔  
 تَوَسَّيْحَ - ذلیل و کمینہ کر دینا۔ جب میں روٹی ڈالتے  
 کے بعد سینا۔  
 تَوَطَّنَ - جگہ پر ٹھہرنا۔ اور رہ پڑنا۔ کسی چیز پر  
 دل ہونا۔  
 تَوَطَّيْتَهُ - آمادہ کرنا۔ نرم و آسان کرنا۔ پامال کرنا  
 پست کرنا۔  
 تَوَطَّيْدَ - ثابت و استوار کرنا۔  
 تَوَطَّيْنُ - کسی جگہ بود و باش اختیار کر لینا۔  
 کسی چیز پر دل رکھنا۔  
 تَوَطَّفَ - ٹوکری کرنا۔  
 تَوَطَّيْفَ - روزیہ مقرر کرنا۔ کسی کے ذمہ کوئی کام  
 مقرر کرنا۔  
 تَوَعَّدَ - آنے والی مصیبت سے ڈرانا۔ خوف

تَوَعَّلَ - کسی چیز میں مشغول ہونا اور اس میں درد  
 تک رسائی حاصل کرنا۔ اور پوری  
 کوشش صرف کرنا۔ دُور تک گھس  
 جانا۔  
 تَوَعَّلَ [عربی] کسی چیز پر بہت صرف کرنا۔  
 کسی کی تعظیم کرنا۔  
 تَوَقَّقَ - کسی کام پر قابو پانا۔ کوئی کام سرانجام  
 دینا۔  
 تَوَقَّقَ - تمام حق وصول کر لینا۔ تمام قرضہ  
 وصول کر لینا۔ رَوَقَاةُ اللّٰهِ۔ اللہ  
 تعالیٰ نے اس کی جان قبض کی ہے  
 اُٹھالیا۔  
 تَوَفَّيْدَ - روانہ کرنا بھیجنا۔  
 تَوَفَّيْتَهُ - کسی کا تمام حق ادا کر دینا۔ پورا قرضہ  
 ادا کر دینا۔  
 تَوَفَّقَ - کسی کی کام میں مدد کرنا۔ خدا تعالیٰ کا  
 کسی کام میں کامیابی بخشنا۔ حالات  
 کو سازگار کر دینا۔  
 تَوَقَّانَ - (ن) بہت آرزو مند ہونا۔  
 تَوَقَّدَ - آگ بھڑکاتا۔ آگ جلاتا۔ آگ  
 بھڑکنا۔  
 تَوَقَّرَ - بردبار ہونا۔ استہنگی اور اطمینان  
 سے کام کرنا۔  
 تَوَقَّحَ - کسی چیز کے وقوع میں آنے کی امید  
 رکھنا۔ توقع۔ اُمید۔ آس۔  
 تَوَقَّفَ - دیر کرنا۔ ٹھہرنا۔ ٹکنا۔  
 تَوَقَّنَ - کھولنے میں کیونکر کاشکار کرنا [حق]  
 پہاڑ پر چڑھنا۔

تومتق - دوست بنا لینا۔	توقی - پرہیز کرنا۔ بچنا۔ چوگنا رہنا۔
تومتق - اشارہ کرنا۔	توقیر - تعظیم کرنا۔ بردبار سمجھنا۔ بوجھ کا تھکا دینا
تومتق - آگ کا روشن ہونا۔ خوب بھینٹا۔ بزوقی چمکانا۔	آزمانا۔
تومتق - وہم کرنا۔	توقیف - آگ میں پھنسیاں ڈالنا۔
تومتق - کمزور ہوجانا۔	توقیح - خطر پر نشان کرنا۔ نشان۔ مہر (د)
تومتق - غلطی میں ڈال دینا۔ شک ڈال دینا۔	دستخط کرنا۔ دستخط۔
تومتق - کمزور کر دینا۔ ناطقت کر دینا۔	توقیف - کھڑا کرنا۔ ٹھہرنا۔ واقف اور آگاہ
تومتق - ہلاکت۔	کرنا (د) مجرم کو حوالات میں رکھنا۔
	توقد - پختہ اور مضبوط ہوجانا۔
	توقز - [ل] کسی کام کے لئے آمادہ ہونا۔
	[علی] لاشھی پر ٹیک لگانا۔
	توقل - [علی] اعتماد اور بھروسہ کرنا۔ اپنے
	عجز کا اقرار کرنا۔ اپنے کام کو کسی کے حوالہ
	کرنا۔ کسی کو وکیل بنانا۔
	توقوہ - [علی] بھروسہ کرنا۔ بھیکہ لگانا۔
	توقیندا - مضبوط کرنا۔
	توقینس - کم کرنا۔ ڈرانا۔
	توقینیل - وکیل بنانا۔ کسی پر کام کو چھوڑ دینا۔
	کسی کو کسی چیز پر مقرر و معین کرنا۔
	(د) ڈیلی لیشن۔ نمائندگی۔
	توقلد - ایک چیز کا ایک چیز سے پیدا ہونا۔
	توقلہ - عملیں ہونا۔ محبت سے پر ہونا۔
	توقلی - اپنے ذمہ کسی کام کو لے لینا۔ حاکم بننا
	دوست بنانا [علی] پھر جانا۔ مزہبیر
	لینا۔
	توقلیتہ - حاکم بنانا۔ کسی کے ذمہ کام ڈال دینا
	مزہبیر لینا۔ بیٹھ بھیرنی۔
	توقلید - پیدا کرنا۔ پرورش کرنا۔ بچہ جیوانا۔
	توقلیج - اپنی کر دینا۔

## ت - ۵

تھاچر - آپس میں الگ ہوجانا۔ ایک دوسرے سے جدا ہونا۔
تھاچی - آپس میں بچو کرنا۔
تھاڈر - خون کو آپس میں مباح کر دینا۔
تھاڈن - کسی کام کا درست ہوجانا۔ آپس میں صلح کرنا۔
تھاڈی - آپس میں محض دینا۔ نرم چلنا۔
تھاقت - گر پڑنا۔ پارہ پارہ ہو کر گرنا۔ پے در پے آنا۔ خود کو کسی چیز پر ڈال دینا۔ بکرو کا پڑانا ہوجانا۔
تھاٹک - بیمار ہو کر بستر پر پڑ جانا۔ عورت کا ناز و انداز سے چلنا۔ ٹھک کر چلنا۔
تھاٹہ - مکہ معظمہ میں ایک زمین ہے۔ جنوبی جماز کا علاقہ۔
تھاؤد - ارزانی نرخ۔
تھاؤس - آپس میں بھید کرنا۔
تھاؤن - ہلکا سمجھنا۔ حقیر جانتا
تھاؤنج - سوج جانا
تھاؤوب - حرکت کرنا۔

تہذیب - اہل دیوال کے لئے کافی کرنا

تہذیب - کپڑے کا پھٹا ہوا اور چراہواہر جانا۔

رسوا ہونا۔

تہذیب - پھاڑنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔

تہذیب - رات کا سونا۔ بیدار رہنا۔ لغات

اصد اد سے ہے۔ اسی سے دوسرے

معنی کے لحاظ سے صلواتہ تہذیب

ہے۔

تہذیب - دوپہر کو سفر کرنا۔ مہاجر کی مانند ہونا۔

تہذیب - حروف کی بجا کرتی۔ حروف الف۔

با۔ تا وغیر پڑھتا۔

تہذیب - آگ بھڑکانا۔ آنکھوں کا گڑھے میں

گھس جانا۔

تہذیب - بیدار کرنا۔ سلاتا۔

تہذیب - نماز کے لئے اڈل وقت آنا۔ دوپہر کو

سفر کرنا۔ دن کا سخت گرم ہونا۔

تہذیب - خوب سونا۔ سلاتا۔

تہذیب - بے عزتی کرنا۔ گالیاں دینا۔

تہذیب - بھڑکا اور عیب دار کر دینا۔

تہذیب - ڈرانا دھمکانا۔

تہذیب - دیران ہونا۔ غصہ کا شدید ہونا غصہ

میں دھمکانا۔

تہذیب - راستہ پانا۔

تہذیب - تحفہ بھیجنا۔ تحفہ دینا۔

تہذیب - ڈرانا۔ بکریوں کو ایک دوسرے کے

پچھے چھوڑ دینا۔

تہذیب - عمارت کو ڈھانا۔ دیران کرنا۔

تہذیب - غش کرنا۔ عورت کا بچہ کو باتوں سے

بھلانا۔

تہذیب - پاکیزہ کرنا۔ درستی و اصلاح کرنا

جلدی کرنا۔ بیکار حصہ کو نکال دینا۔

تہذیب - تعلیم و تربیت۔ اصلاح۔ شائستگی۔

تہذیب - جھگڑانا (د) کسی ممنوعہ شے کی تجارت

کرنا۔

تہذیب [مب] دزدوں کو ڈانٹنا [فی] باتوں

میں مذاق کرنا۔

تہذیب - کتوں کو ایک دوسرے پر دوڑانا اور

آپس میں لڑانا۔ لوگوں میں مشا اور فساد

ڈالنا۔

تہذیب - بے فروت کر دینا۔ بزرگ کر دینا۔

تہذیب - حرکت کرنا۔ ہلنا۔

تہذیب - مسخر اپن کرنا۔

تہذیب - گانا۔

تہذیب - حرکت دینا۔ ہلانا۔

تہذیب - ڈبلا کر دینا۔

تہذیب - شکستہ ہونا [علی] کسی کا مذاق اڑانا۔

تہذیب - تمسخر کرنا۔

تہذیب - پشیمان ہونا۔

تہذیب - وہ چیز جس کا انجام ہلاکت ہو۔ نیستی

مرجانا۔ نیست ہونا۔

تہذیب - بھلی چمکانا۔ چہرہ کا خوشی سے چمکانا

آنسوؤں کا جاری ہونا۔

تہذیب - بال اٹھانا۔ بھوکنا کالیاں دینا۔

تہذیب - مار ڈالنا۔ نیست کرنا۔ ہلاک کر دینا۔

برباد کر دینا۔

تہذیب - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (د) شرف و

تہذیب - چیریز

تہذیب - مہارک باد دینا۔

تہنید۔ اُوکی طرح آواز نکالنا۔ تلوار تیز کرنا  
 زرقی [ کام میں کوتاہی کرنا۔  
 تھوس۔ کسی چیز میں بے باکی کے ساتھ کود  
 پڑنا۔ دیوار کا پھٹ جانا۔  
 تھوش۔ مل جانا [علیٰ کسی کے خلات مجرم  
 کرنا۔  
 تھوش۔ بہ تکلف تے کرنی  
 تھوید۔ یہودی کر لینا۔ نرمی کے ساتھ گلے  
 میں آواز پھراتا۔ خوش آوازی کرنا۔  
 گانا۔ نرمی سے بات کرنا۔ آہستگی سے  
 چلنا۔ سو جاتا۔ کوٹان کا گوشت  
 کھانا۔ شراب کا مست کر دینا۔  
 راگ سُنانا۔  
 تھویر۔ کسی کو بچھا دینا۔ دیوار وغیرہ کو گرا دینا  
 تھویر۔ ڈرانا۔  
 تھویر۔ تجدید ہوا (د)  
 تھویر۔ تے کرنا۔  
 تھویر۔ جوش میں آنا۔ حرکت کرنا۔ براہِ گنجتہ ہونا  
 تھویر۔ جوش میں لانا۔ حرکت دینا۔ ہوا کا گھاس  
 کو خشک کرنا۔ براہِ گنجتہ کرنا۔

تینید۔  
 تیس۔ بجز اُزہرن۔ جج۔۔ تیسوس  
 تیسر۔ آسان ہونا۔ دن کا سرد ہونا۔ آباد ہونا  
 تیسر۔ آسانی کرنا۔ توفیق دینا۔  
 تیسر۔ مائیفانڈ۔ موتی جھال (د)  
 تیسر۔ بیدار ہو شیار رہنا۔ نیند سے بیدار  
 ہونا (د) بیدار مغزی۔  
 تیسر۔ لے شہد جانا۔ یقینی طور پر معلوم کرنا۔  
 تیسر۔ جگانا۔ بیدار کرنا۔  
 تیسر۔ غلام (بھی) غلام دتا بدار رہنا۔ لینا  
 تیسر۔ ہمزاد یعنی پیدا ہونے میں جو بچہ دوسرے  
 بچہ کا شریک ہو۔  
 تیسر۔ قصد کرنا۔ پاک ہونے اور عبادت  
 کرنے کی نیت سے ہاتھوں اور چہرہ پر  
 خاک ملنا۔  
 تیسر۔ برکت لینا۔ مبارک ہونا۔ مرجانا۔ قبر  
 میں مردہ کو داہنی طرف رکھنا۔ برکت  
 کی دعا کرنا۔  
 تیسر۔ قصد و ارادہ کرنا۔ تیمم کرنا۔  
 تیسر۔ داہنے ہاتھ کی طرف چلنا یمن میں داخل  
 ہونا [علیٰ کسی کے لئے برکت کی دعا  
 کرنا۔  
 تیسر۔ اسم جنس (خیمہ) تینتہ ایکہ انجیر۔  
 شیخی۔ بکھر۔ گراہی۔ بیابان جس میں  
 مسافر سرداں اور ہلاک ہو جاتیں۔  
 جج۔ آتیا۔ آتاویہ۔ اتاواہہ  
 گراہی (بھی) محل کا بلند ہونا۔  
 شیخی مارنا (ب) لفتح و اکسر گراہ ہونا  
 ہر جگہ سرداں پھرنا۔

تہنید۔ اُوکی طرح آواز نکالنا۔ تلوار تیز کرنا  
 زرقی [ کام میں کوتاہی کرنا۔  
 تھوس۔ کسی چیز میں بے باکی کے ساتھ کود  
 پڑنا۔ دیوار کا پھٹ جانا۔  
 تھوش۔ مل جانا [علیٰ کسی کے خلات مجرم  
 کرنا۔  
 تھوش۔ بہ تکلف تے کرنی  
 تھوید۔ یہودی کر لینا۔ نرمی کے ساتھ گلے  
 میں آواز پھراتا۔ خوش آوازی کرنا۔  
 گانا۔ نرمی سے بات کرنا۔ آہستگی سے  
 چلنا۔ سو جاتا۔ کوٹان کا گوشت  
 کھانا۔ شراب کا مست کر دینا۔  
 راگ سُنانا۔  
 تھویر۔ کسی کو بچھا دینا۔ دیوار وغیرہ کو گرا دینا  
 تھویر۔ ڈرانا۔  
 تھویر۔ تجدید ہوا (د)  
 تھویر۔ تے کرنا۔  
 تھویر۔ جوش میں آنا۔ حرکت کرنا۔ براہِ گنجتہ ہونا  
 تھویر۔ جوش میں لانا۔ حرکت دینا۔ ہوا کا گھاس  
 کو خشک کرنا۔ براہِ گنجتہ کرنا۔

ت - ی

تیا۔ ترو۔ تھیٹر (د)  
 تیا۔ ایک دوسرے کے ساتھ آسانی کرنا۔  
 تیا۔ بائیں طرف کر لینا۔ خلات تیا من۔  
 تیا۔ لوجیا۔ علم الہیات (د)  
 تیا۔ داہنی طرف کو لے جانا۔  
 تیا۔ ٹیپ۔ ٹاپ رائٹر (د)  
 تیا۔ خشک کرنا۔ سکھانا۔

ثَبَات - بیماری جو ہلنے چلنے سے عاجز کر دے  
متفرق -

ثَبَات - (ن) کھڑا رہنا - اپنی جگہ پر رہنا - برقرار  
رہنا -

ثَبَات - اپنی جگہ پر جہاں رہنے والا بہادر -  
مضبوط دل کا - جھکڑے کے وقت  
اپنے قول کا پکا (د) سند -

ثَبَات - نرم زمین - گڑھا -

ثَبَات - (ن) ٹھہرنا -

ثَبَات - ہلاکت - غذاب - نقصان (ن) ہلاک  
ہو جانا - ہلاک کر دینا -

## ث - ج

ثَجَّج - (ن) بہنا بہانا (پانی یا خون)  
تَجَّاج - میز زور سے گرنے والا - پانی کا ریلا -

## ث - خ

ثَخِين - بر بار اور بار بار آدمی -

ثَخِينُ السَّلَاحِ - ہتھیار بند آدمی -

ثَخِينُ السُّج - دبیر اور موٹا بنا ہوا کپڑا -

## ث - د

ثَدَى - پستانوں کی کٹانی (بڑا پن)

ثَدَى - عورت کا پستان کبھی مرد کے لئے  
بھی استعمال کیا جاسکتا ہے - ج - ۱ -

ثَدَى

ثَدَى - (ن) ترکنا ثَدَى (س) تر ہونا

ثَدَى (د) ثَدَى - بڑے پستانوں والی

عورت -

## ث - ل

ثَاء - چوتھا حرف حروف تہجی میں ہے -

ثَابِت - اپنی جگہ پر قائم رہنے والا (مذکر)

ثَأْس - کینہ - اپنے دوست کا اپنے اقارب کا

قابل - ثَمَن - ج - ۱ - اَثَار و اَثَار

و اَثَار -

ثَارَّة - بہت بولنے والی عورت -

ثَابِت - روشن اور چمکدار - بہت دودھ والی

ادھنی -

ثَائِل - سخت بیمار - وزن میں کامل - ج - ۱ -

ثَوَائِل -

ثَائِل - دوست کو یا اپنے بچے کو گم کرنے والا -

ثَائِل (مؤنث) ثَائِل كَالْمَطْلِي -

ثَائِلَة - ثَائِل - ثَائِلَة - ج - ۱ -

ثَوَائِل و ثَائِل -

ثَائِل - تیسرا -

ثَائِلَة فَلَاحَة - تین میں کا تیسرا

ثَائِلَة - جسم کا مستوں سے بھر دینا -

ثَائِل - میوہ دار درخت - لوبیا -

ثَائِل - تلوار کہ مدت سے صیقل نہ ہوئی ہو -

ثَائِل - اٹھواں -

ثَائِل - دوسرا -

ثَائِلَة - سکڑ - ج - ۱ - ثَوَائِل (د)

ثَائِل - غضب جوش میں آنے والا - ہیجان

میں آنے والا -

ثَائِلَة لَوَّاس - بھرے ہوئے اور پریشان بال والا -

## ث - ب

ثَبَات - برقع کا بند - پالان کا بندھن -

## ث - س

شَدَاء - مال کی کثرت - دو لمٹنری  
 شَدَارَة - بہت پانی والا چشمہ  
 شَرَب - چربی جو ادھیڑی اور انتڑیوں پر ہوتی ہے - ج - شَرَاب  
 شَرَب - (ن) گناہ پر طاعت کرنا -  
 شَرَد - لمبوں کی پھین -  
 شَرَوَة - بہت سال اور آدمی - وہ احم میں  
 چاند اور پردوں جمع ہو جائیں -  
 شَرَوَى - بہت مالدار عورت -  
 شَرَى - تری - سیلی ہوئی زمین - خیر - پسینہ  
 مص (س) تراویق ہو جانا -  
 شَرَى - بہت مالدار -  
 شَرَى - مال دار عورت - پردین (د) روشنی کا  
 جھاڑ -  
 شَرِبَا طَة - کیمڑ - گارا -  
 شَرِيْد - شَرِيْدَة - روٹی شوربے میں چوری ہوئی -  
 شراب کا جھاگ -

## ث - ط

شَطَاع - دکام -

## ث - ع

ثَعَال - ثَعَالَة - مادہ لومڑی (علم ہے اور  
 غیر منصف) -  
 ثَعْبَان - اژدہ - ج - ثَعَابِيْن -  
 ثَعْلَب - لومڑی ج - ثَعَالِب -  
 ثَعْبَة - سبز سر کی خبیث چھکی -

## ث - ع

ثَعْد - گلی کو چھ گھاٹی - کفار کے ملک کی  
 سرحد - شہر کے گلی کوچوں میں خطرناک  
 جگہ - دانت - اگلے دانت ج - ثَعُوْد  
 ثَعْر - (ف) رخنہ (وراز) ڈالنا - رخنہ بند کرنا  
 دانت توڑ ڈالنا -  
 ثَعُوْد - دانت ٹوٹنا - منہ کھلانا - دودھ کے  
 دانت ٹوٹنے (اس معنی میں مجہولاً مستعمل ہے)  
 ثَعِيْط - ہلکا ریت -

## ث - ف

ثَعَال - سست چلنے والا (اونٹ یا آدمی)  
 چھاگل -  
 ثَعَال - جچی کے نیچے بھا ہوا چڑا یا کپڑا بچی  
 کے نیچے کا پاٹ - چھاگل -  
 ثَعَال - جچی کے نیچے کا پاٹ -  
 ثَعْد - دزدوں اور شرکاری پرندوں کی شرمگاہ  
 زین کی دھمی -  
 ثَعْد - گتھلی - تلچھٹ - وہ کپڑا یا چڑا جو  
 آنے کی حفاظت کے لئے بچی کے نیچے  
 بھاتے ہیں -

## ث - ق

ثَقَاة - تہذیب - کلچر (د)  
 ثَقَال - بھاری بھاری سرین والا - آہستہ  
 چلنے والا -  
 ثَقَالَة - (رک) بھاری ہونا -  
 ثَقْب - سوراخ - ج - ثَقُوْب - اَثَقُوْب



مصص (ن) دوست اور اولاد سے محروم ہونا۔

شکنہ - پھادنی (د)

## ث - ل

شکن (ن) کنوئیں میں سے مٹی نکلنا۔ ہلاک کرنا۔

شکلات - تیسرا (مؤنث تلاثہ)

شکلات - تین تین۔

شکلاتون - تین تین۔

شکلاتی - تین تین والا۔ منسوب شبلاٹ۔ وہ لفظ جس میں تین حرف اصلی ہوں۔

شکلاج - برت بچنے والا۔

شکلال - ہلاکت۔

شکلب - عیب ج:۔ شلوب۔

شکلتہ - آدمیوں کا گروہ۔ بہت سے درجہ۔

شکلت - تیسرے دن درخت کو پانی دینے کی نوبت۔ ادھنی کا تیسرا بچہ۔

شکنت - (ن) مال میں سے تہائی لینا۔ تیسرا ہونا۔ دو اور اپنے ساتھ ملا کر تین کر دینا۔

شکنتون - تین تین۔

شکلیج - برت ج:۔ شکلیج ٹھنڈا پانی

مصص (ن) برت برسنا۔ پانی میں بھگوننا۔

شکلیج - ٹھنڈا۔

شکلیج - (ب) خوش ہونا۔ دل ٹھنڈا ہونا۔ دل کا آرام پکڑنا۔ کسی چیز کا یقین کرنا۔

شکل - ہلاکت۔ مصص (ن) دانتوں کا

مصص (ن) سوراخ کرنا۔ اونچا اڑانا۔

روشن ہونا۔ پھیل جانا۔ بہت دودھ

والا ہونا۔ رائے کا نافذ ہونا۔

شقبہ - سوراخ ج:۔ ثقب - ثقب۔

ثقبہ - (لث) عقل مند اور تیز۔ دو چالاک ہونا۔

ثقب - بھاری بوجھ۔ گناہ۔ زمین کا ذمینہ

زمین میں کا مرہ ج:۔ ائقتال

ثقب - (لث) بھاری ہونا۔ حمل کا بھاری اور ظاہر ہونا۔

ثقب (ن) ہاتھ میں لے کر چڑے کے وزن

کو جانچنا۔ ایک چیز کا دوسری چیز سے وزنی ہونا۔

ثقب - اسباب سفر۔ ہر نفیس قابل حفاظت

چیز ج:۔ ائقتال

ثقلان - آدمی اور جن۔

ثقلہ - ثقلہ۔ ثقلہ۔ ثقلہ۔

اسباب۔ سامان۔

ثقلہ - پینک۔ کھانے کی گرانی۔

ثقب - (ن) ثقبیہ (لث) آگ کا بھڑکنا

ستارہ کا روشن ہونا۔ بو پھیلنا۔ بہت

سرخ ہونا

ثقیف - ثقیف عقل مند اور چالاک آدمی بہت

کھٹا اور تیز سرکہ۔

ثقیب - بہت سرخ دودھیل ادھنی۔

ثقیل - بھاری۔ سخت۔ بیمار۔ وہ جس کی صحت

ناگوار ہو ج:۔ ثقیال۔

## ث - ل

ثحل - موت۔ ہلاکت۔ اولاد سے محرومی

## ث - ن

ثنتان - (مؤنث کے لئے) دو  
ثنتاء - مرو کا پستان -  
ثنتی - نالہ کا موڑ - پہاڑ کا موڑ - خط کی تہ  
دوسرا - دوسرا پتھر - سردار سے  
دوسرے درجہ کا آدمی - رات کا کچھ حصہ جہ: - آٹنا  
ثنتی - تکرنا - موڑنا - عن [کسی چیز سے رکن  
واپس کر دینا -  
ثنتی - اونٹ کے چھٹے سال میں گاجوہر: ثنتی ثناء  
ثنتی - موڑ - تہ -  
ثنتی - پشتہ - ٹیلے کا راستہ - پہاڑ - پہاڑ کی  
طرف راستہ - پہاڑی راستہ - اگلے چاروں طرف  
دو دایرے کے دو نیچے کے جہ: - ثنتی -  
استثنا جس کا استثناء کیا جائے -  
(دا) پاڈوں میں باندھنے کی پٹی -

## ث - و

ثواب - نیکی کا بدلہ  
ثواب - کپڑا بیچنے والا - بزاز -  
ثوب - کپڑا - جہ: - آثواب - ثنیاب -  
آثوب - مص (ن) لوٹ آنا  
جمع ہوجانا - پانی سے پھر جاتا  
ثوبان - (ن) بیماری کے بعد تندرست ہونے  
لگنا -  
ثور - ثوران - جوش میں آنا - اٹھنا - گرد اور  
دھوئیں کا نکلنا - ٹیڑھی کا اٹھنا - خون  
کا ظاہر ہونا - جنسیوں کا بدن پر نکلنا -  
جی متلانا - پانی کا نکلنا اور جاری ہونا -

گہر پڑنا - گہر کر دینا - دیران کرنا -  
بے غزوت کر دینا -  
ثلم - (ن) رختہ کرنا -  
ثلمتہ - رختہ -  
ثلمط - کپڑ - جہ: - ثلاوط -  
ثلیث - تین میں کا ایک -

## ث - م

ثمد - اُس جگہ ظرف مکان ہے -  
ثمد - پھر - تب - لئذا -  
ثمد - (ن) (ص) پانی - کھودنا - حوض بنانا  
ثمدار - میوہ -  
ثمداس - میوہ فروش -  
ثمود - حضرت صالحؑ کی قوم  
ثموس - (ن) پھل والا ہونا -  
ثمرۃ - پھل جہ: - ثمدات -  
ثماتی - (مؤنث) آٹھ -  
ثمائیۃ - (مذکر) آٹھ -  
ثمانین - اسی - ایک شہر کا نام -  
ثمراء - درخت پھلوں سے لدا ہوا - زمین جس  
میں میوے ہمت ہوں -  
ثمن - قیمت - جہ: - ائمن - ائمان - ائمنۃ  
ثمن - آٹھواں حصہ -  
ثمن - (ن) (ص) مال میں سے آٹھواں حصہ  
لینا - آٹھواں ہونا -  
ثمین - آٹھ میں کا ایک -  
بیش قیمت -  
ثمنیۃ - ثمانیۃ - کی تصغیر ہے - چھوٹے  
چھوٹے آٹھ مرد -

جَاحِطَتَانِ - آسکھی کی دونوں بڑی پتلیاں  
 جَادَاةٌ - شامہراہ - سرسوک کا درمیان جہ - جواد  
 جَادِلٌ - بھگڑالو -  
 جَاذِبٌ - کھینچنے والا - چوسکر - خشک کرنے والا  
 (مؤنث) جَاذِبَةٌ -  
 جَاذِبِيَّةٌ - کشش - (د)  
 جَاسِرٌ - جوار - (ف) دعائیں گڑ گڑانا اور دنا  
 گائے کا ادا کرنا [ الی ] عاجزی  
 والتجا کرنا -

جَاسِرٌ - کھینچنے والا - حرف جار - حرف زہر  
 کرنے والا -

جَاسِرٌ - بطوسی - ظلم سے پناہ دیا ہوا - پناہ  
 دینے والا - پناہ چاہنے والا - مدد  
 دینے والا - خاوند عورت کی شہزگاہ -  
 جہ - جہیزان - جَدَّةٌ - آجواس -  
 جَاذِرَةٌ - اونٹ جس کو کام میں مشغول رکھیں - پانی  
 کی طرف جانے کا راستہ -

جَارَةٌ - بڑوسن - بیوی - سوت -  
 جَاسِرٌ - سخت کھانسی - بانجھ عورت -  
 جَارِدٌ - منحوس آدمی - قحط -  
 جَارِدٌ - ڈرا تیرور (د)

جَارِيٌّ - بہنے والا - ہمیشہ رہنے والا -  
 جَارِيَّةٌ - آفتاب خدا کی نعمت - کشتی - چھوٹی  
 لڑکی جہ - جَوَارِيٌّ - ہمیشہ ادرا برابر  
 جاری رہنے والی -

جَاسِرٌ - گیس - (د)  
 جَارِعٌ - بہت گھبراتے والا -  
 جَاسِسٌ - بڑی نیت سے خبروں کی جستجو کرنے والا  
 جہ - جَوَاسِسٌ (د) خفیہ پولیس

بھوٹ نکلتا [ب - الی] کسی پر چڑھ  
 دوڑنا - حمد کرنا -

شورۃ - شورش مال اور آدمیوں کی کثرت  
 گائے (د) بغاوت -

شورۃ - انقلابی (د)  
 شورۃ - سرپیمان - مستہ جہ - شارلیل  
 شوم - لہسن شوۃ - ایک پونجھی لہسن کی  
 شورۃ - نواء (صق) ٹھہرنا - مسکن پذیر ہونا -  
 شورۃ - مہمان خانہ (د)

## ت - ی

تَدِيبٌ - عورت جو مرد سے ہمبستر ہو چکی ہو -  
 مرد جو عورت سے ہمبستر ہو چکا ہو -  
 تَدِيْبَةٌ - رنڈاپا -  
 تَشِيْنٌ - دریا سے موتی نکالنے والا -

## ج - ا

جَاءٌ - آنے والا -  
 جَابِرٌ - ٹوٹے کو جوڑنے والا -  
 جَابِيَةٌ - بڑا حوض - پانی کے جمع ہونے کی جگہ - ایک  
 مقام شام میں - جہ - جَوَارِيٌّ -  
 جماعت -

جَانِثِيْقٌ - کینتھو لک - ایک عیسائی فرقہ (د)  
 جَانِيٌّ - زانوپر بیٹھنے والا - پاؤں کی انگلیوں  
 پر رکھنا ہونے والا -

جَانِثِيَّةٌ - قرآن مجید کی ایک سورۃ کا نام  
 جَاحِظٌ - جس کی آنکھیں بڑی اور ہاں رکھی ہوتی  
 ہوں - جہ - جَحِظٌ - ایک عربی  
 ادیب کا لقب -

جَاعِل - بنا نے والا۔

جَالِس - بیٹھنے والا۔ ج۔ جُلوس۔

جَاهِلِيَّة - اسلام سے پہلے کا زمانہ  
جَائِحَة - سختی جو کہ مال مویشی کو ہلاک کر دے۔ آن  
و مصیبت۔ ج۔ جَوَائِح۔

جَاوِت - عملہ کے ایک بادشاہ کا نام جو حضرت

جَائِذ - پانی وغیرہ کو زمین میں ڈال کر پینے والا۔

داؤد علیہ السلام کے ہاتھ سے مارا گیا۔

جَائِر - حق سے پھرنے والا۔ ظالم۔ ج۔ جَوَائِر  
- جَارَة - جَائِرُون۔

جَاه - پیالہ۔ گلاس۔ (چاندی۔ شیشہ وغیرہ کا)  
جَامَة - ایک گلاس۔ ج۔ جَامَات

جَائِز - غیر ممنون لوگوں پر سے پیا سا گزر گیا والا  
باغ دود دیواروں کے درمیان رکھی ہوئی  
شہتیر۔ ج۔ جَوَزَان - جَائِزَان  
جَوَائِز۔

جَامِد - جما ہوا۔ خشک۔ سونا۔ چاندی وغیرہ  
جسے صَامِت (خاموش مال) کہتے  
ہیں۔ کلمہ جس سے اور کلمہ مشتق نہ کر سکیں۔  
مشتق کی ضد ج۔ جَوَامِد۔

جَائِزَة - صلہ اور بخشش ج۔ جَوَائِزِ مُحَمَّد  
لطف و احسان۔ کنوئیں پر پانی کھینچنے  
کے لئے کھڑے ہونے کی جگہ۔ ایک  
پایس۔ پانی۔

جَامِدُ الْعَدْلَان - جس کی آنکھ سے آنسو نہ نکلے۔  
جَامِع - اکٹھا کرنے والا۔ جامع مسجد۔

جَامِعَة - یونیورسٹی (د)

جَاهِلِيَّة - تنخواہ (د)

جَائِشَة - دل۔

جَامُوس - گاؤں میں کامیاب یعنی (مؤنث)

جَائِع - جَوْعَان - بھوکا۔ ج۔ جَائِع

جَامُوسَة - ج۔ جَوَامِيس۔

جَوَّع (مؤنث) جَائِعَة -

جَات - جن۔ جنوں کا جدا مجید۔ ہارک سانپ

جَائِعَة الْوِشَاح - ڈبیلے پیٹ کی عورت۔

جَائِب - پہلو۔ ج۔ جَوَائِب - کنارہ۔ بیگانہ  
ناقران۔ ج۔ جَائِب

## ج - ب

جَائِب - گرا کنواں۔ گڑھا۔ ج۔ آجَائِب

جَائِبُ الْاَلْف - ناک کے دونوں پہلو۔  
جَائِف - راہ حق سے اعراض کرنے والا وصیت  
میں۔

جَائِب - جَائِبَة -

جَائِي - گناہ کار۔ مہر توڑنے والا۔ ج۔ جَائَة

جَائِب (ن) غلبہ کرنا۔ حسن میں ناز  
ہونا۔ خصیہ کو کاٹنا اور نکالنا۔

جَائِيَاء - آجٹاء۔  
جَائِش - سار جٹ۔

جَائِب - قحط۔ باطل۔ رائگاں۔

جَائَا - بزرگی۔ مرتبہ۔

جَائِب - جَبَّانے یا بچنے والا۔

جَائِد - کوشش کرنے والا۔

جَائِبَاد - بادشاہ۔ خدا تعالیٰ عزت اس کے ناموں

جَائِل - نادان۔ ج۔ جَائِل۔ جَائِل۔ جَائِل۔

جَبَّہ - (ف) پیشانی پر بارنا آورد کقع کرنا۔ بُرائی سے پیش آنا۔ کسی پر نامنا سب بات ڈالنا۔

جَبَّہا - عورت جس کی پیشانی فراخ ہو۔

جَبَّہتہ - پیشانی - قوم کا سردار جہ:۔ جِبَاہ -

جِبَوَة - جِبَاوَة (ن) جَبَايَة (رض) لگان اور محصول وصول کرنا۔ جمع کرنا۔

جَبَيْرَة - کنگن۔ لکڑی جس سے ٹوٹی ہوئی بڑی

کو بانڈھا جائے۔ جہ:۔ جَبَايِسْر

جَبَيِّن - پیشانی کی ایک جانب دو جہ بنوں میں

سے بز دل مرد ہو یا عورت جہ:۔

جَبُّن -

## ج - ت

جَبَّتہ - جسم آدمی کا لاش۔

جَبَّتَان - جسم

جَبَّتَو - جَبَّتِي (ن) رض) زانو پر بیٹھنا۔ دوزانو

بیٹھنا۔ انگلیوں کے سرے پر رکھنا ہونا

(فاعل) جَبَّتِي (مؤنث) جَبَّيْتِي

جَبَّتُوہ - جَبَّتَم (ن) رض) سینہ زمین پر لگانا

اور زمین پر پڑنا اور جہا رہنا۔

(فا) جَبَّتُوہ جہ:۔ جَبَّيْتِي -

## ج - ح

جَبَّادِيَّتِي - جَبَّادِيَّتِي - بزرگ۔

جَبَّادِيَّتِي - گیموں وغیرہ سے بھری ہوئی گون

دودھ سے بھری ہوئی مشک۔

جَبَّجَاح - سردار جہ:۔ جَبَّجَاحِيَّتِي -

جَبَّجَاحِيَّتِي -

میں سے ایک نام۔ بہت طاقتور۔ تسدہ والا۔ ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والا۔

جِبَارَة - لکڑیاں جن سے ٹوٹی ہوئی بڑی کو بانڈھیں

کنگن زیورہ جہ:۔ جَبَّاسْر -

جَبَّان - بز دل مرد ہو خواہ عورت۔

جَبَّت - بت کا بن۔ قال کھولنے والا۔ جہاد

بے تیر۔ باطل معبود۔

جَبَّيْتِي - سہوار زمین جہ:۔ جَبَّجَاحِيَّتِي -

جَبَّيْتِي - کھینچنا (جذاب) کا مقلوب ہے

جَبَّو - جَبَّوہ - جِبَارَة - (ن) کسی کا حال اچھا

کر دینا۔ بعد محتاج گی کے دو تہمت کر دینا

ٹوٹے ہوئے کو بانڈھنا۔ اچھا حال ہونا۔

کسی پر ظلم کرنا۔

جَبَّوہ - زبردستی سے۔

جَبَّوہ - جَبَّوہ - جَبَّوہ - جَبَّوہ

جَبَّوہ - لفظی معنی خدا کا بندہ۔

جَبَّوہ - وہ فرقہ جو انسان کو مجبور محض سمجھتا ہے

جَبَّوہ - پہاڑی زمین پہاڑ جہ:۔ جَبَّوہ

جَبَّوہ - آجَبَال - آجَبَال - قوم کا سردار۔

جَبَّوہ - کوہ آتش نشاں۔

جَبَّوہ - (ن) وض) پیدا کرنا۔

جَبَّوہ - بز دل مرد ہو ان کی آدمیتی۔ قوت۔ زمین

کی سختی۔

جَبَّوہ - پیدائشی - شکل - طبیعت - لوگوں کی

جماعت - امت - گروہ - بہت سے

سیرت - مخلوقات - جہ:۔ جَبَّوہ

جَبَّوہ - جَبَّوہ - پنہر - بز دل - ڈرنے کا مادہ

جَبَّوہ - پیشانی کی کشادگی۔

جَدُّوْدَة - آجَدَاد - قسمت -  
 روزی - بزرگی - بے نیازی -  
 دولت مندی - ندی کا کنارہ - روئے  
 زمین خوش قسمت آدمی -

جَدَّ - ( ن ) کا ٹٹا - گھر کا ٹپکنا -  
 درخت سے کھجوریں توڑنا - زخمی  
 ہو جانا - بڑا اور بزرگ معلوم  
 ہونا - خوش قسمت ہونا -

جَدَّ - ( ن ) حق کو شش کرنا - کام کو  
 درست کرنا - گھر کا ٹپکنا - خوش  
 نصیب ہونا -

جَدَّة - دادی - جہ - جَدَّات

جَدَّاد - دیوار - جہ - جَدَّاس - جَدَّاد  
 جَدَّان -

جَدَّال - بھگڑانا -

جَدَّاب - ( ن ) قحط زدہ اور خشک سال ہونا  
 جَدَّاباء - زمین خشک بے آب و گیاہ -

جَدَّاة - دھاری - علامت - راستہ - نشان  
 جہ - جَدَّد -

جَدَّاة - دادی - نانی -

جَدَّاة - نیا ہونا - نیا پن - ندی کا کنارہ - سمندر  
 کا کنارہ - چیتھڑا -

جَدَّاة - پانا - ( دَجْدَجْد - کا مصدر )

جَدَّات - قبر - جہ - آجَدَات

جَدَّاح - ( ف ) کوٹنا - پینا - ستو گھوننا

جَدَّاجد - چٹیل زمین چدنا چدنا

جَدَّاد - راستے - گھاٹیاں -

جَدَّار - دیوار - جہ - جَدَّاران - دیوار

کی جڑ - حطیم کعبہ - مص ( ك )

جَدَّاد - جَدَّاد - ( ف ) جان بوجھ کر اٹکار کرنا  
 تجاہل عارفانہ کرنا - ٹھیل پانا -

جَدَّاب - پست قدم - ٹھگنا - جہ -

جَدَّاب -

جَدَّاب - ( ف ) سوراخ میں داخل ہونا -

جَدَّاب - زمین میں رہنے والے جانوروں کے بل

جہ - جَدَّاب - جَدَّان -

أَجَدَّاد - آجَدَاد -

جَدَّاب - خشک سالی -

جَدَّاب - گدھے کا بچہ - مرن کا بچہ - گھوڑے

کا بچہ - جہ - پچاش ( مؤنث ) جَدَّاب

جَدَّاب - ( ف ) پھیلنا - تراشنا - لات مارنا

جَدَّاب - جَدَّاب - ( ف ) آگ بھڑکانا

( س ) آگ بھڑکانا - آگ کی کو

اٹھنا -

جَدَّاب - پرانی بڑھیا - بد صورت - عورت ناوہ

خرگوش جو دودھ دے - جہ -

جَدَّاب -

جَدَّاب - ( ف ) بڑی یا ابھری ہوئی آنکھوں

والا ہونا -

جَدَّاب - ( ن ) جڑ سے اکھاڑ دینا [ ب ]

مقیم ہونا -

جَدَّاب - کنارہ - ناحیہ -

جَدَّاب - بھڑکتی ہوئی آگ - بڑی آگ جسے

گرھ سے میں جلایا گیا ہو - آگ تہ

تہ - بہت گرم جگہ - دوزخ کے

ناموں میں سے ایک نام

ج - د

جَدَّ - وادا - نانا - جہ - جَدَّوْد

مناسب ہوتا۔ لائق ہوتا۔ کام کرنے کے سبب ہاتھوں میں آبیے پڑ جاتا۔ (ن) چیچک میں مبتلا ہوتا۔ مناسب اور لائق گردینا۔ گھاس کے سرے کا پھوٹنا۔

جَدْرِی - چیچک

جَدْع - (فت) ناک۔ کان وغیرہ کا ٹوٹا ہوا بنانا۔

جَدْع - (فت) ناک۔ کان وغیرہ کا ٹوٹا ہوا بنانا۔

جَدَل - ٹھکڑے کی قدرت۔ ٹھکڑا (رس) سخت ٹھکڑا

جَدَل - ٹھکڑے کی قدرت۔ ٹھکڑا (رس) سخت ٹھکڑا

جَدَل - سخت۔ عضو۔ قبر۔ جہ۔ جَدُول (ن) دشمنی کا سخت ہوتا۔ ٹھکڑتا۔

جَدَل - سخت۔ عضو۔ قبر۔ جہ۔ جَدُول

جَدِيل - بڑا ٹھکڑا لور۔

جَدِيل - بڑا ٹھکڑا لور۔

جَدُو - (ن) [عربی] کسی کو ہدیہ دینا۔ عطا کرنا۔

جَدُو - (ن) [عربی] کسی کو ہدیہ دینا۔ عطا کرنا۔

جَدْوَل - نالی۔ تالہ۔ پھوٹی نلہ۔ جہ۔ جَدَاوَل (ن) بکری کا بچہ۔ بکرا۔ خطہ جدی (منطقۃ البروج کا ایک برج) جہ۔ جَدَاوَل - جَدَاوَل

جَدْوَل - نالی۔ تالہ۔ پھوٹی نلہ۔ جہ۔ جَدَاوَل

جَدِيَان - سطح زمین۔ نیا۔ کٹا ہوا موت۔ ناگمانی جہ۔ جَدَاوَد

جَدِيَان - سطح زمین۔ نیا۔ کٹا ہوا موت۔ ناگمانی جہ۔ جَدَاوَد

جَدِيَان - رات دن۔

جَدِيَان - رات دن۔

جَدِيَر - مناسب و لائق۔ چار دیواری۔ جہ۔ جَدَاوَد

جَدِيَر - مناسب و لائق۔ چار دیواری۔ جہ۔ جَدَاوَد

جَدِيَلَة - قیید۔ کنارہ۔ حالت۔ ڈھنگ۔ جہ۔ جَدَاوَل

جَدِيَلَة - قیید۔ کنارہ۔ حالت۔ ڈھنگ۔ جہ۔ جَدَاوَل

## ج - ذ

جَدَاذ - (جنس) ٹوکڑا۔ ہر چیز کا ریزہ۔

جَدَاذ - (جنس) ٹوکڑا۔ ہر چیز کا ریزہ۔

سوئے کی ڈلی۔ جَدَاذَة میں تائے وحدت ہے۔

جَدَاہ - کوڑھ۔ وہ مرض جس میں اعضا بگل جاتے ہیں (اعاذا نا اللہ منہا) جَدَامَة - کئے ہوئے کھیت میں سے جو کچھ بھر کر بیج رہے۔

جَدَاب - (حق) کھینپنا۔ گھسیٹنا۔ مائل کرنا۔ موہ لینا۔

جَدَاب - (حق) کھینپنا۔ گھسیٹنا۔ مائل کرنا۔ موہ لینا۔

جَدَاد - (فت) کاٹنا۔ جڑ سے اکھاڑ دینا۔

جَدَاد - (فت) کاٹنا۔ جڑ سے اکھاڑ دینا۔

جَدَاع - گائے بکری جو دوسرے سال میں گئی ہو گھوڑا جو تیسرے سال میں اور ادٹ جو یا نچویں سال میں لگا ہو۔ نیا جوان جوان بیٹھا۔ جہ۔ جَدَاعَان

جَدَاع - گائے بکری جو دوسرے سال میں گئی ہو گھوڑا جو تیسرے سال میں اور ادٹ جو یا نچویں سال میں لگا ہو۔ نیا جوان جوان بیٹھا۔ جہ۔ جَدَاعَان

جَدَاع - کھجور کا تنہ۔ چھت کا شہتیر۔ براتھن اور ٹانگوں کے سوا انسان کا باقی جسم جہ۔ جَدَاوَع - آجَدَاع

جَدَاع - کھجور کا تنہ۔ چھت کا شہتیر۔ براتھن اور ٹانگوں کے سوا انسان کا باقی جسم جہ۔ جَدَاوَع - آجَدَاع

جَدَاہ - (رض) ہاتھ کاٹنا۔

جَدَاہ - (رض) ہاتھ کاٹنا۔

جَدَاہ - (مہولاً) ہاتھ کاٹنا جانا۔ انگلیوں کا سرا گر رہنا۔ مرض عذاب میں مبتلا ہونا۔

جَدَاہ - (مہولاً) ہاتھ کاٹنا جانا۔ انگلیوں کا سرا گر رہنا۔ مرض عذاب میں مبتلا ہونا۔

جَدَاہ - ہاتھ جس کی انگلیاں گر گئی ہوں۔

جَدَاہ - ہاتھ جس کی انگلیاں گر گئی ہوں۔

جَدَاوَة - چنگاری جہ۔ جَدِي - جَدَاوَة

جَدَاوَة - چنگاری جہ۔ جَدِي - جَدَاوَة

## ج - س

جَبْو - زیر کی حرکت۔ گوہ کا سوراخ۔ مص (ن) کھینپنا۔ آہستگی سے چوہا پانے کو

جَبْو - زیر کی حرکت۔ گوہ کا سوراخ۔ مص (ن) کھینپنا۔ آہستگی سے چوہا پانے کو

باکٹنا۔ کلمہ کو زیر دینا۔ [عربی] کسی کے خلاف جرم کا ارتکاب کرنا۔

باکٹنا۔ کلمہ کو زیر دینا۔ [عربی] کسی کے خلاف جرم کا ارتکاب کرنا۔

جَدَاب - بھولی۔ چھوٹے کا تھیلہ۔ برتن۔

جَدَاب - بھولی۔ چھوٹے کا تھیلہ۔ برتن۔

ج:۔ جُرْب - آجُرِبَة  
 جُرَابَات - جرابیں - موزے - (د)  
 جُرْعَة - جَبْرَاعَة - دلیری - بہادری - بہت  
 جُرَاعَة - (لٹ) دلیر ہونا -  
 جُرْح - مرہم پٹی کرنے والا - قصد کھولنے والا  
 سرجن - پلریشن کرنے والا -  
 جِرَاعَة - زخم - ج:۔ جِرَاح - جِرَاحَات  
 (د) فن جراحی - سرجری -  
 جِرَاد - ٹڈی (اسم جنس واحد جِرَادَة)  
 جِرَادُ الْبَحْس - دریائی ٹڈی -  
 جِرَارَة - ایک قسم کا بھوک دم گھسیٹتا ہوا  
 چلتا ہے - زرد بھو -  
 جَرَب - خارش - رنگ کھردراپن کہ پیپٹے  
 کے اندر ہو جاتا ہے - اور اس سے  
 آنکھ میں سے پانی بہنے لگتا ہے مص  
 (س) خارشتی ہوتا - زمین کا شراب  
 اور ویران ہونا -  
 جَرِب - کھیلی والا - ج:۔ جُرْب - جَرَاب  
 اَجَارِب - جَرَبِي -  
 جَرَبَاء - ویران زمین - نیم زمین - کھیلی والی تاروں  
 بھرا آسمان -  
 جَرَّة - گھڑا - ٹھیا - ج:۔ جَرَاد - جَرَات  
 جُرْتُمَة - ہر چیز کی جڑ - جڑوں کی بستی زرخیز  
 کا سرا (د) وہ کیرٹا جو آنکھ سے نہ  
 دکھائی دے - ج:۔ جَرَاتِيْم -  
 جُرْح - (ف) زخمی کرنا - کمانا - کسی کا عیب بیان  
 کرنا - گواہی کو باطل کرنا - راوی کی گرفتاری  
 ظاہر کرنا -  
 جُرْحَتُ شَهَادَتِهِ - اس کی گواہی نامقبول

ہوتی -  
 جُرْح - زخم - ج:۔ جُرُوْح  
 جُرْس - زمین بے سبزہ - خشک - ج:۔  
 اَجْرَان  
 جُرْس - آواز - نرم آواز - جڑ - اصل مص  
 (ن) آواز نکالنا - زبان سے چاشنا -  
 جُرْس - گھٹھ - گھڑیاں - ج:۔ اَجْرَاس  
 جِرَشِي - آدمی کا بدن - نفس -  
 جِرْعَة - ایک گھونٹ کا ایک پار پی لینا -  
 جُرْعَة - پانی وغیرہ کا ایک گھونٹ - ج:۔  
 جُرْعَات - جُرْع -  
 جُرْف - وہ چیز جس کو پانی بہا لے جائے وہ کناؤ  
 جو سیلاب سے ٹوٹ جاتے ج:۔ اَجْرَان  
 جُرْم - جَرْم - گناہ - ج:۔ جُرُوْم  
 اَجْرَاه  
 لَاجِرْم - يقيناً - ضرور -  
 جُرْد - کشتی - ج:۔ جُرُوْم - مص (رض)  
 کاٹ ڈالنا - آمادہ کرنا - علی - الی  
 کسی کے برخلاف جرم کا ارتکاب کرنا -  
 جُرْم - جسم - ج:۔ اَجْرَاه  
 جُرْمَانِيَه - ملک جرمنی (د)  
 جُرْمُوْق - ایک قسم کی جوتی کہ موزہ پر پہنتے ہیں  
 جُرْن - اوٹھلی - کھینان - ج:۔ اَجْرَان  
 كِحْسُو - کتے شیر وغیرہ کا بچہ - کوئی ننھی سی چیز  
 ج:۔ اَجْرِي - اَجْدَاء - آجُرِيَة -  
 جُرْنَال - اختیار - (د)  
 جُرِي - جَرِيَان - جُرْمَة - (رض) پانی وغیرہ کا بہنا  
 جاری ہونا (گھوڑے کا) دوڑنا (فرمان کا)  
 جاری دنا فذ ہونا - واقع ہونا -



جَبْرِیْب - ایک سوچو الیس گز زمین کا پیمانہ -

چار قفیز کی مقدار کا پیمانہ -

جَبْرِیْدَاةٌ - اخبار جمہ - جَبْرِاسْتَا -

جَبْرِیْرَة - گناہ جرم - جہ - جَبْرِاسْتَر -

جَبْرِیْح - زخمی مرد ہو یا عورت - جہ - جَبْرِیْحِی

جَبْرِیْض - غم کا مارا ہوا - جہ - جَبْرِیْضِی

جَبْرِیْم - گنہگار - کاٹا ہوا - بڑے جسم والا -

جہ - جَبْرَاہ -

جَبْرِیْمَة - گناہ - قصور - جہ - جَبْرِاسْم -

## ج - س

جَبْرُء - (ف) پارہ پارہ کرنا - حصے کرنا مضبوط

باندھنا - [ب] اکٹھا کرنا - قناعت

کرنا -

جَبْرُء - (ط) لکڑا - حصہ - (د) اخبار یا رسالہ کا نمبر

جہ - اَجْرَاء

جَبْرُءِیَّة - (ن) بال تراشنا - گھاس کا ٹٹا

درخت کا پھل توڑنے کے وقت کو

پہنچ جانا -

جَبْرَاء - بدلہ (رض) ادا کرنا [ب] - علی [

بدلہ دینا - کافی ہونا [ع] قائم مقام

ہونا - بدلہ ہونا -

جَبْرَاء - بدلہ دینا -

اَلْجَبْرِیْب - ملک الجبیر یا (د)

جَبْرَاسَا - قصاب -

جَبْرَاسَا - کھجور وغیرہ سے میوہ توڑنے کا وقت

جَبْرَاز - (ن) کھیتی کا ٹٹا - پھل توڑنا -

جَبْرَاز - جَبْرَازَة - کٹی ہوئی چیز - توڑے ہوئے

پھل - جو چیز چڑھے کاغذ وغیرہ کے

کاٹنے میں گر پڑے - کترن -

جَبْرَاف - جَبْرَافَة - بغیر وزن اور پیمانہ کے

تخمیناً اور اندازہ سے خرید و فروخت

کرنا - گراف کا معرب -

جَبْرَالَة - کام کی مضبوطی اور پختگی (مص رک)

بزرگ ہونا - بہتات سے ہونا - چکی

عقل کا ہونا -

جَبْرَس - (جنس) گذر کا معرب - گاجر - جانور

ذبح کیا جانے والا - جَبْرَة ایک

گاجر -

جَبْرُ السَّبَاع - گوشت جسے درندے کھائیں

جَبْرُ جَبْرَاوَن (ض) درخت پر سے میوہ توڑنا

سمندر کا پانی اتر جانا - خلافت مدین میں

میں پانی نیچے چلا جانا - کاٹنا (ادب)

ذبح کرنا -

جَبْرَسْمَا - کٹی ہوئی گھاس وغیرہ -

جَبْرِع - جَبْرَاع - بے صبری اور آہ و زاری

کرنے والا -

جَبْرِع - جَبْرُوع - (من) بے صبری کرنا -

[علی] رحم کرنا - بے صبری - بے قراری

جَبْرَعَة - کچھ تھوڑا سا مال کچھ تھوڑا سا پانی اور

دودھ - ہر چیز کا بقیدہ -

جَبْرَعَةُ السَّيْلِیْن - پھری کا دستہ -

جَبْرَاف - (ن) بغیر تولے خرید و فروخت کرنا

اندازہ لگانا -

جَبْرُلُک - عینک (د)

جَبْرُہ - کاٹنا - کام کا تہیہ کرنا - جرت کو ساکن

کرنا - قسم کو سچا کرنا - کام کا ارادہ کرنا

[علی] نچتہ ارادہ کرنا -

دلیبر - اونچے قد کا - آگے بڑھ جانے والا اونٹ -

جِسْم - بدن - اصطلاح میں وہ کہ جو مرکب ہو طول عرض اور عمق سے ج: -  
اَجْسَاه - جِسْمُو -

جِسْمَان - بدن -  
جِسْمُو - جِسْمُو - (ن) سخت ہونا - کڑھا ہونا  
جِسْمِیْم - بڑے بدن کا - اہم - ضروری مؤنث  
جِسْمِیْمَة -

## ج - ش

جَش - (ن) موٹا - موٹا پیش دینا - چورا کرنا - صفائی کرنا -

جَشَاء - ڈکار -  
جَشَاءُ الْبَحْرِ - سمندر کی موج -  
جَشَاءُ اللَّیْلِ - رات کا گہرا اندھیرا -  
جَشَاءٌ - ڈکار -  
جَشَاءٌ - مویشی -

جَشَامَة - (س) کسی مشکل کام کا بیڑا اٹھانا

## ج - ص

جَص - (ج) کا معرب (چونہ -  
جَصَّاص - پتھر کرنے والا -  
جَصَّاصَة - پتھر کرنا - چونہ پھیرنا - قلعی کرنا -

## ج - ع

جَعَاب - تیروان بنانے والا - تیروان بیچنے والا  
ج: - جَعَابُون  
جَعَابَة - تیروان بنانا -

جَزْمَة - بوٹ - انگریزی جوتے - ج: -

## جَزْمَات (د)

جَزْمُوں - اونٹ جیسے ذبح کریں - زروادہ دونوں کو کہتے ہیں - بکری جیسے ذبح کریں  
جَزْوُن - کٹی ہوئی اون - بھیڑ جس کی اون کا ٹنی چاہئے - مذکر مؤنث دونوں کے لئے ہے -

جَزْوَع - بے صبر اور آہ و زاری کرنے والا - گھبرا جانے والا - (صفت مشبہ) -

جَزْوِی - کافی اور بہت -

جَزْوِیَة - زمین کا محصول - حفاظت جان و مال کا محصول جو کہ ذمی سے لیا جائے -

ج: - جَزْوِی - جَزَاءُ قَوْلٍ  
جَزْوِیَة - ٹاپو - ج: - جَزَائِر - جَزَائِر -  
جَزْوِیَة - توڑا ہوا پھل - کٹی ہوئی اون وغیرہ -  
جَزْوِیْل - بہت اور بڑا -

جَسَادَة - (ن) [علی] جرات کرنا - دلیری کرنا

## ج - س

جَسَّاس - جَسَّاسُوں - سزاخ رساں - ج: -  
جَسَّاسِیْن -

جَسَّاسَة - ایک قسم کا جانور جو جراثیم ہوتا ہے  
جَسَّاه - بڑے بدن والا - مؤنث - جَسَّامَة  
جَسَّامَة (ك) - بیماری اور بڑے جسم کا ہونا  
جَسَّاسَا - بدن - جسم - خشک - خون -  
زعفران - کسم - ج: - اَجْسَاد  
جِسْمُو د -

جِسْمِیُّ - جسمی - مادی - جسمانی -

جِسْر - پل - ج: - جِسْمُوں - اَجْسُر

جَعَالَةٌ - مزدوری - ج:۔ جَعَامِل

جَعَبٌ - (ت) تیروان بنانا -

جَعْبِيَّةٌ - تیروان (د) چرمی بیگ - ج:۔

جَعَابٌ -

جَعَجَعَةٌ - گدگدھاہٹ - گرجنے کی آواز -

ادوتوں کے بولنے کی آواز -

جَعْدٌ - گھنگریالے بال - گھنگریالے بالوں

(بہت بڑی) جَعْدَاةٌ -

جَعْدُ الْمَيْدِ - بخیل -

جَعْدُ الْفَقَاءِ - سب سے بڑی آدمی کہنے - ج:۔ جَعَادٌ

جَعْفٌ (ن) زمین پر گرا دینا - درخت کو کاٹ

ڈالنا -

جَعْفَرٌ - بھولتی نمر - بڑی نمر - نمر بانی سے بھری

ہوئی - بہت دودھ والی ادھنی -

ج:۔ جَعَارِفٌ -

جَعْلٌ - (ف) دہرنا - بنانا - تیار کرنا -

رکھنا - پیدا کرنا اور طرح پر کر دینا -

مقرر کرنا - ٹھہرانا - شروع کرنا -

زل [ شرط لگانا -

جَعْبَلَةٌ - کسی کام کی مقررہ اجرت - تنخواہ

ج:۔ جَعَائِلٌ -

جُعْلٌ - کمیشن (د)

## ج - ف

جَعَاءٌ - کوڑا کرکٹ جس کو پانی بہا لاوے

پانی وغیرہ کا بھاگ - خالی کشتی -

اُبریا طل -

جَعَاءٌ - سختی - گزار پن - اکھڑ پن (ن)

سخت اور بدخو ہونا - اکھڑ ہونا -

نظم کرنا - کسی پر کسی چیز کا گراں ہونا -

دور ہونا -

جَفَاتٌ - جن چیزوں کو خشک کرنے کے لئے

ڈال رکھا ہوں میں ایک چیز جو خشک

مہرگئی ہو -

جَفَاتٌ - جَعْفُوتٌ - (ض) سوکھ جانا خشک

ہو جانا -

جَفَقُنٌ - آنکھ کا پپوٹ - تلوار کی میان - انور

کی جڑ اور اس کی شاخیں - ج:۔

أَجْفَانٌ وَجُفُونٌ وَأَجْفَنٌ -

جَفْنَةٌ - لگن - بڑا پیالہ - پھوٹا سا کواں سعی

آدمی - ج:۔ جَفَانٌ - جَفَنَاتٌ -

جَفْوَةٌ - بڑی ٹھلم -

جَفْيَرٌ - ترکش -

جَفِيْفٌ - خشک چارہ -

## ج - ل

جَبَلٌ - چوٹیوں کی جھول - ج:۔ أَجْلَالٌ

جِبَالٌ -

جَلَاءٌ - کھلی اور ظاہر بات - دن کی سپیدی

مص (ف) زمین پر بچھا ڈرنا -

جَلَاءٌ - (ن) جلا وطن ہونا - جلا وطن کرنا

جِلَاءٌ - سرمہ یا خاص قسم کا سرمہ - تعظیمی لقب

مثلاً پوجھنا ہو کر فلاں کے لئے تعظیمی

القاب کیا ہیں تو کہتے ہیں "مَا جِلَاءِي"

قِلَانٌ

جَلَّابٌ - موشی کا بیوپاری - بروہ فروش

جَلَّابٌ وَجَلَّابٌ - گلاب کا معرب - گلاب

نامی پھول کا عرق - شہد میں ملا ہوا

عرق گلاب -

جَلَابِیْب - چاوریں - و :- جَلَبَاب -

جَلَاد - تازیانہ مارنے والا -

جِلَاد - (مفاعلہ) تلوار سے ایک دوسرے کو مارنا -

جَلَادَة - جَلُوْدَة (لک) چست دھالاک ہونا

جفاکش ہونا - مضبوط ہونا - صابر ہونا -

جَلَال - بزرگی - شان - شوکت - اقتدار -

عظمت -

جَلَال - جَلَالَة - (رض) بڑی عمر کا ہونا -

آزمودہ کار ہونا - بزرگ ہونا -

طاقتور ہونا -

جَلَالَة الْمَلِک - (ہر جمعی) (شاہی خطاب) (د)

جَلَب - جو چیمہ ایک شہر سے دوسرے شہر

کو فروخت کرنے کے لئے جائیں گھوڑ

دقیقہ - وہ لوگ جو چوپایوں کو بغرض

فروخت ایک شہر سے دوسرے شہر

میں لے جائیں -

جَلَب - جَلَب - (ن حق) ایک جگہ سے

دوسری جگہ بھیج کر لے جانا - شور مچانا

کمانی کرنا - دیکھی دینا -

جَلَبَاب - چوڑا چکلا - لباس عورتوں کی چادر

ج :- جَلَابِیْب -

جَلَبِیْبَة - چادر اوڑھانا -

جَلَبِیْبَة - کھڑے - بھوک - مصیبت -

جَلَجَل - گھنٹہ جو چوپایوں کے گلے میں لٹکاتے

ہیں - انجن ہاری - آنکھ کے نیچے کی پتلی

ج :- جَلَابِیْب - جَلَابِیْب - گھنٹہ کی آواز - گرج کی آواز - آواز

کی سختی -

جَلَجَال - گرج کے ساتھ زور کی بارش -

جَلَج - (س) کنپٹی سے پال اٹھانا -

جِلْد - کھال - ج :- اَجْلَاد - مَجْلُوْد

جَلْد - (رض) کھال پر مارنا - تازیانہ مارنا

(ع) علی [ زبردستی کام لینا - چل کرنا

جَلْد - (س) جم جانا یا کھربیں ڈھکا ہونا -

جَلْدَة - ایک مار کوڑے کی -

جَلْدَة - پوست - کھال -

جَلْد - پھونڈر -

جَلَس - ہمنشین -

جَلَسَة - بہت بیٹھے والا -

جَلَسَة - خاص ڈھنگ کا بیٹھنا -

جَلَسَة - ایک بار بیٹھنا (د) نشست مینگ

ج :- جَلَسَات -

جَلَط - (رض) قسم کھانا - جھوٹ بولنا -

ادھیر لانا -

جَلَف - کھرا روکھا - اُجَلَج :- اَجَلَاَف

جَلَف - (ن) چرنا - پھیلنا - کھرج دینا -

جَلَق - مونڈنا - تپنے میں دانت ٹکانا (ب)

مجنیق سے پھینکنا -

جَلَل - بڑا کام - آسان کام (ن) اَضْدَاد

سے ہے -

جَلَمَد - بڑا بھاری پتھر - چٹان - قوی آدمی

ج :- جَلَامَد -

جَلَمَدَة - قوی آدمی - پتھر ملی نہیں -

جَلْمُوْد - بڑا پتھر - چٹان - بڑی عمر کے اونٹ

ج :- جَلَامِیْد -

جَلَسَاد - گلزار کا موعب - انار کا پھول -

جَمَّ المَاء - دریا وغیرہ میں وہ جگہ جہاں سب سے زیادہ گہرا پانی ہو۔  
جَمَّاء - لوسے کا خود - بے سنگ کی بکری۔  
جَمَّاح - گھوڑے کی سرکشی (فت) گھوڑے کا بے قابو ہونا - سرکش ہونا۔

جَمَّادُ النِّكْت - بخیل - کجخوس۔  
جَمَّادِی - دو مہینوں کا نام - جَمَّادِی الاولیٰ  
جَمَّادِی الآخرۃ - آنکھ بے آنسو جہ۔  
جَمَّادِیَات

جَمَّار - کنکریاں - وہ - جَمَّارَات  
جَمَّاع - عورت کے ساتھ صحبت کرنا (علیٰ)  
ایک کام پر کسی کے ساتھ اکٹھا ہونا۔  
جَمَّاع - اصل جڑ۔

جَمَّاعَة - کسی چیز کا سبب - لوگوں کا گردہ۔  
جَمَّال - حسن - خوبصورتی - آبرو - لٹ  
خوبصورت اور خوب سیرت ہونا۔

جَمَّال - جَمَّال - خوبصورت اور خوب سیرت  
جَمَّال - شتر بان - جہ۔  
جَمَّالہ - بہت سے اونٹ - وہ۔  
جَمَّان - (جنس) موتی - چاندی کا گول دانہ۔  
جَمَّان - ایک موتی یا ایک دانہ۔

جَمَّان - جمناسک ورتش بدنی (د)  
جَمَّانجَمَّ - سرکی گھوڑی - وہ بڑی جس میں دماغ ہے - جہ۔  
جَمَّانجَمَّ - جَمَّانجَمَّ - جَمَّانجَمَّ

جَمَّانجَمَّ - سرکش ہونا - خود رائے ہونا - عورت کا خاوند کی بلا اجازت باپ کے گھر چلا جانا - پھینکنا۔

جَمَّانجَمَّ - (ت) مغرور و متکبر ہونا۔

جَلْو - جَلَاء (ض) تلوار وغیرہ کو چمکانا - پالش کرنا - صیقل کرنا - غم دور کرنا - کسی پر کام کو ظاہر کرنا - کپڑے اتار ڈالنا - اوپر چڑھنا۔

جَلْو - جَلَاء - (ن) (عن دمن) گھر بار سے نکال دینا - گھر بار سے نکل جانا - ظاہر ہونا۔

جَلْوَة - تحفہ جو شوہر بیوی کو زفات کے وقت دے۔

جَلْوَة - جَلَاء - دھن کو خاوند کے آگے پیش کرنا - زفات کے موقع پر خاوند کا دھن کو تحفہ دینا۔

جَلْوَد - کھالیں - وہ - جَلْد  
جَلْوَز - چلغوزہ فریہ آدمی۔

جَلْوَس - (ض) بیٹھنا  
جَلْوَس - بڑا کام - جہ۔  
جَلْوَس - ظاہر اور کھلا۔

جَلْوَس - تیز و چالاک - مضبوط - کوڑے مارا ہوا - برف - جہ۔  
جَلْوَس - آجَلَاد  
جَلْوَسَاء

جَلْوَس - ہمنشین جہ۔  
جَلْوَسَاء - جَلْوَسَاء  
جَلْوَس - بڑی عمر کا بزرگ مرتبہ - عظمت والا۔  
جہ۔  
جَلْوَس - آجَلَة - آجَلَاء  
(مؤنث) جَلْوَسَة

## ج - د

جَمَّ - بہت - سب - جہ۔  
جَمَّو - مرصعان - ض (بہت ہونا) بھرجانا۔

جَمَل - جَمَل - کشتی کا موٹا رسا۔	جَمَد - جَمَد - برف۔
جَمَلَاء - تولصورت۔ ہر حیوان پوری پیدائش کا اور بے عیب۔	جَمَد - جَمُود - (ن - لٹ) جتنا سخت ہونا کرنا ہونا۔
جَمَلَة - سب لوگوں کی جماعت۔ اکٹھا پورا کلام جس سے سامعین کو تسکین ہو جائے	جَمَد - (ن) آگ کی چنگاری کسی کو دینا۔ اکٹھا کرنا۔ دور دورا ایک طرف کر دینا۔ اکٹھا ہونا۔
جَمَل - جَمَل	جَمَرَة - آگ کی چنگاری جہ:۔ جَمَر - جَمَرَات
جَمُوح - سرکش گھوڑا۔ تیز رو گھوڑا۔ وہ شخص جو نفسانی خواہش سے باز نہ آسکے۔	جَمَرَة - ایک لکڑی۔ ایک بار پتھر پھینکنا۔
جَمُود - خشک بے آسودا (گھ)	جَمْرُوك - چنگی۔ چنگی خانہ۔
جَمُود - سب لوگ۔ ریت کا ادبچا تو دا۔	جَمَز - (صن) تیز یا لمبے قدم سے چلنا۔
(د) پبلک۔	جَمَح - مکہ۔ گھونسا۔ مٹھی۔ سب۔ جہ:۔
جَمُودِيَّة - جہ:۔ جَمَاہِيْر - جمہوری حکومت (جس میں عوام کا عمل و نقل ہو)۔	اَجْمَاع -
جَمِيع - اکٹھی کی کوئی چیز۔ سب لوگوں کا گروہ	جَمْع - لوگوں کا گروہ۔ قیامت۔ سب۔
جَمِيْل - جَمِيْلَة - جَمِيْلَة - جَمِيْلَة	جہ:۔ جَمُوع - مص (ن) اکٹھا کرنا۔ واحد کی جمع بنائی [بین] کسی دور آدمیوں یا چیزوں کو آپس میں ملا دینا۔
جَمِيْل - بلب۔ اول کی جمع جَمِيْلَات -	جَمْعَاء - چوپایہ۔ صحیح و سالم کو کوئی نقص اس کے بدن میں نہ ہو۔
جَمِيْل - کھلی ہوئی چربی۔ احسان۔ نیکی۔ بہتر۔ خوب صورت۔ نیک سیرت (مؤنث)	جَمْعَة - مجمع۔ گروہ۔ اتحاد۔ جہ:۔
جَمِيْلَة - جہ:۔ جَمَلَاء -	جَمْع - جَمْعَات - جَمْعَات
	جَمْعَة - جَمْعَة - رذرجہ:۔ جہ:۔ جَمْع - جَمْعَات
	جَمْعِيَّة - انجمن۔ سوسائٹی۔
	جَمَل - زراوٹ۔ سات برس کا۔ یا پانچ یا چھ یا نو برس کا۔ جہ:۔ جَمَال - جَمَالَة
	جَمَالَات - آجَمَال -
	اَجْمَال - جَمَال - جَمَل - جَمَال
	جَمَالِيْل - جَمَالِيْل
	جَمَل - (ن) چربی پگھلانا۔ جمع کرنا۔

## ج - ن

جَسَد - (جنس) پری۔ دیو۔ ہر چیز جو خواہ سے پوشیدہ ہوتا۔ ذرشتے (واحد) جَسَدِي - جَسَدِ الْبَيْتِل - رات کی تاریکی۔

جَسَد - جَسَدِي - (ن) کسی چیز کو رات کا ٹھک لینا۔ مردہ کو دفن کرنا۔ (مجرولاً) دیوانہ ہو جانا۔ پوشیدہ ہو جانا۔ گھاس اگنا بھوت کا چمٹنا۔ مکھیدوں کا

رَجَادُ الْجَنَبِ - پڑوس - ہم پہلو۔  
(الصَّاحِبِ) الْجَنَبِ - پہلو کا رفیق۔

قربی دوست۔  
جُنْب - دور - اجنبی - نافرمان - جہ: اجنباب  
وہ شخص کہ جس پر یہ سبب جماع اور مٹی  
نکلنے کے متانہ واجب ہوا ہو اس میں  
مذکر مؤنث واحد اور جمع برابر ہے۔

جُنْبَاذ - نط (د)  
جُنْبَة - سپر - ڈھال - پردہ - اڑ - ایک قسم  
کا برقعہ جس میں گر کھلی رہتی ہے۔

جہ: جُنْبَن  
جَنَبَة - بہشت - باغ - جہ: جَنَان - جَنَات  
جَنَبَة - جنون - سودا - دیوانگی۔  
جَنَبَة - جنات - شیاطین - دہ: جَنَبِي  
جَنَبْد - لشکر - مددگار لوگ - شہر - جہ:۔  
جَنَبُود - آجناد۔

جُنْدَاب - ایک قسم کی ٹڈی - جہ:۔ جُنَادِب -  
جُنْدَال - تیمر کہ جسے اٹھا سکیں - جہ:۔ جُنَادِل -  
جُنْدِي - فوج کا آدمی - سپاہی۔  
جُنْبَز - (ن) جمع کرنا - ڈھینکا - پھپھانا۔  
جُنْدَاَس - زنگار - زنگ۔  
جِنْس - آدمی وغیرہ کی قسم - قومیت - جہ:۔  
آجَنَاس -

جَنَف - ظلم - جور - بے انصافی - ناجائز۔  
طرت داری۔

جَنَف - جَنُوف - (ص س) [ج ف]  
حق سے پھر جانا - نا انصافی کرنا اس  
حق [عن] راستہ سے ہٹ جانا۔  
کتر اجانا - [علی] کسی کو ستانا۔

جَنَاب - کنارہ - پڑوس صحن (د) تعظیمی خطاب  
جہ:۔ آجِنَبَة -

جَنَابَة - (ن ک س) غسل کی ضرورت لاحق  
ہونا - دوری۔

جَنَاح - گناہ - میلان۔  
جَنَاح - بازو - اور ہاتھ - بغل - جانب - پناہ  
حمایت - کنارہ - روزن - گھر کی۔  
گردہ - جہ:۔ آجِنَبَة - آجَنُود -

جَنَادِع - حادثات - مصیبتیں - حشرات الارض  
سانپ - کچھو وغیرہ - دہ:۔ جُنْدَاعَة  
جَنَادَة - چٹاڑے - تخت وغیرہ جس پر مردہ کو لے  
جائیں - تابوت - مردہ - جہ:۔  
جَنَابَش -

جَنَان - دل - دماغ - روح - جہ:۔ آجَنَان  
جَنَابَة - (ض) گناہ کرنا۔

جَنَب - (ن) جانور کو دوری باندھ کر کھینچنا  
دفع کرنا - دور کرنا - پہلو پر مارنا۔

جَنَب - (س) زکوٰۃ لینے والے کا دور حج  
میں اترنا اور صاحبانِ مواشی کو حکم دینا  
کہ اپنے مواشی لاؤ تاکہ ان کی زکوٰۃ لی  
جاوے۔ صاحبانِ مواشی کا اپنی جگہ سے دور چلا  
جانا اور صدق کو تکلیف دینا کہ ان کے پاس  
جاوے [الی] ماہل ہونا - شوق کرنا  
اضطراب میں ہونا۔

جَنَب - جو مہانوں کے ڈر سے راستہ میں ایک  
طرف کو چلے۔

جَنَب - پہلو - کنارہ - حکم - حد (اللہ تعالیٰ  
کے امر و نہی کی) جہ:۔ آجَنَاب -  
جُنُوب - جَنَابَات -

## ج - و

جَوَّ - زمین و آسمان کا درمیان - فضاء۔  
 جہ:۔ جو آء  
 جَوَّاب - سوال کا جواب - تالاب - جہ:۔  
 اَجْوَبِيَّة -  
 جَوَّاب - تالاب جو حوض - و:۔ جَا بِبِيَّة -  
 جَوَّابُ اللَّيْلِ - جو شخص کہ تمام رات راستہ چلے  
 جَوَّاجِر - سوراخ میں گھسنے والے جانور۔  
 جَوَّاد - سعی (مذکر مؤنث برابر ہے)۔ جہ:۔  
 جُود - اَجَّاد - اَجَّاد - اَجَّادِيد  
 تیز رو گھوڑا جہ:۔ جَيَّاد - اَجَّيَّاد  
 اَجَّادِيد -  
 جَوَّابِيَا - کشتیاں - و:۔ جَارِيَّة  
 جَوَّاد - پرطوسی بننا کسی کی پناہ میں آنا۔  
 جَوَّاس - پرطوس - ہمسایگی - قرب - نزدیکی۔  
 جَوَّارِح - آدمیوں کے ہاتھ پاؤں و دیگر اعضاء۔  
 شکاری درندے اور پرندے۔  
 و:۔ جَارِحَة - پھری چاقو۔  
 جَوَّاز - مباح اور درست ہونا - سفر کرنا۔  
 کسی مقام سے گذرنا (د) پروانہ  
 راہداری - پاسپورٹ۔  
 جَوَّالَة - موٹر سائیکل۔  
 جَوَّب - بڑا ڈول - ڈھال - آتش دان۔  
 عورت کا سینہ بند - جہ:۔ اَجْوَاب  
 مص (ن) مسافت، طے کرنا۔ راستہ  
 طے کرنا۔ پھاڑنا۔ کاٹنا۔ کپڑے میں  
 گریبان بنانا۔  
 جَوَّبِيَّة - شگاف - سوراخ - نشیب۔

نا انصافی کرنا۔  
 جَنُّق - [ن] کسی آلہ کے ذریعے سے چیزیں  
 پھینکنا۔  
 جَنُّوب - دکھن کی طرف سے آنے والی ہوا۔  
 جَنُّوب - (ن) دکھن کی طرف سے ہوا کا چلنا۔  
 (محولاً) جنوہی ہوا کا چلنا اور اس کی وجہ  
 سے ہلاک ہونا۔ پہلو کا درد ہونا۔ مرض  
 ذات الجنیب میں مبتلا ہونا۔  
 جَنُّوح - (ن ص ن) رات کی تاریکی کا جھک  
 آنا۔ جانور کے بازو پر مارنا۔ [الے]  
 مائل ہونا۔  
 جَنُّون - دیوانگی۔  
 جَنُّونُ اللَّيْلِ - رات کی تاریکی۔  
 جَنِّي - جن کی طرف منسوب جیسے آدمی آدم  
 کی طرف منسوب ہے۔ دیوناد۔  
 جَنِّي - تازہ توڑا ہوا میوہ۔  
 جَنِّي (ص) میوہ توڑنا۔ کسی کو میوہ توڑنے  
 کا حکم دینا۔  
 جَنِّي - (جنس) تازہ توڑا ہوا میوہ۔ جَنَّاة  
 ان میں سے ایک جہ:۔ اَجَنَّاة  
 جَنِّيَب - بےید و دور۔ وہ کہ جنس کے پہلو میں  
 ذات الجنب درد ہو۔ بدلیسی کوئل  
 گھوڑا۔ جہ:۔ جَنَّايب -  
 جَنِّيَس - ہم جنس۔  
 جَنِّيِن - پیٹ کا بچہ۔ قبر کا مردہ۔ پوشیدہ  
 پیر۔ جہ:۔ اَجِنَّة -  
 اَجِنُّن -  
 جَنِّيَّة - باغیچہ۔ جہ:۔ جَنَّاين (د)  
 جَنِّيَّة - گنی (د)



جَوُّوح - (ن) گمراہ ہونا۔ بھٹک جانا۔ برباد کرنا  
 جَوُّوخ - بانائت (د)۔  
 جَوُّود - زور کا مینہ۔ ۱۵۔ جَاشِد مص  
 (ن) آنکھوں میں آنسو بھر آنا۔ غالب  
 آنا۔ تیز رو ہونا [علی ب] بہت  
 فیاضی کرنا [بنفلسہ] مرنا یا مرتے  
 کے قریب ہونا۔  
 جَوُّود - سخاوت کرنا۔ بھوک  
 جَوُّودِی - ایک پہاڑ ہے موصل کے کنارے جس  
 پر حضرت نوح ؑ کی کشتی ٹھہری  
 تھی۔  
 جَوُّوس - ظلم۔ زیادتی۔ جبر۔ مص (ن) سے  
 [علی] حکم میں ظلم کرنا [عن] راستی  
 اور راستے سے کتر اجانا۔  
 جَوُّوب - پائتباہ جبر۔ جَوَّارِب - بوٹ۔  
 موزہ۔  
 جَوُّوبَہ - پائتباہ پٹنانا۔  
 جَوُّوس - اخروٹ۔ جبر۔ آجَوَّاس  
 جَوُّو مَائِل - دھتورہ۔  
 جَوُّو ھِنْدِی - ناریل  
 جَوُّو۔ جَوُّو۔ جَوَّاز۔ (ن) جگہ سے گزرنے جارا  
 ہونا۔ پانی بہنا۔ مباح۔ دھارتہ ہونا۔  
 جَوَّزَاء - آسان کے بروج میں سے ایک بروج  
 کا نام۔ کالی بکری جو درمیان میں  
 مائل بسیا ہی ہو۔  
 جَوَّسَق - محل۔  
 جَوَّوس - (ن) تلاش کرنا۔ آنا جانا گھس جانا  
 جَوَّوش - سیٹہ۔ ذرہ۔ رات کا درمیانی حصہ  
 جبرہ۔ جَوَّاشِن -  
 جوہری (د)

جَوُّوع - بھوک۔  
 جَوُّوع - (ن) بھوک ہونا [الی] مشتاق ہونا  
 جَوُّوعَہ - ایک بار بھوک کا ہونا۔  
 جَوُّوف - فراخی۔ مص (س) بیچ میں سے  
 کھو کھلا ہونا۔  
 جَوُّوف - اندرون خانہ۔ سوراخ۔ پیٹ۔ ہر جز  
 کا اندرونی حصہ۔ غاطوں کا حصہ۔  
 مص (ن) پیٹ پر مارنا۔ زخم کا  
 اندر تک پہنچ جانا۔  
 جَوُّوقَاء - ڈول کشادہ۔ جبر۔ جَوُّوف  
 کھو کھلا۔  
 جَوُّوق - جمع لوگوں کا۔ جبر۔ آجَوَّاق -  
 جَوُّول - جَوُّولَہ - جَوُّول - جَوُّولَان - رَجَبِلَان  
 (ن) پینا زنی اگر دپھڑا۔  
 جَوُّولَہ - جدا ہو کر حملہ کرنا [ب] پھیر دینا۔  
 لوٹنا دینا۔  
 جَوُّوْتَہ - آفتاب کی ٹیکھا۔ ڈوبتا ہوا سورج۔  
 جَوُّوْتَہ - عطر فروش کا ڈبہ۔ پٹاری۔ جبر۔ جَوُّوْتَان  
 جَوُّوھس - گوہر کا معوب (اسم جنس) ہر پتھر  
 کہ اس سے منفعت حاصل ہو جیسے  
 ہیرا یا قوت۔ لعل وغیرہ۔ وہ۔  
 جَوُّوھسَہ - جبر۔ جَوَّوھس۔  
 اصل اور پیدائش اور ہر چیز کا مادہ  
 وہ جو اپنی ذات میں قائم ہو۔ عرض  
 کی ضد۔ بہادر۔  
 جَوُّوھَرْد - وہ ٹھکانا جس کا ٹھکانہ ہو سکے۔  
 اجزاد و میقاتطیسی۔  
 جَوُّوھِرَی - گوہر بیچنے والا۔  
 جوہری (د)

اصولی - بنیادی - لازمی

## ج - ۵

جہاد - خدا کی راہ میں دشمنان دین سے لڑنا  
کوشش و جانفشانی کرنا۔جہاد - سامنے رو برو ہو کر لڑنا [ب]  
آواز سے پکارنا۔ کھلم کھلا دشمنی کرناگالی دینا - ظاہر کرنا۔ بے پردہ اور  
بے حجاب دیکھنا۔جہاز - جہاز - مردہ کی تجویز و تکفین کا سامان  
دھن کا اسباب - مسافر کا اسبابجرہ - آجھڑا - بحر - آجھڑات  
جہات - جوان لڑکی۔جھینڈ - عقل مند آدمی بات کو پرکھنے والا۔  
جہ - جہاں بیدار۔جھت - کنارہ - طرف - سمت - رخ۔  
جہ - جہات۔جھڈ - رفت [ب] کوشش کرنا - آزردہ  
کرنا۔ طاقت سے زیادہ چرپا یہ پر لادنااور اس کو تھکا دینا۔ دودھ میں سے  
تمام مکھن نکالنا [ب] آزمانا۔ کھانیکاآرزو مند ہونا اور بہت کھانا۔  
جھڈ - قوت - کوشش - رنج و مشقتجھڈ الایمان - بہت کمی قسم۔  
جھڈ الیسلا - مصیبت کہ اس میں موتکو زندگی پر ترجیح دیں - کینہ کی کثرت  
اور مفلسی۔جھڈ - مشقت - کوشش۔  
جھڑ - چوڑا ٹیلا - برس - زمانہ کا ایک حصہمص (ت) ظاہر و عیاں ہونا۔  
[ب] پکارنا۔ زور سے کہنا۔ بے  
پردہ دیکھنا اور قابل دیدار پاناکسی چیز  
کو کشادہ اور برہنہ کرنا۔جھڑا - ظاہر - کھلم کھلا۔  
جھڑ - رفت [ب] آدمی کو کاری ضرب لگانا  
اور کام تمام کر دینا۔جھٹش - رفت [ب] کسی کی پناہ لینا۔  
جھٹل - جھٹل (س) نہ جاننا۔ نادان  
ہونا۔جھٹم - رفت [ب] ترش رو نظر آنا۔  
جھٹیتہ - ایک فرقہ باطلہ کا نام جہم بن صفوان  
کی طرف منسوب۔جھٹم - دوزخ [ب] اعدائے اللہ متہما، یا  
دوزخ کا ایک طبقہ۔جھڑا الصوت - بلند آواز جو بڑی آواز سے گفنگو  
کرے۔جھڑا - اونچی آواز سے بات کہنا۔  
جھڑا - جھڑا - (ک) دیکھنے والے  
کی نگاہ میں محظوم ہونا۔ بلند آواز ہونااونچی آواز سے بات کرنا۔  
جھڑی - خوبصورت آدمی۔ قابل دید۔جھڑی الصوت - بلند آواز آدمی۔  
جھڑل - بڑا نادان۔جھڑل - بلند آواز۔ خوبصورت آدمی۔  
جہ - جہڑا۔

## ج - ۶

چاش - دن - سینہ - جوش - جذبہ

آجَنَائِفَ -

جَنَائِفَ - کفن چور۔

جَنَائِفَ لُؤَجِيَا - علم طبقات الارض (د)

جَنَائِفَ - لوگوں کا ایک گروہ جن کی بولی الگ ہو۔

جَنَائِفَ - ایک زمانہ کے لوگ۔ ج۔ ۱۔ آجَنَائِفَ

جَنَائِفَ لَائِي - آئس کریم۔ (د)

جَنَائِفَ - حروف تہجی میں سے ایک حرف۔

(یہ لفظ مؤنث ہے)

جَنَائِفَ - بہت آنے والا۔

ح۔ ۱۔

حَاء - حروف تہجی میں سے ایک حرف کا نام۔

حَايَةَ - گناہ۔

حَالِيَسَ - روکنے والا۔

حَايِلَ - حال چھیلانے والا۔ جہاد و گریہ شکاری

حَايِلَةَ - حاطہ عورت۔

حَايِمَ الطَّائِي - (بن عبد اللہ بن سعد)

عرب کا ایک مشہور سخی آدمی جو سخاوت

میں ضرب النمل ہے۔

حَايَجَ - حج کرنے والا۔ ج۔ ۱۔ حَجَّاجَ

حَايِيَجَ -

حَايِبَ - روکنے والا۔ پردہ دار۔ دربان۔ ج۔ ۱۔

حَايِبَةَ - حَجَّابَ -

ابرود (بھوں) کی بھریاں مع گوشت اور

بالوں کے۔ ج۔ ۱۔ حَوَّايِبَ سورج

کا کنارہ جو پہلے ہی نکلتا ہے ہر چیز

کا کنارہ۔

حَايَجَةَ - پردا ضرورت کام۔ طبعی ضرورت

سوال۔ ج۔ ۱۔ حَايَجَاتَ۔ حَوَّايِحَ۔

جَنَائِفَ - جَنِي - مَجِي (ض) آنا۔ آنے

میں کسی پر غالب آنا۔

ج۔ ۱۔

جَنَائِدَ - عمدہ۔ تیز رو (گھوڑے) و۔ ۱۔

(علی الترتیب) جَنَائِدَ و جَوَادَ

جَنَائِبَ - گریبان۔ سینہ۔ دل۔ نشیب۔

درز۔ ج۔ ۱۔ جَنَائِبَ - مص

(ض) کرتے میں گریبان بنانا مسکت

طے کرنا۔

جَنَائِبُ الْأَرْضِ - زمین میں وہ مقام جہاں لوگ

آئیں۔

جَنَائِحُونَ - بلخ کی ہنرگر خوارزم میں ختم ہوئی ہے۔

جَنَائِدَ - گردن۔ ج۔ ۱۔ جَنَائِدَ - آجَنَائِدَ -

سینہ۔ اچھا عمدہ۔ نیا۔ ج۔ ۱۔ جَنَائِدَ

جَنَائِدَاتَ - جَنَائِدَ -

جَنَائِدَاتُ - جَنَائِدَاتُ عودت جس کی گردن لمبی اور

خوب صورت ہو۔

جَنَائِدَ - یقیناً۔ بلا شک۔ ضرور۔ ہاں۔

(حرف جواب)

جَنَائِدَ - چونا۔ ایک قسم کی کھریا۔

جَنَائِسَ - لشکر۔ ج۔ ۱۔ جَنَائِسَ -

جَنَائِسَ - جَنَائِسَ - جَنَائِسَاتَ - (ض)

دیا۔ ہانڈی وغیرہ کا جوش مارنا۔

طُر اور فشر و غم کی وجہ سے دل نکلا

پر پڑنا۔

جَنَائِسَةَ - ایک بار جوش مارنا۔

جَنَائِفَ - (ض) مردار کا سرٹھانا۔

جَنَائِفَ - مردار۔ سرٹھا ہوا۔ ج۔ ۱۔ جَنَائِفَ

<p>حاشیکہ - مختلف اطراف سے چلنے والی ہوا۔ ج۔          حواشلک -          حاشیہ - کپڑے وغیرہ کا پلو کنارہ۔ پہلو۔ اہل          و عیال اور خاص اپنے لوگ۔ ج۔          حواشی -          حاصب - سخت ہوا۔ آندھی پتھر برساتے والی          ج۔ حواصیب -          حاصیل - کسی چیز میں سے بعد زائد اور فضلہ          کے دور کرنے کے جو باقی رہے۔          حاصیلات - آمدنی۔ پیداوار۔ (د)          حاضیر - شہری آدمی۔ سامنے یا نزدیک جانے          والا ج۔ حاضیر۔ محضوہ۔          حاضیرۃ - شہر و قصبہ (نظامِ بادیں) موجود۔          روہرو۔ (د) پایہٴ محنت۔          حاضیرۃ اللیحد - لپ دریا۔ لب سمندر۔          حاضین - کسی کو اس کی حاجت سے روک دینے          والا۔ ج۔ حاضنان۔          حاضنتہ - دائی۔ اور وہ عورت جو بچہ کی خبر گیری          میں رہے۔ گو دہیں لینے والی۔          حاطب اللیل - رات میں نکڑیاں چھننے والا          پر قسم کی کھری اور گھٹیا باتیں کہنے والا۔          حاطوم - قحط کا سال۔          حاق - گداگرد کھڑا ہونے والا۔ گھینے والا۔          حاقۃ - کنارہ۔ سرا۔ نشان۔ ج۔ حاقات          حاقدا - خدمتگار۔ مددگار۔ ج۔ حقدۃ          مصدر حقد۔          حاقدا - چوپایہ کا قسم۔ ج۔ حواقس۔          حاقفۃ - ہر چیز کا شروع۔ پہلی پیدائش۔ اصل          حالت۔ طبیعت۔ واسطی۔</p>	<p>حاجز - روکنے والا۔ منع کرنے والا۔ حجاب۔          پردہ۔ ادٹ۔ آرٹ۔          حاجم - خون نکلانے والا۔ پھٹنے نکلنے والا۔          حادقۃ - نئی چیز جو پہلے نہ تھی۔ تازہ واقعہ۔ ج۔          حوادث          حادس - ڈرنے والا۔ پرہیز کرنے والا۔          حادق - عقل مند۔ ہوشیار۔ ماہر۔ ج۔          حذاق -          حاز - گرم۔ تند و تیز۔ جوشیلا۔ غضبناک۔          حارت - شہر۔ کسان۔          حارج - گناہ گار آدمی۔          حارس - محافظ ج۔ حارس۔ حمتاس۔          حارص - بیمار و صاحب فراش آدمی۔ قریب برگ۔          بیماری کی وجہ سے جس کا بدن گھل جائے          ج۔ حارصا۔ حراضی۔          حاسب - حساب لینے والا۔ شمار کرنے والا۔          حاشۃ - پانچ حواس میں سے ایک۔ جاڑا جو ٹھٹھا          دے۔          حاسیدا - دوسرے کے پاس نعمت دیکھ کر چلنے اور اس          کے زوال کی آرزو کرنے والا۔ ج۔          حستاد۔ حستادۃ۔          حاسیر - نیگا۔ سپاہی کہ زرہ ڈھال۔ خورد و غیو          نہ رکھتا ہو۔ نہ کہ جفتی سے تھک گیا ہو۔          ج۔ حواسیر۔          حاسین - حسن۔ حستان۔ نیک رو۔ خوب صورت          مرد۔ ج۔ حستان (صرف جن کی)          حاشی یتا - پاکی ہے اللہ کے لئے۔ حاشی          کلمہ تنزیہ ہے۔          حاشیر - جمع کرنے والا۔ نقیب۔</p>
--	---

حالات - گردش - آدمی کی کیفیت - ج:-  
 حالات -  
 خالق - سر منڈانے والا - ج:-  
 بھرا ہوا - اونچا چٹیل پہاڑ - ج:-  
 حلق - حوائق -  
 خالفتہ - عورت جس نے مصیبت پڑنے کے  
 وقت اپنے سر کے بال منڈ ڈالے  
 ہوں - بے برکت -  
 خالک - بہت کالا -  
 خالیم - بالغ -  
 خالمد - خدا کی تعریف کرنے والا -  
 خالیر - گدھے والا -  
 خالیز - قوی - تیز - تند - سوزش پیدا کرنے والا  
 خالیز القوی - اد - تیز فہم - ہوشیار  
 خالین - ترش - کھٹا -  
 خالین القوی - اد - جس کا دل ناسرد و خراب ہو -  
 خالین - اٹھانے والا - حاطر عورت - پھلوں سے  
 لدا ہوا درخت - لبریز - ج:- (ملک)  
 خالک (مؤنث) - خالصات و  
 خوالیل  
 خالچی - کام پرانا سانڈ - ادنٹ - جس سے  
 دس حمل قرار پاتے ہوں - اس کو زمانہ  
 جاہلیت میں بتوں کے نام پر آزاد کر  
 دیتے تھے کہ جہاں چاہے چرے -  
 خالچی الحیمیۃ - وہ شخص جو اپنے احاطہ کی  
 حفاظت کرے -  
 خالیمیۃ - وہ شخص یا وہ گروہ جو اپنے آدمیوں  
 کی حفاظت و حمایت کرے - گرم  
 ہونے والی - دیکھی آگ -

اٹھے پاؤں -  
 حافظ - نگہبان - ربانی یا کرنے والا - ج:-  
 حفاظ - حفاظہ -  
 حافظ العین - بیدار آدمی - جس پر نیند غالب  
 نہ کرے -  
 حافظ - بھرا ہوا -  
 خافی - ننگے پاؤں والا - پاؤں اور کھگھسا  
 ہوا - لطف سے پیش آنے والا -  
 ج:- حفاظہ -  
 خاق - چیز کا بیج اور درمیان  
 خاقۃ - مصیبت - اٹل - ج:-  
 خاقین - جس کا پیشاب بند ہو گیا ہو -  
 خاقیتہ - معدہ - دونوں ہنسیوں کے درمیان  
 کا گڑھا - ج:-  
 خالیم - حکم کرنے والا - قاضی (د) گورنر -  
 ج:- حکام - خدا تعالیٰ کے ناموں میں  
 سے ایک نام -  
 خالچی - فرزند گران (د)  
 خال - آدمی کی وہ کیفیت جو راسخ نہ ہو -  
 (اور اگر راسخ ہو جائے تو اس کو مکنت  
 کہتے ہیں) گردش - موجودہ وقت -  
 ج:-  
 خال - اترنے والا - ج:-  
 خال - اترنے والا - ج:-  
 خالیتہ - عورت زیور پہننے ہوئے -  
 حالات التآہس - زمانہ کی گردشیں -  
 خالیب - دودھ دوہنے والا - ج:-  
 خالیبان - دو گینات کے قریب -

حَامِيم - سات سوئیس قرآن شریف کی جن کا شروع حَمِّم کے ساتھ ہے۔  
 حَامِيَّة - شراب کی دوکان جہہ۔ حَامِيَّة وَ حَوَائِي  
 حَامِيَط - گھوٹوں والا (یہ لفظ امر کی تاکید کے لئے بھی آتا ہے جیسے۔ أَحْمَرُ حَامِيَّةٌ بہت سرخ۔

حَاوِيَت - شراب کی دوکان جہہ۔ حَوَائِيَت  
 حَاوِي - سپرا۔ گھیرنے والا۔ شامل کرنے والا  
 حَوِيَط - محیط۔

حَاوِيَر - پریشان۔ حیران آدمی کی جن حالات میں گھرا ہوا ہے ان سے نکلنے کی صورت نہ جانے نیچی زمین جہاں۔ پانی جمع ہو جاتا ہو۔ باغ۔ جہہ۔ حَوَارَان و حَوَارَان -

حَاوِيَش - درختوں کا انبوہ۔ درختوں کا جھنڈ  
 حَاوِيَض - حَاوِيَضَةٌ وہ عورت جس کو ماہواری۔ خون آ رہا ہو۔ جہہ۔ حَوَائِيَض حَوِيَض -

حَاوِيَط - دیوار۔ باغ جس کے چاروں طرف دیوار بھی ہو جہہ۔ حَوِيَطَان - حَوِيَط - حَاوِيَك - جولاہہ۔ جہہ۔ (مذکر) حَاوِيَكَة - حَوِيَكَة جہہ۔ (مؤنث) حَوَائِيَك حَوَائِيَل - جس کا رنگ بدلا ہوا ہو۔ اونٹ کا ماہ پچھ جو ابھی پیدا ہوا ہو۔ ایک سال کی عمر والا۔ یا بچہ جہہ۔ حَوَال - حَوَال - حَوَائِل - حَوَائِل -

## ح - ب

حَبِيَّة - (جنس) دانہ۔ غلہ۔ اناج۔ حَبِيَّة

حَبِيَّة - ایک دانہ۔ جہہ۔ حَبِيَّة

حَبِيَّة الرِّشَاد - رائی۔

حَبِيَّة القَطْن - بزلہ۔

حَبِيَّة المِزَن - اولہ۔

حَبِيَّة العَمَامِر - اولہ۔

حَبِيَّة - عاشق۔ دوست۔ مؤنث حَبِيَّة

جہہ۔ أَحْبَاب - حَبَان

حَبِيَّة - محبت۔ دوستی۔ بڑا گھڑا۔ مٹکا۔

جہہ۔ حَبِيَّة تَه - حَبَاب - أَحْبَاب

مص (حق) دوست رکھنا۔ محبت

کرنا۔ رغبت کرنا (س۔ ک)

خوش نما اور مرغوب ہونا۔

حَبَابُ المَاء - پانی کا بلبہ۔ وہ جگہ جہاں پانی

بہت ہو۔ وہ خطوط اور موجیں جو

ہوا سے پانی پر پیدا ہو جاتی ہیں۔

حَبَاب - دوستی۔ آپس میں دوستی کرنا۔

حَبَاب - دوستی۔ دوست (مؤنث) حَبَابَة

دیو۔ سانپ۔

حَبَابَة - کالی مٹی کا ٹکڑا۔ کالی بہرنی۔

حَبَاب سَمِي - (مذکر و مؤنث، واحد و جمع) سرخاب

حَبَابَك - ریت کے ٹیلہ میں راستہ۔ پانی

وغیرہ کی شکن۔ ستاروں کا راستہ جس

میں وہ چلتے رہتے ہیں۔ جہہ۔

حَبِيَك -

حَبَال - رسیاں۔ تہ پیریں۔ وسائل و

ذرائع۔ پنڈلی کے پٹھے۔ بدن کی رسیں

وہ۔ حَبَال كَاج -

حَبَال - رسی بنانے والا۔

حَبَالَة - حال جہہ۔ حَبَائِل -

حَبَشِيَّة - ملک (ابی سینیا)۔  
 حَبَشِيَّة - بہت کالے اونٹ۔ ایک گھاس  
 جب کہ وہ کثرت سے اور نجان ہو۔  
 حَبَشِيَّة - بہت کالے اونٹ۔ ایک قسم کی  
 چینیٹیاں سیاہ اور بڑی۔  
 حَبَط - حَبِط (س حق) بیج اور باطل ہونا  
 رائیگاں ہونا۔

حَبِيك - (ن وض) اچھا بنا۔ مضبوطی سے  
 گونہنا۔ اچھی طرح ہاندھنا۔  
 حَبِيك - راستے ستاروں کے درمیان۔ برج  
 و: حَبِيكَة -  
 حَبِيكَة - کمر بند۔ آزاد بند۔ پٹکا۔ ج:۔  
 حَبِيك -

حَبِيكَل - رستی۔ عہد و پیمان۔ پناہ اور امن۔  
 پھاری پن۔ وصال اور طاپ۔ ایک  
 پٹھا گردن اور کندھے کے درمیان  
 پہننے کی ایک رگ۔ پیٹھ کی ایک رگ  
 ج:۔ حَبِيَال - أَحْبِيَال - حَبِيُول  
 مصدر (ج) حال سے شکار کرنا۔ شکار  
 کے لئے حال پھیلاتا۔ رسی سے ہاندھنا  
 الحَبِيُول المَبِيُون مضبوط رسی۔

حَبِلُ الوَرِيْد - رگ گردن۔ شاہ رگ  
 حَبِل - (س) بھر جاتا۔ حامل ہونا (مجموعاً)  
 [ب] نطفہ قرار پانا۔  
 حَبِلِي - حامل عورت۔ ج:۔ حَبِلِيَات  
 حَبَالِي -

حَبُو - (ن) گھنٹیوں چلنا پڑنا۔ تیرا زین  
 سے لگنا اور پھرا چٹ کرنا۔  
 لگنا (ن) روکنا [ب] کسی کو کچھ دینا۔

حَبَب - دانوں کی چمک اور آبداری۔ بلبلاؤ۔  
 حَبَبَة - ایک بلبلا۔  
 حَبَبَة - ایک دان۔ ایک جوگی بقدر وزن۔  
 آبلہ۔ پھالہ۔ ٹھوڑا۔ خیر شے۔ گولی۔  
 ج:۔ حَبَبَات -

حَبَبَة الخَضْرَاء - بون  
 حَبَبَة سَوْدَاء - کالا دان۔ کلونجی۔  
 حَبَبَة العَيْن - آنکھ کی پتلی۔  
 حَبَبَة القَلْب - دل کا سیاہ نقطہ۔ دل کا خون  
 حَبَبَة - دوستی۔ دوست۔ انگور کا خوشہ۔  
 زن عبودیر۔ ج:۔ حَبَب -  
 حَبَبَات - کیا کہنے! واہ وا۔ سبحان اللہ  
 (کلمہ مدح)۔

حَبَبَات الأَهْس - اچھا ہے یہ کام۔  
 حَبَب - بیوہ کا عالم۔ عیسا تیوں کا پوپ۔  
 نیک آدمی۔ ج:۔ أَحْبِيَس -  
 حَبَب - نشان۔ داغ۔ دوات کی سیاہی  
 ج:۔ حَبَبُوْر - مص (ن) سنوارنا  
 عوش کرنا (س) خوش ہونا۔ راضی ہونا  
 آسودہ ہونا۔ زخم کا داغ رہ جانا۔  
 نکل پڑنا۔

حَبْبَس - قید خانہ۔ قید۔ اسیری۔ ج:۔ حَبْبَس  
 مص (ض) روکنا۔ قید کرنا۔ ڈھکنا۔  
 ضبط کرنا۔ باز رکھنا [ع] کسی کو  
 کسی چیز سے روک دینا۔

حَبْبَسَة - بات کرنے کے وقت بات کی رکاوٹ  
 پیشاب کی رکاوٹ۔

حَبْبَس - [ب] کسی کے لئے جمع کرنا۔  
 حَبْبَسَة - حبشیوں کا ایک گروہ۔ حبشیوں کا

انتہا) مگر (حرف استثناء)۔

## ح - ث

حَافٍ - (ن) (علی) راغب کرنا۔ شوق دلانا  
پرانگیختہ کرنا اور اہلکارنا۔

حَافِرٌ - (م) پھنسی پھوڑا۔ چہارہ وغیرہ  
نکل آنا۔

حَافِرٌ حَافِرٌ (ن) (ض) کسی پر خاک ڈالنا۔  
کسی پر خاک گر جانا اول [تھوڑا  
سادیا۔

حَافِرٌ - زمین جس میں خاک بہت ہو۔

حَافِرٌ - تھوڑی سی خاک جہ، حَافِرٌ

حَافِرٌ - خاک گرائی ہوئی بھوسے کے تیکے

حَافِرٌ - لپ - مٹھی - ۱۰ - حَافِرٌ - ایک

مٹھی - ایک لپ جہ - حَافِرٌ

حَافِرٌ - برانگیختہ - آادہ - شر پایا ہوا -

ہمت دلایا ہوا - تیز رو - فعل معنی

مفعول یا بمعنی فاعل۔

## ح - ج

حَجْرٌ (ن) بہت آمد و رفت کرنا۔ قصد

کرنا۔ عبادت کی نیت سے خار کوبہ

کا قصد کرنا۔ اور طواف وغیرہ بجا

لانا۔ دلیل میں کسی پر غالب آنا۔

زخم میں سلائی ڈالنا۔

حَجْرٌ - بیت اللہ کے طواف کرنے کا قصد کرنا

شرائط مقررہ کے ساتھ۔

حِجَابٌ - پردہ - ادٹ - جہ - حِجَابٌ

ہر چیز دو چیزوں کے درمیان۔

بدریہ دنیا۔

حَبْوَةٌ - ایک خاص قسم کی نشست کے لئے

بیٹھ اور بند لیوں کو باندھنے کا کپڑا

حَبْوَةٌ - (ض) بیچ اور باطل ہونا۔ برباد ہونا

حَبْلٌ - دوست - یار - جہ - حَبْلٌ

حَبْلٌ - (مؤنث) دوست - مدینہ منورہ -

حَبْلٌ - وہ گھوڑا کوئی دوسری چیز سے راہ

خدا میں وقت کریں۔

حَبْلٌ - ستاروں کا راستہ - برج - جہ -

حَبْلٌ - حَبْلٌ

حَبْلٌ - شکار جس کے لئے جال پھیلا ہوا کہ

وہ آکر بھی پھنسا نہ ہو۔

## ح - ت

حَتْفٌ - موت - جہ - حَتْفٌ

حَتْفٌ أَلْفٌ - بھونے کی موت بغیر قتل

وغیرہ کے (عرب کا خیال تھا کہ مر لیں

کی روح سانس لیتے لیتے تاک

کے راستہ نکلتی ہے اور زخمی کی

زخم کے راستہ سے)۔

حَتْلٌ - (ن) دنیا - عطا کرنا۔

حَتْمٌ - آخری فیصلہ - وہ چیز جس کا کرنا

ضروری ہو۔ خالص بے طاوت -

جہ - حَتْمٌ - (ض) (علی)

واجب کرنا - حکم کرنا - کام کا پکا اور

مضبوط کرنا - [آخری فیصلہ دنیا

ضرور - لازم - قضا - مقدمہ

حَتْمٌ - جہاں تک - یہاں تک - تک (حرف



روک - حج:۔ حِجْوَرِ حرام مص  
 (ن من) حاکم کا کسی کو تفرق سے روک  
 دینا۔ زمین میں مہذبہ کا کے لئے ستون کھڑے  
 کر کے اور دل کو تفرق سے روک دینا۔  
 حِجْر - اطراف شام میں قوم ثمود کی بستیاں کجہ  
 کوہ سے متصل جانب شمال ایک جگہ عقل  
 رکاوٹ حرام گھوڑی - حج:۔  
 حِجْوَس - حِجْوَرَة - أَحْبَار  
 حِجَار  
 حِجْر - آدمی کی گود - رکاوٹ - حرام - حج:۔  
 حِجْوَس -  
 حِجْرَان - روک - منع -  
 حِجْرَة کونہ - کنارہ - حج:۔ حِجْرَات - حَوَاجِر  
 حِجْرَة پھیڑا گھر بالا خانہ - اونٹوں کا احاطہ -  
 حج:۔ حِجْر - حِجْرَات  
 حِجْرَة - اَرْض حِجْرَة - بہت پتھروں والی  
 زمین -  
 حِجْر - (ن من) منع کرنا - روک دینا (پین) دو  
 چیزوں کے بیچ میں آجانا - زعلی کسی  
 کے مال پر قبضہ کر لینا - فرق کر لینا -  
 الْحِجْرُ الصَّحِّي - قرنطینہ (د)  
 حِجْرَة - مگر کا وہ حصہ جہاں ازار باندھتے ہیں -  
 نیفہ - حج:۔ حِجْر -  
 حِجْلَة - گول عمارت گنبد کے مشابہ - دلہن کے  
 لئے پردہ دار مسہری یا پردوں وغیرہ  
 جو حجرہ ساس کے لئے تیار کیا جاتے -  
 حج:۔ حِجَال - حِجَل  
 حِجَل - حِجْلَان - (ن من) اوچکنا -  
 بھدکنا - کودنا -

حائل ہو -  
 حِجَاب - حِجْب - (ن) پردہ میں کرنا - آنے  
 سے روک دینا -  
 حِجَابَة - در بانی -  
 حِجَاب - بہت حج کرنے والا -  
 حِجَاب - حجت لانا بھگوانا -  
 حِجَارَة - کنکریاں - پتھر - حج:۔ حِجْر  
 حِجَار - مہار - سنگ تراش -  
 حِجَار - مکہ - مدینہ - طائف وغیرہ پر مشتمل علاقہ  
 حد فاصل -  
 حِجَام - سینگے سے خون نکالنے والا - پھینے  
 لگانے والا -  
 حِجَامَة - سینگے سے خون نکالنے کا پیشہ کرنا -  
 پھیننا لگانا -  
 حِجَامَة - پھینے لگانے کا پیشہ -  
 حِجَب - (ن) چھپانا - ڈھک دینا - نقاب انا  
 مانع ہونا - حائل ہونا - باز رکھنا  
 حِجْبَة - در بانی  
 حِجْبَة - دلیل و برهان - حج:۔ حِجْب -  
 حِجْبَة - حج - برس - کان کی لو - حج:۔  
 حِجْب -  
 حِجْر - پتھر - حج:۔ أَحْبُر - حِجَارَة -  
 حِجَار - أَحْبَار  
 (طبع) الْحِجْر - لیتھوگرافی (د)  
 حِجْرَان - سونا - چاندی -  
 حِجْر آسود - خاتمہ کعبہ کی دیوار میں رکھا ہوا پتھر  
 جس کو بوسہ دیا جاتا ہے -  
 حِجْر - پتھر کی زمین - سنگستان -  
 حِجْر - گود - ریت کا ٹیلہ - آنکھ کا پتھر -

حَجَل - چکر جہ - حَجَلَان - حَجَلِي -  
 حَجَل - بازیب پائل - بیڑی - جہ -  
 حَجُول - و - اَحْجَال -  
 حَجْم - چیر کا دل اور ابھار جو ہاتھ کو محسوس ہو  
 جہ - حَجْوہ - مص (ن من)  
 روک دینا - بچہ کا مال کے پستان کو چوسنا  
 اونٹ کے منہ پر نید باندھنا - پھینے  
 لگانا - سانپ کا ڈسنا -  
 حَجْن - (ن من) جھکا دینا - خم دینا - میڑھا  
 کرنا - میڑھی لکڑی سے اپنی طرف  
 کھینچنا [ب] سکوت کرنا - بسنا  
 رہنا -  
 حَجِج - بھگڑا لو آدمی -

حَدَّاء سے ہانکنے والا -  
 حَدَّاءَة - چیل - جہ - حَدَّاءُ - حَدَّاءُ  
 حَدَّان -  
 حَدَّائَة - نو عمری حَدَّائَةُ الہام شروع کا  
 حَدَّاد - تیز پھری - تیز زبان آدمی - تیز فہم  
 جلد غفتمیں بھر جانے والا -  
 حَدَّاجَة - عورتوں کے بیٹھنے کا ہودہ - جہ -  
 حَدَّابَج -  
 حَدَّاد - سوگ کے کپڑے مثلاً سیاہ یا نیلے  
 سوگ - ماتم -  
 حَدَّاد - تیز چیزیں - وہ - حَدَّائِد  
 حَدَّاد - لوہار - قید خانہ کا محافظ - دربان  
 حد مارنے والا -  
 حَدَّادَة - لوہار کا پیشہ - آہنگری -  
 حَدَّال - چکن - ہموار -  
 حَدَّاب - پیٹھ کا کپڑا پین - اوپر سے نیچے کی  
 طرف ڈھلاؤ [علی] کسی پر شفقت  
 کرنا - اونچی زمین - پتھر اور مٹی سے ملی ہوئی  
 اٹھلی زمین - جہ - حَدَّابِ مَص  
 (س) کپڑا ہوجانا -  
 حَدَّاب - (مذکر) کپڑا (مؤنث) حَدَّابَاء  
 حَدَّابَة - کپڑا پین -  
 حَدَّاءَة - لوہے کے اوزار کی تیزی - غصہ کی تیزی  
 تندی - ترش مزاجی - جلدی - سختی  
 حَدَّاءَة - اکیلا - تنہا - عَلِي حَدَّاءَة الْکب -  
 حَدَّات - جوان - جوانی - نئی چیز - وہ کہ جس سے  
 دھنوں ٹوٹ جائے - جہ - اَحَدَات  
 حَدَّاتُ السَّيْت - جوان - جہ - اَحَدَات  
 حَدَّاتَان - ابتدا - آغاز -

حَدَّاء - دو چیزوں کے درمیان جو شامل ہو -  
 روکنے والا - چیر کی انتہا - تیزی -  
 دھار - تعریف - سزا - احکام میں خدا  
 تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا اندازہ اور  
 ان میں گنجائش کی انتہا - جہ - حَدَّوَد  
 مص - (ن) پھری وغیرہ کا تیز کرنا  
 روکن - دفع کرنا - حد طبعی مارتا -  
 اندازہ کرنا - کسی چیز کا کنارہ - ظاہر  
 کرنا - ایک چیز کو دوسری چیز سے  
 متاثر کرنا - حرام کرنا -  
 حَدَّ - حَدَّاد - (مف ن) شوہر کے مرنے  
 کے بعد عورت کا سوگ کے کپڑے  
 پہننا -  
 حَدَّاء - اونٹوں کو ڈانٹنے والا اور ان کو

## ح - د

حَدَّاب - (مذکر) کپڑا (مؤنث) حَدَّابَاء  
 حَدَّابَة - کپڑا پین -  
 حَدَّاءَة - لوہے کے اوزار کی تیزی - غصہ کی تیزی  
 تندی - ترش مزاجی - جلدی - سختی  
 حَدَّاءَة - اکیلا - تنہا - عَلِي حَدَّاءَة الْکب -  
 حَدَّات - جوان - جوانی - نئی چیز - وہ کہ جس سے  
 دھنوں ٹوٹ جائے - جہ - اَحَدَات  
 حَدَّاتُ السَّيْت - جوان - جہ - اَحَدَات  
 حَدَّاتَان - ابتدا - آغاز -

حَدَّثَانَ اللَّهُ - زمانہ کی سختیاں اور آفتیں -  
 حَدَّج - (ض) زین و مہرنا کا بھی کسی کو اونٹ پر  
 بوجھ لادنا - عورتوں کا عطف کسنا -

حَدَّج - اونٹ کا شغف - جہ - حَدَّوَج  
 حَدَّس - نیچی زمین - دُھلاؤ - جلدی - جلدی  
 بردھنا -

حَدَّس - (ض) بھاؤ کی طرف کشتی لیجاتا -  
 نشیب میں اترنا - اٹارنا - جلدی  
 جلدی اقدان کہنا - قرآن شریف  
 جلد جلد بردھنا - آنسو بہانا -

حَدَّس - (ض و ن) [ج] [ا] گمان سے بات کہنا  
 خیال اور اٹکل سے چیزوں کو جاننا  
 بے رہبر کے راستہ چلنا -

حَدَّق - (ض) [ب] گھیرنا - حلقہ باندھنا -  
 کچھ چیز کی طرف غور سے دیکھنا -  
 آنکھ کی پستلی - جہ - حَدَّق

حَدَّق - حَدَّق - أَحَدَّق  
 حَدَل - حَدَّوَل - (ض) [ع] کسی پر ظلم  
 ستم کرنا - مائل پر ظلم ہونا - بیلین پھیرنا  
 (چھت پر) -

حَدَّوْ - حَدَّأء - (ن) اونٹوں کو راگ گاکر  
 اُن کو لاکھنا - کسی بات پر زور دینا -  
 جوش دلانا -

حَدَّج - (س) [ب] کسی جگہ ٹھیرنا - رہ پڑنا  
 حَدَّوْت - (ن) چیز کا موجود ہو جانا کہ جو پہلے نہ  
 تھی -

حَدَّوْتة - جوانی -  
 حَدَّوْد - قواعد - ضوابط - خدا تعالیٰ کے مقرر  
 کردہ اندازے -

حَدَّوْس - نیچی زمین - نشیب - دُھال  
 حَدَّوْر - (ن ض) اوپر سے نیچے ڈالنا - اترنا -  
 اٹارنا - آنسو بہانا -

حَدَّوْث - بات - گفتگو - نئی چیز - مند قدم -  
 جہ - حَدَّوْث - حَدَّوْثَاء  
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی  
 بات یا آپ کی خبر - جہ - أَحَدَّوْث

حَدَّوْثَان  
 حَدَّوْثُ السِّتِّ - جوان آدمی - نومر -  
 حَدَّوْثَاء - لوا - تیز - تیز فہم - تیز زبان -

غضبناک جہ - حَدَّوْثَاء - أَحَدَّوْثَاء  
 حَدَّوْثَاء - لوا - لوسہ کا ٹکڑا - لوسہ کا اوزار - ہتھیار  
 جہ - حَدَّوْثَاء

حَدَّوْثَاء - چرگا ہ جس میں درخت بھی ہوں - کھجور  
 وغیرہ کے درختوں کا باغ - باغ کی  
 چھار دیواری - نخلستان کا ایک قطعہ  
 جہ - حَدَّوْثَاء

حَدَّوْثَاء - حَدَّوْثَاء  
 حَدَّوْثَاءُ الرَّحْمٰنِ - مسیلمہ کذاب کے باغ کا نام  
 جب وہ اس میں مارا گیا تو اس کا نام  
 حَدَّوْثَاءُ الْمَوْتِ ہو گیا -

## ح - ذ

حَدَّأء - مقابل - برابر - مقابل ہوتا - کسی کے  
 برابر گر پڑنا -

حَدَّأء - جوتی - چپل - سم رگھوڑے اور  
 اونٹ کا جہ - أَحَدَّأء - (ن)  
 جوتی کو ناپ کے مطابق کاٹنا -

حَدَّأء - موچی - جہ - حَدَّأءُون -  
 حَدَّأء - ایک دوسرے کو ڈرانا -

(ن) گرم کرنا۔ گرم ہونا (س) آزاد اور

اصیل ہونا۔  
 حُدَّ - آزاد آدمی جو کسی کا غلام نہ ہو۔ شریف  
 جو امزد۔ خالص عمدہ۔ سخی۔ ہر کم کی  
 منتخب اور چھٹی ہوئی چیز۔ آزاد خیال  
 جہ۔ اَحْدَاد - حُدَّاس

حُدَّالْتَاد - گھر کا بیج۔

حُدَّالْوَجْه - رخصتہ۔

حَدَّی - لائق۔

حَدَّاء - حدائی۔ مکہ کا ایک پہاڑ جس کے غائبین  
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشہ نشین  
 ہو کر عبادت فرمائی تھی۔

حَدَّاب - ایک دوسرے سے لڑنا۔

حَدَّات - کمان کا سونوار جس میں چلہ ہوتا ہے۔

حَدَّات - کسان۔

حَدَّاج - نیلام (د)

حَدَّاس - آزادی۔ جو امزدی۔

حَدَّارَة - گرمی۔ تیزی۔

حَدَّارَة - (لٹ) کسی جگہ کا مضبوط و استوار ہونا

فصیل دار اور شہر پناہ والا ہونا۔

کسی مقام کا۔

حَدَّاش - کالا سانپ۔ مشتعل آگ۔

حَدَّاق - جہر جہر میں نساؤ ڈالے۔

حَدَّاق - بہت کھاری پانی۔

حَدَّاقَة - جلی ہوئی چیز۔ جلے ہوئے کپڑے میں

سے جو بیج رہا ہو۔ جلا ہوا کپڑا۔

حَدَّام - ناجائز اور ممنوع چیز اور وہ کام جس

کو نہ کرنا چاہیے۔ حلال کی ضد مجترم

جہ۔ حُدَّام (د) شال۔ کبیل

حَدَّاقَة - پھینکنے کے قابل چیز۔ تھوڑی

سچی چیز۔

حَدَّاقِیل - سب کا سب۔ پھلدار و کنارے

لڑائی پر آمادہ لوگ۔ و۔ حَدَّاقَار

حَدَّاقُوْر -

حَدَّاد - ڈر۔ بچاؤ۔ پرہیز۔ مص (س)

ڈرنا۔ پرہیز اور احتیاط کرنا۔

حَدَّار - بیدار اور محتاط آدمی۔ اپنا بچاؤ

کرنے والا۔ جہ۔ حَدَّادُوْن -

حَدَّارِی

حَدَّار - ڈر۔ بچاؤ۔ احتیاط۔ پرہیز۔

ہر شیا کی۔ مکان محفوظ۔

حَدَّاف - (ض) گرا دینا۔ پھینکنا۔ تلوار وغیرہ

سے سر کاٹ کر اڑا دینا [ب] کسی پر

کوئی چیز دے مارنا۔

حَدَّق - حَدَّقَ - حَدَّقَات (ض س)

کام میں ماہر اور ہوشیار ہو جانا۔

حَدَّو - مقابل۔ برابر۔ علم عروض کی ایک

اصطلاح۔

حَدَّو - حَدَّاء - (ن) کسی کے برابر بیٹھنا

کسی چیز کے برابر گر پڑنا۔ جوتہ بنانا

جوتہ پہنانا۔ ایک جوتی دوسری جوتی

کی برابر کرنا۔ جوتہ کا ناپ کرنا اور

تراشنا۔

حَدَّوَة - عطیہ۔ چہرہ کا ٹکڑا۔ مقابل۔

حَدَّوَق - (ض) (عرق کا) تیز و ترش ہونا۔

ح - سی

حَدَّ - گرمی۔ جہ۔ حُدَّوَس - مص (ض)

حَرَد (ص) قصد کرنا۔ لیکن۔ رو کرینا۔ سواخ کرنا۔ ایک حصہ کاٹ لینا (س) (علیٰ) غصہ کرنا۔  
 حَرَد ایک بیماری جو اونٹ کے ہاتھ پاؤں میں ہوتی ہے  
 حَرَس (ن) حفاظت کرنا۔  
 (س) زاہد پر سرگرم ہونا۔  
 حَرَس - حفاظت۔ خبرداری۔ احتیاط۔ وسیلہ تعویذ۔ آخِرَاز۔  
 حَرَس - حِرَاسَة - (ن) نگہبانی کرنا (ص) چرانا (س) بڑی عمر کا ہونا۔  
 حَرَس - پادشاہ کے دربار کے نگہبان یا پاسبان حَرَسَتِی ان میں سے ایک۔  
 حَرَس - اثر نشان۔ جماعت۔ جہ۔ حِرَاشِ مَص (ص) گروہ کا شکار کرنا۔ چھیلنا۔ (س) سخت ہو جانا۔  
 حَرَسَة - سنجی۔  
 حَرَص - لالچ (ص) (س) (علیٰ) لالچی ہونا۔ (ن) کھال اتارنا۔ کپڑے دھوتے ہوئے پھاڑ دینا۔  
 حَرَص - لالچی۔ گردانگی (عقل کی) بربادی۔ (مذہب کا) فساد۔ بیمار۔ ٹڈھال۔  
 بیکار (ص) (ن) ہلکا ہونا۔ بیماری سے گھل جانا۔  
 حَرَص - جانبِ طرف۔ کنارہ۔ تیزی (ب) (ت) الخ میں سے ایک۔ (اصطلاحِ نجومیں) کلمہ کی ایک قسم۔ جہ۔ حَرُوفِ اَحْرَفِ قَرَارَت۔ لغت (ص) (ص) اپنے کہنے کے لئے کمانی کرنا۔

حَرَامُ اللَّهِ - قسم خدا کی۔  
 حَرَامِی - ڈاکو۔ (د)  
 حَرَب - (س) نہایت غضبناک ہونا۔ غصے سے دیوانہ اور پاگل ہو جانا (ن) لوٹنا غارت کرنا۔  
 حَرَب - (مذکورہ مؤنث) لڑائی۔ جنگ۔ جہ۔ حُرُوب  
 حَرَب - بہت جنگ جو۔ بہادر۔ غضبناک۔ جہ۔ حَرَبِی  
 حَرَبَة - نیزہ۔ بھالا۔ لڑائی کا ہتھیار ہاتھ کی پھڑی۔ کڑا (تا زیادہ)۔ جہ۔ حَرَاب  
 حَرَبَة - لڑائی کی شکل اور ہیئت۔  
 حَرَبِی - وار الحرب کی طرف منسوب۔  
 حَرَبَة - پتھر لی زمین۔ جہ۔ بھڑا۔ حَرَار - پیاس۔ بہت اندھیرا۔ دردناک۔ عذاب۔  
 حَرَبَة - خاندانی شریف اور آزاد عورت۔ جہ۔ حَرَارَة - کھیتی۔ زراعت۔ راستہ بہت پامال جہ۔ حَرُوفِ ثَوَاب - (ن) ص) کھیتی کے لئے بل چلانا۔ کمانی کرنا۔ کھیتی کرنا۔ کھودنا۔ بخورد۔ نکر کے ساتھ مطالعہ کرنا۔  
 حَرَج - مضائقہ۔ تنگی۔ تنگی۔ گناہ۔ سنہتی۔ حرمت۔ ارتھی۔ مص (س) حرام ہونا تنگ ہونا (علیٰ) منع کرنا۔  
 حَرَج - بہت تنگ جگہ۔ گنہگار۔ لڑائی میں ثابت قدم۔

حُرْمَة - آبرو - عزّت - وہ چیز جس کا توڑنا رُوا نہ ہو جس کا ادب ضروری ہو۔  
 جہ - حُرْمَات -  
 حُرْمَة التَّجَمُّل - آدمی کے اہل و عیال  
 حُرْمَل - رائی کا دانہ - وہ - حُرْمَلَة -  
 حُرْوَم - گرمی -  
 حُرْوَم - گرم ہوا جو رات کو چلتی ہے اور دن میں جو گرم ہوا چلتی ہے اُسے سموم کہتے ہیں - آفتاب کی گرمی - رات کی گرمی آگ -

حُرْوَمَة - آزادی - سوزش اور تیزی -  
 حُرْوَسِيَّة - آزادی - بخارج کا ایک گروہ -  
 حُرُوفُ الْحَلْقِ - چھ حرفت ہیں - ہمزہ -  
 عَيْنٌ - هَاءٌ - عَيْنٌ - خَاءٌ -  
 حُرُوقٌ - حُرُوقَاءٌ - چھماق جس کے ذریعہ آگ سُکائی جائے -

حُرُونٌ - حِرَانٌ (ن ت) گھوڑے کا دودھ میں ایک دم رُک جانا - اُبھانا  
 دلدلی اچھالتا - سرش ہونا -

حُرُونٌ - اڑنے والا - اڑیل -  
 حُرِيٌّ - لائق - جہ - آخِرِيَاءٌ  
 حُرِيٌّ (رض) گھٹنا کم ہونا - (س) [ب] کسی بات کے لائق ہونا -

حُرِيَّةٌ - آزادی - نرم در ریتلی زمین عرب کے شریف لوگ -

حَرِيْبٌ - ریشم - ریشمی کپڑا - حَرِيْبَةٌ - ایک ریشمی کپڑا - عفتہ میں گرم ہوجانا والا -

حَرِيْبَةٌ - ایک قسم کا کھانا جو دودھ گھی

سیدھے راستے سے پھیر دینا - معنی یا صورت لفظ کو بدل دینا -  
 حِرْفَةٌ - پیشہ جس سے روزی ہاتھ آئے کاروبارِ شغل - صفت و حرفت - جہ -  
 حِرْفٌ -

حِرْقٌ - کپڑے میں جلے ہوئے داغ - مص (ن) سونان کرنا - دانت پلینا - (ض) [ب] آگ میں جلانا -

حِرْقٌ - آگ - آگ کی لوہ کپڑے کی پھٹن (س) استری کرنے سے کپڑے کا رواں بیل جانا - مال بھر جانا -

حِرْقَةٌ - سوزش - گرمی -

حِرْكٌ - حِرْكَةٌ - (ك) ہلنا - حرکت کرنا - (س) (عین ہوتا - ن) اونٹ کے کا ندھے پر مارنا -

حِرْكَةٌ - جنبش (د) شورش جہ - حِرْكَاةٌ حَرْمٌ - کعبہ اور مکہ کا گردا گرد - مدینہ کا گردا گرد - محفوظ جگہ - عزت و آبرو جہرام

حِرْمٌ - ناجائز و حرام - واجب جس نے اہرام باندھ رکھا ہو - جہ - حِرْمٌ -

حِرْمٌ - حج کا اہرام جیمنی - اہل و عیال جس کی حفاظت ضروری ہو -

حِرْمٌ - چار مہینے - ذوالفقہہ - ذوالحج - عرم - رجب - اہرام باندھنے والے وہ - حِرَامٌ

حِرْمٌ - نا اُمیدی اور محرومی -

حِرْمٌ - حُرْمَة حِرَامٌ - (ك) [ع] اہرام ہونا - ناجائز اور ممنوع ہونا -

حِرْمَانٌ - مکہ اور مدینہ -

حَدَام - قسم وغیرہ جس سے کوئی چیز باندھا جائے۔

حَدَامَةٌ - بیٹی - کمر بند - جہ - حُرْم - حَدَائِم حَدَائِم -

حَدَب - گردہ - جماعت - درود و وظیفہ وغیرہ کی ایک خاص مقدار - پانی کی باری - ہتھیار - جہ - آخَذَاب

حَدْبُ الدَّجَل - آدمی کے دوست اور مددگار۔

حَرْب - (ن) واقع ہونا - آپرٹنا - سخت کام۔

حَسْر - (ص) اندازہ کرنا - تخیل کرنا۔

حَزْقِیل - ایک نبی علی نبیہا و علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام۔

حَزْم - حَزْمَةٌ - حَزْمَةٌ - (ک) اپنے کام میں ہوشیار ہونا۔

حَسْرَم - اونچی اور سخت زمین - جہ - حَزْوُہ - کام میں ہوشیاری۔

آگاہی اور نچتگی - مص (ص) مضبوطی سے باندھنا۔

حَزْمَةٌ - لکڑی وغیرہ کا گٹھا - بغیر پلندہ (د) پارسل - جہ - حَزْم -

حُزْن - غم - جہ - آخْزَان - مص (ن) غمگین کرنا (س) [علی دل] غم گین ہونا۔

حُزْن - حُزْنِین - غمگین - جہ - حُزَان - حُزْنَاء -

شکر وغیرہ سے تیار کیا جاتا ہے۔

حَرِيص - لالچی جہ - حُرَّاص - حُرَصَاء حُرَّاص -

حَرِيْف - ہمیشہ - جہ - حُرَفَاء حَرِيْف - جو چیز زبان کو کاٹے اور بھلجلائے جیسے مرج۔

حَرِيْق - سوزش - آگ - آگ کا جلا ہوا۔

جہ - حَرْقِي - دانت پینے کی آواز۔

حَرِيْقَةٌ - گرمی - جہ - حَرَاتِيْق - حَرِيْم - روکی ہوئی چیز - حرام کی ہوئی چیز۔

جس کا چھوٹا درست نہ ہو - اجرام کی چادر - عزت و حرمت اور آبرو کنوس اور حوض کا گرداگرد - جہ -

آخْتَام - حَسْم -

حَدِيْمُ السَّاس - گھر کے چاروں طرف جو اس کے حقوق و منافع ہوں۔

حَيَام - حُرْمَان - حَيَم - حَيْمَةٌ - حَيْمَةٌ - حَيَامِيَّة - (ص) منع کرنا - روکنا - محروم کرنا

حَرِيْمَةُ الرَّبِّ - جو چیز خدا تعالیٰ نے مٹا کر دی ہے۔

ح - ح

حَدَّ - (ن) کاٹنا - تراشنا - داندلنا

حَدَاة - بدن کی خشکی - بھوسا - غم و عقہ کی دہر سے دل کی جلن۔

حَدَّن - سخت زمین۔ ضد سہل۔ جہ۔ حَزُون

ح - س

حَسَن - حَسْب - حصہ۔ مص (ن) مار ڈالنا۔  
 چڑھے اکھاڑ دینا۔ (س) [پ]  
 کسی چیز کو جانا۔ یقین کرنا۔ کسی  
 خبر پر (ض) (ل) [ر] [م] کرنا۔  
 حَسْب - حرکت۔ کسی چیز کے آہستہ چلنے کی آواز  
 جوکان میں آئے۔ اور وہ چیز دکھائی  
 نہ دے۔ ادراک۔ قوت ادراک۔  
 حِسَاب - گنتی۔ شمار۔ کافی۔ لوگوں کی کثرت  
 جماعت۔

حِسَابُ الْجَمَل - ابجد کا حساب۔  
 حِسْتَان - جس کا ادراک بہت برٹھا ہوا ہو۔  
 حِسْمَاہ - بہت تیز تلواری کی دھاڑ۔ وہ رات  
 جس میں تمام رات بارش ہوتی  
 رہے۔

حِسَان - خوبصورت اور عمدہ چیزیں۔ وہ۔  
 حَسْبِين - حَسَن - حَسْبَتہ -

حَسْبِے - کافی۔  
 حُسْبَان - حِسَاب - حِسَابِے - حِسْبَتہ  
 حِسَابِے - (ن) شمار کرنا۔  
 حِسْبَان - حُسْبِے - (س) (ج) گمان کرنا۔  
 سوچ بچار کرنا۔

حَسْب - حِسَابِے (ك) صاحب حسب ہونا  
 حَسْبِے - تعداد۔ مقدار۔ ذاتی جوہر و کمال۔  
 شرافت بالفعل۔ سخاوت۔ نیک  
 عمل۔ نیکی۔ بزرگی۔ باعتبار نسب  
 کے۔ خاندانی شرافت۔ رشتہ دار۔

جہ۔ - آخِسَاب -

حُسْبَان - عذاب۔ مصیبت و بلا۔ بُرائی۔  
 غبار۔ ٹڈی۔ شمار۔ اندازہ۔  
 حِسْبَتہ - مزدوری۔ مزدوری کی امید ثواب  
 کی امید۔ جہ۔ - حِسْبَتب -  
 حُسْبِلَتہ - حُسْبِي اللہ (مجھ کو اللہ کا بیٹے) کہنا۔  
 حَسْمَا - حُسُوْد - حَسَاْدَة - حَسْبِيْدَة  
 [ع] (ن) [ع] [ر] [ا] [چ] [ا] ہونا۔ اور  
 آرزو کرنا کہ بزرگی و نعمت دوسرے  
 سے زائل ہو جائے اور مجھ پر مل جائے  
 حَسْبِے - (ض) شاخ سے پھال اُتارنا۔  
 (ن) [ع] [ر] [ا] [چ] [ا] ہونا۔ ٹھکا  
 دینا۔

حَسْر - حَسْرَة - [ع] [ر] [ا] [چ] [ا] ہونا۔  
 حَسْرَة - افسوس۔ پھٹاوا۔ پشیمانی۔ جہ۔ حَسْرَا  
 حَسْرَتِي - اے افسوس۔

حَسْف - (ض) سانپ کا آواز نکالنا۔  
 چلنا (بادل کا) کا ٹٹنا فعل کا (س)  
 [ل] [ع] [ر] [ا] [چ] [ا] ہونا۔

حَسَك - گوکھرو۔ کینہ (س) [ع] [ر] [ا] [چ] [ا] ہونا۔  
 ناراض ہونا۔ دشمنی رکھنا۔

حَسْم - (ض) کا ٹٹنا۔ ریتنا (د) کمیشن  
 حَسَن - نیک، خوبصورت۔ اچھا۔ ایک  
 خوش نادرخت۔

حَسَن - حَسْبِين - حضرت طاہرہؓ کے  
 دو صاحبزادوں کا نام رضی اللہ عنہما  
 حَسْن - خوبصورتی۔ عمدگی اور خوبی۔ نیکی  
 جہ۔ - حَسْبِين - مص (ك) [ن]  
 خوبصورت ہونا۔ اچھا ہونا۔ نیک ہونا۔



حَسِينَة - کینہ لوگ، جہ: - حُسُل  
حَسِين - خوب صورت، حُصِين، جہ: - حَمَان

## ح - ش

حَشْر - باریک کان، بلکہ نیزہ - باریک تیر -  
(ن من) لوگوں کو جمع کرنا، مانگنا  
و نغ کرنا - بھڑکانا اور جوش دلانا -  
نیزہ وغیرہ کو تیار کرنا -

(یوم) الحَشْر - قیامت کا دن -  
حَشْرَة - زمین میں گھس کر رہنے والا مرموی  
جانور، جہ: - حَشْرَات - حَشْر  
حَشْرَج - پتھر ملی زمین کا کنواں - زم پتھر باریک  
کوزہ - مص - عشر زمانا -  
خرخر کرنا -

حَشْفَة - ذکر کا سیرا یعنی سپاری، جہ: -  
حِشَات

حَشْشَک (من) دودھ سے بھرا ہونا (تھن کا)  
بہت کھل لاتا (درخت کا) پانی  
سے بھرا ہونا (بادلی کا) جمع ہونا (آؤ کیوں  
کا) ہر طرف سے چننا (ہوا کا)

حَشْو - کلام کا زائد حصہ - بھراؤ جس سے  
تکیہ وغیرہ بھرا جائے (ن)  
کسی کے اندرونی اعضاء پر چوٹ مارنا  
تکیہ وغیرہ بھرنے -

حَشْوَة البَطْن - انترطیباں - آنتیں -  
حَشْوَم - (لک) موٹا ہونا - جسم ہونا -  
حَشْنی - حَشَا - اندرونی اعضاء جگر - تلی  
وغیرہ بکر - بھسل - کرنا - سانس -

جہ: - أَحْشَاء

حَسَنَة - بھلائی، نیکی، خلات - سَيِّئَة  
جہ: - حَسَنَات

حَسَنَة - حَسَنَات - حُسَانَة -  
خوبصورت عورت - نیک عورت -

جہ: - حَسَان - حَسَنَات -  
حُسْنی - نیک نامی - فتح مندی - نیک انجام -  
اللہ عزوجل کا دیدار - شہادت - نیکی -  
ابھی جہ: - حُسْنِيَات -

الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى - خداوند تعالیٰ کے نام -  
حَسُو - پتی چیر - پینے کے لائق (ن) پرندہ  
کاپانی پینا - تھوڑا تھوڑا شور مچانا -  
حَسُو - بمعنی حَسُو - نیز بمعنی بہت پانی  
پینے والا -

حَسْوَة - ایک ہار پانی پینا - اتنا پانی جس سے  
متر بھر جائے، جہ: - أَحْسِيَة  
أَحْسُوَة -

حَسْوَد - کینہ پرور، حاسد، جہ: - حُسْد  
حُسُوم - منحوس خیر کو قطع کرنے والے وہ -  
حَايِسَم نیز بمعنی متوالی و  
پے درپے -

حَسِيْب - صاحب حسب، جہ: - حُسْبَاء -  
شمار کرنے والا - کافی حساب لینے  
والا -

حَسِيْر - تھکا ہوا، ہر چیز سے عاجز پھپھانے  
والا - چندھا، جہ: - حَسْرَمِي  
حَسِيْس - ہلکی آواز - اُس چیز کے چلنے کی آواز  
جو نظر نہ آئے - مققول - مارڈالا  
ہوا -

حَسِيْل - گائے - گائے کے پھڑے وہ -

حَشِيش - سُوکھی گھاس - جنک -

## ح - ص

حَص - (ن) حصہ دینا - اکھاڑ لینا - مونڈنا بہت دوڑنا -

حَصَاة - مشانہ کی پتھری - ایک کنکر - عقل و ہوش - رائے -

حَصَاد - (ن حق) کھیتی کا ٹنا - کھیتی کا ٹنے کا وقت - کٹی ہوئی کھیتی

حِصَاہ - اونٹ کا ایک پالان - حفاظت اور پناہ کی جگہ - مص لڑائی میں

حِصَان - عمدہ گھوڑا - جہ - حِصْن

حَصَب - (حق) کنکریاں بچھانا - کنکری مارنا - زمین پر چلنا - لکڑی آگ میں

حَصَب - آندھن جس سے آگ بھڑکائی جائے جھونک - مص (س) چپک نکل

آنا (معدوقاً و مجہولاً) حَصَبَاء - و - حَصْبَة - لکڑی -

حَصْبَة - تیز ہوا جو لکڑیاں اُڑا کر لے جائے زمین جس میں لکڑیاں کثرت سے ہوں -

حَصْرَة - ظاہر ہونا - حق کا باطل سے ممتاز ہو کر ظاہر ہو جانا - قید کی کی چال

چلنا - حَصْد - (ن) مرنا - (ن حق) کھیتی کو درانی

سے کاٹنا - حَصْر - بخل و تنگ دلی - گفتگو میں رکاوٹ

اور بستگی (رک س) تنگ ہو جانا

بخیل ہو جانا (معن) جماع سے باز رہنا [پڑھنے میں یا بات کرنے میں رُک جانا] ب] مجید نہ کھولنا -

حَصْر - بخیل - مجید پھیلانے والا - حِصْر - پیٹ کا قبض -

حَصْرَا - (حق ن) گھیر لینا - روکنا - احاطہ کرنا حَصْرَمَة - کس کے تاننا (رسی) بٹنا (برتن)

بھرنانا (قلم) بنانا - حَصْف (ن) دور بٹانا -

حِصْن - پناہ کی مضبوط جگہ کہ دشمنوں سے حفاظت کرے - قلعہ - ہتھیار -

جہ - حِصُون - آحِصَان حِصْن - عورت کی پارسائی - پاک دامنی -

حِصْن - رٹ (عورت کا پاکدامن ہونا - عورت کا نکاح کر لینا -

حِصُون - بخیل و تنگ دل - باوجود قدرت کے جماع سے پرہیز کرنے والا - مرد

خصی ذکر بریدہ - ڈرپوک - مجید پھیلانے والا - عورتوں سے بے رغبت -

پاک باز - پاکدامن - حِصُول - حاصل ہونا (علی) حاصل کرنا -

پالینا [کسی پر پڑنا - نازل ہونا] حِصُون - قلعہ - و - حِصْن

حِصْن (حق ن) لکڑی - و - حَصَاة - ایک کنکری - جہ - حِصِيَات

حِصْن (حق ن) لکڑی سے مارنا (مجهولاً) مشانہ میں پتھری پیدا ہو جانا -

حَصِيدَا - کاٹا ہوا - مضبوط بٹی ہوئی (رسی) کٹی ہوئی کھیتی -

حَصْرَمَة - غلط بولنا۔ اعراب کی غلطی کرتا بلحاظ ادب و  
حَصْرَمَتِي - شہر حضرت موت کی طرف منسوب۔

حَصْن - رسوت۔  
حَصْن - گود (بغل سے لیکر کوکھ تک) سینہ  
و دونوں بازو۔ ج۔:۔ اَحْصَان  
حَصُون -

حَصْن - حِصَانَة - (ن) بچہ کو گود میں لینا  
وائی کا پیشہ کرتا۔ پرورش کرنا۔  
حَصُون - حَصَادَة - (ن س) حاضر ہونا۔  
اُموجود ہونا۔ شہر میں رہنا [عن] [عنت] [عنت]  
دور ہونا۔ ہٹ جانا۔

حَصِيض - پستی۔ دامن کوہ میں نیچی زمین  
پتھر۔ ج۔:۔ حَصْض - اَحِصَة

## ح - ط

حَط - کمی (ن) اوپر سے نیچے آنا۔  
نیچے گرنا۔ فردگاہ میں اترنا قیمت  
میں سے کچھ چھوڑ دینا۔ مٹا دینا۔  
حَطَاب - لکڑیاں بیچنے والا۔ لکڑیاں چلنے  
والا۔

حَطَام - خشک چیز میں سے ٹوٹا ہوا ریزہ  
دُنیا کا تھوڑا سا مال۔ انڈے کا پھلکا  
حَطَام - شیر ز۔

حَطَب - ایندھن۔ سخن چینی ج۔:۔ اَحَطَاب  
مض (س) زمین کا لکڑیوں سے پُر  
ہونا۔ (ص) جلانے کی لکڑیاں کا ٹٹا  
یا جمع کرتا [علی و بی] سخن چینی کرنا۔

حِطَة - معافی کی درخواست۔ کمی کی درخواست  
توبہ۔ ہم معافی مانگتے ہیں۔

حَصِيدَة - کٹی ہوئی کھیتی۔ کھیت۔ کھیتی کی  
جڑیں۔

حَصِيْر - بوری یا۔ چٹائی۔ تنگ دل آدمی۔  
قید خانہ۔ راستہ۔ بات کرنے میں رُک  
جانے والا۔ روئے زمین۔ ج۔:۔  
حَصْر - اَحْصِرَة - بنی ہوئی چیز  
حَصِيْرِي - بوری یا بیچنے والا۔

حَصِيْن - محفوظ۔ مستحکم اور مضبوط مضبوط  
زرہ۔ (ابو) اَحْصِيْن لومڑی  
(کنیت)

## ح - ض

حَض - حَض (ن) اُبھارنا۔ جوش دلانا۔  
ترغیب دینا۔

حَضَاج - وہ شخص جس کی پشت خمیدہ اور  
توند نکلی ہوئی ہو۔

حَضَار - حَضَار - جوش دلانے کے موقع پر بولا  
جاتا ہے۔ یعنی آواز۔

حَضَارَة - شہر۔ شہر میں رہنا۔ شہر کی زندگی  
بگڑنا (د) شائستگی۔ تہذیب۔

حَضَارَة - شہر میں رہنا۔  
حَضْب - (ض) آگ بھڑکانا۔ ایندھن جھونکنا

حَضْب - ایندھن۔  
حَضْب - کمان کی آواز۔ بہاؤ کی چٹان پہاڑ  
کا کٹا رہ ج۔:۔ اَحْضَاب

حَصْر - بے بلائے لوگوں کے دسترخوان پر  
بیٹھنے والا۔

حَصْرَة - نزدیکی۔ درگاہ۔ شہر۔ سرکار۔  
خداوند نعمت (د) تعظیمی لقب یعنی جناب

حَظْم - (رض) توڑنا - ریزہ ریزہ کرنا - پکنا۔

(س) بڑی عمر کا ہونا۔

حَظْمَة - نہایت سخت آگ، دوزخ کا ایک طبقہ۔

حَظْمَة - سخت قوط۔

حَظْمِيَّة - وہ مقام جہاں لکڑیاں کثرت سے ہوں۔

حَظْمِيَّة - خانہ کعبہ سے ملی ہوئی ایک جگہ - دیوار کعبہ۔

## ح-ظ

حَظ - حصہ - قسمت - اچھی چیز کا حصہ۔

جزء - حُظُوْط - مص (رن) خوش

نصيب ہونا - بہرہ یا ب ہونا - امیر ہونا۔

حَظْر - (ن) روک دینا - حرام کرنا - اباحت

کی منہ - کسی کے لئے احاطہ (گھیرنا)

احاطہ میں بند کرنا - جمع کرنا۔

حَظْوَة حِطَّة - (س) (ب) کسی کی

بدولت - بہرہ مند نصیب و ہونا۔

حاصل کرنا۔

حَظِيْرَة - بانس وغیرہ سے بنا ہوا احاطہ - بارہ

جزء - حَظَا ئِر -

حَظِيْرَة الْقَدْس - بہشت

حَظِيْمٌ - خوش قسمت آدمی - دولت مند۔

حَظِيْمِيَّة - کنیز - لونڈی - جزء - حَظَا يَا

## ح-ف

حَفَّ - (رض) مونڈنا - ہال دور کرنا - گھوڑ

کے پاؤں کی آواز ہونا - سانپ کا سر ملانا

(ن) کسی چیز سے کسی کو ڈھکنا۔

مفلس اور حاجت مند ہونا - کسی چیز

کے چاروں طرف سے آنا [ب] [

احاطہ کرنا - گھیر لینا۔

حَقَاء - (س) ننگے پاؤں چلنا - زخمی پاؤں

والا ہونا۔

حَقَاْد - تیز رفتار۔

حَقَاْس - قبر اور کوزاں کھودنے والا۔

حِقَاظ - (ع) حفاظت اور نگہبانی کرنا کسی

کام کو مسلسل اور ہمیشگی کے ساتھ

کرنا [ع] بڑی چیزوں سے روکنا۔

حُقَال - بڑی جماعت - بہت سادہ دھ۔

حُقَاَلَة - بھوسی - پھٹ۔

حُقُلَا - حُقُوْد - (رض) خدمت کرنا۔

خدمت و فرما نہداری میں سرگرم ہونا۔

حَقْدَاة (الترجل) مرو کی بیٹیاں، اولاد۔

اولاد کی اولاد - داماد - مددگار۔

خدمت گار - و - حَاْفَا -

حَضْر - بڑے منہ کا کوزاں - وہ مٹی جو کوزوں

وغیرہ سے کھود کر نکالی جائے وہ

جگہ جیسے کھودا جائے - جزء - اَحْقَار

مص (رض) دانوں کا زرد اور خراب

ہو جانا اور مسوڑھوں کا بھول جانا۔

حَضْر - (رض) زمین کو کسی آہنی آلہ سے

کھودنا - جماع کرنا - کسی کے معاملہ

کی تفتیش کرنا اور اصل حقیقت سے

واقف ہو جانا (رض) (س) دانوں کی

جڑوں کا خراب ہو جانا۔

حَصْرَة - گردھا - سوراخ - کھودا ہوا - کرید ہوا  
جہ :- حَصْر -

حَقْن - (ض) پیچھے سے دھکا دینا - اہماری  
رہنا - پیچھے پیچھے لگے رہنا [ب]  
کسی چیز کو چھوٹا [عن] کسی چیز کو  
تیز مہنگا کرنا تاکہ وہ کسی چیز سے بچ سکے

حِفْظ - ہوشیاری - یاد نگہ رانی [ص] (س)  
حفاظت کرنا - ازبر اور یاد کرنا  
چھپانا -

حَفَظَة - حفاظت اور نگہبانی کرنے والے  
اور اعمال نیکھنے والے فرشتے و حفاظ  
حَقْل - (ض) اکٹھا ہونا - موسلا دھار

بارش ہونا - نہریا وادی کا پانی سے  
بھر جانا - [ب] فکر کرنا - پروا کرنا  
حَقْلَة - جلسہ محفل - جہ :- حَقَلَات

حَقْنَة - گڑھا - سوراخ - جہ :- حَقْن  
حَقْو - (ت) دینا نہ دینا - لغات اعداد  
سے دھندلے پن کے ساتھ جھکتا بجلی کا

حَقِی - بڑا عالم کسی چیز کا ٹھیک ٹھیک علم  
رکھنے والا - مہربان - چمٹ کر سوال  
کرنے والا - بہت حالات پوچھنے

والا - جہ :- حَقْوَاء  
حَقِیْد - بیٹیاں - اولاد - اولاد کی اولاد -  
حَقِیْر - کھودی ہوئی قبر - اردن کی ایک نہر

کا نام -  
حَفِیْرَة - کھودا ہوا گڑھا - کنواں - جہ :-  
حَقَا شِر -

حَفِیْظ - نگہبان - خدا تعالیٰ کا ایک  
نام - ازبر کرنے والا - جہ :-

حَقَطَة -

حَفِیظَة - غصہ - ممانعت - روک تھام - اپنوں  
کی طرف داری جہ :-

حَقِیْف - (ض) (گھوڑے کے) پاؤں کی آواز  
ہونا - دوڑنے میں (سانپ کا) پتوں  
میں سرسراتا - پرندوں کا پھڑپھڑانا

ح - ق

حَق - خدا تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام  
واقعی چیز - پیچ پیچ - قرآن -  
عدل و انصاف - اسلام - ٹھیک

اور درست - کسی کا مقررہ حصہ - جہ :-  
جہ :- حَقْوُق مَعْدُون (حق کے ساتھ  
غالب آنا - کسی کام کو ضروری قرار

دینا - راستہ کے بیچ میں - جلنا -  
درست اور ٹھیک کرنا - ٹھیک  
سمجھنا - یقین کرنا - کسی کو اس کے

حق پر رکھنا - (منستی الارب)

حَقُّ الْیَقِیْن - یقین کامل - لائق یقین -

حَقُّ - مگر کی کا گھر - سرین یا شانہ کا جوڑ -

ڈبر - جہ :- حَقْوُق

حَق - اونٹ کا بچہ جس کو چوتھسا سال لگا ہو

(مؤنث) حَقْمَة - جہ :- حَقَّق

حَقَّاق - حَقَائِق

حَقَّاب - عورت کی ہڈی - ناخن کی سپیدی -

جہ :- حَقْب

حَقَّادَة - (ك) خوار و حقیر ہونا -

حَقْب (س) رونا - معدن کا بند ہو جانا -  
بگڑ جانا -

حَقْو - حَقْوَة - کوکھ - وہ جگہ جہاں تہ بند دیر  
باندھا جاتا ہے - تہ بند - جہ :-  
حَقَاء و مص (ن) کوکھ پر مارنا -  
(مجبوراً) کوکھ میں درد ہونا -

حَقْوَد - کینہ ور -

حَقْوَف - (ن) ٹیڑھا ہونا - جھکا ہوا ہونا -

حَقْوَق - قانون - لا - (د)

حَقِيبَة - خورجی - تھیلا - زین کے پیچھے کا

بیگ - جہ :- حَقَائِب

حَقِيْد - ذیل و خوار - جہ :- حَقَسَاء

حَقِيْق - لائق - مستحق - مناسب - جہ :-  
أَحْقَاء أَحَقَّة -

حَقِيْقَة - واقعیت - اصلیت (خلاف مجاز)

وہ چیز جس کا پیمانہ ضروری ہو جھنڈا

جہ :- حَقَائِق -

حَقِيْقِي - اصل - واقعی -

## ح - ك

حَق - (ن) چبھنا - دل میں شک و شبہ

رہ جانا - کھجانا - گھسنا - پھیلنا -

خارش ہونا -

حَكَاك - گھسنے والا - نیگینہ ساز -

حُكَاك - خارش -

حُكَاكَة - جو چیز کسی چیز کے گھسنے کے وقت

بطور برادہ کے گرتی جائے - سرحد -

حُكَا م - حاکم کی جمع -

حِكَايَة - نقل - روایت - جہ :- حِكَايَات

مص (رض) بات نقل کرنا - مشابہ ہونا

کسی کی بات بیان کرنا - گرنا مضبوط

حُقْب - حُقْب - انٹی برس کا زمانہ - یا اس سے

بھی زیادہ - زمانہ و برس - جہ :-

أَحْقَاب - أَحْقَاب -

حَقِيْبَة - مدت - سال - جہ :- حَقْب -

حَقْوَب -

حَقَّة - حَق - (رض) اونٹ کے پیر کا چوتھے

برس میں لگنا -

حَقَّة - لکڑی وغیرہ کا ڈبہ - جہ :- حَق -

حُقُق - حَقْوَق - حَقَاق -

حَقْد - کینہ - جہ :- حَقْوَد - أَحْقَاد -

حَقْدَا - حَقْدَا - حَقْدَاة -

(رض) [رض] کسی کے کینہ رکھنا

حَقَس - (رض) ذیل و خوار سمجھنا - ذیل و خوار

ہونا -

حَقَس - (س) ذیل و خوار ہونا -

حَقَرِيَّة - ذلت و خواری -

حَقْف - ٹیڑھا اور بل کھاتا ہوا ریت کا تودہ

جہ :- أَحْقَابَات - حَقْوَف

حَقَاب

حَقْل - کھیتی کے قابل زمین - سبز کھیتی -

(رض) کھیتی کرنا

حَقْل - ہودہ - گھوڑے یا اونٹ کے

پیٹ کا درد -

حَقْلَة - درد اونٹ یا گھوڑے کے پیٹ

میں -

حَقْن (ن) ص) روک دینا - حفاظت

رکھنا - قتل ہونے سے چھڑا دینا -

حَقْنَة - حَقْنَة - وہ دو اجس سے حَقْن (ایہا) کیا جائے

بانہٹنا [علیٰ] چغلی کھانا۔

حِصَّة - چغلی۔ جج۔ حِکْمَت۔

حِکْمَت - بڑی زندگی۔ تھوڑی چیز۔ مص  
(ض) ستانا۔ بڑی زندگی گزارنا  
(ن) غلہ اکٹھا کرنا۔ تاکہ منگائی میں  
نیچے (س) ضدی ہونا۔

حِکْمَت - ایک سپید پتھر (س) گھسا ہوا  
اور چھلا ہوا ہونا۔

حِکْمَل - (ن) نیرہ گاڑنا [ب] کڑی سے  
مارنا [علیٰ] مبہم ہونا۔

حِکْم - بڑی عمر کا مرد۔ فرق کرنے والا۔  
منصف۔ حاکم۔ ایچی۔

حُکْم - حُکْمُوْمَة - (ن) [علیٰ] کام کا حکم  
دینا۔ امر کرنا [ب] دینا۔ دو آدمیوں کے  
درمیان فیصلہ کرنا۔ [ل] کسی  
کے حق میں رائے دینا۔

حِکْمَة (ک) حکیم و عقل مند ہونا (اسم)  
عدل۔ علم۔ حلم۔ نبوت۔ قرآن مجید  
انجیل۔ زبور۔ فہم و دانش، حقیقت  
سے آگاہی۔ جج۔ حِکْم۔

حُکْمُوْمَة - حکومت۔ گورنمنٹ (د)

حِکْمِک - گھسا ہوا۔ تراشا ہوا۔

حِکْمِک - فہم و دانش مند۔ درست و صحیح  
اور سچتہ و پائیدار کام کرنے والا۔  
صاحب حکمت۔ صاحب حکم۔  
جج۔ حکماء۔ خدا تعالیٰ کا نام۔

ح - ل

حَل - تل کا تیل۔ مص (ن) دوڑنا۔ کھونا

اُتْرنا (مجبوراً) کھلایا جانا۔

حَل - حُلُوْل - حَلَل - [ب] (ن) من)

اتارنا۔ [علیٰ] کسی پر آپڑنا (مصیبت کا)

حَل - حرم کے سوا اکل روئے زمین۔ حلال۔

جو احرام سے نکل آیا۔ اُتْرنے والا۔

مص (ض) کفارہ دے کر قسم سے بری

الذمہ ہونا۔ احرام سے باہر آنا۔ حلال

ہونا۔ قرض کی ادائیگی کا وقت آنا۔

حِلَاب - دودھ تازہ دوبا ہوا (ن) دوہنا۔

حَلَاَب - بہت قسم کھانے والا۔

حَلَاَب - سر موٹنے والا۔

حَلَاَج - دہنا نڈاف۔

حَلَاَل - احرام سے نکل آنے والا۔ جائز۔

جماد و جو قتل کو حیران کر دے۔

حَلَال - حِل - (ض) احرام سے باہر آنا

جائز و روا ہونا۔ درست ہونا۔

حِلَال - گروہ جو کہیں اتر اہوا ہو۔ عورتوں کی

ایک سواری۔ پالان۔ شتر کا سامان

حَلَاَوَة - شیرینی۔ مٹھاس۔

حَلَاَوَة - حُلُوَان - (س) کسی چیز کو شیریں

پانا (س) کسی چیز کا آنکھوں کو

تھپلا معلوم ہونا۔ دل کو اچھا لگنا۔

شیریں ہونا (ن) اپنی لڑکی یا بہن

بیاہ کر اُس کے مہر میں حصہ بٹانا۔

شیریں کر دینا۔

حَلَب - (ن) کسی کو شیر دار جانور والا کر

دینا (ض) دوہنا۔

حَلَب - تازہ دوبا ہوا دودھ۔ محصول ایک

شہر کا نام۔

حُلُقُوم - حلق - جہ - حَلَّاقِيْمِمْ حَلَقَة - گول چیز - دائرہ کی شکل کی زرہ - جہ - حَلَّق - حَلَقَات - حَلَّكَ - (س) کا لالہ بھنگ ہونا - حَلَّكَ - حَلَقَة - بے حد سیاہی - حَلْم - خواب جہ - آخَلَامِمْ (مض) (ن) خواب دیکھنا - احتلام ہونا - خواب میں جماع کرنا (س) اونٹ کے چیمڑی چمٹ جانا - حَلْم - (ن) خواب میں جماع کرنا - حَلْم - درگزر و معافی کی عادت رکھنا - نقل بردباری - آہستگی جہ - حَلْوَم - آخَلَامِمْ (مض) (ن) نرم خود ہونا - نرم دل ہونا - صابر ہونا - حَلَمَة - سرپستان - تھمن کسی جانور کے جسم پر پرورش پانے والا کپڑا جیسے چیمڑی جہ - حَلْم - حَلْو - میٹھا - ہلکا پھلکا آدمی جو آنکھوں کو اچھا معلوم ہو - جہ - حَلْوَوْن مؤنث - حَلْوَة جہ - حَلْوَان حَلْو - (ن) دینا یا عطا کرنا - حَلْوَاء - ایک شیریں کھانا - حلوا - شیریں میوہ جہ - حَلَاوِي حَلْوَان - شیریں ہونا - دلال کی اور غیب کی خبر بتانے والے کی مزدوری - عورت کا ہر جو چیز بطور رشوت کے دی جائے - بدلا - حَلْوَانِي - شیرینی والا - حلوے والا - حَلْوَب - اونٹنی دو بٹنے کے لائق یعنی شیردار -	حَلَبَة - سبز پتیھی - حَلَبَة - گھوڑوں کا گروہ - دوڑ کا میدان - معاین کی جماعت - جہ - حَلَّاب - حَلَبَاب - حَلَبْتَان - صبح و شام - حَلَبْتَان - (مض) (مال) مونڈنا - اگھاڑنا (مض) ادا کرنا - عطا کرنا - حَلَبَة - گروہ کہیں جو اترا ہوا ہو - اونٹوں کی جائے - اجتماع - محلہ - جہ - حَلَّال حَلَبَة - ہتھیار - دو شالہ - دوسری چادر - استر دار کپڑا - ازار جہ - حَلَّال حَلَل حَلَبَة - حَلْوَل - (مض) قربانی کا ذبح ہونے کی جگہ پہنچ جانا - عورت کا عدت طلاق سے باہر آنا - واجب ہونا - قرض کی میعاد ختم ہوجانی - اور مطالبہ کا وقت آجانا - حَلَبِيَّت - ہینگ - حَلَبَج - (ن) (مض) روٹی اونٹا بجلدی کرنا دوڑنا - حَلَبَزُون - گھومتا [ل] اہتمام کرنا - حَلَس - ٹاٹ - زین کا کپڑا - حَلَس - (س) کہیں رہ پڑنا - حَلَف - قسم - عہد و پیمان - جہ - آخَلَاَف حَلَف - حَلَف - (مض) قسم کھانا - حَلَق - بے برکتی - نکلا - جہ - آخَلَاَق - حَلُوَق مض (ن) گلے پر مانا - گلے کے درد میں مبتلا کرنا - حوض کو پانی سے بھرنا اندازہ کرنا (مض) سر مونڈنا - حَلَقَة - سر مونڈنے کی کوئی خاص ہیئت -
--	---



دوپہر کی گرمی جو بدن سے پسینہ بہائے  
 حَلْوَبَة - شیردار اوشنی - ج: حَلَايَب حَلْب  
 حَلْوَكَة - (لک) کالا بھنگ ہونا -  
 حَلْوَى - شیریں کھانا - حلوه -  
 حَلَى - (رض) عورت کو زینت دینا سنوارنا  
 گھنا زیور پہنانا -  
 حَلَى - (س) زیور سے مزین ہونا سوکھی گھاس  
 حَلَى - میٹھی چینی -  
 حَلَى السَّيْف - تلوار کی آرائش -  
 حَلَى - زیور سونے چاندی یا جواہرات کا  
 ج: حَلَى - (رض) زیور پہنانا  
 (س) عورت کا زیور پہننے ہوئے ہونا  
 (رقی) آنکھوں کو بھلا معلوم ہونا -  
 حَلِيْب - تازہ دودھ ہوا دودھ - تازہ خون -  
 حَلِيْبَة - زیور - آرائش - صورت - جلید - ج:-  
 حَلَى - حَلَى -  
 حَلِيْف - ہم عهد - ہم سوگند - معاہد - ج:-  
 حَلَقَاء -  
 حَلِيْق - منڈی ہوئی ڈاڑھی ریحیہ حلیقہ نہیں  
 بولا جاتا -  
 حَلِيْل - شوہر - بیوی - ہم منزل مرد - حلال  
 یعنی ضد حرام -  
 حَلِيْلَة - بیوی - ہم منزل عورت یعنی جس کے ساتھ  
 ایک گھر میں رہنا سہنا ہو - ج:-  
 آحَلَاء - حَلَايِل -  
 حَلِيْم - بڑبار پُرقدار اور بیماری جو کم ج:- حَلَمَاء  
 خدا تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام -  
 ح -  
 حَم - جو چیز چھلکانی جائے - چربی ہو یا ڈنڈے

چکی (مص) دن ، پانی گرم کرنا چربی  
 پھلانا - تنور کو آگ سے گرم کرنا -  
 (مجمولاً) بخار میں مبتلا ہونا فیصل  
 ہونا -  
 حَقَّ الطَّهْرَةَ - دوپہر کی گرمی کی شدت -  
 حَمَم - (س) گرم ہونا - کالا ہونا -  
 حَمَاء - حَمَاء - سسرال والے خواہ خاوند  
 کے ہوں یا بیوی کے (مص) (ف)  
 کنویں میں سے کیچڑ نکالنا -  
 حَمَاء - حَمَاء - (س) اگلی مٹی کے مل جانے  
 سے پانی کا گدلا ہوجاتا - کنویں میں  
 کیچڑ زیادہ ہوجانا -  
 حَمَاء - کالی بدبودار مٹی - کیچڑ -  
 حَمَاء - (معنی) حفاظت کرنا [معنی] مہمان نوازی  
 میں خوب خبر گیری کرنا -  
 حَمَاد - بہت حمد کرنے والا -  
 حَمَار - گدھا - گورخر - ج:- حَمَار - حَمَار  
 حَمُور حَمَارَات (مؤنث)  
 حَمَارَة -  
 حَمَارَة - سختی - تیزی  
 حَمَاسَة - سختی - بہادری  
 حَمَاقَة - (لک) احمق و بے وقوف ہونا -  
 حَمَال - بار بردار - ج:- حَمَالُونَ -  
 حَمَالَة - خوب اٹھانے والی - ج:- حَمَالَاء  
 حَمَالَة - بار برداری کا پیشہ - تلوار کا پرتلہ  
 ج:- حَمَائِل -  
 حَمَام - (جنس) کبوتر - ہر پرندہ کنٹھی دار -  
 و: حَمَامَة - ج:- حَمَائِم  
 حَمَام - قضا - موت -

حَمَام - نہانے کا مخصوص مکان - حمام  
 جہ: حَمَامَات  
 حَمَامِی - حمام والا۔  
 حَمَامَة - گرم پانی کا چشمہ جہ: حَمَامَات  
 حَمَامَة - سیاہ اور کیمت کا درمیانی رنگ - بھار  
 جہ: حَمَم -  
 حَمَامَة - موت - پسینہ -  
 حَمَامَة - سخت - سیاہ - ایک گھاس - گاؤں کا  
 حَمَامَة - دانہ مگھنے کے لئے گھوڑے کا ہنسنانا  
 حَمَامَة - تفریق - شکر - رضامندی - جزا اور اٹے  
 حق - مص (س) تفریق کرنا - شکر  
 کرنا - راضی ہونا - حق ادا کرنا -  
 حَمَامَان - حَمَامُون - حَمَامَة - بہت  
 تفریق کرنے والا۔  
 حَمَامَة - الحمد للہ کہنا۔  
 حَمَام - (ن) پوست اُتارنا - پھیلنا۔  
 حَمَام - گدھے - وہ: حَمَام -  
 حَمَامُ الْاِئْبَل - سُرُخ یعنی اسیل اونٹ (جمع)  
 حَمَام - (س) گھوڑے کا زیادہ دانہ کھانے  
 کی وجہ سے بد معنی میں مبتلا ہوجانا۔  
 حَمَامَاء - (مؤنث) سُرُخ - بچم - دوپہر کی گرمی  
 کی سختی۔  
 حَمَامَة - سُرُخی - ایک قسم کا درم جسے سُرُخ  
 بادہ کہتے ہیں۔  
 حَمَام - (ص) زبان پر سوزش پیدا کرنا تیز کرنا  
 (بھری)  
 حَمَامَة - شیراز - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 کے چچا کا اسم گرامی۔  
 حَمَام - آواز - مص (ن) گوشت بھوننا۔

حَمَامَة - غصہ دلانا۔  
 حَمَامَس - (س) لڑائی میں دلیر ہونا - دین میں  
 سخت ہونا۔  
 حَمَامَس - دین میں سخت لڑائی میں دلیر - دلاور  
 حَمَامَس - (ن) جمع کرنا - غصہ دلانا - کسی کو غصہ  
 سے دفع کرنا۔  
 حَمَامَس - حَمَامَسَة - (س) غصہ سے بھرک اٹھنا  
 سخت ہونا - پتلی پنڈلی کا ہونا۔  
 حَمَامَس - (ن) درم اُتر جانا  
 حَمَامَس - شام کا ایک شہر۔  
 حَمَامَس - چنا۔  
 حَمَامَس - نباتات جو کڑوی اور نگیں ہوں۔  
 حَمَامَس - حَمَامَسَات - (ن) نگیں پودے کھانا۔  
 [ع] ناپسند کرنا [ب] آرزو کرنا  
 (ک) (س) ترش ہونا۔  
 حَمَامَط - (ص) جھلکا اُتارنا۔  
 حَمَامَق - بے وقوفی - شراب - (ک) - (س)  
 بے عقل ہونا۔  
 حَمَامَق - بے وقوف - جس کی ڈاڑھی میں بال  
 کم ہوں - جہ: حَمَامَق  
 حَمَامَقَاء - بے وقوف عورت - مؤنث اجماع کا  
 جہ: حَمَامَق  
 حَمَامَال - دیت - تاوان - جہ: حَمَامَال -  
 حَمَامَال - (ص) اٹھانا - برداشت کرنا۔  
 عورت کا حاملہ ہونا [ع] کسی کو  
 کسی چیز پر آمادہ کرنا۔  
 حَمَامَال - پیٹ کا بچہ - جہ: حَمَامَال - آحَمَال  
 درخت کا پھل۔  
 حَمَامَال - سر اور پیٹھ کا بوجھ - جہ: آحَمَال

مدد کرتا۔ بیماریا کو مضر چیزوں پر سبب کرنے کا حکم دینا۔ حفاظت کرنا۔  
حَمِيَّةُ الْأَنْفِ - نیکیا۔ مرد جس کو بہت عار آئے  
حَمِيَّةٌ - مریض جس کو مضر چیزوں سے روکیا گیا  
ہو۔ محفوظ چیز۔ صاحب ننگ و عار۔

حَمِيَّةٌ - بخار۔ ج۔ حَمِيَّات  
حَمِيَّةٌ - آفتاب کی گرمی۔

حَمِيَّةٌ - چارہ کا کھیت جسے حکام چوپایوں کے لئے روک رکھیں محفوظ چراگاہ۔  
حَمِيَّاطِيٌّ - پہلی کتابوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک۔ یعنی حامی حرم۔

حَمِيَّةٌ - ضد۔ حمیت۔ رشک۔ ننگ و عار  
ج۔ حَمِيَّات مص (س)  
ننگ و عار رکھنا۔

حَمِيْدٌ - جس کی تعریف کی جائے۔ تعریف  
کیا ہوا (مؤنث) حَمِيْدَةٌ  
حَمِيْدٌ - گدھے (اسم جمع)

حَمِيْمٌ - بوجھ جو بچہ پیٹ میں ہو۔ پڑا ہوا  
بچہ کہ لوگ اسے اٹھا کر پرورش کریں  
تسم حوتی کا ضامن۔ ج۔ حَمَائِل  
حَمِيْلَةٌ - تلوار کا پر تلہ۔

حَمِيْمٌ - رشتہ دار۔ گہرا دوست، گرم پانی  
گرمی۔ پسینہ۔ سخت گرمی کے بعد  
کی بارش جسے بخار چڑھا ہوا ہو۔

ج۔ حَمَائِم حَمَائِم  
حَمِيْمَةٌ - آب گرم۔ گرم کیا ہوا دودھ۔ عمدہ  
اونٹ۔ ج۔ حَمَائِم

حَمُوْلَةٌ

حَمَلٌ - بکری کا بچہ۔ ج۔ حَمْلَان - اَحْمَال  
آسمان کے بارہ (۱۲) برجوں میں سے  
پہلے برج کا نام۔

حَمْلَةٌ - دشمن پر حملہ کا قصد۔ حملہ (د) فوج  
کا دستہ۔  
حَمْلَقَةٌ - آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا۔

حَمَمٌ - سیاہی (س) سیاہ ہونا۔ کوٹلا ہونا  
پانی کا گرم ہونا۔

حَمُوْلَةُ الرَّجُلِ - بیوی کا باپ بھائی چچا وغیرہ  
ج۔ حَمَاء

حَمُوْلَةُ الْمَرْءِ - خاندان کا باپ بھائی وغیرہ۔  
ج۔ حَمَاء

حَمُوْدٌ - جس کی بہت تعریف کی جائے بہت  
تعریف کرنے والا۔

حَمُوْصَةٌ - کھٹاپن۔ لیہوں کا گودا۔ ترشی۔  
حَمُوْلٌ - بردبار۔

حَمُوْلٌ - اونٹوں کے ہودے۔ اونٹ جن پر  
ہودے بندھے ہوتے ہوں۔ و۔

حَمَلٌ -  
حَمُوْلَةٌ - بار بردار۔ اونٹ اور گدھا وغیرہ  
(صفت مشبہ)

حَمُوْلَةٌ - بہت سے بوجھ۔  
حَمِيَّةٌ - کچھڑ والا۔ دلدل والا۔

حَمِيٌّ (س) گرم ہونا [علیٰ کسی پر ناراض  
ہونا۔

حَمِيَّةٌ - (س) نگرانی اور حفاظت کرنا۔  
حَمِيٌّ - حَمِيَّةٌ - حَمِيَّةٌ حَمِيَّةٌ (ص) گھاس  
کی نگرانی کرنا۔ اور اس کو چرنے نہ دینا

## ح - ن

حِتَّاء - مندری -

حِتَّاجِر - گلے - نرغے وہ - حَنْجَمَة

حِتَّاء - آفات -

حِتَّاط - خوشبو جو مردوں کے مل جاتی ہے

حِتَّاط - گیہوں بیچنے والا - حج - حِتَّاطُون -

حِتَّاطَة - گیہوں بیچنے - مردوں کی خوشبو بیچنا -

حِتَّاطِی - گندم فروش -

حِتَّاقَة - (س ک) پاؤں اندر کی طرف مڑ جانا

حِتَّان - رحم - مہربانی - مص (حق) [علی]

مہربانی و شفقت کرنا - [الی] کسی

کامشتاق ہونا - کسی کے لئے

ترسنا -

حِتَّان - خدا تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام -

مہربان

حِتَّایَة - (حق) مڑنا -

حِتَّاقَة - کمان جس میں سے آواز نکلے، عورت

جو پہلے ناولد کی یاد میں ہمیشہ ٹمگین

رہے اور رویا کرے - مسجد نبوی

میں لکڑی کا ستون -

حِتَّاء - (ت) کسی مقام کا سبز نہات والا

ہو جانا -

حِتَّاب - (ت) ٹیڑھا اور خم دار کر دینا -

حِتَّابِل - پُرانی پُستین - پُرانا موزہ - دریا

بڑے پیٹ کا - ایک مشہور امام

احمد کے دادا کا نام -

حِتَّابِل - لوبیا -

حِتَّابَة - لوبیا کھانا - پُرانا پُستین یا پُرانا

موزہ پہننا -

حِتَّاء - بیوی حضرت مریمؑ کی والدہ کا نام

حِتَّاء - کالا گھڑا - حَنْطَل (اندر این کا حِزب)

سیاہ کالا بادل حج - حِتَّائِم

وہ - حِتَّائِمَة -

حِتَّان - گناہ - قسم توڑنا - مص (س) گناہگار ہونا

[حق] قسم کے خلاف کرنا [الی]

حق سے باطل کی طرف یا باطل سے

حق کی طرف پھر جانا -

حَنْجَرَة - نرغہ - حج - حِتَّاجِر - مص

ذبح کرنا -

حِتَّائَة - رات کا تاریک ہو جانا -

حِتَّائِس - تاریکی - حج - حِتَّائِس

حِتَّان - (حق) گوشت بھوننا - گھوڑے کو

یتنا دوڑانا کہ لپسین لے آئے -

حِتَّاس - (س) بہادری کی وجہ سے معرکہ کے

بیچ کا التزام کرنا -

حِنْطَة - گیہوں -

حِنْطِی - فرج ہونے کے لئے بہت گیہوں

کھانے والا - پھولا ہوا - سوچا ہوا -

حَنْطَل - (حق) اندر این - وہ - حِنْطَلَة

(اس میں تائے وحدت ہے)

حِتَّاف - دین میں استقامت اور راستی -

مص (س ک) دین میں مستقیم ہونا -

حِتَّاف - (حق) مائل اور یکسو ہونا -

حِتَّافِیَة - ٹوٹی - تلی (د)

حِتَّاقِر - (س) زمن و علی غفہ ہونا -

عقنب ناک ہونا -

حِتَّاک - تالو منہ کے اندر کا حج - آحِتَّاک

## ح - و

حَوَاء - آدمیوں کی ماں کا نام علیہا السلام  
سُرخ مائل بسیا ہی - ہونٹ والی -  
(آخوئی کا مونٹ)

حَوَائِج - مسیلے کپڑے (د)  
حَوَادِثُ الدَّاهِر - زمانہ کی سختیاں اور  
آفتیں -

حَوَارِی - میدہ ہر ایک کھانا جو سفید تیار کیا گیا ہو  
حَوَارِی - رشتہ دار - دھوبی - سپید پوش،  
مددگار - انبیاء علیہم السلام کا مدد  
دینے والا -

حَوَارِیَات - شہری عورتیں - اس لئے کہ وہ سفید  
ہوتی ہیں -

حَوَاس - ادراک کرنے کی قوتیں - سَمْع  
(سننے کی قوت) بَصَر (دیکھنے کی قوت)  
شَم (سونگھنے کی قوت) ذوق (چکھنے  
کی قوت) لَبْس (چھوننے کی قوت)  
و:- حَاسَّة

حَوَاصِن - پارسا عورتیں - و:- حَاصِن  
حَوَاطَة - نلہ بھرنے کا ٹھٹھا -

حَوَال - حائل مص خواہش کرنا - تمنا کرنا -  
کسی چیز کی کوشش کرنا - قصد کرنا  
کسی کی طرف گھور کر دیکھنا -

حَوَالَة - تمسک جو قرض خواہوں کو کلمہ دیتے  
ہیں - ضمانت - منڈی مص قرض  
منقل کرنا -

حَوَالَة - (علی الینک) چیک (د)

حَوَالَة - (علی الیوسطہ) منی آرڈر (د)

حَنَك - (ان ص) خرما وغیرہ چا کر بچہ کے تالو  
میں ملنا - گھوڑے کے دھب ٹا  
باندھنا -

حُنُك - حُنُكَة - تجربہ - آزمائش - ج:-  
حِنَاك -

حُنُو - (ن) [علی] شفقت کرنا -  
حَنُوَط - ایک قسم کی خوشبو جو مردوں کے  
ملی جاتی ہے -

حَنُوَط - (ض) مردہ پر حنوٹ لگانا -

حَنِیْن - تلامبوا - مچنا ہوا - (گائے کا بچہ)  
گرم بجری کہ بعد بچھونے کے اب تک  
اس میں سے پانی ٹپکتا ہو - آگ سے  
گرم کیا ہوا پانی جس سے سردھویا  
جائے - تھپی وغیرہ -

حَنِیْف - ہر ایک دین سے روگرداں ہو کر  
اسلام کی طرف آنے والا - اور اس پر  
قائم رہنے والا - حاجی جو حضرت  
ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوجتہ  
کیا ہوا مسلمان ج:- حَنِفَاء -

حَنِیْق - غضب ناک ج:- حُنُق  
حَنِیْك - تجربہ کار ج:- حُنَك -

حَنِیْن - (حق) رونا - پھوٹ پھوٹ کر رونا -  
سسکیاں بھرنا - ٹھکننا - اونٹنی کا  
اپنے بچہ کی جدائی میں رونا [الی]  
آرزو کرنا اور مشتاق ہونا -

حَنَتِیْن - مکہ معظمہ سے دنل میل ایک مقام  
کا نام - جہاں مشہور غروبہ شہر میں  
ہوا - ایک موچی کا نام -

‡ ‡ ‡

حَوْض (ن) جمع کرنا  
 حَوْس (ن) (رقم سے) مخالفت کرنا۔ اہانت کرنا۔  
 حَوْس (س) بہادر ہونا۔  
 حَوْش - وحشی چوپائے - جنات کے شہر۔  
 حَوْس - احاطہ - بارہ۔  
 حَوْص (ن) کپڑا سینا [خول] کسی چیز کے گرد پھرنانا۔  
 حَوْصَل - حَوْصَلَة - جانوروں کا دانے سے پڑے کو بھر لینا۔  
 حَوْص - پانی کے لئے زمین بنائی ہوئی جگہ۔  
 حَوْص - حَوْص - حَوْص - حَوْص (ن) پانی جمع کرنا۔ حَوْص بنانا۔  
 حَوْط - حَيْطَة - حَيْطَة - (ن) نگرانی کرنا [ب] گھیر لینا۔ بھجانا۔  
 حَوْطَة - حَيْطَة - ہوشیاری - واقفیت۔  
 حَوْف - (ن) کسی شے کو کنارہ پر کر دینا۔  
 حَوْق - (ن) گھر میں جھاڑو لگانا [ب] کسی چیز کا احاطہ کرنا۔  
 حَوْقَلَة - لاحول و لاقوة الا باللہ کہنا۔  
 حَوْك (ن) کپڑا بننا۔  
 حَوْل - بھینگا پن - جو چیز دو چیزوں کے درمیان شامل ہو۔ معنی (س) بھینگا ہونا۔ تیل پھری ہوئی ہونا۔  
 حَوْل - جس کی نظر تیز اور تیل پھری ہوئی ہو حید باز۔  
 حَوْل - سال - زور - طاقت - تبدیلی گرداگرد - آحوال - حُوْدَل -

حَوَايَة - (ص) اکٹھا کرنا - جمع کرنا - بھرنانا۔ لے لینا  
 حَوْب - مال باپ - بہن بیٹی کنہا - غم - وحشت کو ششٹی۔  
 حَوْب - ہلاکت - مصیبت - بیماری - گناہ۔  
 حَوْب - حَوْبَة - حَيَابَة - (ن) [ب] گناہ کرنا۔  
 حَوْت - حَوْتَان - (ن) [ع] (علی) [پ] پرندہ کا کسی چیز کے گرد چکر لگانا۔  
 حَوْت - چھلی - جہ - حَيْتَان - آحَوَات  
 حَوْت - آسمان میں ایک برج کا نام  
 حَوْتَة - کاہی - بے زرنگ - کتھی۔  
 حَوَج - غریبی - محتاجی۔  
 حَوَج - (ن) [الی] کسی کا محتاج ہونا۔  
 حَوَج - نیا زمند ہونا۔  
 حَوَجَاء - حاجت - شک و شبہ  
 حَوْد - (ن) تیز ہانکنا - [ع] [ع] محافظت کرنا۔  
 حَوْدِي - گوچیں - گاڑی بان (د)  
 حَوْد - حَوْس - (ن) پھر جانا - کم ہو جانا۔ پریشان ہونا۔ کپڑے کو دھو کر سفید کرنا۔  
 حَوْس - ہلاکت - نقصان - نیز - جمع ہے آ حَوْد و حَوْد لکی۔  
 حَوْس - سپید کھالیں - نری جو سرخ رنگی ہوئی ہو (س) سیاہی کا بہت سیاہ ہونا  
 آٹھنکھی سفیدی کا بہت سفید ہونا۔  
 حَوْرَاء - عورت جس کی آنکھیں گول ہوں۔  
 سیاہی اور سفیدی واضح ہو۔ جہ۔  
 حَوْس -

حَيَاء - شرم - مادہ کی شرم گاہ - جہ :-  
 آحْيَاء - آخِيَّة - مص (س)  
 جینا - راست کا ظاہر اور دکھایا ہونا -  
 [من] شرم کرنا -  
 حَيَّة - سانپ - جہ حَيَات - حَيَوَات  
 وہ خطہ زمین جہاں فراغت سے لبر

ہو -  
 حَيِّثُ - جگہ - کہاں - جہاں کہیں -  
 حَيَّثَا - بمعنی حَيِّثُ - مَا زائد ہے -  
 حَيَّدَ - (من) [عن] کسی سے منحرف ہونا -  
 ہٹانا - کسی سے الگ ہو جانا -

حَيَّدَرَ - شیر زہ - جہ :- حَيَّا دَر  
 حَيَّبُو - حَيَّبُوَة - حَيَّبَان - حَيَّبُو - (س)  
 کسی چیز کو دیکھ کر کھویا جانا - پیش  
 آمدہ حالات سے نکلنے کی صورت نہ  
 جانا - گرد گھومنا -

حَيَّبَان - متعجب اور کھویا ہوا - سرٹ پٹایا ہوا -  
 جہ :- حَيَّارِي

حَيَّزَ - (من) ہنکانا - چلانا -  
 حَيَّزَ - وہ جگہ جہاں کوئی جسم سمائے -  
 حَيَّزُوْر - سخت زمین - سینہ حضرت جبرائیل  
 علیہ السلام کے گھوڑے کا نام -

جہ :- حَيَّازِيْمُ -  
 حَيَّيْسُ - خراگھی اور پیر وغیرہ سے تیار کیا ہوا  
 ایک کھانا - مص (من) حَيَّيْسُ  
 تیار کرنا - طانا - رسی ٹینا -

حَيَّيْتُش - (من) کسی پر گھبراہٹ طاری کرنا -  
 ڈرانا - ڈرنا -

حَيَّيْصُ - (من) [عن] پھر جانا - ایک طرف ہوجانا

حَوَّلُ (من) سال کا پورا ہونا -  
 [علی] کسی پر ایک سال گزر جانا [الی]  
 دوسری جگہ چلا جانا [ب] حرکت کرنا -  
 [عن] متغیر ہو جانا - [بین] دو چیزوں  
 کے درمیان حاصل ہونا -

حَوَّل - جگہ بدلنا - پلٹنا -  
 حَوَّل - حَوَّلَة - مرد بہت حیلہ ساز -

حَوَّلَاء - بھینگی آنکھ -  
 حَوَّلَة - لَأَحْوَلُ دَلَالَة إِلَّا بِأَمْرِ اللَّهِ - کہنا  
 حَوَّلِي - ایک سال کا (مؤنث) حَوَّلِيَّة -  
 حَوْمٌ - حَوْمَان - (ن) (جانوروں کا) [علی]  
 [حَوَّل] کسی چیز پر منڈلانا -

حَوْمَة - ہر چیز کا بڑا حصہ - بڑی تعداد -  
 حَوْمَل - صاف و پاک چشمہ - پانی سے بھری ہوئی  
 کالی گھٹنا -

حَوْمِي - (س) بھورا ہوتا - سرخ سیاہی مائل ہونا  
 حَوْيَّة - آنزوں کی چربی - مذہ جو اونٹ کی کمر پر  
 ڈالا جائے - جہ :- حَوَّايَاء -

## ح - ی

حَحْت - زندہ - عورت کی شرم گاہ - کذبہ جرقبیلہ  
 سے چھوٹا ہوجہ :- آحْيَاء -

حَحْتِي - (اسم فعل) آؤ - متوجہ ہو -  
 حَحْتِي عَلَى الصَّلَاةِ - متوجہ ہو اور آؤ نماز کی  
 طرف -

حَحْتِي - حَوَّايَّة - (من) ہر طرف سے گھیر لینا -  
 حَيَّيَا - بارش - فراخی حال - سال کی فراخی -

اور جناس کا ارزاں ہونا - جہ :-  
 آحْيَاء -

اُبھارنے اور شوق دلانے کے لئے  
برلے جاتے ہیں۔ یعنی دوڑو اور  
جلدی کرو (واحد و جمع مذکر مؤنث)  
حیتی - بہت شرمیلا -

## ح - ا

حَاء - حروف تہجی کا ساتواں حرف -  
حَابِشَة - خابشت - نفس کی گندگی -  
حَايِسِر - آگاہ - واقف -  
حَايِسَز - روٹی والا -  
حَايِلِس - شیراز -  
حَايِل - جن خراب و تباہ کرنے والا شیطان  
حَايُبُور - ایک گھاس -  
حَايِقْ - نا اُمید - نامراد - محروم -  
حَايِبِيَّة - مٹکا - بڑا گھڑا -  
حَايَسَز - خٹا - عہد شکنی کرنے والا - فریب  
دینے والا -  
حَايِل - دھوکہ باز -  
حَايِه - خاتمہ - مہر - انگوٹھی - ہر چیز کا آخر  
اور منتہی -  
حَايِمُ النَّبِيِّينَ - حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم -  
حَايِمَة - ہر چیز کا آخری حصہ اور اس کا منتہی -  
جر: - حَوَايِمِمْ -  
حَايُون - بی بی - شریف زادی - بیگم -  
(فارسی لفظ ہے) جر: - حَوَايِيْنِ  
حَايِج - وہ آدمی جو جینے کی مدت سے  
پیشتر جنے -  
حَايِمَا - سست آدمی - کاہلی -  
مرگشتہ -

حَيْض - عورتوں کا ماہواری خون - مص (حق)  
ماہواری خون آتا -  
حَيْضَة - ایک بار کا حیض -  
حَيْضَة - ماہواری خون - حیض کا کپڑا - جر: -  
حَيْض -  
حَيْضَة - حی علی الصلوٰۃ حی علی الفلاح کہتا -  
حَيْف - ظلم و ستم - موذی کیرٹے کوڑوں میں نہ  
پتھر کی تیزی - مص (حق) [علی]  
ظلم کرنا -  
حَيْق - حُبُوق - حَقِيقَان - (صن) [ب]  
کسی چیز کو گھیر لینا - نازل ہونا -  
حَيْك - حَيْكَان - (صن) آترا کر چلنا - ٹٹک  
کر چلنا -  
حَيْسِل - قوت - قدرت - طاقت - جر: -  
اَحْيَال -  
حَيْلَة - مکر - تدبیر - بہانہ - جر: - حَيْل  
حَيْن - زمانہ - وقت - غیر معین وقت - قیامت  
کادن - مدت - جر: - اَحْيَان  
حَيْن - موت - ہلاکت - بلا - آزمائش -  
(صن) نزدیک ہونا - آپہنچنا - کسی کا فوقی  
سے محروم ہو جانا - ہلاک ہونا -  
حَيْدِيْن - اس وقت - تب -  
حَيْسَة - ایک بار (دودھ دوہنے کا) معین  
وقت -  
حَيْوَان - زندگی - جاندار - بہشت کا ایک پتھر  
حَيْوَة - زندگی - مص (س) زندہ رہنا -  
حَيْوَة طَيِبَة - حلال روزی - بہشت -  
حَيْوَل - (صن) کسی چیز کا متغیر ہو جانا -  
حَيْهَل - حَيْهَلَن - حَيْهَلَا - یہ کلمے



خَاشِع - عاجزی اور انکساری کرنے والا۔  
 رکوع کرنے والا۔ اچڑا ہوا گھر۔  
 متغیر جگہ۔ جہ۔ خُشِع۔  
 خَاشِعَةٌ - عاجزی کرنے والی  
 خَاشِف - کاٹنے والی تلوار۔ زمین میں چلنے والا  
 خَاصِق - خَاصَّة۔ مخصوص۔ چیدہ۔ مند۔  
 عاقر اور عاقرتہ۔ جہ۔ خَوَّاص  
 خَاصِرَةٌ - کوکھ۔ پسلیوں سے نیچے سرین تک  
 کا حصہ۔ جہ۔ خَوَّاصِر  
 خَاصِب - زرخیز مرغ۔ سُرُخ پینڈی والا۔  
 خَاصِيع - عاجزی کرنے والا۔ منکر۔ مطیع۔  
 جہ۔ خُصَّيع  
 خَاضِل - تروتازہ۔  
 خَاطِر - دل۔ وہ بات جو دل میں آئے۔ ٹھک  
 کر چلنے والا۔ جہ۔ خَوَّاطِر۔  
 خَاطِف - بھڑپ یا بجلی جو آنکھیں چند سیادے  
 خَاطِي - قصداً گناہ کرنے والا۔ جہ۔  
 خَطَّاطَةٌ۔  
 خَاطِئَةٌ - گناہ کرنے والی۔ (مؤنث خاطی)  
 مص (فعال) خطا کرنا۔ گناہ کرنا۔  
 خَاطٍ - بہت ڈرنے والا۔  
 خَاطَةٌ - خریطہ جس میں شہد جمع کیا جائے۔  
 جہ۔ خَوَّاطِف  
 خَاطِئَت - بادل جس میں پانی نہ ہو۔  
 خَاطِضِن - اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں  
 سے ایک نام یعنی منکر بن کو لپست  
 و خوار کرنے والا۔ عیش و آرام کی  
 زندگی۔  
 خَاطِضِنُ الْجَنَاحِ - باوقار۔

خَدَاع - فریبی۔ نامکمل۔ ناقص۔ راستہ جو کبھی  
 مٹ جائے اور کبھی نمودار ہو جائے۔  
 خَدَاعَةٌ - وہ بازار جس میں خرید و فروخت کم ہو  
 بے رونق بڑے دروازہ میں پھونٹا  
 دروازہ۔  
 خَدَام - نوکر۔ خدمت گار۔ پیش کار۔ جہ۔  
 خَدَام - خَدَام (مؤنث) خَدَامَةٌ  
 خَادِل - شکست خوردہ۔ بہرنی جو بچہ کی تلاش  
 میں لگے سے غلطی رہ جائے۔ جہ۔  
 خَدَال -  
 خَارِج - نکلنے والا۔  
 خَارِجِي - وہ خود سر جو بطور خود سر دار بن بیٹھے  
 ایک فرقہ جس نے حضرت علی کے خلاف  
 خروج کیا (اد) غیر پور ڈر طالب علم۔  
 خَارِجِيَّة - فارن آفس۔ غیر ملکی تعلقات کا محکمہ  
 (د)  
 خَارِف - کھجوروں کا نگہبان۔  
 خَارِق - انوکھی بات۔ خلاف عادت۔ جہ۔  
 خَوَارِق  
 خَارُوج - ایک قسم کا کھجور کا درخت۔  
 خَارِذ - عقلمند۔ ہوشیار۔  
 خَارِز - تیر جو ہدف پر لگا ہو۔ پھلکا نیزہ کا۔  
 خَارِزَن - دربان۔ جمع کرنے والا۔  
 خَارِسِر - نقصان اٹھانے والا۔  
 خَاسِرَةٌ - نقصان اٹھانے والی۔  
 خَاسِف - ڈہلا پٹلا آدمی۔ وہ چشمہ جس کا پانی  
 تہا میں چلا گیا ہو۔  
 خَاسِيٌّ - پھٹکارا ہوا۔ جسے قریب نہ آنے میں  
 خَاشِر - کینہ آدمی۔

ہو گئی ہو۔ مرد جو مال لے کر بیوی کو نکالنے سے خارج کر دے۔

خَالِفت - احمق۔ ناکارہ۔ جو ساتھیوں کے چلے جانے کے بعد جانا ملتوی کر دے۔  
تھکے رہ جانے والا۔

خَائِفَة - احمق۔ ناکارہ۔ خراب۔ امت جو اُمت گذشتہ کے بعد باقی رہی ہو۔

ستون خیمہ عقیبی۔ بہت خلافت کرنے والا مرد۔ خلافت جہ :- خَوَالِفت

خَالِفت - کسی نمونہ کے بغیر نئے طرز پر بنانا والا موجد۔ خدائے تعالیٰ۔

خَالِی - مرد بے عورت۔ عورت بے مرد جہ :-  
اِخْلَاء۔

خَالِیَة - گذشتہ۔  
الْاِیَّامُ الْغَالِیَة زمانہ گذشتہ۔ عہد قدیم۔

خَاہ - کچا چھوڑا جس کی دباغت نہ کی گئی ہو۔  
یا پوری طرح نہ کی گئی ہو۔ بے ہمتی روٹی

(مغرب) سوئی کپڑا۔  
خَاہر - خراب گوشت (جو پک کر خراب ہو جائے)

خَاہَة - مولیٰ جہ :- خَاہ۔

خَاہِدا - بچھا ہوا بے ہوش مردہ۔  
خَاہِص - پانچواں۔

خَاہِصَة - پانچویں۔  
خَاہِص - چھوٹے پیٹ کا۔ باریک شکم۔

خَاہِل - گم نام۔ بے قدر۔ جہ :-  
خَاہِل۔

خَاہِین اللّٰکُو - غیر مشہور گم نام و بے قدر۔  
خَاہِن - دکان بکار رواں۔ سرائے۔ بادشاہ

(د) ٹھول۔

خَائِصَة - نیچی زمین۔ نشیب بخندہ کرنے والی۔  
پست کرنے والی۔ مجازاً قیامت۔

خَائِفت - پھڑکنے والا۔ ترہینے والا۔ متحرک۔  
خَائِفتان - مشرق و مغرب۔ آسمان و زمین کے

دو کنارے۔  
خَائِفل - بھاگنے والا۔

خَائِفی - پوشیدہ ہونے والا۔ پوری۔  
خَائِفیَة - پوشیدہ۔ پوشیدگی۔ پوری۔ زمین جس

میں پریاں ہوں جہ :- خَوَائِفی  
خَائِقَان - چین کے بادشاہ کا لقب۔ جہ :-

خَوَائِقِین۔

خَاَل - ماموں جہ :- اِخْوَال۔ اِخْوَالَة۔  
اِرْخَشک۔ بجلی۔ بیکہ۔ نرم کپڑا۔ کالا

نشان جسم پر۔ دم و گمان۔ جھنڈا۔  
جہ :- خِیْلَان

مص (س) گمان کرنا۔ چوپایہ کا  
لنگڑا ہونا۔

خَاَل - پریشان و متفرق۔  
خَاَلِب - فریب دینے والا۔ چالباہ (مؤنث)

خَاَلِیَة۔

خَاَلَة - ماں کی بہن۔ معزور عورت۔

خَاَلِدا - ہمیشہ رہنے والا۔  
خَاَلِص - صاف۔ پاک۔ بے میل۔ سپید۔

جہ :- خُلْص۔  
خَاَلِصَة - عمرہ خصلت۔ مضمون و خالص۔

(مؤنث خالص)۔  
خَاَلِصَة اِجْوَة البَیْض - پیٹ۔ محصول

(د) اکرہ (د)

خَاَلِج - عورت جو مال دے کر نکاح سے باہر

خَانِد - دوست خالص - جر :- خَانِد -  
خَانِج - متم - بدکار - عاجزی کرنے والا -  
جر :- خَانِجَة -

خَانِق - غرور سے ناک چڑھانے والا -

خَانِيق - تنگ گھائی - تنگ گلی - کوچہ -

خَانِيقُ الْكَلْب - کچھ - ایک گھاس -

خَانِجَة - عورت کا تعظیمی لقب (د)

خَاوِيَّة - اہڑی ہوئی - خالی - غیر آباد کھل

خَائِب - ناامید - مایوس - ناکام -

خَائِثَة - عقاب جو شکار پر گرے -

خَائِض - گھسنے والا -

خَائِط - درزی -

خَائِف - ڈرنے والا - جر :- خَوْف - خَيْف

خَائِل - نگرانی کرنے والا - چرواہا - مغرور آدمی

خَائِنُ الْعَيْنِ - بئیر -

خَائِنَةُ الْعَيْنِ - جس کا دیکھنا جائز نہیں اس کو

چوری سے دیکھنا -

## خ - ب

خَبْت - نرم زمین سخت زمینوں کے درمیان فریب

دینے والا - فریب - مص (ن )

(گھاس کا) بڑھنا - بلند ہونا -

فریب دینا -

خَبْت - (س) خیانت کرنا (دریا کا) جوش میں

آنا -

خُبْت - نیچی زمین - گرگھا - درخت کی پھال

جر :- آخْبَاب

خَبْت - پھپھایا ہوا - چھپانے کے لائق مص

(ف) چھپانا - پوشیدہ کرنا -

خَبَاءُ الْأَرْضِ - نباتات -

خَبَاءُ السَّمَوَاتِ - بارش -

خَبَاء - چھوٹا نیمہ - تہو - جر :- آخْبِيَّة

خَبَاب - دریا کا جوش -

خَبَاءَة - سبزہ - نباتات -

خَبَاءَة - بہت پھینے والی عورت -

خَبَات - خبیث عورت -

خَبَاتَة - (ک) خبیث و پلید ہونا - بد ہونا -

خَبَارٌ - نرم زمین - جراثیم - واحد اس کا

(خَبَارَة) ہے -

خَبَانِر - روٹی پکانے والا - نان پائی

خَبَارَة - روٹی پکانے کا پیشہ -

خَبَارِي - ایک گھاس

خَبَاسَة - خَبَاسَاء - مال غنیمت -

خَبَاط - مایعوزیا - فتور دماغ کا ایک مرض -

خَبَاط - غبار - گرد -

خَبَال - ذہر قائل - دوزخیوں کی پیسپ -

تباہی - نقصان - ہلاکت - رنج

مص (س) دیوانہ ہو جانا - ہاتھ

شل ہو جانا (ت) تباہ کرنا -

تباہی مچانا -

خَبَان - خَبْن (ص) (دکھڑا) موڈ کر سینا -

خَبَائِث - شیاطین کی عورتیں - گندمی اور نجس

چیزیں - برے کام - و :-

خَبِيْثَة

خَبَب (ن) تیز چلنا - گھوڑے کا پوہ

دوڑنا - یعنی دابھنے ہاتھ اور دانستے

پاؤں کو اور اسی طرح بائیں ہاتھ

اور پاؤں کو اٹھانے -

حَبِط - جھاڑا ہوا پتا۔ پتے جھاڑ کر خشک  
کئے جائیں۔

حَبِط - (صن) لکڑی سے پتے جھاڑنا۔ اکل  
سے رات کو بے راہ چلنا۔ زور  
سے مارتا۔ لگانا۔ آسیب زدہ کرنا  
بے دھتکے پن سے اور بگاڑ کر کام  
کرنا۔

حَبِطُ عَشْوَاءِ - اندھی ادٹنی کا پھلنا۔ ٹامک  
ٹوٹیاں مارتا۔ اندھا دھند کام کرنا۔

حَبِط - (صن) پوشیدہ کرنا [فنی - ب] [ب]  
داخل ہونا۔ مقیم ہونا۔ رک جانا۔  
حَبِطَةُ - طلعتِ بورت جو کبھی پردہ کرے اور کبھی  
ظاہر ہو جائے۔

حَبْل - (صن) فاسد کر دینا۔ دیوانہ بنا دینا۔  
ہاتھ شل کر دینا [صن] کسی چیز سے  
روک دینا۔ کوتاہی کرنا۔

حَبْو - حَبْو - (صن) آگ بجھ جانا۔

حَبْوَط - حَبِط - گھوڑا جو زمین پر پاؤں مارے  
ذلیل و حقیر۔ کمینہ۔ فریبی۔ گندہ۔

حَبِط - (صن) (مؤنث) حَبِطَةُ  
جہ:۔ حَبَاثَت

حَبِطَت - بڑا خبیث مرد۔ جہ:۔ حَبِطِيَتُون  
حَبِطِيَتِي - زنا۔ پلیدی۔

حَبِير - واقف کار۔ دانہ۔ خبر رکھنے والا۔  
حَبِيرِيَتِي - بچی ہوئی روٹی۔

حَبِيص - کھجور اور گھی سے ملا ہوا کھانا حلوا  
حَبِيص - حوض جسے گھوڑے نے لات مار کر  
منہدم کر دیا ہو۔ تسی دودھ کی۔

جہ:۔ حَبِط -

حَبِط - نیچے زمین کشادہ۔ جہ:۔

أَحْبَات

حَبِطَةُ - عاجزی۔ انکساری۔

حَبِطَت - زنا۔ پلیدی۔ شرارت۔ حد

حَبِطَت - (صن) گندہ ہونا۔ زنا کرنا۔ ناکارہ  
اور فریبی ہونا

حَبِط - (مدن) شیاطین۔ جہ:۔ حَبِطَت

حَبِط - پلیدی۔ نجاست۔

حَبِطُ الْحَدِيدِ - لوہے کا میل۔

حَبِط - خبیث مرد اس کا استعمال صرف  
نڈا کے موقع پر ہوتا ہے۔

حَبِير - واقفیت۔ آگاہی۔ واقف۔ آگاہ  
دانش۔

حَبِير - حَبِيرَةٌ - (صن) آزمانا۔ کھانے کو چرب  
کرنا۔

حَبِير - حدیث۔ واقعہ۔ تاریخ۔ حال۔

آگاہی۔ قصہ۔ جہ:۔ أَحْبَاد

مص (ص) جاننا۔ زمین میں بیریاں  
بہت ہونا۔ زمین کا پست ہو جانا

حَبِير - واقف اور جاننے والا آدمی۔

حَبِيرَةٌ - آگاہی۔ آزمائش۔ علم۔ تجربہ۔

حَبِير - (اسم جنس) روٹی۔

حَبِيرٌ اَسْدَنَجِي - ڈیل روٹی۔ (ص)

حَبِير - (صن) روٹی پکانا۔ روٹی دینا۔ تیز  
ہانکنا۔ مارتا۔

حَبِيس - (صن) کسی چیز کو حاصل کرنا۔ لوٹنا  
حَبِيس - (صن) جمع کرنا۔ اکٹھا کرنا

حَبِيس - (صن) کسی چیز کو کسی چیز میں ملانا  
خلط مل کرنا۔

حَتَن - داماد - بیوی کا باپ اور بھائی وغیرہ  
 ج: - اَحْتَان (مؤنث) حَتْنَة  
 حَتْن - (ن ص) ختنہ کرنا - کاٹنا -  
 حَتْنَة - مرد کی ساس -  
 حُنُون - حُنُونَة - (ن) شادی کے ذریعہ  
 کسی کا رشتہ دار بننا -  
 حَتْنِین - ختنہ کیا ہوا -

## خ - ت

خَتْنَة - پھیٹیوں کا مٹھا (اگ سگائے کیلئے)  
 خَتْر - خَتْرَة - خَتْرَان (ن) خَتْر -  
 خَتْرَة - (س) گاڑھا ہونا چرم جانا  
 موٹا اور سخت ہونا - دودھ کا دہی  
 بن جانا -  
 خَتْنَم - شیر -  
 خَتْنَمَة - سرخ بکری -  
 خَتْم - (س) ناک یا کان کا چوڑا ہوجانا -  
 خَتْنِی - گائے کا گوبر - ہاتھی کی لید -  
 خَتْنِی - (ص) گائے کا گوبر کرنا - ہاتھی کا  
 لید کرنا -

## خ - ج

خَجَا - (س) شرمندہ ہونا -  
 خَجْف - خَجِيف - خَجْفَت - عَفْصَة - غَضَب -  
 (ص) خفیف ہونا - تکبر کرنا -  
 خَجَل - شرمندہ - کشادہ لمبا کپڑا - پرانا کپڑا  
 خَجَل - (س) شرمندہ ہونا - کچھڑ میں پھنس  
 کر رہ جانا - اترانا -  
 عاجز ہونا - تلاش رزق میں سستی کرنا

خَبِیْئِی - چھپایا ہوا - چھپانے کے لائق -  
 خَبِیْئَة - چھپایا ہوا - چھپانے کے لائق -  
 ج: - خَبِیْئَا -

## خ - ت

خَبْت - [الی] (ن) بے درپے (نیزہ) مانا  
 خَبْر - (ص) (ن) دھوکہ دینا - غدر کرنا -  
 خَبْرَار - بد عمد - بڑا دھوکہ باز -  
 خَبْرَاه - مٹی اور موم وغیرہ کہ جس سے کسی چیز  
 پر مٹر کی جائے - خاتمہ - انجام -  
 ج: - خَبْرَة -  
 خَبْتَان - ختنہ - ذکر پر ختنہ کی جگہ -  
 خَبْتَانَة - ختنہ کرنے کا پیشہ -  
 خَبْتَاء - (ف) کسی چیز سے روک دینا -  
 خَبْر - سستی کہ جو دودا یا زہریلی چیز کے  
 کھانے پینے سے ہو -  
 خَبْر - خَبْرُوس - (ص) (ن) فریب دینا - عمد  
 شکنی کرنا -  
 خَبْر - (س) زہریلی چیز پینے کی وجہ سے  
 بے حس ہوجانا -  
 خَبْرَع - رہبر کہ جو اپنے کام میں ہوشیار ہو -  
 عقل مند -  
 خَبَل - خَبَلَان - (ن) (ص) فریب دینا -  
 بھیڑ ٹیپے کا شکار کے لئے چھپنا -  
 خَبْم - مہر - شہد -  
 خَبْم - خَبْتَاه - (ص) مٹر کرنا - کسی چیز کے  
 آفر تک پہنچ کر اس کو تمام کر دینا -  
 تمام شرآن مجید پر لکھنا - [علی]  
 مہر لگانا -

بہت گھٹا ہونا گھاس کا۔

## خ - د

خَدَّ - رضار - ج: - خُدُّود پگھلندی۔  
 شکاف - نالہ - راہ - سڑک - زمین  
 میں لبا گڑھا - ج: - آخَدَّہ - خَدَّاد  
 مص (ن) تاثیر کرنا - زمین کھودنا -  
 شکاف ڈالنا - چیرنا - نشان کرنا - خط  
 یعنی لکیر کرنا - چھاپا لگانا۔  
 خَدَّاج - نقصان - ناقص مص (ن) ض)  
 مدت سے پہلے اونٹنی کا بچہ کو جن  
 دینا۔  
 خَدَّاد - شیر کی کپسار۔  
 خَدَّاع - جیلہ - فریب - منع مص فریب کرنا  
 چھوڑنا۔  
 خَدَّاع - دغا باز - فریبی - بڑا مکار۔  
 خَدَّآة - راستہ - پگھلندی - لینا گڑھا - نشان  
 ج: - خَدَّاد  
 خَدَّاب - (ن) گوشت کو (تلوار) سے اس طرح  
 کاٹنا کہ زخم بڑی تک نہ پہنچے بھوٹ  
 بولنا۔  
 خَدَّاس - گھر کے کوز میں لڑکیوں کے لئے پردہ  
 پوشیدہ چیز - ج: - خُدُّود۔  
 خَدَّاد - تاریکی - بے حسی - بے خودی -  
 تاریک مقام - سستی - کابلی - بینائی  
 کی کمزوری - مص (س) اُلٹھ اور  
 پاؤں کا سُن ہو جانا۔  
 خَدَّار - خَدَّاس - اندھیری رات۔  
 خَدَّار - (ن) اپنی جگہ جم کر رہنا۔

لڑکی کا پردہ (خَدَّاس) بیٹھے رہنا  
 خَدَّارَة - کچی خسرما جو درخت سے گر  
 جائے  
 خُدَّارَة - سخت اندھیرا۔  
 خُدَّارِی - کالا گدھا۔  
 خَدَّاتو - زخم کا نشان جو پھیلنے سے ہو گیا ہو۔  
 خراسش - ج: - خَدَّاتو  
 مص (ن) پھیلنا - ٹوچنا۔  
 خَدَّع - سوسمار (گود) دھوکا - (ن)  
 فریب دینا - بازار کا بے رونق ہونا۔  
 اور کاروبار کا اس میں سست پڑ جانا  
 خَدَّاعَة - جسے لوگ بہت دھوکا دیں۔  
 خَدَّاعَة - فریب - دھوکہ - جمل۔  
 خَدَّاعَة - بہت دھوکہ دینے والا۔ زمانہ کا نام  
 خَدَّال - خَدَّالَة - خَدَّالَة (س) مانگ  
 کا لیا ہونا - موٹا گداز اور فریب ہونا۔  
 خَدَّامَة - نوکری - فرض منصبی ج: - خَدَّام  
 (ن) صق) ملازمت اور خدمتگاری  
 کرنا۔  
 خَدَّان - دوست - معشوق - ج: - آخَدَّان  
 خَدَّانَة - بہت دوست بنانے والا۔  
 خَدَّوع - راستہ جو کبھی ناپید ہو جائے اور کبھی  
 نمودار - دھوکہ باز ج: - خَدَّوع  
 خَدَّایَج - اسقاط حمل - بے وقت پیدائش۔  
 (اونٹنی) اونٹنی جو وقت معین سے  
 پہلے بچہ جنے  
 خَدَّایَعَة - مکر و فریب - دھوکہ - ایک عربی  
 کھانے کا نام (عرب میں)۔  
 خَدَّایِن - دوست - معشوق۔

خدیو - شاہ مہر کا قدیم لقب (د)

## خ - ذ

خَدَاء - خُدُوء - خَدَاء - (ف س)

خُدَا [عاجزی کرنا۔ فرمانروا ہوجانا]  
خُدَاة - خُدُوَف - پھر کی جیسے بچھے  
پھرتے ہیں۔

خُدَاة - جلدی کرنا (برتن) بھردینا۔

[ب] تلوار سے کسی کے ہاتھ پاؤں  
کاٹ ڈالنا۔

خَدَاع - (ف) کاٹ ڈالنا۔

خَدَف - (ص) کنکری پھینکنا۔

خَدَل - خَدَلَان - (ن) چھوڑنا۔ ناامید  
کرنا۔ مد سے باز رہنا۔ پیچھے رہنا۔  
خوفزدہ ہونا۔

خَدَّر - (ص) ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا۔ تلوار  
سے کاٹنا۔

خَدَّه - (س) جلدی کرنا۔ تیز چلنا۔ کٹ جانا  
چدا ہونا۔ مست ہونا۔

خَدُوَل - دھوکہ دینے والا۔ مصیبت میں تنہا  
پھوڑ دینے والا۔

## خ - س

خَدَّاج - محصول۔ مزدوری۔ حاصل مال۔  
ج :- اَخْدَاج - اَخْدَجَة -

خَدَّاج - باہر کر دو۔ نکال دو۔ (اسم فعل)  
خَدَّاد - کوئی چیز جس میں سنسناہٹ کی آواز  
پیدا ہو۔ سن سن کرنے والا۔

خَدَّارَة - چشمہ جس میں پانی بہت ہو اور

زور کے ساتھ بہتا ہو۔

خَدَّاس - سینے والا۔

خَدَّازَة - موزہ سینے والا۔

خَدَّاس - شلے بیچنے والا۔

خَدَّاسَان - ایک ملک کا نام۔

خَدَّاشَة - برادہ۔ تھوڑا سا حق۔

خَدَّاص - انکل بچو بات کہنے والا۔ بھوٹنا۔

ج :- خَدَّاصُون -

خَدَّاط - جو لکڑی کو پھیل کر مہوار کرے۔

خَدَّاطَة - لکڑی پھیل کر مہوار کرنے کا پیشہ۔

خَدَّاطَة - خزا کی پھیلین۔

خَدَّاطِين - کیچوے۔

خَدَّاعَة - بد اخلاقی۔ عیب۔ بیباکی۔

خَدَّاف - پھل توڑنے کا وقت۔ (ص) (ن)  
پھل توڑنا۔ موسم خزاں میں کسی جگہ  
مقیم ہوجانا۔

خَدَّافَات - انوکھی حکایتیں۔ کہانیاں۔

خَدَّافَة - درخت سے توڑا ہوا میوہ۔ ایک  
شخص کا نام جو انوکھی حکایتیں بیان  
کیا کرتا تھا۔

خَدَّاب - ویرانی۔ ویران جگہ۔ آخِیدِیَة -  
خَدَّابِص (س) اجاڑنا۔ ویران  
کرنا۔

خَدَّاب - دین کے اندر خرابی اور فساد۔

خَدَّاب - (ن) ویران کر دینا۔ کان میں سوراخ  
کرنا۔ مسما کرنا۔ اجاڑنا۔

خَدَّیَاء - کان جس کی لوچری ہوئی ہو۔ بھیڑ جس  
کا کان چرا ہوا ہو۔

خَدَّبَة - ذلت۔ عیب۔ شرمگاہ ج۔ خَدَّابَات

- خَرْبَة - چھلنی۔  
 خَرْبَة - غیر آباد اور ویران مقام۔ ج:-  
 خَرْبَات - خَرْب - خَرْب -  
 خَرْبِیل - فرعون کی قوم میں سے ایک مومن آدمی کا نام۔  
 خَرْج - خرچ - ٹیکس محصول جہ: اَخْرَاج  
 خَرْصَة - خراٹے لینے کی آواز۔ گلا گھونٹنے سے گلے کی آواز۔ تیندوے اور پی کاسوتے ہوئے خرخرانا۔  
 خَرْد - (س) عورت کا دو شیزہ اور شرمگین ہونا۔ دیر تک خاموش رہنا۔  
 خَرْدَل - رائی - د:- خَرْدَلَة  
 عمدہ کھانا کھانا۔ گوشت کو کھڑے ٹلڑے کرنا۔  
 خَرْمَن - گھونگا۔ کوڑی۔ پوت کے دانے۔  
 خَرْس - (س) گونگا ہونا۔ ٹکے سے پینا۔  
 خَرْس - مٹکا۔ ج:- خَرْوَس -  
 خَرْسَة - زچہ عورت کا کھانا۔ زچہ۔  
 خَرْش - (مق) پھینا [ ] اپنے کہنے کے لئے کھانا۔  
 خَرْشُوم - پہاڑ کی چوٹی۔ سر بٹک پہاڑ۔ ج:- خَرْشِیْم  
 خَرْص - (ن) اٹکل سے مات کہنا۔ کھڑی کھیتی اور پھلوں کو درخت پر تھمتہ کرنا۔ بھوٹ بونا۔  
 خَرْص - زمین کی آمدنی کا تھمتہ۔ ہارک نیزہ سخت اور قوی۔ ریچھ۔ بھولی۔  
 خَرْط - (ن) کھڑی تراش کر ہموار اور برابر کرنا۔ ریچ خارچ کرنا۔ چوپایہ کا رسی توڑ کر چلتا بننا۔  
 خَرْطُوس - کارٹوس (د)  
 خَرْطُوم - ناک۔ ہاتھی کی سوند۔ جلد مست کر دینے والی شراب۔ ج:-  
 خَرْاطِیْن -  
 خَرْع - (ت) چیرنا۔ پھاڑنا۔  
 خَرْع - (س) چرنا۔ چھٹنا۔  
 خَرْف - (س) بڑھانے کے سبب عقل خراب ہو جانا۔ تازہ میوہ کھانے کے لئے خریدیں ہونا۔  
 خَرْف - (ن) پھل توڑنا۔ موسم خزاں میں کسی جگہ مقیم ہو جانا۔  
 خَرْقَة - میوہ جو درخت پر سے توڑا جائے  
 خَرْق - (ن) پھاڑنا۔ بھوٹ گھڑنا۔ مسافت طے کرنا  
 خَرْقَاء - بکری جس کے کان میں گول شگاف ہو۔ فراخ قطعہ زمین۔ احمق عورت۔  
 خَرْقَة - چیتھڑا۔ ج:- خَرْق -  
 خَرْقَة - بے عقلی اور نادانی۔  
 خَرْد - پہاڑ کی چوٹی۔ ج:- خَرْد -  
 خَرْد - (س) ناک کا بانسہ چر جانا۔  
 خَرْمَان - بھوٹ۔  
 خَرْوَاب - ایک خاردار بوٹی کا نام۔  
 خَرْوَج - (ن) خارجی ہو جانا۔ نکلنا۔  
 یَوْمُ الخَرْوَج - قیامت کا دن۔  
 خَرْوُط - سرکش چوپایہ جو ہاتھ سے رسی تڑا کر چلتا ہے۔ بدکار عورت ج:-  
 خَرْوُط  
 خَرْوَع - ارنڈ کا پودا۔ نرم تنے کا پودا۔



خَرَبُجُم مدرستہ۔ مدرسہ کا فارغ التحصیل (د)  
 خَرَبِيدَا - خَرَبِيدَا - کنواری عورت جس پر مرد کا  
 ہاتھ نہ چڑھا ہو۔ شرمیلی۔ نیک عورت  
 نرم آواز والی جو ہمیشہ پردہ میں رہے۔  
 جہ:۔ خَرَبَا شَد - خَرَبَد -  
 خَرَبُوْم - خَرَبُوْر - (صن) (پانی کا) گراگڑانا۔  
 (ہوا کا) سنسنانا۔ خزانے لینا۔ خزانہ  
 کرنا [ل] تعظیم یا عبادت کے لئے  
 جھک جانا۔  
 خَرَبِيْطَة - تحصیل جس میں بھر کر منہ بند کر دیں۔ جہ:۔  
 خَرَبِيْط - (د) نقشہ زمین۔  
 خَرَبِيْف - موسم خزاں کے تین مہینے گرمی اور چھاؤ  
 کے درمیان کے جن میں مہوہ توڑتے  
 ہیں۔ تازہ توڑی ہوئی چھجوریں۔  
 برس۔  
 خَرَبَات - گھڑا بنانے والا۔ یا بیچنے والا۔  
 خَرَبَا عَة - کٹا ہوا ٹکڑا۔ ایک قبیلہ۔  
 خَرَبَا مَة - (اونٹ کی) ناک میں ڈالنے کا چھلّا  
 جہ:۔ خَرَبَا حِد -  
 خَرَبَا مِي - گل شب بو۔ خیری۔ گل مریم۔  
 خَرَبَا نَة - سکے وغیرہ رکھنے کا مکان۔ بنک  
 میگزین جہ:۔ خَرَبَا سِيْن بال جمع کرنا  
 خَرَبَا نَة الْكُتُب - کتب خانہ۔ لائبریری (د)  
 خَرَبَا يَة - (س) شرم کرنا۔ ذلیل ہونا۔ مصیبت

## خ - سن

خَرَبَات - گھڑا بنانے والا۔ یا بیچنے والا۔  
 خَرَبَا عَة - کٹا ہوا ٹکڑا۔ ایک قبیلہ۔  
 خَرَبَا مَة - (اونٹ کی) ناک میں ڈالنے کا چھلّا  
 جہ:۔ خَرَبَا حِد -  
 خَرَبَا مِي - گل شب بو۔ خیری۔ گل مریم۔  
 خَرَبَا نَة - سکے وغیرہ رکھنے کا مکان۔ بنک  
 میگزین جہ:۔ خَرَبَا سِيْن بال جمع کرنا  
 خَرَبَا نَة الْكُتُب - کتب خانہ۔ لائبریری (د)  
 خَرَبَا يَة - (س) شرم کرنا۔ ذلیل ہونا۔ مصیبت

میں پھنس جانا۔

خَرَب - (س) جلد کا بغیر کسی ظاہری وجہ کے  
 سوچ جانا۔

خَرَبِي - (ن) ہوشیار اور فریب دینے  
 میں چالاک ہونا۔ بھاگ جانا۔

گوشہ چشم سے دیکھنا کن آنکھیوں  
 سے دیکھنا۔

خَرَب رَج - شیر۔ ٹھنڈی ہوا۔ ایک قدیم مدنی  
 قبیلہ کا مورث اعلیٰ۔

خَرَب رِقَة - اتر کر چلنا۔

خَرَب ع - (ف) کاٹنا (ان) (عن) پیچھے رہنا۔  
 خَرَب غَيْبِل - خَرَب غَيْبِل - باطل۔ لغو اور غلط۔

خَرَب ف - (صن) چلتے ہوئے ہاتھ ہلانا (کچھڑا)  
 بھاڑنا۔

خَرَب ف - گھڑا۔ مٹی کا برتن۔ ٹھیکری  
 خَرَب ق - (صن) چھید کرنا۔ سوراخ کرنا۔

برٹ کرنا۔ تیزہ مارنا۔

خَرَب ل - (صن) کاٹنا۔ کاٹ ڈالنا۔ (عن) [  
 منع کرنا۔ روکنا کسی چیز سے۔

خَرَب م - (صن) موتی پرونا۔ اونٹ کی ناک کی  
 دیوار چھیدنا۔

خَرَب ن - (ن) مال جمع کرنا۔ خزانہ میں رکھنا  
 بھید چھپانا۔

خَرَب ن - (س) گوشت کا حقیر اور بدلو  
 دار ہونا۔

خَرَب نَة - خزانہ۔ ناک بہان۔ وہ۔ خزانہ  
 خَرَب و - (ن) دبا لینا۔ زیر کرنا۔ پالو بنانا۔  
 سدھانا۔

خَرَب ي - ذلت و خواری اور رسوائی۔ مص

(س) ذلیل و خوار اور رسوا ہونا۔  
 خَزِي - شیطان - ابلیس - دیو۔  
 خَزِيَان - شرمیلا - کھسیانا۔  
 خَزِيَّة - آفت - مصیبت وہ خصلت جو باعث

رسوائی ہو۔  
 خَزِيَّة - ذخیرہ - غلہ کی کوٹھی جو خَزِيَان

## خ - س

خَس - دن (حکم کرنا - ہلکا کرنا - حقیر کرنا  
 خَسًا - (س) کتے کا دور ہونا اور اس کا چلنا  
 جانا رفت و دھتکارنا - ہانک دینا۔  
 خَسَار - خَسَارَة - گمراہی - ہلاکت - عہد شکنی۔  
 کینہ پن ٹوٹنا (س) نص (نقصان  
 اٹھانا - گمراہ ہونا۔

خَسَاة - پاجھی پن - کینہ پن (س) کینہ ہونا۔  
 ذلیل ہونا۔

خَسَالَة - کوڑا کرکٹ - طیر - وہات کا پتہ۔  
 خَسَاة - پاجھی پن - کینہ پن - (س) کینہ ہونا۔  
 سفلہ ہونا۔

خَسْر - خَسْرَة - نقصان - کمی - گھٹنا۔  
 مص (ن) کم کرنا - گمراہ ہونا۔

خَسْرَة - خَسْر - (س) گمراہ ہونا - تجارت میں  
 گھٹنا کھانا۔

خَسْرَوَانِي - ایک طرح کا لباس - ایک قسم کی  
 شراب۔

خَسْف - گڑھا کھودنا - آنکھ پھوڑنا۔  
 ذلیل کرنا - [ب] زمین میں دھنسا  
 دینا۔

خَسْل - (ن) بیکار چیز کو پھانٹ دینا۔

خَسُوف (حق) زمین میں دھنس جانا - چاند  
 میں گہن لگنا - سس کی آنکھ کو اندھا  
 کر دینا - پھاڑ ڈالنا - توڑ ڈالنا - کاٹنا  
 آنکھ کا اندھا ہونا۔

خَسِيْس - کینہ - پاجھی - پرتج جوہر - خَسَاَس  
 خَسِيْسَة - حقیر چیز - جوہر - خَسَاَس  
 خَسِيْلَف - کنواں جس کا پانی کمرہ ہو - ابر بہت  
 بارش والا - دھنسی ہوئی (آنکھ)

## خ - ش

خَش - (ن) [قی] کسی چیز میں داخل ہونا  
 خَشَاب - لکڑی بیچنے والا - لکڑہارا - لٹھوں کا  
 سوداگر۔

خَشِيَار - خَشَاة - کوڑا کرکٹ۔  
 خَشَاب - بچکا در۔

خَشَب - (ن) باہم ملانا - علیحدہ کرنا۔ رنگ  
 دور کرنا۔ بے اثر تقریر کرنا۔

خَشَبَة - خَشَبَة - سخت لکڑی - جوہر۔  
 خَشَب - خَشَبَان - خَشَب

خَشَبَانَش - تم خشناس خشناسے ایک  
 دانہ ان میں سے۔

خَشَبَانَشَة - کھوکھڑا ہٹ - کاغذ کی آواز۔  
 نئے کپڑے کی آواز۔

خَشَر - شہد کی مکھیوں وغیرہ کی جماعت۔  
 خَشَرَة - ان میں سے ایک شہد کی  
 مکھیوں کا سردار - چونیکا پتھر۔

جوہر - خَشَارَة -  
 خَشَع - عاجزی کرنے والے - وہ۔

خَشَاع - خَشَاع

خَشِيْب - منتخب وچیدہ۔ تلوار جس پر ہنوز سونا اور صیقل نہ ہوئی ہو۔ تاکارہ خواب  
ج:۔۔ خَشَائِب - فت اور  
لبا ترنگا۔

## خ - ص

خَصَّ - خُصُوَص - خُصُوَصَة - تَخِصَّة -  
(ن) (ب) کسی کو کسی چیز کے لئے  
مخصوص کرنا کسی کیساتھ کسی کو مخصوص کرنا  
خِصَاء - خصی کرنا۔  
خِصَاص - خِصَاصَة - تَخَايَكِي - ضرورت - غربت  
سوراخ (س) محتاج ہونا۔  
خِصَاصَة - چننے کے بعد جو انگور بیل میں رہ  
جائیں۔  
خِصَاف - بہت جھوٹ بولنے والا - جوتی  
سینے والا۔  
خِصَاہ - بھگڑا کرنے والے - و:۔۔ خِصَام  
کسی کے ساتھ لڑائی بھگڑا کرنا۔  
بھگڑا۔  
خِصَان - خاص لوگ - بڑے آدمی۔  
خِصَب - سبزے کی کثرت - فراخی - ارزانی  
سرسبز زمین (س) (ض) ارزانی ہونا۔  
فراخی ہونا۔ سرسبز و شاداب ہونا۔  
سرسبز شاداب زمین۔  
خِصَر - (س) (و) کا سرد ہونا سردی کھانا  
خِصَر - کر:۔۔ خِصُوَس -  
خِصَص - (س) غریب ہونا۔  
خِصَف - (ض) (جوتی کا سینا - ٹانگنا - ڈہرا  
کرنا - پتوں سے بدن ڈھکنا۔

خَشَف - خَشَفَة - آواز - حرکت - اونچی اور  
زرم زمین جو بڑھتی کم ہو۔  
خَشَف - (ض) حرکت کرنا - سمجھ جانا - برف  
میں سے آواز آنی - جب اس پر چلیں  
سردی کا تیز ہوجانا - آواز نکالنا  
[سنے] دوڑنا [یا] عورت کا بچہ  
کو گرا دینا۔  
خَشَل - (ن) کسی کو ذلیل بنانا - حقیر سمجھنا۔  
خَشَل - (س) پرانا ہونا۔  
خَشَم - (ض) کسی کا غیشوم ربا نسا توڑ  
ڈالنا - مست کر دینا۔  
خَشَم - خَشُوہ - (س) گوشت میں بو آجانا۔  
بیماری کے سبب ناک سرد ہونا۔  
ناک اور حارغ کے درمیان کے پٹھے  
گل جانا  
خَشِين - کھوراج:۔۔ خَشِيَان (مؤنث)  
تخیشہ۔  
خَشِيْن - خَشَاة - (ل) کھوراج ہونا۔  
خَشُوَع - (ف) عاجزی کرنا - شرمانا - گڑا کرنا۔  
سورج کا غروب کے قریب ہونا (ب)  
آنکھ بند کرنا۔  
خَشُوَف - خَشَقَان - (ن) (ض) زمین میں  
چلنا - پانی کا جم جانا - جاڑا سخت ہو  
جانا۔  
خَشُوَة - خَشَنَة - خَشَاة - کھوراج  
میں (ل) کھوراج ہونا۔  
خَشِيِي - خَشِيَة - خَشِيَان -  
(س) ڈرنا - بچنا۔  
خَشِيَاء - ڈرنے والی۔

خَصَّاس - ٹکڑا جس سے جوتے کو سبیں  
 خَصَّارَة - (ن) کاٹ ڈالنا - اگ کرنا - قوم  
 سے قاتل ہو جانا -  
 خَصَّال - عادت - ج - خَصَّال  
 خَصَّالَة - مٹھا - بالوں کی لیٹ - اون کا چھڑا -  
 انگوڑ کا خوشہ - ج - خَصَّال  
 خَصْم - جھگڑنے والا - ج - خَصْم  
 خِصَام - آخِصَام - مص (ص) رطائی میں غالب آنا -  
 خِصِم - بڑا جھگڑالو - ج - خِصِمُون  
 خِصْمِي - اسپیشلسٹ پرائیویٹ (د)  
 خِصْمَة - روانی - جھگڑا -  
 خِصِي - خِصِيَة - غایہ - خِصِيَة - ج - خِصِي  
 خِصِي - جس کا خِصِي نکال لیا ہو - ج -  
 خِصِيَة - خِصِيَان - شعر جو  
 عورتوں کی بات سے خالی ہو -  
 خِصِيْب - مقام جس میں نلکی ارزانی اور کثرت  
 ہو - بہت غیر دیرکت والا -  
 خِصِيْف - سی ہوئی جوتی - راکھ -  
 خِصِيْم - جھگڑنے والا - ج - خِصِمَاء  
 خِصِمَان -  
 خَصْر - نزاکت اور نرمی - ہری شاخیں (ص)  
 کھیت کا سبز ہونا -  
 خَصْر - مرے - وا - آخَصْر - خَصْرَاء -  
 خَصْرَاء - آسمان - تکراری - میرے جیسے سبب  
 امر و وغیرہ - ج - خَصْرَاءَات -  
 ہتھیار بند لشکر آلات جنگ سے پورے  
 طور پر مسلح - گھریلو کبوتر -  
 خَصْرَة - ہراساگ -

خَصْلَة - عادت - ج - خَصْل  
 خَصْلَة - مٹھا - بالوں کی لیٹ - اون کا چھڑا -  
 انگوڑ کا خوشہ - ج - خَصْل  
 خَصْم - جھگڑنے والا - ج - خَصْم  
 خِصَام - آخِصَام - مص (ص) رطائی میں غالب آنا -  
 خِصِم - بڑا جھگڑالو - ج - خِصِمُون  
 خِصْمِي - اسپیشلسٹ پرائیویٹ (د)  
 خِصْمَة - روانی - جھگڑا -  
 خِصِي - خِصِيَة - غایہ - خِصِيَة - ج - خِصِي  
 خِصِي - جس کا خِصِي نکال لیا ہو - ج -  
 خِصِيَة - خِصِيَان - شعر جو  
 عورتوں کی بات سے خالی ہو -  
 خِصِيْب - مقام جس میں نلکی ارزانی اور کثرت  
 ہو - بہت غیر دیرکت والا -  
 خِصِيْف - سی ہوئی جوتی - راکھ -  
 خِصِيْم - جھگڑنے والا - ج - خِصِمَاء  
 خِصِمَان -  
 خ - ص  
 خِصَاب - رنگ - جس چیز سے رنگ جائے -  
 مص (ص) رنگنا -  
 خِصَاخِص - وہ جگہ جہاں پانی اور درختوں  
 کی کثرت ہو - توندل اور موٹا -  
 خَصَّاس - تازہ سبزہ - دودھ جس کا اکثر حصہ  
 پانی ہو -

حُضْرَة - سبزہ - سبزی - ج: حُضْر - حُضْر - حُضْر  
 نرمی اور نزاکت - گدھی رنگ -

حُضْرِي - سبزی فروش (د)

حُضْرِيَّة - ایک قسم کی کھجور کا درخت کہ سرسبز  
 رہتا ہے اور اچھا پھل لاتا ہے -

حُضْرِم - کثیر - سخی - داتا - دریا دل ج: -  
 حُضْرَام -

حُضْرِيَج - فالیز - خر بوزے اور لکڑی وغیرہ کا  
 ہیت -

حَضَّاء - جو عورت ذلت و خواری گو آرا کرے

حُضْعَة - جو سب کے ساتھ انکساری اور فروشی  
 سے پیش آئے -

حَضْف - حَضْفَات - (حق) گوزارنا -

حَضَل - (س) تر ہو جانا -

حَضْم - (حق) کاٹنا - چباتا (س) کھانا -

حَضُوْب - بارش کے سبب جو نیا سبزہ آگا ہو -

حُضُوْب - (حق) درخت کا سبز ہونا -

حَضُوْس - سبز -

حَضُوْع - عاجزی اور انکساری کرنے والا -

ج: حَضَّج

حَضُوْع - (ت) عاجزی و فروشی کرنا - قرار پانا

ٹھہرنا - کسی کو بدی کی طرف بلانا -

ستارہ کا غروب ہونے کے قریب ہونا -

بڑھاپے کا گردن کو بھکا دینا - اونٹوں  
 کا چلنے میں کوشش کرنا -

حَضُوْف - حَضِيْف - حَضَات - گوزارنے  
 والا -

حَضِيْب - رنگا ہوا -

حَضِيُو - سبز ہر اساک -

حُضْرَاء - ایک پزندہ -

حَضِيْب - وہ مقام جہاں مٹی زیادہ ہوا اور بارش  
 کی وجہ سے تر ہو گئی ہو -

حَضِيْبَة - باغ سبزہ زار - ج: - حَضَائِل

حَضِيْمَة - سبز گھاس - زمین سرسبز -

## خ - ط

حَط - لائن - لمبی کیر - زمین پر تیار راستہ  
 بٹیا - کھا ہوا - راستہ - مکان بنانے

کے لئے سجدہ بندی - ج: - حَطُوْط

أَحْطَأْطْ - مصلحہ - کھنا - کیر کھینچنا -

گہ دوغبار کو چیرنا - [عَلَى] منع  
 کرتا -

حِط - زمین جس پر بارش نہ ہوئی ہو -

حِط - بڑا راستہ -

حَطْء - حَطَاء - غلط - ضد صواب بے ارادہ  
 گناہ - چوک -

حِطْءٌ - حِطَاءَةٌ - گناہ (س) قصداً کننا کرنا

حِطَاءٌ - جو کہ ہمیشہ غلط کرے -

حِطَاءٌ - (س) گناہ کرنا - چوک جانا -

حِطَاب - منگنی کرنے والا -

حِطَاب - کچھو - کام - بات - مص مص پر بات  
 کہنا -

حِطَابَةٌ - حِطْبَةٌ - (ن) تقریر کرنا - خطبہ پڑھنا  
 و غلط کہنا -

حِطَّاس - ہلتا ہوا نیزہ - ہلانے والا - خوشبودار  
 روغن زیتون - نیزہ مارنے والا -

شیر عطر فروش -

حِطَّادَةٌ - اونٹوں کا احاطہ -

خَطَّر - ناز سے چلتے والا۔ اتر کر چلنے والا۔ ایک بڑا پیمانہ۔ پیشاب اور مینگی جو اوتھ کے چوتروں پر لگی ہوتی ہو۔

خَطَّر - ہلاکت سے نزدیک۔ جہ۔ اَخْطَار اندیشہ۔ مال جس پر شرط لگائی جائے قدر و منزلت۔ ہم قدر و ہم منزلت جہ۔ اَخْطَار

خَطَّر - ایک گھاس ہے جس سے نضاب کرتے ہیں۔ وسمہ۔ اونٹوں کا گلہ۔ دودھ جس میں پانی زیادہ ملا ہوا ہو۔ جہ۔ اَخْطَا سَا

خَطَّرَان - (ض) نیزے کا لچکا اور حرکت کرنا۔ خم کھاتے ہوتے اتر کر چلنا۔

خَطَّرَقَة - تیر چلنا۔

خَطَّط - شفا۔ نندرستی۔

خَطَّطَة - خَطَّطَة - (س) (ض) تیر چلنا ایک لیجانا بجلی وغیرہ کا اگھڑی کو چڑھیا دینا۔ چوری سے سننا۔

خَطَّطَة - اچک۔ جھپٹ۔ غصہ جس کو کوئی درتہ یا آدمی زندہ جانور میں سے کاٹ لیجائے

خَطَّل - لغو بات۔ ہلکان۔ جلد بازی۔

لنہائی۔ حرکت۔ مص (س) عورت کا بے حیائی اور بد کاری کے ساتھ۔ بدنام ہونا زنی [ لغو اور بخش بات کہنا۔

خَطَّط - بڑا کام۔ ناک کی نوک۔ چوپایہ کی تھوٹی جانوروں کی چوپایہ۔ آدمی کی نوک۔ پہاڑ کی نوک۔ مص (ض) ناک پر دانا ناک میں نیکل۔ ڈالتا گفتگو میں کسی پر غالب آنا اور اس کو بند کر

خَطَّاف - بہت اچکنے والا شیطان

خَطَّاف - ابابیل (ایک کالا پرندہ ہے) چور جہ۔ خَطَّافِ طَيْف -

خَطَّاف - کمان کا چلہ۔ مہار۔ جہ۔ خَطَّاف

خَطَّاف - نہایت خوشبودار مشک۔

خَطَّافِیَا - گناہ۔ وہ۔ خَطَّافِیَّة -

خَطَّاب - مقصد۔ حال۔ شان۔ اہم کام۔ منگنی۔ جہ۔ خَطَّوْب (ن) منگنی کرنا۔

خَطَّاب - عورت جس کی منگنی کی ہو مرد جو عورت کا خواہاں ہو۔ جہ۔ اَخْطَاب

خَطَّابَة - وہ کلام جس میں خدا تعالیٰ کی حمد ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور مخلوق کے لئے نصیحت ہو مبعوثی عبارت۔ جہ۔ خَطَّابِ مَصْر (ن) خطبہ پڑھنا۔

خَطَّابَةُ الرَّیَاسَةِ - صدر آتی خطبہ۔ پریسڈنٹس ایڈیس۔ (د)

خَطَّابَة - (ن) عورت سے منگنی کرنا۔

خَطَّابَة - عورت کہ جس کی منگنی کی ہو منگنی۔

خَطَّابَة - زمین کہ جس پر سب سے پہلے اتریں کہ اس سے پہلے اس پر کوئی نہ اترتا ہو۔ زمین کا ٹکڑا جسے حد بندی کر کے مخصوص کر لیا جائے۔

خَطَّابَة - بڑا کام۔ حال۔ جبل۔ (د) پالیسی۔ جہ۔ خَطَّاب

خَطَّاب - خَطَّابَان - (ن) جھومنا۔ لہرانا۔ ہلنا۔ تلوار یا نیزہ ہلاتا زنی [ مغور اتہ چال چلنا۔ اترانا۔

دینا۔ کمان میں چلے ڈالنا۔  
 خَطِی - خیرو - و :- خَطِیَّة -  
 خَطُو - (ن) قدم رکھنا  
 خَطُوَّة - ایک قدم - ج :- خَطُوَات - خَطَاء  
 دو قدموں کا درمیانی فاصلہ - ج :-  
 خَطُوَات - خَطَا -  
 خَطِیَّة - گناہ - قصداً گناہ - ج :- خَطَايَا  
 خَطِیَّات  
 خَطِیْب - خطیب پڑھنے والا - جو لوگوں میں ہوشیار  
 و ماہر ہو - ج :- خَطِیْبَا -  
 خَطِیْب - مرد جس نے کسی عورت سے منگنی کی ہو -  
 ج :- خَطِیْبُوْنَ -  
 خَطِیْبِي - خَطِیْبَة - منگنی کی ہوئی عورت -  
 خَطِیْبُو - ہم مرتبہ - ہم قدر - بڑی قدر و منزلت  
 والا - ہمار - رتی - ڈر - تاریکی -  
 خَطِیْفَة - آٹا جس میں دودھ ڈال کر پکا یا جائے۔

خَفَّارَةٌ - خَفَصَ - (س) بہت زیادہ شرم کرنا۔  
 خَفَّارَةٌ - عمد شکنی - بے وقافی  
 خَفَّاش - چمگا ڈر - ج :- خَفَّافِش -  
 خَفَّاف - موزے بچھنے والا۔  
 خَفَّاف - ہلکا۔  
 خَفَّاف - ہلکے - و :- خَفِيف  
 خَفَّافَة - ہلکا پن - مص (ض) ہلکا ہونا۔  
 خَفَّت - سداہ (ایک بوٹی ہے) مص (ن)  
 [ب] پھبا کر کنا - آہستہ کنا۔  
 خَفَّتَان - فراک - ٹکڑ (د)  
 خَفَج - (س) اونٹ کے پاؤں میں کانپنے  
 کا مرض پیدا ہوجانا۔  
 خَفَّافَة - گلہ بگڑھی آواز - کرتا یا کا نڈھلانے  
 کے وقت جو آواز سنائی دے۔  
 خَفَّاد - (ن) تیز چلنا۔  
 خَفَصَ - (ن) پناہ دینا۔ امان دینے کا معاوضہ  
 لینا - (ض) [ب] عہد کو وفا کرتا  
 [ب] علی [ع] محافظ بنا - پناہ دینا۔  
 نگرانی کرنا - عمد شکنی کرنا۔

خَفَصَ - عمد و پیمان - پناہ۔  
 خَفَّش - آنکھ کی چھوٹائی - بینائی کا پیدائش  
 ضعف - پیروں کی ایک بیماری -  
 مص (س) آنکھ کا کمزور ہونا۔  
 خَفَضَ - خوش حالی مص (ض) آہستہ مینا کلمہ کو  
 زبردینا۔ آواز بستی کرنا۔ ذلیل و خوار رکھنا  
 خَفَّقَ - (ف) دل کا دھڑلانا۔ جھٹھے کا ہلنا  
 جوتی کی آواز کہ چلنے کے وقت  
 نکلتی ہے - بجلی کا چمکنا - ہوا کا  
 آواز کرنا۔

## خ - ف

خَفَّ - اونٹ کا سم - شتر مرغ کا سم - ج :-  
 آخَفَّات - خَفَّاف - بوزہ - آدمی  
 کا علما اتنا کہ عینا زمین کو لگتا ہے۔  
 خَفَّت - خَفِيف - تھوڑا گردہ - ٹولی۔  
 خَفَّت - (ض) ہلکا ہونا پھرتیلا اور چالاک ہونا  
 ڈاواں ڈول اور غیر مستقل ہونا گھٹنا  
 (بیماری کا) مقلس ہونا۔  
 خَفَّاء - (س) پوشیدہ ہونا۔  
 خَفَّاء - غلاف - جس سے کسی چیز کو چھپائیں۔  
 کیل وغیرہ - ج :- آخَفِيفَة -  
 خَفَّات - (ن) اچانک مرجانا۔

کہ جہاں روک ٹوک نہ ہو۔ گر۔ رنا۔  
چلا جاتا۔ بھیجا جانا [عن] کسی چیز پر  
انگٹا کرنا [ب] والی [کسی کے پاس  
تنہائی میں آنا [عن] میں [میرا رہونا  
[ب] کسی کے ساتھ مہنسی اور  
مسخرہ پن کرنا۔

خِلاَء۔ خَلَاء۔ خَلْوَاء۔ (ف) اونٹنی کا  
بیز کسی بیماری کے بیٹھ جانا اور جگہ  
سے نہ ملنا۔

خَلَا۔ حرف استثناء یعنی سوا۔

خَلَايَف۔ نَاب۔ و:۔ خَلِيْفَة

خِلَايَة۔ (ن) فریب دینا۔ دغا دینا۔ بہکانے  
اور بہلانے کی باتیں کرنا۔

خَلَاَص۔ رُلِي۔ چٹکارا۔ نجات۔

خَلَاَص۔ خُلُوَص۔ (ن) [من] کسی جگہ  
پہنچنا کسی سے ملنا۔

خِلَاَص۔ گھرا خالص۔ بچوڑ۔

خَلَاَص۔ گھرا سُورَاخ۔

خَلَاَصَة۔ کسی چیز کا بہترین انتخاب۔ جو بہرہ  
حاصل۔

خِلَاَط۔ آمیزش کرنا۔ بھیڑ ٹیٹھے کا بکریوں میں  
آپرٹا۔ جماع کرنا۔ عقل کا پریشان  
ہونا۔

خَلَاَعَة۔ (ک) ماں باپ کی اطاعت سے  
باہر ہونا۔ اپنی خواہش کا  
تا بعد ار ہونا۔ ذلیل ہونا۔

خِلَاَف۔ ضد۔ مخالفت۔ مخالفت۔ پیچھے  
بید کی ایک قسم کرتے کی  
آستین۔

حَقَّقَان۔ دل کی بے صبری اور گھبراہٹ اور گرمی  
بھنڈے کا ہونا۔

خَفْوَة۔ پوشیدہ۔

خَفْوَت۔ (ن) آواز کا پست ہونا۔

خَفْوِي۔ (ن ص) عمد شکنی کرنا۔ بیوفائی کرنا

خَفْوَف۔ (ض) تھوڑا ہونا۔

خَفْوَف۔ کھڑ بگڑ۔

خَفِي۔ پوشیدہ

خَفِي۔ خَفِي۔ (ض) پوشیدہ کرنا۔ ظاہر کرنا۔

باہر نکالنا (لغات اعداد سے ہے)۔

خَفِيَّة۔ کنواں۔ جر:۔ خَفَايَا

خَفِيَّة۔ (س) پوشیدہ ہونا۔ چھپا ہوا ہونا۔

خَفِيْر۔ محافظ۔ پناہ پایا ہوا۔ پناہ دینے

والا۔ امان دیا ہوا۔ جر:۔ خَفِيْء

خَفِيْف۔ ہلکا۔ جر:۔ خَفَاَف۔ أَخْفَاَف

عروض کی بحر میں سے ایک بحر

کا نام۔

خَفِيْقُ الرِّيْح۔ ہوا کے چینے کی آواز۔

## خ۔ ل

خَل۔ پرانا کپڑا۔ ریگستان میں راستہ جو نکل جائے  
بند نہ ہو۔ کپڑے کی پھٹن۔ بدی۔ سر کر۔

جر:۔ خِلَال

خَل۔ خُلُوْل۔ (ن) کسی چیز میں آپرا سوراخ کرنا  
دبلا ہونا۔ [ب] مارنا۔

خِل۔ دوستنا۔ دوست جر:۔ خِلَال

خِلَا۔ پاخانہ خالی جگہ۔ بڑی اور پاک

مص۔ خَلَاء۔ خَلْوَة۔ (ن) جگہ

کا خالی ہونا۔ خالی جگہ میں آپرٹا۔



خِلَافَة - (ن) ایک کام میں کسی جگہ ہونا کسی کے بعد باقی رہنا کسی کے بعد آنا۔  
نیلغہ ہونا

خِلَافَة - بیوقوفی - احمق ہونا۔

خِلَاق - حصہ غیر منصفانہ حصہ پورا پورا حصہ۔

خِلَاق - ایک قسم کی خوشبو

خِلَاق - پیدا کرنے والا - اصل بنانے والا  
اصیغہ مبالغہ

خِلَال - جس سے سوراخ کیا جائے۔ کڑوی  
جو اونٹ کے بچے کے منہ میں لگا دی  
جائے تاکہ دودھ نہ پی سکے۔

تسک یا سلمانی جس سے دانٹ  
کویدیں - پن جس سے کپڑے کے  
دو کناروں کو ملا کر بدن پرسی دیتے  
ہیں تاکہ اڑنے نہ پائے۔ دانٹوں

کے اندر جو کھانا رہ جائے۔ درمیان  
وسط - جہ - آخِلَة - مص  
دوستی۔

خِلَالِ الْيَدَيَا - مکان کا ارد گرد - بستی  
کے گلی کو چے بستیوں کے درمیان۔

خِلَال - جو چیز شیریں چیز کو ترش بنا دے۔  
خِلَال - سر کرنے بیچنے والا۔

خِلَالَة - دوستی - محبت

خِلَالَة - کھانا جو دانٹوں میں رہ جائے۔  
خِلَالَة - جانشین - نائب - و :- خِلَيفَة

خِطْب - (س) عورت کا احمق ہونا۔

خِطْب - خِلَاب - خِلَابَة - (س) زمان  
سے ضرب دینا ان ص انان سے

زخمی کر دینا - پھیلنا - کاٹنا - چیرنا -  
چنگل سے کپڑ لینا - دانٹوں سے  
کاٹ لینا - عقل پھین لینا۔

خِطْب - ناخن - دل کا پردہ - انگور اور مولی  
کا پتہ - جہ - آخِلَاب

خِطْب - سیاہ کچھو - گارا - مٹی - کھجور کی سٹی  
کھجور کا اندیشہ۔

خِطْب - بے مینہ کا بادل - وہ بگاڑ جو مینہ کے  
بادل میں ہو۔

خِطْبَة - خوب فریب دینے والی عورت۔

خِطْبَة - دوسرے سال میں لگا ہوا اونٹ کا  
بچہ - ریت کا ٹیسلہ - سوراخ بھٹی

شراب - شراب جو متغیر ہو گئی ہو۔  
رغز - کسی کے مرنے کے بعد اس کی  
خالی جگہ - ضرورت - غربت - عادت  
جہ - خِلَال

خِطْبَة - تلوار کا میان - منقش چمڑا - جہ -

خِطْل - خِلَال - دوستی اور  
بھائی چارہ - دوست (واحد جمع  
مذکر مؤنث)

خِطْل - دوست عورت - پکی اور سچی دوستی  
جہ - خِلَال

خِلْجَان - (ن ص) آنکھ کا پھوکنار۔

خِلْخَال - پازیب - جہ - خِلْخِيل -  
باریک کپڑا۔

خِلْخَل - پازیب - باریک کپڑا - جہ -

خِلْخِيل

خِلْد - بقا - ہمیشگی - ہمیشہ - پھھوندر  
جہ - مَاجِدَا (غیر لفظی) کنگن

ساتھیوں سے پیچھے رہ جانا۔ جانشین ہونا۔

خِلْف - مختلف۔ مٹھ کرنے والا۔ پیچھے رہ جانے والا۔ اونٹنی کے تھنوں کا علمہ (ٹوٹنا)۔

جہ:۔ اَخْلَاف

خُلْف - بھوٹ۔ وعدہ خلافی۔ خلاف مفروض۔

خَلْف - جو بعد میں آئے۔ نیک بیٹا۔ جہ:۔ اَخْلَاف

خِلْفَة - رات اور دن کی آمدورفت یعنی رات

ہونی۔ دن ہونا۔ کسی کی عدم موجودگی میں

اس کے گھر والوں کے پاس آمدورفت

کرنی۔ کپڑے کا پیوند۔ چارہ جو گرمی

میں اُگے۔ مختلف۔

خَلَق - آدمی مخلوق۔ پیدائش۔ مص (ن)

تراشنے سے پہلے اندازہ کرنا۔ اندازہ

کرنا۔ بے نمونہ کے پیدا کرنا۔ بھوٹ

گھڑانا۔ مگرٹی کو سموار کرنا۔ باس

بنانا۔ سینا۔

خَلَق - (مذکر مؤنث) پرانا۔ پرانی۔ جہ:۔

مُخَلِّقَان - اَخْلَاق

خُلُق - عادت۔ خصلت۔ جہ:۔ اَخْلَاق

خَلَق - (اس کا چکنا۔ چمکدار اور نرم ہونا۔

کپڑے کا پرانا ہونا۔

خِلْفَة - پیدائش۔ آفرینش۔

خَلَد - درز۔ پھین۔ کام میں بگاڑ۔ غلامی

رانے کی پراگندگی اور انتشار۔

خِلَد - کھانا جو دانتوں میں رہ جائے و:۔

خِلَّة -

خِلْو - (مذکر مؤنث کے لٹے) خالی۔ تنہا۔

منفرد۔ جہ:۔ اَخْلَاء

بندہ۔ جہ:۔ خَلِيدَة

خَلَد - حال۔ دل۔ نفس۔

خَلَد - (ن) بڑی عمر کا ہوتے ہوئے یا لوں کا

سیاہ رہنا [ب]۔ (ن) [ب] مقیم ہونا۔

خَلَس - (ن) ایک لینا۔

خَلَص - خالص پانی جو مشک کی درزوں میں

سے ٹپکے۔

خِلَص - دوست۔ چھانٹا ہوا۔ جہ:۔ خُلَصَا۔

خُلَصَان - منتخب دوست (واحد و جمع)

خَلَط - عورت آدمی۔ مص (ن)

ملا۔

خِلَط - احمق۔ ملاجلا۔ ٹیڑھا۔ تیرکان۔

عنصر۔ جہ:۔ اَخْلَاط

خِلَط - مِلَط - گڑ بڑ نسب کا

خِلَطَة - میل جول۔ مردوں سے ملنے جلنے والی

عورت۔

خَلَع - (ن) کپڑے جو تہ موزہ وغیرہ کو اتار

دینا۔ کام سے سبکدوش اور برطرف

کر دینا۔ لڑکے کو عاق کر دینا چوپاؤں

کو کھول دینا [علی] [انعام میں خلعت

عطا کرنا۔

خُلِع - خاندان کا مال لے کر بیوی کو چھوڑ دینا۔

خُلَعَة - عہدت کا اپنے خاندان کو مال دے کر

طلاق لیسنا۔

خِلَعَة - باس جس کو کوئی بڑا آدمی عطا کرے

جہ:۔ خِلَع ممتنع مال۔

خَلَف - پیچھے قدم کی ضد۔ گروہ جو کسی گروہ

کے بعد آئے۔ (بکھی بات) بے فیض

(جانشین) تاغلف۔ مص (ن)

خَلِيج - وہ حصہ پانی کا جو تین طرف سے خشکی سے گھرا ہوا اور ایک طرف سے سمندر سے ملا ہوا ہو۔ آبنائے نمر پھوٹی کشتی - ندی - دریا کی شاخ - بڑا پیالہ - رستی - جہ - خَلِيج - خَلِيجَات

خَلِيسِي - اُجک لینا - خَلِيط - شریک - حقوق ملک میں شریک - خاوند - چچا کا بیٹا - ایک جماعت جن کا کام ایک ہو - ملنے والا - گارا - بھس ملا ہوا - وہ چیز جس میں دوسری چیز کی آمیزش ہو - ہر قسم کے آدمیوں کا ملا جلا گروہ - جہ - مَحَلَط خَلِيطَاء

خَلِيطَة - ایک قسم کے دودھ میں دوسری قسم کا دودھ دو ہونا - مثلاً بکری کے دودھ میں اونٹنی کا - خَلِيطِي - آمیزش کرنے والا - خَلِيع - لڑکا جس کو باپ نے عاق کر دیا ہو اور نکال دیا ہو جس نے اپنے کہنے کو اپنی بدزبانی کے سبب عاجز کر دیا ہو - اپنی جگہ سے موقوف کیا ہوا اور بٹا ہوا - جوئے میں جو شخص اُرجاٹے پُرانا کپڑا - خَلِيف - پہاڑی راستہ - راستہ - تیرنم اور ذہین آدمی - بڑا بادشاہ - خَلِيفَة - قائم مقام - جانشین - بڑا بادشاہ - جہ - خَلِيفَة - خَلِيفَاء

خَلِيفَة - بہت خلاف کرنے والا - خَلِيفَتِي - پورے جسم اور اعضا کا کامل الخلقۃ عادی - [ لائق و قابل - خَلْوَة - (ف) جگہ سے رُطْبَانَا - خَلْوَاب - شریک دینے والی - خَلْوَات - تنہائی - تنہائی کی جگہ جہ - خَلْوَات خَلْوَد - (بقا - ہمیشگی (ن) یا وجود والوں کی سیاہی کے بڑی عمر کا ہونا - ہمیشہ رہنا [ب] کسی جگہ مقیم ہونا - خَلْوَص - گاد جو تیل کے نیچے جم جاتی ہے مص (ن) [من] نجات پانا - سلامت رہنا صاف ہونا [الی] - [ب] پہنچنا - خَلْوَت - خَلْوَتَة (ن) روزے دار کے منزلیں پُورے گنا - دودھ کا مزہ اور بڑے متغیر ہو جانا - پیچھے سے پکرتا - پہاڑ پر چڑھنا - خَلْوَق - ایک قسم کی خوشبو جس کا جزو اعظم زعفران ہوتا ہے - خَلْوَق - خَلْوَقَة - خَلْوَقَة (ث) پرانا ہونا - چکنا اور نرم ہونا - خَلْوَل - (ن) صف (د) ہونا کم ہونا [فی] خاص کرنا - خَلْوَلَة - دوستی - خَلْوَلِي - جو غم اور فکر سے آزاد ہو (مؤنث) خَلِيفَة جہ - خَلِيفَتِي - اَخْلِيَاء

خَلِي - مجرد آدمی جس کے بیوی نہ ہو - (ض) گھاس کا ٹٹا - اکھاڑنا - مزہ میں لگام دینا - لگام تارنا - خَلِيفَة - اونٹنی جس کا زانو کھول کر پھوڑیں (کنایہ ہے طلاق سے) شہد کا چھتہ اصلاح سائنس میں پھوٹے سے چھٹا جزو کسی نرخت یا حیوان کا جہ - خَلَا يَا - خَلَا يَا

خَلِي - (ض) گھاس کا ٹٹا - اکھاڑنا - مزہ میں لگام دینا - لگام تارنا - خَلِيفَة - اونٹنی جس کا زانو کھول کر پھوڑیں (کنایہ ہے طلاق سے) شہد کا چھتہ اصلاح سائنس میں پھوٹے سے چھٹا جزو کسی نرخت یا حیوان کا جہ - خَلَا يَا - خَلَا يَا

خَلِيفَة - بہت خلاف کرنے والا - خَلِيفَتِي - پورے جسم اور اعضا کا کامل الخلقۃ عادی - [ لائق و قابل - خَلْوَة - (ف) جگہ سے رُطْبَانَا - خَلْوَاب - شریک دینے والی - خَلْوَات - تنہائی - تنہائی کی جگہ جہ - خَلْوَات خَلْوَد - (بقا - ہمیشگی (ن) یا وجود والوں کی سیاہی کے بڑی عمر کا ہونا - ہمیشہ رہنا [ب] کسی جگہ مقیم ہونا - خَلْوَص - گاد جو تیل کے نیچے جم جاتی ہے مص (ن) [من] نجات پانا - سلامت رہنا صاف ہونا [الی] - [ب] پہنچنا - خَلْوَت - خَلْوَتَة (ن) روزے دار کے منزلیں پُورے گنا - دودھ کا مزہ اور بڑے متغیر ہو جانا - پیچھے سے پکرتا - پہاڑ پر چڑھنا - خَلْوَق - ایک قسم کی خوشبو جس کا جزو اعظم زعفران ہوتا ہے - خَلْوَق - خَلْوَقَة - خَلْوَقَة (ث) پرانا ہونا - چکنا اور نرم ہونا - خَلْوَل - (ن) صف (د) ہونا کم ہونا [فی] خاص کرنا - خَلْوَلَة - دوستی - خَلْوَلِي - جو غم اور فکر سے آزاد ہو (مؤنث) خَلِيفَة جہ - خَلِيفَتِي - اَخْلِيَاء

جہ: خُلُق - خُلُقَاء

خَلِيقَة - طبیعت - عادت - حیوانات - آدمی  
پورے جسم کی عورت - جہ:-

خَلَائِق

خَلِيل - دوست - جہ:- اَخْلَآء - اَخِيَلَة -

خُلَان سچا دوست (مؤنث)

خَلِيْلَة جہ:- خَلِيْلَات

خَلَائِل حضرت ابراہیم علیہ السلام  
کا لقب - آراپار سوراخ - ڈبلا پتلا  
اور نحیف - عزیز آدمی -

خَلِيْلِك تیرا دل - تیری ناک -

خ - م

خَمَد - (ن) ابھی طرح تعریف کرنا - بھاڑو  
دینا - صاف کرنا - دودھ دہنا -

خُم - گڑھا - مرغی کا دربہ - جہ:- خِمَمَة

خِم - خالی باغ -

خُمَامَا - سر میں نشہ کا اثر - سرگرائی - آدمیوں  
کی بھیڑ - جھگڑنا -

خُمَامَا - شراب پیچنے والا -

خِمَامَا - اور ڈھنی - دوپٹہ - غلات - ہر وہ چیز  
جو کسی چیز کو ڈھک لے - جہ:-

اَخِيَمَة - خُمَا

خَمَارَة - میسکہ - شراب خانہ -

خُمَامَا - پانچ پانچ -

خُمَامَا سَبِي - پانچ بالشت کا لڑکا - پانچ حرفوں کا  
کلمہ

خُمَامَا شَة - خراش - جہ:- خُمَامَا شَات

خُمَامَا ط - مچھوننے والا - کبابی -

خَمَاع - تھوڑا سنگراہی

خَمَال - سچا اور خالص دوست - جوڑوں کا  
ایک مرض -

خَمَالَة - شتر مرغ کا پتہ -

خَمَامَة - کوڑا کرکٹ - روٹی کا ٹکڑا - ریزہ -

خَمَان - کمر - در نیزہ -

خَمَانَة - خَمُوْد - (ن) میں آگ موجود ہوتے

ہوئے اس کا شعلہ بپ جانا - مریض  
کا بے ہوش ہونا یا مرنے جانا - بخار  
کی شدت کم ہونا -

خَمَس - شراب - انگوری شراب - جہ:-

خَمُوْس (میں) (ض ن) پوشیدہ کرنا

پوشیدہ رکھنا - شراب پلانا - آٹے

وغیرہ میں خمیر اٹھانا - [من] کسی  
سے شرم کرنا -

خَمَس - (م) اصلی حالت سے بدل جانا -

[من] چھپ جانا - پوشیدہ ہونا -

خَمَس - ناتجربہ کار -

خَمَس - جس جگہ شراب کی کثرت ہو جس کو

سرگرائی اور خمار ہو -

خَمَس - دوپٹہ - اور ڈھنی -

خَمَس - آدمیوں کی بھیڑ - جو چیز آدمی کو

ڈھک لے، جیسے پھت وغیرہ -

پوشیدگی - غفلت -

خَمَسَة - دوپٹہ اور ڈھنے کی ہیئت - پوشیدگی

غفلت -

خَمَسَة - بو - آدمیوں کی بھیڑ -

خَمَسَة - جس کی لاک سے خمیر کیا جائے -

کھجور کے پتوں کی چٹائی - اوٹنا -

خوشبو۔ سرگرائی۔

خَمْرِي - کالانگ مائل بسرچی۔

خُمُس - پانچ میں کا ایک۔ پانچواں حصہ۔

جزء۔ اَخْمَاس

خُمُس - (ن) پانچواں حصہ لیتا (رض) پانچواں ہونا۔ چار میں شامل ہو کر ان کو پانچ کر دینا۔

خَمْسَة - پانچ

خَمْسُون - خَمْسِيْن - پچاس۔

خَمَش - خَمُوش - (ن) ص) مزہیل دنیا۔

لہا پنج مارنا۔

خَمَص - (ن) بھوک کا کسی کو دلا کر دنیا پیٹ

خالی ہونا۔ زخم کا ورم۔ دُور ہونا۔

خَمَصَان - بھوکا۔ چھوٹے پیٹ کا۔ (مؤنث)

خَمَصَانَة - جزء۔ خَمَاس - جس کے

پاؤں کا تلوا سبک ہو۔

خَمَصَة - بھوک۔

خَمَط - ترش۔ کر دوا۔ کیلا۔ ایک بدمزہ

ادر کر دوا پھل۔ پیلو۔ مص (ن)

ابھی یا بُری بودیتا (رض) بھونسا

ملنا۔

خَمَج - خُمُوج - (ف) سنگڑا کر چلنا۔

خَمَج - بھیڑ یا چور۔ جزء۔ اَخْمَاع

خَمَل - شتر مرغ کے بال دپر۔ قالین وغیرہ

کار دواں۔

خَمَن - بدبو۔

خَمَن - (ن) انکل سے بات کہنا۔ قیمت لگانا

اندازہ لگانا۔

خَمُود - جہاں آگ دبا دی جائے۔

خَمُوش - چمچ

خُمُوص - (ن) زخم کی سوجن بیٹھ جانی۔

خُمُول - (ن) غیر مشہور اور گناہم ہونا۔

پوشیدہ ہونا۔

خَمُود - (رض) گوشت کا بدبودار ہو جانا۔

خَمِيْر - مثلاً آٹے کا خمیر۔ خمیری روٹی۔

خَمِيْر - بہت زیادہ شراب پینے والا۔

خَمِيْرَة - خمیر۔ خمیری روٹی۔

خَمِيْس - لشکر۔ پنجشنبہ۔ جزء۔ اَخْمِساء

اَخْمِساء - پانچ گز کا۔

خَمِيْص الحَسَاء سبک اور چھوٹے پیٹ کا۔

خَمِيْصَة - خمیس کا مؤنث۔ ایک کالا کپڑا ہوتا

ہے مربع۔ جزء۔ خَمَاصِص -

خَمِيْل - نرم غذا۔ گہرا بدل۔ روئیں دار کپڑا

خَمِيْلَة - جہاں سبزہ خوب گنجان ہو۔

روئیں دار چادر۔ شتر مرغ کا پُڑ۔

جزء۔ خَمَاصِیل -

خَمِيْمَة - جس کی تولین کی جائے۔ تازہ دودھ۔

## خ - ن

خَب - خالی کشتی۔

خَب - (ن) کسی کا مال لے لینا۔ تنہ دار

درخت کا کاٹنا۔

خَبَاب - لمبا۔ بے وقت آدمی۔

خَبَابَتَان - بانسے کے پاس ناک کی دو طرفیں۔

خَبَائِس - بدنام۔ بد صورت۔ شیر (مؤنث)

خَبَائِصَة - جزء۔ خَبَائِيس

خَبَاثُ النَّوْب - کپڑے کی شکنیں۔

خَبَاذِيْر - گلیاں جو گلے میں پیدا ہو جاتی ہیں۔

خِئْتَلَة - بدن کا بھرا ہوا ہونا۔  
خِئْتَلِیْد - شاعر۔ مقرر۔ سردار۔ ج:۔

خِئْتَلِیْز -

خِئْتَلِیْجَة - تکبر و نخوت۔

خِئْتَلِیْز - سور۔ ج:۔ خِئْتَلِیْز -

خِئْتَس - خِئْتَس - خِئْتَس - (ن ص)

پیتھے کر دینا [ب] غائب کر

دینا۔ پوشیدہ ہو جانا۔ [ع ن]

پچھے رہ جانا۔

خِئْس - ناک کا چپٹا پن۔

خِئْس - پچھے ہٹ جانے والے۔ پھر جانے

والے۔ ستارے یا زحل و مشتری

درمیان و عطارد و زہرہ۔ ۱۵۔

خِئْس

خِئْصِر - سب سے چھوٹی انگلی۔ ج:۔ خِئْصِر

خِئْط - (ن ص) رنجیدہ کرنا۔ تم گین کرنا۔

خِئْط - گلا گھونٹا ہوا۔ گلا گھونٹنا۔

خِئْوَخ - اُخْوَخ حضرت ادریس علیہ السلام

کا نام۔

خِئْوَص - خِئْص - گوشت کا سڑ جانا۔

خِئْوَص - شیر زر۔

خِئْوَص (ف) عاجزی کرنا۔ ذلیل ہونا۔

خِئْصَا - (س) فحش کہنا۔

خِئْصِیْتَة - عنف۔

خِئْصِیْق - گلا گھونٹا ہوا۔

خِئْصِیْن - ناک میں بولنا۔ ناک میں رونایا ہنسنے۔

خ - و

خِوَء - (ن ص) گھر کا مندم ہو جانا۔ خالی اور

کٹھ مالا۔ خنزیر یعنی سونے کی جمع۔

خِئْتَس - شیطان۔ چھپ جانے والا۔

خِئْتَف - (ن ص) اونٹ کا دوڑنے میں اپنے سوار

کی طرف سر مائل کرنا۔

خِئْتَق - ایک بیماری جس سے سانس گھٹتا ہے

خِئْتَق - (د) کار۔ گلے میں گھونٹنے کی جگہ

مینڈوا۔ رسی جس سے گلا گھونٹیں۔

اونٹوں کا زکام۔ ناک کی ریزش۔

خِئْتَان - خوش عیشی۔

خِئْبِیْتَة - تازہ انداز اور نرم آواز والی لڑکی۔

گردن جھکانے ہوئے بیٹھنے والی۔

بہنی کہ اپنی جگہ کو نہ چھوڑے۔

خِئْبِیْت - نصیبت۔

خِئْتَف - (ن ص) مذاق کرنا۔

خِئْتَف - (س) نرم و شکستہ اور لچکدار

ہونا۔

خِئْتَف - سست و شکستہ۔ نرم و لچکدار۔

خِئْتَف - شکستگی۔ دہرا پن۔

خِئْتَف - نرم و لچکدار ہونا۔

خِئْتَفَة - عنف (اس کا استعمال صرف نذاکے

موقع پر ہوتا ہے)۔

خِئْتَفَا - جس میں مرد اور عورت دونوں کی علامتیں

ہوں ج:۔ خِئْتَفَا - خِئْتَفَا

خِئْتَفَا - بہت دووہ دینے والی اونٹنی۔

خِئْتَفَا - پھصلت (آدمی)

خِئْتَفَا - پرانی شراب۔

خِئْتَفَا - گڑھا۔ قلعہ یا لشکر گاہ کے

گرد۔ کندہ کا معرب۔

خِئْتَفَا - خندق کھودنا۔

نازک و جوان عورت ج:۔

خَوَدَات

خَوَدَة - خود یعنی لوہے کی ٹوپی جو جنگ کے موقع پر سر کی حفاظت کے لئے پہنی جاتی ہے۔ ج:۔

خَوَدَة

خَوَدَاتُ النَّاسِ - خدمت گار لوگ۔

خَوَس - بست زمین

خَوَس - خَوَس (س) کمزور اور شکستہ ہونا

خَوَس - گر جا کے پادریوں کا مقام

خَوَس - کاہن ج:۔ خَوَدَانَة

خَوَس - (ن) بے رواج ہوجانا۔ عند شکنی کرنا

[ب] کسی کے ساتھ غداری کرنا۔

خَوَش - کوکھ مصل (ن) کسی چیز کو لے

لیسنا [ب] کسی کے نیزہ مارنا

خَوَص - (س) آنکھوں کا اندر دھنس جانا۔

خَوَصَة - کھجور کا پتہ۔ ج:۔ خَوَص -

خَوَص - بیہودہ گرتی۔ بیک بیک (ن) پانی

میں گھسنا۔ پانی ملا دینا [ف] کسی

کام میں یا کسی بات میں مصروف و

منہمک ہونا۔

خَوَف - ڈر (س) ڈرنا۔ یعنی طور پر جانا۔

(ن) ڈر میں کسی پر غالب ہونا۔

خَوَق - (س) وسیع اور کشادہ ہونا۔

خَوَل - خَوَل - خَوَل (ن) [و] اچھی طرح

نگرانی اور خبر گیری کرنا۔

خَوَل - غلام۔ باندی۔ نوکر۔ چاکر۔ خدمتگار۔

ملازم۔

خَوَلَة - ہرنی

خَوَلَة - مال کی طرف کی قرابت۔

فارغ ہونا۔ بھوکا ہونا۔ چمقنا سے

آگ نہ نکلنا۔ ستاروں کا پھیننے

کے قریب ہونا۔

خَوَاجَة - مسٹر (د)

خَوَاس - گائے، بکری اور بھین کی آواز تیروں

کی آواز مصل (ن) گائے یا بچھڑے

کا آواز نکالنا۔ رمبھانا۔

خَوَاس - بزدل اور کمزور آدمی اور ہر چیز نرم و

نازک۔ لوہا یا پتھر جس میں سے آگ

نکلے۔ نسب بیان کرنے والا۔ ج: خَوَس

خَوَاسُ الْعِيَان - تیز اور آسانی سے مرنے والا

گھوڑا۔

خَوَاف - آواز و شریاد۔

خَوَالِف - پیچھے رہنے والیاں۔ و: خَوَالِفَة

خَوَان - جس پر رکھ کر کھانا کھایا جائے۔ میر۔

سینٹی وغیرہ ج:۔ آخَوَنَة - خَوَن -

خَوَان - بڑا دانا باز خیانت کرنے والا۔

خَوَب - (ن) غریب ہوجانا۔ نادار۔ مسکین ہو

جانا۔

خَوَبَة - بھوک۔ بے آب و گیاہ مقام۔

خَوْت - خَوْتَان - (ن) عہد شکنی کرنا۔ عمر

رسیدہ ہوجانا۔ مال گھٹانا۔ باز کا

شکار پر لپکنا۔

خَوْت - (س) ٹھانے سے پیٹ بھر جانا اور

ڈھیلا ہوجانا۔

خَوَخَة - روشندان۔ بڑے دروازہ میں

چھوٹا دروازہ۔ شگفتا لو۔ ج:۔

خَوَخ -

خَوَوَد - خوبصورت اور سٹول بدن کی

بہتر۔  
 خیر۔ شرف و کم۔ اصل۔ مہبت۔  
 خیر۔ (رض) کسی کو دوسرے پر فضیلت  
 دینا۔ انتخاب کرنا۔ نیکی میں  
 غالب آنا۔  
 خیر۔ بہت بھلائی کرنے والا۔ دیندار۔  
 اچھا کام کرنے والا۔ (مؤنث) خیرۃ  
 ج:۔ اختیار۔ اختیار  
 خیرات۔ نیکیاں۔ بھلائیاں۔ پسندیدہ اور  
 منتخب چیزیں۔ نیک عورتیں۔  
 بہت بھلائی سے پیش آنے والیاں  
 و:۔ خیرۃ۔  
 خیرۃ۔ نیک عورت۔ بہت خیر والی۔  
 چھانٹی ہوئی۔  
 خیرۃ۔ اختیار۔ بھلائی۔ منتخب۔ پسندیدہ  
 خیرۃ۔ اختیار (نوع کے لئے)  
 خیری۔ نیک مرد۔ مقبول۔ بہت خیر والا۔  
 خیری۔ نیک عورت۔ مقبول۔  
 خیریۃ۔ فضل۔ عمدگی۔ تدم۔ عثمانی سکوں  
 کی ایک خاص قسم۔  
 خیرسراں۔ چتو۔ یعنی کشتی چلانے کی کڑی۔  
 مرزم کڑی جو کہ خمدار ہو۔ بانس۔  
 بید۔ زسل۔ ج:۔ خیراس  
 خیس۔ خیسٹان۔ (رض) جھوٹ بولنا۔  
 [ب] لے و فانی کرنا۔ عمد توڑنا۔  
 خیس۔ خیسٹہ۔ شیر کی کھار۔ ج:۔ خیس  
 خیش۔ بڑا بورہ۔ تھیلا۔ (د)  
 خیشوم۔ ناک کا بانسا۔ ناک کی جڑ۔ ناک کا  
 اندرونی حصہ۔ ج:۔ خیشیم۔

خودون۔ بہت خیانت کرنے والا۔  
 خودی۔ سختی۔ خود آیت (س) فارغ ہونا محالی  
 ہو جانا۔

## خ۔ ی

خیر۔ کھرا۔ کڑی۔ پسندیدہ و مقبول  
 منتخب مال مذکر و مؤنث واحد  
 (وجہ)۔  
 خیر شنبو۔ الماس۔ خیر شنبو۔  
 خیر۔ سوئی۔ ڈورہ۔ راستہ۔ گزرگاہ  
 خیر۔ درزی۔  
 خیر۔ کپڑا سینا۔  
 خیر۔ صورت جو ذہن میں آئے۔ حالت  
 بیداری میں یا خواب میں آئینہ  
 میں جو صورت نظر آئے۔ سیاہ  
 کبل جسے کھیت میں کسی کڑی پر پیٹ  
 دیتے ہیں۔ تاکر جانور اُسے آدمی  
 سمجھ کر بھاگ جائیں۔ ج:۔  
 آخیرۃ۔  
 خیر۔ ڈیرے۔ وا:۔ خیرۃ۔  
 خیر۔ خانت۔ خانت۔ دغان) دھوکا  
 اور بے ایمانی کرنا۔ عمد شکنی کرنا۔  
 خیر۔ ناامیدی۔ (رض) ناامید ہو جانا۔  
 نقصان اور ٹوٹے میں ہونا۔ ناشکر  
 ہونا۔ مطلوب حاصل ہونا۔  
 خیر۔ بھلائی۔ جو چیز سب کو مر خوب ہو جیسے  
 عقل، عدل، ج:۔ خود مال۔ گھوڑے  
 اچھا آدمی۔ بانیض۔ ج:۔ اختیار  
 خوب صورت۔ بہت اچھا۔



خَيْص - (ص) ایک آنکھ کا بڑا اور دوسری کا چھوٹا ہونا۔  
 خَيْص - (ص) ایک آنکھ کا بڑا اور دوسری کا چھوٹا ہونا۔  
 خَيْط - تاکہ وہ عاری جہ:۔ اَخْيَاطٌ خَيْوُطٌ  
 خَيْوُطَةٌ ورزی کا پیشہ۔ مص (ص)  
 کھڑا سینا۔ سانپ کا زمین پر چلنا۔  
 خَيْطُ التَّرْقِيَةِ - گردن کا مہرہ۔ حرام مغز۔  
 الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ - صبح صادق۔  
 خَيْطٌ بَاطِلٌ - مراب۔ کھڑی کا تار۔ روشندان  
 میں سے آنے والی روشنی۔  
 الْخَيْطُ الْأَسْوَدُ - صبح کاذب۔ رات کی تاریکی  
 خَيْطَةٌ - منخ۔ رسی۔ مص (ص) [واللّٰہ]

خَيْف - (ص) ایک آنکھ کا نیلا اور دوسری کا سیاہ ہونا۔  
 خَيْف - کنارہ۔ پہاڑ کی ہر بندی دستی۔  
 خَيْفَةٌ - ڈر۔ خوف جہ:۔ خَيْفٌ - مص  
 (س) ڈرنا۔

خَيْل - گھوڑوں کا گروہ۔ سواروں کی جماعت  
 اس کا واحد نہیں ہے) جہ:۔ اَخْيَالٌ  
 خَيْوَلٌ - مص (س) گمان کرنا۔  
 خَيْلٌ - خَيْلَةٌ - خَيْرٌ - خَيْرٌ - خَيْرٌ  
 خَيْلٌ - وہ عورت جس کے چہرہ پر خال بہت  
 ہوں۔

خَيْلٌ - خَيْلَةٌ - خَيْرٌ - خَيْرٌ - خَيْرٌ  
 خَيْلٌ - وہ عورت جس کے چہرہ پر خال بہت  
 ہوں۔

خَيْلٌ - خَيْلَةٌ - خَيْرٌ - خَيْرٌ - خَيْرٌ  
 خَيْلٌ - وہ عورت جس کے چہرہ پر خال بہت  
 ہوں۔

خَيْلٌ - خَيْلَةٌ - خَيْرٌ - خَيْرٌ - خَيْرٌ  
 خَيْلٌ - وہ عورت جس کے چہرہ پر خال بہت  
 ہوں۔

خَيْلٌ - خَيْلَةٌ - خَيْرٌ - خَيْرٌ - خَيْرٌ  
 خَيْلٌ - وہ عورت جس کے چہرہ پر خال بہت  
 ہوں۔

خَيْلٌ - خَيْلَةٌ - خَيْرٌ - خَيْرٌ - خَيْرٌ  
 خَيْلٌ - وہ عورت جس کے چہرہ پر خال بہت  
 ہوں۔

خَيْمٌ - طبیعت و خصلت۔  
 خَيْمَةٌ - گول اور مدور مکان۔ منڈیا یعنی  
 چھوٹا سا چھتہ کا مکان۔ ہر وہ گھر  
 جو درخت کی شاخوں وغیرہ سے  
 بنا لیا جائے۔ جہ:۔ خَيْمٌ - خَيْمٌ  
 خَيْمَاتٌ  
 خَيْبِيٌّ - خیمہ بنانے والا یا بیچنے والا۔

د - د

دَاءٌ - بیماری۔ جہ:۔ اَدْوَاءٌ  
 دَاءُ الدَّائِبِ - زیادہ بھوک لگانے کی بیماری  
 دَاءُ الْأَسَدِ - کوٹھ

دَاءُ التَّغْلِبِ - بیماری جس سے سر کے بال  
 گر جاتے ہیں۔ گنج کی ایک قسم۔  
 دَاءُ الْكَلْبِ - دیوانگی جو دیوانے کے  
 کانٹے سے پیدا ہو۔

دَاءُ الْحَيْبَةِ - بیماری جس سے سر کے بال گر  
 جاتے ہیں اور جلد اترنے لگتی ہے  
 گنج کی دوسری قسم۔

دَاءُ الْفَيْسَلِ - بیماری جس سے پنڈلیاں اور  
 پاؤں موٹے ہو جاتے ہیں۔  
 دَاءُ الْهَلْبُوكِ - جوڑوں کا درد۔

دَاءُ الطَّبِي (بہ) دَاءُ الطَّبِي - اس کی صحت بہت اچھی ہے  
 (کیوں کہ ہرن میں کوئی بیماری نہیں ہے)  
 دَاءٌ - بیمار آدمی۔

دَاءِبٌ - کام۔ عادت۔ مستمرہ۔ مص (ص)  
 کام میں مشقت اور تکلیف کا سامنا  
 ہونا۔ بہت ہانڈنا۔ دفع کرنا۔ چلتے  
 رہنا۔

دَاءِبٌ - کام۔ عادت۔ مستمرہ۔ مص (ص)  
 کام میں مشقت اور تکلیف کا سامنا  
 ہونا۔ بہت ہانڈنا۔ دفع کرنا۔ چلتے  
 رہنا۔

دَاخِر - ذلیل - خوار۔  
 دَاخِل - اندر آنے والا - داخل ہونے والا۔  
 دَاخِلَةُ الْأَزَارِ - ازار کا اندرونی حصہ جو جسم سے لگے۔  
 دَاخِلَةُ الْأَرْضِ - زمین کی مخفی چیز۔  
 دَاخِلَةُ السَّرَجِ - آدمی کی نیت اور مذہب پر مشیدہ ارادہ۔ ج:۔ دَاخِل  
 دَاخِلِي - وہ طالب علم جو بورڈنگ میں رہے بورڈر (د)۔  
 دَاخِلِيَّة - عجم ڈپارٹمنٹ - داخلی معاملات کا محکمہ۔ (د)  
 دَاذَاء - دَاذَاءَةٌ - بہت اندھیری رات۔  
 دَاذَاء - مہینہ کی آخری راتیں۔ ج:۔  
 دَاذِي - گھر - احاطہ - بستی (د) آفس دفتر۔ ج:۔ آذِي - آذِي - دِيَار  
 دِيَارَةٌ - دِيَارَات - دِيَارَان  
 دُوْرَان - دُوْرَات - آذُوْرَة - آذُوْرَة  
 دَارُ الْأَنْبَاءِ - آثارِ قدیمہ کا عجائب خانہ (د)  
 دَارُ الْفَيْحِ - عجائب خانہ (د)  
 دَارُ السَّلَاهِ - بہشت۔  
 دَارُ الصَّنَاعَةِ - ٹیکنیکل اسکول (د)  
 دَارِ صِنِّي - دارِ صِنِّي  
 دَارُ الضَّرْبِ - مَسَال (د)  
 دَارِ قَلْقَلِ - پیلل دراز۔  
 دَارِب - (ب دخی) کسی چیز کا عادی - حریش  
 دَارِبَةٌ - قلعند اور ہوشیار عورت۔ طبلہ بجانے والی عورت۔ ج:۔ دَوَارِب

دَابَّة - قدم سے چلنے والا جاندار۔ سواری کا جانور۔ ج:۔ دَوَات - دَابَّةُ السُّوءِ - کتا - گدھا وغیرہ۔  
 دَابَّةُ الْأَرْضِ - ایک عجیب جانور ہے جو تروب قیامت میں ظاہر ہوگا۔  
 دَايسِر - پیچھے چلنے والا - ہرچیر کا آخر - جوط۔ تیر جو نشانہ سے پار ہو جائے۔  
 دَايِرَةٌ - ریت کے ٹپے کا آئرن۔ شکست۔ بدفالی - کشتی کا ایک داڑ۔ ج:۔ دَوَايسِر - گرانی - بھاری پن - میلا کھیلا پن - حص (ف) میلا ہونا۔ میلا کرنا - کھانا۔  
 دَايْتَاء - لونڈی۔ ج:۔ دَايْت - دَايْتِر - تباہ و برباد۔ غامض۔ رنگ لگی ہوئی تلوار۔  
 دَايْح - گدھے یا اونٹ کرایہ پر دینے والا ملازم۔ نوکر۔ تاجر۔ اس کا استعمال مفرد و جمع ہر دو کے لئے ہوتا ہے۔ ج:۔ دَايْحَةٌ - دَايِحِن - بلی ہوئی بکری۔ پانی کھینچنے والا اونٹ۔ ج:۔ دَوَايِحِن - دَايِحْتَةٌ - خوب لگاتار - برسنے والی بارش۔  
 دَايِحِس - ناخن اور گوشت کے درمیان زخم یا دانہ جس کی وجہ سے ناخن گر جاتا ہے۔ عوب کے ایک مشہور گھوڑے کا نام جس کی وجہ سے ذبیان اور عیس میں چالیس سال تک بازار جنگ گرم رہا۔  
 دَايِحْتَةٌ - باطل ہونے والی۔

دَارِیْق - گھر - پہاڑوں کے درمیان کشادہ زمین  
 وڑھ - چاند کا ہالہ - سختی - بلا -  
 جہ: دُوس - دَارِیْق -  
 دَارِیْس - حائض عورت - مٹا ہوا راستہ -  
 اور کھنڈر جہ: دُوَارِیْس -  
 دَارِیْش - سیاہ کھال -  
 دَارِیْع - زرہ پوش -  
 دَارُ الْعِزَّة - محتاج خانہ (د)  
 دَارُ الْفُنُون - اکاڈمی - یونیورسٹی (د)  
 دَارُ الْکُتُب - کتاب گھر - کتب خانہ (د)  
 دَارِیْم - وہ آدمی جس کے اعضا کی ہڈیاں گوشت  
 سے چھپ گئی ہوں -  
 دَارِیْق - خوشبو بیچنے والا مرد جو گھر میں بیٹھا رہے  
 (کہیں آئے نہ ملے) - خداوند نعمت  
 دَارِیْتِیۃ - مرد جو ہر وقت گھر میں گھس رہے -  
 دَارِیْن - نیا کپڑا جسے ابھی پہنا نہیں - نیا گھر جس  
 میں ابھی سکونت اختیار نہیں کی گئی -  
 دَاع - بلانے والا - جہ: دُعَاة -  
 دَاعِیْب - خوش مذاق آدمی - مسخرہ -  
 دَاعِیْر - روی - خراب - نالائق -  
 دَاعِیْث - بے وقوف آدمی -  
 دَاعِی اللہ - موزوں - اذان دینے والا -  
 دَاعِیْتِیۃ - رطائی میں گھوڑوں کی آواز سیب  
 دَاعِیْصَة - گول ہڈی جو سر یا زانو میں متحرک رہتی  
 ہے - جہ: دَوَاعِیْص -  
 دَاعِیۃ - دشمن کی طرف گزر کرنے والا لشکر  
 جہ: دَوَاعِیۃ  
 دَاعِیْف - ہٹانے والا - دفع کرنے والا -  
 دَاعِیْقَة - ندی - جاری نہر - سیلاب - جہ:

دَاوِیْح - قوت دانہ جو فصل کو  
 دفع کرے -  
 دَاوِیْن - کودنے والا - اُچھلنے والا پانی -  
 دَاوِیْفہ - مسافر -  
 دَاوِیْع - جو قبیل معاش کی طلب کرے -  
 دَاوِیۃ - مسلمانوں کی عیب گوئی کرنے والا -  
 دَاوِیْب - انکاری جو نہ بیچے -  
 دَاوِیۃ - ناز -  
 دَاوِیْح - بادل جس میں پانی بہت ہو - جہ: دَاوِیْح  
 دَاوِیْف - بھاری بوجھ اُٹھانے کی وجہ سے  
 پاس پاس قدم رکھنے والا - جہ: -  
 دَاوِیْف -  
 دَاوِی - جو کتوں میں سے ڈول کھینچے اور  
 خالی کرے - جہ: دَاوِیۃ  
 دَاوِیْتِیۃ - رھٹ - رھٹ کا ڈول - کھجڑوں  
 کا خوشہ لٹکا یا ہوا - جہ: دَاوِیۃ  
 دَاوِی - عیب -  
 دَاوِیۃ - دریا - ندی -  
 دَاوِیْس - سخت تاریک -  
 دَاوِیِع - ترمیمی -  
 دَاوِیْعۃ - سر کی چوڑ جس سے خون بہ نکلے -  
 دَاوِیْعۃ - سر کی چوڑ جو دماغ تک پہنچ گئی ہو -  
 دَاوِیۃ - خراب - بے فیضی -  
 دَاوِیْکَة - سختی - بلا - مصیبت - جہ: -  
 دَاوِیۃ  
 دَاوِیۃ - سر توڑنے والا پتھر کہ چوڑ کو دماغ  
 تک پہنچا دے -  
 دَاوِیۃ - بہت گرم -  
 دَاوِیْبَة - سر کی چوڑ جس سے خون نکلے اور

دَاوِیۃ

شانہ کے پنج کا حصہ۔ بیلوں کے سینہ کی ہڈیاں۔ دایبۃ واحد۔ جہ۔  
دایبات۔  
دایب۔ کسی کام میں مشقت رکھنے والا۔  
چلتے رہنے والا۔

دایبان۔ رات دن۔

دایبۃ۔ بیمار عورت۔

دایبۃ۔ بلند درخت۔ جہ۔ دو امح۔

دایبۃ۔ تاریک۔

دایبۃ۔ گول خٹ۔ ہر چیز جو دوسری چیز کو

گھیر لے جلتے۔ شکست۔ ہزیمٹ

(د) صیغہ۔ محکمہ سرکلی۔ ڈیپارٹمنٹ

جہ۔ ددایب۔

دایبۃ الہندیۃ۔ میونسپل آفس (د)

دایبۃ السیور۔ جنگی خانہ (د)

دایبۃ الشرطہ۔ کوتوالی (د)

دایبۃ العسومہ۔ انسائیکلو پیڈیا۔ (د)

دایبۃ۔ کھلیان کی جگہ۔ کھلیان کھٹنے والا۔

دایبۃ۔ چور۔ جہ۔ دایبۃ

دایبۃ۔ بے وقوف آدمی (بے قیمت (ساز)

رائے گان۔

دایبۃ۔ ہمیشہ برقرار۔ ساکن۔

دایبۃ۔ قرض دار۔ قرض خواہ۔

دایبۃ۔ بنی اسرائیل کے ایک حلیل القدر

پیغمبر جو خوش الحانی میں مشہور تھے

زبور آپ پر نازل ہوئی۔

## د - ب

دب۔ ریچھ (موزٹ) دبۃ جہ۔

بے نہیں۔

دایب۔ کینہ اور بغیل

دایبۃ۔ دانگ۔ درم کا چھٹا حصہ۔

دایبۃ۔ دایبۃ۔ ایک پیغمبر علیہ السلام کا

نام (اسم عجمی)

دایبۃ۔ دانگ۔ درم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے

الحق چور۔ ڈبلا کینہ۔

دایبۃ۔ ایک پیغمبر علیہ السلام کا نام۔

دایبۃ۔ نزدیک۔ قریب۔ میوہ جس پر ہاتھ

آسانی سے پہنچ جائے۔ کینہ آدمی

جہ۔ ددایبۃ

دایبۃ۔ موزٹ کا صیغہ۔ قریب۔ میوہ

درخت میں لگا ہوا جس پر ہاتھ پہنچ

سکے۔

دایبۃ۔ (ت) بھڑکیے کا قریب دینا۔

رواہ بازی کرنا۔

دایبۃ۔ سربستہ دودھ۔ بہت کھانا۔

طعام کشیر۔

دایبۃ۔ ایک پیغمبر علیہ السلام کا نام۔

دایبۃ۔ مرد سرگشتہ۔ حیران۔ پریشان۔

دایبۃ۔ چکنی۔ میل ملی ہونی ڈارھی۔

دایبۃ۔ شیر۔ درندہ۔ عقل مند اور تیز فہم

آدمی۔ جہ۔ ددایبۃ

دایبۃ۔ آنت۔ سختی سخت اور دشوار

کام۔ جہ۔ ددایبۃ

دایبۃ دھوا۔ سخت آفت۔

دایبۃ دھویہ۔ سخت آفت۔

دایبۃ دھیاء۔ سخت آفت۔

دایبۃ۔ پشت کے مہرے۔ بیلوں کے ہرو

دَبّج - نقش و نگار مص (ن) منقش کرنا  
 مزین کرنا -  
 دَبّآب - ڈھول - جہ - دَبّآب  
 دَبّآب - سخت زمین پر کم سے چلنے کی آواز  
 یا جو اس کے مشابہ ہو - دھپ دھپ  
 دَبّبر - بہت مال -  
 دَبّبر - جس چوپایہ کی پیٹھ زخمی ہو - (مؤنث)  
 دَبّبر - آڈیٹر  
 دَبّبر - خلات قبل - ہر چیز کا پھیلا ہوا  
 گھر کا کونہ - مہرز - جہ - آڈیٹر  
 دَبّبور الشہر - آخراہ -  
 دَبّبر - شہد کی مکھوں کا انبوہ - جہ -  
 آڈیٹر - دَبّبور بعدیں آنے والا -  
 بہت مال - مص (ن) پیٹھ پھینا -  
 پھیپھے پھرتا ہے جانا کسی کے مرنے  
 کے بعد اس کی بات بیان کرنا - بھڑبھڑا  
 کا چلنا - تیر کا نشانہ سے پار ہو جانا  
 بوڑھا ہو جانا -  
 دَبّبر - (س) چوپایہ کی پیٹھ کا زخمی ہونا -  
 دَبّبران - چاندنی ایک منزل جو برج ثور میں ۵  
 ستاروں پر مشتمل ہے -  
 دَبّبر - مفلسی - انجام کار - لڑائی میں شکست  
 ٹکڑا - جہ - دَبّبر - دَبّبر  
 دَبّبر - چوپایہ کی پیٹھ کا زخم - جہ - دَبّبر  
 آڈیٹر  
 دَبّبر - ضد قبل یعنی جس طرف پشت کی جائے  
 دَبّبری - جو رائے کہ مقصد فوت ہو جانے کے  
 بعد سمجھ میں آئے - نماز کہ جو اخیر  
 وقت میں پڑھی جائے -

آدَبّاب دَبّبہ  
 دَبّبہ - دَبّیب (ض) آہستہ چلنا - سرایت  
 کرنا -  
 دَبّبہ - (جنس) کدو - دَبّبہ ایک کدو -  
 دَبّبہ - آہستگی سے چلنے والا - ایک مضبوط  
 قسم کا خول کہ جنگ کے موقع پر اس  
 میں گس کر قلعہ کی دیوار کے نیچے بیٹھ  
 جاتے ہیں اور دیوار کو توڑ کر اس میں  
 سرنگ لگاتے ہیں - (د) ٹینک -  
 مسلح موٹر -  
 دَبّباج - دیباشر دوش -  
 دَبّبایب - موٹا اور بلند آواز آدمی -  
 دَبّباس - کھیت کی کاریاں (دَبّبہ ایک)  
 دشمنی کھیت میں جانے والی - پانی  
 کی گولیں - حوادث و مصائب -  
 دَبّباس - ہلاک -  
 دَبّبار - بدہ کا دن (لغت قدیم میں) -  
 دَبّباع - کچے چڑے کو درست کرنے والا -  
 دَبّباع - (ن - ف - جن) کچے چڑے کو درست  
 کرتا - کپڑے کو سبز رنگنا -  
 دَبّباع - (ن - ف - جن) کچے چڑے کو درست  
 کرنے کا پیشہ کرنا - کچے چڑے کو درست  
 کرنا - کپڑے کو سبز رنگنا -  
 دَبّب - بالوں کی کثرت - بگری کا شروع کا  
 پتہ - شروع کے پھوٹے پھوٹے نرم بال -  
 دَبّبہ - بہت بالوں والی عورت -  
 دَبّبہ - کدو - کھی کارتن - ایک بار آہستہ  
 قدم رکھنا جہ - دَبّباب رواں  
 چہرہ کا جہ - دَبّبہ

## د - ت

دَبَّش - انگور کا شہد۔  
 دَبَّش (ن) کوئی چیز پھینا۔ کھانا کھانا۔  
 دَبَّش - گھر کا سامان - بیسکا - سامان۔  
 دَبَّغ - جس چیز سے کچا چمڑہ درست کیا جائے  
 دَبَّغ - دَبَّاع (ن) - ف (ض) کچے چمڑے  
 کو درست کرنا - کپڑے کو سبز رنگنا۔  
 دَبَّغَة - وہ مصالح جس سے کچا چمڑہ درست  
 کیا جائے۔  
 دَبَّغَة - ایک دفعہ دَبَّغت کرنا۔  
 دَبَّق - (س) [ب] کسی کے ساتھ ملنا چٹنا  
 دَبَّق - سریش۔  
 دَبَّبل - طاعون - پانی کی گول - جڑ۔  
 دُبُّول - (ن) (ض) [ب] کسی کو  
 کسی چیز سے پے در پے مارنا (نوالہ)  
 برطانیسنا۔

## د - ج

دَبَّجَة - مرضی - مُرْمَا (مذکر مؤنث) - جڑ۔  
 دُبُّج -  
 دُبَّجَی - خوب گہرا سیاہ۔  
 دَبَّجَال - تلوار کا جوہر - بڑی جماعت بہت  
 فریب دینے والا - بڑا ادھوکہ باز۔  
 جھوٹا - سیخ کذاب کا لقب کہ  
 جو اخیر زمانہ میں پیدا ہوگا اور خدائی کا  
 دعویٰ کرے گا۔  
 دَبَّجَان - دَبَّجَم - (ض) بھاری ہو کر چلنا۔  
 دَبَّجَر - (س) مست ہونا۔  
 دَبَّجَر - مست - دَبَّجَارِی -  
 دَبَّجَل - دَبَّجُول - (ن) جھوٹا بونا  
 جہاں کرنا - زمین کی مسافت طے  
 کرنا۔  
 دَبَّجَلَة - بغداد کی نہر۔

دَبَّکَلَة - بڑا نوالہ۔  
 دَبَّکَمَا - ڈبلو - سند - (د)  
 دَبَّوَس - پھوٹی ہوا۔  
 دَبَّوَس - لباس - جنس - زنبور - جڑ۔ دَبَّیَابِیْر  
 پیٹھ پھیرنا - پیٹھ پھیرنا لے جانا  
 بوڑھا ہو جانا - کسی کے مرنے کے  
 بعد اس کی بات بیان کرنا - تیر کا  
 نشانہ سے پار ہو جانا۔  
 دَبَّوْرَة - پتھروں کو یکساں کرنے کا آلہ۔  
 دَبَّوَس - آپٹن۔  
 دَبَّوُغ - بارش جو اپنے پانی سے زمین کو  
 ستوار دے۔  
 دَبَّوَل - وہ عورت جس کا پتھر جائے۔  
 دَبَّبِغ - دماغت کیا ہوا چمڑہ۔

دَخَلَ - (ن) بھاگنا۔ کنوئیں کے کنارہ میں  
گھسنا کھوڑنا۔

دَخَلَ - (س) دھوکہ دینا۔

دَخَمَ - (ف) زور سے دنگ کرنا۔

دَخِمَسَ - کالی چیز۔ ج۔:۔ دَخَامِسَ

دَخُو - (ن) - (ف) پیسٹ کا بڑا اور ڈھیلا ہونا  
پھیلاتا۔

دَخُوْضَ ایسی جگہ جہاں پھسل جائیں پھسلن  
ج۔:۔ دَخَاْضَ

دُخُوْضَ - دَخُوْضَ - (ف) حجت کا باطل ہونا۔

حجت باطل کرنا۔ سُورَجَ کا ڈھل جانا

دَحُوْلَ - جوڑا کتوں۔

دَحِيْئَةَ بندریا۔

دَحِيْئَةَ - لشکر کا افسر۔ ج۔:۔ دَحَاْءَ

## د - خ

دَخَرَ - دھواں

دَخَسَ - بہت زیادہ۔ زرہ جس کے حلقے قریب  
قریب ہوں۔

دَخَالَ - (مفاعل) بعض مفاصل کا بعض میں داخل

ہونا۔ سیراب اونٹ کو دو پیاسے  
اونٹوں کے درمیان لاتا۔

دَخَالَ الرَّجُلَ - مرد کی نیت اور اس کے دل  
کی بات۔

دُخَانَ - دھواں۔ ج۔:۔ آدُخِنَةَ۔ دَوَاخِنَ

دَوَاخِيْنَ (د) سگریٹ۔ تمباکو

دُخَانَ - دھواں۔

دَخَبَشَ - بہت بڑے پیٹ والا آدمی۔ ج۔:۔ دَخَابَشَ

دَخَدَحَةَ - ذلیل کرنا۔ باز رکھنا۔ چلتے ہوئے

دَجِّمَ - (ن) رات کا اندھیری ہونا (س) ٹمکن ہونا

دَجِّنَ - بہت بارش۔ بہت گہرے اور دلدار  
بادل کی تاریکی۔ ج۔:۔ آدَجَانَ

دُجِّنَ - دَجَانَ

دُجِّنَ - تاریکی۔ گہرا اور دلدار لیکن بے باراں

دُجِّنَ - دُجُوْنَ - (ن) کبوتر یا کبری کا مانوس  
ہونا۔ ابر کا پھجنا (ن) [ب] کسی جگہ مقیم

ہونا۔

دُجِّنَةَ - اندھیرا۔ ج۔:۔ دُجِّنَ

دَجُوَ - دُجُوَ - (ن) رات کا تاریک ہونا۔ کپڑے

کا وسیع ہونا۔

دَجُوْجِيَّ - اندھیری رات۔ بہت سیاہ۔

دَجِيَّ - اندھیری رات۔

دَجِيَّ - تاریکی۔ شکار کی کین گاہ۔

## د - ح

دَحَ - (ن) کسی چیز کو کاڑ دینا۔

دَحَحَ - دَحَدَحَ - دُحَا - دَح - پھوٹنا  
ٹھنکا۔

دَحَرَ - دَحُوْصَ (ن) مانگنا۔ دنگ کرنا۔ دُور  
کرنا۔ دُھتکارنا۔

دَحَرَ حَجَّةَ - لڑھکانا۔

دَحَسَ (ف) کسی چیز کو بھرنے [بہین] فساد  
پھیلاتا۔

دَحَصَ - (ف) جلدی کرنا۔

دَحَقَ - دَحَاقَ - (ف) مانگنا۔ دھتکارنا۔

دنگ کرنا۔ دُور کرنا۔ کسی چیز تک

اتھ نہ پہنچنا۔

کیا گیا ہو۔ اور عرب کا نہ ہو۔ گھوڑا  
جیسے صرف گھاس ملے۔

## د - س

دَرَّ - دَرَّوٹا - (ف) دفع کرنا۔ دُود کرنا۔  
پھیلانا۔ آگ کا روشن ہونا۔

دَس - خون۔ دودھ۔ لوٹ کا مال۔ دودھ  
کی کثرت۔ مص (ن ص) اوٹنی کا  
بہت دودھ دینا۔ گھاس کا کثرت  
سے اور گنجان ہونا (حق) یا دل کا  
پانی کو گرانا۔

دَرَّابَة - رطابی میں اور ہر کام میں ولادری  
ہمت۔

دَرَّابِزِین - ہلکا ہیزی جنگلہ۔ (د)

دَرَّاج - بہت زیادہ آنے جانے والا۔ چل خور  
دُمرّاج - تیز (مذکر و مؤنث) (جنس)

دَرَّاجَة - تیز (واحد)

دَرَّاجَة - سائیکل (د)

دَرَّاسَة - نکلا۔

دَرَّاس - گیہوں کے کھلیان کو گاہنا۔ دائیں  
چلانا۔

دَرَّاسَة - (ن ص) سبق پڑھنا۔ سبق پڑھانا  
جماع کرنا۔

دَرَّاق - ایک میوہ دار درخت۔ شراب۔  
تریق۔

دَرَّاک - پے در پے بہم۔ مسلسل۔ لگاتار۔

دَرَّاک - خوب حقیقت حال تک پہنچنے والا۔  
مقصود حاصل کرنے والا۔

دَرَّاک - بمعنی آدرک (اسم فعل) جان۔

باؤل قریب قریب رکھنا۔

دَخْر - دَخْوَر - (ف - س) ذیل ہونا خوار ہونا  
دَخْوَر - جاننے والا۔ ماہر۔ تجربہ بہ کار۔

دَخْس - (ف) کسی چیز کا خاک میں چھپ جانا  
دَخْس - رُگوشت ہونا۔

دَخْل - غیب۔ ہمت۔ زمین کی آمدنی جو مالک  
زمین کو حاصل ہو (د) آمدنی۔

دَخْل - فتور عقل۔ شاد جسم۔ مکرو فریب۔  
بے وفائی۔ مص (س) عقل و جسم کا  
خراب ہونا۔

دَخْلُ السَّجَل - مُرد کی نیت۔ اُس کی پوشیدہ  
بات۔

دَخْلَةُ السَّجَل - مُرد کی نیت اور اس کی پوشیدہ  
بات۔

دَخْص - (ف) زور سے گرانا۔ جگہ سے اٹھانا  
(عورت سے) جماع کرنا۔

دَخْصَة - مشک پانی سے بھرتا۔ کسی چیز کو  
چھپانا۔

دَخْن - دھواں۔ دھندلاہٹ۔ کینہ بد خلقی  
(س) غلطی برا ہو جانا۔

دَخْن - دَخْوَن - (ن) آگ میں سے دھواں  
نکلنا۔ بخار اور دھوی کا اوپر چڑھنا۔

دَخْوَر - دَخْوَر - (ف - س) ذیل خوار ہونا۔  
دَخْوَص - (ف) لڑکی کے جسم میں بہت چربی ہونا

دَخْوَل - (ن) اندر جانا۔  
دَخْوَى - تار کی (س) تار یک ہونا۔

دَخْوَل - جو کسی کام میں دخل دے۔ دلی دوست  
غیر قوم کا آدمی جو قوم میں داخل  
ہو گیا ہو۔ جو کلمہ کلام عرب میں داخل



سبھ۔

دَڈب - بڑا دروازہ - پھوارے خشک کرنے

کی جگہ۔ ج:۔ دَڈاب

دَڈب - (س) کسی چیز کا مادی ہونا۔ ج:۔

دَڈباس - شیر۔ کٹ کھنا کتا۔ ج:۔

دَڈاپیس -

دَڈبان - دروازہ کا نگہبان۔ ج:۔ دَڈبانہ

دَڈبیتہ (فارسی سے ماخوذ ہے)۔

دَڈبیتہ - عادت - خصلت - دلیری - بہادری

ج:۔ دَڈب -

دَڈتہ - بڑا موتی۔ ج:۔ دَڈتہ - دَڈتہ

دَڈتہ مارنے کا آلہ۔ دَڈتہ - دودھ - خون۔

دودھ کی کثرت - بازار کی رونق۔

گرم بازاری۔ ج:۔ دَڈتہ -

دَڈتہ - کاغذ - تحریر - خط کی تہ

دَڈتہ - راستہ۔ ج:۔ آدَڈتہ - آدَڈتہ

دَڈتہ - نکلے رکھنے کی نکی - پیاری سڈتہ۔

دَڈتہ - سندھوچی - جس میں عورتیں اپنا زیور

رکھتی ہیں - میر کا خاتمہ۔ ج:۔ آدَڈتہ

دَڈتہ -

دَڈتہ - سیرھی۔ ج:۔ دَڈتہ -

دَڈتہ - سیرھی۔ دَڈتہ - مرتبہ۔ ج:۔

دَڈتہ -

دَڈتہ -

دَڈتہ -

دَڈتہ - (س) پو پلا ہونا۔

دَڈتہ - دار - ڈھول کی آواز - ایک درخت کا نام۔

دَڈتہ - درہ وانیال (د)

دَڈتہ - بھنور۔ ج:۔ دَڈتہ - شیر۔

دَڈتہ - گاؤں - ٹھٹ۔

دَڈتہ - کپڑے کا شگاف جس کو سیویں۔

دَڈتہ - دنیا کا عیش و آرام۔ ج:۔ دَڈتہ

دَڈتہ - (س) دنیوی عیش و آرام پر قادر ہونا

دَڈتہ - پوشیدہ راستہ۔ اونٹ کی خارش۔

دَڈتہ - اونٹ کی ڈوم - پرانا کپڑا۔ ج:۔

آدَڈتہ - دَڈتہ -

دَڈتہ - (ن) عورت کا حیف سے ہونا۔

دَڈتہ (ن) سبق پڑھانا - سبق پڑھنا

پڑانا ہونا۔ پڑانا کرنا۔

دَڈتہ - پرانا کپڑا۔ ج:۔ آدَڈتہ

دَڈتہ - ریاضت و عمارت۔

دَڈتہ - (س) سن رسیدگی کی وجہ سے دانوں

کا ٹوٹ جانا۔

دَڈتہ - جو ہے۔ بقی - خرگوش وغیرہ کا بچہ۔ ج:۔

آدَڈتہ - دَڈتہ

دَڈتہ - زہرہ (مذکورہ مونس)۔ ج:۔ آدَڈتہ -

آدَڈتہ - دَڈتہ - عورت کی کرتی۔ ج:۔

آدَڈتہ -

دَڈتہ - (س) گھوڑے وغیرہ کے سر کا سیاہ

اور فقیر حصہ۔ جسم کا سفید ہونا۔

دَڈتہ - (ف) بکری کی کھال کھینچنا۔

دَڈتہ - تیر جو زرہ میں گس جائے۔ ج:۔

دَڈتہ -

دَڈتہ - سایہ - کاغذ - ہلو۔

دَڈتہ - (ن) [رفی] چلنے میں جلدی کرنا۔

دَڈتہ - دوزخ کا درجہ - تاوان - ضمان۔ ج:۔

دَڈتہ - درگاہت ہر چیز کی گہرائی کی انتہا۔

ج:۔ آدَڈتہ - (ن)

جا پھینچنا۔

دَڈتہ - (س) گوشت کا عضوی ٹڑیوں کو چھپا

اور شکار کرے۔

دَرَمِج - طنبور۔  
دَرَمِیڈ - گول بدن کا مضبوط آدمی۔ تیر و رقار  
چوپایہ۔ روشن چراغ۔

دَرَمِیٹس - پرانا کپڑا۔  
دَرَمِیٹن - سوکھی ہوئی گھاس جسے چوپائے نہ  
کھائیں۔ پُرانا کپڑا۔

دَرَمِیٹہ - حلقہ جس پر تیر اندازی اور نیزہ  
اندازی کی مشق کی جائے۔

## د - م

دَسَر - (ن) ہانکنا۔

دَسَمِیٹہ - درجن - ۱۲ عدد (د)

## د - س

دَسق - (ن) پوشیدہ کرنا۔ دفن کرنا۔

دَسَس - لوسے کی میخ - جہ - دَسَسر۔

دَسَہ - شیشی یا بوتل کی ڈاٹ۔

دَسْت - حید - مجلس - تیکہ - پتہ۔

دَسَس - لباس - جنگل - جہ -

دَسَوْت -

دَسَجَتہ - دستہ کا معرب - شیشہ کا بڑا برتن

جگ - جہ - دَسَا تَجہ -

دَسَتوس - وہ کتاب جس میں منہ وری

اُمور درج ہوں - حساب کتاب کا

رجسٹر - وہ آدمی جس پر نفاذ احکام

میں اعتماد کیا گیا ہو (د) -

قانون - وزیر - جہ -

دَسَا تِیڈ -

لینا۔

دَرَمَق - دکن ملک - ہارک و سفید چیر۔

دَرَمَن - میل پھیل - اصل - رہنے کی جگہ۔

مصب (س) میلا کھلا ہونا - پیپ بھرا

ہونا کسی چیز میں ہاتھ آلودہ ہوجانا۔

دَرَمَن - پیپ بھرا - میلا کھلا پُرانا کپڑا۔ بوسیدہ

دَرَمِیٹ - مطیع و سربانبردار - چوپایہ۔

دَرَمِیُوج - دَسَ جَان (ن) چلنا - انتہا پر پہنچ

جانا۔ مرنا اور نسل نہ چھوڑنا - غلط کو

یہ کرنا۔ ہوا کا تیر چلنا - اس طرح چلنا

گو یا کہ وہ میڑھی پر چڑھ رہا ہے۔

دَرَمِیُوج - جلدی سے گزرنے والی ہوا۔

دَرَمِیُوس - دودھیل اونٹنی (واحد و جمع)

دَرَمِیُود - (ض) ابر کا میدہ کو گرانا - بازو کا گرم ہونا

دَرَمِیُوزی - ایک فرقہ اسلامی جو شام کے کومستانی

علاقہ میں آباد ہے - جہ - دَرَمِیُوزن

دَرَمِیُوس - گھروں کے نشانات کا مٹ جانا گھر

کے نشانات کو مٹا دینا۔

دَرَمِیُؤ - (ف) (ع) اچانک آجانا - اچانک

نکل آنا اور نمایاں ہونا [عن] دفع کرنا

دَرَمِیُہَم - درم بچھو دانگ کا وزن - جہ - دَرَمِیُہَم

دَرَمِیُہَمَ - جہازی کے تپے کا درہم کی مانند ہونا۔

دَرَمِیُہَمی - روشن اور چمکتا ہوا تارہ - جہ - دَرَمِیُہَمی

دَرَمِیُہَمی السَّیْف - تلوار کی جگ اور روشنی

دَرَمِیُہَمی - دَرَمِیُہَمی - (ض) جانا کسی

جیل سے جانا۔

دَرَمِیُہَمی - تیر اندازی - اور نیزہ اندازی کا ہدف

جس پر نشاۃِ صبح کیا جائے۔ طغی

وغیرہ جس کی آڑ میں شکاری ہوجائے

دَشْت - جنگل (فارسی لفظ ہے یا تو اردو لغتین ہے)  
 دَشْتَن - (ن) عطا کرنا - دینا -  
 دَشْتَنَمَ - ایک قسم کا کھانا ہے جسے کوٹے  
 ہوتے گیہوں سے بنا لیتے ہیں۔

## د - ع

دَع - (ن) چھیننا - تیز بانگنا - دھتکارنا -  
 زور سے دھکیل دینا -  
 دَعَاء - پیکار خدا تعالیٰ سے جو چیز مانگی جائے  
 خدا تعالیٰ سے درخواست ہے۔  
 آدَعِبَة - مص (ن) درخواست  
 کرنا - بلا تامل [و عارض کرنا] علی  
 بدعا کرنا۔

دَعَاب - دَعَابَة - مسخرا -  
 دَعَابَة - دَعْب - (ف) مذاق کرنا - دھکیل  
 دینا -

دَعَابَة - کھیل - دل لگی - خوش طبعی کرنا -  
 دَعَادَة - تباہی - ہرکاری - پیدی -  
 دَعَمَاع - متفرق و پراگندہ کھجور کے درخت  
 سیاہ بازو والی چھوٹی لٹیاں (وا) -  
 دَعَاعَة -

دَعَام - دَعَامَة - ستون - جر - دَعَائِد  
 دَعَائِمَة - شہادت کی انگلی -

دَعَابَة - پروپگنڈا (د)  
 دَعْبَل - مینڈک کا انڈا - مضبوط اونٹنی -  
 چور -

دَعْبُونِس - بے وقت - چھوڑ - جر - دَعَابُونِس  
 دَعَة - راحت و تن آسانی - فراخی - مص  
 (ک) فراخی اور فارغ البالی سے زندگی

دَسْر - (ن) نیزہ - امان - چیرنا - ہانکنا - جماع کرنا  
 لوہے کی میخ خوب ٹھونکنا -

دَسْرَاء - کشتی -  
 دُسْس - بغل کی پر بو - ریاکار لوگ -

دَسْع - (ج) قے کرنا (برتن) بھرتا - بہت  
 بخشش کرنا (جو پاپ کا) جگانا -

دَسَق - (ف) حوض کے پانی کی صفائی اور چمک  
 حوض کا اتنا پُر ہونا کہ پانی نکلنے لگے -

دَسْرَكَة - گاؤں - نصاریٰ کا معبد - ہمار زمین  
 شراب خانہ - تماشا گاہ - جر -

دَسَاكْرَة -  
 دَسْم - کنارہ - کسی چیز کی منہا (ن) شیشہ  
 پر سر بند یا بندھنا - دروازہ بند کرنا -

زخم میں بتی ڈالنا - عورت سے جماع  
 کرنا - اثر کا ٹھونکنا -

دَسْم - چکنا ہٹ - گوشت کی چربی میں کھیل  
 مہن (س) چکنا ہونا -

دَسْمَة - چھوٹی کمینہ آدمی - دھندلا پن -  
 دَسْمَة - پانچ اور کمینہ آدمی - دھندلا پن -  
 مائل بہ سیاری - مص (س) دھندلا  
 ہونا - تاریک ہونا -

دَسُو - (ن) کم ہونا -  
 دَسُو - (ص) کم ہونا -

دَسْبِسْتَة - سازش - جر - دَسَائِس -  
 دَسْبِعَة - غیر معمولی عطیہ - طبیعت - بڑا پیالہ  
 قوت - جر - دَسَائِح -

## د - ش

دَش - چال مہن (ن) چلنا و شیشہ بنانا

دَعَسْ - (ف) روڈنا۔ پائمال کرنا۔ نیزہ مارنا۔  
دَعَسْ - ریت کا ٹیلہ جہ۔ دَعَصَة - آذخا ص  
دَعَسْ - (ف) قتل کرنا۔ نیزہ مارنا۔  
دَعَسْ - (ف) راستہ کو بہت روڈنا گھوڑے  
کو مہیر مارنا۔

دَعَسْ - (ف) نرم کرنا۔ رگڑنا۔ خاک آلود کرنا  
دَعَسْ - (س) الحق دینے و قوف ہونا۔  
دَعَمَة - ستون۔ کھمبہ۔ جہ۔ دَعَم  
دَعَمَوْسْ - ایک کیڑا ہے جو تالوں میں پیدا ہوتا  
ہے۔ جہ۔ دَعَامِیْصْ -

دَعَوَة - قسم کھانے کے لئے بلاوا (ص) (ن)  
بلانا۔ کھانے کے لئے۔

دَعَوَة - کسی کو بیٹھا کہنا۔ نسب کا دعویٰ کرنا۔  
دَعَوَى - دعویٰ۔ جہ۔ دَعَاوَى - (ص) (ن)  
درخواست کرنا۔ بلانا [دَعَاوَى] دَعَاوَى کرنا  
[علی] بددعا کرنا۔

دَعَسْ - مزبور لا بیٹھا جہ۔ آدَعِیَاءْ

## د - ع

دَعْنَة - طعن کرنا۔ سستی گفتگو میں۔ آہستہ  
آہستہ تلاش کرنا۔ گدگدی۔

دَعْنَر - (ف) ہانکنا۔ دفع کرنا، گلے کو زور  
سے دہانا۔ بھیخنا۔ یہاں تک کہ مر جائے  
انگلی سے بچے کا کھوا اٹھانا۔

دَعَشْ - تاریکی۔ (ص) تاریکی میں آنا۔  
[علی] کسی کے پاس اچانک پہنچ  
جانا۔

دَعَسْ - (س) پرشکم یا پر غضب ہو جانا۔  
خوابی و تباہی۔ درختوں یا گھاس کی

بسر کرنا۔ راحت و آرام سے رہنا  
(ماضی اس کی دَعَّع ہے)۔ اس لئے  
کہ دَعَّع کی ت داؤ سے بدلی  
ہوتی ہے۔

دَعَّتْ - (ف) سخت طریقہ سے ہانکنا۔

دَعَثْ - بیماری کی ابتداء (س) (ص) (ف)  
ہاتھ یا پاؤں سے زمین پر مٹی کو  
باریک کرنا۔

دَعَثْ - بغض۔ کینہ۔ پانی کا باقی ماندہ۔ جہ۔

آدَعَاتْ - دَعَاتْ

دَعَاوَة - منہدم کر دینا۔ ڈھانڈنا۔

دَعَمَوْسْ - منہدم حوض۔ گڑھا۔

دَعَجْ - (س) آنکھ کی سیاہی کا خوب سیاہ  
اور کشادہ ہونا۔

دَعَجَاءْ - جنوں۔ خوب سیاہ آنکھ۔ سیاہ آنکھوں  
والی عورت۔ مہینہ کی اٹھا بیسویں

رات۔ جہ۔ دَعَجْ -

دَعَدَة - آہستگی کے ساتھ دوڑنا۔ پیالہ کو  
بھرنے۔ پیمانہ اور برتن کو بلانا تاکہ خوب

بھرجائے۔

دَعَسْ - (س) لکڑی کا دھواں دینا لیکن  
نہ جلتا۔

دَعَسْر - خراب لکڑی جو بہت دھواں دے  
اور آہنچ نہ بھد۔

دَعَسْر - ویک۔

دَعَسْرُوسْ - ناقابل کینہ۔

دَعَسْر - ہ۔ بد صورت ٹھکانا۔ ناکارہ، اونٹ جو  
دوسرے اونٹوں کا بھوٹا پانی پئے

دَعَسْر (ف) ہانکنا۔ جماع کرنا۔

دَقَّاق - کو دو کو تیز چلنے والی اونٹنی -  
دَقَّاق - سیلاب - اچھلتی اور کودتی ہوئی تیز  
چلنے والی اونٹنی -

دَقَّان - آنٹھا ہوا کنواں - جہ - دَقَّان  
دَقَّاقی - آخر موسم بہار کی بارش -  
دَقَّاقی - خیر نشین عورت -

دَقَّاقہ - کنارہ - پہلو -  
دَقَّقَتِیْن - کتاب کے دو ٹھہرے -

دَقَّقَاتِ الطَّہْلِ - ڈھول کی دونوں طرف کی  
کھال -

دَقَّقُوا - اکھٹے کے ہوئے خطوط - جبر - بھی -  
نوٹ تک - جہ - دَقَّقَاتِیْر

دَقَّقَتْ جَبِیْبٌ - پاک ٹیک - (د)

دَقَّقَتْ خَاتَہ - محافظ خانہ - (د)

دَقَّقَاتَہ - ٹیلہ - جہ - دَقَّقَاتِ - مص  
جلدی کرنا - پرندہ کا زمین کے قریب

اُلْتَمَا -

دَقَّقِر - (ن) کسی کے سینے پر دو ہنتر مارنا -

دَقَّقِر - (س) ذلیل و خوار ہونا - گوشت میں

کیڑے پڑ جانا - کسی چیز کا بدلہ دار  
ہوجانا -

دَقَّقِر - گندہ بدلہ دار -

دَقَّقِص - چمک اور نرمی -

دَقَّقِض - (ف) توڑنا - ٹکڑے ٹکڑے کرنا -

دَقَّقِطَہ - مال ضائع کرنا -

دَقَّقِح - (ت) دینا - دھکیلنا - لاکھٹا دوڑ  
کرنا -

دَقَّقِعَہ - ایک ہار -

دَقَّقِعَہ - بارش جو یک بارگی برس پڑے -

گنہگانی اور کثرت - خطرناک مقام  
جہ - اَدَقَّال

دَعْل - (ت) [رقی] مشکوک آدمی کی طرح  
داخل ہونا -

دَعْلِشَہ - اندھیرا - تاریکی -

## د - ف

دَفَّ - کنارہ ، چلنے کے وقت جو تے کی آواز  
ایک قسم کا ڈھول - ڈھوپڑا - ٹیڈ -

ہلکی رفتار جہ - دَفَّوْف - مص  
(حق) آہستہ آہستہ چلنا - پرندے کا

پروں کو پھیر پھیرانا کسی چیز کو جڑ سے  
اُکھاڑ دینا -

دَفَّء - گرمی کی سختی - اُون - بیٹم - چوپایوں  
کے بچے - گرمی - ناخوشی - جہ - اَدَقَّاء

دَفَّاء - گرم کپڑا گرم لباس -

دَفَّاء - گرم لباس پہنی ہوئی عورت -

دَفَّاء - خیمہ -

دَفَّاءَہ - دَفَّاء - (س) گرم کپڑا پہننا -

دَفَّار - ونیا -

دُقَّاع - دریا کی بڑی نہر - بڑا سیلاب بڑی  
چیز جس سے اسی جیسی چیز کو دفع  
کیا جائے -

دُقَّاع - وکالت - پیروی -

دَقَّاف - دف - ایک قسم کا ڈھول جو شاوی کے  
موقع پر بجا یا جاتا ہے - بنانے والا -

دف بجانے والا -

دَقَّاف - زخمی کے مار ڈالنے میں جلدی اور  
تیزی کرنا -

دَقِّق - (ن جن) بہانا۔ ایک دم برتن کی چیز  
گرا دینا۔

دَقِّقَة - ایک بار۔

دَقِّق - ایک گھاس۔ تار کول

دَقِّن - گنام اور بے وقعت آدمی۔

(ن جن) مٹی کے نیچے پھپھانا۔

دَقِّن - وہ مرض کہ ابتدائیں اس کا پتہ نہ

چلے جب اپنا کام کرے اور بڑھ

جائے تب پتہ چلے۔

دَقِّنو - (ن) زخمی پر حملہ کر کے قتل کر دینا۔

دَقِّنَع - بہت دکھیلنے والا۔

دَقَّقو - (ن) ایک بارگی ہونا۔

دَقَّقو - بھاگا ہوا اونٹ اور غلام۔

دَقِّق - گرمی حاصل کرنے والا۔ گرم کپڑا

پیننے والا۔

دَقِّق - گرم لباس۔

دَقِّقَة - گرم زمین۔

دَقِّیق - (ن جن) پرند کا زمین کے قریب اُڑنا

زمین پر بیٹھ کر دونوں بازوؤں کو

اُڑنے کے لئے ہلاتا۔ اونٹ کا آہنگ

سے چلنا۔

دَقِّیقین - پوشیدہ۔ اُٹا ہوا کنواں۔ ج۔: ادقین

دَقِّقَاء پوشیدہ عورت ج۔: دَقِّقِی

دَقِّیقَة - پوشیدہ عورت۔ خزانہ بھپا ہوا

ج۔: دَقِّقِین۔

دَقِّیقِی - گرم دن۔ گرم کپڑا۔ گرم مکان۔

دَقِّیقِیَة - گرم زمین۔ گرم رات۔

د - ق

دَقِّق - (ن) کوٹنا۔ توڑنا۔ ریزہ ریزہ کر دینا

ظاہر کرنا۔

دَقِّق - ریزہ۔ ٹکڑا۔ باریک۔ پرانا بخار۔

دَقِّقَاع - خاک۔

دَقِّقِی - ٹکڑا۔ باریک۔ چورہ۔ اُٹا۔

دَقِّقِی - اُٹا بیچنے والا۔

دَقِّقِی - موصل۔

دَقِّقَة - گرد و بخار۔ کھانے کا مصالحہ۔ نمک

دھنیا۔ پودر۔ سفوف۔ بانڈی کا

مصالحہ حسن و جمال ج۔: دَقِّق

دَقِّقَة - باریکی توڑنے کا طریقہ۔ کمینہ پن۔

چھوٹائی۔ مص (ن) باریک ہونا

دَقِّقِی - شور و شغب۔ شور و غل۔ چوبایوں

کے سُم کی آواز۔

دَقِّق - (س) شکم سیر ہونا۔ نباتات کا

زیادہ ہونا۔

دَقِّق - (س) فقر و قلت کو برداشت کرنا۔

تھوڑے سے سامان معاش پر قناعت

کرنا

دَقِّقو - (ن) جلدی چلنا۔ جانا۔ زمین میں

گاڑنا۔ بھجنا۔

دَقِّقو - (ن) غائب ہوجانا۔

دَقِّیقِی نوٹس۔ وہ بادشاہ جس کے بیچے سے نکل کر

اصحاب کفٹ چلے گئے تھے۔

دَقِّیقِی نوٹسی۔ پرانا۔ قدیمی۔ قدیم۔

دَقِّقِان - ایک لکڑی جیسے نصب کر کے اس پر

انگور کی مٹی لگائی جاتی ہے۔

دَقِّیقِی - اُٹا۔ باریک۔ تھوڑا۔ گرا کام۔

دَقِّیقِی - بکری۔ درجہ کا  $\frac{1}{14}$  حصہ منٹ۔ ج۔:

دَقِّیقِی -

## د-ل

دل - (من) بیوی کا شوہر پر ناز کرنا۔ نیک

روشمن - سیرت - نخصلت -

دلآ - چھوٹا ڈول - ڈولچی - جہ - دلی

دلآص - نرم و چمکدار - نرم و چمکدار زرہ -

جہ - دلآص

دلآظ - ایک دوسرے کو دفع کرنا -

دلآع - خسرپزہ -

دلآکتہ - ادھ پکڑا سیب - شیرینی - مائل -

دلآل - ناز -

دلآل - بالیج اور خریدار کو جمع کرنے والا -

دلآل

دلآلہ - دلآلی - دلآلی کی اہوت - رہبر کی اہوت

دلآلہ - دلآلہ - (ن) رہنمائی کرنا - اچھے

کاموں کی توفیق دینا -

دلآہ - سیاہی - سیاہ چیز -

دلآب - چنار کا درخت - دلآبتہ - واحد -

دلآبجہ - پشت ٹیڑھی کرنا -

دلآج - آغاز شب کی روانگی -

دلآجان - بہت سی فیڑھیاں -

دلآبجہ - آخر شب کی روانگی -

دلآح - گھوڑا جسے پسینہ کثرت سے آئے -

دلآخ - (س) فریب ہونا -

دلآال - چلا جانا - روکھڑا نا - چلنے میں سروردیگ

الغضا کو بلانا -

دلآدل - بڑا کام - سیسی یعنی خاریشت - نبی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر کا نام -

دلآلہ - جانا - روکھڑا نا چلنے میں سرور وغیرہ بلانا -

دقیوس - وہ بادشاہ جس نے اصحاب کعبہ کے  
غار پر مسجد بنائی تھی -

## د-ک

دکک - ہموار ریگستان - تودہ - جہ - دککاک

دوندی اور ہمواری کی ہوتی زمین - جہ -

دککوت مصل (ن) بیماری کا کسی کو کوزہ

دنا تو ان کو دینا - کتوئیں کو آٹ دینا کو دینا

دیوان کرنا - ہموار کرنا - خاک صاف کرنا

(مجمولاً) بیمار ہونا -

دککاء - (ف) دفع کرنا - مزاحمت کرنا -

دککاء - ہموار زمین - جہ - دککاءات

دککاع - سینہ کی بیماری مصل (ف) مجموعاً

سینہ کی بیماری میں مبتلا ہونا -

دککائی - شیطاں کا نام -

دکگان - دوکان - ہموار چبوترہ - فروخت کے

لئے بٹھنے کا (لفظ معرب ہے) - جہ -

دککاشین

دککتہ - ہموار ریگستان - ہموار چبوترہ (د)

وہ الماری جو دیوار میں بنی ہو -

دککتا کتوس - ڈکٹیٹر (د)

دککتوما - ڈاکٹر ماہر فن - جہ - دککاشیرۃ

دککس - (ن) کسی کے چہرہ پر خاک ڈالنا -

دککس (من) کسی چہرہ کا کسی چہرہ پر ٹھیکہ جانا

دککل (ن) حق مقلی لینے کے لئے ہاتھ میں لینا

دککھ - (ن) کسی کے سینہ میں دو ہتھ مارنا -

دککن - (ن) سامان کو متفرق کر کے رکھنا -

(س) سیاہی مائل ہو جانا -

ۛ ۛ ۛ

دکوک - خوشبو جو اپنے جسم پر ملی جائے۔  
 دکوہ - (ت) غم اور عشق سے تسلی پانا۔ اونٹنی  
 کا بچہ کی محبت سے تسلی پانا۔  
 دکوہ - دکوہ (س) دل اور عقل کا جاتا رہنا  
 عشق اور غم وغیرہ سے دیوانہ اور  
 حواس باختہ ہونا۔  
 دکوہاہ - شیر - دُور بین اور صاحب الرائے  
 بہادر آدمی۔  
 دکوہم - اندھیرا اور دُھندلا ہٹ۔ بھیر طیا۔  
 عشق سے جس کی عقل جاتی رہی ہو  
 مدہوش۔  
 دکوہٹ - بادشاہوں اور امیروں کے دربار  
 سے نکالا ہوا آدمی۔  
 دکوہج - نرم اور چھڑا راستہ  
 کوشیل - راہ نما۔ راہ۔ جہ۔ آدلت۔ آدلاء  
 (د) گامد۔ جہ۔ ڈللاء۔  
 دکوہلی - راستہ دکھانا۔ رہبر کاربہری میں  
 کامل ہونا۔

## د - ہ

دہم - خون۔ جہ۔ دہماؤ۔ ڈمچی۔ بتی  
 دہر - (ن) دیواروں پر نقلی کرنا۔ کشتی پر  
 تارکول لگانا۔ کپڑا رنگنا۔ ہلاک و زبیت  
 و نابود کرنا۔  
 دہرا لاکھوین - ایک گوند ہے سرخ رنگ عالس دم  
 دکھاشہ - (ک) نرم خصلت والا ہونا۔  
 دکھاشر - نرم زمین۔ بہت گوشت والا اونٹ  
 دکھاسج - مضبوط۔ پورا۔ حمام۔ کامل  
 دکھارہ - دکھارہ - (ن) ہلاک کرنا۔

دکس - تاریکی۔ بہت گہری تاریکی بچی ہوئی گھاس  
 جہ۔ آدلاس مکروفریب۔  
 دکوستہ - تاریکی۔  
 دکویصہ - ہموار زمین۔ اونٹنی جس کے بال گر گئے  
 ہوں۔  
 دکویص - ہموار زمین۔ بہت پھسلنے والا۔ جہ۔  
 دکویص -  
 دکویصاء - پھسلنے والی عورت۔ پرانی اونٹنی جس  
 کے دانت نہ رہے ہوں۔  
 دکویظ - (ن) ض) مارنا سینہ میں چھبونا۔  
 دکویظم - پرانی اونٹنی  
 دکویع - (ف) زبان منہ سے باہر نکلنا۔ زبان  
 کا منہ سے باہر نکل آنا۔  
 دکویف - دکویف - دکویفان - (ض) قیدیوں کی  
 طرح آہستہ چلنا۔ لشکر کا آگے بڑھنا  
 دکویق - (ف) میان سے تلوار کھینچ کر بلانا۔  
 دکویک - (ن) ملنا اور نرم و چمکدار کرنا۔  
 دکویم - نرم و چمکدار اور نہایت سیاہ ہونا۔  
 دکویو - ڈول۔ تختی۔ مصیبت۔ جہ۔ دکویو  
 دکویو - (ن) دیچی آسمان کے ایک بُرج کا  
 نام۔  
 دکویوح - بہت پانی والا بادل جہ۔ دکویوح۔  
 دکویوح (ف) پشت پر بھاری بوجھ اٹھانے  
 چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلنا۔  
 دکویوص - (ن) نرم و چمکدار ہونا (س) اونٹنی کا پرانا  
 ہونا اور دانت گر جانا۔  
 دکویوک - (ض) دن) آفتاب کا غروب ہونا۔  
 آفتاب کا ڈھلنا۔ آفتاب کا زرد  
 رنگ ہونا۔



دَمَص - (ن) تیزی اور جلدی کرنا۔ کتیا کا بچھڑنا  
مرخی کا انڈا دینا۔

دَمَص - (س) بہوڑی کا کنارہ سے باریک اور  
درمیان میں گھٹنا ہونا۔ سر کے بالوں  
کا کم ہونا۔

دَمَع - آنسو خواہ غم کے ہوں یا خوشی کے  
جہ۔ دَمُوع - آدمع معرفت  
آنسو بہانا۔

دَمَع - (س) آنسو بہانا۔ برتن بھر جانا  
دَمُوع - رخساروں پر آنسوؤں کے نشان۔  
دَمَعَان - لیریز پیالہ۔

دَمِيعَة - جلد آنسو بہانے والی عورت۔  
دَمِيعَة - آنسو کا قطرہ۔ ایک بیماری جس سے آنسو  
ہمیشہ تر رہتی ہے۔

دَمُوع - (ف) سر میں چوٹ لگانی ایسی کہ دماغ  
تیک پہنچ جائے کسی کے دماغ پر مارنا  
دھوپ کا درد سر پیدا کر دینا۔ قمر کرنا  
باطل کر دینا (د) مگر لگانا۔

دَمَتَق - (ن) ص (کسی کو کسی چیز میں داخل  
کر دینا۔

دَمَقَّةُ الْحَدَا - د - لوہاروں کی دھونکنی۔

دَمَك - (ن) پینا۔ بٹنا بیل دینا۔

دَمَل - چھوڑا۔ زخم۔ جہ۔ دَمَلَان

دَمَل - چھوڑے کا زخم۔ جہ۔ دَمَامِئِل

دَمَل - دَمَلَان - (ن) زمین میں کھاؤ ڈالنا

دوا کا زخم کو اچھا کر دینا۔ نرمی کرنا۔

وہیں آپس میں صلح کرانا۔

دَمَل - (س) زخم یا چھوڑے کا اچھا ہونا۔

دَمَلُج - دَمَلُوج - ہاڑو بند۔ جہ۔ دَمَالِج

دَمَاس - پوشیدہ اور پنہاں کر دینے والی چیز۔

دَمَاع - دَمُوع - بست رونے والا۔

دَمَاع - رخساروں پر آنسوؤں کا نشان بھرنا

مغضہ۔

دَمَاع - مغز۔ جہ۔ اَدْمِيعَة

دَمَامَة - بد صورتی۔

دَمَة - تھوڑا سا خون۔

دَمِيف - نرم جگہ۔ ریتی جگہ۔ جہ۔ دَمَات

دَمِيف (س) جگہ نرم ہونا۔

دَمُوح - بیٹے ہونے ہال

دَمُوح - دوست۔ جتا۔ برابر کا۔

دَمُوق - تو نڈل۔ بڑے پیٹ کا۔

دَمُوح - (ف) بند ہونا۔ کسی کا سر توڑنا۔

دَمَامَة - نیست دنا بد کردینا (علی) غصہ میں

بات کہنا۔ ہلاک کر دینا۔ کسی چیز کو زمین

پر چھٹانا۔ ٹنگین کرنا۔

دَمَوَاء - کم دودھ والی بکری۔ اچانک آجانے

والی عورت۔

دَمَس - پوشیدہ کی ہوئی چیز۔

دَمَس - بڑے بڑے کام۔

دَمَس - جسم (ن) ایک ہونا۔ خاک میں پوشیدہ

کرنا [بیین] آپس میں صلح کرانا۔

[علی] کسی سے کوئی چیز چھپانا۔

دَمَسَّق - رومی لشکر کے کمانڈر کا لقب۔ جہ۔

دَمَامِئِيق

دَمَش - (س) گرمی سے یا دوا کھانے سے دل کا

مضطرب ہونا۔

دَمَشَق - تیز رفتار آدمی۔

دَمَشَقُ الْمَدِين - تیز دست آدمی۔

صدر پہنچا ہو۔

دَمِيم - حقیر۔ بد صورت۔ ج۔:۔ دَمَاه  
دَمِيمَة - حقیر و ذلیل عورت۔ ج۔:۔ دَمَائِم  
دَمَاه -

## د - ن

دَات - روغن کیا ہوا۔ بڑا مٹکا۔ ج۔:۔ دَان  
دَانَج - (ض) کام کا درست کرنا۔  
دَانَاعَة - دُنُوْع - (ت) مکینہ اور ناکس ہونا  
بخیل اور نجوس ہونا۔

دَانَاء - (س) کیرا پھوجانا۔  
دَانَب - دَانِبَة - دَانَابَة - دَانَابَان -  
دَانَح - عقل مند لوگ۔

دَانَح - آتش پرستوں کی ایک عید جس کو عید  
العظاس بھی کہتے ہیں۔

دَانَاه - سپاہ اور پانٹا گھاس۔

دَانَانَة - بھنبھنا ہٹ۔ ہلکی آواز کی بات جو بھر  
میں نہ آئے۔ مص مکی کا آواز کرنا۔  
بھن بھن کرنا۔ آنا جانا۔ ہلکی آواز سے بات  
کرنے کا سمجھ میں نہ آئے۔

دَانِس - حقیر اور بے عزت آدمی۔ بد اطوار میلیا کھلا  
ج۔:۔ آدَانِس - مَدَا اِنِس

دَانَس - دَانَسَة - میلپن۔ مص (س)  
میلیا کھلا ہونا۔ بے آبرو اور بد خلق  
ہونا۔

دَانَع - (س) بھوکا اور طعام کا خواہش مند ہونا  
کنجوس ہونا۔ ذلیل ہونا۔

دَانَعَت - جو ہمیشہ بیارہے (واحد و جمع) مذکر  
و مؤنث)۔

دَمَالِيَج -

دُمْلُوق - گول اور چکدار پتھر۔  
دِمَة - ٹھکانا اور بد صورت آدمی۔ بی۔ بکری  
بکریوں کے رہنے کی جگہ۔ چینیٹی۔

دَمَن - (س) کیسندور ہونا۔

دَمَن - گوبر کی کوڑی

دَمُون - بد صورت آدمی۔

دَمْنَة - گھر کے نشان۔ لوگوں کے بود و باش  
کے نشانات۔ پڑانا کینہ۔ گھر کے پاس  
کی جگہ۔ ج۔:۔ دَمَن - دَمَن  
ایک گیسٹ کا فرضی نام جس کا فریق  
کلید تھا اور جن کے نام پر کلید دمنہ  
ایک کتاب ہے جس کا فارسی ترجمہ  
انوار سبیلی ہے۔

دَمْنَة - لباس رقص (د)

دُمُوَج - (ت) کام کا درست ہونا (فی) کسی  
چیز میں داخل ہونا۔

دُمُوَس - (ت) بلا اجازت داخل ہونا۔

دُمُوَس - (ن) (ض) جماع کرنا۔ مٹ جانا۔

سخت تاریک ہونا۔ [عن] صلح

کر دینا (عنی) خیر کو پوشیدہ رکھنا۔

دُمُوَق - (ن) کسی کے دانت توڑ ڈالنا۔ بلا اجازت  
داخل ہونا۔

دُمُوَك - (ن) خرگوش کا تیر۔ دوڑنا چکنا اور  
پھسلواں ہونا۔

دَمَس - (ت) ریت کا بہت گرم ہونا۔

دَمِي - دَمِي - (س) خون آلودہ ہونا۔

دَمِيَة - مورتی۔ ریت۔ ج۔:۔ دَمِي

دَمِيَج - سر ٹوٹا۔ وہ شخص جس کے دماغ میں کوئی

دَلف - (س) سخت بیمار ہونا۔ آفتاب کا جنوب کے قریب ہونا۔ اور زرد ہو جانا۔

نزدیک ہونا۔

دُفیس - بے وقوف۔ بے عقل۔

دُفینتہ - آنکھ مارنا۔

دُسق - سپستان یعنی لسوڑھ۔

دُکستہ - گھر میں پھپھپ جانا اور قوم کی ضرورت کے لئے باہر نہ نکلنا۔

دُلو - دناوۃ - (ن) نزدیک ہونا۔

دُلوۃ - دناۃ - (ف) کمینہ اور بیباک ہونا۔

دُلوح - (ن) ذلیل ہونا۔ سرھٹکانا۔

دُلوۃ - گھر والوں پر لطف کی تنگی کرنے والا۔

ج :- دُلق

دُلوۃ - (ض-ن) شکل اور دقیق کاموں کی جستجو کرنا۔

دَلی - کمینہ۔ کمزور۔ حقیر۔ نزدیک۔

دَلی - ذلیل و خوار۔ کمینہ۔ بے باک۔ ج :-

آذتاء

دَلیق - تنہا کھانے والا بچل تاکہ مہمان اُسے نہ دیکھ پائے

دُلبا - یہ جہان۔ نزدیک آذنی کا مرنش۔

دَلیۃ القاضی - قاضی صاحب کی ٹوپلی۔

دَلی سے مشابہت دی گئی ہے اور دَلی شے کو کہتے ہیں۔

دَلیۃ - عیب۔ ناقص بات۔

دَلیۃ - آہستہ بات کہنا کہ سمجھ میں نہ آئے۔

کھٹی کا بھننا۔

## د - و

دَد - جنگل۔ بیابان۔

دَد - داء - (س) بیمار ہو جانا۔

دَد - جو چیز از الہ مرض کے لئے بیمار کو دی جاتی ہے۔ دوا۔ ج :- آذویۃ

دَوَاۃ - دوات (کھنڈی کی ج :- دَوَوی

دَوَاج - دَوَاج بحاف۔

دَوَاح - بڑی سخت اور لمبہ چیز۔

دَوَاحن - باورچی خانہ اور بھٹی کے سوراخ جن میں سے دھواں نکلتا ہے۔ دودکش۔

دَوَاد - بیز چلنے والا۔ دوڑنے والا۔

دَوَاس - ایک بیماری جس کی وجہ سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ تمام چیزیں ہوم رہی ہیں جتنی کہ اپنا جسم و دماغ بھی چکراتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔

دَوَاس - کسی کے ساتھ گھومنا پھرنا کسی کام میں غور کرنا کہ کس طرح انجام دیا جائے۔

دَوَاس - پھرنے والا۔ مکہ معظمہ۔ زمانہ۔ ایک بت کا نام

دَوَاۃ - ریت کا گول توہ جس کے گرد جنگلی جانور پھرتے۔

دَوَاۃ السداس - سر کا گول ٹکڑا

دَوَاۃ البطن - اوبھ

دَوَاۃ - پرکار اور پر کے ہونٹ کا گڑھا (د) لٹو

دَوَاۃ الدنابۃ - چوہا پیر کے پاؤں۔

دَوَاۃ - زمانہ پھرنے والا۔

دَوَاس - شیر۔ بہادر آدمی۔

دَوَاسۃ - آدمیوں کا گروہ۔

دَوَس - دَوِیاس - دَوِیاسَتَہ - (ن) پاؤں سے روندنا۔

دَوَس - (ن) بکثرت جماع کرنا۔ جلا دینا مٹی کو پاؤں سے نرم کرنا۔

دَوَسَک - قوی ہمیکل - مضبوط اونٹ سخت اور قوی الجبٹہ شیر - پُرانی چیز۔

دَوَسَک - شیر زر۔

دَوَش - (س) آنکھ کا بیماری کے باعث خراب ہو جانا۔

دَوَشَاء - عورت جس کی آنکھ بیماری سے خراب ہو گئی ہو۔

دَوَع - ایک سُرخ مچھلی - جہ - دَوَع۔

دَوَع - (ن) اچھلتے کودتے - ددڑتے ہونے چلنا۔

دَوَع - وہی (لفظ فارسی ہے)۔

دَوَعَتَہ - عام بیماری - وَا - رُغوت - بیوقوفی

دَوَف - (ن) دوا وغیرہ کا پانی میں تر کرنا۔

دَوَق - (ن) مذاق کرنا - احمق ہونا - کھانا چکھنا۔

دَوَقَتَہ - دَوَقَارِیَّتَہ - حذرانی حماقت

دَوُق - ڈریوک - نواب (د)

دَوُک - (ن) کھانا گھسنا - جماع کرنا - مریض ہونا - غوطہ دینا۔

دَوُکَتَہ - جھگڑا - فساد۔

دَوُل - ڈول - مصرن (ن) حالت بدل جانا۔

مشہور ہو جانا - زمانہ کا بدل جانا۔

پُرانا ہونا۔

دَوَل - خاندانی بزرگی اور فضیلت۔

دَوَلَاب - رہٹ - جہ - دَوَالِیْب۔

دَوَاسَتَہ - ناک

دَوَاعِی الدَّہَسِ - حوادثِ زمانہ

دَوَام - سرکا چکر۔

دَوَام - بچوں کے پھینکنے کی پیرکی۔

دَوَام - دَوَام - دَوَام - (ن) ہمیشگی کرنی

دَوَاب - (ن) کوشش کرنا - رنج اٹھانا۔

دَوَابِل - سوریا - سورکا بچہ - گدھے کا بچہ

سیاہ - سفیدی مائل بھیسٹ یا

لومڑی - جہ - دَوَابِل

دَوُفِی - دیوت - بے غیرت۔

دَوُج - (ن) خدمت کرنا۔

دَوُح - (ن) پیٹ کا بڑا ہونا - درخت کا بڑا ہونا۔

دَوُحَتَہ - بڑا درخت - درخت کا تنہ۔

جہ - دَوُح

دَوُح - (ن) ذلیل ہونا - فروتنی کرنا - غالب

آنا - قدرت پانا۔

دَوُد - (ن) کھانے میں کیڑے پڑ جانا۔

دَوُدَاآ - جھولا - شور و غوغا۔

دَوُدَاہ - کیڑا - جہ - دَوُد - دَوُدَاہ

دَوَس - دَوُرَان - (ن) پھڑنا - گھومنا - مچھلا

بے عملی [ سرگھومتے کی بیماری میں مبتلا ہونا۔

دَوَس - پارٹ - تماشہ کا ایکٹ - جہ -

آدَوَس (د)

دَوَدَق - گوشہ دار گھڑا۔

دَوَدَم - بھونڈی چال والی - اور ٹھنکنی نوجوان

عورت۔

دَوَس - صیقل کرنے والے۔

ہوش بیماری - واقف کاری - ذہن  
کی اور عقل و فہم کی تیزی مص (س)  
ہوش باری ہوتا -

دِهَاسَا - کسی کے ساتھ مدت دراز تک کے  
لئے معاملہ کرنا -

دِهَاسِ - نرم جگہ جہاں ریت ہو نہ خاک بڑے  
بڑے سرین والی عورت -

دِهَاسَتَہ - (ک) نرم عادت کا ہونا -

دِهَاق - بھرا ہوا پیالہ - بہت پانی -

دِهَام - سیاہ -

دِهَاجِم - ہرقوی ہیکل چیر - مضبوط تیز رفتار  
اونٹ -

دِهَان - سرخ چڑھ - (ن) میں (ک) اونٹنی کا کم  
دودھ والا ہونا -

دِهَان - تیل کی مالش کرنے والا -

دِهَب - شکست خوردہ لشکر -

دِهَبَتَہ - بڑا لقمہ کھانا تاکہ دوسروں سے پہلے  
کھانے سے فارغ ہو جائے -

دِهَت - (ن) دفع کرنا - دھکیان - اٹکنا -

دِهْدَاقَہ - توڑنا - کاٹنا - بوٹیاں بنانا -

(گوشت)

دِهْدَامَہ - منہم کرنا - ویران کرنا -

دِهْدَاہَہ - لڑوہکانا -

دِهْد - زمانہ دراز - ہمیشہ - ایک ہزار سال  
کی مدت - زمانہ کی سختی - محنت

ارادہ - جہ - آدھس - دھود

مص (ف) کسی پر کوئی مصیبت

آنا -

دِهْسُ الدَّہْسُ - ہمیشہ - کبھی -

(د) چرنی - پھینک کر دوش کن الماری -

دولاسا - ڈالر (ایک امریکن سکہ) (د)

دَوْلَہ - مصیبت - آفت -

دَوْلَہ - دَوْلَہ - زمانہ کا چکر - مال کی گردش -

غلبہ اور فتح پائی کی نوبت - حکومت -

دولت - مال کا ذخیرہ - مص (ن)

ہاتھوں ہاتھ لینا - جہ - دَوْلَات - دَوْل

دَوْلَتِی - ذریعہ سبب - باعث -

دَوْلَج - نرم و فراخ راستہ -

دَوْمَص - لوسے کا خود -

دَوْمَلَہ - [بین] آپس میں صلح کرنا -

دُون - نیچے - نزدیک - آگے پیچھے - پہلے پچھلے

بزرگ آدمی - کمینہ آدمی - بڑا وعدہ

حقیر اور تھوڑی سی چیز -

دُون - (ن) کمینہ اور کنجوس ہو جانا -

دَوِّی - دشت - جنگل -

دَوِّی - بیماری - بیمار - (مذکر و مؤنث)

(س) بیمار ہونا - کمینہ ورم ہونا -

دَوِّی الرِّیْح - ہوا کی سرسراہٹ -

دَوِّی النَّحْلِ - مکھی کی بھنبھناہٹ -

دَوِّی النَّہَارِ - پرندوں کے پروں کی

پھر پھر اہٹ -

دَا مِرَاةٌ اَدْوِیَہ - بیمار عورت -

رَا دَهْنٌ اَدْوِیَہ - زمین جس میں بیماری بہت

ہوتی ہو اور اس کی آب ہوا موافق نہ آئے

دَوِّیَہ - آدمیوں کا گروہ -

د - ۵

دِهَاء - دِهَی - دِهَاءَہ - عقل مندی

دھرتی - جو عالم کو قدیم کہتا ہو۔ بڑی عمر کا پُرانا نئی۔	دھرتی - جو عالم کو قدیم کہتا ہو۔ بڑی عمر کا پُرانا نئی۔
دھس - نئی آگے ہوئی گھاس جس پر سبزی غالب نہ ہوئی ہو۔ زم جگہ جہاں خاک ہونہ	دھس - نئی آگے ہوئی گھاس جس پر سبزی غالب نہ ہوئی ہو۔ زم جگہ جہاں خاک ہونہ
دھس - سُرخ مائل سیاہی	دھس - سُرخ مائل سیاہی
دھس - حواس باختہ	دھس - حواس باختہ
دھس - (س) حواس باختہ ہونا۔ حیران ہونا۔ پریشان ہونا۔ بے خود اور مدہوش ہونا	دھس - (س) حواس باختہ ہونا۔ حیران ہونا۔ پریشان ہونا۔ بے خود اور مدہوش ہونا
دھت - (ت) کسی کو سخت پکڑنا۔	دھت - (ت) کسی کو سخت پکڑنا۔
دھت - مکر و فریب کرنا۔ عشق بازی کرنا۔ عورتوں سے باتیں کرنا۔	دھت - مکر و فریب کرنا۔ عشق بازی کرنا۔ عورتوں سے باتیں کرنا۔
دھت - (ت) توڑنا۔ کاٹنا۔ زور سے بھیجنا شکستہ میں کستا۔ پیالہ کو بھینا۔ زور سے پانی بہانا۔	دھت - (ت) توڑنا۔ کاٹنا۔ زور سے بھیجنا شکستہ میں کستا۔ پیالہ کو بھینا۔ زور سے پانی بہانا۔
دھقان - مستعد آدمی کا رگبار۔ سوداگر۔ مٹی فروش۔ کسان۔ چودھری۔ سردار۔ جہ: دھاقینہ۔ دھاقین۔ (موت)	دھقان - مستعد آدمی کا رگبار۔ سوداگر۔ مٹی فروش۔ کسان۔ چودھری۔ سردار۔ جہ: دھاقینہ۔ دھاقین۔ (موت)
دھقانتہ	دھقانتہ
دھقانتہ - کاشتکاروں کا مصدقہ دھقان کر دینا۔	دھقانتہ - کاشتکاروں کا مصدقہ دھقان کر دینا۔
دھقوع - بہت سخت بھوک جس کی وجہ سے آدمی گر جائے۔	دھقوع - بہت سخت بھوک جس کی وجہ سے آدمی گر جائے۔
دھک - (ت) پینا۔ توڑنا۔	دھک - (ت) پینا۔ توڑنا۔
دھکت - ٹھنڈا۔	دھکت - ٹھنڈا۔
دھکم - پیرسل خوردہ۔ پیر فلوٹ۔	دھکم - پیرسل خوردہ۔ پیر فلوٹ۔
دھلی - ہندوستان کا دارالحکومت۔	دھلی - ہندوستان کا دارالحکومت۔
دھلاٹ - شیر درندہ۔	دھلاٹ - شیر درندہ۔
دھلیز - ڈیوڑھی وہ مکان جو دروازہ اور گھر کے درمیان ہو۔ دل کے اندر کی خالی	دھلیز - ڈیوڑھی وہ مکان جو دروازہ اور گھر کے درمیان ہو۔ دل کے اندر کی خالی
جگہ - جہ۔ دھالینیز (یہ لفظ فارسی الاصل ہے)۔	جگہ - جہ۔ دھالینیز (یہ لفظ فارسی الاصل ہے)۔
دھم - بڑی تعداد و مخلوق۔ بڑا معاملہ۔ بڑائی جہ: دھوم۔ مص (س۔ ف)۔ ہجوم کرنا اور اچانک آجانا۔	دھم - بڑی تعداد و مخلوق۔ بڑا معاملہ۔ بڑائی جہ: دھوم۔ مص (س۔ ف)۔ ہجوم کرنا اور اچانک آجانا۔
دھم - قری میں کی آخری تین راتیں۔	دھم - قری میں کی آخری تین راتیں۔
دھم - بڑی تعداد۔ خاکی رنگ کی اوشنی سُرخ رنگ کی بکری۔ طریقہ اور ڈھنگ خوب سے سمیز چرگا کہ کمال شادابی کی وجہ سے مائل سیاہی ہو۔	دھم - بڑی تعداد۔ خاکی رنگ کی اوشنی سُرخ رنگ کی بکری۔ طریقہ اور ڈھنگ خوب سے سمیز چرگا کہ کمال شادابی کی وجہ سے مائل سیاہی ہو۔
دھم - سیاہی۔	دھم - سیاہی۔
دھمتہ - زم زمین۔	دھمتہ - زم زمین۔
دھموٹ - جوان مرد۔ جہ:۔ دھامیت دھمتہ - توڑنا۔ کاٹنا۔ کھانا۔ خوب پکانا۔ کچا کھانا پکانا۔	دھموٹ - جوان مرد۔ جہ:۔ دھامیت دھمتہ - توڑنا۔ کاٹنا۔ کھانا۔ خوب پکانا۔ کچا کھانا پکانا۔
دھن - تیل۔ بھگی بارش جو زمین کو صرف تر کردے جہ:۔ دھنان (د) مرہم۔	دھن - تیل۔ بھگی بارش جو زمین کو صرف تر کردے جہ:۔ دھنان (د) مرہم۔
دھن - (ن) اتفاق پرتنا۔ سر میں تیل ڈالنا بارش کا زمین کو معمولی سا تر کر دینا۔	دھن - (ن) اتفاق پرتنا۔ سر میں تیل ڈالنا بارش کا زمین کو معمولی سا تر کر دینا۔
دھنتہ - تھوڑا سا تیل۔	دھنتہ - تھوڑا سا تیل۔
دھو - (ن) کسی چیز کا پہننا۔ سر پٹ جانا۔	دھو - (ن) کسی چیز کا پہننا۔ سر پٹ جانا۔
دھورہ - کسی چیز کو جمع کر کے گڑھے میں پھینکنا دھلینا۔	دھورہ - کسی چیز کو جمع کر کے گڑھے میں پھینکنا دھلینا۔
دھوری - سخت و مضبوط آدمی۔	دھوری - سخت و مضبوط آدمی۔
دھوس - دھار پیر۔ تنگی اور فساد کی مختلف زمانے۔	دھوس - دھار پیر۔ تنگی اور فساد کی مختلف زمانے۔
دھوس - شیر درندہ۔	دھوس - شیر درندہ۔

دیتے - خونہما جہ - دیتات - مص  
مقتول کا خون بہا دینا -  
اصل میں دڈی تھا - باب اس کا ضرب  
ہے - دڈی - سیدای  
دیتوب - سخن چین اور تکلیف رساں آدمی -  
بے غیرت اور دیوث جہ - دیا بیب  
دیتچ - دیتجان - (ض) تھوڑا چلنا -  
دیتچور - اندھیرا گھپ اندھیرا - دھندلا رنگ  
سیاہی مائل - سوکھی گھاس کا ڈھیر  
دیتخس - آپس میں گتھی ہوئی گھاس -  
دیتدان - دیتدان - دیتدان - عادت -  
دیتداب - دیتدابان - نگبان - گورخر - جنگلی  
گدھا -

دیتدجان - بوجھ اٹھانے والے اونٹ -

دیتیر - گرجا جہ - آدیار

دیترافی - گرجا کا پادری -

دیتستہ - گھنے درختوں والا جنگل - جہ -

دیتس -

دیتسہبر - دسمبر - انگریزی مہینہ (د)

دیتس - مرنا -

دیتسان - (ض) کچ ہونا - مائل ہونا - عورت کے

بعد ذلیل ہو جاتا - جنگ سے بھاگ

جانا -

دیتق - (ض) کسی چیز کو کچ کرنا کہ آسانی

سے کھنک سکے -

دیتقوع - سخت بھوک جو دوسرے کا باعث

ہو -

دیتک - مرنا - جہ - دیتوک - آدیاک

دیتک -

دھوک - بہت توڑنے والا - بہت پینے والا -

دھوی - (س) ہوشیار ہونا - چالاک ہونا -

(ض) کسی کو چالاک کی طرف نسبت

کرنا - کسی کی عیب گوئی کرنا - کسی پر

مصیبت ڈالنا -

دھئی - عقلمند و ہوشیار - جہ - آدھیہ

دھوآء

دھیماء - امتحان و آزمائش - آفت -

دھیر - دراز - طویل - متد -

دھیم - سختی - بلا - آفت - بے وقوف -

دھین - تیل ملی ہوئی (ڈاڑھی) کم دودھ والی

## د - ی

دیتاس - صاحب دیر - بمعنی آحد یعنی کوئی

پینے والا -

دیتاس - کھلیان کوٹنے والا -

دیتاص - وہ آدمی جس پر قابو نہ پاسکیں -

موٹا آدمی -

دیتان - بڑا زبردست حاکم - فیصلہ کرنے

والا - نگبان - حساب کرنے والا -

پلردینے والا کسی عمل کو ضائع نہ

کرے بلکہ موافق عمل کے جزا یا سزا

دے -

دیتانتہ - راستی اور سچائی برتنی - ایماندار

اور دیندار ہونا -

دیتباج - دیباہ کا معرب ہے - ریشمی کپڑا -

جوان اونٹنی - جہ - دیتباچ

دیتباجتہ - چہرہ - دیتباجتہان دودھ خارا سے

مذہب - پندرہ ہزار کاری گنا ہنگاری۔  
 زبردستی - حال - فیصلہ تالیف دار  
 قوم - جرہ - آدمیان - مص  
 (حق) عزت دار ہونا - خوار و ذلیل  
 ہونا - نافرمانی کرنا - خیر یا شر  
 کا عادی ہونا - بیمار ہونا -

دیتن - اپنے دین پر قائم رہنے والا۔  
 دیتناس - ایک طلائی سکہ ساڑھے تین ماشہ کا  
 جرہ - دتا نیو -

دینتہ - قرض جس کی ادائیگی کی مدت  
 معین ہو۔ نرم بارش - گردن جھکانی۔  
 دیوان - جہاں کتابیں جمع ہوں - کتب خانہ  
 رحبٹ فوج والی علیہ (د) محکمہ -  
 کورٹ - ایوان شاہی جرہ -  
 دداوین - دیاوین -  
 دیوت - جو اپنی بیوی کے متعلق بے غیرت ہو۔  
 دیوہ - ہمیشہ برقرار - قائم -

## ذ - ل

ذ ۱ - یہ ایک (اسم اشارہ)

ذاب - عیب -

ذاب - (حق) جمع کرنا - ڈرانا - ہٹانا -  
 لاکھنا - حقیر جاننا - ہموار کرنا  
 لڑکی کی زلفت بنانا - جلدی اور تیز  
 چلنا -

ذابتہ - (ک - س) مکروفریب اور بردبار  
 میں بھیڑیے کی مانند ہونا - (جموں)  
 بھیڑیے سے ڈرنا - بکریوں میں

دیکھئے - بکریوں اور چو پاؤں کا بڑا گلہ  
 دیکھ - سختی - مصیبت - دشمنوں کی جماعت  
 ایک قوم کا نام -

دیکھ - (حق) مسلسل مینہ برسنا -  
 دیکھاس - گھر - جنگلی جانور کا بھٹ - بھٹی جم  
 جرہ - دیاوین -

دیمتہ - بھڑی یعنی وہ بارش جو بغیر بجلی اور  
 گرج اور ہوا کے کئی کئی دن تک برتی  
 رہتی ہے -

دیموتی - شریف و ذہین آدمی -  
 دیمو قراطی - جمہوری حکومت (د)

دیتن - قرض جس کی ادائیگی کی مدت معین ہو  
 جو چہرہ حاضر نہ ہو - جرہ - آدیش  
 دیشون مص (حق) قرض دینا  
 قرض لینا - قرض مانگنا -  
 تابعدار ہو جانا - بدلہ دینا -  
 گردن جھکانا - دین میں آنا - اودار  
 حسد پانا - خدمت کرنا - احسان  
 کرنا - تابعدار کر لینا - غلام بنالینا  
 عزت دار ہو جانا - خوار و ذلیل  
 ہو جانا - نافرمانی کرنا - بھلائی یا  
 بڑائی کا خوگر ہونا - بیمار ہونا - کسی  
 کو اس کی ناپسند چیز پر ابھارنا -  
 اور شوق دلانا -

دین - مذہب - بدلہ - اسلام - عادت  
 کام - عبادت - بارش کی بھڑی  
 ہلکے بارش - نرم چیز - ذلت - بیماری  
 حساب - غلبہ و اقتدار - عزت و برتری  
 بادشاہ حکم - خصلت - تدبیر - توحید

دین - مذہب - بدلہ - اسلام - عادت  
 کام - عبادت - بارش کی بھڑی  
 ہلکے بارش - نرم چیز - ذلت - بیماری  
 حساب - غلبہ و اقتدار - عزت و برتری  
 بادشاہ حکم - خصلت - تدبیر - توحید



ذَائِقَةُ - ٹھوڑی کے نیچے کا حصہ اور گردن کا بالائی حصہ۔ چنبر گردن۔ سینہ اور پیٹ کے جائے اتصال کا گڑھا۔ یعنی کوڑی ج۔ ذَا قَيْن۔  
 ذَاك - یہ اسم اشارہ۔ مذکر واحد۔  
 (مِسْك) ذَاكِي - نہایت تیز اور بہت خوشبودار مشک۔  
 ذَاكِر - یاد کرنے والا۔ ذکر کرنے والا۔  
 ذَاكِرَةٌ - قوت حافظہ۔  
 ذَاكِيَةٌ - تیز خوشبو کا مشک۔  
 ذَاكِل - ایک حرف حروف ہجائیں سے ہے۔  
 ذَاكِلِك - وہ اسم اشارہ۔ مذکر واحد۔  
 ذَاكِرَج - بری منہسی منہنے والا۔ آدمی بے سود کام۔  
 ذَاكِر - (ح) کسی کو ٹھپٹا اور حقیر قرار دینا۔ بدنام اور رُسوا کرنا۔ بُرائی کرنا۔ دُھتکارنا۔  
 ذَاكِر - ڈرنے والا۔ دھمکانے والا۔ غضب ناک۔  
 ذَاكِرِي - تیر سے کیا ہوا شکار۔  
 ذَاكِن - عیب۔  
 ذَاكِن - یہ دو اسم اشارہ مذکر تشبیہ۔  
 ذَاكِنِب - پیچھے چلنے والا۔  
 ذَاكِنِب - جانے والا۔  
 ذَاكِنِبَةٌ - اونٹ جو بہت سفر کرنے کی وجہ سے عاجز ہو گئے ہوں۔  
 ذَاكِنِبَا - لٹکنے والا۔ بٹانے والا۔ ج۔  
 ذَاكِنِبَا - ذَاكِنِبَا - ذَاكِنِبَا  
 ذَاكِنِبَا - وہ عورت جو خاندان کے خلاف

بھیڑے کا گھس آنا۔  
 ذَابِح - ذبح کرنے والا۔ چوپایہ کی گردن کا داغ۔  
 ذَابِر - ٹھوس علمیت رکھنے والا۔ جید عالم۔  
 ذَابِل - پتلانیزہ۔ ج۔ ذَابِل - ذَابِل  
 ذَات - والی۔ جیسے ذَات مَالِ مال والی۔  
 ذَاوَات - ذَاوَات مَوْنُث - ج۔ ذَاوَات  
 ذَاتُ الشَّمْسِ - چیر کی حقیقت۔  
 ذَاتُ الصَّنَدِ وَكَوْدِلِ كِي مَعْنَى بَاتِيں۔  
 ذَاتُ الْجَنْبِ - ایک درم جو پسلیوں کے مقام پر ہوتا ہے۔ منویا۔  
 ذَاتُ الصَّنَدِ - درم جو سینہ کی ایک تھلی میں ہوتا ہے۔  
 ذَاتُ الْكَبِدِ - درم جگر۔  
 ذَاتُ الْبَرِيَّةِ - پھیپھڑے کا درم پھیپھڑے کا زخم سیل۔  
 ذَاتُ الصَّرَّةِ - ایک بار۔  
 ذَاتُ الْمِرَامِ - چند بار۔  
 ذَاتُ الْاَنْوَاطِ - ایک درخت کا نام۔  
 ذَابِح - سفر سے واپس آنے والا۔  
 ذَابِل - ستمگار۔ ظالم۔  
 ذَابِح - ذخیرہ جمع کرنے والا۔  
 ذَابِع - گز سے تاننے والا۔  
 ذَابِيَات - اڑانے والی ہوائیں۔  
 ذَابِعِيس - ڈرنے والا غرت کھانے والا۔  
 ذَابِعِط - موت جس میں جلدی سے جان نکل جائے۔  
 ذَابِعِيَّة - سست و خود نابلے و قوت۔  
 اور پھوڑ مورت۔

ذُبَّالَةٌ - بتی -

ذُبْح - جو چیز ذبح کی جائے (اسم مفعول) روزن (شافی)۔

ذُبْح - ذُبَّاح - (ن) گھلا کاٹنا - چیرنا - پارہ پارہ کرنا - گھاگھوٹنا

ذُبْحَةٌ - ذُبْحَةٌ - ذُبْحَةٌ - ذُبْحٌ - ذُبْحٌ - گھلے کا درد - گلے کا زخم -

ذُبَّابَةٌ - ہودج کے جھار - ذکر - زبان - ج - ذُبَّابٌ - مصیبت کی ہوئی چیز

کا چلنا اور ہلنا - حرکت دینا -

ذُبْر - کھجور کی شاخوں پر لکھی ہوئی کتاب خط - مص (ن) - لکھنا - حروف پر نقطے لگانا - پڑھنا -

ذُبْر - کتاب جو آسانی سے پڑھی جائے -

ذُبُول - (ن) - (ن) مڑھانا - مینگیٹا کرنا - ڈبلا ہونا - باریک ہونا -

ذُبُول - عورت کا لالہ ہو جانا -

ذُبُولَةٌ - مینگیٹا - گرم ہوا جس سے نباتات مڑھ جائیں -

ذُبُولَةٌ - پیاس کی وجہ سے لبوں کی خشکی -

ذُبُولَةٌ - پیاس کی وجہ سے لبوں کی خشکی -

ذُبُولٌ - ذبح کیا ہوا -

## ذ - ج

ذَبْح - (ض) سفر سے واپس آنا - پانی پینا -

ذَبْحٌ - ظلم و ستم - مص (ض) ظلم و ستم کرنا - ستانا -

## ذ - ح

ذَحْر - (س) سہیلی سے مارنا - چیرنا - کوٹنا -

ہے -

ذَائِق - چکھنے والا -

ذَائِقَةٌ - چکھنے والی - ایک حاسہ جس سے مزہ معلوم کیا جاتا ہے -

ذَائِل - لنبے دامن کی زرہ - لنبی ڈم کا گھوڑا زرہ کے باریک حلقے -

ذَائِلَةٌ - لنبی ڈم کی گھوڑی -

## ذ - ب

ذَب - جنگلی گائے - مص (ن) ہٹانا - روکنا - مدد فرم کرنا - ایک جگر

قرار نہ پکڑنا - حوض کا خشک ہو جانا - (ض) پیاس سے ہونٹوں کا خشک

ہو جانا - ڈبلا اور پڑا مردہ ہونا - رنگ بدل جانا -

ذَبَاب - وہ مرد جو اپنے گھر والوں پر کسی قسم کی حرف گیری نہ ہونے دے - اور اس

کا دفعہ کرے -

ذَبَاب - (جنس) مکھی - شہد کی مکھی - ج - آذِيبَةٌ - ذَبَان - ذُب (واحد) ذُبَابَةٌ -

ذَبَابُ السَّيْفِ - تلوار کی دھار - تلوار کا پیلا یعنی نوک جو دونوں طرف سے دہا

وار ہوتی ہے -

ذَبَابُ الْأَذْنِ - کان کے کنارے کی تیزی - ذَبَابُ الْعَيْنِ - آنکھ کی بتلی -

ذَبَابُ الْأَسْتَانِ - دانتوں کی تیزی - ذَبَابِيَّةٌ - قرض وغیرہ کا لقبہ -

ذُبَّالَةٌ - بتی - ج - ذُبَّالٌ -

ذَحْج - (ن) پھیننا۔ کہیں سے کہیں کھینچنا۔  
 ذَحْدَح - ذَحْدَاح - ٹھنکنا اور توڑنا۔  
 ذَحْدَحَة - قدم پاس پاس رکھ کر تیز چلنا۔  
 ذَحْل - کینہ۔ دشمنی۔ ج۔:۔ آذَحَال  
 ذَحُول معر (ت) قاتل کو مار ڈالنا۔  
 دشمنی کا بدلہ چاہنا۔  
 ذَحْم - (ن) عیب گیری کرنا۔ حقیر سمجھنا۔

## ذ - خ

ذَحْدَاح - محتاط آدمی۔  
 ذَحْر - ذخیرہ۔ اسٹاک۔ ج۔:۔ آذَحَاس  
 مص (ف) وقت ضرورت کے لئے  
 جمع کرنا۔  
 ذَخُو - (ن) دور کرنا۔ سخت ہانکنا۔ جماع  
 کرنا۔  
 ذَخِي - (ص) کسی پر ہوا کا چلنا کہ اس سے  
 بچنے کے لئے اس کے پاس کوئی پردہ  
 اور مانع نہ ہو۔  
 ذَخِيْرَة - سر چیز جو محفوظ طور پر رکھ جائے  
 تاکہ دوسرے وقت کام آئے۔  
 اسٹاک۔ سامان جنگ۔ ج۔:۔  
 ذَخَايِر -

## ذ - س

ذَسَن - تو چھوڑ (صیغہ امر)۔ واحد حاضر۔  
 ذَسَا - (ف) پیدا کرنا۔ کسی چیز کی مقدار  
 بڑھانا۔ زمین میں بیج ڈالنا۔ کھیرنا  
 ذَرَعَة - بڑھاپا۔ بالوں کی پہلی سفیدی جو پیشانی  
 کے بالوں پر ظاہر ہوتی ہے۔

ذَسَاء - بوڑھی عورت۔  
 ذَسِي - (جس) چپوٹی۔ ذَرَة ایک مص  
 (ن) اگن۔ سکرٹا۔ آفتاب کی ٹکنا۔  
 اگنا۔ پراگندہ کرنا۔ کھیرنا۔  
 چھڑکنا۔

ذَسَاب - زہر۔  
 ذَسَابَة - (س) تیز ہونا۔ زخم کا دوا قبول  
 نہ کرنا۔

ذَرَا ح - پانی ملا ہوا دودھ۔  
 ذَسَار - غصہ۔ روگردانی۔ مص بد خو ہونا۔  
 (مفاعلہ)

ذَسَا رَة - جو چیز کھیری جائے۔

ذَسَاع - تیز کاٹنے والی عورت۔

ذَرَاع - ہاتھ میں کہتی سے اُنگلی تک کا حصہ

بازو۔ گز۔ نشان چو پالیوں میں وہ

حصہ جو اگلی ٹانگوں میں پنڈلی کے

اوپر ہے۔ ج۔:۔ آذَسَاع - ذُرْعَان

ذَرَا وَة - جو چیز چھڑک کر پٹے خلائاً بھس جو

گیہوں صاف کرنے کے وقت اڑک

علیحدہ ہو جائے۔

ذَرَا وَة الثَّبْت - سوھی گھاس کا تنک جو ہوا میں

اڑتا پھرے۔

ذَسَاب - ذَرِب - مویلیوں کا اوزار چمڑہ کاٹنے

کا۔ راہی۔

ذَسَاب - (ن) تیز کرنا۔  
 ذَسَاب - بیماری جو علاج پذیر نہ ہو۔ زنگ  
 معدہ کا ایک مرض۔ بد زبانی۔ ج۔:۔  
 آذَرَاب - مص (س) زخم کا خراب  
 ہونا اور اس کا مسدوخ ہونا۔

ذَرَّو کلام کا ناتمام حرفتہ مص (ن) پر لگندہ  
ہوتا۔ ہوا کسی چیز کو پر لگندہ کرنا۔  
کھلیان بر باد کرنا۔

ذَرَّوَس - وہ دو اہم زخم وغیرہ پر چھڑکی جائے  
ایک قسم کی خوشبو۔ ج۔ : - آذَمَاتَة  
ذَرَّوَس - کھلیان بر باد کرنا۔ ہوا کسی چیز کو  
پر لگندہ کرنا۔

ذَرَّوَسَات - تلوار کی آب اور چمک۔ آبدار تلوار  
ذَرَّوَسَات - جو چیز جھڑ کر جائے۔

ذَرَّوَسَات - (حق) ہوا کا خاک کو اڑانا کھلیان  
کو ہوا میں اڑانا۔

ذَرَّوَسَات - ذَرَّوَسَات - کھیت جس میں بیج ڈال دیا  
گیا ہو۔

ذَرَّوَسَات - (جنس) آدمیوں کی اولاد۔ خواتین کی اولاد  
ج۔ : - ذَرَّوَسَات - ذَرَّوَسَات -

ذَرَّوَسَات - میلا۔ پشتم۔ ج۔ : - ذَرَّوَسَات  
ذَرَّوَسَات - ایک خوشبو کا نام۔ دو اہم چھڑکی جائے  
سریع۔ سفارش کرنے والا۔ تیز رفتار  
فراخ اور وسیع۔

ذَرَّوَسَات - وسیع جس کے سبب دوسرے تک  
پہنچ سکیں۔ آڑ جس کی اوٹ میں  
شکار ہی شکار پر نشانہ مارتا ہے۔  
بہتا ہوا آنسو مص (حق) آنسو بہنا۔

## ذ - ع

ذَعَاع - ردی چھوڑے۔

ذَعَاع - فرتے۔ جما عتیں۔

ذَعَاع - زہر جو فوراً ہلاک کر دے۔ وہ موت  
جس میں جلد جان نکل جائے۔

ذَرَّع - زخم سے پیپ بہنی۔ تیز ہونا۔  
ذَرَّع - وہ بیمار کہ جب سورج کی شعاع کسی  
روشندان وغیرہ میں گزرتی ہے تو  
ناچتا ہوا نظر آتا ہے۔ ج۔ : -

ذَرَّعَات

ذَرَّعَات - چینہ۔ ارزن۔  
ذَرَّعَات - (حق) کھانے میں فُوراح (ایک نہریلا  
کیڑا) ڈالنا۔ ہوا میں اڑانا۔

ذَرَّعَات - بکھیرنا۔  
ذَرَّعَات - بہت بکھینے والا آدمی۔  
ذَرَّعَات - مکروہ اور ناپسند طریقے سے کھانا کھانا

ذَرَّعَات - قوتِ خصالت۔ عادت۔ مص (حق)  
کپڑے کو گز سے ناپنا۔ حقے کا تر لگانا  
(عند) سفارش کرنا (س) پاؤں کا  
تھک جانا (الحی) کسی سے سفارش  
کرنا۔

ذَرَّعَات - وہ شخص جس کی صحبت اچھی ہو۔ رات  
دن چلنے والا۔ فحش بکھینے والا۔  
ذَرَّعَات - وسیلہ۔ ذریعہ۔ وہ جس کے سبب  
دوسرے تک پہنچ سکیں۔

ذَرَّعَات - ناکارہ و بد زبان آدمی۔ ج۔ : -  
ذَرَّعَات -

ذَرَّعَات - ذَرَّوَسَات - (حق) آنسو بہنا۔ آنسو بہنا  
ذَرَّعَات - سست رفتار مص (حق) آنسو بہنا  
ذَرَّعَات - پرندہ کی بیٹھ مص (حق) پرندہ  
کا بیٹھ کرنا۔

ذَرَّعَات - (ن) گر ادینا۔ ڈال دینا۔  
ذَرَّعَات - راہ لگی۔ ہوتی روٹی نکالنا تاکہ جلد  
مہان کے سامنے پیش کر سکے۔

ذُفَاق - بہت کڑوا پانی - مہلک مرض

ذُفَبَان - جوان بھیرٹیا -

ذَعَت - (ف) سخت دفع کرنا - سخت گھومنا -

ذَعَج - (ف) زور سے ہٹانا - دفع کرنا - جماع کرنا -

ذَعَدَّعَت - الگ کر کے متفرق کر دینا - بھید نظر کرنا ہوا کا درخت کو زور سے حسرت دینا -

ذَعَس - (ف) ڈرانا -

ذَعَس - ڈر -

ذَعَس - خوف ناک امر -

ذَعَس - حیرت و پریشانی -

ذَعْسِيَّة - محظ کا سال -

ذَعَط - (ف) گلا گھٹنا - ذبح کرنا -

ذَعْف - زہر جو فوراً ہی ہلاک کر دے مہلک (ف) زہر دینا - مرجانا - ہلاک ہونا -

ذَعَف - ذَعَا ف - (س) مرجانا - ہلاک ہونا ذَعْفَان - موت -

ذَعَق - (ف) کسی پر چیننا - کسی کو ڈرانا -

ذَعَل - (س) انکار کے بعد اقرار کرنا -

ذَعَلِب - تیز رفتار اونٹنی - جہ - ذَعَالِب ذَعَلُوب - کپڑے کا کنارہ پرانا کپڑا - جہ - ذَعَالِب ذَعَمَطَة - بد زبان عورت مہلک جلد ذبح کر دینا - گلا کاٹ دینا -

ذَعَن - (س) گردن بھکانا اور تابعدار ہوجانا -

ذَعُوس - خوفناک عورت جو تہمت اور بدنامی سے ڈرے

ذ - ف

ذَف - (جس) بکریاں واہ - ذَفَّة ایک

چلنے کے وقت جوتے کی آواز مہلک (ن)

جلدی اور تیزی کرنا [علی] زخمی کو مار ڈالنا -

ذُفَات - تھوڑا سا پانی -

ذُفَات - زہر قاتل - تھوڑا سا پانی - تری - نہی -

جہ - آذِفَة - ذُقَفَت - مصص

(ن) [علی] زخمی کو مار ڈالنا [ف] جلدی کرنا -

ذُفَات - جلد باز - پھرتیلا - زہر قاتل -

ذُفَادَة - زخمی کو مار ڈالنا - ناز سے چلنا -

ذُفَس - تیز بوا بھی بوا بڑی مہلک (س) بوا آنا -

ذُفَس - وہ شخص جس کی نعل میں بد بو آئے - تیز خوشبو کا مشک -

ذُفَرَاء - لشکر کہ جس میں سے لوہے کے زنگ کی بو آئے - ایک بودار بوٹی -

ذُفْدَى - گدی - اونٹ کے کان کا پھینا حصہ جس پر پیٹتہ آجاتا ہے - جہ -

ذُفْدِيَات - ذُقَارَى - ذُقَاسَا -

ذُقُوط - کمزور اور سست آدمی -

ذُقَيْف - جلد باز - پھرتیلا -

ذ - ق

ذُقَاحَة - کسی معصوم اور ناکردہ گناہ کو اتھام لگانے والا -

ذُقَذَاق - جلدی بولنے والا - اور تیز زبان آدمی

ذُقِط - غصیل آدمی -

ذُقِطَة - نجس و ناپاک آدمی -

ذُقِن - بہت ضعیف بوڑھا - پیر فرتوت -

ذُقِن - ٹھوڑی - جہ - آذِقَان (د)

ڈارھی -

ذَقْن - (ن) ٹھوڑی پر مارنا۔ کم کرنا [علا ٹھوڑی  
کو ہاتھ وغیرہ پر ٹیکنا -  
ذَقْنَاء - لمبی ٹھوڑی والی عورت -  
ذَقِيْط - ناپاک و پلید آدمی -

## ذ - ل

ذَكَاء - دھکتی ہوئی چنگاری - ذہن کی تیزی -  
عمر مص (س - ف - ل) آگ بجھوانا  
گلا گالنا - تیز ذہن ہونا -

ذُكَّاء - آفتاب -  
ذُكَّكَة - زندہ ولی -

ذِكْر - جو چیز زبان پر جاری رہے شہرت  
بلندی - بزرگی - نماز - دُعا - دین کی  
مفصل کتاب - قرآن مجید - ج - :-  
آذکاس - مص (ن) کسی چیز کی یاد  
کرنا عورت کی منگنی کرنا - کسی کا حق  
یاد رکھنا -

ذِكْرُ الْحَقِّ - دستاویز - تمسک -  
ذِكْر - مرد - نر - ج - :- ذُكُوْر - ذُكُوْرَة  
ذُكْرَان - ذُكْرُ فُلَاد - مرد کا عضو  
تناسل ج - :- ذُكُوْس (ن)

ذُكْر - (ن) ذکر پر مارنا -

ذُكْرَان - بہت سے مرد - و :- ذُكْر

ذُكْرَة - یاد -

ذُكْرَة - شہرت - کلمہ ٹی وغیرہ کے سرے  
پر فولاد کا ٹکڑا - تیزی -

ذُكْرَة - عورت جو مردوں کے مشابہ ہو -

ذُكْرَى - یعنی ذُكْر - کثرت ذکر - نیز بمعنی

نصیحت - توبہ -

ذَكُو - ذَكَا (ن) آگ کا مشتعل ہونا بجھوانا  
بو پھیلنا -

ذُكُوَانَة - چھوٹا زینہ - ج - :- ذُكَاوِيْن -  
ذُكُوَة - جس سے آگ بجھو کاٹیں - دھکتی ہوئی  
چنگاری -

ذُكُوْس - خوب یاد کر لینے والا -

ذُكُوْرُ الْبَقْلِ - سبزی جو لمبی اور موٹی یعنی  
خوب زور دار اگی ہو -

ذُكُوْرَة الطَّيِّب - خوشبو جس میں رنگ نہ ہو -  
کاغذ وغیرہ -

ذُكِيْ - تیز ذہن - ذبح کیا ہوا - مہکتا ہوا  
ذُكِيَة - جس سے آگ بجھو کاٹیں -

ذُكِيْتَة - دھکتی ہوئی آگ -

ذُكِيُوْر - خوب یاد کر لینے والا فولاد کا لوہا -  
ذُكِيُوْر - خوب یاد کر لینے والا

## ذ - ل

ذَل - روش - طریقہ - عادت - نرمی -  
مہربانی - ج - :- اذْ لَالٌ مَعْدُوقٌ  
نرم و مطیع ہونا -

ذَل - خوراک و ذلت - نرمی مص (ض)  
تاجدار اور خوار ہو جانا -

ذُلُّ - ذَلِيْل - خوار کرنے والی ذلت - بہت  
زیادہ ذلت و خواری -

ذَلُّ الطَّرِيْق - بیچ کار راستہ -  
ذُ لَّاح - پانی ملا ہوا دودھ -

ذَلَّ اذِلُّ النَّاسِ - ذُلُّ اذِلُّ النَّاسِ -  
کم مرتبے کے لوگ -

ذَلَّاقَة - تیز زبانی - خوش بیانی (ن) یس لک

ذَلَالَة - تیز زبان و خوش بیان ہونا۔  
 ذَلَالَة - ذَلَالَة - (ص) خوار ہونا۔  
 ذَلَال - خوار۔  
 ذَلَة - خواری۔ ذلت۔ مص (ص) خوار ہونا۔  
 ذَلَج - (ف) کھانا۔ جماع کرنا۔  
 ذَلَف - (س) چپٹی ناگ والا ہونا۔  
 ذَلَق - زبان کی تیزی۔ بھالے کی تیزی ہر چیز  
 کی تیزی۔ تیز۔ مص (ن) تیز زبان  
 اور خوش تقریر ہونا۔ پرند کا بیٹ  
 کرنا۔  
 ذَلِيق - زبان تیز۔ تیز بڑھی۔ خوش تقریر  
 ذَلِق - خوش بیان۔  
 ذَلَق - (س) تیز ہونا۔ بے آرام ہونا۔  
 چراغ کا روشن ہونا۔  
 ذَلَقَة - ہر چیز کی تیزی۔  
 ذَلِقَة - خوش بیان عورت۔  
 ذَلَم - ندی کے پانی کے جمع ہونے کی جگہ۔  
 ذَلُول - تابعدار۔ اپنے بس کا۔ ابر جس میں بجلی  
 اور گرج نہ ہو۔ جہ۔ ذَلُول۔  
 اذِلَة۔  
 ذَلُولِي - نیک خو۔ نرم خو۔ تابع۔ جہ۔  
 ذَلُولِيُون۔  
 ذَلِي - (ص) تر پھوارے چننا۔  
 ذَلِيَق - تیز زبان آدمی۔ خوش بیان۔  
 (م) ذَلِيَقَة۔  
 ذَلِيَل - خوار جہ۔ ذَلَال۔ اذِلَة۔  
 ذَلَمَة - ملامت کرنا۔  
 ذَلَمَة - بہت دبلا۔ ہلاک ہونے والا۔ امان  
 عہد۔ قبولیت۔  
 ذَمَاء - (ف) [عربی] کسی کام کا کسی پر دشوار  
 ہونا۔  
 ذِمَاء - حرکت کئے ہوئے گلے میں بقیہ جان۔  
 مص (س) قوی دل ہونا۔ دل کی قوت  
 ظاہر کرنا۔ حرکت کرنا۔  
 ذِمَار - وہ چیز جس کی حفاظت اور نگہداشت  
 انسان پر ضروری ہو۔  
 ذِمَارَة - دلاوری اور مردانگی۔  
 ذِمَاء - حق۔ واجب۔ حرمت و عزت اُبرو  
 جہ۔ اذِمَة۔  
 ذِمَامَة - امان۔ عہد۔ ضمانت و ذمہ داری۔  
 کفالت۔ حیا۔  
 ذِمَامَة - بچی ہوئی چیز۔  
 ذِمَمَت - (ص) متغیر ہو جانا۔  
 لاغر ہو جانا۔  
 ذِمَمَة - امان۔ عہد و پیمان۔ ضمانت۔ نگرانی  
 نور۔ قبولیت۔ دعوت کا کھانا۔  
 عہد و پیمان کو پورا کرنے والا۔  
 جہ۔ ذِمَم۔  
 ذِمَمَلَة - لڑھکانا۔  
 ذِمَمَة - کم کرنا۔ گھٹانا۔  
 ذِمَر - ملامت۔ مص (ن) لڑائی پر اُٹھانا  
 ڈرانا۔ شیر کا ڈر و کنا۔  
 ذِمَر - دلیر۔ مصیبت۔ آفت  
 ذِمَر - دلیر ہوشیار۔ مقصود کو حاصل  
 کرنے والا۔ بہت مدد کرنے والا۔

ذَلَمَة - ملامت کیا ہوا۔ ملامت مص (ن)

## ذ - ہ

ذُنَابَةُ الْوَادِي - نشیب میں پانی کا راستہ۔  
 ذُنَابَةُ الدَّهْسِ - اخیر زمانہ  
 ذُنَابِي - دم - پیچھے چلنے والے۔  
 ذُنَان - ناک کا پانی۔  
 ذُنَانٌ - کپڑے کی تہیں۔  
 ذَنْبٌ - گناہ - وہ کام جس کا کرنا ناجائز ہو۔  
 جِرٌّ - ذُنُوبٌ جِرٌّ - ذُنُوبَاتٌ  
 مص (رض) ن - پیچھے چلنا - کسی کے ساتھ  
 مردم رہنا اور اس کو تھپوڑنا۔  
 ذَنْبٌ - ذَمٌّ - جِرٌّ - آذُنَابٌ ہر لمبی چیز  
 آنکھ کا کویر - کان کی طرف دینا لہ چشم۔  
 ذَنْبَاتُ النَّاسِ - کم مرتبہ کے لوگ - نوکر چاکر - پیچھے  
 چلنے والے۔  
 ذُنُوبٌ - لمبی دم والا گھوڑا - وہ دن جس میں شر  
 وفساد کثرت سے ہو - ڈول جس میں  
 پانی ہو - حصہ - جِرٌّ - ذُنَابٌ  
 آذِنَةٌ -  
 ذَيْنٌ - ذَنْنٌ (رض) ناک سے پانی بہنا۔

## ذ - و

ذُو - صاحب - والا۔  
 ذُو الْحِجَّةِ - حج کا مہینہ۔  
 ذُو الْقَرْنَيْنِ - ایک خدا پرست بادشاہ کا لقب  
 جس نے مشرق و مغرب کو فتح کیا تھا۔  
 ذُو الْكِرْبَةِ - بہت تیز اور بہت کاٹنے والی  
 تلوار۔  
 ذُو الْكِفْلِ - حضرت ایاس یا حضرت زکریا یا حضرت  
 یوشع بن نون کا لقب۔  
 ذُو مَكْرُوْهَةٍ - شدت و سختی کرنے والا مرد۔

جِرٌّ - آذِمَارٌ  
 ذَمْرَةٌ - شہریاد و شور۔  
 ذَمِطٌ - جلد ہنعم ہو جانے والی غذا۔  
 ذَمَطٌ - (رض) گلا کا ٹٹا۔  
 ذَمَطَةٌ - بہت کھانے والا - عقل مند و ہوشیار  
 ذَمَلٌ - ذَمُولٌ - (رض) ن - نرم چال چلنا۔  
 ذَمَلَقٌ - چالیس آدمی - ہلکا پھلکا تیز زبان  
 مرد - تیز تلوار۔  
 ذَمَلَقَةٌ - چالیس کرنا - ایک دوسرے کے ساتھ  
 نرم کرنا۔  
 ذَمُولٌ - نرم رفتار اوٹنی - جِرٌّ - ذَمَلٌ  
 ذَمُومٌ - بہت عیب بیان کرنے والا۔  
 ذَمَّهٌ - (س) گرمی کا سخت ہونا۔  
 ذَمَّجٌ - بدبو - سڑا ہند۔  
 ذَمِّيَانٌ - (رض) دوڑنا - کسی چیز کی بوا بھی معلوم  
 نہ ہونا۔  
 ذَمِيْدٌ - دلیر - خوب صورت۔  
 ذَمِيْلٌ - نرم چال۔  
 ذَمِيْلَةٌ - عیب دار عورت۔  
 ذَمِيْمٌ - شبنم - پیشاب - ملامت کیا ہوا۔  
 ذَمِيْمَةٌ - ملامت کی ہوتی۔

## ذ - ن

ذُنَابٌ - ہر چیز کا پچھلا حصہ - وہ سستی جس سے  
 اونٹ کی دم کو اس کے تنگ سے بانڈھ  
 دیا جاتا ہے۔  
 ذُنَابَةٌ - پیچھے چلنے والا - جوتی کی ٹوک - نہر جو  
 سرسبز مقام سے کسی طرف نکل جائے۔  
 ذُنَابَةٌ - راستہ کا درمیانی حصہ - رشتہ داری - قرابت



چلے کو سختی و نرمی آزمانے کے لئے لکھینا  
ذَوِّلَق - تیزی۔  
ذَوِّلَقُ السَّيِّئَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ  
تیزی اور ان کا سرا یعنی زیادہ تیز  
حصہ۔

ذَوِّلَقِيَّة - تین حرف ہیں۔ رَا۔ لَام۔ نُون  
ذَوِّوِي - (س، ص، م، ب، ز) کا مڑ بھانا۔  
ذَوِّوِيل - خشک گھاس وغیرہ۔

## ذ - ۵

ذَا - یہ (اسم اشارے واحد مؤنث)  
ذَاكَ - طبیعت کی تیزی۔ ہوشیاری۔  
عقلندی۔  
ذَاهَاب - (فت) جانا۔ گزرنا [ب] لے جانا۔  
گزارنا۔  
ذَاهِب - سونا، جہر۔ اذْهَاب - ذَهْوَب  
اندھے کی زردی جہر۔ ذِهَاب - اذْهَاب  
مص (س) سونے کی کان پر دفعتاً چاچوچنی  
اور سونے کی کثرت دیکھ کر شکر رہ جانا

ذَاهِبٌ اَبْيَضٌ - پلاٹیم۔ ایک دھات۔

ذَاهِبَةٌ - سونے کا ٹکڑا۔

ذَاهِسٌ - (س) دانتوں کا سیاہ ہو جانا۔

ذَاهِلٌ - ذَهْوَلٌ - (فت) بے پروائی کے سبب  
بھول جانا۔

ذَاهِلٌ مِّنَ اللَّيْلِ - رات کی ایک ساعت۔

ذَاهِلٌ - اچھی چال والا گھوڑا۔

ذَاهِنٌ - (فت) ہوشیاری میں غالب آنا [ع]  
غافل کر دینا۔ بھلا دینا۔

ذَاهِنٌ - فہم۔ دانست۔ عقل۔ دریافت دل کی

ذَوِّمَلَّة - جو کسی کام سے تھک گیا ہو۔

ذَوِّالتَّوْنِ - "مچھلی والا" یعنی حضرت یونسؑ جیسی  
مچھلی نے نکل لیا تھا۔

ذَوَاةٌ - گیہوں، خربزہ وغیرہ کا جھلکا۔

ذَوَايَةُ - زلفت۔ پیشانی۔ پیشانی کے بال اگنے  
کی جگہ گھوڑے کی پیشانی کے اوپر  
کے بال۔ عزت۔ شرف۔ ہر چیز کا  
اوپر کا سرا۔

ذَوَادٌ - باجمیت اور غیرت مند آدمی۔ بہت دفع  
کرنے والا۔

ذَوَاقٌ - رنجیدہ خاطر آدمی۔

ذَوْبٌ - شہد (ن) گھلنا۔ سورج کی گرمی کا  
تیز ہونا۔ ہمیشہ شہد کھانا۔

ذَوْبَةٌ - بقیہ مال۔

ذَوْبٌ - (ن) پانی وغیرہ پینا۔

ذَوْبٌ - (ن) تندگی اور تیزی سے چلنا۔ ریوڑ  
اکٹھا کرنا۔

ذَوْدٌ - اونٹنیوں کا گلہ مص (ن) ہانکنا۔  
ہٹانا۔ ڈور کرنا۔

ذَوْسٌ - (ن) ڈرانا۔

ذَوْسٌ - خاک۔

ذَوْرٌ - تھوڑی چیز۔

ذَوَطٌ - (ن) گلا گھوٹنا۔

ذَوْعٌ - (ن) استیصال کرنا۔ جڑ سے اکھاڑ  
دینا۔ ہلاک کرنا۔

ذَوْقَانٌ - زہر۔

ذَوَقٌ - (ن) پاس پاس اور کھلے ہوئے قدم  
رکھ کر چلنا۔

ذَوَقٌ - (ن) مزہ چکھنا۔ کمان کے

ذبیح - ذبیحہ - ذبیحان - (ض) خبر کا مشورہ ہوجانا۔  
 ذبیحان - ذہرت تل۔  
 ذبیحیل - دامن ہر چیز کا پھلنا حصہ۔ ج:-  
 آذیال - ڈیول - آذیل - مص (ض) دامن کھینچنا۔ ناز سے دامن کھینچ کر چلنا۔ دامن والا ہونا۔ عورت کا ڈبلا ہوجانا۔ آسان اور ہلکا ہونا۔  
 ذیل الفرس - گھوڑے کی دم۔

ذیبح - عیب۔  
 ذیحم - ذام۔ (ض) کسی کا عیب بیان کرنا۔  
 ذیحموتی - عقل مند و ہوشیار آدمی۔  
 ذین - عیب۔

۲۰۰  
 ص۔ ا

صا۔ ا۔ ایک حرف ہے۔ حروف ہجائیں سے ایک درخت کا نام۔ دریا کا بھاگ۔  
 صاب - ستر اونٹوں کا گلہ۔ بڑا سردار۔  
 صا۔ ج:- ریشاب مص (ض) جوڑنا۔  
 سورج وغیرہ بند کرتا زمین [اصلح کرانا۔  
 صاب - مصلح آدمی۔ جوڑنے والا۔  
 صا۔ ج:- صیراب۔  
 صا۔ ج:- کامیاب تجارت۔  
 صا۔ ج:- خضابھی۔  
 صا۔ ج:- مقیم وساکن۔  
 صا۔ ج:- راہب۔ زاہد۔ دنیا سے نفرت

یادداشت عقل مندی۔ ہوشیاری تیزی ہم قوت۔ چربی۔ ج:- آذھکان  
 ذہو - (ن) تکبر و گردن کشی کرنا۔ اپنے کو بڑا سمجھنا۔  
 ذہوب - جانے والا۔ گرنے والا۔  
 ذہوب - (ض) بھانا۔ گرنے والا۔  
 ذہول - (س) غافل ہونا۔ فراموش کرنا۔  
 ذہیب - سونے کا مائع کیا ہوا۔

ذ - ی

ذیا۔ ج:- (ن) ہلکا۔ ڈور کرنا۔  
 ذیابیس - استسقا کی بیماری۔  
 ذیاج - تدبیر و ہنسنی کرنا۔ ہم پیالہ وہم نوالہ ہونا۔  
 ذیاد - مٹی سے ملا ہوا گوبر جو چوہ پائے کے نقص کو لگا دیتے ہیں۔ تاکہ بچہ دودھ نہ پیے  
 ذیال - لمبی دم والا۔ لمبے دامن والا۔ اتر کر پلٹنے والا۔  
 ذیب - بھیر یا۔ چھوٹا گھر۔ ج:- ذیاب  
 آذیب - ذیبان۔  
 ذیب - عیب۔  
 ذیبان - اونٹ کی گردن اور مونٹ پر بقیہ بال۔  
 بھیر پیے کی مادہ۔ پیشانی کے بال۔  
 اونٹ کے گلے کا ایک مرض۔  
 ذیت و ذیت - ایسا اور ایسا۔  
 ذیح - (ض) پانی وغیرہ پینا۔  
 ذیح - بھیر یا۔ دلاور آدمی بزرگی۔ سرخ رنگ کا ایک ستارہ۔ ج:-  
 ذیح - آذیاخ۔

<p>علیہ السلام کی پہلی پھونک جو بلبل بچا دینے والی ہوگی۔</p>	<p>کرنے والے حکیم۔ رَاطِطَة - عظیم الشان لشکر۔ سَاطِیح - چوتھا۔ اونٹ جس کا پانی پینے کا نیرا گیا ہو۔ جہ۔ رَاطِیح۔</p>
<p>رَاجِل - پیادہ پا۔ جہ۔ رَجَل - رَجَالَة۔ سَاطِیح - شراب۔ خوشی و نشاط۔ سخت ہوا والادون مع (رس) دل [خوشی خوشی کسی کام کے لئے چھیننا۔</p>	<p>رَاطِیح - ناز و نعمت اور راحت و آرام کے ساتھ زندگی۔ امر مقدر پر قائم ہونے والا۔</p>
<p>رَاحَة - پنجرہ۔ تھمبیلی۔ ہموار زمین۔ اچھا بڑھ اگانے والی خوشی۔ آسائش و آرام۔ کتھنڈا عورت گھر کا صحن جہ۔ رَاح رَاحَات (مورس) موسم گرما گذر جانے کے بعد وقت کا نئے تپوں سے آراستہ ہو جانا۔ کسی چیز کی بو یا نال (خوشی خوشی کسی کام کے لئے چھیننا۔</p>	<p>رَاحَة - مکاری۔ خباثت و چالاکی۔ مص آہستہ اور خراہاں خراہاں چلنا۔</p>
<p>سَاجِل - کوبچ کرنے والا۔ جہ۔ رَجَل سَاجِلَة - لڈو اونٹ۔</p>	<p>رَاطِیَة - بلندی۔ پستھ۔ ٹیلہ۔ زیادتی۔ سَاطِیب - تنخواہ۔ پنشن۔ جہ۔ سَاطِیب۔ سَاطِیع - چرنے والا چوپایہ۔ جہ۔ رِشَاع سُتَح۔</p>
<p>رَاجِل - حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا اسم مبارک (عبرانی لغت) رَاجِی - خوشگوار زندگی بسر کرنے والا۔ جہ۔ رُجَحَات</p>	<p>رَاطِیَة - ٹھنکنی عورت۔ جہ۔ رَاطِیل۔ سَاطِیح - کمینڈ آدمی جو خاست و دنات اور حرص جیسی صفات ذمیمہ کے ساتھ متصف ہو۔</p>
<p>رُجَد - سُرْمَة - خولہ عورت اور جوان عورت جہ۔ آسَاد</p>	<p>سَاطِیب - انگلیوں کی جڑوں کے جوڑ۔ جہ۔ رَاطِیب۔</p>
<p>سَاطِی - لوٹا دینے والا پھیر دینے والا۔ سَاطِیَة - زائد شاخ جو کھجور کے تن میں نکل آئی ہو چرنی۔ سرین۔ اسرافیل علیہ السلام کے صور کا دوسرا نغمہ۔ پہلے سے زیادہ دشوار اور مشکل کام۔ جہ۔ رَاطِی</p>	<p>سَاطِیب - غالب۔ بڑے سرین والی عورت سَاطِیب - عورت جو بیوہ ہو کر نیکے چلی جائے۔ پرندہ جو اپنی جماعت سے الگ ہو جائے۔ (د) جہاز کا مستولی۔ جہ۔ رَاطِیب لوٹنے والا۔ جہ۔ سَاطِیب</p>
<p>سَاطِیو - ریڈیو (د) سَاطِیوم - ریڈیم۔ ایک قیمتی دھات۔ (د)</p>	<p>سَاطِیب - چہچہ۔ وہ گدھا جس میں خراب اور گدھے پانی جمع ہو۔ سَاطِیب - جاڑا۔ بخار۔ رَاطِیَة - کانپنے والی۔ ہلنے والی۔ پہلا نغمہ صور۔ یعنی صور میں حضرت اسرافیل</p>

سَاضِب - بارش کا دو ٹکڑا۔	سَازِح - لاغری اور کمزوری کی وجہ سے گرا ہوا
سَاضِع - دودھ پیتا بچہ۔ بچیل آدمی۔ کیسٹ	اونٹ - جہ:۔ سَازِح
جہ:۔ رَضِع - سَاضِع - سَاضِع	رَاضِق - رزق دینے والا۔
رَاضِعَات - بچہ کے دودھ کے دودانت۔ جہ:۔	سَازِح - اونٹ جو لاغری اور کمزوری کی وجہ سے
رَاضِع - زمین سے نہ اٹھ سکے۔ جہ:۔ رِذَاه	رُستہ۔
سَاضِبَة - تانیٹ راضی و بمعنی مرضیہ یعنی عمرہ و	سَاس - سر۔ ہر چیز کا بلند اور بالائی حصہ۔
سَاضِبَة	سردار۔ جہ:۔ سَاسُوس
سَاضِب - کسی چیز کو لازم پکڑنے والا۔	سَاسُوس - مص (ت) سر پرانا
سَاضِبَة - گرجنے والا بادل۔ جہ:۔ رَاضِعَات	سَاسُوسُوس - آیت کا اخیر۔
سَاضِبَات - ہمارا خیال رکھو۔	سَاسُوسُوسُوس - بڑا اور ڈیل کتا۔
سَاضِب - والی سرپرست۔ حاکم۔ چرانے والا	سَاسُوسُوسُوسُوس - وجال۔ شیطان۔
محافظ جہ:۔ رَاضِعَات - سَاضِبَات	سَاسُوسُوسُوسُوسُوس - ایک بدنام پودا ہے۔
سَاضِبَات	سَاسُوسُوسُوسُوسُوسُوس - سرمایہ۔
سَاضِبَات - بلبانے والا۔ جہ:۔ رَاضِعَات	سَاسُوسُوسُوسُوسُوسُوسُوس - سرمایہ دار (د)
رَاضِب - (الی) رغبت کرنے والا (عن) منہ	رَاضِب - بردبار و ہوشیار انسان۔ ثابت اور
پھرنے والا۔	اٹل پہاڑ۔
سَاضِبَة - اونٹنی۔ جہ:۔ سَاضِبَات	سَاضِب - مضبوط مستقل۔ اٹل ثبات قدم۔
سَاضِبَات - بہت مہربان۔ شراب۔	سَاضِب - مہر ملامت۔ نشان۔ جہ:۔
سَاضِبَات - رَاضِعَات - رَاضِعَات - (رف. ک. س)	سَاضِبَات
مہربان ہونا۔ مہربانی و نرمی	سَاضِبَات - بلند مضبوط (پہاڑ) جہ:۔ رَاضِعَات
سَاضِبَات - دینے والا۔ مدد کرنے والا۔	سَاضِبَات - اونٹ کا بچہ جو ماں کے ساتھ چلتا
سَاضِبَات - چھوڑنے والا۔	ہو۔ پہاڑ جس کی جڑ تر ہو۔ جہ:۔
سَاضِبَات - چھوڑنے والا گروہ۔ شیعوں کا فرقہ	سَاضِبَات
کیونکہ انھوں نے حضراتِ شیعین رضی اللہ	سَاضِبَات - ہدایت پانے والا۔
چھوڑ دیا۔ جہ:۔ رَاضِعَات	سَاضِبَات - رشوت دینے والا۔ جہ:۔ سَاضِبَات
سَاضِبَات - منسوب بر فرض۔	سَاضِبَات - انتظار کرنے والا۔ شیر خزانے والا۔
سَاضِبَات - بلند۔ اٹھانے والا۔ رفع (پیش)	جہ:۔ سَاضِبَات
دینے والا۔ قریب کرنے والا۔ حاکم کے	سَاضِبَات - خوشنور و رضامند جہ:۔ رَاضِعَات
سامنے مقدم پیش کرنے والا۔	

راقِ - سراقیۃ - بھاڑ پھونک کرنے والا راقیۃ  
میں تائے مبالغہ ہے۔ ج۔: رُقَاۃ  
رَاقِد - سونے والا۔ ج۔: رُقُوذ - سُرُقَد  
رَاقُول - رسی جس کے ذریعہ کھجور کے درخت  
پر چڑھتے ہیں۔

سَاقِب - شتر سوار - سوار۔ ج۔: سُرُقَاب  
سُرُقَابَان - سُرُقَاب  
سَاقِد - اپنی جگہ ٹھہری ہوئی چیز۔ رِقْرَارِکِ  
ہوئی چیز۔ ج۔: سُرُقَا -

سَاقِع - سر ہلکانے والا۔ عاجزی اور ناکساری  
کرنے والا۔ ج۔: سُرُقَع -

سَاقِل - شتر مرغ کا بچہ۔ ج۔: سُرُقُل  
رَشْدَان - سَاقِل - سَاقِل  
سَاقِد - اونٹ کا بچہ۔ ٹھیس بھرا اونٹ کا  
بچہ۔

سَاقِد - بانگھل سفید برون ج۔: سَاقِد  
سَاقِد - نیرہ باز۔ جس کے پاس نیرہ ہو۔  
السَّيْمَاكُ السَّاقِد - ایک ستارہ کا نام

سَاقِد - اصل - سمندر۔ نمونہ۔ ج۔: سَاقِد  
سَاقِد - کسی چیز کی طرف تکیلی یا توجہ کو دینے  
والا۔ ج۔: رُقَاۃ

سَاقِد - وہ عورت جو روٹے کی آواز طلق میں  
پھرائے۔

سَاقِد - ایک چھواریہ کا نام جو زم و سیاہ  
اور چمکدار ہوتا ہے۔ اخروٹ۔

سَاقِد - ہر چیز کا کنارہ  
سَاقِد - بڑا اتمسبان۔ اللہ تعالیٰ کا  
اسم پاک۔

سَاقِد - گھوڑوں کا محافظ کسی کے شعر یا

قول کا نقل کرنے والا۔ ج۔: رُقَاۃ  
سَاقِد - تو شروان - مشک پانی سے بھری  
ہوئی۔ کسی کے شعر یا قول کو نقل  
کرنے والا۔ رتا اس میں مبالغہ  
کے لئے ہے۔

سَاقِب - شیر۔ نصاریٰ کا پارسا و عابد۔ ج۔:  
سَاقِبَان - مؤنث۔ کراہبتہ۔ ج۔:  
سَاقِب -

سَاقِب - ڈہلا آدمی۔ ڈہلا اونٹ۔ نبات و برقرار  
رہنے والا۔

رَالْعَالَةِ السَّاقِبَةِ - حالت حاضرہ (د)

سَاقِب - رُقَابَان - حیران رست برداشت  
خاطر۔ ج۔: سَاقِب -

سَاقِب - رات کو آنے والا۔ ج۔: سَاقِب  
سَاقِب - رات کے وقت کی بارش۔ خون۔ بونہ۔

ج۔: سَاقِب - صدقات کے وقت  
اونٹوں کا پھرتا۔

سَاقِب - آمدورفت کرنے والا۔ تلاش کرنیوالا  
سداغریب۔ وہ شخص جو قافلے سے  
آگے منزل تلاش کرنے کے لئے جاتا ہے

ج۔: سَاقِب - سَاقِب  
سَاقِب - رشوت دلوانے والا۔ دلال  
سَاقِب - پھیرے کو سدھانے کے پھلانے اور  
مطیع کرنے والا۔ ج۔: رَصَاۃ - رُقَاۃ

سَاقِب - خوبصورت۔ اچھی چیز۔ ج۔: سَاقِب  
سَاقِب - ٹپکتی ہوئی چیز

سَاقِب - چاہنے اور تلاش کرنے والا۔ ج۔: رُقَاۃ  
سَاقِب - اعتقاد بصیرت۔ ج۔: سَاقِب - آذائے  
مص (د) دیکھنا۔ غور و فکر کرنا

سَاقِب - چاہنے اور تلاش کرنے والا۔ ج۔: رُقَاۃ  
سَاقِب - اعتقاد بصیرت۔ ج۔: سَاقِب - آذائے  
مص (د) دیکھنا۔ غور و فکر کرنا

سَاقِب - چاہنے اور تلاش کرنے والا۔ ج۔: رُقَاۃ  
سَاقِب - اعتقاد بصیرت۔ ج۔: سَاقِب - آذائے  
مص (د) دیکھنا۔ غور و فکر کرنا

جاننا مشورہ کرنا - پھیل پھلہ پر مارنا  
ریاضی - سچ - دھج - حسن منظر -

## س - ب

سربت - گاڑھا شیرہ - تیل کی تھٹ - گاڑھا  
پانی - کسی چیز کا پھول ہونا -  
سربت - سربٹھا - رُبت - رُبتھا - بہت دفعہ -  
اکثر -

سربت - (فت) بچہ کو پرورش کرنا - یہاں تک کہ  
سرن بلوغ کو پہنچ جائے - مالک ہونا -  
زیادہ کرنا - آرام کرنا - ٹھیر جانا - سردار بننا -  
کام ٹھیک اور مکمل کرنا - انتظام کرنا -  
الترتب - پروردگار - خدا تعالیٰ کا نام - الف  
لام کے ساتھ اللہ جل شانہ کے سوا اور  
کسی پر اطلاق نہیں ہوتا - اور ماسوی  
اللہ کے لئے بغیر اصناف کے استعمال  
نہیں کیا جاتا - بادشاہ - سردار -  
انعام دینے والا - سرپرست - جہ -  
آسرتاب -

سرتب - (فت) دیدبانی کرنا - بلندی پر چڑھنا  
اوپر سے نیچے کی طرف دیکھنا - نگہبانی  
کرنا -

سرتب - سود - بیاج -

سرتب - (ن) بڑھنا - افزوں ہونا کسی کے  
پاس پرورش پانا -

سرتاب - ایک باج ہے - ابر -

سرتابتہ - حکومت و سلطنت - عمد و پیمان  
مص (ض) مالک ہونا -

سرتابتہ - بے وقوفی - عبادت

سرتابتی - گزار اور اکھڑ آدمی -  
سرتابتیہ - بھڑ اور بے وقوف عورت -  
سرتابتہ - لقع - فائدہ - بلی کی مانند ایک جانور  
سرتابتہ - (س) عورت کا جماع کے وقت بے  
ہوش ہو جانا -

سرتابتہ - گارابتائے والا - گارے سے عمارت  
بنانے والا -

سرتابتیہ - بدی - شر - فساد -

سرتابتہ - (ل) عقلمند ہونا - موٹا تازہ ہونا  
سرتابتہ - پھاڑ دینے والا شیر -

سرتابتہ - وہ رسی جس سے کوئی چیز باندھی جاتے  
(د) ٹائی جہ - سربط دل - مہمان -

سرتابتہ - مسافر خانہ (د) محتاج خانہ -  
جہ - سرتابتات - مص ہمیشگی  
کرنا - نگرانی کرنا - پان - ہاندھنا -

سرتابتہ - (ن) دل کا سخت ہونا [علی] دل کو قوی  
اور مضبوط کر دینا -

سرتابتہ - چار چار -

سرتابتہ - موٹا پا - فرہی - گوشت کی زیادتی -

سرتابتہ - جہان زراں لوگوں کا افسر - گردہ - ہر چیز  
کا منتہی یا شروع -

سرتابتی - خدا رسیدہ - اللہ والا - عارف باللہ  
عالم باہم - عقلمند - علم دین میں پختہ -

سرتابتہ - بہت اچھا پانی -

سرتابتہ - فراخی اور راحت و آرام کی زندگی -  
شیرہ - جہ - سرتابت -

سرتابتہ - چھوٹا - بلندی پر چڑھنا - بڑھنا -

سرتابتہ - اونچا گھر -

سرتابتہ - گھروالی -

سائیت - (ن) پالنا۔ پرورش کرنا۔

سائیت - (س) بندھو جانا۔ رُک جانا۔

سائیت - (ن) کسی کو حاجت سے روک دینا۔

سائیح - نفع۔ فائدہ۔

سائیح - ادنیٰ کا بچہ۔ بکری کا بچہ۔ ایک پرند

سائیتا - کدورت۔ تیرگی۔

سائیدای - کمان کا چلہ۔ کورہ۔

سائیب - نیل گاؤں کا گلہ۔ جہ۔ دیکھا۔

سائیس - (ن) بھرنے پر کرنا۔ مارنا۔

سائیس - سختی دینا۔

سائیسہ - میلی کھلی۔ بد صورت عورت۔

سائیس - (ن) [ب] انتظار کرنا۔

سائیس - پیٹ کے اندر کی چیزیں۔ انتڑیاں

سائیس - شہر پنہا۔ بکریوں کی جائے۔

سائیس -

سائیس - (ن) باندھ دینا۔

سائیسہ - بٹول۔ پیکٹ۔ گلدستہ۔ نکٹائی۔

سائیسہ - (جہ) سائیسات (د)

سائیسہ الساق - پاؤں میں باندھنے کی پٹی (د)

سائیسہ - چوتھیا بخار جو ایک دن آئے اور دو

دن نافذ کرے۔

سائیسہ - چار میں کا ایک جہ۔ آذیاع دُبُوع

سائیسہ - گھر۔ جہ۔ دُبع۔ آذیاع

سائیسہ - اقامت گاہ۔ آدمیوں کی جماعت

سائیسہ - میانہ قدر آدمی۔ مص (ن) رُک

سائیسہ - ارزانی اور فراخی کا زمانہ آجانا۔

سائیسہ - کسی کو چوتھیا بخار آنا۔ مال میں سے

سائیسہ - چھانڈ لینا چوتھیا ہونا۔ قرار بچھڑنا

سائیسہ [علی] مہربانی اور رغبت کرنا [عن]

سائیسہ - بازار ہونا۔ کوتاہی کرنا۔

سائیسہ - میانہ قدر آدمی۔ خواہ مرد ہو یا عورت

سائیسہ - رِبَعَات

سائیسہ - سیرانی۔ بغار۔ مص (ن) [ن] نعمت

سائیسہ - آدمیوں میں زندگی بسر کرنا۔

سائیسہ - فراخی اور آسودگی۔

سائیسہ - بکری وغیرہ کے گلے میں باندھنے کی

سائیسہ -

سائیسہ - (ف) رسی کے حلقے میں جانور کا گلا

سائیسہ - باندھنا۔

سائیسہ - رسی کے حلقے جس میں گلا رہتا ہے۔

سائیسہ - جہ۔ سائیسہ۔ آذیاع۔ سائیسہ

سائیسہ - سست۔ تہذیب۔ آدمی۔

سائیسہ - (ن) ملانا (س) حیران و سرگردان ہونا

سائیسہ - کام کا درست ہونا۔

سائیسہ - ٹیلا۔ بلندی۔ پھولی ہوئی سانس آدھیوں

سائیسہ - کی جماعت۔ جہ۔ آذیاع

سائیسہ - (ن) زیادتی اور افزونی ہونا۔ چھوٹا

سائیسہ - برٹھنا۔ سانس چھڑھ جانا پرورش پانا

سائیسہ - بیاج۔ سود (نا جائز) منافع۔

سائیسہ - زیادہ۔ سائیسہ۔ ٹیلا۔ بلندی

سائیسہ - جماعت عظیم۔ جہ۔ سائیسہ

سائیسہ - پیلے خاند سے بیوی کا بیٹا۔

سائیسہ - رب کی طرف منسوب۔

سائیسہ - مالک اور رب ہونا۔

سائیسہ - عورت جو جماع کے وقت بے ہوش

سائیسہ - ہو جائے۔

سائیسہ - (ن) [د] مقیم ہونا۔

سائیسہ - (ص) بکری۔ گائے۔ گھوڑے کتے

آدمی -

## س - ت

سَمَات - سروار جہ - سَمَاتُوت - دُتَان  
 سَمَاتَاَج - بڑا دروازہ جس میں چھوٹا دروازہ ہو -  
 سَمَاتَاَجَة - سخت پتھر جہ - سَمَاتَاَجِج -  
 سَمَاتَاَه - ٹوٹا ہوا - بکھرا ہوا -  
 سَمَاتَاَهَة - درجہ - پایہ (د) عمدہ - خطاب -  
 پوزیشن - جہ - سَمَاتَاَب  
 سَمَاتَاَبَل - ٹھنکانا آدمی -

سَمَاتَاَج - (ن) دروازہ بند کرنا -

سَمَاتَاَجَان - (ن) بچہ کا چلنا -

سَمَاتَاَجَة - سخت آدمی - مٹی اور پانی (یعنی گارا)  
 سَمَاتَاَج - سَمَاتَاَج - سَمَاتَاَج - (ت) چوپایہ کا خوشی  
 کے ساتھ خوب ڈٹ کر چرنا اور پانی  
 پینا - چراگاہ میں جہاں چارہ کی کثرت  
 ہو - شوق اور رغبت سے چرنا -

سَمَاتَاَجَة - ارزانی کے زمانہ میں آسودگی -

سَمَاتَاَج - بندھا ہوا - جڑا ہوا (حق) یا تھنا  
 بند کرنا -

سَمَاتَاَج - (حق) زائل شدہ - بیکارت کا پھر پیدا  
 ہو جاتا -

سَمَاتَاَجَاء - وہ عورت کہ جس سے تنگی فرج کی وجہ  
 سے جماع نہ کر سکیں -

سَمَاتَاَج - کڑک - سَمَاتَاَجَان (حق) اونٹ کا  
 دوڑنا -

سَمَاتَاَجَل - اچھی اور صحیح بات - ہر چیز خوب اور  
 عمدہ - کشادہ دانتوں والا - تہامت

سفید آبدار اور سہوار دانت - سردار

کا بیٹھنا - جگہ دینا - کسی کے پاس ٹھہرنا -  
 (علی) شکر کا شکر کو دیا کر بیٹھنا -

سَمَاتَاَجَان - برطا اور چیلی ہوتی شاخوں والا درخت  
 برطی آبادی والا گاؤں - برطی زنجیر -

فراخ زردہ - جہ - سَمَاتَاَجَان  
 شیرہ بچنے والا -

سَمَاتَاَجَان - سَمَاتَاَجَان - کا واحد یعنی خدا رسیدہ آدمی  
 (ن) پرورش پانا -

سَمَاتَاَجَان - پروردہ - پہلے خاوند سے بیوی کا بیٹا  
 مال کا شوہر - بادشاہ -

سَمَاتَاَجَان - دانی - بیوی کی بیٹی پہلے خاوند سے -  
 گھر ٹوکری - جہ - سَمَاتَاَجَان

سَمَاتَاَجَان - برطا پالان -  
 سَمَاتَاَجَان - رجسٹر وغیرہ رکھنے کا صندوق -

سَمَاتَاَجَان - بندھا ہوا چوپایہ - نصاریٰ کا پارسا  
 زاہد - خانقاہ نشین - دنیا سے الگ  
 تھنک رہنے والا فلسفی -

سَمَاتَاَجَان - چوپایہ جس کو باندھ دیا گیا ہو -  
 موسم بہار کی بارش - چھوٹی نہر -

زمین کے حصہ کا پانی - چاروں کا ایک  
 جہ - سَمَاتَاَجَان دو زمینوں کا نام موسم  
 بہار - بعض صحابہ رضہ کا نام -

سَمَاتَاَجَان سَمَاتَاَجَان - بہت شاداب - موسم بہار  
 سَمَاتَاَجَان - لوہے کا خود - سرسبز و شاداب مقام  
 مرغزار - توشہ دان - خوشبو وغیرہ  
 کا ظرف -

سَمَاتَاَجَان - چوپایہ کا بچہ جس کی گردن میں رسی ہو  
 جمال میں پھنسا ہوا شکار -

سَمَاتَاَجَان - ایک قسم کا کھانا - حیران و سرگردان



مص (ض) پڑانا ہونا۔ بوسیدہ ہونا  
سرتان۔ متواتر اور گنگا تار بارش کہ اس کے  
درمیان میں معمولی سا سکون بھی ہو۔  
سرتاشۃ۔ گھر کا پڑانا اور بوسیدہ سامان۔  
بے وقوف عورت۔ کمزور و ذلیل آدمی  
جہ۔ سرتاشۃ۔  
سرتاشد۔ متفرق۔ مختلف گروہ۔  
سرتاشد۔ (ن) کسی چیز کو متفرق کر کے رکھنا  
دیر کرنا۔ انتظار کرنا (س) خاک رنگ  
کا ہو جانا۔

سرتاشع۔ (س) لالچی اور انتہائی حریص ہونا۔  
سرتاشد۔ (ض) ناک وغیرہ توڑ دینا خون آلودہ  
کرنا۔ عورت کا ناک پر خوشبو لگانا۔  
سرتاشو۔ (ن) مردہ کی تعریف کرنا۔ اور روتا  
یا دکرنا۔  
سرتاشوط۔ (ن) ثنابت و قائم رہنا۔  
سرتاشقی۔ (ض) سیانہ۔ ریشائیۃ۔ (ض) مردہ کو روتا۔  
مردہ کی تعریف کرنا اور اُس کی تعریف  
میں نظم کرنا۔

## س-ج

سرتاج۔ (ض) حرکت دینا۔ زور سے حرکت کرنا  
روک دینا۔ دروازہ بنانا۔  
سرتاجا۔ امید۔ (ن) امید رکھنا۔  
سرتاجا۔ برٹے کو ان کی اونٹنی جس کا کو ان  
چلنے میں حرکت کرے  
سرتاجاج۔ دہلی بکریاں۔ وہ۔ سرتاجاجۃ  
سرتاجاد۔ (ن) خوشبو کو کھلیان میں لے جانا۔  
سرتاجاد۔ جو شخص خوشوں کو کھیت سے کھلیان

نہایت شیریں پانی۔  
سرتل۔ خوبی زینت۔ دانت کی سفیدی اور  
آبداری۔ درست بات۔  
سرتشم۔ (ض) توڑنا۔ ریزہ ریزہ کرنا۔ یونٹنا  
کہنا۔ ناک توڑنا [خ] کسی قوم میں  
پرورش پانا۔ رقم گھاس چرنا۔  
سرتشن۔ (ض) چرنی کو خون میں آلودہ کرنا۔  
سرتشوء۔ (ن) گرہ کو مضبوط اور سخت کرنا گلا  
گھوٹنا۔

سرتوب۔ (ن) ثنابت ہونا۔ مقیم ہونا۔ سیدھا  
کھڑا ہونا۔  
سرتوت۔ (ض) گند زبان ہونا۔  
سرتوتخ۔ (ف) آگے کا زیادہ پانی ڈل جائے  
کی وجہ سے پتلا ہو جانا [خ] آفات  
اختیار کرنا [خ] کسی کام سے پیچھے  
رہ جانا۔  
سرتوتق۔ عزت۔ غلبہ۔ شرف۔

## س-ت

سرتاء۔ بے وقوفی (ن) دودھ کا گاڑھا کرنا  
مرثیہ کہنا۔ یعنی مرے ہوئے کی تعریف  
کرنا اور روتا۔ رائے کو گروہ کر  
دینا۔ غصہ دہ جانا۔  
سرتاء۔ سفیدی ملی ہوئی سیاہی۔  
سرتاء۔ گھر کا نکما اور بوسیدہ سامان پڑانا  
کپڑا۔ جہ۔ سرتاقت  
سرتاء الہدیۃ۔ بد حال و بد ہیئت۔  
سرتاءۃ۔ ریشائیۃ۔ مردہ پر رونے والی عورت  
سرتاقتۃ۔ ریشائیۃ۔ لکھی۔ بوسیدگی۔ بد حالی۔

سَاحَسُ الشَّيْطَانِ - شیطان کے دوسرے۔	میں لے جائے۔
سَاحَسٌ - شعری ایک بحر کا نام	سَاحَسٌ - دریا۔ گرجنے والا بادل۔ بلبلا نے والا
سَاحَسٌ - (ن) رجز پڑھنا۔	ادبٹ۔
سَاحَسٌ - پلیدی۔ گناہ۔ کفر۔ ہرگز اکام بعینت	سَاحَسَةٌ - (رک) افعال قبیحہ کرتا۔ ناپاک ہوتا۔
سَاحَسٌ - گرج۔ اونٹ کی بلبلا ہٹ مہن (ن)	سَاحَسٌ - اونٹ کی مہار۔ ج۔۔۔ آر جعۃ۔
ابر کا گرجنا۔ اونٹ کا بلبلا نا۔	سَاحَسٌ - مص (ض) چوپایہ کا دُم اٹھا
(ض) [عن] کسی کام سے کسی	کر پیشاب کرنا۔
کو روک دینا۔	سَاحَسٌ - دریا۔ قیامت کا دن۔
سَاحَسٌ - ہارش جس سے پہلے ہارش ہو چکی ہو	سَاحَسٌ - لوگ (رجل کی جمع) پیادہ پار (رجلان
نفع۔ موسم بہار کا سیزہ۔ چہ بچہ۔	کی جمع)۔
پانی۔ پاخانہ ج۔۔۔ دجاج۔ سَاحَسٌ	السَّاحَسُ الْعَسْفَرِيُّونَ - ملٹی عسیدار (د)
مص خط کا جواب دینا۔ لوٹانا۔ کلام	السَّاحَسُ الْبَلْبَلِيُّونَ - سویلین عسیدار (د)
کا اڑ کرنا۔	سَاحَسٌ - پتھر جسے رتی میں باندھ کر گستاخی
سَاحَسَانٌ - سَاحَسٌ خط کا جواب۔ واپسی۔	معلوم کرنے کے لئے کونٹیں میں ڈالتے
رجوع۔	ہیں۔
سَاحَسَةٌ - خط کا جواب مص دینا کی طرف	رَجَبٌ - (ن) شرم دینا کرنا۔
لوٹنا۔ طلاق دینے کے بعد رجوع	سَاحَسٌ - سَاحَسٌ - (ن) تعظیم کرنا۔ عزت و
کرنا (د) رسید۔ معاکسٹیل۔ ری آکشن	توقیر کرنا۔ گالیاں دینا۔ یرائی کی
سَاحَسَةٌ - خط کا جواب۔	تہمت لگانا۔
سَاحَسٌ - رجوع پسند۔ (د)	سَاحَسٌ - ایک قری مہینہ کا نام۔ ج۔۔۔ آر جاب
سَاحَسٌ - سَاحَسٌ (ن) حرکت دینا۔ حرکت	سَاحَسٌ - رَجَبٌ - سَاحَسَاتٌ
کرنا۔	مص (س) ڈرنا۔ شرم کرنا۔ تعظیم کرنا۔
سَاحَسَانٌ - سَاحَسٌ - (ن) زور سے ہٹنا۔ زلزلہ	سَاحَسٌ - بھرے ہوئے برتن۔ عظیم الشان
ہوتا۔ جنگ کے لئے آمادہ ہوتا۔	فرصیں۔
بادل گرجنا۔	سَاحَسٌ - (مبجولاً) کانپنا۔
سَاحَسَةٌ - کپکپی۔ لرزہ۔	سَاحَسٌ - ہلنے اور کانپنے والا۔
سَاحَسٌ - (ن) پاؤں پر مارنا۔ پاؤں میں جاگنا	سَاحَسَةٌ - کانپنا۔ تھکا دینا۔
عورت کا بچہ جنبتا جس کے پاؤں	سَاحَسٌ - پلیدی۔ بت پرستی۔ بت۔ شرک۔
سر سے پہلے باہر آئیں۔ اونٹنی کے بچہ کو	دبا۔ عذاب۔

سَرَجَمَةٌ - پتھر جو قبر پر رکھے جائیں۔ علامت۔  
 نشان۔ یا پتھر کا نمونہ وغیرہ کی۔  
 سَرَجَمَن - (ن) چرو یا یہ گھر پر ہی رکھنا اور چراگاہ  
 میں نہ بھیجنا۔ شرم کرنا۔  
 سَرَجْو - کنارہ۔ جبر۔ آسما جَاء  
 سَرَجَاء - سَرَجَاوَةٌ - (ن) امید رکھنا  
 سَرَجُوح - سَرَجَان - (ت۔ ض۔ ن) ترازو کا  
 بھک جانا۔  
 سَرَجُوس - بلبیلانے والا اونٹ۔  
 سَرَجُوع - (ن) واپس ہو جانا۔ پرتد کا سرو ملک  
 سے گرم ملک میں آجانا۔  
 سَرَجُوع - خط کا جواب۔  
 سَرَجُولِيَّةٌ - رَجُولِيَّةٌ - سَرَجُولِيَّةٌ - مروی  
 مردانگی۔  
 سَرَجُوه - آلات سنگساری۔ واہ۔ رَجِيم یعنی  
 مَآئِزِجَمَ يَه -  
 سَرَجُون - (ن۔ س۔ ك) مانوس ہونا جب کسی  
 جگہ اقامت اختیار کرتا۔  
 سَرَجَه - (ف) پنجہ مارنا۔ ٹک جانا۔ بچہ  
 کا بڑھنا۔  
 سَرَجِيْع - بات جو منکھم کی طرف عائد ہو۔ گو بر۔  
 تالاب۔ سفر کی وجہ سے۔ درمائدہ اونٹ  
 جبر۔ سَرَجِع -  
 سَرَجِيْعَةٌ - اونٹنی جو ایک سفر سے دوسرے سفر  
 میں لوٹائی جاتی رہے۔ دوسری اونٹنی  
 جیسے پہلی اونٹنی فروخت کر کے اس کی  
 قیمت سے خرید گیا ہو۔ جبر۔  
 سَرَجَارِيْع -  
 سَرَجِيْل - بہت چلنے والا۔ وہ گھوڑا جس کا سم

دودھ پینے کے لئے چھوڑ دینا۔  
 سَرَجُلُ الشَّعْرِ - وہ شخص جس کے بال نہ بالکل  
 سیدھے ہوں نہ گھونگڑا لے ہوں۔ جبر۔  
 آسما جَال - سَرَجَالِي -  
 سَرَجَل - پیادہ پا جبر۔ سَرَجَالَةٌ  
 سَرَجَل - بالغ مرد۔ بہت جماع کرنے والا پیادہ  
 پا جبر۔ سَرَجَال -  
 سَرَجَل - پاؤں۔ جبر۔ آسما جَل ہر چیز کا  
 ٹکڑا۔ شراب وغیرہ کی ادھی مشک جھتہ  
 نصیب۔ بہت سونے والا آدمی۔  
 سفید کا غد۔ ہلاکت۔ عذاب۔ ففسدہ  
 ناپاکی۔ جبر۔ آسما جَال  
 سَرَجِل - (س) بڑے پاؤں کا ہونا۔ پیدل چلنا۔  
 یالوں کا سیدھے اور گھٹنہ والے ہونے  
 میں درمیانی حالت پر ہونا۔ جبر۔  
 سَرَجَلَان - پیادہ مرد۔ جبر۔ سَرَجَالِي سَرَجَالِي  
 سَرَجَلَكَةٌ - عورت۔  
 سَرَجَلِي - پیادہ عورت۔ جبر۔ سَرَجَال  
 سَرَجَم - اٹکل۔ دوست۔ ہم نشین۔ عزیز۔ لعنت  
 گالی۔ وہ پتھر وغیرہ جس سے سنگساری  
 جبر۔ سَرَجُوه بَرَأِي - مص (ن)  
 مارڈانا سنگسار کرتا۔ کسی کو زنا کی  
 تہمت لگانا۔ اٹکل سے بات کہنا ٹھٹھانا  
 بھانگنا۔ گالی دینا۔  
 سَرَجَه - کنواں۔ تنور۔ قبر۔ گول۔ کشادہ جگہ  
 سَرَجُوه - ٹوٹ کر گرنے والے ستارے۔ پتھر  
 جن سے قبر کو پاٹا جائے۔ و۔  
 سَرَجَه -  
 سَرَجَمَةٌ - قبر۔ جبر۔ سَرَجَام

سرخسختہ - کسی چیز کی تہ کو نہ پہنچنا [ب] گولی بول  
اور جمل بات کہنا [ع] کسی چیز کو کسی  
سے چھپانا -

سرخسختہ - (ن) دھونا۔ (مہولاً) بنار کے مریض کو  
پسینہ آنا -

سرخسختہ - پسینہ جو کثرت کی وجہ سے بڑھے  
سرخسختہ - اونٹ کا پالان - جہ: آڑھل - رخال  
سفر کا سامان - (اقامت گاہ مع (ن)

اونٹ پر پالان رکھنا - کوچ کرنا [ل]  
کسی کی شرارت پر صبر کرنا -

سرخسختہ - پالان رکھنے کا ڈھنگ - کوچ  
سرخسختہ - کوچ کوچ کرنے کا رخ - مقصد -  
ایک سفر -

سرخسختہ - (س) ک - وضع حمل کے بعد بیماری  
رحم میں مبتلا ہو کر عورت کا مرجانا -

سرخسختہ - (س) کسی پر مہربانی کرنا -  
سرخسختہ - عورت کا بچہ دلن - قرابت - رشتہ داری  
جہ: آسناحہ

سرخسختہ - مہربانی شفیقت - معافی - مغفرت -  
سرخسختہ - رحم کی ایک بیماری - وضع حمل کے بعد  
رحم کی مرینہ -

سرخسختہ - مہربانی کرنے والا - اس کا اطلاق ذات  
باری تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے -

سرخسختہ - مہربانی (س) مہربانی کرنا -  
سرخسختہ - بڑی مہربانی (اس کا استعمال رہبوت  
کے مقابلہ ہی میں ہوتا ہے) -

سرخسختہ - (ن) چکی بنانا - چکی چلاتا - سانپ کا  
کندلی مار کر بیٹھنا -

سرخسختہ - (ن) چکی بنانا - چکی چلاتا - سانپ کا  
کندلی مار کر بیٹھنا -

سرخسختہ - (ن) چکی بنانا - چکی چلاتا - سانپ کا  
کندلی مار کر بیٹھنا -

سرخسختہ - نگہ سے ثبات قدم اور صابر مرد - جہ:  
سرخسختہ

سرخسختہ - دفع کیا ہوا - نکالا ہوا - سنگسار کیا ہوا  
قتل کیا ہوا -

سرخسختہ - زہر قاتل -  
سرخسختہ - جماعت - گروہ -

## سرخ

سرخسختہ - چکی کا پاٹ (تینید) سرخوان  
سرخسختہ اللہ تعالیٰ - اطراف زمین کی فرخیاں

سرخسختہ - شراب -  
سرخسختہ - (ک) میں فراخ اور کشادہ ہونا -

سرخسختہ - بنار کا پسینہ -  
سرخسختہ - خالص صاف - شراب -

سرخسختہ - بین کے فرش - اونٹ کے پالان - واہ -  
سرخسختہ

سرخسختہ - جو پالان رکھنے میں ماہر ہو - بہت کوچ  
کرنے والا - جہ: سرخسختہ

سرخسختہ - زمین - جہ: سرخسختہ -  
سرخسختہ - (ک) میں فراخ و کشادہ ہونا -

سرخسختہ - فراخ (مؤنث) سرخسختہ -  
سرخسختہ - کشادہ زمین گھاس بہت اگانے والی

انگوروں کی جگہ - جہ: سرخسختہ  
سرخسختہ المکان - مکان کی کشادگی -

سرخسختہ - پہلو کی بڑیوں میں سے سب میں چوڑی  
بڑی - اونٹ کے پہلو میں ایک

سرخسختہ - (ن) چکی بنانا - چکی چلاتا - سانپ کا  
کندلی مار کر بیٹھنا -

سرخسختہ - کندلی مار کر بیٹھا ہوا سانپ -  
سرخسختہ - وسیع - چوڑا

سَرْحَاْمَۃ - نرم اور آسان ہونا۔ نرمی اور نراکت سے گفتگو کرنا۔

سَرْحَاْحِی - نرم ہوا۔ سنگ مرمر کا ٹکڑا۔

سَرْحَتْ - اثاث البیت۔ سامان خانہ۔ ایک

ریشمی کپڑا۔ زین۔ (د)

سَرْحَشْتِہ - حرکت۔ جنبش۔

سَرْحَص - نرم و نازک۔ ج۔:۔ سَرْحَاْیِص

(مؤنث) سَرْحَصَۃ -

سَرْحَص - ارزانی میں (لک) ارزاں ہونا۔

سَرْحَصَۃ - آسانی فراخی (د) چھٹی میں (ن) کام

کو آسان اور سہل کر دینا۔ خدا تعالیٰ

کی طرف سے بندہ کے لئے آسانی ہونا

اور اجازت دینا۔

سَرْحَف - سَرْحَفَۃ - مسک۔ پتلا گندھا ہوا آٹا۔ نرم

اور ہلکا پتھر۔ ج۔:۔ سَرْحَاْف

سَرْحَف - سَرْحَاْفَۃ - سَرْحُوْقَۃ - (ن۔ لک۔ س)

آٹے کا پتلا ہونا۔

سَرْحَل - سَرْحَلَۃ - بھیر ہلکی پٹھیا (یعنی مادہ پتھر)

ج۔:۔ اَرْحَل - سَرْحَال - رَحْلَان

سَرْحَمَۃ - (ن۔ ف) کسی پر مہربان اور اس سے

محبت کرنا۔ مرغی کا اندھے کو پروں کے

نیچے ڈالنا۔

سَرْحُو - سَرْحُو - نرم جروں جو نرمی سے ادھرتے

ہیں اور وہ تیرہ ہیں۔ سَرْح - سَرْح - سَرْح

سَرْح - سَرْح - سَرْح - سَرْح - سَرْح - سَرْح - سَرْح

سَرْح - سَرْح - سَرْح - سَرْح - سَرْح - سَرْح - سَرْح

سَرْحُوْد - نرم ہڈیوں والا۔ اور گوشت آدمی نرم

نازک عورت۔

سَرْحِیص - سستا۔ نرم و نازک کپڑے۔ سوت

سَرْحُوْر - جس عورت یا وطنی کو بچ پیدا ہونے

کے بعد رحم کا مرض ہو جائے۔ رحم

کی ایک بیماری۔

سَرْحِی - (رض) چکی بنانا۔ چکی چلانا۔

سَرْحَا - چکی کا پاٹ (تثنیہ) سَرْحِیَان ج۔:۔

اَسْرَحَا

سَرْحِیْب - سَرَاخ و کشادہ۔ بہت کھانے والا

سَرْحِیص - ڈھلا ہوا کپڑا۔

سَرْحِیْق - تنھری ہوئی اور تھلیں شراب، ایک

قسم کی خوشبو۔

سَرْحِیْل - کوبچ۔ پالان رکھا ہوا اونٹ۔ بیرونی

کا مضبوط اونٹ۔

سَرْحِیْبُو - بہت مہربانی کرنے والا۔ ج۔:۔

سَرْحَمَا

## س - خ

سَرْح - (ن) پامال کرنا۔ شراب کو ملانا۔

سَرْح - ایک نرم گھاس۔ شطرنج کا ایک مہرہ

ایک قوی ہیکل عظیم الجثہ پرندہ ج۔:۔

سَرْحَاخ - سَرْحَاخَۃ -

سَرْحَاخَا - سستی۔ نرمی۔ خوش عیشی۔

(س۔ لک) سست و نرم ہونا۔

(س۔ لک۔ ن) آسودگی اور فراخی سے

زندگی بسر کرنا۔

سَرْحَاہ - ہلکی۔ نرم۔ (ہوا)

سَرْحَاخَا - خوش عیشی۔ نرم زمین۔ فراخ زمین

سَرْحَاصَۃ - رَحُوَصَۃ - (لک) نرم و نازک

ہونا۔

سَرْحَاہ - ایک سفید نرم پتھر۔ سنگ مرمر

جو جلدی سے خاتمہ کر دے۔  
 سنجیدہ۔ نرم و آسان کلام۔ نرمی و نزاکت اور  
 پست آواز سے گفتگو کرنے والی لڑکی۔

س - د

سدا - (ن) لوٹانا۔ پھیرنا۔  
 سدا - مددگار۔ مدد بخاری بوجھ  
 سدا - (ف) استون بنانا۔ مدد کرنا کوئی چیز  
 پھینک کر مانا۔ اونٹوں کی خوب دیکھ  
 بھال رکھنا۔  
 سدا - چادر۔ تلوار۔ کمان۔ عقل۔ جہل۔ جرح  
 پر تلہ۔ ج۔: آسنا۔  
 سدا - خرابی۔ مص (ک) خراب ہونا۔  
 سدا - چوپایہ پر ردیف (پٹھ کے پیچھے دوسرے  
 سوار) کے بیٹھنے کی جگہ۔  
 سدا - سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ دلد و جمع  
 حدی خواں۔

سدا - پھر جانا۔ پھیر دینا (علیٰ) قبول کرنا۔  
 کسی کی طسرت منسوب کرنا (الی) [

جواب دینا۔  
 سدا - گردن۔ زعفران۔ جسم میں خوشبو کا اثر  
 خون مص (ف) منع کرنا۔ روکنا۔  
 روکنا۔

سدا - (س) پیروی کرنا۔ پیچھے پیچھے چلنا۔  
 سدا - سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ بڑا تیرہ۔  
 سرین۔ بادشاہ کا مصاحب ج۔:

اسدا

سدا - رات دن۔  
 سدا - برسیدہ دیوار میں سے ٹوٹ کر جو طبع

گر جائے۔ یا جوج ماجوج کی دیوار بے  
 سوچیز۔ مص (ص) دروازہ بند کرنا۔  
 سوراخ بند کرنا۔

سدا - سوراخ کی بندش۔ ج۔: سدا  
 سدا - بال۔ بڑا مکہ۔ ج۔: سدا  
 سدا - سدا۔ (ص) اگر لڑنا۔ چلا جانا  
 تو لڑنا۔ ریرہ ریرہ کرنا۔ لڑکی کا ایک پاؤ  
 اٹھا کر دوسرے پاؤں پر چلنا۔ گھوڑے  
 کا دم کی چلنا۔

سدا - طلاق دی ہوئی عورت جو اپنے میکے  
 واپس آجائے۔

سدا - ہلاکی مص (س) ہلاک ہونا۔ مرجانا۔  
 سدا - سوار کے پیچھے بیٹھنے والا (د) ریزرو  
 فوج۔ ج۔: سدا  
 سدا - ہلاک ہونے والا۔ مرنے والا۔  
 سدا - خراب۔ نکما۔ فاسد۔ ج۔: آسنا  
 آسنا

س - ذ

سدا - نرم نرم برسنے والی بارش۔ جھڑ۔  
 جھڑ۔ مص (ن) پھوار برستا۔ جھڑ  
 لگنا۔

سدا - نالا تھی۔ کینہ پن۔ مص (ک) س (س)  
 ناہل اور کینہ ہونا۔

سدا - کینہ۔ ضعیف۔ تاکارہ۔ بے مروت  
 سدا - (س) بیمار و ضعیف اور سست ہونا

سدا - کینہ۔ پیچ۔ کبھی چیز۔ ج۔: آسنا  
 سدا - ڈڈال (ن) کینہ بنا  
 دینا۔

سازدھ - کمینہ ضعیف - تاکارہ - بے مروت -  
 سازدھم - سازدھمان - (ن حق) ہنا - جاری ہونا -  
 سازدھ - (س) کسی چیز کا لہریز ہونا -  
 سازدھی - بیمار - کمزور - سست - لاغر - عاجز -  
 سازذیل - رقبہ کمینہ - بیخ کنی چیز - ج - :-  
 سازذلاء - سازذاتی -  
 سازذیلۃ - بیخ پن ج - :- سازذائل

س - ز

سز - چاول -  
 سزء - مصیبت ج - :- آسزاء مص (ف)  
 کم کرنا (س) پینچنا -  
 ساززاح - سزء و ح - (ف) لاغری اور کمزوری کے  
 باعث گر پڑنا - لاغر ہو جانا (ب)  
 مارنا -  
 ساززاق - بہت روزی پیدا کرنے والا - بہت  
 روزی دینے والا -  
 ساززان - باوقار عورت -  
 ساززائۃ - سنجیدگی - وقار مص (ک) بردبار  
 اور صاحب وقار ہونا -  
 ساززب - (ن) لازم پکڑنا - جگہ سے نہ ہٹنا -  
 ساززع - (س) کیچڑ میں دھنس جانا - مشکل میں  
 پڑ جانا -  
 ساززحہ - (ف) (ب) نیزہ مارنا -  
 سازذاق - وہیات اور ان کے آس پاس کی زمینیں  
 پرکھ - ج - :- سزذاقان  
 سازذریق -  
 سازذغۃ - کیچڑ ج - :- سازذغ - سازذغ  
 سازذق - (ن) روزی دینا - شکر کرنا - نفع بخشنا -

عطا کرنا -  
 سازذق - روزی - روزینہ - فائدہ مند چیز - بارش  
 شکر - ج - :- سازذاق -  
 سازدھ - (ن) مرنا (علی) دشمن پر غالب آنا اور  
 اس پر جڑھ پھینچنا (ب) پکڑ لینا -  
 سازذمۃ - کپڑوں کی ٹھہری - ضرب شدید (د)  
 پکٹ - ج - :- سازدھ -  
 سازذن - بند اور ہموار مقام جہاں پانی ٹھہر کے  
 ج - :- سازذون - سازذان  
 سازذتۃ - پانی جمع ہونے کی جگہ - ج - :- سازذان  
 سازذون - لمبے لمبے قدم رکھنے والی اونٹنی -  
 سازذوم - سازذام - (ن حق) اونٹ کا لاغر اور کمزور  
 ہوجانا -  
 سازذی - (حق) کسی کا احسان قبول کرنا -  
 سازذیقۃ - مصیبت - ج - :- سازذایا -  
 سازذیغ - لاغر کمزور اونٹ - ج - :- سازذی  
 سازذاجی -  
 سازذیف - (حق) اونٹ کا بلبلانا - تیر دوڑنا -  
 نزدیک ہونا (ب) آگے بڑھنا -  
 سازذین - صاحب وقار - بردبار - قیمتی اور  
 وزنی چیز -

س - س

سس - ایک کنواں یا ایک دادی  
 راضیاب الدس - ایک قوم جنہوں نے اپنے نبی  
 کو چاہ رس میں قید کر کے مار ڈالا تھا -  
 یا وہ قوم جو دادی رس میں رہتی تھی -  
 سسآلۃ - (س) آسہنگی سے چلنا - گلے ہوئے  
 بالوں والا ہونا -

سرسہر - مکانات کے کھنڈروں پر ہونے والے پھولوں  
 علامت حقیقت کا مقابل یعنی مجاز  
 (د) نقشہ - قرطریج - رؤسوم - آرسوم  
 (ن) مشا دینا بخور کھانا مٹ جانا بخور  
 جانا (علیٰ لکھنا) [حکم کرنا] [فی]  
 غائب اور ناپدید ہو جانا -

سرسہر - خوبی - حسن -

سرسہر - باقاعدہ - آفیشل - سرکاری (د)  
 سرسٹن - (ن جن) رسی بنانا - رسی سے ہانڈھنا  
 رسی - مہار کی رسی - ج - آرسٹن  
 آرسٹن -

سرسنو - (ن) کسی جگہ ٹھہرنا اور استوار ہونا  
 [فی] ثابت قدم رہنا [پین] صلح کرانا  
 فساد کی اصلاح کرنا [عن] کسی سے کوئی  
 بات نقل کرنا -

سرسوب - (ن جن) کسی چیز کا بطور گاد کے نیچے  
 بیٹھ جانا - آکھ کا اندر کوکھس جانا -  
 سرسوب - تلوار جو کاط کر صاف نکل جائے تیز  
 کا سرا -

سرسوخ - (ن) مستحکم و پائدار ہونا - پانی کا  
 زمین میں جذب ہو جانا -

سرسول - پیغام - پیغام بری - پیغام لے جاتے  
 والا - اپنی - قاصد - ج - سرسول  
 آرسول - سرسولاء -

سرسی - خیر کا درمیانی ستون - مستقل مزاج آدمی  
 سرسینخ - خوشگوار زندگی -

سرسیل - فراخ صاف و ستھری اور لطیف چیز پیغام  
 بھیجنے والا - خوشگوار پانی -

سرسیم - (ن جن) اونٹ کا تیر چلنا - اونٹ کا اپنی چال

سرسالہ - خط - پیغام - ج - سرسائل  
 سرسالہ بزرگیتہ - شمار (د)  
 سرسار - مصور - نقشہ کش (د)  
 سرسبب - آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا  
 نام - بردبار و مہوشیار آدمی -

سرسباق - گاؤں - ج - سرسابق  
 سرسبح - (ن) سرین کا دہلا ہونا - رانوں کا  
 دہلا ہونا -

سرسستہ - اونٹ کا اٹھنے کے لئے حرکت کرنا -  
 سرسبع - (ن) بیکرا اور ڈھیلا ہونا (مغز کا)  
 [ب] کسی چیز کے ساتھ چٹنا -

سرسبع (ن) آنکھ کی پلکوں کا مل جانا - بیماری  
 کی وجہ سے -  
 سرسبع - کلائی - ٹخنہ - گٹ - پونچھا - ج -

آرسبع - آرسبع  
 سرسبع - جو پایہ کے ہاتھ پاؤں کی سستی اور  
 ڈھیلا پن -

سرسف - سرسبب - رسفان - (ن جن)  
 اس تیدی کی طرح چلنا جس کے پاؤں  
 میں پیریاں پڑی ہوئی ہوں -

سرسئل - نرم روش - نرمی و آہستگی - پروباری  
 سرسئل - گروہ - بھڑک - گد - ج - آرسئل  
 سرسئل - نرم رفتار - آہستگی سے چلنے والا اونٹ  
 لٹکے ہوئے ہال (ن) نرمی اور آہستگی

سرسئلہ - کھلے ہوئے ہالوں والا ہونا -  
 سے چلنا - آہستگی - آہستگی سے چلنے والی  
 اونٹنی وہ عورت جس کی پندلیوں میں

لیے لیے ہال کثرت سے ہوں -

سرسئلہ - آہستگی اور پروباری -



کا نشان چھوڑنا۔

## س - ش

سَر شَق - ہلکی بارش - سخت چوٹ - جہ - دِشَاق  
مص (ن) ٹپکنا - چھوڑنا - چھوڑا پڑنا  
سَر شَاق - ہرن کا بچہ جو اپنی ماں کے ساتھ چلے  
جہ - اَسْ شَاق

سَر شَاق - (ن) جماع کرنا - ہرن کا بچہ دنیا -  
ہرن کے بچے کا ماں کے ساتھ چلنا -  
سَر شَاق - ڈول کی رسی جہ - اَسْ شَاق  
سَر شَاد - راستی - فتح مندی - مص (ن) س -  
راستہ پر ہونا -

سَر شَادَة - بڑا پتھر - جہ - سَر شَاد -  
سَر شَاق - ٹپکی بڑی چیز -  
سَر شَاقَة - (ن) خوش قامت ہونا - تیر کا کمان کے  
تیزی کے ساتھ نکلنا -

سَر شَاقَة - مشین گن - (د)  
سَر شَبَة - مغر سے خالی کیا ہوا ناریل جس میں پانی  
بھرتے ہیں -

سَر شَح - پسینہ -  
سَر شَح - (ن) پسینہ لے آنا - ٹپکنا - دنیا (د)  
زکام -

سَر شَاد - (ن) س - سچے راستہ پر مضبوطی سے  
قائم رہنا - سیچو راستہ پر ہونا -  
سَر شَادَة - حلال زادہ - ذنیتہ کی ضد -  
سَر شَادِی - راستہ کی تلاش -  
سَر شَرَشَة - ڈھیلا ہونا - نرم ہونا -

سَر شَف - تھوڑا سا پانی جو حوض میں رہ جائے  
سَر شَف - سَر شَیْف - سَر شَف - سَر شَفَان

(ن) حق (س) پانی چوسنا - برتن میں  
کسے تمام پانی پی جانا -

سَر شَق - (ن) آب تیر وغیرہ پھینکنا -

سَر شَق - کمان جس سے تیزی سے تیر چلے -

سَر شَق - تیر اندازی قلم کی آواز جہ - اَر شَاق

سَر شَم - (س) کھانے کی بڑے سونگھ کر اس کا خواہش  
مندا اور متمنی ہونا -

سَر شَم - سبہہ کی اولین روئیدگی - مگر بگڑ  
کے چہرہ کی سیاہی - نشان -

سَر شَمَة - کاغذ کا ریم - (د)

سَر شَمُو - (ن) رشوت دنیا -

سَر شَمُوَة - رشوت - جہ - رُ شَمِی - سَر شَمِی

سَر شَمُوح - (ن) ہرن کا کودنا -

سَر شُوف - عورت شیریں دہن کہ جس کی فرج خشک  
ہو -

سَر شِیْح - پسینہ -

سَر شِیْدَا - جو راہ راست پر ہو - خدائے تعالیٰ کی  
صفات میں سے ہے معنی ہادی و رہنما  
انما زہ کرنے میں بڑا ماہر اور کام کو  
صحیح طور پر انجام دینے والا -

سَر شِیْق - خوش تاؤ اور اچھے قامت والا آدمی -  
جہ - سَر شَق -

## س - ص

سَر صَق - (ن) مرغی کا انڈوں کو جو بچے سے برابر  
برابر رکھنا -

سَر صَا ص - سیسہ - وانگ (د) بندوق کی  
گولی -

سَر صَا صَة - بخیل - چشمے کے کنارے پر زمین میں جانا

سَمَاقَة - دندہ جو شکر اور پھینٹا چاہتا ہو۔  
 سَمَاقَة - وہ چیز جس کا بعض سے بعض ملا ہو  
 سَمَاقَة - کام میں ہمسر۔ رفیق۔ اور صاحب (د)  
 ہم عصر۔ سَمَاقَة مضبوط و محکم۔ (د)  
 ریل وغیرہ کا پلیٹ فارم۔

س - ض

سَمَاقَة - (ن) کوٹنا۔ ریزہ ریزہ کرنا۔  
 سَمَاقَة - خوشنود درنا مند۔ جہ۔ دھون  
 سَمَاقَة - ایک دوسرے سے خوش اور راضی ہو۔  
 سَمَاقَة - آب دہن جو سا ہوا۔ آب دہن، مشک یا  
 برف وغیرہ کے ٹکڑے۔ عمدہ شہد۔  
 شہد کا جھاگ۔ شہنم کے قطرے۔ بارش  
 کے سبب درختوں کی تری۔  
 سَمَاقَة - جو ریزے کوٹنے کے وقت اُچھٹ جائیں  
 سَمَاقَة - بچہ کو دایہ کے حوالہ کرتا۔ حاملہ عورت  
 کا بچہ کو دودھ پلانا۔ دودھ شریک  
 ہونا۔

سَمَاقَة - کینہ۔ بنیل۔  
 سَمَاقَة - رُضَم۔ (س) صق، دودھ پینا۔  
 سَمَاقَة - (ن) کینہ اور بنیل ہوتا (س) صق  
 (بچہ کا مال کا) دودھ پینا۔  
 سَمَاقَة - (ن) آب دہن جو سستا۔ بارش کا ایک  
 دم برسنا۔ بکری کا گھٹنوں کے  
 بل بیٹھ جانا۔  
 سَمَاقَة - (ف) ریزہ ریزہ کرنا۔ کوٹنا۔  
 سَمَاقَة - سَمَاقَة۔ ریزہ ریزہ کی ہوئی چیز  
 سَمَاقَة - (ف) صق، ایک دوسرے پر چمچ پھینکنا  
 توڑنا۔ ریزہ ریزہ کرنا۔ بکروں کا کُحّ

ہوا پتھر۔  
 سَمَاقَة - (ن) کسی کام کا مضبوط و استوار ہونا  
 سَمَاقَة - (ن) مضبوط و مستحکم ہونا  
 سَمَاقَة - (س) دُلیے سُرن والا ہونا۔ راتوں کا  
 نزدیکی ہونا۔  
 سَمَاقَة - کسی جگہ ثابت و مستقل ہونا۔ (ن)  
 سَمَاقَة - انتظار کرنے والوں کی جماعت۔  
 کین گاہ میں بیٹھنے والا گروہ۔ واحد۔  
 جمع مذکر مؤنث اس میں برابر ہیں۔  
 گھاس، تھوڑی سی بارش۔ جہ۔ آسمان صا  
 سَمَاقَة - انتظار کرتا (محولاً) زمین پر بارش کا ایک  
 پھینٹا پڑنا۔

سَمَاقَة - بارش کا ایک دو ٹکڑا۔  
 سَمَاقَة - مضبوط کرنا (ف) کسی جگہ ثابت ہونا۔  
 سَمَاقَة - دانتوں کا لڑی کی طرح ہونا۔  
 سَمَاقَة - (ف) [ب] کسی کے سخت نیزہ مارنا  
 کہ وہ نیزہ تمام اُس کے اندر گھس جائے  
 سَمَاقَة - (ن) کسی چیز کے بعض کو بعض  
 سے ملانا۔  
 سَمَاقَة - (س) دانتوں کا برابر اور لڑی کی طرح  
 ہونا۔  
 سَمَاقَة - چھوٹی اور تنگ فرج کی عورت کہ مرد  
 جماع نہ کر سکے۔  
 سَمَاقَة - (ن) کسی چیز کو پورا اور مضبوط کرنا۔  
 چوپایہ کے داغ لگانا۔ کسی کو بُرا بھلا کہنا۔  
 سَمَاقَة - (ن) کسی چیز کو مضبوط و مستحکم  
 کرنا۔  
 سَمَاقَة - (ف) [ب] کسی جگہ اقامت اختیار  
 کرنا۔

تَصَدِّق - پتھروں سے بنا یا ہوا مکان۔

س ط

سَطَاء - بے وقوفی - حماقت۔

سَطَاة - خرافات - رات کی کہانیاں

سَطَاة - (ن) عجیبی زبان میں گفتگو کرنا۔

سَطَب - تازہ اور نازک شاخ۔ لڑکا جو

نرمی و نواک میں عورتوں کے مشابہ ہو۔

مص (ن) لوگوں کو تازہ کھجوریں

کھلاتا۔ تازہ چارہ جتانور کو کھلانا۔

سَطَب - ترخما۔ تازہ کھجور۔ و۔ - دَطَبَة

ج۔ - اَدَطَاب

سَطَب - (س) کلامِ رطب و یابس کہنا۔ کارآمد

اور نیکمی دونوں قسم کی باتیں بیان

کرنا۔

سَطَبَة - نازک لڑکی۔

سَطَس - (ن) کسی کو تھیلی کے اندر دئی حصہ

سے مارنا۔

سَطَح - زکام وغیرہ مص (ف) جماع کرنا۔

سَطَل - نرم و سست آدمی۔ احمق۔ سبک

رختا رکھوٹا۔ آدھ سیرم تولہ۔

ج۔ - اَدَطَال - مص (ن) دوڑنا

وزن کا امتحان کرنا۔

سَطْم - (ن) کسی کو کھچر میں ڈال دینا۔ مشکل

کام میں پھنسا دینا۔

سَطْمَة - دشوار و مشکل کام جس سے غلامی

کا راستہ نہ ملے۔

لڑانا اول آکم دینا۔ عاجزی کرنا۔

تَصَدُّق - (ن) سامان کو متفرق کر کے رکھنا۔

تَصَوُّصَة - بہت چمورہ چمورہ کرنا۔

تَصَع شیر خوار۔ ج۔ - سَطَّع (س) صق

بچہ کا دودھ پینا۔

سَطَّع - کینڈ پن۔ چھوٹے چھوٹے کھجور کے درخت

سَطَّع - (س) صق کسی سے دودھ مانگنا۔

تَصَفَّع - (ص) گرم کئے ہوئے پتھر پر گوشت ہونا

سَطَّع - گرم کیا ہوا پتھر۔

تَصَفَّع - (ص) پونا۔ آہستہ اور سست چینا۔

بڑے بڑے پتھروں سے عمارت وغیرہ

بنانا۔

سَطَّو - (ن) رخصا مندی اور خوش نصیبی میں غا

ہو جانا۔

سَطَّوَان - بہشت کا نگہبان مص (س) کسی کو

پسند کرنا۔ و ب [ قناعت کرنا۔

وعن علی [ خوش ہونا۔ راضی ہونا۔

(مجمولاً) زندگی کا خوش گوار ہونا۔

سَطَّوَة - خوشنودی۔

سَطَّو - ذمہ دار۔ محبت رکھنے والا۔ خوشنودی

پسندیدہ آدمی مص (س) کسی کو پسند

کرنا [ قناعت کرنا [ عن علی [

خوش ہونا۔ راضی ہونا (مجمولاً) زندگی

کا خوش گوار ہونا۔

سَطَّو - رخصا مند و خوشنود۔ ج۔ - اَرْضِيَاء

سَطَّو - متفرق طور پر رکھا ہوا سامان۔

سَطَّو - کوٹا ہوا چمورہ چمورہ۔ ریزہ۔ ریزہ

سَطَّو - دودھ پیتا کچھ۔ دودھ شریک بھائی

بھیل۔ کینڈ۔

سَاعَت - (س) بکری کے کان کی لوسے نیچے چھتہ  
کاسفید ہوجانا۔

سَاعَت - (س) مال بہت ہوجانا۔ بھرجانا۔

سَاعَت - (س) مال دار کردینا بجلی کا لگا تار ٹھیکنا۔

سَاعَت - گرج - فرشتہ کا نام جو برابر اور ہوا کو اٹھتا  
ہے مص (ف - ن) یاد دل گرجنا۔

سَاعَت - عورت کو خود کو آراستہ کرنا دل ڈرانا۔

سَاعَت - (س) عیدینا بہت کانپنے والا بزدل  
جہ - سَاعَت - (س) عیدینا۔

سَاعَت - پانی کا روئے زمین پر مضطرب ہونا۔  
گھوڑے کو رام کرنے کے لئے اس پر

سوار ہونا۔ اگانا۔

سَاعَت - (ف) کانپنا۔ آہستہ چلنا۔ کمزوری اور  
ضعف کے باعث۔

سَاعَت - (س) عیش۔ (س) (ف) لڑھکا ہونا۔  
کانپنا۔

سَاعَت - (ف) ہلاتا۔ حرکت دینا۔ کھینچنا۔

سَاعَت - (ف) تیر میں پرکان لگانے کے لئے سونچ  
کرنا۔ تیر کو درست کرنا۔ تیر کو توڑنا۔

(الزفات اعداد)

سَاعَت - (ن) (ف) (س) نکسیر بننا۔

سَاعَت - (ف) (ن) گھوڑے کا آگے نکل جانا۔

سَاعَت - پہاڑ کی چوٹی۔ آدمی کے کپڑے مص  
(ف) اسی چیز کو بہت چیرنا۔ کسما کے

سخت نیزہ مارنا۔

سَاعَت - (س) احمق ہونا۔ تباہات کا دردناہ ہونا

سَاعَت - (س) عیش۔ (س) عیش۔ (س) عیش۔

سَاعَت - شتر مرغ۔ کنبہ اہل دیہال۔ تھوڑے

سَطُول - (ن) دوڑنا۔ بھاگنا۔

سَطُول - بے وقوف۔ احمق۔ جہ - سَطُول

سَطُول - تروتازہ پکا ہوا خرما۔ جہ - سَطُول

سَطُول - شور و فریاد۔ حماقت۔ احمق۔ جہ -

سَطُول - سَطُول - سَطُول

سَطُول - وہ بات جو سمجھ میں نہ آئے۔

## س - ع

سَاع - (ن) ہوا کا تھم جانا۔

سَاع - (س) عیش۔ (س) عیش۔ (س) عیش۔

سَاع - (س) عیش۔ (س) عیش۔ (س) عیش۔

سَاع - (س) عیش۔ (س) عیش۔ (س) عیش۔

سَاع - (س) عیش۔ (س) عیش۔ (س) عیش۔

سَاع - (س) عیش۔ (س) عیش۔ (س) عیش۔

سَاع - (س) عیش۔ (س) عیش۔ (س) عیش۔

سَاع - (س) عیش۔ (س) عیش۔ (س) عیش۔

سَاع - (س) عیش۔ (س) عیش۔ (س) عیش۔

سَاع - (س) عیش۔ (س) عیش۔ (س) عیش۔

سَاع - (س) عیش۔ (س) عیش۔ (س) عیش۔

سَاع - (س) عیش۔ (س) عیش۔ (س) عیش۔

سَاع - (س) عیش۔ (س) عیش۔ (س) عیش۔

سَاع - (س) عیش۔ (س) عیش۔ (س) عیش۔

سَاع - (س) عیش۔ (س) عیش۔ (س) عیش۔

سَاع - (س) عیش۔ (س) عیش۔ (س) عیش۔

سَاع - (س) عیش۔ (س) عیش۔ (س) عیش۔

سَاع - (س) عیش۔ (س) عیش۔ (س) عیش۔

سَاع - (س) عیش۔ (س) عیش۔ (س) عیش۔

سَاع - (س) عیش۔ (س) عیش۔ (س) عیش۔

سَاع - (س) عیش۔ (س) عیش۔ (س) عیش۔

سُعْب - (ك) نرم ہونا۔ حریص ہونا۔ پر خود ہونا۔

سُعْب - سَعْبِي - دَعْبَاء - سَعْبَان - (س) [الی] کسی کے سامنے گڑگڑانا کسی سے ذلت و خردی کے ساتھ مانگنا [وب] و [عن] فضیلت دینا [حییہ] رَحْب پیلہ عن غیوہ - ای فَضْلُهُ عَلٰی غَدَاةٍ

سَعْبُوْت - مرغوب چیز۔ طلب گار۔

سَعْبُف - (ف) بچہ کا مال کا دودھ پینا۔

سَعْد - فراخی۔ آسودگی مص (س - ك) آسودگی کی زندگی بسر کرنا۔

سَعْد - آسودہ حال خوش و خرم۔ وسیع و احد و جمع مذکورہ مؤنث اس میں برابر ہیں دَعْرَعَاء - بھلائی میں منہمک ہو جانا۔ چھپانا۔

رَعْس - خیر و برکت۔ جہ۔ آسن غاس۔ مص (ف) زیادہ کرنا۔ برکت دینا۔

سَعْف - (ف) دان کھلانا۔ آٹا گوندھنا۔

سَعْل - (ف) بچہ کا مال کا دودھ پینا۔

سَعْم - سختی۔ ناپسندی۔ خاک آلودگی۔

مص (س) - (ف) خاک میں آلودہ ہونا۔

(ف) کسی کے خلاف مرضی کوئی کام کرنا

سَعْن - (ف) [رفی] کسی چیز کی طمع کرنا [الی] کسی کی طرف کان لگانا۔

سَعْنَة - نرم زمین۔

سَعْوَة - بھاگ۔

سَعُوْت - ہر دودھ والی مادہ۔

سَعْوَل - جو ہر چیز کو نینمٹ سمجھے اور کھالے

سَعِيْب - فراخ۔ وسیع بہت کھانے والا۔

گھوڑوں یا گایوں کا گلہ۔ جہ۔ دَعَال - (ن) سورج کے ڈوبنے کا انتظار کرنا۔

سَعْن - پہاڑ کی چوٹی۔ بلند پہاڑ۔ جہ۔ برعان۔ سَعْنُون۔

سَعْن - سَعْنُوْت - (ك) - (ف) - (س) اجنبی ہو جانا۔ دھوپ کی شدت سے سر میں درد ہونا۔ اور بے ہوش ہو جانا۔

سَعْو - سَعْوَة - (ن) جہالت اور شر سے باز آ جانا۔

سَعْوَد - (ف) - (ن) گرجا [ول] ڈرانا۔

سَعْوَس - جس کا سراؤ گنگھ یا مستی کی وجہ سے ہوتا ہے۔

سَعْوَش - اونٹنی جس کا جسم بڑھاپے کی وجہ سے مرتعش ہو۔

سَعُوْف - ہلکی ہلکی پارشیں۔ برعنی۔ چارہ۔ گھاس۔ جہ۔ آسن عَاء

سَعْنِي - برعنی۔ (ف) چرنا چرانا۔ حفاظت کرنا [علی] کسی کا احترام ملحوظ رکھنا۔

سَعِيْب - ڈرنے والا۔ ڈرایا ہوا۔ سَعِيْقَة - جس کی نگہبانی ضروری ہو۔ عام آبادی پر نرنے والا۔ چرنے کے لئے چھوٹا ہوا جہ۔ سَعَايَا۔

سَعِيْس - لرزہ براندام آدمی۔ سَعِيْل - تھوڑے سے گھوڑوں کا گلہ

## س - ع

سَعَاوَة - سَعَايَة - دودھ کا بھاگ

سَعْب - سَعْبِيَة - (س) [رفی] خواہش کرنا [عن] اعراض کرنا۔

حرلیں۔ ج:۔ دِغَاب۔

رُحْبِيَّة - فراخ شکم، مرغوب، بہت بخشش۔

(د) مطالبہ۔ ج:۔ رَعَائِب۔

روٹی۔ ج:۔ اَرْغِفَة - رُغْف -

رُغْفَان۔

## ر-ف

رَفْع - (ف) کشتی کنارہ لگانا۔ کپڑے میں

رفو کرنا۔ بچھے ہوئے کپڑے کو درست

کرنا۔ پیوند لگانا۔

رَفْعَاء - رفو کرنے والا۔

رِفْعَاء - (ف) آرام دینا۔ موافق ہونا [بین]

صلح کر دینا۔

رُفَات - ریزہ ریزہ۔ لٹٹا ہوا۔

رِفَادَة - زمین وغیرہ کا گدا۔ مرہم پٹی کرنے والا۔

مال جو قریش ایام جاہلیت میں باہر

سے آنے والے حاجیوں کے واسطے

رکھا کرتے تھے۔

رِفَاس - رسی جس سے اونٹ کا ہاتھ بازو سے

باندھتے ہیں۔

رُفَاض - کنارہ۔ کسی چیز کا ریزہ اور ٹکڑا۔

رُفَاعَة - ایک چھوٹا سا تکیہ جسے عورتیں اپنے

سرین پر بڑا دکھلانے کے لیے باندھتی

ہیں۔ ڈوری جس سے قیدی زنجیر کو اوپر

اٹھائے رہے تاکہ آسانی سے چل سکے

آواز کی بلندی۔ مص (ك) بلند

آواز ہونا۔

رَفَاعَة - (ك) خوش حال ہونا۔

رَفَاعِيَّة - خوش حالی، فراغت، آرام و راحت۔

رَفَاقَة - (س) ساتھ ہونا۔

رَفَاقَة - ہم سفر ٹولی۔

رَفَال - لمبے بال۔

رَفَاهَة - رَفَاهِيَّة آسودگی، فراخی، ارزانی۔

(ك) خوشحال ہونا۔ آسودہ ہونا۔

رَفْت - (ن) (ض) ٹوڑنا۔ ریزہ ریزہ کرنا۔

ریزہ ریزہ ہونا۔ کٹ جانا۔

رَفَث - جماع، فحش گوئی۔ مص (س) جماع کرنا

صحبت کرنا۔

رَفْد - (ض) دینا، مدد کرنا۔ پالان بنانا۔

رِفْد - بخشش۔ بڑا پیالہ۔ ج:۔ اَرْفَاد۔

رُفُود۔

رَفُوف - گلبدن، فرش کے مطلب کا سبز کپڑا،

جھار۔ سورخ۔ چھوٹا تکیہ تازہ درخت

جھکی ہوئی شاخوں والا۔ سرسبز و شاداب

خطہ۔ ہاریک ریٹیھی کپڑا۔ و:۔ رُفُوفَة

ج:۔ رَفَارِف - (د) الماری، کالم۔

اترنے کے وقت جانور کا بازو پھیلانا۔

بازو ہلانا۔

رَفَز - (ض) مارنا۔

رَفَس - (ف) (ض) لات مارنا۔

ٹھوکر مارنا۔ سینہ پر لات مارنا۔

رَفَش - (ن) خوب کھانا پینا۔ کوشنا۔

رَفَش - (س) بڑے کان والا ہونا۔

رَفَش - رَفَش بیلیجہ۔ پھاؤ ڈرا۔ کلا۔

رَفَض - (ن) (ض) رکھ دینا۔ چھوڑ دینا۔

ڈال دینا۔ اونٹ کو چرنے کے لیے چھوڑنا

نالہ کا فراخ ہونا۔

رَفْع - (ف) اٹھانا۔ کلمہ کو پیش کی حرکت

رَفْعٌ - رَفْعٌ - رَفْعٌ - رَفْعٌ (رف) خوش حال و آسودہ ہونا۔  
 رَفْعُو - (رن) کپڑا رُو کرنا۔ تسکین و آرام دینا اور بے خوف کرنا۔  
 رَفُوتٌ - (رض۔ ن۔ ک) عورتوں کے سامنے فحش باتیں کرنا۔  
 رَفُوحٌ - سختیاں۔ مصائب۔  
 رَفِیضٌ - وہ شخص جس کے اونٹ تھارے اونٹوں کے ساتھ پانی پیئیں۔  
 رَفِیضٌ - اونٹ چرائی پر چھوٹا ہوا۔ پسینہ۔ ٹوٹا ہوا نیزہ۔ جو چیز چھوڑ دی گئی ہو۔  
 رَفِیضٌ - شریف۔ بلند مرتبہ۔ بلند آواز والا۔ جہ: رَفْعَاءُ۔  
 رَفِیْعَةٌ - وہ مقدمہ اور جھگڑا جس کا مرافعہ کیا جائے۔ جہ: رَفْعَاءُ  
 رَفِیْفٌ - چھت۔ ہرا اور تروتازہ درخت۔ لہلہاتا ہوا۔ باریک کپڑا۔  
 رَفِیقٌ - مہربان۔ شریک راہ۔ شریک سفر جہ: رَفِیقَاءُ۔  
 رَفِیخٌ - خوش حال آدمی۔

## ساق

رَقٌ - ہرن وغیرہ کی پتلی کھال کھنکھنے کے واسطے۔ روشن ورق۔ نرم اور پتلا۔ ہریتلی چیز جہ: رَقُوٹی۔  
 رِقی - یلک۔ غلام۔ درخت کا پتہ۔ پتلی چیز نرم زمین۔ فراخ زمین۔ غلامی۔ مص (رض) غلام ہونا۔ یا غلام رہنا۔  
 رَقَاءٌ - رَقُوعٌ (رف) آنسو پھینا۔ آنسو نکلنا۔

دینا۔ [علی] حاکم کے پاس جھگڑا لیجانا (زالی) کسی کو کسی کے قریب کرنا [رفی] خوب تیز چلنا۔

رَفْعَةٌ - درجہ اور مرتبہ کی بلندی (ک) قدر و منزلت کا بلند ہونا۔

رَفْعٌ - وادی کا سب سے خراب مقام۔

جہ: اَرْفَعُ نرم زمین جہ: رَفَاعٌ

متوسط درجہ کا باریک مشک بہت مٹی والی زمین خشک اور بخر مقام۔

کینہ اور ذلیل آدمی جہ: اَرْفَاعٌ۔

بدن میں میل پھیل جمع ہونے کی جگہ

فراخی و ازرائی جہ: اَرْفَاعٌ۔

رَفُوعٌ۔

رَفْعٌ - نرمی مص (س) نرم ہونا۔

نرمی۔ فائدہ۔ نیکی۔ بھلائی (ن) (س) کسی کے ساتھ نرمی کرنا۔

سہولت سے حاصل ہونے والا

مطلوب۔ جو چیز آسانی سے مل جائے۔

کہنی کا گٹھا ہوا ہونا۔

رَفْعٌ - (رن) نفع پہنچانا۔ کُسنی مارنا۔ بازو باندھنا۔

رَفْعَةٌ - شریک سفر ٹولی جہ: رَفْعَاتٌ۔

اَرْفَاعٌ - رَفِیقٌ۔

رَفْعٌ - رَفْعٌ۔ رَفْعَانٌ (ن) دامن گھسیٹنا اور ناز و انداز سے چلنا۔

کپڑے کو اچھی طرح نہ پہننا۔

رَفْعٌ - (س) کپڑے کو اچھی طرح نہ پہننا۔

رَفْعٌ - دامن۔

رَفْعٌ - ہیمنہ۔

[بین] صلیح کرادینا۔ قساو ڈالنا۔  
 اوپر چڑھنا۔  
**رِقَاب** - مُرَاقِبَة - نگہبانی کرنا، غور کرنا  
**رِقَابَة** - کینہ۔ نیچ ذات۔ قافلے کے سامان  
 کی محافظت کرنے والا۔  
**رِقَاد** - رُقُود - (ن) سو جانا۔  
**رِقَاش** - سانپ۔ ج۔:۔ اَرَقِشَة۔  
**رِقَاص** - جو پیر کو زمین پر دے دے مارے۔  
 ناچنے والا۔ بازیگر۔ (م) رِقَاصَة۔  
**رِقَاصَة** - ناچنے والی۔ عربوں کا ایک کھیل ہے۔  
 وہ زمین جس میں باوجود بارش کے  
 کچھ پیدا نہ ہو۔  
**رِقَاعَة** - بے دلتونی۔ مص (ب) بیوقوف  
 اور پوڑ ہونا۔  
**رِقَاق** - (جنس) پتلی روٹی۔ چپاتی۔ ہر پتلی اور  
 نرم چیز۔ رِقَاقَة - ایک چپاتی  
 ج۔:۔ رِقَاق۔  
**رِقَب** - گردن کی فرہی۔  
**رِقَبَان** - موٹی گردن والا۔  
**رِقَبَانِي** - موٹی گردن والا۔  
**رِقْبَة** - گردن غلام۔ ذات۔ ج۔:۔ رِقَب  
**رِقَاب** - اَرَقِب۔ رِقَبَات۔  
**رِقْعَة** - حفاظت۔ ڈر۔ اولاد سے محرومی۔  
**رِقْعَبِي** - یہ کہ کوئی چیز اس شرط پر دی جائے  
 کہ وہ تاحیات اس سے نفع اٹھاتا  
 رہے۔ لیکن جب مر جائے تو وہ چیز کسی  
 اور کی ہو جائے گی۔ یا یہ کہ کسی چیز کے  
 متعلق کہا جائے کہ اگر میں تجھ سے پہلے  
 مر گیا تو چیز تیری ہے اور اگر تو مجھ سے

پہلے مر گیا تو میری۔  
**رِقْعَة** - مہربانی۔ پتلا پن۔ (ض) نرم اور پتلا  
 ہونا۔ شرم کرنا (ل) مہربان ہونا۔  
**رِقْعَد** - نیند۔ مص (ن) سو جانا۔  
**رِقْعَدَة** - ایک بار سونا۔  
**رِقْرَاق** - جھک۔  
**رِقْرَاقَة** - چکیلی عورت۔ خوبصورت عورت۔  
**رِقْرَقَة** - پانی کا گلاس ہلانا۔ آنکھوں میں آنسو  
 ڈھبانا۔ پانی وغیرہ گرانا۔  
**رِقْرَض** - (ن) ناچنا۔ کودنا۔ نبض کا حرکت کرنا۔  
**رِقْرَض** - (ن) لکھنا۔ کئی رنگوں سے نقش دنگار  
 کرنا۔ مزین کرنا۔  
**رِقْرَض** - (ن) ناچنا۔ چمکانا۔ جوشش مارنا۔  
 مست کر دینا۔  
**رِقْرَصَان** - (ن) ناچنا۔  
**رِقْطَاء** - چت کبرسانپ۔ سخت فتنہ۔  
**رِقْح** - ساتواں آسمان۔ مص (ف) کپڑے  
 پر پیوند لگانا۔ دوڑنا۔ بھج کرنی۔ تیر کا  
 نشانہ پر لگانا۔ داہنے ہاتھ سے کھاتے ہوئے  
 بائیں ہاتھ کو لقمہ کے نیچے لگالینا۔  
**رِقْعَة** - مختصر لکھا ہوا پرچہ۔ کپڑے کا پیوند۔  
 جنگ کا شروع۔ ج۔:۔ رِقْعَاع۔  
**رِقْعَة النَّسْطُ** - شطرنج کی بساط۔ (د)  
**رِقْعَة الزِّيَارَة** - ملاقاتی کارڈ (د)  
**رِقْعَاء** - بکری جس کے پھلوں میں سفیدن ہو۔ لاغر  
 سرین وال عورت۔ پوڑ عورت۔  
**رِقْق** - ہموار نرم زمین۔ کمی۔ کمزوری۔  
**رِقْلَة** - کھجور کا لبا و رخت۔  
**رِقْم** - کتابت۔ عدد۔ ایک قسم کا ریشمی کپڑا۔



## رک

رک - (ض) کم علم و کم عقل ہونا۔ سست و ضعیف ہونا۔ (ن) کسی شے کے بعض حصہ کو بعض پر ڈالنا۔

رکاب - شتر سوار۔

رکاب - اونٹ جس پر سفر کیا جائے۔ ج:-  
رکب - رکاب (واحد اس کا نہیں ہے) رکاب جس میں پاؤں ڈالا جاتا ہے۔ ج:- رکب۔

رکاب السحاب - ہوا۔

رکاب السیفینہ - کشتی کے سوار (رکاب کی جمع)

رکاز - رہنس، سونے چاندی وغیرہ کی کان۔ زمانہ جاہلیت کا دبا ہوا مال۔ و:-

رکازہ - ج:- رکاز۔

رکاکہ - (رک) سست رائے اور بے عزت ہونا۔ سست ہونا۔

رکامہ - ریت کا ٹیلہ۔ تو بر تو بادل۔ بڑا گلہ۔

رکانہ - رکونہ - (رک) کچی عقل کا ہونا۔ باوقار ہونا۔

رکب - (س) بڑے گھٹنے والا ہوجانا۔

رکب - قافلہ شتر سواران یا اسب سواران۔

رکب - (اسم جمع) ج:- رکب۔ رکوب۔

رکب - (ن) کسی کے گھٹنے پر مارنا۔

رکبانہ - سواری کے لائق اونٹنی۔ تابعدار اونٹنی۔

رکبہ - گھٹنا۔ ج:- رکب۔

رکبہ - سواری پر خاص طرح کی نشست

سختی مصیبت۔ نمبر۔ ج:- ارقام۔  
رقوم - معن دن، لکھنا کتاب

میں نقطہ لگانا۔ تحریر سنا کر مہر کرنا۔ پکڑے کو دھاری دار بنانا۔

رقمہ - سختی۔ مصیبت۔

رقمہ - سختی۔ مصیبت۔ بدست اور کثیر۔

رقمۃ - باغ۔ چمن۔ وادی کا کنارہ۔

رقم پر خون روکنے کے لیے جو چیز رکھی جائے۔

رقوب - رقابۃ دن (انتظار کرنا حفاظت کرنا۔ کسی کی گردن میں رسی ڈالنا۔

رقوب - عورت جو میراث لینے کے لیے خاوند کے مرثی کی منتظر ہو۔ عورت جس کے بچے نہ جیتے ہوں۔ اونٹ جو بیڑ میں پانی نہ

پنہ آئے۔

رقود - سونے والے وا:- راقص۔

رقون - دن، کانپنا۔ لرزنا۔

رقی - رقی (ض) کسی پر منتر پڑھنا (س) [الی۔ فی] اوپر پڑھنا۔

ریقب - خدا تعالیٰ کا ایک نام۔ نگہبان۔ منتظر۔ ج:- رقب۔ رقباء۔

رقیۃ - منتر تعویذ۔ ج:- رقی۔

رقیق - غلام دو واحد جمع، ہر چیز نرم و پتلی۔ ج:- ارققاء۔ مؤنث۔ رقیقۃ۔

ج:- رقیقۃ

رقیحہ - لکھا ہوا۔ دوات۔ تینتی۔ ایک شہر کا نام جسے بطرا یا بیڑا کہا جاتا تھا۔

رقیمۃ - عقل مند۔ باعفت عورت۔

4 4 4

رُكْعُو - (ن) کنواں کھودنا۔ درستی پر لانا۔  
 کسی کو برائی کے ساتھ متصف کرنا۔  
 تاخیر کرنا۔ آرام کرنا۔ سوراخ بند کرنا۔  
 [ب] [ٹھیرنا۔ (علی) کسی پر گناہ رکھنا  
 الزام لگانا۔  
 رُكُوب - سواری کے لائق جانور۔ روندنا ہوا اور  
 پامال کیا ہوا راستہ یعنی جس پر آمد  
 رفت کثرت سے ہو۔ شتر سواری بہت  
 سوار ہونے والا۔  
 رُكُوب - (س) سوار ہونا۔ گناہ کا ارتکاب کرنا۔  
 یعنی گناہ کرنا۔  
 رُكُوبَة - سواری کے لائق اونٹنی۔ تابعدار  
 اونٹنی۔  
 رُكُوبَة - چھوٹی کشتی۔ عورت کی فرج۔ جہ۔  
 رُكَايَا - رُكَاوَات - رُكِيَّة - پانی۔  
 پینے کا آبخورہ (د) کبیتی۔ جہ۔ رُكَاوَات  
 رُكُوح - (ف) [الی] کسی کی طرف مائل ہونا۔  
 رُكُود - (ن) آرام لینا۔ ٹھیرنا۔  
 رُكُود - اونٹنی جو ہمیشہ دودھ دیتی ہے۔  
 رُكُودُ الصَّلَاةِ - نمازیں دو حرکتوں کے بعد  
 سکون۔ جیسے رکوع کے بعد  
 اطمینان یا دو سجدوں کے درمیان  
 جلسہ۔  
 رُكُوض - جلد تیر چھیننے والی مکان۔  
 رُكُوع - (ف) عاجزی کرنا بیٹھ جھکانا  
 توگڑی کے بعد غریب ہو جانا۔  
 رُكُوعُ الصَّلَاةِ - بعد قرات کے سر نیچا کر کے  
 اتنا کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں تک

نشست۔  
 رُكْع - پہاڑ کی چوٹی۔ پہاڑ کا کنارہ۔ جہ۔  
 آرکاح۔ رُكُوح۔  
 رُكْع - (ف) [علی] کسی پر اعتماد اور  
 بھروسہ کرنا۔  
 رُكُوكَة - کمزور ہونا۔ نامرد و بزدل ہونا۔  
 رُكُز - (ن) زمین میں گاڑنا۔ رگ کا پھرنے  
 رُكُز - پوشیدہ آواز۔ شریف اور ہوشیار  
 آدمی۔  
 رُكُزَة - سونے یا چاندی کا بڑا ٹکڑا۔ عقل و  
 رہنے کی برقراری۔ کھجور کا درخت جو  
 جڑ سے اکھاڑ لیا جائے۔  
 رُكُس - (ن) اول کو آخر اور آخر کو اول کر  
 دینا۔  
 رُكُس - پلیدی۔ بہت سے لوگ۔ پل۔ مکان  
 جو منہدم ہونے کے بعد درست کیا  
 گیا ہو۔  
 رُكُصَن - (ن) ٹکننا۔ دوڑانا۔ دوڑانا۔ لات  
 مارنا۔ ایڑ لگانا۔  
 رُكُصَة - ایڑ۔ حرکت۔ دھکیل۔  
 رُكُوعَة - گڑھا۔ غار۔ جہ۔ رُكْع۔  
 رُكُحَل - گنتنا۔ مص (ن) ایڑ لگانا۔ ایک  
 پاؤں سے لات مارنا۔  
 رُكْح - (ن) کسی چیز کو تہ بہ تہ جانا۔ ڈھیر لگانا۔  
 رُكْح - تہ بہ تہ جانا۔  
 رُكُس - کسی چیز کا بہت مستحکم کنارہ۔ بڑا کام  
 جہر اسود، ہر امر جو قوت و شوکت  
 اور غلبہ کا باعث ہو۔ جیسے لشکر وغیرہ  
 عت، قوت، غلبہ۔ جہ۔ آرکان۔

دقحاح - نیزہ بنانے والا۔	پہنچ جائیں۔ پیٹھ کا ہموار کرنا۔
دقحاح الجبن - طاعون۔	دکون - (ن س ف) [الی] میلان کرنا۔
دقحاح العقراب - بچھو کی دم۔	قرار حاصل کرنا۔
دقحاحۃ - نیزہ سازی۔	سرا کیجئے - کمزور وسست۔
دقحاحۃ - سخت کمان۔	دکریب - ایک چیز میں دوسری چیز داخل کی
دقحاحۃ - راکھ۔ ج :- آدمداء۔	ہوئی۔ سواری میں شریک۔ کیاری
دقحاحۃ (دقحاح) جاڑے کی وجہ سے	ج :- دکوب۔
ہلک ہو جانا۔	دکیتۃ - کنواں پانی والا۔ ج :- دکیجئے۔
دقحاحۃ (دک) بہت حرکت کرنے والا ہونا۔	دککایا
معزز و شریف ہونا۔	دککیزۃ - کان یعنی مال کا قدرتی ذخیرہ۔ ج :-
دقحاحۃ - پشت کی ایک بیماری۔ پیٹھ کی ایک	دککائزہ۔
بیماری جس سے چہرہ زرد ہو	دککیک - کینہ اور کم عقل و کمزور رائے جس کی
جاتا ہے۔	گھر میں کوئی عزت نہ ہو (مذکر
دقحاح - نفاق و دوروی برتنا۔ دشمنی کی نظر	و مؤنث) ج :- دککاک۔
سے دیکھنا۔ (مفاعلہ)	دکککۃ۔
دقحاح الحصیر - چٹائی کا نقش و نگار۔	دککیک العلم - کم علم۔
دقحاح - گلی ہوئی پرانی رسی۔	
دقحاح (جنس) انار۔ دقحاحۃ ایک انار۔	
نان اور اس کے گرد پیٹ کا حصہ۔	
دقحاحۃ - (دقحاح) تیر اندازی کرنا۔	
دقحاحۃ - گلی ہوئی رسی کا ٹکڑا۔ پیشانی۔ تمام	
بقیہ۔ ج :- دقحاح۔ دقحاح۔	
دقحاحۃ - گلی ہوئی ہڈی۔ ہڈیوں کی کڑھی کا	
گھن۔ ج :- دقحاح۔ دقحاح۔ مص	
(دقحاح) ہڈی کا بوسیدہ ہونا۔	
دقحاح (دقحاح) درست کرنا۔ اصلاح کرنا۔	
ہاتھ سے کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ	
ملانا۔	
دقحاح (دقحاح) کام کا خراب ہو جانا۔ اونٹ کا	

## س-م

دقحاحۃ - (دقحاح) آرام کرنا۔ گمان کرنا
اور تحقیق کرنا۔ [علی] بڑھ جانا زیادہ
ہو جانا۔ [الی]۔ قریب ہونا۔ نزدیک
ہونا۔
دقحاحۃ - (دقحاح) ہڈی کا بوسیدہ ہونا (دقحاح)
دقحاح) درست کرنا۔ اصلاح کرنا۔
کھانا چبانا۔
دقحاحۃ - ہنناک مٹی۔ ہڈی کا مغز۔
دقحاحۃ - فکر۔ رنج۔
دقحاحۃ - تیر اندازی کرنا۔ باہم تیر اندازی کرنا۔
دقحاحۃ - نیزہ کی گریں۔

دن کا بہت گرم ہونا۔ گرم زمین میں  
چرنا۔

رَمَض - (رض) بکریوں کو گرم زمین میں چرانا۔  
پریکان کو دو چکنے پتھروں کے درمیان  
رکھ کر وہاں لگانا۔

رَمَضَاء - دھوپ سے تپتی ہوئی زمین۔ تپنا  
ہواریت۔

رَمَضَان - روزوں کا مہینہ۔ ج۔: رَمَاضِيْنَ  
أَرْمَاضَاء - أَرْمَاضَة۔

رَمَضَة - عورت جس کی دونوں رانیں چلتے ہوئے  
آپس میں مس کرتی ہوں۔

رَمَضَةُ الْحَجَّارَة - جلتی ہوئی کنکریوں والی  
زمین۔

رَمَضِي - ابرو باراں جو گرمی کے آخر میں ہو۔

رَمَط - (رض) کسی کی عیب گوئی کرنا۔ طعنہ مارنا۔

رَمَح - (س) رماح کی وجہ سے عورت کا زرد  
ہوجانا۔

رَمَح - رَمَعَان - (ف) ناک کا کانپنا  
بڑھا پے یا غصہ کی وجہ سے۔

رَمَح - (ف) کسی چیز کو ہاتھ سے رگڑنا۔  
ملنا۔

رَمَق - (ن) دیکھنا۔ ہلکی نگاہ سے دیکھنا۔

رَمَق - باقی جان، جو چیز باقی جان کو روکے  
رہے۔ اس قدر کھانا کہ جس سے دن  
گزر جائے۔ ج۔: أَرْمَاق - بکریوں کا  
رپوڑ۔ ج۔: رَمَاق۔

رَمَقِي - تھوڑی سی کھانے کی چیز جو سانس  
کو قائم رکھے۔

رَمَقِي - درویش لوگ جو تھوڑی سی روزی

رَمَتْ کھا کر تکلیف میں مبتلا ہوجانا۔

رَمَتْ - ایک درخت ہے جو غصا کے مشابہ  
ہوتا ہے۔

رَمَتْ - چند کڑیاں جنہیں باندھ کر کشتی بنا  
لیتے اور اس سے دریا عبور کئے

ہیں۔ دودھ کا تھنوں کے اندر بقیہ۔  
ج۔: أَرْمَات۔

رَمَج - (ن) پرندہ کا بیٹ کرنا۔

رُمَح - نیزہ۔ ج۔: رَمَاح - أَرْمَاح۔

رَمَح - (ف) نیزہ مارنا۔ بجلی چکنا۔ چوپایہ کا  
لات مارنا۔

رَمَح - درختوں کا جھنڈ۔

رَمَد - دروچشم، مص (س) آنکھیں  
دکھنے آنا۔

رَمَد - جس کی آنکھیں دکھتی ہوں۔

رَمَدَاء - شتر مرغ۔

رَمَز - باریک بات۔ ج۔: رَمُوز -  
دن (رض) (ال) ہونٹھ یا آنکھ یا

ابرو یا دہن یا ہاتھ وغیرہ سے اشارہ  
کرنا۔

رَمَس - قبر۔ ج۔: أَرْمَاس - رَمُوس۔

قبر کی مٹی۔ مص (ن) خبر چھپانا  
دفن کرنا۔ پانی میں غوطہ لگانا۔

رَمَش - پھولوں کا دستہ مص (ن) (ض)  
کسی چیز کو پوروں سے پکڑنا (بکریوں)

کا تھوڑا چرنا۔ مارنا۔

رَمَص - (ن) جوڑنا۔ طلب کرنا۔ لمس کرنا۔  
(بیں) [صلح کرنا۔

دَمَعَن - (س) گرم زمین سے پیروں کا جلنا۔

<p>رُمِيَّة - تیر سے مارا ہوا شکار (د) کارتوس ج۱۔ رَمَايَا۔ رُمِيْز - بزرگ، معزز، عقل مند بہت حرکت کرنے والا۔ رُمِيْس - پوشیدہ خبر۔ دفن کیا ہوا مردہ۔ رُمِيْض - تیز چہری۔ ہر تیز چیز۔ رُمِيْم - گلی ہوئی بڑی۔ مص (حن) بڑی کابوسیدہ ہونا۔</p>	<p>سے زندگی گزار دیں۔ بدخواہ لوگ۔ و:۔ رَامِق۔ رُمُقَّة - تھوڑی سی خوراک جس سے جان باقی رہے۔ وہ چیز جس سے دن گزر جائے۔ رُمُكَّة - گھوڑا یا گھوڑی جسے نسل کے لیے رکھا جائے۔ ج:۔ رَمَاك - اَرْمَاك۔ رُمُكَّة - اونٹوں کا خاکی رنگ۔ رَمَل - ریت۔ ج:۔ رَمَال - اَرْمَل۔ مص۔ (ن) پشائی بنا کر کھانے میں، ریت ملانا۔ خون آلودہ کرنا۔ زینت دینا۔ رَمَل - علم عروض کی اصطلاح میں ایک بحر کا نام۔ ایک علم جس کا موجد حضرت دانیال علیہ السلام کو بتایا جاتا ہے۔ مص (ن) دونوں کندھوں کو ہلا کر دوڑتے ہوئے چلنا۔ رَمَلَّة - ریت۔ زمین کا ریگستانی علاقہ۔ رَمَح - گلی ہوئی پرانی رسی۔ رَمُوك - دن، ثابت و برقرار ہونا زب [کسی جگہ مقیم ہونا۔ رَمِي - پتھر کی آواز جس کو پھینکا گیا ہو۔ رَمِي - دن، صبح، پھینکنا۔ گالی دینا [عن علی] تیر اندازی کرنا۔ گمان سے [علی] کسی کو کسی جگہ والی حکام مقدر کرنا۔ بڑھنا۔ زیادہ ہونا۔ [ل] مدد کرنا [ب] کسی کو عیب کے ساتھ متہم کرنا۔ رَمِيَّة - ایک بار پھینکنا۔</p>
<p>ر - ن رَن ء - (ف) [ال] دیکھنا۔ رَنَّا - وہ چیز جس کو ٹھنکی باندھ کر اس کی خوبصورتی کی وجہ سے دیکھیں۔ مص (ن) ٹھنکی باندھ کر دیکھنا۔ رَنَّا ء - رَنُو - ٹھنکی باندھ کر دیکھنے والا۔ رَنَنَّة - آواز۔ رونے کی آواز۔ بھرائی ہوئی آواز۔ رَنَنَّة - دَينِيْن (حن) فریاد کرنا۔ گمان کا آواز کرنا [الی] کسی کی طرف کان لگانا۔ رَنَد - ایک خوشبودار درخت۔ رَنَف - بڑی بید مشک۔ رَنَق - رَنُوَق - (ن) گدلا ہونا۔ رَنَق - (س) گدلا ہونا۔ رَنَقَاء - انڈے پر بیٹھا ہوا پرندہ۔ بخر زمین۔ ج:۔ رَنَقَاوَات۔ رَنَح - آواز مص (س) گانا۔ رَنَمَّة - اچھی آواز۔ رَنُو - (ن) خوش ہونا [ل] ٹھنکی باندھ کر کسی چیز کو دیکھنا۔ [عن] کسی سے</p>	

رَدَاغ - حیدل ساز، مکار، بہت بڑا فری۔  
لوٹری۔

رَدَاغِد - چھت کی کرطیاں، و :- رَاغِدَاة۔  
رُدَاق - خیمہ کے مشابہ مکان، ساٹان، پردہ  
باول (د) بڑا کمرہ، گیلدی، ج :-  
اَرُوَقَة۔

رَدَاکِد - ٹھہرنے والیاں، و :- رَاکِدَاةٌ  
رُدَال - پھپاہ کا آب دہن۔  
رُدَال - گھوڑے کا آب دہن اور اس کے  
منہ کے جھاگ۔

رَدَايَة - (رض) بات نقل کرنا، شعر نقل کرنا۔

رُسی بٹنا (علی) ل [اپنے کنبے کے لیے  
پانی لانا (د) ناول، ج :- رَدَايَات۔  
رَدَايَة تَشْخِصِيَّة - ڈراما (د)

رُدُب - رُدُوب (ن) دودھ کا جم جانا۔  
قرب بہ ہلاک ہونا، حیران و ہر وادشتہ  
خاطر ہونا، خلط ملط کرنا۔

رُدُبَة - رُدُوبَة - سہیجا، دودھ کا بقیہ، ضرورت  
سستی و کاہلی۔

رُدُوتِر - ریوٹر، خبر رساں (بھنسی) (د)

رُدُوتَا - (ن) گھوڑے کا لید کرنا۔

رُدُوتَة - گوبر، کوڑا کرکٹ، جو گیہوں چھاننے  
کے بعد چھنی میں رہ جائے، تنوائے  
قبضہ کا سرا، ج :- اَرُدُوتَا۔

رُدُوجَة - عجلت، جلدی۔

رُدُوج - راحت و آرام، پاکیزہ و نرم ہوا، مہربانی  
مص (ن) رات کے وقت کہیں  
جانا۔

رُدُوج - (س) وسیع ہونا، فراخ ہونا

غفلت برتنا۔

رُدُوج - (ن) ضعیف اور مست ہونا۔

رُدُوع - (ف) رنگ کا متغیر ہونا، لاغر ہو  
جانا، کٹلا جانا، پھپاہ کا اپنے سر سے  
کھینا ہونا، کھینا۔

رُدُيْم - راگ کی آواز، مص (س) خوش  
آوازی کرنا۔

## ر - و

رَدَاء - خوشگوار پانی، سیراب کرنے والا  
چاہ زمزم۔

رُدَاء - دیدار، منظر۔

رُدَاج - رُدُوج - (ن) کسی چیز کا چل پڑنا  
اور اس کا استعمال عام طور پر ہونے  
لگنا، پھپاہی ہونا، چلنا۔

رُدَاجِب - ہتھیلی کی جانب انگلیوں کی ہڈی کے  
جوڑ، و :- رَدَاجِيَّة۔

رَدَاح - شام، مص (ن) کسی بات کا  
یقین ہو جانے کی خوشی ہونا، جانا۔

رات کے وقت جانا، رات کے وقت  
کوئی کام کرنا۔

رَدَاح - رُدُوج - رِيَاحَة - (س) اوپر  
پڑھنا، خوش ہونا۔

رَدَاخَة - خوشی جو یقینی طور پر معلوم کر کے  
حاصل ہو۔

رَدَايِي - (م) اِحْیَا ل (م) حکم و استوار پہاڑ  
و :- رَدَايِيَّة۔

رُدَايِي - بڑے سروالا۔

رُدَاغ - ہوشیار، ذکی، عقل مند۔

اس باب کے وا حرفت علت میں  
تعلیل نہیں ہوتی،  
رُوح - جان - ج: - آدُوح - قرآن -  
خدا تعالیٰ کا پیغام - جس میں علیہ  
السلام - عیسیٰ علیہ السلام - محبت -  
رُوح القدس - جس میں علیہ السلام -  
رُوحۃ - اچھی رات - خوشی جو حصول یقین کے  
سبب حاصل ہو -  
رُوحانی - پاکیزہ اور اچھی جگہ -  
رُوحانی جاندار - ذی روح - فرشتہ - جن  
ج: - رُوحانیوں -  
رُوحیۃ - جذبہ ( د )  
رُود - ریاض - دن ( تلاش کرنا - طلب  
کرنا - آمدورفت کرنا -  
رُودان - رُود - دن ( عورت کا پڑوسنوں  
کے گھر بہت آمدورفت کرنا -  
رُودیں - بحر روم میں ایک جزیرہ ہے -  
رُوس - دن ( جانچنا - اندازہ کرنا - آزمانا  
زمین درست کرنا -  
رُوس - اتر کر چلنا - بہت کھانا -  
رُوس - ایک گروہ جن کا ملک ترکوں کی سرحد  
سے ملا ہوا ہے -  
رُوسیہ - ملک روس - ( د )  
رُوش - دن ( اتر کر چلنا - بہت کھانا - کم  
کھانا - ضعیف و کمزور کر دینا  
رُوشن - روزن - سوراخ -  
رُوض - ریاضۃ - ریاض ( دن ) پھیرے کو  
سواری سکھانا اور مطیع کرنا -  
رُوضۃ - سرسبز نقطہ - باغ - جہاں پانی جمع ہو -

ج: ۱ - رُوض - ریاض  
ریضقان -

رُوط - دن ( ب ) کسی جگہ پناہ لینا -  
رُوع - خوف - ڈر - مص ( دن ) ڈرانا -  
تعب میں لانا - فائدہ دینا ( من ) ڈرنا

رُوع - دل کا سیاہ نقطہ - دل میں خوف کی  
جگہ - ذہن - عقل -

رُوعاء - عورت جو اپنے حسن و جمال سے مرعوب  
و مبہوت کر دے -

رُوعۃ - ڈر - حسن و جمال میں سے حصہ -  
رُوع - رُوعان - دن ( عن ) کسی جگہ

سے مکہ و فریب کی خاطر ہٹ جانا ( الی )  
پوشیدہ طریقہ سے کسی کی طرف مائل  
ہونا ( علی ) کسی پر حملہ کرنا -

رُوف - مہربانی - دن ( آرام لینا - مہربانی کرنا  
رُوفی - شاخ - پرودہ - صاف و روشن خیمر -

عنفوان شباب ، اچھا معلوم ہونے  
والا گھوڑا - نکترا ہوا پانی - بارش -

ج: - آدُواق - مص ( ن ) اچھا  
معلوم ہونا - صاف و روشن ہونا -

خوش کرنا - ( علی ) زیادہ کرنا -  
رُوقۃ - حسن و جمال -

رُوقۃ - خوبصورت ( تذکر و ثونٹ ) تھوڑی  
سی چیز -

رُوکۃ - نراؤ کی آواز - دریائی موج -  
رُوم - دن ( چاہنا - تلاش کرنا - ایک حرکت  
کو تخفیف کے لیے دو حرکتوں کے بین

بین پڑھنا -  
رُوم - ملک روم - اٹلی اور قسطنطنیہ کی سلطنت

دھبان - بمعنی راہب، تارک دنیا، نہ :-  
 دھابین -  
 دھبان - بہت ڈسنے والا، ج :- دھابین -  
 دھابینتہ -  
 دھبہ - دھب - دھب - دھبان  
 (دس، ڈرنا) -  
 دھبہ - دھبانیتہ - دنیا اور لٹلاندنیلے  
 بے تعلق -  
 دھبوت - دھبوتی - بہت سخت خوف  
 دھبی - ڈر  
 دھج - دھج - برا ٹیختہ، غبار شور و فتنہ  
 سوکھا اور خشک بادل -  
 دھد - (د) - بہت سخت پسینا -  
 دھدنتہ - دیر کرنا -  
 دھدن - دھدن - دھدن - بزدل -  
 بوقت -  
 دھرہتہ - چہرہ کی بلداشت، چہرہ کے رنگ کی  
 چمک - بدن کی نرمی اور نراکت -  
 دھس - (د) - سخت پامال کرنا -  
 دھص - (د) - سخت تقاضا کرنا - زور سے  
 بھیپنا - ملامت کرنا - جلدی کرنا -  
 دوڑانا - مٹی سے دیوار بنانا -  
 دھص - (د) - گھوڑے کا ٹم پتھر سے گھس جانا  
 دھط - آدمی کا قبیلہ اور قوم ۳ سے - ایک  
 کی ٹولی، ج :- آدھط - آدھط -  
 جج - آدھط - آدھط -  
 مص (د) - بہت زیادہ کھانا - بڑا  
 لقمہ لینا - سواری کی پشت پر ہی رہنا  
 اور نہ اترنا -

دوم کے رہنے والے :- دھمی  
 دھمان - ناول - (د) -  
 دھون - سختی و شدت -  
 دھوتہ - کسی چیز کا بڑا حصہ -  
 دھوندھینی - ریوندھینی -  
 دھونق - آب اور چلا -  
 دھونق السیف - تلوار کی آب اور چمک  
 دھوا - دھوا - (د) - سطح زمین پر پانی کا  
 مضطرب ہونا -  
 دھوی - فراخ سالی - ارزانی - شیریں پانی -  
 سیرابی بخشنے والا - مص (د) -  
 سیراب ہونا - شاداب ہونا -  
 دھوی - شعر کے قافیہ کا آخری حرف - سیراب  
 کرنے والا - شیریں پانی - بہت  
 پانی -  
 دھویاء - خواب جو سوتے میں نظر آئے - ج :-  
 دھوی -  
 دھویہ - (د) - آنکھ سے دیکھنا - جاننا -  
 دھویہ - غور و فکر - سوچ - بچار - ضرورت و  
 حاجت - قرض کا بقیہ -  
 دھویختہ - خوشی جو حصول یقین سے حاصل ہو -  
 دھوینا - چھوڑے تو اس فعل، نرم رفتار -

دھ -  
 دھادہ - دھ (د) - نازک ہونا -  
 دھان - گروی کھنا - گھوڑوں میں بازی لگانا -  
 اشیاء پر ہونہ :- دھن  
 دھب - سفر کی وجہ سے تھکا ہوا اونٹ -  
 (د) دھونٹ، ج :- دھاب -



دھت (ف) تلوار تیز کرنا۔

دھت - دھاقہ - (ک) پتلا اور باریک ہونا

دھتی - سرکشی ظلم۔ فتنہ انگیزی۔ بدی۔ مص

(س) دھک لینا۔ ممنوعات کا

ارتکاب کرنا۔ ہلکا ہونا۔ ستانا۔

جھوٹ بولنا۔ محبت کرنا۔ قرب ہونا۔

وقت آجانا۔ بے وقوف ہونا۔

دھک - (ف) سخت پینا۔ [ب] مقیم ہونا۔

دھکے - دھکے - بے خبر آدمی۔

دھل - (س) ڈھیلا ہونا۔ پلید ہونا۔ پھول

جاتا۔

دھن - گروی جہ - دھان۔ دھون۔

مص (ف) گروی رکھنا [ب] ٹھیرنا۔

دو پاؤں کے درمیان کی کشادگی، بلند

یا پست جگہ۔ گروہ۔ جہ۔ دھاء۔

مص (ن) دریا کا ساکن ہونا۔

آہستگی سے چلنا۔

دھوجہ - ایک خاص قسم کی رفتار۔

دھودیتہ - نرمی و مہربانی۔

دھون - (ف) ڈبلا ہوجانا۔ لاغر ہوجانا۔

دھیب - مڑھوب - رعب دار، جس سے

لوگ خوف کریں۔

دھیدا - نرم و نازک۔

دھیدہ - جوان عورت۔ نازک اندام۔ شگفتہ رو

ایک قسم کا کھانا۔

دھینص - پتھر سے سم گھسا ہوا گھوڑا۔

دھیط - چھوٹی سی ٹولی۔ چند آدمی۔

دھیف - پتلا اور باریک۔

دھین - گروی۔

دھینتہ - گروی (مذکورہ مؤنث)

## ر-ی

رہتی - اچھا منظر۔ سیرالی۔ تازگی۔ مص

(س) سیراب ہونا۔ درخت کا ترو

تازہ ہونا۔

رسی - ایک شہر ہے۔

رہتی - دیدار۔ اچھی صورت۔

رہتی - سیراب۔ عورت۔ خوشبو۔

ریاء - دکھانے کے لیے کوئی کام کرنا۔ اپنے

عقیدہ کے خلاف عقیدہ ظاہر کرنا۔ خود

کو لوگوں کی نگاہ میں نیک دکھلانا۔

ریاب - ڈرانے والا۔ شک میں ڈالنے والا۔

ریاح - شراب۔ شام کا اولین وقت۔

ریاستہ - (ف) سرداری کرنا (د) جسد کی

صدارت کرنا (معموز العین)

ریاش - تیر میں پر لگانے والا۔

ریاش - بڑھیا پوشاک۔

ریاضی - ریاضتہ - بچھڑے کو سدھانا۔

ریال - بچھڑے کے منہ کی رال۔ ایک چاندی کا

سکہ۔

ریان - سیراب۔ مرد۔ جہ۔ ریاء۔

ریب - زمانہ کے حوادث۔ حاجت۔ شک۔

تمت۔ شک میں ڈالنے والی چیز۔ جہ۔

ریوب - مص (رض) شک میں

ڈالنا۔ تمت لگانا۔ برا معلوم ہونا۔

ایذا پہنچانا۔

ریب المنون - زمانہ کی سختیاں۔

ریباس - ایک بوٹی جو دوا میں کام آتی ہے۔

ہونا۔ پھر جانا۔ مائل ہونا۔ کھانے کا اچھا تیار ہونا۔	دِیْبَة - تمہت۔ شک۔ جو چیز شک میں ڈالے جے :- دِیْب۔
دِیْع - اونچی زمین۔ دو پہاڑیوں کے درمیان درہ۔ کشادہ راستہ۔ گرجا۔ ج :-	دِیْبَة - پیپڑا۔ ج :- دِیْبَان - دُئُون۔
دِیْع - دُیْع۔ آدِیَاع۔ جمع گروہ۔	دِیْبَة - پیپڑا وغیرہ جس سے آگ جلاہیں معنی آگ جلنا۔
دِیْعَان - بہتر اور افضل چیز۔ ہر چیز کا اول و آغاز۔	دِیْبَة - اچھا دیدار۔
دِیْف - سرسبز و شاداب مقام۔ دیہات۔ ج :-	دِیْف - (ض) دیر کرنا۔ توقف کرنا۔
آدِیَا ف (د) ملک مصر کا حصہ نشینی	دِیْف - دیر کرنے والا۔
دِیْف - (ض) سرسبز مقام میں پہنچنا۔ چوپایہ کا ایسی جگہ جہاں چارہ بکثرت ہو۔	دِیْع - ہوا۔ ج :- دِیْعَا ح - آدِیَا ح -
دِیْف - دِیْفَان۔ بہت مہربان۔	آدِیَا ح - دِیْع - دِیْع۔ غلبہ۔ قوت
دِیْفَة - چارہ سے بھری ہوئی زمین۔	دولت معنی ہوا لگنا۔ ہوا کا برباد کرنا۔ دن کا آندھی والا ہونا۔
دِیْق - (ض) پانی کا گرنا اور جاری ہونا۔ چمکنا	دِیْعَان - ایک خوشبودار روٹی، جس کو ناز بولتے ہیں۔ بیٹا۔ بیٹی۔ رزق۔ راحت۔
دِیْق - ٹھوک۔ ج :- آدِیَا ق۔	دِیْعَانَة - ناز بول۔
دِیْقِل - (ض) نیچے کی رال ہونا۔	دِیْعَة - ہوا۔
دِیْم - قبر۔ چھوٹی پہاڑی۔ زائد چیز۔ سفید۔	دِیْع - دِیْعَان۔ دِیْعُوخ۔ (ض) مطیع ہونا
ہرن۔ ج :- آدِیَا م۔ معنی (ض)	دِیْعیل ہونا۔ پلپلا ہونا۔
[ض] جانا۔ ہٹنا۔ دور ہونا۔ زائل ہونا [ب] مقیم ہونا۔	دِیْس - دِیْسَان۔ (ض) اترا کر چلنا۔ غالب آنا
دِیْم - سفید ہرن۔ ج :- آدِیَا م۔ آدِیَا م۔	دِیْش - (ض) کھلانا اور کپڑے پھینانا۔ مدد کرنا تو انگریزوں کی تیر میں پر لگانا۔
دِیْمَان - دِیْم (ض) زخم کے منہ کا اچھا ہونے کے لیے سکاڑ جانا۔	دِیْش - پر۔ پاکیزہ۔ ارزانی۔ مال۔ معاش۔ ج :- آدِیَا ش۔
دِیْس - دُئُون۔ (ض) گناہ کا دل پر غالب آنا۔ کام میں پھنس جانا۔	دِیْش - (ض) کانوں میں یا چہرہ میں بالوں کا کثرت سے ہونا۔
دِیْس - میل کھیل۔ معنی (ض) رنگ لگ جانا	دِیْشَة - ایک پر (د) نب۔
دِیْسَة - شراب۔ ج :- دِیْسَات۔	دِیْطَة - دوپٹہ۔ سر پر اوڑھنے کا کپڑا۔ کفن
دِیْع - دِیْعَان۔ دِیْعَا ح (ض) بڑھنا	ج :- دِیْطَا۔
	دِیْع - بہتر اور افضل چیز معنی (ض) زیادہ

نیادہ ہونا۔

رَبِيہ - رض، آمورفت کرنا۔ آنا جانا۔

رَبِيئِيس - سردار (د) صدر۔ پریسیڈنٹ۔

ج:۔ رُبِيَّ سَاء۔

رَبِيَّسَة - تانیت رئیس۔ الْأَعْضَاء الرَبِيَّسَة۔

دل دماغ جگر وغیرہ۔

## ز

زَاط - (ف) بہت شور مچانا۔

زَاب - (ف) خوب پانی پینا۔ ہانکنا پلٹ جانا

کسی چیز کو اٹھا کر تیز تیز چلنا۔

زَابُوْتَة - گھڑ کا گوشہ۔ ج:۔ زَوَابِيْتُق۔

زَابَج - پھٹکری (زناک کا معرب)

زَابَج - (ف) [بین] ایک کو دوسرے

پر بھڑکانا۔

زَابَج - ڈانٹنے والا۔

زَابَجَات - فرشتے جو بادل پر مقرر ہیں۔

زَابَجَف - پیٹ کے بل چلنے والا۔ سرین یا

گھٹنوں پر گھسنے والا۔ عاجز اور ٹھکا

ہوا اونٹ کہ نہایت آہستہ آہستہ

چلتا ہو۔ ج:۔ زَوَابَجَف۔

فرماں۔

زَابَجَف - متکبر و سرکش آدمی۔

زَاد - توشہ۔ ج:۔ اَزْدَاد۔

زَاد - (ف) ڈرانا۔

زَادِي - زَبِيْنُو - (ف) شیر کا ڈروکنا

زَادِيَة - شیر کی جھاڑی۔ باغ۔

زَادِيَة - نیلی یا سرخ کمی، جواوٹ وغیرہ پر

بیٹھی ہے۔ ج:۔ زَوَار۔

ذَارِع - کسان۔ کاشتکار۔ ج:۔ ذُرَاع

ذَارِع - چھوٹا گوا۔ جس میں سیاہی کم ہوتی

ہے۔ ج:۔ زِيْعَان۔

ذَاعَة - گمراہ قوم۔

ذَاعِيَة - بدکار عورت، جو خود کو مردوں پر ڈالتی

پھرے

ذَائِق - شور مچانے والا۔ مرغا۔ ج:۔ زَوَائِق۔

ذَائِف - (ف) کسی کو دوڑانا۔

ذَائِفَة - گردہ۔ جماعت۔

ذَائِق - پاکیزہ آدمی۔ نیک آدمی۔

ذَائِق - گردن کش۔ متکبر۔ ج:۔ زَمَم۔

ذَاهِل - پیرو۔ تابع۔

ذَانَة - ناگوار۔

ذَانِي - زنا کرنے والا۔ بدکار۔ ج:۔ ذُنَاة۔

ذَانِيَة - زنا کرنے والی۔ ج:۔ ذَوَائِي۔

ذَاوِيَة - گوشہ کنارہ (د) خالقہ۔

مسا فرخانہ۔ ج:۔ ذَوَايَا۔

ذَاهِد - تنگ خو۔ دنیا سے بے رغبت۔ ج:۔

ذُهْد - ذُهَاد - ذَاهِدُون -

ذَاهِق - باطل۔ دُبلار موطا۔ ہلاک ہونے والا۔

شکست خوردہ۔ ج:۔ ذُهْق۔

ذَاهِل - مستقل مزاج۔ مضبوط دل کا۔

ذَائِي - (ف) تکبر کرنا۔

ذَائِي - حروف تہجی میں سے گیارہواں حرف۔

ج:۔ اَزْدَاع۔ اَزْدِيَاع۔

ذَيْبُو - شیر کی ڈروک (ف) شیر کا ڈروکنا

ذَائِدَة - جگر کا آگ کھٹل جو اس میں

لٹکا ہوا ہے۔

کھنا۔ رزے کو رزے پر رکھنا۔ دھکا  
بیٹھنا۔ [عن] روکنا۔ منع کرنا۔

ذئب۔ لکھا ہوا۔ ج۔ ذئبوس۔

ذئب۔ مضبوط قوی۔

ذئب۔ خط و کتابت۔

ذئب۔ لہجے کی سختی۔ ج۔ ذئب۔

ذئب۔ جواہرات وغیرہ سے آرائش۔ سونا۔

ذئب۔ پتلا ہول جس میں کچھ سُرخ کی

جھلک ہو۔ ج۔ ذئب۔ ج۔

ذئب۔ زمر کے مشابہ ایک قیمتی پتھر۔ سبز

رنگ مائل بنیادی۔ ج۔ ذئب۔ ج۔

ذئب۔ کپڑے کو سُرخ یا زرد رنگ سے رنگنا۔

ذئب۔ (رض) (بطح کا) چیخنا۔

ذئب۔ ایک خوشبودار گھاس۔

ذئب۔ (رض) بال اکھاڑنا۔ عقید کرنا کسی پر

تنگی کرنا۔

ذئب۔ گوبر۔

ذئب۔ (رض) کھیت میں گوبر کا کھا ڈالنا۔

ذئب۔ (رض) دور کرنا۔ دھکیلنا۔ چلوں کو

درخت پر سچ ڈالنا۔

ذئب۔ گوشہ کنارہ۔ جانب۔ ج۔ آذیان۔

ذئبوس۔ لکھا ہوا۔ داؤد علیہ السلام کی کتاب

ہر کتاب حکمت و دانش ہوئے حروف

کی کتاب۔ ج۔ ذئب۔

ذئب۔ تاوان۔ احمق۔ لڑائی۔ جس میں

لڑنے والوں کی کثرت ہو۔ (د)

ذئب۔ گاہک۔ ج۔ ذئب۔

ذئب۔ گدن۔ گردن کشی۔ بکمر۔ غرور۔

ذئب۔ (رض) لاڈنا۔ ہانکنا۔ مہتم کرنا۔

ذئب۔ دھاڑتا ہوا شیر۔ دشمن۔ ملاقات

کہنے والا۔ ج۔ ذئب۔

ذئب۔ ذئب۔

ذئب۔ جاندار حرکت کہنے والا۔ دوڑنے والا

ذئب۔ سنواری ہوئی عورت، آراستہ

عورت۔

## ذب

ذب۔ (رض) بھڑا۔ پُر کرنا۔

ذب۔ (رض) کسی کے کان اور چہرہ پر

کثرت سے بالوں کا ہونا۔ سورج کا

غروب کے قریب ہونا۔

ذب۔ انجیر یا منٹی بیچنے والا۔

ذب۔ ایک طرح کی خوشبو۔

ذب۔ دودھ کا جھاگ۔

ذب۔ بدی۔ فساد۔ شر۔

ذب۔ ذباکتہ۔ ذراسی چیز بیونٹی جسے

اٹھا کر لے جائے۔

ذب۔ ملائکہ عذاب۔ دوزخ کے فرشتے۔

ذب۔ ذب۔

ذب۔ جھاگ۔ ج۔ آذبان۔

ذب۔ تھوڑا مال مص (رض) تھوڑا دینا۔

ذب۔ (رض) مائی کھلانا۔ دودھ کو ہلانا۔

ذب۔ دودھ کا جھاگ۔ مائی۔ مسک۔

ذب۔ خلاصہ۔ مسک۔ عمدہ۔ ج۔

ذب۔

ذب۔ قوی و توانا۔ عقل۔ رائے۔ کستری

ہات۔ صبر۔ تمام (رض) پھر مازنا۔ پتھروں

سے کوئیں کی من بنانا۔ (ن۔ رض)

زَجَر - (دن) ایر لگانا نیزہ کا پیکان مارنا۔  
زَجَج - (رض) لبائی میں بھروسے  
کا باریک ہونا۔

زَجَاج - (جنس) شیشہ (د) ہلپ۔ لالٹین۔  
کی چینی۔ آئینہ۔

زَجَاجَة - شیشی۔ بوتل۔ (د)

زَجَاج - شیشہ کی چیز بنانے والا۔

زَجَاجِی - شیشہ بنینے والا۔

زَجَبَة - بات۔ کلمہ۔

زَجَج - (د) چھیننا۔

زَجَر - (دن) روکنا۔ منع کرنا۔ ڈانٹنا۔ کُتے  
کو نکلانا اور دفع کرنا۔

زَجَر - ایک بڑی مچھلی۔ ج۔:۔ زَجُوس۔

زَجَرَة - ایک مرتبہ جھڑکنا۔

زَجَل - (س) خوش ہونا۔ آواز بلند کرنا۔ کھیل  
کو دو کرنا۔

زَجَل - (ن) پھینکنا۔ رفع کرنا۔

زَجَلَة - شہد و فریاد۔ ج۔:۔ زَجَلَات۔

زَجَلَة - لوگوں کا گروہ۔ حالت۔ دونوں آنکھوں

کے درمیان کی کھال۔ ج۔:۔

زَجَل۔

زَجْم - (د) کوئی پوشیدہ کلمہ کرنا۔

زَجُو - (د) ہانکنا۔ نرمی سے رفع کرنا

کا میاب ہو جانا۔ آسان ہونا۔ محصول

کا سہولت سے حاصل ہو جانا۔

## ز-ح

سْتَرْج (دن) جلدی سے رفع کرنا۔ جلدی  
سے کھٹنا۔

زَرِیب - (جنس) انجیر منقہی سانپ کے منہ کا  
زہر۔ زَرِیبَة - میں تائے وحدت ہے۔

زَرِیبَتَان - منہ کی دو باجھوں کا جھاگ۔ سانپ  
اور کتے کی دونوں آنکھوں کے اوپر  
ڈوکالے نقطے۔

زَرِیبِی - بھگوئی ہوئی موز کا پانی۔ مرز یعنی منقہی  
بیچنے والا۔

زَرِیو - لکھا ہوا مضبوط قوی۔ مصیبت  
عقل مند و ہوشیار۔ کیچڑ۔

زَرِیَة - وہ گڑھا جو درندوں کے شکار کے  
لیے ہو۔ بلند ٹیلا جس پر پانی نہ چڑھ  
سکے۔ ج۔:۔ زُرْبِی۔

زَرِیْع - جھگڑا اور غصیلا آدمی۔

زَرِیْل - گوہر خشک کدو درمیان سے خالی  
جھولی۔ ج۔:۔ زُرْبِل۔

زَرِیْل - جھولی۔ برتن۔ ج۔:۔ زَرِبِیْل۔

زَرِیْن - وہ شخص جو شدت حاجت کے باوجود  
قضائے حاجت نہ کرے۔

زَرِیْلَة - سرکش دیو۔ بادشاہ کا سپاہی۔ روزخ کا  
گھنٹن۔ سخت بے مروت۔ اور اکھڑ  
آدمی۔ ج۔:۔ زَرِبِیْلَة۔

## ز-ت

زَت - (دن) سنوارنا۔

زَوُخ - (دن) چمٹ جانا۔

## ز-ج

سْتَرْج تیر کا پیکان۔ ج۔:۔ زَجَاج۔  
زَجَجَة۔

زَحَاف - شعر میں ایک حرف کا دو حرفوں کے درمیان سے گرجانا اور ان دونوں کا آپس میں نزدیک ہوجانا۔

زَحَالِف - چھوٹے چھوٹے کپڑے جو بیوی بیوی کے مشابہ ہوتے ہیں۔

زَحَا - زَحَا سہا - بخیل - کبجو سہا۔

زَحَا ح - دور۔

زَحَزَح - دوری۔

زَحَزَحَة - دور کرنا۔ روکنا۔

زَحَف - زَحَفَان - زُحُوف - (ف) چلنا گھٹنوں پر چلنا۔ سرخوں کے بل تھوڑا تھوڑا چلنا۔ کسی چیز کو معمولی طریقہ سے کھینچنا۔ اونٹ کا درمانہ ہوجانا۔

زَحَف - دشمن کی طرف جانے والا لشکر۔ جہاد۔ ہماری لشکر۔ جہاد۔ زُحُوف۔

زَحَك - (ف) اونٹ کا درمانہ و عاجز ہوجانا [من] قریب ہونا [عن] دور ہونا [ب] کسی جگہ مقیم ہونا۔

زُحَل - (غیر منصرف) ایک ستارہ۔ (منصرف) سیاہ سیسہ۔ مرد جو کام سے یکسو رہے۔

زُحَيْلِيل - تنگ اور پھسلواں جگہ۔ جہاد۔ زَحَا لِيل۔

زُحَيْفَة - (مذکورہ) دور کرنا۔ بھڑنا [فی] جلدی کرنا۔ زُحُوفَة - چکنی۔ پھسلواں اور نشیبی جگہ۔ جہاد۔

زُحَا لِيْف - زَحَا لِيْف - زُحَا م - (ن) ہجوم کرنا۔ تنگی کرنا۔ زُحْمَة - ہجوم کرنے والے ہجوم۔

زَحَن - (ف) دیر کرنا [عن] دور کرنا۔

زَحَن - ٹھنکنا آدمی۔

زَحُوف - درمانہ و عاجز اونٹ۔ جہاد۔

زُحَف -

زُحُول - (ن) دور ہونا کنارہ کش ہونا۔

زُحَيْد - زُحَاد - ثرونی پیشکش۔ معص (ف)

ٹھنکی سانس بھرنا (مجموعاً)

پیشکش یا اسہال میں مبتلا ہونا۔

## ز ح

سَرَح - (ن) غصہ ہونا۔ غضبناک ہونا۔ پیچھے سے چلانا۔ گڑھے میں ڈال دینا۔

سَرَح - زُحَيْجِي - (ن) آگ کا بہت زیادہ چمکنا۔

زُحَيْت - بہری۔ کینہ۔ غصہ۔

زَحَا رِفُ الدُّنْيَا - دنیا کی نعمتیں اور لذتیں۔

زَحَا رِفُ الْمَاءِ - پانی کے راستے۔

زُحُور - (ن) دریا کا پانی سے پر ہونا

دریا کا لہریں مارنا۔ نالہ کا طویل اور

پر آب ہونا۔ بھرنا۔ ٹانڈی کا جوش

مارنا۔ لڑائی کا زور پر ہونا۔ نیا نیا

کا پھولنا، اور ان میں پھول کھلنا۔

فخر کرنا۔

زُحُوف - سونا۔ زر چیز کی غایت درجہ کی

خوبی۔ آہارا اور راستہ چیز چکنی چٹری

بات۔ کشتی۔ سہرے نقش و نگار۔

ٹپ ٹاپ۔ جہاد۔ زَحَا رِف۔

زُحُوفَة - بات کو سنوارنا۔ کسی چیز کو آب زر

وغیرہ سے مزین کرنا۔

زُحَف - زُحَيْف (ف) ٹنکر کرنا۔ گردن

کشی کرنا۔

اور ہاتھ لپے ہوتے ہیں اور سر ادرنٹ  
کے سر کے مشابہ ہوتا ہے۔ ج۔ کڑاؤند  
کڑاؤند - ایک جڑ ہے۔ دو طرح کی ہوتی ہے  
ایک طویل۔ دوسری مدحرج یعنی  
گول۔

سڑب - شکاری کی کہیں گاہ۔ چوپاؤں کا احاطہ۔  
ج۔ سڑب - سڑب - سڑب - سڑب - سڑب  
کو احاطہ میں داخل کرنا۔ ان کے لیے  
احاطہ بنانا۔

سڑب - (س) جاری ہونا۔ ہنا۔  
زرجون - انگور کی شاخیں۔ زرجون - ایک  
سرخ رنگ۔

سڑح - (ف) زخمی کرنا۔  
سڑح - (س) ایک جگہ سے دوسری جگہ کی  
طرف منتقل ہونا۔

سڑد - (ن) گلا گھونٹنا۔ زہر بننا۔  
سڑد - زہر جس کی گرہیں آپس میں گتھی ہوتی  
ہوں۔ ج۔ سڑد - مص (س)  
لقہ جلدی نکلنا۔

سڑد - جلد ہضم ہو جانے والا۔  
سڑد - کھیت لالاد۔ ج۔ سڑد -  
خوشہ۔ سڑد - ایک خوشہ

مص (ف) بیج ہونا۔ اگانا۔ زبردست  
اور قوی کر دینا۔

سڑد - بیج۔ ہونے کے لائق زمین۔  
سڑد - ایک معجون کا نام۔

سڑد - (ن) اچھلنا۔ کودنا۔ (ف) کسی چیز  
میں زیادتی کرنا۔ دروغ آمیز باس  
کہنا۔ (ر) آنزدگی ہونا۔

سڑد - (ف) نیز بانگنا۔ زور سے ہٹانا۔  
سڑد - (س) گوشت کا خراب اور بدبودار  
ہوجانا۔

سڑد - کھدا ہوا۔ خراب شدہ۔  
سڑد - گندی پوکی عورت۔  
سڑد - خراب شدہ۔ چکنائی کی بو۔

## ز - د

سڑد - حصہ نصیب۔ ج۔ آسڑد۔  
سڑد - (ن) لوٹنا۔ نکلنا۔

سڑد - (ف) جماع کرنا۔ صحبت کرنا۔

سڑد - (ن) بچوں کا کھیلتے ہوئے انہوں  
کو ہینڈاؤ دکھیل کے گڑھے میں  
پھینکنا۔

## ز - س

سڑد - (ن) کپڑے کی گھنڈی لگانا۔ بانگنا۔  
ہٹانا۔ نیزہ مارنا۔ آنکھوں کو تنگ  
کرنا۔

سڑد - گریبان کی گھنڈی۔ دل کے نیچے ایک  
چھوٹی سی ہڈی۔ تلوار وغیرہ کی دھار  
ج۔ آسڑد۔

سڑد - مسندیں تکیے۔ فرش۔ د۔  
سڑد - بانگسروالغصہ۔

سڑد - ہر وہ چیز جو دیوار پر پھینکی جائے اور  
وہ دیوار سے چپک جائے۔

سڑد - کاشتکاری کھیتی۔  
سڑد - آدمیوں کا گروہ۔ ج۔ سڑد -

ایک جانور جس کے پاؤں چھوٹے

ذَرَف۔ (س) زخم کا اچھا ہوجانے کے بعد تازہ ہوجانا۔

سَرْدَق۔ (ض) جانور کا بیٹ کرنا۔ آنکھ کا پھرنا۔ اور اس کی سپیدی کا ظاہر ہونا۔

سَرْدَق۔ (س) بلی کی سی آنکھیں ہونا۔ اندھا ہوجانا۔

سَرْدَق۔ اندھے۔ بلی جیسی آنکھوں والے۔  
وہ۔ آذَرَق۔

سَرْدَقَاء۔ شراب۔ آسمان۔ گریہ چشم عورت  
آذَرَق کا مؤنث۔

ذُرْقَة۔ گریہ چشمی۔ آسمانی رنگ  
ذُرْقَم۔ بیحد نیلی آنکھوں والا (مذکر و مؤنث)

جہ۔ ذَرَقَمہ

سَرْدَك۔ (س) بند خلق ہونا۔

سَرْدَم۔ (ض) [علی] کا ٹٹا منقطع کرنا۔ روکنا  
(پیشاب یا کلام کا)

سَرْدَم۔ (س) منقطع ہوجانا۔ رک جانا۔  
(پیشاب یا کلام کا)

ذُرْبَاد۔ ایک بوٹی کی جڑ ہے۔

ذُرْبَقَة۔ چھوٹی نر سے آبپاشی کرنا۔

ذُرْبُوق۔ چھوٹی نر۔

ذُرْبُوق۔ ہرنال۔ جہ۔ ذُرْبُوقِیخ۔

ذُرْبُوقِیخ۔ ہرنال۔ جہ۔ ذُرْبُوقِیخ۔

ذُرْبُوق۔ سَرْدَقِیْف۔ (ض) [علی] کسی کا عیب بیان کرنا۔ عتاب کرنا۔ غصہ کرنا۔

ذُرْبُوقِیخ۔ مویشیوں کا اعاطہ۔ شیر کی جھالی  
شکاری کی کین گاہ۔ جہ۔ ذُرْبُوقِیخ۔

سَرْدَاب۔

ذُرْبُوق۔ تیز ذہن۔ خوش طبع۔ ایک گھاس جس سے رنگتے ہیں مص (ض) آنکھ کا

روشن ہونا۔ اور سرخ ہونا۔ چمکنا۔  
ذُرْبُوق۔ ہلکا اور پاکیزہ عقل مند۔ پختہ عقل کا۔

ذُرْبُوقَة۔ بوٹی ہوئی چیز۔  
ذُرْبُوقِیْف۔ (ض) آہستہ چلنا [الی] نزدیک

ہونا۔

سَرْدَقِیْف۔ ایک پرندہ۔

سز۔ ز

سَز۔ (ض) طمانچہ مارنا۔

زَوْرَكَة۔ (عورت کا) اپنے دونوں سر پہنوں اور دونوں پہلوؤں کو ہلاتے ہوئے

چلنا۔

زَوْرَك۔ ٹھٹکنا۔ متکبر۔ بد صورت اور اترا کر چلنے والا۔

سز۔ ط

سُرَط۔ ہندوستان کی ایک قوم جاٹ  
(مغرب لفظ ہے) ذُرْبُوقِیخ ان میں

سے ایک۔

سُرَط۔ (ض) کھٹی کا بھنجانا۔

سز۔ ع

ذُعَاة۔ ذُعَاة۔ بد خلقی۔

ذُعَاذِع۔ حلوٹ نما۔

ذُعَاذِغ۔ آنکھی سخت ہوا۔

ذُعَاغ۔ جلد قتل کر دینے والا (زہر یا موت)



زَعَق - (ف) چیننا۔ ڈرانا (خبار) برا لگینے کرنا۔  
(ب) بچھو کا ڈنک مارنا۔

زَعَم - گمان۔ شک۔ ذمہ داری۔ سرکاری  
مہر (ف) ضامن و ذمہ دار ہو جانا۔  
سر دار ہونا۔ گمان کرنا۔ تممت لگانا۔  
جاننا۔ کہنا۔

زَعَم - (س) امید رکھنی۔ حرص کرنی۔

زَعَنَفَة - دولہن کو آراستہ کرنا۔

زَعِنَفَة - ٹنگنا۔ ٹنگنی۔ بدن کے اطراف  
یعنی ہاتھ پاؤں۔ مصیبت۔ جہ :-  
زَعَانِف -

زَعُو - (ن) عدل و انصاف کرنا۔

زَعِيْب - (ف) کوئے کا کاٹیں کاٹیں کرنا۔

زَعِيْق - مَزْعُوْق - ڈرایا ہوا۔

زَعِيْم - ضامن و ذمہ دار۔ گمان کرنے والا  
سر دار۔ لیڈر۔ قوم کا نمائندہ، اور  
معتد علیہ۔ جہ :- زَعَمَاء -

## زَع - غ

زَعَب - (س) باریک بال۔ یعنی روئیں جتنا  
(انسان کے) باریک پر جتنا پرندہ،

زَعْد - (ف) اونٹ کا بہت زور سے بلبلا  
گلا گھونٹنا۔ برا لگینے کرنا۔

زَعْر - (ف) چھین لینا۔ بہت زیادہ ہونا  
دیر یا بہت پانی والا ہونا۔

زَعْرَغ - ہلکا پھلکا اور چست و چالاک آدمی۔  
جہ :- زَعَاغ -

زَعْرَغَة - رکیک گنگو کرنا۔ چھپانا۔ پوشیدہ  
کرنا۔ (ب) کسی کے ساتھ ہنسی کرنا اور

زَعَاق - بہت کڑوا پانی جسے پی نہ سکیں۔

زَعَاقَة - زَعُوْقَة (ن) پانی کا بہت کڑوا  
ہونا کہ اسے پی نہ سکیں۔

زَعَانِف - پھلی کے پر۔ وہ گروہ جس کے افراد  
ایک قبیلہ سے نہ ہوں۔

زَعَامَة - ضمانت۔ ذمہ داری۔ بڑائی۔  
سرکاری۔ ہتھیار۔ زرہ۔ فنیت میں

سے سر دار کا حصہ۔ مال۔ میراث۔  
میں سے اکثر حصہ۔ اور اچھا مال۔

(د) لیڈری حصہ (ف) (ن)  
(ب) کسی چیز کا کفیل اور ذمہ دار

ہونا۔

زَعَب - (ن) بھڑنا۔ کاٹنا۔ [عین] بھٹانا۔

[ل] [مال میں سے] کسی کو کچھ حصہ دینا۔

زَعَج - (ف) اکھاڑ ڈالنا۔ بے آرام کرنا۔  
بھٹانا۔ چیننا۔ چھین لینا۔

زَعَج - بے چینی۔ بے آرامی۔ قلق۔ اضطراب۔

زَعْر - (س) بالوں کا کم اور پر گندہ ہونا  
باریک بالوں والا ہونا۔

زَعْرُوْد - ایک درخت کا نام۔ بد خلق۔ جہ :-  
زَعَارِيْر -

زَعْنَع - تیز ہوا جو چیزوں کو ہلا ڈالے۔  
آندھی۔

زَعْنَعَة - ہلا ڈالنا۔  
زَعْنَط - (ف) گلا گھونٹنا۔ گدھے کا آواز کرنا۔

زَعْف - (ف) فی الفور قتل کر دینا۔  
زَعْفَرَان - زعفران کیسر۔ لوہے کا رنگ۔

جہ :- زَعَاض -  
زَعْفَرَة - زعفران سے رنگنا۔

(پانی) دینا گدھے کا آواز نکالنے لگنا۔  
 زَعْفَة - ٹھنڈی سانس۔ معص (من) سانس  
 بھڑنا۔  
 زَعْفَة - زور سے جاری ہونا۔ یا اپنے آپ کو گرا  
 دینا۔ (پرنده کا) بازو پھیلانا۔  
 زَعْفَاة - موٹر سائیکل۔ (د)  
 زَعْفَلَة - دوڑنا۔  
 زَعْن - (من) نہا چنا۔ بچہ کو کھلانا اور سچا نا۔  
 ہتھیاروں کے ساتھ کھیلنا اور ناچنا۔  
 زَعْفُوف - (من) دست مرغ کا، دوڑنا (ہوا کا)  
 خوب چلنا۔

زَعْفُوف - زَعْفُوف - بہت دوڑنے والا شتر  
 مرغ (د) اکسپریس۔  
 زَعْفِي - (من) (ہوا کا) برکوں، ٹمکنا۔ چلانا اور  
 پر اگندہ کرنا۔ (ہوا کا) تیز چلنا۔ ڈرانا۔  
 زَعْفِيْر - گدھے کی آواز کی ابتدا اور اس کے  
 آخر کو شہیق کہتے ہیں۔ سختی  
 مصیبت۔

## ز-ق

زَعْفِي - (ن) پرنده کا بیٹ کرنا۔ جانور کا  
 اپنے بچہ کو منہ میں داغ کھلانا۔  
 زَعْفِي - شراب۔ جہ۔ زَعْفِيَة -  
 زَعْفِي - مٹک۔ جہ۔ اَزْقَات - زِقَات -  
 زِقَان -  
 زَعْفَات - گلی کو چہر۔ جہ۔ زِقَان - اَزْقَة -  
 زَعْف - تنگ راستہ۔ نزدیک۔ قرب۔  
 زَعْف - (ن) چوہے کو اس کے سوراخ میں گھسا  
 دینا (چوہے کا) اپنے بل میں گھس جانا۔

مذاق اڑانا۔  
 زَعْف - (ف) پانی کا بہت ہونا۔  
 زَعْف - جلانے کی چوٹی چھوٹی لکڑیاں۔  
 زَعْفَل - (ف) (پانی) ایک دم بھیننا۔ کلی کرنا  
 (بچہ کا) دودھ پینا۔  
 زَعْفُول - بچہ۔ ہلکا اور چست آدمی۔ جہ۔  
 زَعْفَالِيْن -  
 زَعْفُوم - زَعْفُوم - وہ آدمی جو گفتگو نہ کر سکے۔  
 زَعْفُو - (ن) (بچہ کا) رونا۔

## ز-ف

زَف - زِفَات - دن، دُہن کو خادند کے  
 پاس بھیجنا۔ (بکلی) چمکنا  
 زَف - زَفِيْف - (من) شتر مرغ کا دوڑنا۔ ہوا  
 کا اچھی طرح چلنا۔ (پرنده کا) اپنے آپ  
 کو زمین پر ڈال دینا۔ یا دونوں بازو  
 پھیلانا۔  
 زَفْت - رال تارکول۔  
 زَفْت - بھڑنا۔ غصہ کرنا۔ دود کرنا۔ مشقت  
 میں ڈالنا۔  
 زَفَّة - گروہ۔  
 زَفْد - (ن) بھڑنا۔  
 زَفْر - بوجھ۔ مسافر کا سامان۔ گروہ جہ۔  
 اَزْقَاس -  
 زَعْفَر - درخت کے ٹیک لگانے کا ستون۔  
 زَعْفَر - شیر۔ بہادر آدمی۔ دریا۔ ندی جس  
 میں پانی بہت ہو۔ بہت سخاوت۔  
 لشکر۔  
 زَعْفَر - زَعْفِيْر - (من) ہلکی سانس لینا، اٹھانا۔

زَكَم - دن، زکام کا بیماریا کر دینا بھڑنا (جھولنا)  
 زکام زدہ ہونا زب [ ڈالنا۔  
 زَكَمَة - زکام۔ زحمت۔  
 زَكَمَة - تمام اولاد سے آخری اور چھوٹا (مذکر و مؤنث)  
 زَكْن - (س) سمجھ لینا، تاڑ جانا، گمان کرنا۔  
 زَكُوْقَة - چیز کا خلاصہ۔ مال میں کا حصہ جو مال کے پاکیزہ کرنے کے لیے نکالتے ہیں۔ پاکیزگی۔ نشوونما یعنی پھیلنا اور بڑھنا۔ برکت۔  
 زَكِيَّة - پاکیزہ۔ نیک۔ آسودہ حال۔ ج۔  
 آذَكِيَاء -

زُقُوتَة - پندہ کا بیٹ کرنا۔ جانور کا اپنے بچہ کو دانہ دینا۔ مال کا بچہ کو کھوانا۔  
 زُقُوت - (ن) جلدی سے اچک لینا۔ جلدی سے کھا لینا۔  
 زُقُوتَة - لقمہ۔ نوالہ۔  
 زُقَم - (ن) کھانا۔ نکلنا۔  
 زُقِن - (ن) اٹھانا۔ برداشت کرنا۔  
 زُقُو - زُقَاء - (ن) رُوکنا، بولنا۔  
 زُقُوم - دوزخ میں ایک درخت ہے۔ دوزخیوں کا کھانا۔ تقویٰ کا درخت۔  
 زُقِي - (ض) آواز نکالنا۔  
 زُقِيَّة - شور و فساد کرنا۔

ز-ل

زَل - زَلِيل - زُلُوْل - زَلَل - (ض) س۔  
 پھسل جانا۔ لغزش اور غلطی کرنا۔  
 زَل - زَلِيل - زُلُوْل - زَلَل - (ض) س۔  
 پھسلنا۔ پھسلنا۔ جگہ۔  
 زَلَاذِل - آفتیں۔ سختیاں (ذَلُوْلَة کی جمع)  
 ماہر و ہوشیار۔ دھول بجانے والے۔  
 (سنا زَلُوْل کی جمع)  
 زَلَاقَة - پھسلنا۔ جگہ۔  
 زَلَال - شیریں خوشگوار پانی۔  
 زَلَب - (س) [ب] کسی چیز کو چھٹ جانا اور اس سے جدا ہونا۔  
 زَلَة - لغزش۔ بات میں لغزش۔ گناہ۔ بے ارادہ غلطی۔  
 زَلَج - (ن) ہلکی اور تیز رفتار سے چلنا (ض)  
 دروازے کو کھنڈی لگا کر بند کر دینا۔  
 زَلَح - (ف) چکھنا۔

ز-ک

زَكِيَّة - زَكِيَّة - زَكِيَّة (ض) کمزوری کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر چلنا (درتن) بھڑنا۔ (مرغی یا تیتیر کا) دوڑ کر چلنا۔  
 زَكَاةٌ - بہت چاندی والا۔ دولت مند۔ سرمایہ دار۔  
 زَكَاةٌ - زَكُوْر (ن) پھیلنا۔ بڑھنا۔ زیادہ ہونا لائق ہونا۔ اچھی طرح زندگی گزارنا۔  
 زَكَاةٌ - سر اور دماغ کی مشہور بیماری۔  
 زَكَب - (ن) بھڑنا۔ عورت کا بچہ کو ایک دم ڈال دینا۔  
 زَكْبَة - نطفہ۔ لڑکا۔  
 زَكَبْت - (ن) بھڑنا۔  
 زَكْر - (ن) بھڑنا۔  
 زَكُوِيَّة - ایک پیغمبر علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ و السلام کا اسم مبارک۔

ذُفَعَة - ایک طرف کرنا۔ دور کرنا۔

ذَلِخ - (ن) زخمی کرنا۔

ذَكَخ - (س) فریہ ہونا۔

ذَكْر - (س) بے چین ہونا۔ بے قرار ہونا۔

مضطرب ہونا۔

ذَلْزَال - حرکت۔ جنبش۔

ذَلْزَلَة - بھونچال۔ زلزلہ۔ حادثہ۔ ۱۰۷۔

ذَلَاذِل -

ذَلْزَلَة - ذَلْزَال - خوب ہلانا۔

ذَلْط - (ض) تیزی سے چلنا۔

ذَلَع - (ف) دھوکر اور فریب سے اچک لینا۔

ذَلَع - (س) دپاؤں کا پھٹ جانا۔

ذَلَف - نزدیک کی مرتبہ (ن) آگے ہونا۔

ذَلَف - باغ۔ سرسبز مقام۔ مرغزار۔

ذَلَفَة - سخت زمین۔ ہموار۔ چمکدار۔ چٹان۔

صاف کی ہوئی زمین۔ عورت۔ سبزہ ناز۔

۱۰۷۔ ذَلَف -

ذُفَعَة - رات کا ایک حصہ۔ پیالہ۔ نزدیکی۔

مرتبہ۔ ۱۰۷۔ ذَلَف - ذُفَعَات -

ذُفَعَات - ذُفَعَات -

ذُفَعِي - نزدیک کی مرتبہ۔

ذَلِق - پھسلاواں جگہ معنی (ض) دور کرنا۔

ایک طرف کرنا پھسلانا (س) مونڈنا۔

ذَلِق - پھسلاواں جگہ۔ صاف اور چمکیل مقام۔

چوپایہ کا سرین معنی (س) پھسلنا۔

کسی جگہ سے دل برداشتہ ہونا اور

اس کو چھوڑ دینا۔

ذَلِقُ الْأَمْعَاء - انتڑیوں کی بیماری کہ

ان میں غذا نہیں ٹھہرتی۔

ذَلِقُ الْكَلْبِيَّةِ - ذیابیطس۔

ذَل - لغزش۔ گناہ۔ پھسلاواں جگہ۔ کمی۔

نقصان۔ معنی (س) ہلکے سرینوں

والا ہونا۔

ذَلَم - (ن) گناہ کرنا۔ بھڑنا۔ بخشش، کم

کرنا۔ (ن) ناک کا ٹٹنا۔

ذَلَم - پھٹا ہوا کھڑبلی کے مشابہ ایک جانور۔

بے پر کا تیز بھونے کا تیز۔ ۱۰۷۔ آذَلَام۔

ذَلَمَاء - ادھنی جس کے کان کی لاکھی ہوئی ہو۔

اچھی طرح تراشا اور درست کیا ہوا

تیز پہاڑی بکری۔

ذَلُوخ - کنواں جس پر سر شخص کا پاؤں پھسل جائے

ذَلِيل - ذَلِيل - خوشگوار۔ شیریں (پانی)

ذَلِيح - (ن) ہلکی اور تیز رفتار سے چلنا۔

ذَلِيحَاء - حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ

والسلام کی بیوی کا نام۔

ذَلِيحَة - پھسلنے والا لقمہ۔

ذَلِيح - ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے

والا۔

ذَلِيل - خوشگوار۔ شیریں پانی معنی ایک مقام

سے دوسرے مقام کی طرف چل دینا۔

ذَلِيل - ذَلِيل - (ض) تیز چلنا۔ دوڑنا۔

ذَلِيح - اچھی طرح تراشا ہوا تیز۔

ذَلِيحَة - فرش بچھانے کی چیز۔ ۱۰۷۔ ذَلَالِي -

## ذ - م

ذَمَّ - (ن) باندھنا۔ سر اٹھانا۔ تکبر کرنا

اڈٹ کے نکیل ڈالنا۔ تسمہ لگانا

بات کہنا۔

زَمَعٌ - کینے اور نچلے طبقے کے لوگ مستقل مزاج و ہوشیار آدمی۔ معن (س) انگلیوں کا زائد ہونا۔

زَمِعٌ - وہ شخص جس کا غصہ میں پیشاب نکل جائے یا آنکھوں میں آنسو آجائیں۔

زَمْعَةٌ - گھاس کا کچھ حصہ۔

زَمْنٌ - (ض۔ ن) ڈاڑھی اٹھا لانا۔ کھولنا۔

زَمَقَةٌ - حقوڑی اور گھٹیا چیز۔

زَمَكٌ - (ن) بھرناز علیٰ براہِ نگینتہ کر کے غصہ دلانا۔

زَمَلٌ - (ن) کسی کو پیچھے سوار کرنا۔ کسی کے پیچھے چلنا۔

زَمَلٌ - زَمَلَانٌ - (ن) اذراہ نشاط نظر کر چلنا۔

زَمَلٌ - سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا پشت کا بوجھ۔ آدمی گون کی مقدار میں ہر چیز۔

زَمَكَةٌ - بہت کافی۔ کثیر۔

زَمَكَةٌ - آدمیوں کا گروہ۔ رفتار۔ ساتھی۔

زَمَمٌ - قریب۔ مقابل۔

زَمَنٌ - زمانہ۔ وقت حقوڑا ہوا بہت۔ ج:۔

أَزْمَانٌ - (س) معن (س) لنگھا ہونا۔ اپنا سچ ہونا۔

زَمِنٌ - لنگھا۔ ج:۔ زَمِنُونٌ - مریض ہودت سے بیمار ہو۔

زَمِنَةٌ - زمانہ۔

زَمَمٌ - (س) گرمی کا سخت ہونا۔

زَمَمَةٌ - آنکھوں کا غصہ میں سرخ ہو جانا۔

زَمَمٌ - جاڑے کی شدت۔

زَمَمٌ - باوقار۔ بردبار۔

زَمَانَةٌ - (ك) باوقار ہونا۔ بردبار ہونا۔

زَمَانَسٌ - بانسری بجانے والا۔

زَمَامٌ - ہمارے ڈورا جسے اونٹ کی ناک میں باندھتے ہیں اور اس میں ہمارا بندھتے ہیں۔ نکیل۔ ج:۔ آزَمَةٌ۔

زَمَامٌ النَّعْلُ - جوتی کا تسمہ۔

زَمَانٌ - زمانہ۔ وقت۔ حقوڑا یا بہت۔ ج:۔

أَزْمَانَةٌ۔

زَمَانَةٌ - محبت۔ جانوروں کی ایک بیماری۔

معن (ك) اپنا سچ ہو جانا۔

زَمَجٌ - (ن) بھرناز میں براہِ نگینتہ کرنا۔ بغیر اجازت آ جانا۔

زَمَجٌ - (س) غصہ کرنا۔ غیظ و غضب میں آنا۔

زَمَجِيلٌ - تیندوا۔ ج:۔ زَمَجِيلٌ۔

زَمَجٌ - (ف) تکبر و سرکش کرنا۔

زَمَرٌ - (ن) بانسری بجانا۔ مشک بھرناز۔

ہات کو فاش کرنا۔ ایک کو دوسرے پر براہِ نگینتہ کرنا۔

زَمَرٌ - (س) کم ہالوں والا ہونا۔ کم مروت ہونا۔

زَمْرَةٌ - فوج۔ گروہ۔ بیٹھ۔ چھوٹا گروہ۔ ج:۔

زَمْرٌ۔

زَمْرُدٌ - ایک قیمتی پتھر ہے۔

زَمْرَمٌ - خانہ کعبہ حرمہ اللہ کے نزدیک ایک کنوئیں کا نام مَاءُ زَمْرَمٌ - بہت پانی۔

زَمْرَمَةٌ - بھنبھنا ہٹ۔ گرج۔ شیر کی آواز ہلکی آواز جو سمجھ میں نہ آئے۔

زَمْرَمَةٌ - گروہ۔

زَمْرَمِيَّةٌ - تھراس (د)

سراٹھانا۔

سَنَنخ - (س) تیل کا متغیر اور بد مزہ ہو جانا۔  
ذَنشد - پہنچا ہانہ کا چمقنا۔ ایک غار دار درخت  
ج:۔ زَنکاد۔ آذَنَد۔ آذَنَاد۔

مص (ن) بھرنا۔

ذَنَد - (س) پیاسا ہونا۔

ذَنَدَقَة - مٹھو دے دین ہونا۔

ذَنَدُوَق - صندوق۔ ج:۔ زَنَادِیْق۔

ذَنَدِیْق - مشرک، خدا اور آخرت کا منکر۔

ج:۔ زَنَادِیْقَة۔

ذَنَف - (س) غضب ناک ہونا۔

ذَنَق - (س) اہل وعیال کے لیے خرچ میں  
تنگی کرنا۔

ذَنُوء - (ن) کم ہونا اور گتھ جانا (سایلی)

خوش ہونا۔ دوڑنا۔ گلا گھونٹنا پینا

و پاخانہ کا شدت کے ساتھ لگنا (الی)

کسی کے قریب ہونا۔ کسی کی پناہ لینا

(فی) کسی چیز پر چڑھنا۔

ذَنُوْح - تیز رفتار اونٹنی۔

ذَنُوْس - (ن) کسی کے زنا باندھنا۔ بھرنا۔

سَنُوْتی - زنا کی طرف منسوب۔

ذَنَهْرَة - (الی) کسی کی طرف بہت دیکھنا۔

سَنَیْق - تنگ و جھانڈی۔ تنگ برتن۔

سَنَیْق - (الی) عورت کے ساتھ زنا کرنا۔ زنا

کی طرف منسوب کرنا۔

ذَنِيْح - کینہ۔ نہایت نیچ۔ بد خو جو کمینہ پن

میں مشہور ہو۔ جو ایک قوم میں

لگ گیا ہو۔ اور ان میں کانہ ہو۔

ذَمِيل - ساتھی۔ سواری پر بیچے بیٹھے والا۔

ج:۔ ذَمِلَاء۔

ذَمِيْن - گنجا۔ ج:۔ ذَمْنِي۔

## زنا۔ ن

ذَنَاء - ٹھٹھنا اور گول بدن والا آدمی۔ جسے

پیشاب لگ رہا ہو۔

ذَنَاج - بدلہ۔ پاداش۔ جزا۔

ذَنَاس - جو چیز جموسی وغیرہ کر باندھتے ہیں۔

جینو (د) کر بند۔ پٹکا۔

ذَنَاط - جگمگ مص (ن) جگمگ کرنا۔

ذَنَآب - (س) فرہ ہونا۔ موٹا تازہ ہونا۔

ذَنَبُوْك - اسپرنگ۔ (د)

ذَنَبِيْق - چمیل کا تیل۔ گل سوسن۔ بانسری۔

ذَنَبُوْس - بھڑ۔ حاضر جواب۔ ایک بڑا درخت۔

ج:۔ ذَنَابِيْر۔

ذَنِيْل - جھولی۔

ذَنَج - (جنس) جیشیوں کی ایک قوم۔

و:۔ ذَنِيْحِي۔ ج:۔ ذَنُوْح۔

ذَنَجَار - زنگار کا معرب۔

ذَنَجَب - پٹکا۔ منطقہ۔

ذَنَجَبَة - چھوٹا سا کتیا جسے عورتیں اپنے سر میں

پر باندھتی ہیں۔ تاکہ بڑے معلوم

ہوں۔

ذَنَجِيْل - سونٹ۔

ذَنَجُوْر - سنگرف۔

ذَنَج - (ن) تعریف کرنا یا ٹکنا۔ تنگی کرنا۔

ذَنَخ - (ن) ذَنُوْح۔ (ن) بکری کے بچہ کا

حلق کی نھلی کی وجہ سے دو دھ پیتے ہوئے

## سناو

سنوے - (ن) ، (ب) منقلب کر دینا بدل دینا۔  
سنوے - (ن) جانا۔

سنوے - ہر وہ چیز جو کسی دوسری چیز کی  
مصلح ہو۔ رسی جسے اونٹ کی دچی  
اور سینہ بندے کے درمیان باندھا  
جاتا ہے۔

سنوے - زودکش موت۔

سنوے - (ن) پھر جانا۔ پھر دینا۔ ڈرنا۔  
دور ہونا۔ دن کا پڑھنا۔ آفتاب کا  
ڈھلنا۔

سنوے - (ن) بھاگ کر باہر نکلنا۔ پانی کا  
بہنا۔

سنوے - تمام کا تمام۔ سب کا سب۔

سنوے - خاوند۔ بھئی۔ ہم نشین اور دوست  
جوڑا جو۔ آذواج۔ مص۔ (ن)  
(بین) [فساد پیکرنا۔

سنوے - (ن) جانا۔ دور ہونا۔ جمع کرنا۔  
منتشر کرنا۔

سنوے - (ن) توشہ کا ہمیا کرنا۔

سنوے - جھوٹ۔ کفر۔ شرک۔ یہود و نصاریٰ  
کے تہوار۔ جس چیز کو مشرکوں نے  
محبوب بنالیا ہو۔ باطل۔

سنوے - سینہ کا وسط۔ زیارت کرنے والے  
زیارت کرنے والیاں (مذکر و مؤنث)  
خیال جو بند میں آئے۔

سنوے - زیادت۔ زوے۔ زوے۔ (ن)  
زیارت کرنا۔

سنوے - گہرا کھول۔ پیالہ۔ ٹیڑھی چیز۔ کمان۔

سنوے - اونٹنی جو سختی اور تیزی کی وجہ  
سے آنکھ کے کنارے سے

دیکھے۔

سنوے - چھٹی کشتی۔ ڈونگی۔ جہ۔ سنوے - (ن) دیر۔  
سنوے - عورت کا چلتے ہوئے دونوں پہلوؤں

اور سرینوں کو بلانا۔

سنوے - کینہ اور باجی غلام۔

سنوے - ہندوستان کی جاٹ قوم۔

سنوے - (ن) اونٹ کی، مار کو بلانا۔ تاکہ  
تیز چلے۔ جھکانا۔

سنوے - ڈونگن۔ (ن) جھکانا۔ خم دینا۔  
جھکانا۔ اونٹنی کی تکمیل کھینچنا۔ زیادتی کرنا

اور حد سے باہر ہونا۔

سنوے - ایک گھاس ہے جو قدس کے پہاڑوں  
میں اگتی ہے۔

سنوے - نقاش لوگ۔

سنوے - کوئے کی چال مص (ن) کوئے  
کی چال چلنا۔ اتر کر چلنا۔

سنوے - بُت۔ بُت خانہ۔ ٹھنکنا آدمی۔

سنوے - زینت۔ آرائش۔ عقل مند عورت۔

سنوے - زنجی۔ (ن) دور کرنا۔ جمع کرنا  
گوشہ گیری کرنا (عن) کسی سے کچھ

چھپانا۔

سنوے - حرکت۔ جنبش۔

## سناہ

سناہ - تری و تازگی۔ رونق اور چمک۔

سناہ - مقدار۔

ہو جانا۔ بد ہضمی ہونا۔

زَهْم - بہت موٹا تازہ جس میں چربی کثرت سے ہو۔

زَهْمَة - بدبودار ہوا۔ میل کچیل کی بو۔ چکنائی کی بو۔ بساندھ۔

زَهْمَعَة - سجانا۔ آراستہ کرنا۔ مزین کرنا۔

زَهْو - تروتازہ اور بارونق چسرہ۔

تروتازہ گھاس۔ پھول اور اس

کی تازگی اور رونق۔ مص (ن)

چراغ روشن کرنا۔ جلا دینا۔

اندازہ کرنا۔ کھجور کے گھجوں کا

رنگ پکڑنا۔

زَهْوَد - (ف) روشن ہونا۔ چکن۔ قوی ہونا

بہت ہوا۔

زَهْوَف - (ف) خوار و حقیر ہونا۔ مرنے کے

قرب ہونا۔ جموٹ بولنا۔ ہلاک

ہونا۔

زَهْوَق - باطل۔ ہلاک ہونے والا۔ بہت

گہرا کنواں۔

زَهْوَق - (ف) ہڈی کا گودے سے بھرا ہوا ہونا۔

باطل کا مٹ جانا۔ سختی سے جان باہر

نکلنا۔ باطل ہونا۔ ہلاک ہونا۔

زَهْيِد - بخور پیسی چیز۔ تنگ خو۔ کم کھانے

والا۔ تنگ نالہ۔

## ز-ی

زِيَادَة - لباس۔ بیٹت۔ جہ۔ آذنیاء۔

زِيَادَة - زیادتی۔ حروف جن کا مجموعہ آصان

و کسہین ہے۔

زَهَادَة - (ف۔ س۔ ك۔) (فی۔ عن) بے

عُبتی کرنا۔

زَهْب - مال کا کچھ حصہ۔

زَهْد - بے رغبتی۔ کمائی کی پاکیزگی۔ مص

(ف۔ س۔ ك۔) (فی۔ عن) بے رغبتی

کرنا۔

زَهْد - زکوٰۃ۔

زَهْد - (ف) اندازہ کرنا۔

زَهْر - حاجت۔ ضرورت۔

زَهْس - (ك۔ یس) سفید اور عمدہ ہونا۔

زَهْرَاء - عورت۔ روشن اور نورانی چہرہ والی۔

سفید اور جنگلی گائے۔ حضرت فاطمہ

رضی اللہ عنہا کا لقب۔

زَهْرَة - ایک ستارہ کا نام۔ پھول۔

زَهْرَة - پھول۔ جہ۔ آذہاس۔ آذہس۔

زَهْرَة الدُّنْيَا - دنیا کی رونق۔

زَهْرَة - صفائی و سفیدی۔ خوبی۔ رونق۔

زَهْرَقَة - بہت ہنسنا۔ ماں کا بچہ کو کھلانا۔

زَهْرِيَّة - گلدان (د)

زَهْف - (س) ہلکا ہونا۔ کودنا۔

زَهْق - نیچی زمین۔

زَهْق - ہلکا۔

زَهْك - (ف) کوٹنا۔ اڑانا (غبار)۔

زَهْل - (ف) بدی سے دور ہونا۔

زَهْل - سپیدی۔ چمک۔ مص (س) سفید

ہونا۔ چمکیلا ہونا۔

زَهْم - بدبودار ہوا۔ گھوڑے وغیرہ کی

چربی۔

زَهْم - (س) ہاتھ کا چکنا ہونا۔ ہوا کا بدبودار



آفتاب کا ڈھلنا۔ حتیٰ سے پھر جانا۔  
 ذَيْف - سیرطی کا پایہ کھوٹا سک۔ ج۔  
 زِيَا ت - آسْمَا يَاف  
 ذَيْف - ذَيْفَان - (ض) ناز سے چلنا۔  
 کبوتر کا مادہ کے سامنے دم گھسیٹ کر سینہ ابھار کر بولنا۔  
 ذَيْل - (ض) جگہ سے دور کرنا پارہ پارہ کرنا۔ جدا کرنا۔ اکتیا ز دینا۔  
 ذَيْم - متفرق و پرانگندہ گوشت جسم کے ہر عضو میں۔  
 ذَيْح - (ض) بات کہنا۔ جگہ چھوڑنا۔  
 آرائش۔ ج۔ آسْمَا يَاف - مص  
 (ض) آراستہ کرنا۔  
 ذَيْب - ایک خوبصورت درخت خوشبودار  
 ذَيْبَة - جس سے آراستہ ہوں آرائش بناؤ سنگھار  
 ذَيْوْف - (ض) کسی سکے کا رائج نہ ہونا کسی سکے  
 کا چلن بند کر دینا۔ کھوٹا قرار دینا۔ دیوار  
 پھانڈنا۔ آفتاب کا جھکنا۔  
 ذَيْبِر - شیر کی گوج۔

## س - ۶۰

سَاب - بڑی مشک۔ ج۔ سَاب - مص  
 (ض) گلا گھوٹنا۔  
 سَابَة - (ض) گلا گھوٹنا۔  
 سَابْذ - (ض) گلا گھوٹنا۔ زخمی کرنا۔  
 سَابَا ط - برآمدہ۔ ج۔ سَابَا يَظ -  
 سَابِيح - تیرے والا۔ ج۔ سَابِيح تیز رفتار  
 گھوٹا۔ ج۔ سَابِيح -  
 سَابِيحَات - کشتیاں یا ستارے یا مومنوں

زِيَادَة - زیادتی حروف الزيادة۔ زائد حروف  
 جن کا مجموعہ آ م ا ن و ک ت س ه ي ل ہے  
 زِيَا رِيَة - آسمان۔ فلک۔  
 زِيَا ت - جھاڑی کا شیر  
 زِيَا ن - جس سے آراستہ ہوں۔  
 زِيَا ن - خوبصورت قمر زِيَا ن - خوبصورت  
 چاند۔  
 زِيَقِي - پارہ۔  
 زَيْت - زیتون کا تیل مص۔ (ض) زیتون  
 کا تیل ڈالنا۔ روغن زیتون کا سالن  
 دینا۔  
 زَيْتُون - زیتون کا درخت دا۔ زَيْتُونَة -  
 زَيْح - زَيْوْح - زَيْحَان - (ض) دور ہونا  
 چلا جانا۔  
 زَيْح - زَيْحَان - (ض) ظلم و ستم کرنا۔ دور  
 ہونا۔ یک سو ہونا۔  
 زَيْبَا - زیادتی۔ زیادہ مص (ض) زیادہ  
 ہونا۔ زیادہ کرنا۔  
 زَيْدُ بِنِ حَارِثَةَ - آنحضرت صلی اللہ علیہ  
 وسلم کے متبھی تھے۔ ام المؤمنین حضرت  
 زینب بنت جحش کی شادی پہلے ان  
 ہی سے ہوئی تھی۔  
 زَيْبِر - نکتہ گننان۔ بڑا مشکاروغنی۔ بڑا گھڑا  
 عادت۔ ج۔ آذْوَا سَا۔  
 زَيْدَة - کتان کا گھڑا۔ زیارت کرنے کا طریقہ۔  
 زَيْط - زَيْطَا ط - (ض) شور مچانا۔ غل کرنا۔  
 زَيْغ - کچی بیڑہ۔ شک۔ ج۔ زَيْوُغ -  
 زَيْغ - ذَيْغَان - زَيْوَعَة شک۔ مص۔  
 (ض) جھکا۔ نگاہ کمزور ہونا۔

سایجی - بہت اندھیری رات کہ چیزوں کو نگاہ سے چھپا لیتی ہے - ساکن -  
 سآحۃ - صحن - ج - سآحات - سآح -  
 سآوح -  
 سآجو - دانش مند - جادوگر - فریب دینے والا -  
 ج۱ - سآحۃ - سآکار - سآجروُن -  
 سآجۃ - جادوگری - ج۱ - سآجو -  
 سآجل - دریا کا کنارہ - ج۱ - سآوجل -  
 سآحیۃ - سیلاب جو زمین کو کھو ڈالے - اور  
 چیزوں کو بہا کر لے جائے - زوردار  
 بارش - ج۱ - سآوایجی -  
 سآخو - مذاق اڑانے والا - ہنسی کرنے والا -  
 ج۱ - سآخوُن -  
 سآخط - غصہ میں بھرا ہوا - ناراض -  
 سآخن - گرم -  
 سآدس - چھٹا - ششم -  
 سآدات - سردار و شریف لوگ -  
 سآذج - سادہ کاموے - تیزیات -  
 سآس - (ف) پس خوردہ - چھوڑنا -  
 سآرب - چلنے والا - واضح مسلک رکھنے والا -  
 سآسۃ - خوش کرنے والی عورت - ج۱ - سآوآس -  
 سآرح - چرنے والا چوپایہ -  
 سآرۃ - چرنے والا چوپایہ مالہ سآرۃ  
 و لا دایۃ یعنی اس کے پاس کچھ  
 نہیں ہے -  
 سآرق - چور - ج۱ - سآرقۃ - سآاق - م  
 سآرقۃ - ج۱ - سآوایجی -  
 سآریۃ - رات کا ابر - ستون - کھبا - ج۱ -  
 سآوایجی -

کی ارواح اس لیے کہ آسانی سے نکلتی  
 ہیں - یا فرشتے تسبیح کرنے والے یا  
 تیز رفتار گھوڑے -  
 سآیج - ساتواں - سبۃ -  
 سآیج - کامل اور دراز -  
 سآیجۃ - فراخ زہ - ہر چیز کا مل درواز - ج۱ -  
 سآوایج - سآیجات -  
 سآیق - آگے بڑھنے والا پیش قدمی کرنے والا -  
 ج۱ - سآیق - سبۃ -  
 سآیقات - فرشتے جو وحی سننے میں بنات و  
 شیاطین سے سبقت کرتے ہیں -  
 سآیقۃ - سبقت - پیش قدمی -  
 سآیل - زوردار بارش -  
 سآیکۃ - بہت پامال راستہ جس پر آمدورفت  
 کی کثرت ہو - مسافر - کنے والا - جانے  
 والا - ج۱ - سآوایل -  
 سآیاء - مجلس جو بطن مادر سے بچے کے ساتھ آتی  
 ہے - ج۱ - سآوایی -  
 سآج - ایک ہندوستانی درخت جس کی  
 لکڑی سرخ اور مضبوط ہوتی ہے -  
 سبز یا سیاہ چادر - ج۱ - سیجان -  
 سآجب - خشک اور پرانی مشک - ج۱ -  
 سآوایج -  
 سآجد - زمین پر سر رکھنے والا بیٹھ چھکانے والا  
 ج۱ - سآجد - سآجدوُن -  
 سآجج - مقفی کلام بولنے والا خوشنما چہرہ - اپنی  
 آواز سے مست کر دینے والی ادنیٰ -  
 ج۱ - سآجج -  
 سآجۃ - بولنے والا کبوتر - ج۱ - سآوآجج -

سائیس - ایک سیاہ درخت ، یا درخت  
 آبنوس  
 سائیل - قصاب  
 سائیل - غبار اوپر چڑھا ہوا  
 سائیل - چھری وغیرہ ج:۔ سوائیل  
 سائیل - رات اور دن کا ایک حصہ گھڑی۔ وقت  
 قیامت (د) گھنٹہ گھڑی  
 سائیل صغیر - چھری گھڑی (د)  
 سائیل عمومی - گھنٹہ گھڑی (د)  
 سائیل - بازو ج:۔ سوائیل  
 سائیل - جنگل کا شیر لکڑی جس پر گھرنی  
 پھرتی ہے  
 سائیل - تنور - آگ - عیسائی ڈاکٹر ج:۔  
 سوائیل  
 سائیل - مہر کی بوٹی آگ  
 سائیل - سخن چین، محصول وصول کرنے والا  
 حاکم کٹاؤ۔ یہود و نصاریٰ کا سردار  
 ج:۔ سائیل (د) ڈاکیر  
 سائیل - بھوکا ج:۔ سائیل  
 سائیل - خوش مزہ شربت ج:۔ سوائیل  
 سائیل (س۔ ف) ہاتھوں کا پھٹ جانا  
 سائیل - گردوغبار ہوا جو گرداڑاٹھے ج:۔  
 سائیل  
 سائیل - زمین پر نہ سخت ہوا اور نہ ریتیلی ہو  
 سائیل - گرگر بننے والا ج:۔ سوائیل  
 سائیل - مسافر لکھنے والا۔ عورت جس کا چہرہ  
 کھلا ہوا ہو ج:۔ سائیل - رسول  
 صلح کرنے والا  
 سائیل - نیچا۔ نیچ آدمی ج:۔ سائیل

سائل - سفلان  
 سائیل - در  
 سائیل الزم - نیزہ کا وہ نصف حصہ جو بن  
 نیزہ سے متصل ہے  
 سائیل - ہوا جو خاک اڑائے ج:۔ سوائیل  
 سائیل - پٹلی سختی۔ اصل۔ تنہ ج:۔ سوائیل  
 سائیل  
 سائیل - درخت کا تنہ  
 سائیل - پٹلی ج:۔ سوائیل  
 سائیل - لشکر کا پھللا حصہ  
 سائیل - گرا ہوا بیج۔ کمینہ پیچھے رہ جانے والا  
 ج:۔ سائیل  
 سائیل - گرمی گدھے کو داغ لگانے کا لہا  
 ج:۔ سوائیل  
 سائیل - پلانے والا ج:۔ سائیل  
 سائیل  
 سائیل - چھوٹی نہر ج:۔ سوائیل  
 سائیل - گرگر بننے والا  
 سائیل - کواڑ کے اوپر وہ لکڑی جس میں  
 کواڑ گھومتا ہے۔ دروازہ کے اوپر  
 کی ٹاٹ  
 سائیل - رہنے والا پری ج:۔ سائیل  
 سائیل  
 سائیل - رہنے والی ج:۔ سوائیل  
 سائیل - (اور کوٹ) (د)  
 سائیل - بہت چپ رہنے والا  
 سائیل - بہت درختوں والی فراخ وادی  
 ج:۔ سائیل  
 سائیل - مانگی ہوئی چیز مطلوب مقصود

اور اس کی پرستش کی قوم کو دعوت  
دی تھی۔

سواۓتہ - کان سننے والی۔ ج۔ سواۓتہ۔

سواہن - فریبہ۔ چربی والا۔ ج۔ سیمان۔

سواہ - حیران دیدہ ہوش۔ دھیمی رفتار سے  
چلنے والا۔ گھوڑا کہ نکلے نہیں۔ ج۔  
سکتہ۔

سواہی - بلند و محلّ سواہ۔ سانڈ جو سر

اونچا کیے ہوئے ہو۔ ج۔ سواہی شکار

کے لیے نکلنے والا۔ ج۔ سواہی۔

سواہج - ہر اچھا بُرا حال اور واقعہ جو پیش آئے

شکار جو شکاری کی بائیں جانب سے

آئے۔ ج۔ سواہج۔

سواہیۃ - پانی لانے کا اونٹ۔ بڑا ڈول اور

اس کا سامان۔

ج۔ سواہی۔

سواد - عکین کنا۔ دوڑنا۔ (بین) فساد

ڈالنا۔

سواہی - بیدار (کیل سواہی)۔ بیداری

کی رات۔

سواہۃ - سطح زمین۔ چشمہ جاری۔ خوفناک

جنگل۔ وہ زمین کہ کوئی اس پر نہ

چلا ہو۔ جہنم۔ ملک شام کی زمین۔

ج۔ سواہی۔

سواہیۃ - ایک عطر جس کی تیاری میں بیدار

رہنا پڑتا ہے۔

سواہف - بہت پیاسا۔ ہلاک ہونے والا۔

سواہف اوجہ - جس کے چہرہ کا رنگ بدل

گیا ہو۔

سایب - عورت جس کا بچہ مر گیا ہو۔ ج۔

سواۓب۔

سایخ - ہتھیار بند۔

سایخ - خارشلی اونٹ۔ کالا سانپ۔

سایف - گذرا ہوا۔ ج۔ سلف۔

سایفۃ - گذرے ہوئے دن۔ گردن کا وہ

حصہ جو کان کی لوسے ہنسل کے گڑھے

نکسے۔ ج۔ سواۓت۔

سایہ - کامل۔ درست۔

سائم - موت۔

سائم - سائم۔ سائمۃ - دن، طول ہونا

عاجز آجانا۔

سائمۃ - وہ دن کہ جس میں گرم ہوا یعنی لُجیل

رہی ہو۔

سائم - موت۔ گرگھا جس میں پانی بھرا ہوا ہو

خیزران (ایک درخت)

سائمۃ آبوص - چپکلی۔

سائمۃ - خاصۃ - موت۔ زہر دار جانور۔

ج۔ سوامۃ۔

سائمۃ - سونا چاندی۔ خیزران۔ (ایک

درخت کا نام)

ساید - متکبر۔ غافل۔ متعیر۔ کھیلنے والا۔

سایر - افسانہ گو۔ افسانہ کے کہنے والے

(اسم جمع) ج۔ سٹکار۔ سمرۃ۔

افسانہ گوئی کی مجلس۔

سایمۃ - افسانہ گو (مذکر و مؤنث)

سایمۃ - بی اسرائیل کا ایک شخص جس نے

حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ

و السلام کے زمانہ میں گوسالہ بنایا تھا

پوچھنے والا۔ ج:۔ سَوَّل - سَوَّل - سَوَّل -

سَائِيهِد - سَائِيهِد - سَائِيهِد -

سَائِيهِد - چرنے والا۔

## س - ب

سَبَب - بہت گالیاں بکنے والا۔ دوپٹہ۔

سَبَبِي - رسی۔ تنگ کپڑا۔ کسی کے ساتھ

گالی گلوچ کرنے والا۔ ج:۔

سَبُوْب - مہص (دن) کا ٹٹنا

زخمی کرنا۔ مقعد میں نیزہ مارنا۔ کسی کو

خطا وار بھڑانا۔ گالی دینا۔

سَبَّأ - بلادین میں سے ایک شہر کا نام، جو

بلقیس کے زیر حکومت تھا۔ اور پھر

سیلاب سے برباد کر دیا گیا۔

سَبَّأء - لکڑی جو سیلاب میں بہتی پھرے۔

سَبَّأ - شراب۔ شراب نوشی۔

سَبَّأء - مٹے فروشن۔

سَبَّأ - (ف) شراب خریدنا۔ کھال اتارنا۔ کوڑا

مارنا۔ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا۔

جھوٹی قسم کا اعتبار اور پروانہ کرنا۔

سَبَّأبَة - شہادت کی انگلی۔

سَبَّأت - عقل مند آدمی۔ راحت و آرام۔ نیند

سر میں نیند کی گرانی اور رخا۔ زمانہ

مہص (دن) سو جانا۔

سَبَّأَة - سفر بعید۔

سَبَّأح - تیرنے والا۔ ج:۔ سَبَّأحُون -

سَبَّأحَة - شہادت کی انگلی۔

سَبَّأس - زخم میں ڈالنے کی سلائی۔ ج:۔

سَبَّو -

سَاهِك - آنکھ کا درد اور غارش۔

سَاهِكَة - سخت ہوا۔ ج:۔ سَوَاهِك -

سَاهُوْد - بیداری۔ چاند کا لالہ۔ ج:۔

سَوَاهِيْر -

سَاهِي - غافل بھولنے والا۔ ج:۔ سُهَاهَة -

سَاهِيْبَة - آزاد کیا ہوا۔ چھوڑا ہوا۔ اونٹ کہ

جب اس کی اولاد کے اولاد ہو جاتی تو

اس کو آزاد کر دیتے تھے۔ اور سوار

نہ ہوتے تھے۔ نذر کی ہوئی اونٹنی۔

جسے زمانہ جاہلیت میں بتوں کے نام پر

چھوڑ دیتے تھے۔ ج:۔ سُوَيْب -

سَوَائِح - روزہ دار۔ گناہوں سے رکنے والا۔

دین کے لیے سفر کرنے والا۔ ج:۔

سُوَيْح - سَوَائِحُون -

م:۔ سَوَائِحَة - ج:۔ سَوَائِح

سَوَائِحَات -

سَائِد - سردار۔ ج:۔ سَادَة -

سَائِيو - باقی سب کا سب۔

سَائِس - محافظ و نگہبان۔ دانت کی جڑا، کرم

خوردہ۔ ج:۔ سَائِسَة -

سَائِيْم - خوشگوار۔ آسانی کے ساتھ حلق

سے اتر جانے والی چیز۔

سَائِف - تلوار مارنے والا۔ شمشیر زن۔ تلوار

جس کے پاس ہو۔

سَائِيْفَة - گوشت کا پارچہ لبا کٹا ہوا۔ سنٹی۔

ج:۔ سَوَائِف -

سَائِيْق - پیچھے سے مارنے والا۔ (د) ڈرائیو۔

ج:۔ سَوَائِي - سَائِقَة -

سَائِيْل - سوال کرنے والا۔ مانگنے والا۔

قرار پکڑنا - آنا جانا - زمین میں پھیل جانا - دور جانا -  
 سُبْحَات - مقاماتِ سجدہ -  
 سُبْحَاتُ وَجْهِ اللّٰهِ - خدا تعالیٰ کے انوار اور اس کا جلال و عظمت -  
 سُبْحَانَ (دفع) سبحان اللہ کہنا -  
 سُبْحَانَ اللّٰهِ - پاک ہے اللہ - خدا تعالیٰ کی توحید اور اس کی صفات کی مخلوق سے تقدیس و تنزیہ -  
 سُبْحَة - تسبیح کے دانے ج ۱ - تسبیح - دعا ذکر - نماز نفل -  
 سُبْحَة اللّٰهِ - خدا تعالیٰ کی عظمت -  
 سُبْحَل - گوہ - یعنی سوسمار - موٹی لڑکی - بڑی مشک - ج ۱ - سُبْحَل -  
 سُبْحَلَة - سبحان اللہ کہنا -  
 سُبْحَن (دن) دور ہونا -  
 سُبْحَنَة - زمین جس میں گندھک بہت ہو - شورہ گندھک - ج ۱ - سُبْحَن -  
 سُبْحَنَة - زمین جس میں گندھک بہت ہو - ج ۱ - سُبْحَن -  
 سُبْد - ہال مونڈنا -  
 سُبْد - بیہوش یا بے حسیت - ج ۱ - آسبَاد -  
 سُبْد - حقوڑے ہال -  
 سُبْد - مٹے زیران - ایک پرندہ - نرم ریش - ج ۱ - سُبْد ان - خمس -  
 سُبْر - جڑ - بنیاد - شیر رنگ روپ - شکل و صورت ج ۱ - آسبَا سَا - (دن) زخم میں گرائی معلوم کرنے کے لیے سلائی ڈالنا - امتحان کرنا -

سُبَاطَة - کوڑا کرکٹ کے جمع ہونے کی جگہ یعنی کوڑی - ہال جو کنگھی کرنے کے وقت گریں - کوڑا کرکٹ جو جھاڑو دینے کے بعد جمع ہو -  
 سُبَاط - سلیپر - (مجاورہ شام) سَبَاع - جماع کثرت جماع پر فخر کرنا - فحش بکنا - آپس میں گالی گلوچ کرنا -  
 سُبَاتِي - دوڑنے میں مقابلہ کرنا -  
 سُبَاتِي عَالِيَات - اوروں پر ہیبت لے جانے والا -  
 سُبَاكَة - بلی وغیرہ کی مونچھوں کے بال جمع ہونے کی جگہ -  
 سُبَاقَة - جس کی عقل جاتی رہی ہو - گمراہ -  
 سُبَاب - رسمی - جملہ - ذریعہ معرفت - زندگی - دوستی - ج ۱ - آسبَاب -  
 سُبَابَة - بولوگوں کو گالیاں بہت دے -  
 سُبَابَة - شہادت کی انگلی -  
 سُبَابَة - مقعد - گرمی - سردی - زمانہ -  
 سُبَابَة - وہ کہ جس کو لوگ بہت گالیاں دیں ننگ دعار -  
 سُبَابَة - شنبہ - ہفتہ کا دن - سینچر - ایک ہفتہ بے ہوشی - عمدہ گھوڑا - آرام و آسائش زمانہ - ج ۱ - آسبَاب - سُبَاب -  
 سُبَاب (حق - ن) کاٹنا - سر مونڈنا - بالوں کو کھول کر لٹکانا - گردن مارنا - یہودیوں کا ہفتہ کے دن کو ماننا -  
 سُبَاب - سونے کا ساگ -  
 سُبَابَة - کالا کبل - آگیا - ج ۱ - سُبَاب -  
 سُبَاب - سباحت (دفع) تیزنا - ہوا میں اڑنا -  
 سُبَاب - (دفع) کام سے فارغ ہونا - زمین کھودنا -

دینا اور عیب بیان کرنا۔ دانتوں سے  
کاٹنا۔ بھیڑیے کے تیر مارنا۔ اسے  
ڈرانا۔

السَّبْعُ الْمَثَانِي - سورہ فاتحہ اس لیے کہ اس کی  
سات آیتیں ہیں سات طویل سورتیں  
سورہ بقرہ سے سورہ توبہ تک۔

سَبْعٌ - (سَبْعَةٌ) سات عورتیں۔

سَبْعَةٌ - (سَبْعَةٌ) سات مرد۔

سَبْعُونَ - ستر۔

سَبْعٌ - جس کی زرہ فراخ ہو۔

سَبْعَةٌ - فراخی آسودگی۔ راحت و آرام۔

سَبَقٌ - وہ شرط کہ جو گھوڑ دوڑ میں ہارجیت  
کے لیے مقرر ہو۔

سَبَقٌ - سبقت کرنے والا۔

سَبَقٌ - (ن) کسی کے آگے بڑھ جانا۔

سَبَقَةٌ - وہ شرط کہ جو گھوڑ دوڑ میں ہارجیت  
کے لیے مقرر ہو۔

سَبَبٌ - (ن) پگھلا کر ڈھالنا۔

سَبَبٌ - سنبل۔ بارش کہ جو ابھی فضا میں ہو۔

زمین تک نہ پہنچی ہو۔ ناک۔ گالی۔

خوشہ۔ نیزہ۔ ٹھکتا ہوا کپڑا۔

سَبَبٌ - راہیں۔ راستے۔ طریقے۔ وسائل۔

ذرائع۔ وا۔۔ سَبَبٌ۔

سَبَبٌ - خوشہ۔

سَبَبٌ - لمبی مونچھوں والا۔

سَبَبَةٌ - ایک خوشہ۔ دور دراز تک ہونے

والی بارش۔

سَبَبَةٌ - دیراز۔

سَبَبَةٌ - خوشہ۔ ادب کے ہونٹ کا بیج کا گڑھا۔

سَبْرٌ - دشمنی۔ عار۔ مشاہرت۔ خوبصورتی۔

رنگ روپ۔ ج۔۔ آسباس۔

سَبَطٌ - ایک گھاس۔ وا۔۔ سَبَطٌ - بہت

شائخوں والا درخت۔ ٹکے ہوئے

بال مھس (س) ٹکے ہوئے بالوں

والا ہونا۔

سَبَطٌ - ٹکے ہوئے بال۔

سَبَطٌ الیَدِیْنِ - سخی آدمی۔

سَبَطٌ النِّجْسِ - خوش قامت آدمی۔

سَبَطٌ - لڑکا۔ ہوو کا گروہ۔ ج۔۔ آسباط۔

بنی اسرائیل کے خاندان اور قبائل۔

عرب بھی اسباط کہلاتے ہیں۔

سَبِطٌ - لمبا۔ ٹکے ہوئے بال۔

سَبِطٌ الشَّعْرِ - جس کے بال ٹکے ہوئے ہوں۔

سَبَطٌ - سَبُوطٌ۔ سَبُوطَةٌ - (ک۔س)۔

بالوں کا لٹکا ہوا ہونا۔ (مجملاً) بخار

میں مبتلا ہونا۔

سَبِطٌ - تیز ذہن۔ ہوشیار آدمی جس کا

ذہن معاملہ کی تہ تک پہنچ جائے۔ بہر

لمبی اور بھری ہوئی چیز جس کو پھیلایا

گیا ہو۔

سَبَاعٌ - سات سات۔

سَبْعٌ - سات میں ایک۔ ساتواں۔ ج۔۔

آسبَاع۔

سَبْعٌ - درندہ۔ ج۔۔ آسبَع۔ سَبَاع۔

اونٹ کے پانی پلانے کا ساتویں دن

کا منبر۔

سَبِجٌ - سات مھس (س) ساتواں ہونا۔

مال میں سے ساتواں حصہ لینا۔ گالی

جگہ لے جائیں۔ غلام اور قیدی عورت  
موتی جس کو غوطہ خور نکال لایا ہو۔ ج:۔  
سبایا۔

سیدج - انگلیا۔ ج:۔ سبایج۔  
سیدج - پرندہ کا پر جو گر جائے۔ روٹی یا اون  
بودھکنے کے وقت پر آگندہ ہو۔  
ج:۔ سبایج۔

سبیطر - لمبا۔ بگلہ۔  
سبیبج - سات میں کا ایک۔  
سبیکتہ - پگھلی ہوئی چاندی وغیرہ کا ٹھکڑا۔  
ج:۔ سبایٹک۔

سبیل - راستہ۔ روشن راستہ۔ درمیانی  
راستہ۔ قصد۔ مذہب۔ حرمت۔  
ذریعہ۔ ج:۔ سبیل۔

سبیل اللہ - جہاد اللہ کی راہ میں کافروں  
سے لڑنا۔ ہر امر خیر جس کا اللہ نے  
حکم فرمایا۔

سبیلان - قبل و دبر۔ ذکر و دبر۔  
سبیلکے - روشن راستہ۔

## س-ن

سیت - لیڈی۔ شریف عورت۔ سیدہ کا  
مخفف۔ (د)

سیت - (سیتو) چھ عورتیں۔

سیتہ - (سیتہ) چھ مرد۔

سیتہ ضروری چیزیں۔ ہوا۔  
کھانا پینا۔ حرکت و سکون جسمانی،  
حرکت و سکون نفسانی۔ خواب و  
بیداری۔ اشتہار و احتباس

موجہ سینہ پر ڈالھی کے ٹکے ہوئے  
بال۔ ج:۔ سبیل۔

سینسہ - بریک گاڑی کو روکنے کا آلہ۔

سبوح تیرنے والا۔ خوش رفتار و تیز رفتار  
گھوڑا۔ ج:۔ سبوحا۔

سبوح - باری تعالیٰ کے اسماء صفا تیر میں سے  
ہے۔ بہت پاک۔

سبوحہ - بلیک بورڈ۔ سلیٹ (د)

سبوح - ہفتہ۔ سات بار۔

سبوح - دن (بچے کی طرف لمبا ہونا۔ کامل و  
فراخ ہونا۔ الی) اپنے شہر کی طرف  
متوجہ ہونا۔ اور پہنچنا۔

سبوحہ - داؤں سے بھرا ہوا خوشہ۔

سبوی - غلام۔ قیدی۔ پردیسی۔ ج:۔

سبوی - مٹی۔ مہص۔ (ص) غلام بنانا  
قید کرنا۔

سبوی - غلام۔ قیدی۔ سانپ کی کینچلی  
ج:۔ سبایا۔

سبوی - سبوا۔ (ص) غلام بنانا۔ قید کرنا۔

شراب خرید کر فروخت کے لیے شہر  
بشہر لیے پھرنا۔ جلا وطن کرنا۔ دور

کرنا۔ کنواں کھوونا۔ معشوق کا عاشق  
کے دل کو لے جانا۔

سبیب - جسے کسی کے ساتھ گالی دی جائے۔  
یعنی گالی ملنے میں شریک۔ زلف

گھوڑے کی ایال وغیرہ کے بال۔  
ج:۔ سبایب۔

سبیبہ - کتان کا ایک کپڑا۔ ج:۔ سبایب۔  
سبیبہ - شراب جس کو ایک جگہ سے دوسری



سِتَّاس - پردہ - ج۱۔ سُوَس۔

سِتَّاس - باری تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام - بہت پردہ پوشی کرنے والا۔

سِتَّارَة - لباس - پردہ - ناخن کے اوپر کی کھال (د) تھینٹر کا پردہ - ج۱۔ سِتَّائِر۔

سِئْر - پردہ - شرم و حیا - ج۱۔ سُوَس۔ آسْتَس۔

سَئْر - (ن) چھپانا - پوشیدہ کرنا - سوال سے روک دینا۔

سَئْر - ڈھال۔

سُوَرَة - لباس - پردہ (د) کوٹ۔

سَئْه - (ف) مقعد پر مارنا - کسی کے پیچھے چلنا۔

سَئْه - دبر - ج۱۔ آسْتَاہ - مص (س) بڑے سرینوں والا ہونا۔

سَئْه - بڑے چوڑے والے (مذکر و مؤنث)۔

سَئْوَق - کھوٹا درہم (سہ تو کا عرب)۔ سَئْوَن - سَاٹھ۔

سَئْوِئْر - چھپایا ہوا - پارسا - چھپانے والا۔

## س - ج

سَبَّاح - جھال (د)۔

سَبَّاح - پتلا دودھ - پانی ملا ہوا۔

سَبَّاح - ایک عورت کا نام جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا - جھوٹ میں منہب النثل۔

سَبَّاح - فضائے آسمانی۔

سَبَّاح - مقابل و برابر۔

سَبَّاحَة - جاٹے نماز - پیشانی میں سجدہ کا نشان۔

سَبَّاحَة - سگار سگریٹ - ج۱۔ سَبَّاحِئْر۔

سَبَّاعَة - مقفی کلام بولنے والا۔

سَبَّاح - پردہ - پردہ کا کنارہ (د) سَبَّاح۔

سَبَّاحَة - (ک) غصیوں کا بڑا اور ٹکا ہوا ہونا۔

سَبَّاحَان - قید خانہ کا محافظ و نگران - داروغہ جیل۔

سَبَّاب - پرانی مشک - ج۱۔ سَبَّاب۔

سَبَّاح - سَبَّاحَة (ف) کبوتر کا بولنا (ل) [

کلام میں کسی پرچٹ کرنا - (س) ]

رخسار کا نرم - بارونق - دمازی میں مقتدل اور سبک ہونا۔

سَبَّاح - سجدہ کرنے والے واہ - سَابِد۔

سَبَّاحَة - زمین پر پیشانی رکھنے کا نام - قرآن مجید کی ایک سورت کا نام۔

سَبَّاح - آنکھ کی سپیدی سرخی ملی ہوئی۔

سَبَّاح - (ن) تنور گرم کرنا - (نہر) پر کرنا۔

حلق میں (پانی) چڑھانا۔

سَبَّاحَاء - سرخ آنکھ - یا وہ آنکھ جس کی

سپیدی سرخی آمیختہ ہو۔

سَبَّاحَة - سپیدی ملی ہوئی سرخی - تھوڑا پانی جو

بارش سے بھر جائے - ج۱۔ سَبَّاح۔

سَبَّاح - ہوا زمین جو نہ سخت ہونے نرم - اچھی

ہوا جو نہ سرد ہونے گرم - طلوع فجر سے

طلوع آفتاب تک - کا وقت۔

سَبَّاح - مقفی کلام ج۱۔ آسَبَّاح - مص

(ف) مقفی کلام بولنا - کبوتر کا بولنا۔

اوٹنی کارونا۔ قصد کرنا۔

سُجِف - پردہ۔ ڈوپرے جن کے درمیان میں کشادگی ہو۔ دروازہ جس پر دو پردے پڑے ہوں۔ اور ان کے درمیان میں کشادگی ہو۔ ج:۔ سَجُوف۔

سُجِاف مص (ن) پردہ لگانا۔ سَجِف - (س) باریک کمر اور ڈبلے پیٹ والا ہونا۔

سَجِل - تمسک مہر لگا ہوا۔ عمد و پیمان (د) سرکاری کاغذات۔ ج:۔ سَجِلَات - کھنے والا۔

سَجَل - بڑا ڈول جس میں پانی ہو۔ ج:۔ سَجَال - سُجُول - ڈول کی پری۔ یعنی پانی سے اس کا بھسنا۔ فیاض بڑے پستان۔ مص (ن) پانی کرانا۔ برسانا۔ سورت کو مسلسل پڑھنا۔

سَجَل - تمسک مہر شدہ۔ سَجَلَاء - بڑے فتنوں والی اوٹنی۔ عورت کلاں سرین۔ ج:۔ سَجَل -

سَجَم - (ن) (آنکھ کا) آنسو بہانا (بادل کا) مینہ برسانا۔

سَجَم - پانی۔ آنسو۔ سَجِن - (ن) روکنا۔ قید کرنا۔ مہتم کرنا۔ سَجِن - قید خانہ روک ج:۔ سَجُون - سَجِنَجَل - آئینہ۔ پگھلی ہوئی چاندی یا سونا۔ زعفران۔

سَجْر - (ن) بھٹنا۔ ٹھیرنا۔ اوٹنی کا آواز سے رونا۔

سُجُود - سَجِدَاة - (ن) سر کو زمین پر رکھنا۔ عاجزی کرنا (س) پاؤں کا سوچ جانا۔ سَجُوس - جس چیز سے تنور گرم کیا جائے۔ سَجُوم - سَجَم - سَجَمَان - (ن) ہنا۔ جاری ہونا۔ (ع) تاخیر کرنا۔

سَجِيَّة - عادت۔ طبیعت۔ ج:۔ سَجَايَا - سَجِيحَة - اندازہ۔ برشت۔ عادت ج:۔ سَجَاغِم - سَجِيْبَر - خالص یا رودست ج:۔ سَجِرَاء - سَجِيْل - حصہ۔ سخت اور کھدوہرا۔ بڑا (ڈول) بڑے اور لٹکے ہوئے (تفن)۔

سَجِيْل - کنکر سنگ گل کا مہرب ہے، بر سخت چیز بڑا ڈول۔ سَجِيْلَة - سَجِيْبِيْن - قیدی (مذکر و مؤنث) ج:۔ سَجِيْنَاء - سَجِيْنِيْ قَهْرِيْ سَجِيْبِيْن - سخت مار۔

سَجِيْبِيْن - مجبور آدمی جو ہمیشہ بغیر عورت کے رہے ہر سخت چیز جنم کا ایک سخت میلان وہ مقام جہاں نافرمان لوگوں کی رو میں منقید رہتی ہیں۔ کھجور کے درخت کا تھالا۔

سَجِيْبِيْنَة - قیدی عورت۔ ج:۔ سَجَايِيْن - سَجِيْحِي -

## س-ح

سَح - سخت خواب۔ نکما۔ مص (دھ) پانی کرانا۔ پانی ہنا۔ آنسو جاری ہونا۔ بارش کا برسنا۔ کوڑے مارنا۔ خوب فرہ ہونا۔

سَحَاء - کبھیرنے والا۔ سَحَاءَة - خط کی مہر۔ بدلی۔ ایک خار دار

سحّج - آنتوں کی مرڈوں کی ایک بیماری۔  
 چوپایہ کی ایک خاص رفتار۔ مص  
 (ف) ، پھیلنا۔ دوڑنا۔  
 سحّو - جادو۔ منتر۔ ہر چیز کو کسی لطیف اور  
 باریکی والی چیز سے کی گئی ہو۔ مص  
 (ف) ، جاننا۔ جادو کرنا۔ فریب دینا۔  
 کسی کو کسی چیز میں مشغول کر دینا۔ دور ہونا۔  
 سحّو - صبح سے کچھ پہلے۔ ترکا۔ سفیدی جو  
 سیاہی کے اوپر ہو۔ ہر چیز کا کنارہ۔  
 ج۔ ۱۔ آسحّاس۔ سحّوس۔ مص  
 صبح کے وقت کسی کے پاس آنا۔  
 سحّو - پھیلاؤ۔ دل۔ ج۔ ۱۔ آسحّاس۔  
 سحّرة - صبح کا ذب۔  
 سحّرة - جادو گر لوگ۔ وا۔ ساجر۔  
 سحّوی - ترکا۔  
 سحّط - (ف) ، جلد گلا کاٹنا۔ گلا پکڑنا۔ خلط  
 مٹا کرنا۔ چھوڑنا۔  
 سحّف - (ف) ، پشت کی پرہی دور کرنا۔ جلانا  
 مونڈنا۔ بال اکھاڑنا۔  
 سحّق - پرانا کپڑا۔ ج۔ ۱۔ سحّوق۔ مص  
 (ف) ، پینا۔ کوٹنا گھسنا۔ ریزہ ریزہ  
 کرنا۔ ہوا کا اندر کے ساتھ چلنا کر نشانات  
 کو مٹانے (کپڑے کو) پرانا کرنا۔  
 سخت چیز کو نرم کرنا۔ سر مونڈنا۔ دوڑنا۔  
 سحّق - بُعد۔ دوری۔ لعنت (ک س)  
 دور ہونا۔  
 سحّک - (ف) ، گھسنا۔ ریزہ ریزہ کرنا۔  
 سحّل - سفید کپڑا۔ چاندی کی پرکھ۔ ج۔ ۱۔  
 آسحّال۔ سحّول۔ سحّل۔ مص۔

گھاس۔ ج۔ ۱۔ آسحّیة۔  
 سحّاءة - کنارہ۔ گھر کا صحن۔ ہر چیز کا چھلکا۔  
 چنگاڑ۔ ج۔ ۱۔ سحّا۔  
 سحّاب - بادل۔ بارہ۔ ج۔ ۱۔ سحّب۔  
 سحّابُ البَحْرِ - اسفنج۔  
 سحّابۃ - ابر۔ مدت۔ بادل۔ ج۔ ۱۔ سحّاب۔  
 سحّابۃ - کنوئیں میں بچا ہوا پانی۔  
 سحّاح - بکھیرنے والا۔ (ٹونٹ)۔  
 سحّاس - بڑا جادو گر۔  
 سحّان - سہل کی بیماری۔  
 سحّال - آواز جو گھم کے سینہ میں ہینچتے  
 وقت گھومتی ہے۔  
 سحّالۃ - چاندی کا بُرادہ۔ بھوسا۔ قوم میں کہینہ  
 اور بیخ ذات۔ ہر چیز کا ٹکھا جڑو۔  
 سحّب - (ف) ، زمین پر کھینچنا۔ بہت کھانا۔  
 بہت پینا۔ بچکانا۔ جاری ہونا۔  
 سحّبُ الخوائت - بل کاروپید ممول کرنا۔ (د)  
 سحّبان - ہر چیز کو اچھی طرح لے جانے والا۔ اور  
 کھینچنے والا۔  
 سحّبل - بڑا ڈول بڑا پیٹ۔ فراخ میدان  
 بڑی مشک۔ ج۔ ۱۔ سحّابل۔  
 سحّت - حرام۔ رشوت۔ ہر بری کماٹی جو  
 عار و ننگ کی موجب ہو۔ ج۔ ۱۔  
 آسحّات۔  
 سحّت - پرانا کپڑا (سخت)۔ سردی۔ رائیگاں  
 (خون دھال)۔ مص (ف) ، حرام کماٹی  
 کرنا۔ جڑ سے اکھاڑ ڈالنا۔ دجربنی کو  
 گوشت سے اتارنا۔ گوشت کو  
 پٹی سے اتارنا۔

سُحَّابٌ - بارِجس میں جو ابر نہ ہوں۔ ج ۱۔  
سُحَّابٌ

سُحَّابٌ - بہت شور و غل کرنے والا۔

سُحَّاحٌ - اچھے ریت والی نرم زمین۔

سُحَّاقَةُ - عقل کی کمی۔ لاغری (ك) ، کم عقل ہونا۔ لاغر ہونا۔

سُحَّامٌ - نرم و آسان۔ شراب جو بہ سہولت گلے سے اتر جائے۔ دیگ کی سیاہی۔

پرنڈہ کے بچکے نرم نرم پیر۔

نَوْبُ سُحَّامِ الْمَسِّ - نرم کپڑا۔

سُحَّادَةُ - (س) فیاضی کرنا۔ رک جانا۔ ترک کرنا۔

سُحَّيْ - (ف) ہانڈی کے نیچے آگ جھلانا۔

سُحَّابٌ - شور و غل۔

سُحَّاتٌ - کڑا۔ سخت۔

سُحَّادٌ - پیپ جو بچہ دانی سے بچکے ساتھ نکلتی ہے۔

سُحَّوْرٌ - سُحَّوْرٌ (ن) ، (من) ب [طھٹھٹھ]

بازی کرنا۔

سُحَّوْرَةٌ - مطیع و فرماں بردار۔ جس چیز پر لوگ

ہنسیں مص (س) ، طھٹھٹھ بازی کرنا۔

سُحَّوْرَةٌ - طھٹھٹھ بازی کرنے والا۔ مسخوہ۔

سُحَّوْرِيَّةٌ - طھٹھٹھ بازی۔

سُحَّوْرِيٌّ - بیگاری۔ مطیع و فرماں بردار مص

(ف) کسی کو نادان سمجھنا اور اس کا مذاق اڑانا کشتی کا موافق ہوا میں تیز چلنا۔

سُحَّطٌ - سُحَّطٌ (س) ، (علی) [الی] غصہ کرنا

ناخوش ہونا۔

سُحَّفٌ - تنگ مالی۔ بھوک کی وجہ سے لاغری

کم عقلی۔

دن سکوں کو پر کھنا۔ چھیلنا۔ برا بھلا

کھنا۔ اکھرا بنا۔ رونا۔

سُحَّالَةٌ - خرگوش کا بچہ۔ جس نے اپنی ماں کو چھوڑ دیا ہو۔

سُحَّامٌ - سیاہی۔ لوبا۔ ایک درخت کا نام۔ ایک درخت۔ کالی عورت۔ ج ۱۔

سُحَّامٌ

سُحَّامَةٌ - سیاہی۔

سُحَّانَةٌ - سُحَّانَةٌ - نعمت۔ بیات۔ رنگ

اصل و نہاد۔

سُحَّوْرٌ - بادل جو برس رہا ہو۔

سُحَّوْرٌ - سحری کا کھانا۔

سُحَّوْحٌ - سُحَّوْحَةٌ - (من) بہت فریب ہونا۔

سُحَّوْفٌ - بہت فریب۔ بہت چسپری والا۔

(مذکر و مؤنث)

سُحَّوْقٌ - لبیا۔ خرما کا درخت۔ لبیا گدھا۔ لمبی

گدھیا۔ ج ۱۔ سُحَّوْقٌ -

سُحَّوْقٌ - (ك) کپڑے کا پرانا ہونا۔ کھور کے

درخت کا لبیا ہونا۔

سُحَّيٌّ - (من) (ف) - ن) چھیلنا۔ مہر لگانا۔

کھوڑنا۔ موڑنا۔

سُحَّيْقٌ - دور۔

سُحَّيْلٌ - اکھرا بنا ہوا کپڑا۔ اکھری بٹی ہوئی

رسی۔

## س - خ

سُحَّاءٌ - سُحَّادَةُ - سُحَّانٌ - سُحَّوْرَةٌ - سُحَّوْرٌ -

(ف) - ن) - س) - (ك) فیاض ہونا۔

سُحَّاءٌ - نرمی - سستی۔ ج ۱۔ سُحَّايٌّ -

سُخْفٌ - کم عقلی، معرک، مشک کا پھٹ جانا۔  
 سُخْفَةٌ - کم عقلی، بھوک کی وجہ سے لاغری۔ تنگ حالی۔  
 سُخْلَةٌ - ہرن اور بکری کا نوزائیدہ بچہ۔ ج۔ ۱۔  
 سَيْخَالٌ - سُخْلَانٌ - سیایہ، کلونس۔  
 سُخْمَةٌ - سُخْمٌ - گرم۔  
 سُخْنٌ - سُخُونٌ - سُخْنَةٌ (ن س ک) گرم ہونا۔ (س) غم اور صدمہ میں گرم گرم آنسوؤں سے رونا۔  
 سُخْنَانٌ - گرم۔  
 سُخْنَةٌ - بخار، گرمی۔  
 سُخْنَةُ الْعَيْنِ - آنکھ کی گرمی یعنی غم اور صدمہ قزحۃ العین کی ضد۔  
 سُخُوٌ - (ن س ک) چولہے سے راکھ نکال کر آگ روشن کرنا۔  
 سُخُوَاءٌ - نرم اور فراخ زمین۔ ج۔ ۱۔ سُخَاوِيٌّ - سُخُونٌ - گرم کیا ہوا شوربا۔  
 سُخُونَةٌ - سُخْنَةٌ - سُخْنٌ - سُخَانَةٌ - سُخْنٌ - (ن س ک) گرم ہو جانا۔  
 سُخْنِيٌّ - (س) اونٹ کا سنگڑانا۔  
 سُخْنِيٌّ - فیاض، مال صرف کرنے میں جو اندر۔ ج۔ ۱۔ اُسْخِيَاءٌ - (م) سُخْنِيَّةٌ - ج۔ ۱۔  
 سُخْنِيَّاتٌ - سُخْنِيَّاتٌ - سُخْنِيَّاتٌ - کم عقل، ہلکا، جھمبھرا کپڑا۔  
 سُخْنِيَّةٌ - کینہ، پیدی، نجاست۔ ج۔ ۱۔  
 سُخْنِيَّةٌ - سُخْنِيَّةٌ - گرم پانی، دردناک، تکلیف دہ۔

## س-د

سَدَا - روک، پہاڑ جو زمین کے ڈو قطعوں میں حاصل ہو، ج۔ ۱۔ اَسْدَادٌ - عیب مثلاً سنگڑاپن، بہرپن، ج۔ ۱۔ اَسْدَادَةٌ - معص (ض) مضبوط اور درست ہو جانا۔ (ن) سوراخ اور گزرگاہ کو بند کرنا۔ کسی کی بات کا ٹٹنا۔  
 سَيْدٌ - درست اور صحیح کلام۔  
 سَيْدٌ - سیاہ بادل، ج۔ ۱۔ سَيْدُودٌ - ہر وہ چیز جو آسمان پر چھا جائے، مثلاً ٹڈیوں کا دل، سنگتوں کی وادی، ج۔ ۱۔ سَيْدَادَةٌ - سَيْدَاجٌ - جھوٹا آدمی۔  
 سَيْدَادٌ - گفتار و کردار کی راستی و درستی، سلامت روی۔  
 سَيْدَادٌ - شیشی کی ڈاٹ۔  
 سَيْدَادُ الثَّغْرِ - دشمن کے آنے کا راستہ بند کرنا۔  
 سَيْدَادٌ - ناک کی ایک بیماری جس کی وجہ سے آدمی ناک سے سانس نہیں لے سکتا۔  
 سَيْدَاسٌ - چھتہ۔  
 سَيْدَاسِيٌّ - پچھ گڑھا تہ بند۔  
 سَيْدَاقَةٌ - پردہ۔

سُدَل - (ض - ن) بالوں کو لٹکانا۔ کپڑے کو درمیان میں سے چکر بیلور پر دہ کے لٹکانا۔ [رفی] (شہروں میں) گھومنا۔  
سُدَل - پردہ۔ ج۔ ۱۔ اَسْدَال - سُدُول - اَسْدُل -

سُدَل - جو اہرات کا ہار جو سینہ تک کا ہو۔  
سُدَل - کچی۔ ڈولے وغیرہ کا پردہ۔  
سیدلی تین طرف دل کو مائل کرنے والا آدمی۔  
(سرورہ کا معرب ہے)

سَدَم - رنج ویشیماںی معص (س) رنجیدہ ہونا۔  
سَدِم - تیز شہوت ساڈ۔

سَدَن - سَدَاآتہ - (ن) کعبہ یا کسی اور عبادت خانہ کی خدمت کرنا۔ دربانی کرنا۔ کپڑے کو یا پردہ کو لٹکانا۔  
سَدُو - (ن - س) بہت ٹھنڈا ہونا۔ لمبے لمبے قدم رکھنا۔

سُدُوَس - نیلا۔ سبز چادر۔  
سَدُوَم - وہ شہر جس میں لوط علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔

سَدَای - کپڑے کا تانا۔ ۱۔ سَدَاآتہ - ۲۔ اَسْدَاآتہ - ۳۔ اَسْدَاآتہ - رات کی نمی۔ شد۔  
بھلائی۔ چھوڑا ہوا۔

سَدَای - (س) بہت ترادر نماک ہونا۔  
سَدَای - چھوڑا ہوا۔ محل۔  
سَدَاآتہ - ترمین۔

سَدَاآتہ - مضبوط۔ راست۔ درست اور ٹھیک۔  
سَدَاآتہ - یمن کا ایک خطہ جہاں کی چادر مشہور ہے۔ تازہ سبزی۔ ایک قدیم محل۔  
سَدَاآتہ - چھین کا ایک۔ چھڑکا تہ بند۔ چھ برس۔

سُدَّة - گھر کا دروازہ۔ دلہیز۔ گھر کا محسن۔  
سائبان۔ ناک کی ایک بیماری کہ مریض اس کی وجہ سے سانس نہیں لے سکتا۔ ۱۔ سُدَد۔

سُدَح - (ف) کسی کا گلا کاٹنا۔ منہ کے بل گرانا۔ قتل کرنا۔ کسی جگہ آرام کرنا۔

سُدَد - گفتار کو روا کی راستی و درستی۔  
سُدَس - سَدَاآتہ - (س) پریشان ہونا۔  
آکھ کا خیرہ ہوجانا۔

سُدَار - (ن) بال یا پردہ لٹکانا۔  
سُدَاَس - (جس) بیری کا درخت و۔ سَدَاآتہ - ۲۔ سَدَاآتہ - ۳۔ سَدَاآتہ - سُدَاَس۔

سُدَار - بچوں کا ایک کھلونا۔  
سُدَار - سرگھونے اور چکر آنے کی بیماری جو اکثر کشتی کے سواروں کو عارض ہوتی ہے۔

سُدَار - سراسیمہ۔ حیران و پریشان۔ دریا۔  
سَدَاآتہ المُنْتَهیٰ برش سے ادھر ایک بیری کا سا درخت ہے کہ مخلوقات کے علم اور اعمال کی رسائی اس سے آگے نہیں ہے۔

سُدَس - چھٹا حصہ۔ ج۔ ۱۔ اَسْدَاَس۔  
سُدَس - (ن) چھٹا حصہ لینا (ض) چھٹا ہوجانا۔  
سَدَاَس - جو باری چھٹے دن آئے۔

سَدَاَع - (ح) دو چیزوں کو ساتھ کھانا۔  
بچھانا۔ گلا کاٹنا۔  
سَدَاَف - روشنی۔ تاریکی (لغات اصدا)

سَدَاَف سے ہے،  
سَدَاَفَتہ - روشنی تاریکی تاریکی سے ملی ہوئی روشنی۔

سَرَاج - زمین ساز۔ زمین فروش۔ جھوٹ بولنے والا۔

سِرَاج - چراغ۔ آفتاب۔ جہ۔ سُرُج۔

سِرَاحَة - زمین سازی۔

سَرَاح - (ف) چھوڑ دینا۔ چراگاہ میں چھوڑنا۔ بھیجنا۔

سَرَاح - پاسپورٹ (د)

سُرَادِق - خیمہ کی قنات۔ خیمہ کے چاروں طرف کا

پردہ خیمہ۔ شامیانہ۔ غباریادھوئیں کا

بادل۔ جہ۔ سُرَادِقَات۔

سَرَاس - بچہ کی نال جو کاٹی جاتی ہے۔ مہینہ کی

آخری شب۔ خالص النسب۔

سِرَوار - بچہ کی نال۔ مہینگیلی اور پیشانی کی

کلیں۔ جہ۔ آسِرَة۔

سَرَادَة - (ك) خوب اور عمدہ اور خالص ہونا

پسندیدہ اور عمدہ نسب والا ہونا۔

سِرَاط - راستہ۔ روشن راستہ۔

سُرَاطِی - بہت کھانے والا۔

سَدِیْف سُرَاطِی - شمشیر بران۔

سِرَاع - جلدی کرنے والا۔ دوڑنے والا۔

وا۔ سِرَایِم۔

سَرَارَة - سُرُو۔ سُرَای۔ سَرَار۔ (ك-ن)

صن، مال صرف کرنے میں دلیر ہونا۔

سخی ہونا۔ سردار ہو جانا۔

سَرَارِیْل - پانچامہ۔

سَرَای - قصر۔ محل شاہی (د)

سَرَای الحکومتہ۔ گورنمنٹ ہاؤس۔ (د)

سِرَایَة - (ص) درخت کی جڑوں کا زمین میں

گھنا۔ کسی چیز کا تمام اجزاء میں جنب

کی بکری۔

سَدِیْف - کوٹان کی چربی۔ کوٹان جہ۔ سَدَاف۔

سَدَایْف۔

سَدِیْل - دُمن کے کمرے کا پردہ۔ ڈولے وغیرہ

کا پردہ۔ جہ۔ سَدَایْل۔

## س-ذ

سَدَاب - ایک گھاس کا نام۔

سَدَاق - آتش پرستوں کا رات کو آگ جلانا۔

(سَدَة کا معرب ہے)

سَدَاجَه - سادگی (د) معرب۔ سادگی۔

## س-سا

سَسْر - بچہ کی ناف کا ٹٹا۔ ناف پر نینرہ مارنا۔

خوش کرنا۔

سِسْر - بھید۔ پوشیدہ۔ جماع۔ ذکر۔ نکاح

زنا۔ عورت کی فرج۔ ہر چیز کا اندرونی

حصہ۔ کلیئر۔ جہ۔ آسَسْرَاس۔ وادی کا

بہترین مقام۔ جہ۔ آسَسْرَة۔

سَسْر - سَسْر - خوش و خرم کرنے والا۔

سَسْر - جو چیز بچہ کی ناف میں سے کاٹی جائے۔

نال۔ جہ۔ آسَسْرَة۔

سَسْر - مچھلی کا اٹڑا۔ مڈی کا اٹڑا۔ مص (ف)

مچھلی یا مڈی کا انڈے دینا۔

سَسْرَاء - خوشی۔ نیکی۔ اچھی پیداوار کی زمین۔

سَسْرَاء - ایک درخت جس سے کمان بناتے ہیں۔

سَوَاب - ریت جو دور سے پانی کی طرح چمکے۔ اور

اس پر پانی کا دھوکا ہو۔

سَرَاة - پیٹھ۔ پہاڑ کی چوٹی۔ ہر چیز کی بلندی۔

سِرِّحَان - بھیڑیا بشیر جو من کا وسط - ج۱ -	سَرَّاب - سَرَنگ - سوراخ جنگلی جانوروں کا بیٹھ
سَرَّابِ حَیْن - سِرَّاح -	پوشیدہ راستہ - جاری پانی -
سَرَّاد - (ن) چڑے کی دوزرینا - سوراخ	ج۱ - آسَرَّابِ مَعْن (س) ہر تن
کرنا - زرہ بننا - مسلسل باتیں کیے	میں سے پانی رشنا -
جانا - لگاتار روزے رکھنا -	سَرَّاب - پانی جو مشک سے جاری ہو -
سَرَّاد - (س) مسلسل روزے رکھنا -	سِرَّاب - ہرنوں کا گلہ - عورتوں کا گروہ - راستہ
سِرِّادَاب - ذخائر - ج۱ - سَرَّادِ حَیْب -	حال نشان - دل نفس - ج۱ - آسَرَّاب -
سِرِّسَا - بچہ کی نال جو پیدائش کے وقت کاٹی	سِرِّبَال - لباس کریمہ - قمیص - پسنے کی چیز -
جاتی ہے ہتھیلی اور پیشانی کی لکیریں -	ج۱ - سَرَّادِ حَیْب -
ج۱ - آسَرَّاس - ج۱ - آسَرَّاسِ حَیْب -	سَرِّبَلَّة - روغن رازرید - مص - کرتہ پھانا -
سَرَّس - ہتھیلی کی لکیریں - ج۱ - آسَرَّاد -	سُرَّة - ناف - خوش کرنے والی عورت -
بچہ کی نال -	ج۱ - سُرَّانٹ - سُرَّس -
سَرَّس - نامرد - وہ شخص جو جماع نہ کرے -	سَرَّج - زمین - ج۱ - سُرَّوَج - (ن) بال
سُست - ہوشیار نگہبان - ج۱ -	بٹنا - جھوٹ بولنا -
سِرَّاس -	سَرَّج - (س) چہرہ کا خوشنما اور پر رونق
سَرَّط - سَرَّطَان - (س) ٹنگنا -	ہونا - جھوٹ بولنا -
سَرَّطَان - آسمان میں ایک بُرج - ایک بہت	سُرَّوَجَّة - سرشت - فطرت - طبیعت - ج۱ -
خواب قسم کا زخم کہ اس پر کیکڑے	سَرَّاحِ حَیْب -
کے پاؤں کی طرح ابھارتے ہیں -	سِرِّحَیْن - گو بر - (سرکین کا معرب)
کیکڑا - ج۱ - سَرَّاطِیْن -	سُرَّوْح - چوپایہ بڑا اور اونچا درخت - وا -
سُرَّطَة - جلد نکلنے والا -	سَرَّحَة - مص (ن) چوپایہ کو پرائی
سِرِّطْرَاط - فالودہ -	پر چھوڑنا - چوپایہ کا چرنا - رہا کرنا -
سُرَّطَح - بلند قامت - بلند آواز مرد - واضح	پیشاب جاری ہونا - دست آنا -
گفتار لمبا چوڑا آدمی - ج۱ - سَرَّاطَح -	سین کا بلغم صاف کرنا -
سِرَّع - تیزی اور جلدی -	سُرَّح - تیز رفتار گھوڑا - تابع دار و شن - آسان
سَرَّع - انگور کی تازہ ٹہنی -	(جیسے دَلْدَلَن سُرَّحًا) عَطَاءُ سُرَّح -
سُرَّعَة - تیزی - جلدی -	بلا توقف بخشش -
سُرَّعَة - سِرَّع - (ن) تیزی اور جلدی	سَرَّح - (س) اپنے کاموں کو سہولت سے انجام دینا -
کرنا -	



سَرَوَة - (مثلثہ) چھوٹا تیر، ٹڈی کا انڈا۔  
ج ۱ - سِرّی -

سُرُوس - خوشی۔

سُرُوس - سُرّی - سُرّی - (دن) خوش کرنا۔

سُرُوکَة - پانچواں پہنا نا۔

سُرّی - رات کا سفر۔

سُرّی - سُرّی - سُرّی - (جن) رات  
میں چلنا۔

سُرّی - پانی کا چٹھہ سردار۔ سنی۔ ج ۱ -

سُرّی - ہر عمدہ چیز ج ۱ - آسیریتہ -

سُرّی - باندی جس سے ہم بستری بھی کی جائے۔

سُرّی - چھوٹا سا لشکر۔ پانچ آدمیوں سے

تین سو چار سو تک کا ج ۱ - سُرّی -

سُرّی - آسان ذرم۔ پیشاب بردار کا دھک

کے آئے بغیر زین کا گھوڑا۔

سُرّی - تخت۔ مژدہ اٹھانے کی چار پائی۔

ج ۱ - آسیریتہ - سُرّی -

سُرّی - بھید (د) ضمیر کا نشنہ۔ ج ۱ -

سُرّی -

سُرّی - نامرد۔ جماع نہ کرنے والا۔ سُرّی -

ہوشیار محافظ۔ ج ۱ - سُرّی -

سُرّی - تیزی اور جلدی کرنے والا۔ ج ۱ -

سُرّی - شعور کی ایک

بحر کا نام۔

## س - ط

سُرّی - لمبا اونٹ۔ خیمہ اور گھر کا سب سے

بڑا ستون۔ اونٹ کی گردن یا پهلویں

داغ جو طول میں لگایا جاتا ہے۔

سَرَف - کم عقلی۔ حریف آدمی۔ مرتبہ معص -

(دس) مال و جاہ کو ضرورت سے زیادہ

صرف کرنا۔ چیز غفلت سے رکھنا اور

پھر بھول جانا۔ غلطی کرنا۔

سُرّی - ایک قسم کی جیونٹیاں۔ سفید رنگ۔

ایک چھوٹا سا کیڑا جس کا سر سیاہ

اور باقی جسم سرخ ہوتا ہے۔

سُرّی - (س) پوشیدہ ہو جانا۔ چھپ جانا۔

سُرّی - سُرّی - سُرّی - سُرّی - سُرّی -

(دس) چوری کرنا۔

سُرّی - سُرّی - چوری۔

سُرّی - گوبر۔ سرگین کا معرب۔

سُرّی - (دس) کسی قوی آدمی کا کمزور ہو جانا۔

سُرّی - سیدھی آنت کا منہ۔ مقعدہ۔ ج ۱ -

آسیریتہ۔

سُرّی - ہمیشہ۔ روز و شب۔ دائم۔

سُرّی - جلد باز اور مضبوط توانا۔ ج ۱ -

سُرّی -

سُرّی - جزیرہ لنکا۔ دہندوستان کے

قریب ایک جزیرہ)

سُرّی - اچھی طرح پرورش کرنا۔ کوبان کا ٹٹا۔

سُرّی - ناز و نعمت سے پرورش کرنا۔

سُرّی - ایک خوش قامت درخت۔ ج ۱ -

سُرّی - سخاوت اور فیاضی۔

معص (ن) اپنے بدن سے کسی چیز

کو گرا دینا۔ (ن) جن - ک) جو انفراد اور

سنی ہونا۔ سردار ہونا۔

سُرّی - (ن) کسی ایک جہت پر چلنا۔ چرنے

کی طرف متوجہ ہونا۔

سَعَادَة - نیک بنتی معص (س) نیک بخت ہونا۔  
سَعَادَة - (فلان) ہذا کی سلسلی۔ ایک لقب تعظیمی  
جو اہم ارکان حکومت کے نام یا ضمیر کی  
طرح مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے۔

سَعَادِي - موقعا۔  
سَعَاس - آگ کی گرمی، شرف و فاد، بھوک کی  
سختی، بھوک، جہ۔ سَعَس۔  
سَعَال - کھانسی۔

سَعَال - سَعَالَة - (ن) کھانا۔  
سَعَاوِي - بیداری اور سفر کی مشقت برداشت  
کرنے والا۔

سَعَايَة - (ن) محصول لینا، چغل خوری کرنا۔  
سَعَايَة - (ن) بھاری کا زنا کرنا۔ مکاتب کا اپنی  
آزادی کے لیے مزدوری کرنا۔

سَعَة - فراخی، آسودگی، معص (س) کسی چیز  
میں کسی چیز کے لیے گنجائش ہونا۔  
سَعَتَر - پودینہ کوہی۔

سَعَتَوِي - شوخ اور نڈر آدمی۔ ہسار۔  
سَعْد - موقعا۔

سَعْد - نیک بنتی۔  
سَعْد - سَعُوْد - (ن) مبارک ہونا۔  
سَعْدَان - ایک بوٹی ہے۔ اونٹ اسے بہت  
رغبت سے کھاتا ہے۔

سَعْدَان - اطاعت، فرماں برداری۔ مدد  
(لَا سَعَادَ كَا سَمِ هِي)

سَعْدَانَة - کبوتر، عورت کے پستان، حلقہ  
دبر۔

سَعْدَانِيك - میں تیرا مددگار ہوں۔ (اصل میں  
أَسْعِدُكَ إِسْعَادِيْن - تھا)

جہ۔ سَطْم - آسَطِيَة۔

سَطْم - بڑی کی ڈاٹ، تلوار کی دھار، جہ۔  
آسَطِيَة۔

سَطْح - چھت، ہر چیز کا بالائی رخ، جہ۔  
سَطْوَح - معص (ن) بچھانا، زمین  
پر ڈالنا، کر دے سے لٹانا، کوٹ  
کر ہموار کرنا۔

سَطْر - ہر چیز کی قطار، کبیر، جہ۔ آسَطْر۔  
سَطْوَس - آسَطَاس - معص (ن)  
کھنا، کاشا، زمین پر گرا دینا۔

سَطْم - گردن کی درازی معص (س) دراز  
گردن والا ہونا۔

سَطْل - لمبا آدمی، ایک بڑی تانبے کا، جہ۔  
آسَطَال - سَطْوَل۔

سَطْو - سَطْوَة (ن) حملہ کرنا مغلوب کرنا۔  
سختی سے پیش آنا، پانی کا بہت ہونا  
(علیٰ) رحم میں ہاتھ ڈال کر آب منی  
یا مردہ بچہ نکالنا۔

سَطْوَة - ایک حملہ، جہ۔ سَطْوَات۔  
سَطْوَع - سَطِيْع - (ن) خبار کا اڑ کر بلند  
ہو جانا، صبح پھیلنا، بجلی چمکانا، بو آنا۔  
تالی بجانا۔

سَطِيْع - چت لیتا ہوا، مقتول لمبا پڑا ہوا۔  
چڑے کا ترشہ دان، ضعف کے  
سبب جو اٹنے میں سست ہو۔

سَطِيْع - دراز قامت، صبح۔

س - ع

سَعَاة - کسی کام کے کرنے کی لیاقت اور قدرت۔

سَعْر - زرخ. ج: ۱۔ اَسْعَاس۔

سَعْر - دیوانہ۔ ج: ۱۔ سَعْرَی۔

سَعْر - (ف) آگ بھڑکانا۔ لڑائی برپا کرنا۔

اور پھیلانا۔

سَعْر - آگ کی گرمی۔ دیوانگی۔ بھوک۔

سَعْر - دیوانگی۔ ذہن کی کندی۔ حماقت۔

رنج۔ عذاب۔

سَعْر - سَعْرَة - ایک رنگ جو سیاہی

مائل ہوتا ہے۔

سَعْسَع - بھڑبا۔ ج: ۱۔ سَعَا سَع۔

سَعُوْط - (ف) ناک میں دوا ڈالنا۔

سَعَطَة - ناک میں ایک بار دوا ڈالنا۔

سَعْف - مال و اسباب۔ دُلسن کا جینر۔

کینہ آدمی۔ ج: ۱۔ سَعُوْف - مص

(ف) ضرورت پوری کرنا۔

سَعَف - دُلسن کا جینر مال و اسباب۔ اونٹوں

کے منہ میں کھلی کی طرح ایک بیماری۔ کھجور

کی خشک شاخ مص (دس) ہاتھ کے

ناخنوں کی جڑ کا پھٹ جانا۔

سَعْفَة - چرو اور سر پر زخم ہو جانے کی بیماری۔

ایک ایسی بیماری جو بال گرا دیتی ہے۔

گنج۔

سَعْلَة - جن یا جوتی۔ ج: ۱۔ سَعَالی۔

اونٹ کی ایک خاص رفتار۔ مص

سَعْم (رفت) اونٹ کا اس خاص رفتار سے چلنا۔

سَعْن - مشک۔ دو ہاونی ج: ۱۔ سَعْنَة۔

سَعُوْ - سَعُوَاء - رات کی ایک گھڑی۔ ہدربان

عورت جو شوہر سے طبع کے ذریعہ

جدا ہو جائے۔

سَعُوْط - جو دواناک میں چڑھائی جائے۔

سَعُوْف - بڑے بڑے پیالے۔ انسان کی فطری

خصالتیں۔

سَعِي - (ف) ارادہ کرنا۔ کام کرنا۔ سرعت

کرنا۔ دوڑنا۔ سخن چینی کرنا (کماٹی) کرنا۔

کوشش کرنا۔ محصل وصول کرنا۔

سَعِيْد - نیک بخت ج: ۱۔ سَعْدَاء۔

سَعِيْر - بھڑکی ہوئی آگ۔ شعلہ۔ ج: ۱۔ سَعْر۔

## س - غ

سَعْب - بھوک۔

سَعْب - سَعُوْب - (ن) بھوکا ہونا۔

سَعْب - (س) بھوکا ہونا۔

سَعِيْب - بھوکا۔

سَعْبَان - بھوکا۔ ج: ۱۔ سَعَاب۔

سَعْبَنَة - سر میں تیل کی مالش کرنا۔ کھانے میں

روغن ڈالنا۔ پگھلی ہوئی چیز کو سالن

کے طور پر استعمال کرنا۔

سَعْبِي - بھوکی۔ ج: ۱۔ سَعَاب۔

سَعْسَعَة - بلانا۔ زمین میں دھونس دینا۔ تیل کی

مالش کرنا۔ کھانے میں تیل ڈالنا۔

سَعِيْل - کمزور اور ضعیف بدن کا آدمی۔ بدخلق

بہت کھانے والا۔

سَعِيْل - (س) نحیف و کمزور ہونا۔

## س - ف

سَعْف - (ن) کھجور کے پتوں کی چٹائی بنا (دس)

سغوف بنانا۔ سغوف کھانا (پانی)

بہت پینا۔ مگر سیراب نہ ہونا۔

- سِفَت چت کبراسانپ۔ اڑنے والا سانپ۔  
 ج۔ - سَفُوف -  
 سَفَاح بہت بخشش کرنے والا۔ بہت بکھیرنے  
 والا۔ خوش بیان۔ عبد اللہ بن محمد بن  
 عبد اللہ بن عباس کا لقب (خلفاء  
 عباسیہ میں اول خلیفہ)  
 سَفَاح - مَسَاحَة - بدکاری کرنا۔ زنا کرنا۔  
 سَفَاد - (ن۔ ص) زراعت سے جفتی کرنا۔  
 سِفَاس - مبارکلیل۔ ج۔ - اَسْفِرَة - سَفْر  
 سَفَاشِر -  
 سَفَادَة - ایلچی گری۔  
 سَفَارَة - گھر کا کورٹا۔  
 سَفَاطَة - گھر کا ساز و سامان۔  
 سَفَاة - بے شرمی۔ بے حیائی۔ مص (ک)  
 بے شرم و بے حیا ہونا۔  
 سَفَاك - خوش تقریر۔ قادر الکلام۔ بہت  
 نون بہانے والا۔  
 سَفَال - سَفُول - (ک۔ س۔ ن) پست  
 ہونا۔ بوڑھا ہونا۔  
 سَفَالَة - ہر چیز کا پتلا حصہ۔  
 سَفَالَة - کینہ پن مص (ک) کینہ ہونا۔  
 بیچ ہونا۔  
 سَفَان - کشتی ساز کشتی والا۔  
 سَفَانَة - کشتی سازی۔  
 سَفَاهَة - سَفَه - بے وقوفی۔ مص (ک)  
 بے وقوف ہونا۔  
 سَفَة - کٹی چھنی دوا۔ سفوف۔ جوبان۔ جس  
 سے عورتیں بال باندھتی ہیں۔  
 سَفَت - (س) سیراب نہ ہونا۔ اور بہت پینا۔
- سَفْتَجَة - چک۔ ہنڈی۔ ج۔ - سَفَا تَج - (د)  
 سَفَم - سَفُوح - (ف) بہانا۔ بکھیرنا۔  
 سَفْحُ الجَمَل - پارا لکھی ہوئی۔ ج۔ - سَفُوح -  
 سَفْح - سَفُوح - سَفْحَان - (ف) آسو  
 بہانا۔  
 سَفْر - نشان۔ ج۔ - سَفُوس - مص (ض)  
 سر وغیرہ ننگا کرنا۔ جھاڑو دینا۔ پرگندہ  
 کرنا۔ روشن ہونا۔ ظاہر ہونا۔ کھل جانا۔  
 (عن) [عورت کا اپنا چہرہ دکھونا۔  
 سَفْر - سَفَارَة (ض۔ ن) تیز اڑنا (بین)  
 لوگوں میں باہم صلح کر دینا۔ ایلچی گری  
 کرنا۔  
 سَفْس - سفر صبح کی سپیدی غروب آفتاب کے  
 بعد دن کی سپیدی کالقیہ۔ ج۔ - اَسْفَاس  
 سَفْس - بڑی کتاب۔ لکھا ہوا۔ ج۔ - اَسْفَاس  
 سَفْرَة - لکھنے والے۔ فرشتے جو آدمیوں کے  
 اعمال لکھتے ہیں۔  
 سَفْرَة - مسافر کا ترشہ۔ توشہ دان (د) میز  
 میز پوشش۔  
 سَفْرَجَل - ہی (ایک میوہ) ج۔ - سَفَاج -  
 سَفْرَج - باورچھا (د)  
 سَفْسَان - کما اور تراب حصہ۔ نکما مال۔ گرد و  
 غبار۔ حقیر کام۔ آٹے کا غبار جو پھانسنے  
 کے وقت اڑتا ہے۔  
 سَفْسَة - چھانا۔ کام ٹھیک طور پر نہ کرنا۔  
 سَفْط - عطر دان پھیلنے کے جسم کی کھال ج۔ - اَسْفَاط  
 سَفْم - (ف) ماننا۔ چاٹنے ملانا۔ نشان لگانا۔  
 مجلس دینا (ب) کسی چیز کو بڑا کر کھینچنا۔  
 سَفْكَ - بہانا۔ کلام کا طول دینا۔

## س-ق

سِقَاء - مشک - ج۱: - آسُقِيَاة - جج  
آسُقِيَاة -

سِقَاء - پانی دینے والا - ج۱: - سِقَاعُوْنَ -  
سِقَاب - خون آلود روئی جسے مصیبت زدہ  
عورت سر پر ڈالتی ہے۔

سُقَاط - جو چیز کسی چیز میں سے گر جائے۔  
سِقَاط - پرندہ کا بازو - حساب وغیرہ کی بھول ٹوک  
پھل جو پکنے سے پہلے گر جائے۔ قول  
و فعل میں لغزشِ مص (گھوڑے کا  
دوسرے گھوڑوں سے) آگے نکل جانا۔  
باری باری گفتگو کرنا۔

سَقَاط - ردی سامان کا بیچنے والا - کباڑی۔  
بہت تیز و قاطع تلوار۔

سِقَاع - وہ کپڑا جو تیل سے حفاظت کے لیے  
عورتیں دوپٹے کے نیچے رکھتی ہیں۔

سِقَالَاة - جہاز پر پڑھنے کا مصنوعی زینہ - (د)  
سِقَام - بیماری - مص (د) بیمار ہونا۔

سِقَايَاة - پانی پلانے کا پیشہ - پانی پینے کی جگہ  
پانی پینے کا برتن - گلاس۔

سَقَب - نزدیک - قرب - مص (س-ن) نزدیک  
ہونا۔

سَقَب - اڑن کا نوزائیدہ بچہ - ج۱: - آسُقَب -  
خیمہ کا ستون - ج۱: - سِقَبَان -

سَقْف - گنچ - مص (س) گنجا ہونا۔  
سَقْس - شکر - رس - مص (ن) دھوپ کی تپش  
کا منکے رنگ کو متغیر کر دینا۔

سَقْس - دوزخ۔

سِقْل - سِقْلَاة - سِقَالَاة - پستی۔

سِقْلَاة - کمین اور میچ لگ - ۱۰ - سِقَال -

سُقْلَاة - بہت نیچی آسُقْل - کامنٹ۔

سَقْن - (رض) چھال اُتارنا - چھکنا دور کرنا۔

سَقْن - کھلاڑی، ترلاشے کا آلہ - ایک سخت کھال  
جو تلوار کے قبضہ پر لگائی جاتی ہے۔

سُقُوْ - (ن) تیز چلنا - تیز اڑنا۔

سَقُوْد - کباب کی سیخ - ج۱: - سَقَايَاة -

سَقُوْف - کچی اور چھنی ہوئی خشک دوا۔

سَقْفَاة - سَقَاة (ف-ك-س) خود کو  
بے عقل کرنے پر آمادہ اور تیار کرنا۔

کسی کو بروقت کتنا یا سمجھنا - ہلاک  
اور تباہ کرنا - نادانی کرنا - بہت شراب

پینا - اور سیراب نہ ہونا۔

سَقِيْط - جو افراد سخی آدمی - معزز و محترم - حقیر و  
ذلیل (لغات اضداد سے ہے)

سَقِيْف - شیطان کا نام - کچا وہ اور پالان کا  
تنگ۔

سَقِيْفِي - سخت بنا ہوا کپڑا۔

سَقِيْب - خون جو ہما دیا گیا۔

سَقِيْنَاة - کشتی - ج۱: - سَقَايَاة - سَقُوْف  
سَقْن۔

سَقِيْنَاةٌ تَوْسٌ بِيْدَايَاة - تار پید کشتی (د)

سَقِيْنَاةٌ مَدَايَاة - تباہ کن جہاز - (د)

سَقِيْنَاةٌ مَدَايَاة - زہ پوش جہاز (د)

سَقِيْنَاةٌ اَلْهَوَاة - ہوائی جہاز - (د)

سَقِيْبَاة - نادان - جو مال کی قدر نہ جانے - مال کو  
بے جا صرف کرنے والا - ج۱: - سَقْفَاة -

(م) سَقِيْفَاة - ج۱: - سَقِيْفَاة -

سَقَط - خراب و کھاسا مان۔ رسوائی۔ حساب و کتاب میں غلطی۔ ج: ۱۔ اَسْقَاط۔

سَقَط - سَقَط۔ سَقَط۔ (مثنیٰ) ناتمام کچھ جو پیٹ سے گر جائے۔

سَقَطُ التَّرْمَل - (مثنیٰ) ریت کا ٹیلہ۔

سَقَطُ التَّرْنَد - چقمان سے جو پتے بھریں۔

سَقَطَة - لغزش۔ ج: ۱۔ سِقَاط۔ مص (ن) ٹھوکر کھانا۔ خطا کرنا۔

سَقَطِي - روی سامان بیچنے والا۔ کباڑی۔

سُقْع - گمر۔ کنارہ۔ ج: ۱۔ اَسْقَاع۔

سُقْع - (ن) بقیہ سے مارنا۔ برا بھلا کہنا۔ آواز نکالنا۔ چلا جانا۔

سُقْف - بھیت۔ آسمان۔ ج: ۱۔ سُقُوف۔

سُقْف - مص (ن) گمر کو پاٹنا۔ السُقْفُ الْمَرْفُوع - آسمان۔

سُقْف - (س) لمبا اور ٹیڑھا ہونا۔

سُقْفَل - (ن) مانجھنا۔ صاف کرنا۔

سُقْلِيَّة - بچھاڑنا۔ زمین پر دے مارنا۔

سُقْم - سَقْم۔ بیماری۔

سُقْمُونِيَا - ایک بوٹی کی جڑ کی خشک کی بوٹی۔

رطوبت (ایک دست آوردوا)

سُقْمُوس - ایک دریائی جانور۔ اس کا گوشت بہت مہمی ہے۔

سُقُوط - گرا ہوا۔

سُقُوط - (ن) گنا (چاند کا) چھپ جانا۔ ناتمام کچھ

کا پیٹ میں سے گر پڑنا۔ گرمی کا ایک دم

ذور پڑنا۔ ڈوٹ پڑنا، رک جانا۔ دور

ہونا زنی؟ گفتگو میں غلطی کرنا زالی کسی

گروہ کا آدمی (کنا) لغزش کرنا۔

جموں لارنی (پیشوا ہونا) جیسے سَقَط

زَبْدًا فِي يَدَيْهِ) (د) امتحان میں نفل ہونا۔

سَقَى - وہ زمین جس کی آبپاشی نہر کے پانی سے کی جائے۔ بڑی بڑی بوندوں کا سینہ۔

ج: ۱۔ اَسْقَى۔ نرکل۔ کھجور کا درخت

۱۰۔ سَقِيَّة۔

سَقَى - (ض) پانی دینا۔ کسی کو سیراب ہونے کی دعا دینا۔ (سَقِيَالِك کہنا) استسقا، کا

مرض ہوجانا۔ کسی کی عیب گیری کرنا۔

سِقَى - سیراب۔ پانی دیا ہوا کیفیت۔ پانی کا حصہ۔

پانی وغیرہ۔ ج: ۱۔ اَسْقِيَّة۔

سُقِيَا - پانی دینا۔ (اسم مصدر)

سَقِيْبَة - خیمہ کا ستون۔ ج: ۱۔ سَقَائِب

سَقِيْط - احمق آدمی۔ برون شبنم۔ ج: ۱۔ سَقَطِي

سَقِيْطَة - کم عقل۔ کمین عورت۔

سَقِيْفَة - چبوترہ۔ ٹوٹی ہوئی بڑی کو بانڈھنے کی

کڑیاں کاشی کا تختہ۔ ج: ۱۔ سَقَائِف۔

سَقِيْفِي - (ن) نصاریٰ کا سردار اور پیشوا ہونا۔

پادری ہونا۔

سَقِيْم - بیمار۔ ج: ۱۔ سَقَام۔

## س۔ لی

سَلَك - لوسے کی بیخ تنگ حلقوں کی تہہ۔ ج: ۱۔

سَلَك - سَلَكُون۔ مص (ن)

کوڑ وغیرہ میں لوسے کی بیخیں ٹھوکتا۔ کان

کا سوراخ تنگ ہوجانا۔

سَلَك - بچھو وغیرہ کا سوراخ۔ وہ راستہ جس کا

دوسرا سر بند ہو۔

سَلَكَاء - مادہ شتر مرغ۔ چھوٹے کانوں والی عورت

## ج۔ سَلَق

سکات - لمبی خاموشی کسی چیز کا منتہی جو چیز خاموش کر دے۔

سکاس - شراب پیچنے والا۔

سکازی - بیوش دست لوگ۔ وا۔ سکزان

سکاکۃ - موچی کا پیشہ۔ کفش گری۔

سکاک - فضا۔ جو۔

سکگان - چھری بنانے والا۔

سکگان - باشندگان وا۔ ساگین۔ کشتی کا ڈنبا۔

سکب - پسنے والا تانبا۔ رنگ۔ گھوڑا تیز

رفتار و سب رفتار۔ کشادہ قدم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے

کا نام توب سے پہلے آپ کی ملک میں

آیا۔ (مع ن) پانی بہانا۔

سکب - ایک خوشبودار درخت۔ لالہ۔ وا۔

سکبۃ۔

سکت - ہمیشہ خاموش رہنے والا کم سخن آدمی۔

کہ جب بولے تو خوب بولے۔

سکت سکوت۔ ساکوۃ۔ (ن) چپ

ہونا مر جانا۔ قرار پڑنا۔ دب جانا۔

روپیہ وغیرہ۔ روپیہ پیسہ وغیرہ کا ٹھپا۔

پھاڑا۔

سکۃ الحدید - ریلوے لائن۔ (د)

سکتۃ - ایک بیماری (د) کوما۔ ایک علامت

دقت (د)

سکتۃ - وہ چیز جس سے بچہ کو چپ کیا جائے۔

سکر - (ن) کسی پر جادو کرنا۔ نہر وغیرہ بند

کرنا۔ بھڑنا۔

یسکر - پانی کا بند۔ بند کرنے کی چیز۔ نہر کا

بند کرنا۔ ج۔ ۱۔ آسکاس۔

سکر - شراب وغیرہ کا نشہ۔ شراب۔ بہ نشہ آور

چیز

سکوان - (س) خمور ہونا۔ نشہ میں ہونا۔ مست

ہونا۔

سکیو - نشہ میں چور۔ جو ہمیشہ نشہ میں چور رہے۔

سکو - شراب۔ بہ نشہ آور چیز۔ سرکہ۔ طعام۔

شکم پری۔ عصفہ۔

سکرۃ - ضلالت۔ گمراہی۔ مستی۔ شدت۔ سختی۔

ج۔ ۱۔ سکرات۔

سکر - شکر۔ تروتازہ اور عمدہ کھجور۔

سکوان - نشہ میں چور۔ مست۔ ج۔ ۱۔ سگازی

(م) سکزی۔ سکوانۃ۔

سکرۃ - نشہ۔ مستی۔ گمراہی۔

سکرۃ الموت - موت کی سختی اور غفلت وغشی

ج۔ ۱۔ سکرات۔

سکرۃ الحاح - غم کی شدت۔

سکرۃ تیور - سکرٹی۔ ناظم۔ (د)

سکرۃ - تشریح۔ (سکرہ کا معرب)

سکع - مسافر آدمی۔ غریب الوطن۔

سکع - (ف) چلنا۔ جانا۔ سراسیمہ ہو کر چلنا۔

مقیم ہونا۔ ٹھہرنا۔

سکف - (س) دروازہ کی چول بنانا۔

سکک - بہاؤ۔ کان کی چھوٹائی۔

یسکل - ایک سیاہ رنگ کی بڑی مچھلی۔

ج۔ ۱۔ آسکال۔

سکن - غذا۔ خوراک۔ گھر کے رہنے والے۔

۱۱۔ ساگین۔

سکن - راحت۔ آرام۔ جائے سکونت۔ سکونت۔

گمی نکالنا کر طے مارنا۔ جلد دیدینا۔  
**سَلٰی** - جیل (وہ جھلی جس میں بچہ ہوتا ہے) ج:۔  
**اَسَلَاء** - مص (س) جیل کا علیحدہ ہونا۔  
 (عن) کسی سے بے غم ہونا۔  
**سِلَاء** - روضن کشی۔ ج:۔ **اَسَلِیَّة**۔  
**سِلَاب** - سوگ کا پترا۔ ج:۔ **سَلْب**۔  
**سَلَابَة** - چھین کر لے جانے والا۔ (مذکر و مؤنث)۔  
**سَلَا حِم** - لبا، بڑی عمر کا اونٹ ج:۔ **سَلَا حِیْم**۔  
**سِلَا ح** - مہتیار، لڑائی کا سامان، تلوار۔ مائتہ  
 کی چھڑی۔ ج:۔ **اَسَلِیْحَة**۔  
**سَلَا ح** - گوبر، پاخانہ۔  
**سَلَّاس** - بے ہوشی، وارفتگی۔  
**سَلَّابِل** - زنجیریں، سطرین۔ و:۔ **سِلْسِلَة**۔  
**سَلَّاطَه** - چٹنی، اچار (د)۔  
**سَلَّاطَة** - سَلَّوْطَة - (ک۔ س) زبان دراز  
 ہونا۔ زبردست ہونا۔  
**سَلَّافَة** - ہر چیز کا پخواں۔ اس عرق سے بنائی ہوئی  
 شراب جو انکو رنچوڑنے سے پہلے بہ پڑے  
**سَلَّاق** - پھنسی جو زبان کی جڑ پر نکل آتی ہے۔  
 یاد اوتوں کے جڑوں کی پھٹن۔  
**سَلَّال** - سیل کی بیماری۔  
**سَلَّالَة** - جو چیز کسی چیز میں سے نکالی جائے۔  
 خلاصہ، اولاد، نطفہ۔  
**سَلَّام** - خدا تعالیٰ کا ایک نام، سلامت  
 بہ نقصان و عیب سے پاک۔ دعاء  
 سلامتی (سلام) سانپ کا کاٹنا ہوا۔  
 ایک کڑوا درخت۔  
**سَلَّامَة** - (س) نقصان سے پاک ہونا۔ رنائی  
 پانا۔ بے عیب ہونا۔

**سکینتہ** - رہنے کی جگہ۔ ج:۔ **سکینات**۔  
**سُکُنِي** - رہنے کی جگہ، گھر۔  
**سُكُوْب** - (ن) پانی کا ہنا۔  
**سُكُوْت** - بہت چپ رہنے والا۔ کم سخن (مذکر  
 و مؤنث)۔  
**سُكُوْس** - ہمیشہ نشہ میں چور رہنے والا۔  
**سُكُوْس** - سُكُوَان - (ن) ہوا کا ٹھیرنا اور رک جانا۔  
**سُكُوْر تَا** - ہمیشہ (د)۔  
**سُكُوْك** - کنواں جس کا منہ چھوٹا اور تنگ ہو۔  
**سُكُوْن** - (ن) آرام لینا، ٹھیر جانا۔ محتاج ہوجانا  
 ضعیف ہونا۔ گھر میں قرار پکڑنا، ہرجانا  
 مسکین ہوجانا۔  
**سُكُوِي** - لوہے کی میخ، کیل۔  
**سُكُوِيْب** - بننے والا۔  
**سُكُوِيْت** - ہمیشہ چپ رہنے والا۔  
**سُكُوِيُو** - ہمیشہ نشہ میں چور رہنے والا۔  
**سُكُوِيْن** - چھری۔ ج:۔ **سُكَا كِيْن**۔  
**سُكِيْنَة** - اطمینان، قرار۔ تسلی، تسکین، آہستگی۔  
 تیز ہوا۔  
**سُكِيْنَة** - چھری، قرار و آرام۔ آہستگی۔

## س - ل

**سَل** - بوڑھا آدمی (ن) تلوار وغیرہ سوتنا۔  
 کسی چیز کو نرمی سے نکال لینا۔ (رض)  
 دانتوں کا گر جانا [مجمولاً] **سِل** کی  
 بیماری سے دبلا اور کمزور ہو جانا۔  
**سِل** - پھیسپڑے کی ایک مملک بیماری۔  
 لاغری۔  
**سَل** - (ن) تلوں وغیرہ میں سے تیل نکالنا۔



دودھ پینا۔  
**سَلَجَم** - شلغم۔  
**سَلَح** - چکڑو کا بچہ۔ ج۔:۔ **سَلْحَان**۔  
**سَلَح** - لڑائی کا سامان۔ ہتھیار۔  
**سَلَح** - (د) مسلح کرنا۔ لڑائی کا سامان  
 دینا۔ گوبر کرنا۔  
**سَلْحَان** - لڑائی کا سامان۔ ہتھیار۔  
**سَلْحَانَة** - سَلْحَانَة - کھجوا۔ ج۔:۔ **سَلْحَان**۔  
**سَلِخ** - سانپ کی کینچلی۔  
**سَلِخ** - بکری اور بھیڑ کی کھال۔ مص (د) ف  
 ن (کھال اتارنا) (میدنہ کا) ختم ہو جانا۔  
 دن کو رات سے باہر نکالنا (سانپ  
 کا کینچلی میں سے) نکلنا۔ عورت کا  
 اپنے لباس کو اتارنا۔  
**سَلْحَانَة** - مذبح۔ کیلا (د)  
**سَلْسِس** - نرم۔ آسان۔ تابعدار۔  
**سَلْسِسُ الْبَوْل** - مثانہ کی ایک بیماری جس کی  
 وجہ سے آدمی پیشاب نہیں روک  
 سکتا۔  
**سَلْس** - نرمی۔ آسانی (مص) (س) کلڑی کا  
 بوسیدہ اور زہرہ زہرہ ہونا۔ [مجمولاً]  
 دیوانہ اور بے ہوش ہونا۔  
**سَلْسَال** - خوشگوار شیریں اور سرد پانی۔ خوشگوار  
 شراب جو فوراً گلے میں اتر جائے۔  
**سَلْسَيْل** - ہر نرم چیز۔ شراب۔ بہشت کا ایک  
 چشمہ۔  
**سَلْسَل** - خوشگوار شیریں۔ صاف و سرد پانی  
 خوشگوار شراب۔  
**سَلْسَلَة** - ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑنا۔

**سَلَاخ** - اونٹ کے جسم کی ہڈی۔ ہاتھ پاؤں کی  
 انگلی کی ہڈی۔ ج۔:۔ **سَلَاخِيَات**۔  
**سَلَاخ** - جنونی ہوا۔  
**سَلَب** - سبک و تیز رفتار (مص) (ن) چھین لینا  
**سَلَب** - کھیتی کا بڑا اوزار۔ ہل۔  
**سَلَب** - جس کے پیٹ سے ناتام بچہ گر گیا ہو  
 یا جس کا بچہ مر گیا ہو۔  
**سَلَب** - لبا اور ہلکا۔  
**سَلَب** - چھینا ہوا۔ ذبیحہ کا پیٹ اور کھال  
 وغیرہ۔ بانس کا چھلکا اور چھال (د)  
 چقندر ج۔:۔ **اَسَلَاب** - مص۔  
 (س) عورت کا ماتمی لباس پہننا۔  
**سَلْبَة** - برہنگی۔  
**سَلْبُوْب** - ایک لینے والا۔ چھین لینے والا۔  
 (مذکر و مؤنث)  
**سَلْت** - ہاتھ سے (ادجہ) نکالنا۔ (ذاک) بڑ  
 سے کاٹ ڈالنا۔ (بال) مونڈنا۔  
 کاٹنا (بیالہ کا پانی) انگلی سے صاف  
 کرنا۔ (مندی لگی ہوئی) صاف کرنا۔  
 مارنا۔  
**سَلْتَاء** - عورت جس نے مندی نہ لگائی ہو۔  
 ج۔:۔ **سَلْت**۔  
**سَلْتَة** - تلوار سوتنے کی نوعیت۔  
**سَلْتَة** - چوری۔ ٹوکری۔ ج۔:۔ **اَسَلَال**۔  
**سَلَال** - سیل کی بیماری۔  
**سَلْتَم** - بلا سستی۔ بھوت۔ قحط۔ بہت بوڑھا  
 اونٹ جس کے تمام دانت گر گئے  
 ہوں۔ ج۔:۔ **سَلَالْتَم**۔  
**سَلْحَان** - (س) بھگنا۔ بچہ کا مال کا

داواجن کا انتقال ہو چکا۔ کوئی بچہ جو  
 مر چکا۔ ج۔: سَلَف - آسَلَف -  
 مص دن (گذر جانا - ختم ہو جانا۔ آگے  
 جانا۔) توشرفان پر (روغن ملنا۔  
 سِلْفَت - چھلکا۔ ساڑھو۔ ج۔: آسَلَف -  
 سَلَفَت - چکور کا بچہ۔ ج۔: سِلْفَان -  
 سِلْفَت - ڈوبھائیوں کی بیویاں۔ آپس میں ایک  
 دوسرے کی سلفہ کہلاتی ہیں۔ یعنی  
 دیر رانی اور جھٹانی۔  
 سِلْفَت - ناشتہ کا کھانا۔ وہ کھانا جو کسی آنے  
 والے کے لیے تیار کیا جائے۔ ج۔:  
 سَلَفَت -  
 سَلَق - (ن) چت گردانا۔ زبان سے تکلیف  
 دینا۔ اور سخت بات کہنا۔ چت کا  
 کر جماع کرنا۔ توشرفان وغیرہ پر  
 روغن ملنا۔  
 سَلَق - موصل میں ایک بلند پہاڑ کا نام۔ چوپایہ  
 کی پشت کے زخم کا نشان۔  
 سِلَق - چقدر بھڑیا۔ ج۔: سَلَقَان -  
 سَلَقَت - اچھی مٹی والی ہموار زمین۔ ج۔:  
 آسَلَق - سَلَقَان -  
 سِلَقَت - زبان دار اور ہد زبان عورت۔ ج۔:  
 سَلَقَان بھڑیے کی مادہ۔ ج۔: سِلَق -  
 سَلَقَم - سخت جگہ۔ ج۔: سَلَقَم -  
 سَلَك - سَلُوك - (ن) چلنا۔ چلانا۔ بھرننا۔  
 (گر بیان میں) ہاتھ ڈالنا۔  
 سَلَك - چکور کا بچہ۔ ج۔: سَلَكَان -  
 السَلَك التَّبْرَقِي - تار بقی کا آہنی تار (د)  
 سِلَكَة - ڈورا۔ ج۔: سِلَك - آسَلَاك -

پانی بہانا۔ کھانا۔  
 سِلْسَلَت - زنجیر۔ ج۔: سَلَا سِل -  
 سَلَط - زبان دراز۔ ملک شام میں ایک مقام  
 لمبی زبان والا آدمی۔  
 سَلَط - تسلط۔ تقرر۔  
 سَلَطَة - سلطنت۔ طاقت۔ حکومت۔  
 اقتدار (د)  
 سَلْطَان - حکومت۔ دلیل۔ قدرت۔ حاکم۔  
 بادشاہ۔ ج۔: سَلَا طِين - (م)  
 سَلْطَانَة - (ملکہ)  
 سَلْطَان الدَّم - خون کا بوش۔  
 سَلْطَانَة - زبان دراز عورت۔  
 سِلْطَة - لمبا اور باریک تیر۔ کپڑا جس میں بوس  
 وغیرہ بھرا جائے۔ ج۔: سِلْط - سِلْطَلْط -  
 سَلْع - پاؤں کی پٹن مص (ف) سرٹوٹ جانا۔  
 سَلْع - ایک تلخ درخت۔ زہر کی ایک قسم۔ مص  
 (س) پاؤں کا پھٹنا۔ نساو مزاج کی  
 وجہ سے ابلق ہو جانا۔  
 سِلْع - مثل ومانند۔ پہاڑ کا ٹکڑا۔ ہم عمرو  
 ہم زاد۔ ج۔: آسَلْع - سَلُوع -  
 سِلْعَت - تجارتی سامان۔ رسولی۔ ج۔: سِلْع -  
 سَلْم - (س) گوشت کا نہ پکنا۔  
 سَلْعَف - گول بدن کا موٹا تازہ۔ ج۔: سَلَا عَف -  
 سَلَفَت - توشرفان۔ ج۔: سَلُوف - آسَلَفَت  
 (ن) زمین میں بل چلانا۔ یا تختے سے  
 ہموار کرنا۔  
 سَلَفَت - ایک قسم کی بیج جس میں قیمت پہلے  
 دیدی جائے۔ قرض جو بغیر سود کے ہو۔ نیک  
 کام جس کو ذمیرہ آخرت بنایا گیا۔ باپ

سُنکی - سیدھا نیزہ منہ کے مقابل مارنا صبح  
دورست کام۔

سُنم - سیڑھی رکاب و سیدہ جہا۔ سَلَام۔

سُنم - ایک گوشہ کا ڈول جہا۔ اَسُنم  
سیلامہ مع (دن) سانپ کا کاٹنا۔

سُنم - صلح صلح کرنے والا۔ مذہب اسلام  
سلام۔ دعاء سلامتی جہا۔ سَلَام۔ اَسَلَام۔

سُنم - سلام۔ دعاء سلامتی۔ قیدی۔ ایک  
درخت جس سے دباغت دی جاتی ہے

وا۔ سُنمۃ - مص (س) قیمت  
کا پہلے سے دیدینا۔ کسی کی فرمانبرداری

میں گردن خرم کر دینا۔ قید کرنا۔  
سَلْمَان - ایک پہاڑ کا نام۔

سَلْمۃ - نازک اندام عورت۔ پتھر جہا۔ سَلَام۔  
سَلْمی - عورت کا نام۔ قبیلہ طے کا ایک پہاڑ۔

سَلْمَقَاع - کوند نے والی بجلی۔  
سَلْمُوسِی - (ن) س، خوش ہونا۔ بے غم ہونا

سَلْمُوغ - (ف) چھ سال کے دانت گرا دینا۔  
(گائے اور کبری وغیرہ کا)

سَلْمُوغ - پانی کی طرف آگے آگے جانے  
والا۔ تیز رفتار گھوڑا۔ جہا۔

سَلْمَف -

سَلْمُوَق - یمن کے اندر ایک گاؤں ہے۔  
جس کی طرف کتے اور زہر

منسوب ہیں۔  
سَلْمُوِی - شند۔ ایک پرندہ بلی کے مشابہہ جسے

ہندی میں گوآ کہتے ہیں۔ وا۔ سَلْمُوَاۃ۔  
ہر تسلی بخش چیز۔

سَلِیْب - چھینا ہوا۔ جس کی عقل زائل ہو گئی ہو۔

جہا۔ سَلْمِی - سَلْب۔

سَلِیْط - زبان دراز سخت۔ خوش تقریر۔ تیل  
کشید کیا ہوا۔ تیز رفتند۔

سَلِیْطۃ - زبان دراز عورت۔ جہا۔ سَلَاِط۔  
سَلِیْف - جو پہلے سے جا چکا۔

سَلِیْق - درخت سے جو پتہ وغیرہ جھڑ جائے۔  
راستہ کا کنارہ۔ جہا۔ سَلِیْق۔

سَلِیْقۃ - طبیعت یکاپا ہوا ساگ۔ نشان قدم۔  
جہا۔ سَلَاِیْق۔

سَلِیْل - بچہ نوزائیدہ۔ سوتی ہوئی تلوار۔ خالص  
شراب۔ جہا۔ سَلَاِل۔

سَلِیْلۃ - سوت کا تے کی پوتی۔ پیٹی۔ جہا۔  
سَلَاِیْل۔

سَلِیْم - سانپ کا ڈسا ہوا۔ زخمی قریب ہلاک  
جہا۔ سَلْمِی سَم کی بڑی۔ درست اور

ظلیک۔ آفت و مصیبت سے محفوظ۔  
جہا۔ سَلْمَاۃ۔

سَلْمِیْمَان - مشہور حلیل القدر پیغمبر جو حضرت داؤد  
علیہ السلام کے فرزند ارجمند تھے۔

## س۔

سَم - سوراخ۔ لومڑی۔ زہر قاتل۔ جہا۔  
سَمُوْم۔ بیمار۔ مع (ن) زہر

دینا۔ کھانے میں زہر ملانا۔  
سَمُّ الْفَاَس۔ سنگھیا۔

سَمُّ الْحَمَام۔ کثیر خور زہرہ۔  
سَمُّ السَّمَلِك۔ ماہی زہرہ کھاس

سَمُّ الْخِیَاط۔ سوئی کا ناگہ۔  
سَمُّ اَبْرَص۔ پھپکی۔

- سَمَاء - آسمان۔ ج۱۔ سَمَاوَات - چھت  
ہر چیز کا بلند حصہ۔ سائبان، گھوڑے  
کی بیٹھ۔ ابر۔ اچھی بارش۔ گھاس  
ج۱۔ اَسْمِیَّة -  
سَمَاجَة - بد صورتی مع (ك) بد صورت  
ہونا۔  
سَمَاح - سَمَاحَة - سَمَح - سَمَاح (ك)  
سخاوت کرنا۔ بخشنا۔  
سَمَاحَة (فِلان) تعظیمی لقب جو علماء کے  
نام یا ضمیر کی طرف مضاف ہو کر  
استعمال ہوتا ہے۔  
سَمَاح - کان کا سوراخ۔  
سَمَاط - دسترخوان۔ قطار۔ صف۔ ج۱۔  
سُنَط -  
سَمَاع - شنوائی۔ سنا ہوا۔ ذکر۔ ہر خوشگوار  
آواز۔  
سَمَاع - بمعنی السَمْع - سُن -  
سَمَاع - بہت سننے والا۔ ج۱۔ سَمَاعُون -  
سَمَاعَة - بہت تیز کان۔  
سَمَاق - خالص جھوٹ۔ ہر خالص چیز۔  
سَمَاک - جس سے کسی چیز کو بلند کریں ج۱۔  
سَمَک سینہ کا بالائی حصہ۔ ہنسی  
تک۔  
سَمَاک - مچھلیاں بیچنے والا۔  
سَمَاکان - دو ستارے۔ ایک کو سَمَاکِ اَعْتَمَل  
اور دوسرے کو سَمَاکِ اَرْمِ کہتے  
ہیں۔  
سَمَاحَة - آدمی کا جسم۔ پرندوں کی ایک قسم  
اچھے ہونے مکان کا نشان۔ جھنڈا۔
- تیز رفتار اونٹنی۔ ج۱۔ سَمَام  
سَمَان - گھی فروخت کرنے والا۔  
سَمَانَة - سَمَن - (ك) موٹا ہونا۔ فرہ ہونا۔  
سَمَانِی - ایک پرندہ ہے (واحد جمع)  
سَمَاحِیْم - ایک جزیرہ کا نام ہے۔  
سَمَادَة - چھت گیری۔ وہ پردہ جو چھت میں  
تانا گیا ہو۔  
سَمَت - راستہ۔ نیک طریقہ مع (ن)  
(ض) گمان اور شکل سے راہ چلنا۔  
(ض) رائے دینا۔  
سَمَتَة - نشان۔ داغ۔ ج۱۔ سَمَات - مع  
(ض) نشان کرنا۔ داغ کرنا۔  
سَمِج - بد صورت۔ برا۔ ج۱۔ سَمَاج -  
سَمَج - آسان سخی آدمی۔ جگہ کی لکڑی۔  
ج۱۔ سَمَجَاء -  
سَمَحَاق - باریک سرے والا پوست۔  
سَمَحَة - فیاض عورت ج۱۔ سَمَاح -  
ایک بادِ سخاوت کرنا۔ موافق اور نرم  
گمان۔ مذہب جس میں تنگی نہ ہو۔  
سَمَح - (ن) کان کے سوراخ پر مارنا۔  
کھیتی میں پھول کھلنے لگنا۔  
سَمَسْر - سَمُوس (ن) رات کو جاگنا اور افسانہ  
کہنا۔ شراب پینا۔ بیخ ٹھوکانا۔  
سَمَسْر - رات رات کا افسانہ۔ چاند کی  
روشنی۔ زمانہ۔ رات کی تاریکی۔ افسانہ  
گولی کی مجلس۔  
سَمَسْرَاء - گیموں۔  
سَمَسْرَة - گندمی رنگ مع (ك) س) گندم  
گون ہونا۔

سَمَك - مچھلی - ج: ۱ - سَمَاك - سَمُوَك  
 سَمَكَة - ایک مچھلی۔  
 سَمَل - (ن) حوض وغیرہ صاف کرنا۔ اندھا  
 کر دینا۔ آنکھ نکال لینا (بین) صلیح  
 کرانا۔  
 سَمَل - پرانا کپڑا۔ حوض میں بچا ہوا پانی۔ ج: ۱۔  
 اَسْمَال  
 سَمَكَة - سَمَكَة - حوض اور برتن میں تھوڑا سا  
 بچا ہوا پانی۔ ج: ۱۔ سَمُول - اَسْمَال۔  
 سَمَلَق - چٹیل میدان۔ ج: ۱۔ سَمَلِق۔  
 سَمَلُوخ - کان کا میل۔  
 سَمَن - گھی۔ سکہ۔ ج: ۱۔ اَسْمَن۔ سَمُون۔  
 سَمَنان - مص (ن) چرب کھانا  
 کھلانا خود کو گھی میں تر کرنا۔  
 سَمَنَة - ایک گھاس۔ موٹا پے کی دوا۔  
 سَمَنَد - گھوڑا (فارسی)  
 سَمَنَدَا - سَمَنَدَل - ہندوستان کا ایک پرندہ  
 کہ آگ میں نہیں جلتا۔  
 سَمَنِيَة - ہندوستان کی ایک بُت پرست  
 قوم ہوتنساخ کی قائل ہے۔  
 سَمَهْرِي - درست اور سیدھا نیزہ۔ سَمَهَر۔  
 ایک شخص جو نیزہ بناتا اور درست کرتا  
 تھا، کا بنایا ہوا نیزہ۔  
 سَمُو - (ن) بلند ہونا۔ شکار کے لیے نکلنا۔  
 نظر کرنا (ب) بلند کرنا۔  
 سَمُوَد - (ن) تکیا اور سخت سے ہراٹھانا۔ چلنے  
 میں خوب کوشش کرنا۔ چڑھنا۔  
 سَمُوَسا - ایک جانور جس کی کھال کی پوستیں  
 نہایت قیمتی ہوتی ہے۔ ج: ۱۔ سَمَاوِيَر۔

سَمَرَة - جھاڈو کا درخت۔ ج: ۱۔ اَسْمَس۔  
 سَمَسَار - ایچی۔ دلال۔ ج: ۱۔ سَمَا سَمَرَة۔  
 سَمَسَارُ الْأَرْض - جزا و حال زمین سے خوب واقف ہو۔  
 سَمَسَرَة - احوال زمین کا اچھی طرح ماہر ہونا۔  
 (د) قومہ خانہ۔  
 سَمَسَم - لوطی ٹھنگنا بیٹریا۔ ج: ۱۔ سَمَا سَم۔  
 سَمَسَم - سرخ چوڑی وا۔ سَمَسَمَة۔  
 ج: ۱۔ سَمَا سَم۔  
 سَمَسِم - دھنیا تل (کنجد) وا۔ سَمَسِمَة۔  
 ایک تل۔ ج: ۱۔ سَمَا سَم۔  
 سَمَسَمَة - لوطی کا دوڑنا۔  
 سَمَط - موٹی کی لڑی۔ گلے کا ہالہ۔ پگڑی کا شملہ  
 چادر۔ چست و عقل مند۔ تیز دست  
 شکاری۔ ج: ۱۔ سَمُوَط۔  
 سَمَط - (ض۔ ن) (دھیری) تیز کرنا۔ لٹکانا۔  
 سَمَح - شنوائی۔ کان بستی ہوئی بات۔  
 ج: ۱۔ اَسْمَاع۔ اَسْمَح۔ جج۔  
 اَسْمَاح - مص (س) سنا۔  
 [من۔ ل] قبول کرنا۔ اطاعت کرنا۔  
 (الی) کسی کی طرف کان لگانا۔  
 متوجہ ہونا۔  
 سَمَاعَة - سَمَاعِيَة - (س) سنا۔  
 سَمَح - ذکر خیر، ذکر خیر کرنے والا۔ لگڑا بگڑا کا بچہ  
 جو بیٹھے کے لطف سے ہو۔ (ہ)۔  
 سَمَحَة۔  
 سَمَعَة - ایک مرتبہ سنا۔ سننے والا کان۔  
 سَمَعَة - سننے والا (کان)  
 سَمَك - چھت کا زیریں حصہ۔ ہر چیز کی بلندی۔  
 مص (ن) بلند کرنا۔ بلند ہونا۔

سَنَن - چھری وغیرہ کو سَنَن پر تیز کرنا۔ سَنَن  
(بھال) کو نیزہ میں بٹرنا۔ مسواک کرنا۔  
سَنَن مارنا۔ دانت توڑنا۔ پانی  
گُلانا۔ راستہ پر چلنا۔ مسلسل پانی  
بھانا (اور اگر ٹھیک ٹھیک کر سہاویں تو اسے  
سَنَن کہتے ہیں)

سَنَنَا - چمک

سَنَنَاء - بلندی۔ رفعت۔ علو۔

سَنَنَاب - سخت شہ۔

سَنَنَاب - لمبی پیٹھ اور لمبے پیٹ والی۔

سَنَنَاج - دیوار میں چراغ کے دھوئیں کا اثر۔

سَنَنَاد - رسید۔ بیع نامہ (د)

سَنَنَار - بلی۔

سَنَنَاط - کوسہ آدمی جس کے ڈاڑھی نہ ہو یا صرف  
ٹھوڑی پر ہو۔ اور رخسار سے صاف  
ہوں۔ ج:۔ سَنَنَاط - آسَنَاط۔

سَنَنَاطَة - (ک) کوسہ ہونا۔

سَنَنَاف - اونٹ کے سینہ کا اگلا حصہ۔ رسی جو

اونٹ کے سینہ پر باندھتے ہیں۔

ج:۔ سَنَنَاف۔

سَنَنَام - کوٹان۔ ج:۔ آسَنَنَام۔ ہر چیز کا بلند حصہ

سَنَنَان - نیزہ اور کھڑکی کا تیز سرا۔ ہر چیز کی تیز

ٹوک اور تیز حصہ ج:۔ آسَنَنَام۔ جس پر

تلوار وغیرہ تیز کریں۔ یعنی سَنَن۔

سَنَنَابَا - شریف آدمی۔

سَنَنَاب - تیز قدم اور بہت دوڑنے والا۔

گھوڑا۔ ج:۔ سَنَنَاب۔

سَنَنَابَت - زمانہ کا ایک حصہ۔ زمانہ ج:۔ سَنَنَابَت۔

سَنَنَابَة - بدخلقی جس کے ساتھ زور رکھی بھی ہو۔

سَمُوْد - تیز رفتار اونٹنی۔

سَمُوْع - سننے والا۔ ج:۔ سَمُوْع۔

سَمُوْق - (ن) دراز ہونا۔ بلند ہونا۔

سَمُوْك - (ن) بلند ہونا۔ دراز ہونا۔

سَمُوْل - (ن) کپڑے کا پرانا ہوجانا۔

سَمُوْم - لوہ۔ ج:۔ سَمُوْم۔

سَمُوْه - (ف) اتنا چلنا کہ جس سے ٹھکن نہ

پیدا ہو۔ مدہوش و متعیر ہونا۔

سَمُوِي - ہنمام۔ ماشل و مانند۔

سَمُوِي - چھوٹا نام (اسم کی تصریح ہے)

سَمُوِيْد - میدہ۔

سَمُوِيْر - افسانہ گو۔

سَمُوِيْط - بھوننے کے لیے بکری کا بچہ جو بالوں سے

پاک و صاف ہو۔ سبک چال مرد۔

پہلی اینٹوں کا ردہ۔

سَمُوِيْع - سننے والا۔ سننے والا۔ خدا تعالیٰ

کے اسماء صفات میں سے ایک اسم۔

صفت یعنی اس کے ہر چیز کا جاننے والا

شیر خوردہ سے آدمی وغیرہ کی آہٹ

معلوم کرے۔ سننے والا کان۔

سَمُوِيْكَاء - مچھلی کا بچہ جسے کھالیں۔

سَمُوِيْن - موٹا۔ ج:۔ سَمُوِيْن۔

سَمُوِيْشَة - وہ زمین جس میں خالص مٹی ہی مٹی ہو۔

پتھر نہ ہوں۔

## س - ن

سِنَن - دانت۔ زبانِ قلم۔ درانتی کا دندانہ۔ سال

ج:۔ آسَنَن۔ آسَنَن۔ آسَنَن۔

عزیم عز۔ ج:۔ آسَنَن۔

وہاں کے باشندے اکثر بخارا میں  
مبتلا رہیں۔

سُنَخْتَه - بدبو۔

سُنْد - ایک ملک کا نام۔ اس ملک کے  
باشندے ایک دریا کا نام۔ اندلس کا  
ایک مقام۔ بلاد مغرب کا ایک شہر۔  
سُنْد - اونچا چیز جس پر کمر لگائیں۔ پہاڑ۔ سہاڑ  
حدیث کے راویوں کے ناموں کا  
سلسلہ۔ ج: ۱۔ اَسْتَاد۔

سُنْدَان - لوہار کا ایک اوزار جس پر رکھ کر لوہے  
پر چوٹ ماری جاتی ہے۔

سُنْدُس - ایک ریشمی کپڑا۔ دیا۔  
سُنْدُوْق - صندوق۔

سُنْف - درخت آتش زد کا پتہ۔ باقلا کا چھلکا۔  
جس کا دانہ کھایا ہو۔ ج: ۱۔ سُنْفَه -

سُنْف - (ن ض) اونٹ کے سینہ پر رسی  
باندھنا۔ آگے نکل جانا۔

سُنْق - (س) باغیچہ خراب ہو جانا۔

سُنْم - بلند گھاس جس میں کلی نکل آئی ہو۔  
بلند کوبان والا اونٹ۔

سُنَن - روش۔ طریقہ۔

سُنَنُ الطَّرِيقِ - کھلا راستہ۔

سُنُو - (ن) سیراب کرنا۔ بلند ہونا۔ راگ کے  
شعلوں کا، بجلی چمکانا۔ کھولنا۔

سُنُوْت - مکہ۔ پنیر۔ شدید۔

سُنُوْخ - سُنُوْخ [ل] ظاہر ہونا آسان ہونا [عن]  
پھر دینا [و علی] گناہ میں ڈال دینا۔

سُنُوْخ - (ن) [فی] کسی چیز میں مضبوط اور  
راسخ ہونا۔

سُنَيْك - چوپایہ کے سم کا اگلا حصہ۔ ج: ۱۔ سَنَائِك۔

سُنَيْل - ایک خوشبودار بوٹی۔ خوشہ۔ ج: ۱۔

سَنَائِل -

سُنْبَلَه - خوشہ۔ ج: ۱۔ سَنَائِل - آسمان کا  
ایک بوج۔

سُنْبَلَه - کھیتی میں خوشہ آجانا۔ کپڑے کو  
کھینچنا۔

سَنَخ - سال۔ قحط۔ قحط زدہ زمین۔ ج: ۱۔  
سِنُوْن - سَنَوَات -

سِنَه - نیند کی سرگرائی۔ غنوغی۔ اونگ۔  
مص (ض) اونگنا۔

سِنَه - درہم کی ہز۔ دو شاخہ۔ تیز لہسن کا  
ایک جوا۔ ج: ۱۔ سِنَن -

سِنَه - عادت۔ طبیعت۔ روش۔ طریقہ۔ چوہ  
صورت۔ پیشانی۔ ج: ۱۔ سِنَن -

سِنَه اللہ - خدا کا حکم۔ خدا کا امر و نہی۔

سِنَجَاب - ایک جانور۔ بلی سے چھوٹا۔ ترکستان میں  
ہوتا ہے۔ جس کے بال نہایت نرم

ہوتے ہیں اور اس کی کھال کی پوستیں  
نہایت بیش قیمت ہوتی ہے۔

سِنَجَه - سنگین۔ (د)

سِنَجَهُ الْيَمِينَان - باط۔

سِنَجَرَف - شکرگف کا عرب۔

سِنَجِن - جھنڈا علم صنلع

سِنَخ - (س) خراب و متغیر ہو جانا۔ کھانا۔  
بہت کھانا۔

سِنَخ - بخارا کی تیزی۔ دانت کی جڑ۔ ج: ۱۔  
اَسْنَاخ -

سِنَاخ - جس شہر کی آب و ہوا خراب ہو۔ اور

سُوْدُ الْعَمْسِ - دن، (انی) کرگنا۔ (فی) [پسٹ پر  
چڑھنا] [قریب پہنچنا۔  
سُوْدُ الْعَمْسِ - بلی۔ سردار۔ گردن میں ہڈی کے ٹکے۔  
دم کی جڑ۔ ج۔ ۱۔ سَتَايِيْتُو۔  
سُوْدُوع - سِنَاعَة - (ن۔ ف۔ ك) خوبصورت  
ہونا۔ اچھا ہونا۔  
سُوْدُون - منجن۔  
سُوْدِي - بلند۔  
سُوْدِي - (ض) کھونا۔ آسان و نرم کرنا۔  
سُوْدِي - دس، بلند ہونا۔  
سُوْدِيَج - چسرخ۔  
سُوْدِيَعَة - پہاڑی راستہ۔ خوب صورت  
عورت۔ موزوں اندام، نرم و نازک۔  
ج۔ ۱۔ سَتَايَع۔  
سُوْدِيْن - بڑا۔ ہم عمر۔ ہم چولی۔ تیز کی ہوئی چھری  
وغیرہ۔ زمین جس کی گھاس چرلی  
گئی ہو۔ ج۔ ۱۔ آيَسَاء۔  
سُوْدِيْنَة - ریت کا اونچا ٹیلہ۔ ج۔ ۱۔  
سَتَايِن - ہوا، ہجولی۔  
سُوْدُوع - بے خیر آدمی۔ بد آدمی۔  
سُوْدُوع - سُوْدُوع - سُوْدُوعَة - سُوْدُوعَة - سُوْدُوعَة -  
سُوْدُوعَة - سُوْدُوعَة - سُوْدُوعَة - سُوْدُوعَة - سُوْدُوعَة -  
سُوْدُوع - بدمی۔ غم۔ نگاہ کی کمزوری۔ خون بگڑ  
جانے سے برص کی بیماری۔ خیانت۔  
آفت۔ آگ۔  
سُوْدُوعُ الْحِسَاب - میزان اعمال میں اعمال کا پورا نہ  
اترنا۔

سُوْدُ الْعَمْسِ - بہت بڑھاپا اور لاچارگی کا زمانہ۔  
سُوْدُوع - بری عادت۔ بدصورت عورت۔  
سُوْدُوع - (ن) بدصورت اور قبیح ہونا۔  
سُوْدُوع - بجز۔ مثل۔ مانند۔ (واحد و جمع۔ مذکر و  
مؤنث، ج۔ ۱۔ آسُوْدُوع - سُوْدُوعَة - سُوْدُوعَة -  
سُوْدُوعُ التَّرَاس - سر کا بالائی حصہ۔  
سُوْدُوعَة - قابل شرم امر۔ رسوائی۔ سخت برائی۔ بری  
عادت۔ ج۔ ۱۔ سُوْدُوعَات -  
سُوْدُوع - آواز مص (مفاعلہ) کسی سے راز  
کھنا۔ سرگوشی کرنا۔  
سُوْدُوع - جسم۔ بدن۔ بہت مال۔ سیاہی۔ شر  
کے گاؤں۔ نواح۔ جماعت۔ عام  
لوگ۔ دل کا سیاہ نقطہ۔ ج۔ ۱۔  
آسُوْدُوعَة - جج۔ آسُوْدُوع۔  
سُوْدُوعُ الْاَمِيْن - امیر کا مال و اسباب۔  
سُوْدُوعُ الْبَطْن - بگڑ۔  
سُوْدُوع - شراب کی تیزی۔ ہر چیز کی تیزی۔  
سُوْدُوع - مدہوش جس کو شراب کا نشہ جلد چڑھے۔  
جوبات جلد ذہن کشین ہو۔ شیر۔  
سُوْدُوع - ایک مرض جو گھوڑے کی گردن میں ہو  
جاتا ہے اور گردن کو سکھا دیتا ہے۔  
سُوْدُوع - سپاہی جو کوڑے لگانے پر مقرر ہو۔  
ج۔ ۱۔ سَتَايُون۔  
سُوْدُوع - نوح علیہ السلام کی قوم کا ایک بت۔  
مذی یا دودی۔  
سُوْدُوعَة - سرپستان کے سوراخ۔ دریا کی طرف  
جانے والے ندی نالے  
سُوْدُوع - گلے میں اٹکے ہوئے نالہ کو جو چیز نیچے  
اتار دے۔



سَوَات - ہلاک مص (س ن) ہلاک ہونا۔  
 سَوَاتِق - تند والا۔ موٹی پنڈلی والا۔  
 سَوَاقِط - نیچے نیچے پہاڑ۔  
 سَوَاك - نرم و آہستہ چال۔  
 سَوَاك - مسواک۔  
 سَوَال - سَأَلْتِ - سَأَلْتِ (ف) چاہنا۔  
 مانگنا (عن) پوچھنا۔  
 سَوَاي - راست ہموار۔ برابر۔ بیچوں بیچ۔  
 سَوَام - چرنے والا۔  
 سَوَام - قیمت۔ ایک پرند۔  
 سَوَاج - سَوَاجَان - (ن) جانا اور کچھ دیر  
 بعد آجانا۔  
 سَوَاح - (ن) (ف) کسی چیز میں گھس جانا۔  
 غائب ہو جانا۔  
 سَوَد - (س) کالا ہو جانا۔  
 سَوَد - ہموار۔ دامن کوہ جس میں کالے کالے  
 سنگریزے بہت ہوں۔  
 سَوَد - کالے مرد۔ وا: آسَوَد - کالی عورتیں۔  
 واحد سَوَدَاء - سرداری مص (ن) سردار  
 ہونا۔  
 سَوَدُ الْبَطُون - ڈبلے۔  
 سَوَدُ الْكِبَاد - دشمن لوگ۔  
 سَوَدَاء - ہر چیز پرانی گلی ہوئی کالی (مؤنث)۔  
 سَوَدَاءُ الْقَلْب - دل کا سیاہ دانہ۔  
 سَوَدَق - سَوَدَنِيْق - شکرہ - باز  
 سَوَس - شہر پناہ۔ اصیل اور اچھی نسل کا  
 اونٹ۔ ج: آسَوَاس -  
 سیسوان۔  
 سَوَس - بچا ہوا۔ پس خوردہ۔ ج: آسَاس۔

سَوَس - سَوَدَر (ن) شراب کا دماغ پر اثر کرنا  
 اور نشہ چڑھنا۔ دیوار پر چڑھنا (الی)  
 کسی کی طرف کودنا۔  
 سَوَسْمَاة - ہر چیز کی تیزی اور جوش۔ بادشاہ کا  
 غصہ اور بے انصافی۔ بزرگی کا نشان۔  
 اور اس کی بلندی۔  
 سَوَدَةُ الْخَمْس - شراب کا نشہ۔  
 سَوَدَةُ الْخَمْسِي - بخار کی تیزی۔  
 سَوَسْمَاة - شرف و منزلت۔ قرآن مجید کی سورہ۔  
 دیوار کا ہر ایک روہ۔ اچھی اور اونچی  
 عمارت۔ نشان۔ علامت۔ ج:۔  
 سَوَس - سَوَس۔  
 سَوَدَةُ الْاَحْبَاَس - سورہ مائدہ۔  
 سَوَرِيَا - ملک شام کا وہ حصہ جو دمشق سے  
 متصل ہے۔ سیریا۔  
 سَوَس - اصل۔ طبیعت۔ ملٹھی کا درخت۔  
 کیرا (اون وغیرہ کا)  
 سَوَس - (س) کسی چیز میں کپڑے پڑ جانا۔ بکری  
 کا بہت جوئیں والی ہونا۔  
 سَوَسْمَا - ملک سوئزر لینڈ۔ (د)  
 سَوَسْن - ایک پھول ہے۔ دو قسم کا ہوتا ہے۔  
 سپید و نیلگوں ج:۔ سَوَاسِن۔  
 سَوَسِيَالِيَه - سوئڈن۔ (د)  
 سَوَط - کوڑا۔ عذاب کا حصہ۔ سختی۔ شدت  
 پانی کے جمع ہونے کی جگہ ج:۔ آسَوَاط۔  
 سَوِيَاط - (ن) کسی چیز کو دوسری چیز  
 میں ملانا۔ کوڑے سے مارنا۔  
 سَوَع - مص۔ (ن) اپنی خوشی سے چرنا  
 بیکار رہنا۔

سَوْم - بھاؤ مع (ن) (ب) بھاؤ گزنا (ل) کسی کام کے لیے تکلیف دینا (علی) گرد گھومنا۔ اونٹوں کا چرنا۔ ہوا کا چلنا۔ اور جلد گزر جانا۔

سَوْم - ملول۔

سَوْمَة - قیمت۔ نشان و علامت۔

سَوْمِی - سیدھا۔ برابر۔

سَوْمِی - بدی بھائی (فرد حسن) آگ سخت عذاب

یسوی - برابر سیدھا۔ وسط۔ سوا۔ قصد

نشان و علامت۔

سَوْتِی - برابر۔ ہموار۔ کامل الخلقیت۔ ج۔

سَوْتِیَا۔

سَوْتِیَة - راستی و برابری۔ وہ کپڑا وغیرہ جس میں گھاس باندھ کر ٹوٹ پر رکھتے ہیں۔

ج۔ سَوْتِیَا۔

سَوْتِیَاءُ الْقَلْبِ - دل کا سیاہ دانہ۔

سَوْتِیْسَا - سوٹزر لینڈ (ایک یورپین ملک)

سَوْتِیَطَا - شور با جس میں پانی اور مصالحہ زیادہ ہو۔

سَوْتِیَطَة - مخلوط۔ ملی ہوئی۔

سَوْتِیَحَة - چھوٹی گھڑی۔ مہوڑا سا وقت (سَاعَة کی تصغیر)

سَوْتِیْن - ستور۔ شراب۔ ج۔ آسَوْتِیَة

سَوْتِیَل - ہمسر۔ برابر۔ مانند۔

## س-۵

سَسَه - حلقہ در۔ سرین۔

سَسَهَاد - بیماری۔

سَسَهَاس - بیدار۔

سَسَهَاکَة - (ک) نرم ہونا۔ آسان ہونا۔

سَاعَة (سَوَعَاء بہت سخت گھڑی۔ سخت زمانہ۔

سَوَعَاء - مذی یا دوی۔

سَوَعِغ - (ن) پانی وغیرہ کا آسانی سے گلے

میں اترنا۔ آسانی سے گلے میں اتارنا۔

جائز ہونا۔

سَوَف - ایک حرف جو استقبال بعید کیلئے آتا ہے۔

سَوَف - صبر و استقلال۔ نتیجہ۔ مص۔

(ن) دبا پھینا۔ ریگستان کی زمین

میں پہنچنا۔

سَوُق - بازار۔ ج۔ آسَوَاق۔ پنڈلیاں۔

۱۔ سَاق۔

سَوُقُ الْحَرَبِ - لڑائی میں بہت سخت جگہ۔

سَوُق - تشریا پنڈلی کی خوبصورتی (مص) (س)

خوبصورت پنڈلی والا ہونا۔

سَوُق - سیبیا قنہ۔ (ن) ہانگنا۔

سَوُق - سیبیا قی (ن) بیمار کا حالت

جان کنی میں داخل ہونا۔ پنڈلی پر مارنا۔

مہر کے جانور وغیرہ کو بومی کے پاس

پہنچانا۔

سَوُقَة - بیچ لوگ (واحد و جمع)۔ مذکر و مؤنث)

سَوُك - (ن) ملنا۔ مسواک کرنا۔

سَوَل - سستی۔ ڈھیلا پن (مص) (س) زیر

ناف کا ڈھیلا اور نرم ہونا۔

سَوَل - مطلوب۔ چاہا ہوا۔

سَوَلَاء - بڑا دل۔ وہ عورت جس کا زیر

ناف سست و نرم ہو ج۔ سَوَل۔

سَوَلَة - خواہش۔ چاہا ہوا۔

سَوَلَة - سَوَلَة بہت سوال کرنے والا۔

سہما - لاغری، ہاریکی، چہرہ کے رنگ کا تغیر۔  
 سہما - ٹوکی گرمی، شیطان کا ہتوک جو سخت  
 گرمی میں فضا کے اندر مگڑی کے جانے  
 کی طرح معلوم ہوتا ہے۔

سہد - بیداری۔

سہد - کم سونے والا۔ تیز ذہن۔

سہد - (س) بیدار ہونا۔ جاگنا۔

سہدۃ - دل کی بیداری۔ بیدار دلی۔ ہوشیاری۔  
 معتمد۔

سہس - بیداری مص (س) بیدار ہونا۔

سہران - بیدار۔

سہرۃ - شام کی دعوت (د)

سہرۃ - خوب جاگنے والا۔

سہک - (ف) گھسنا تیزی سے گزر جانا۔  
 (ہوا کا)

سہک - پسینہ اور پھیلی اور گوشت کی بد بو۔  
 مص (س) بد بو دار ہونا۔

سہل - نرم۔ ج۔:۔ سہول۔

سہل الخدائین - جس کے رخسار پھولے ہوئے  
 نہ ہوں۔ پلکے ہوں۔

سہل الوجہ - جس کے چہرہ پر گوشت کم ہو۔

سہل الخلق - نرم خو۔ خوش اخلاق۔

سہکتہ - بالویت۔ سخت اور کھردار ریت۔

سہکتہ - ریتلی زمین۔

سہم - آفتاب کی کرنیں۔ پیاس۔ گرمی۔ حکماء  
 و عقلاء۔

سہم - حصہ۔ ج۔:۔ سہمان۔ سہمتہ۔

آسہم تیر۔ قرعہ کا تیر۔ جوئے کا  
 تیر۔ ج۔:۔ سہمام۔

سہمتہ - قرابت۔ حصہ۔ قسمت۔

سہو - آرام۔ نرمی۔ نرم خو۔ آسان کام۔ بیٹھا

پانی ج۔:۔ سہا۔ کھیل۔

سہو - سہو۔ (ن) (فی) بھولنا بغفلت کرنا

تاز میں بھول کر کچھ چھوڑ دینا۔ یا بڑھا

دینا۔ یا ایک فعل کی جگہ دوسرا کرنا۔

سہوآء - رات کا کچھ حصہ یا اول شب۔

سہوان - غافل۔

سہوۃ - گھر کے صحن کے آگے کا پردہ۔ روشن دان

ایک خیمہ جسے پانی کے کنارہ سایہ حاصل

کرنے کے لیے نصب کرتے ہیں۔ پتھر

کی چٹان۔ ج۔:۔ سہا۔

سہوک - (ن) آہستہ چلنا۔

سہول - دست آورد۔

سہولتہ - (ک) زمین کا نرم ہونا۔

سہلی - ایک چھوٹا ستارہ جو بنات نعش

صغریٰ میں ہوتا ہے۔

سہیل - ایک ستارہ جس کے نکلنے پر میوے

پک جاتے ہیں اور گرمی ختم ہو جاتی

ہے اور اولاد زنا یعنی گریہ معدوم

ہو جاتے ہیں۔

## س-ی

سی - مثل و مانند۔ ہموار و برابر۔

سیاب - کچی خوا۔ آدھ کچل خوا۔ وا۔ سیابۃ۔

سیاخ - کچا مکان۔ ج۔:۔ سیوخ۔

سیادۃ - سرداری مص۔ (ن) سردار ہونا۔

سیادۃ - قافلہ (د) موٹر۔

سیاستۃ - (ن) رعیت داری کرنا۔ ملک کا

- سیحان - شام میں ایک نمر۔ بصرہ کی ایک نمر۔  
بلقاء میں ایک بستی۔
- سیح - سیحان (ض) راسخ ہونا ثابت ہونا۔  
سیسہ - سردار سخی آدمی۔ عقل مند۔ برو بار۔  
مالک ج۔ ۱۔ سادۃ۔
- سیسہ - تسمہ ج۔ سیوس۔ (ض) جانا۔ ہانکنا۔  
لے جانا۔ تسمہ سے مارنا (د) سرد خطاب (ض)
- سیسہ - روش۔ عادت۔ سوالج عمری ج۔ ۱۔ سیسہ۔  
سیسہ - (علی) کسی پر تھکر کیا جانا۔ غالب ہونا۔  
سیسہ - طشت یا ٹونٹی دار تانے کا برتن۔
- سیسہ - سیوس (ض) پانی کا ہر طرف جاری ہونا۔  
سیسہ - ہر طرف جاری پانی۔
- سیسہ - (ض) شراب وغیرہ کو آسانی سے گلے  
میں اتارنا۔ خوشگوار ہونا۔
- سیسہ - سیکھ (ایک ہندوستانی قوم)  
سیسہ - تلوار ج۔ ۱۔ آسیاف۔ سیسہ۔
- آسیف - مص (ض) تلوار مارنا ہانکنا  
کا پھٹ جانا۔ ناخن کی چٹیں اکھڑنا۔
- سیسہ - ساحل دریا۔ ج۔ ۱۔ آسیاف۔
- سیسہ - بارش کا بادل جسے ہوا ہنکاٹے۔
- سیسہ - چوپایہ جسے دشمن لوٹ کر لے جائے وہ جس  
کے پیچھے شکاری چھپ جائے ج۔ ۱۔ سیسہ۔
- سیسہ - بننے والا۔
- سیسہ - پانی کی رو سیلاب۔ ج۔ ۱۔ سیسہ۔
- سیسہ - سیلان (ض) پانی وغیرہ کا جاری ہونا۔
- سیسہ - تلوار اور چھری وغیرہ کا وہ حصہ جو میان میں  
رہتا ہے۔ ایک ہیرا۔ ج۔ ۱۔ سیسہ۔
- سیسہ - پانی وغیرہ کی روانی۔
- سیسہ - نشان و علامت۔
- انتظام کرنا۔ ہر چیز کی مدد کو نگاہ رکھنا۔  
(د) پائٹیکس۔
- سیاسی - ماہر سیاست۔ پولٹیکل۔ (د)
- سیسہ - تلوار بنانے والا۔ تلوار والا۔ ج۔ ۱۔  
سیسہ
- سیسہ - کندر کا درخت۔ بھس میں ملی ہوئی کالی  
مٹی جس سے دیوار لپی جاتی ہے۔
- سیسہ - عورت کا مہر۔ روش و اسلوب۔
- مص (ن) پٹلی پر مارنا۔ ہانکنا۔
- سیسہ - (ن) پیچھے سے ہانکنا۔ ایک روش  
پر ہانکنا۔
- سیسہ - مدینہ سے ایک منزل پر ایک مقام۔  
ایک خار دار گھاس۔
- سیسہ - سیسہ۔ دودھ جو بھٹوں کے کناروں  
میں ہوتا ہے اور دوہنے سے قبل اتر  
پڑتا ہے۔ ج۔ ۱۔ سیسہ۔
- سیسہ - برائی۔ خطا۔ تحوط۔ عذاب۔ ج۔ ۱۔  
سیسہ۔
- سیسہ - پانی کی روش۔ ج۔ ۱۔ سیسہ۔  
ایک مشہور میوہ۔ سیسہ۔
- سیسہ - بارش بخشش۔ مال۔ گھوڑے کی دم  
کے بال۔ ج۔ ۱۔ سیسہ۔
- سیسہ - جاری پانی۔ ایک قسم کی چادر۔ دھاری دار  
کپڑا۔ ج۔ ۱۔ سیسہ۔ آسیح۔
- سیسہ - سیحان (ض) پانی کا بہنا (سایہ کا)  
پھرنا (چوپایہ کا) اپنی خوشی سے چلنا۔
- سیسہ - سیحان۔ سیسہ۔ سیسہ۔  
(ض) عبادت کے لیے زمین میں پھرنا  
سیسہ کرنا۔

سیمتہ - قیمت - نشان - علامت .

سیمتہ - نشان و علامت .

سیمتہ - حروف بجائیں سے ایک حرف

سین - نعل مضارع کو بمعنی مستقبل

کر دیتا ہے .

سیناء (طوس) - طور سینین - ملک

شام کے ایک مشہور پہاڑ کا نام

جہاں جا کر موسیٰ علی نبینا وعلیہ

الصلوة والسلام مناجات کیا کرتے

تھے .

سینین - رجنس ، ایک قسم کے درخت کا نام

و :- سینیئینہ -

سیمج - سیموج - سیموج - سخت اور

تیز ہوا .

سیمک - سیموک - سخت اور تیز ہوا .

سیمتہ - بدی - خطا - محط - عذاب .

## نش - ۱

نشاب - نوجوان آدمی . ج :- نشاب .

نشان - نشبہ -

نشابتہ - جوان عورت . ج :- نشوات .

نشایع - شکم سیر پیٹ بھر (اس لفظ کا استعمال

صرف اشعار میں جائز ہے)

نشابک - جیسے طریق نشابک . کھینچ راستہ .

پر گوشت اور نازک بدن رکھنا .

نشوب - بارش کی ایک رو . بڑی بڑی بوندوں

والا بادل . ج :- نشابدیب

نشابوس - فارس کے ایک بادشاہ کا نام .

(شاہ پور کا معرب)

نشآت - سرور ٹھنڈا .

نشاة - بکری - بکرا - عورت - نیل گائے - ج :-

نشایع -

نشائتہ - ٹھنڈی (صبح)

نشاج - دف ، ٹھکین ہونا -

نشاجب - ٹھکین . ہلاک ہونے والا . افسوس

کرنے والا . کواسی - سخت آواز والا

کوا .

نشاجس - روکنے والا . زمانہ کی سختی - ج :-

نشواجس -

نشاجن - ٹھکین .

نشاجتہ - بہت درختوں والی وادی - وادی

کے بلند حصے کا راستہ - ج :-

نشواجن -

نشاجم - چربی گھلانے والا - چربی فروخت

کرنے والا - چربی رکھنے والا -

نشاجن - بھرا ہوا - پر -

نشاجص - مسافر . نشاندہ سے چوکا ہوا تیز

(عین) نشاخصتہ - آنکھ بوشدت حیرت کی

وجہ سے پھٹی کی پھٹی رہ جائے .

نشاجد - بانکنے والا . شعر پڑھنے والا . قصد کرنے

والا . گانے والا - ج :- نشادا -

نشادین - ہرن کا بچہ جہاں سے بے پرواہ ہو -

ہر نوٹہ پوٹھیاں بھرتا ہوا -

نشادنج - شادانہ کا معرب - ایک چھوٹا نرم پتھر

سے مسور کے دانہ کے مشابہ -

نشادی - بانکنے والا . شعر پڑھنے والا - زبان

دان - ادیب . قصد کرنے والا . گانے

والا - ج :- نشادون - نشادا -

- شاذب - ٹھکانے سے دور پڑا ہوا۔ آبیلا کہ  
اپنی مخلصی سے مایوس ہو۔ بھٹکا ہوا۔  
ساعتیوں کو گم کیے ہوئے۔
- شاذب - شادانہ کا معرب۔
- شاذب - پانی پینے والا۔ ج ۱۔ شذوب۔  
حج - شذوب۔ مویجہ۔ ج ۱۔
- شذو اسراب۔
- شذابتہ - ندی کے کنارے کے رہنے والے۔
- شذاح - بیان کرنے والا۔ کھیتی کا محافظ۔  
جانورالذی والا۔ ج ۱۔ شذوح۔
- شذاخ - بچہ جو جوان ہو جائے۔ نوجوان۔  
ج ۱۔ شذخ۔
- شذاسد - بھاگنے والا۔ نفرت کرنے والا۔  
ج ۱۔ شذد۔
- شذاع - پانی میں داخل ہونے والا اونٹ  
گھر جس کا دروازہ سرراہ ہو۔ عالم  
ربانی۔ دانشمند جو تہذیب سکھائے
- ج ۱۔ شذوع۔ شذوع۔  
ستارہ جو غروب کے قریب ہو۔  
بڑا راستہ۔ مڑک۔ ج ۱۔
- شذواع۔
- شذاعۃ - سیدھا کیا ہوا نیزہ۔ ج ۱۔  
شذواسراع۔
- شذارف - پرانا تیر۔ عمر زیادہ ہونے سے جو  
بزرگی کے درجہ کو پہنچنے والا ہو۔
- ج ۱۔ شذارف۔ فتنہ۔ ج ۱۔  
شذرف۔
- شذارق - آفتاب جبکہ طلوع ہو۔ مشرق  
پورب۔ ج ۱۔ شذواسراق
- شذوق۔
- شاذب - ایک پہاڑ۔ جھاڑو۔ (جاروب کا  
معرب)
- شذاس - سخت اور پتھریلا۔ مص (دف) جامع  
کرنا (س) سخت ہونا۔ بلند اور  
سخت ہونا۔ (مجموعاً) بے چین ہونا۔  
ڈرنا۔
- شذاس - (س) سخت ہونا۔ سخت اور بلند  
ہونا۔ بے آرام ہونا۔ ڈرنا۔
- شذاب - سخت جگہ۔ دبلا۔ لاغر۔ ج ۱۔  
شذواب۔ شذوب۔
- شذاس - سخت اور پتھری زمین۔ ج ۱۔ شذاس۔  
شذاس - (س) سخت اور کھردرا ہونا۔
- شذاسع - ٹوٹی ہوئی جوتوں والا۔ دور و بعید۔
- شذاصبر - ہرن کا بچہ۔ (ہ) شذاصبرۃ۔  
ج ۱۔ شذو اصبر۔
- شذاطبۃ - پٹائی بننے کے لیے کھجور کی شاخ کو  
پھرنے والی عورت۔ ج ۱۔ شذو اطب۔  
مغرب میں ایک شہر کا نام۔
- شذاطۃ - راست قامت لڑکی۔ ج ۱۔  
شذو اط۔
- شذاطرپون - ثعلب مصری۔
- شذاطع - کنارہ۔ ج ۱۔ شذو اطع۔
- شذاع - مشترک۔ غیر منقسم جس کو حصہ  
داروں میں ہنوز تقسیم نہ کیا گیا ہو۔
- شذاعس - شعر کہنے والا۔ جاننے والا۔ شعور  
کرنے والا۔ ج ۱۔ شذعۃ۔
- شذاعۃ - پریشان خبریں۔ بیوی۔
- شذاعی - بعید۔ دور مشترک چیز۔ ج ۱۔ شذاعۃ۔

شَاغِل - مشغول کرنے والا۔

شَاغ - (دش) تلے میں زخم ہو جانا۔ ناخن کی جڑوں کا پھٹ جانا۔

شَاغ - شَاغَة - غصہ دلانا۔ نظر بد سے ڈرنا۔ ناخن کی چپٹیں اکھڑنا۔

شَاغَة - اصل جڑ۔ تلے کا ایک زخم۔

شَاغِر - عورت کی فرج کا کنارہ۔ رحم کا کنارہ۔

شَاغِع - سفارش کرنے والا۔ طاق کو جفت کرنے والا۔ ج۔ ۱۔ شَغَم -

(عَبْنُ) شَاغِعَة - بھیگی آنکھ۔ ج۔ ۱۔ شَوَافِع - شَاغ - پیاسا۔

شَاغِي - شفا دینے والا۔ صحت دینے والا۔ ج۔ ۱۔ شَغَاة -

شَغَاة - مشکل۔ دشوار۔ سخت۔ کٹھن۔

شَاغُول - گنڈا سا۔ معماروں کا ایک آلہ، جس سے چنالی کی اور زمین کی ہمواری

دیکھتے ہیں۔ مرد کا ذکر۔ ج۔ ۱۔

شَوَاقِيل -

شَاك - گمان کرنے والا۔ نیزہ میں بیندہ لینے والا۔ ج۔ ۱۔ شَكَاك -

شَاكُ السِّلَاح - (دش) مشدد و مخففہ، ہتھیار بند آدمی۔ تیز و چالاک۔

شَاكَة - خاردار۔

شَاكَة - شَيْكَة - (دش) خارستان میں آپڑنا۔ کاٹا لگنا۔ پھانس لگنا۔

شَاكِر - شکر گزار۔ مزدور۔ خادم (انیر کے دونوں معنی میں چاکر کا معرب)۔

شَاكِرِيَّة - نوکر۔ ملازم۔ ج۔ ۱۔ شَاكِرِيَّة -

شَاكِل - مشابہت۔ راستہ۔ کان کی لوکی

سپیدی۔

شَاكِلَة - راستہ۔ روشن۔ نیت۔ کنارہ

طرف۔ عقل۔ کوکھ۔ کان کی لوکی

سپیدی۔ گھوڑے کا زانو۔ ج۔ ۱۔

شَوَاكِل -

شَاكُوْس - ہتھوڑا۔ (د)

شَاكِي - تنقوڑا بیمار۔ شہر۔ شکایت (رگہ) کرنے والا۔ ج۔ ۱۔ شَكَاة -

شَاكِي السِّلَاح - شاٹک السلاح کا مقلوب۔

اپنے ہتھیاروں کی بدولت صاحب شوکت و بدبہ۔

شَال - شال (د)

شَاَم - (ف) بدفالی کرنا۔ غمناک ہونا۔

شَاوَم - بدفالی۔ نحوست۔ بدفالی۔ منحوس۔

کالے اونٹ۔

شَاَمَة - بائیں جانب۔

شَاَمَة - تل (خال) چاند کا داغ۔ ج۔ ۱۔

شَاَم - شَاَمَات - بدن کا کسی رنگ کا دھبہ۔

شَاَمَات - شَوَايِخ - بلند پہاڑ۔ اونچے

اونچے پہاڑ۔ وا۔ ۱۔ شَاَمِيَّة -

شَاَمِل - گھیرنے والا۔ سب کو پہنچنے والا۔

شَاَمَة - (ک) منحوس ہونا۔

شَاَمِيح - ملک شام کا۔ ج۔ ۱۔ شَاَم -

شَاَم - حال کام۔ قصہ۔ ج۔ ۱۔ شَاَمُون -

شَاَمَان - سر کی ٹہریوں کے جوڑ۔ ج۔ ۱۔

شَاَمُون - مصدق، ہوجانا۔

قصہ کرنا۔ ڈھونڈنا۔ دریافت کرنا۔

پروا کرنا۔ خبر دینا۔ بھلائی کا

مشہور

شَايَعَة - افواہ (د)

شَايِق - آرزومند شوق دلانے والا معشوق۔

شَايِكُ التَّسْلَاح - شَوْكُ التَّسْلَاح

شَايِكُ التَّسْلَاح - ہتھیار بند آدمی۔

تیز چالاک۔

شَاي - چائے (د)

شَايَة - سایہ۔ انگریز عورتوں کا لباس۔

## ش-ب

شَب - پھلکڑی، معنی (حن) آگ بھڑکانا

لڑائی براگینتہ کرنا۔ آگ بھڑکانا۔

شَبَائِك - خصوصیتیں جھگڑے۔

شَبَاب - جوانی، ہر چیز کا آغاز اور بہار۔

شَبَاب (دجوان کی جمع) معنی - (حن)

جوان ہوجانا۔

شَبَابَة - نوزائیدہ بچھو۔ زرد رنگ کا بچھو۔

بچھو کا ڈنک، جوتی کے دوسرے

ہر چیز کی تیزی، ج۔ ۱۔ شَبَابَات

شَبَابِي - ایک بلند درخت۔ شکار پر پٹا ہوا

کپڑا۔

شَبَابِيْق - کپڑے کے ٹکڑے کے ہونے گوشت

کی بوٹیاں۔

شَبَاعَة - (عقل کا) زیادہ ہونا۔

شَبَاعَة - وہ کھانا جو سیر حکم ہونے کے بعد

نہج رہے۔

شَبَابِك - شکاری لوگ جو چیز بانسوں وغیرہ

سے جال کی شکل کی بنائی جائے۔

شَبَابِي - ایک گھاس۔ بانسوں کا چٹا۔

کام کرنا۔ ستیاناس کرنا۔

شَاوِ - زنبیل۔ ہر چیز کی انتہا۔ تکمیل۔

میٹکنی۔ کنوئیں کی مٹی۔ معنی (د)

درگذر کرنا۔ سبقت کرنا۔ کنوئیں

میں سے مٹی نکالنا۔ کسی کو تعجب میں

ڈالنا۔

شَاوِيِي - بکری والا۔

شَاوِيِيَش - سار جھٹ۔ (د)

شَاوِيِيَجْرَج - شاہترجہ کا معرب (ایک دوا)

شَاوِيِيِد - حاضر و قیوم، ج۔ ۱۔ شَاوِيِيِد۔ شُكَل۔ گواہ

گواہی دینے والا۔ زبان۔ فرشتہ۔

جمع کردن۔ جلدی کا کام، ج۔ ۱۔

شَاوِيِيِد۔ جج۔ ۱۔ اَشْهَاد۔

شَاوِيِيِدَة - زمین، گواہی دینے والی۔ (د) نقل

ج۔ ۱۔ شَاوِيِيِد۔

شَاوِيِيِيَرَم۔ نازبو، تلسی، ریحان۔

شَاوِيِيِي - اونچا ہاڑ، اونچی تعمیر وغیرہ۔ ابھری

ہوئی رگ۔ اچھلنے والی رگ۔

شَاوِيِيِيَج - آلو بخارا۔

شَاوِيِيِي - ممتنی، آرزومند، ج۔ ۱۔ شَاوِيِيِيَة۔

شَاوِيِيِي البصير - تیز نظر۔

شَاوِيِيِيِي - باز (شکاری جانور) ج۔ ۱۔ شَاوِيِيِيِي

شَاوِيِيِيِيِي - ترازو کا کاٹا۔ ترازو کی

ڈٹلی۔

شَاوِيِيِيِيَة - آئینہ، ش۔ طاوٹ۔

شَاوِيِيِيِيَج - کام میں کوشش کرنے والا۔ غیرت مند

آہستہ چلنے والا۔ بڑے دم غم کا

گھوڑا۔

شَاوِيِيِيِي - غیر منقسم حصہ۔ مشترک۔ پھیلنے والا۔



کہ جس کا استعمال نساہ آب دہوا کے  
اثر کو دفع کرتا ہے۔ ایک بوٹی کہ اس  
کا تخم مسور کے مشابہ ہوتا ہے۔ ج۔ ۱۔  
شَبَّارِم۔

شَبْرَمَة - (مانہ) بلی۔ دھاگہ۔ ڈوری۔ رسی۔  
رسی وغیرہ کا لچھا۔

شَبْرَوَيْتَة - پلنگ۔ (د)

شَبْرَم - شَبْرَم - سیری مھن (س) سیر ہونا  
پیٹ بھر جانا۔ (من) [کسی چیز سے  
عاجز آ جانا۔

شَبْرَم - مقدار خوراک۔ کھانے کا انداز۔

شَبْرَعَان - شکم سیر۔ ج۔ ۱۔ شَبْرَع - شَبْرَعِی -

شَبْرَعَة - ایک خوراک۔

شَبْرَعَة - شکم سیر عورت۔

شَبْرَعِی - شکم سیر عورت۔ ج۔ ۱۔ شَبْرَع - شَبْرَعِی -

شَبْرَعِی الْخَلْجَانِ وَالْیَتَوَاسِر - بھرے بھرے

ہاتھ پاؤں والی کہ پازیب اور کنگھی

خوب پھنس کر آئیں۔

شَبْرَعِی الدَّعَاع - عورت جس کی کلاشیاں گداز

اور فرہ ہوں۔

شَبْرَق - (س) جماع کا بہت شوقین ہونا۔

(من) ناگوار ہونا۔ جی بھر جانا۔

شَبْرَك - کنگھی کے دندانے۔

شَبْرِك - (من) ایک دوسرے میں اس طرح داخل

ہونا جیسے پنجرے کرنے والوں کی انگلیاں

ایک دوسرے میں پڑ جاتی ہیں۔

شَبْرَكَة - قرابت۔

شَبْرَكَة - جال۔ جنگلی چوہے کا بل۔ ج۔ ۱۔

شَبْرَك - شَبْرَك - شَبْرَاک -

(کہ ان کو آڑا تر چھار کہہ کر چنا جائے)  
جنگلہ۔ ج۔ ۱۔ شَبْرَاک - شَبْرَاک -

شَبْرَاک - جال بنانے والا۔

شَبْرَام - شَبْرَام - وہ لکڑی وغیرہ جسے جانور

کے نیچے کے منہ سے باندھ دیتے ہیں

تاکہ دودھ نہ پیے۔

شَبْرَمَة - سویا (ایک ساگ)

شَبْرَمَة - ایک چھوٹا سا کپڑا۔ جس کے پاؤں

بہت ہوتے ہیں۔ ج۔ ۱۔ آشَبَاث

شَبْرَعَان -

شَبْرَم - وہ شخص جس کی فطری عادت تعلق

اور چسپیدگی ہو۔

شَبْرَم - (س) [ب] کسی چیز کے ساتھ متعلق

ہو جانا۔

شَبْرَمَة - جوان عورت۔

شَبْرَم - شَبْرَم - جسم بلند و فراخ۔ بلند دروازہ

ج۔ ۱۔ آشَبَاث - شَبْرَم -

شَبْرَم - بچھو۔ زبان سختی۔ مصیبت۔ ج۔ ۱۔

شَبْرَمَة -

شَبْرَم - بالشت جم آنتیاس۔

شَبْرَم - مہر۔ نکاح۔ سانڈ کی جفتی کی اجرت۔

سانڈ کی منی۔ قد و قامت۔ زندگی۔

مھن۔ کپڑے وغیرہ کو ہاتھ سے ناپنا۔

مال دینا۔ تنوار دینا۔ دعوائے کرنا۔

سانڈ کو جفتی کے لیے کرایہ پر دینا۔ سانڈ

کا جفتی کرنا۔

شَبْرَمَة - خراب کپڑا بننا۔ باز کا شکار کو کپڑا۔ باز

کا دوڑنا۔ کپڑا کاٹنا۔

شَبْرَم - پست۔ قد۔ ٹھیل۔ ایک خار دار درخت

شجرۃ - رتوند (شجرہ کا معرب)  
 شِئْبَل - شیر کا بچہ جو شکار کرنے لگے۔ ج۔۔  
 اَشْبَال - اَشْبَل - شِئْبَال -  
 شِئْبَح - جاڑا معص (س) سرد ہونا۔ ٹھنڈا ہونا۔  
 شِئْبُوب - (ض) بھڑکانا۔ بھڑکانا۔  
 شِئْبُوب - وہ چیز جس سے آگ بھڑکائی جائے۔  
 ماہر آراستہ کرنے والا۔ جوان نیل گائے۔  
 جوان بکری۔ یا بوڑھی نیل گائے اور بوڑھی بکری۔  
 شِئْبُوط - ایک قسم کی مچھلی۔ و۔۔ شِئْبُوطَة -  
 شِئْبُول - (ن) بچہ کا بڑھنا۔ اور ناز و نعمت میں تربیت پانا۔  
 شِئْب - شبہ۔ مانند۔ مثل۔ مشابہ۔ ج۔۔  
 اَشْبَاة -  
 شِئْبہ - مانند۔ مشابہ۔ ج۔۔ اَشْبَاة -  
 پتیل (دھات) ایک تخم شدانہ کے مشابہ۔  
 شِئْبہ جَزِيرَة - جزیرہ نما۔ (د)  
 شِئْبہ - مانند۔ وہ امر جس میں بھلائی برائی کا فیصلہ نہ کر سکیں۔ ج۔۔ شِئْبَات -  
 شِئْبِيعُ الغَزَل - بہت گھنا بنا ہوا کپڑا۔  
 شِئْبِيعُ العَقْل - بڑی عقل والا۔  
 شِئْبِيہ - مانند۔ ج۔۔ شِئْبَاة -

ش - ت

شَتْ - پرانگندہ۔ ج۔۔ اَشْتَات - شُتُوت -  
 پرانگندگی۔  
 شَتْ - شَتَات - شِتِيْت - (ض) پرانگندہ

کرنا۔ پرانگندہ ہونا۔  
 شِئْيَا - شِئْيَاءُ - قحط۔ کال۔  
 شِئْيَاء - موسم سرما۔ سردی کا موسم۔ جاڑا۔ (د)  
 بارش۔ ج۔۔ شِئْيِي - اَشْتِيِيہ -  
 شِتَات - متفرق۔ پریشان و پرانگندہ۔  
 شِتَامَة - (ک) بد صورت ہونا۔  
 شِتَامَة - ترش رویہ۔ بہت گالی دینے والا۔  
 شِتَان - دُور ہوا اسم فعل)  
 شِتَان يَدْنَهُمَا - دونوں میں بڑا فرق ہے۔  
 شِتْر - (ن) ض) کالنا۔ ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔  
 زخمی کرنا۔ پلک پلٹنا۔  
 شِتْر - (س) کٹ جانا۔ نچلا ہونٹ چرا ہوا ہونا۔ (ب) گالی دینا۔  
 شِتَع - (س) بیماری یا بھوک کے باعث گھبرانا۔  
 شِتْعُ - (ف) روندنا۔ پائمال کرنا۔ مطیع کرنا۔  
 شِتْم - (ض) ن) گالی دینا۔ گالی دینے میں غالب آنا۔  
 شِتْن - (ن) بٹنا۔ بننا۔  
 شِتْو - (ن) جاڑے میں قحط زدہ ہونا۔  
 کڑا کے کا جاڑا پڑنا۔ (ب) ایام سرما میں کہیں ٹھیزنا۔  
 شِتُون - نرم کپڑے۔  
 شِتْوِي - جاڑے کی بارش۔ جاڑے کا میوہ آگ (شِئْيَاء کی طرف منسوب)  
 شِتْيِي - جاڑے کی بارش۔  
 شِتِيْت - پرانگندہ۔ منتشر۔ متفرق۔ کشادہ۔  
 دانست۔ ج۔۔ شِئْيِي -  
 شِتِيْم - جس کو گالی دی گئی ہو (مذکر و مؤنث)

شجرۃ - رتوند (شجرہ کا معرب)  
 شِئْبَل - شیر کا بچہ جو شکار کرنے لگے۔ ج۔۔  
 اَشْبَال - اَشْبَل - شِئْبَال -  
 شِئْبَح - جاڑا معص (س) سرد ہونا۔ ٹھنڈا ہونا۔  
 شِئْبُوب - (ض) بھڑکانا۔ بھڑکانا۔  
 شِئْبُوب - وہ چیز جس سے آگ بھڑکائی جائے۔  
 ماہر آراستہ کرنے والا۔ جوان نیل گائے۔  
 جوان بکری۔ یا بوڑھی نیل گائے اور بوڑھی بکری۔  
 شِئْبُوط - ایک قسم کی مچھلی۔ و۔۔ شِئْبُوطَة -  
 شِئْبُول - (ن) بچہ کا بڑھنا۔ اور ناز و نعمت میں تربیت پانا۔  
 شِئْب - شبہ۔ مانند۔ مثل۔ مشابہ۔ ج۔۔  
 اَشْبَاة -  
 شِئْبہ - مانند۔ مشابہ۔ ج۔۔ اَشْبَاة -  
 پتیل (دھات) ایک تخم شدانہ کے مشابہ۔  
 شِئْبہ جَزِيرَة - جزیرہ نما۔ (د)  
 شِئْبہ - مانند۔ وہ امر جس میں بھلائی برائی کا فیصلہ نہ کر سکیں۔ ج۔۔ شِئْبَات -  
 شِئْبِيعُ الغَزَل - بہت گھنا بنا ہوا کپڑا۔  
 شِئْبِيعُ العَقْل - بڑی عقل والا۔  
 شِئْبِيہ - مانند۔ ج۔۔ شِئْبَاة -

ش - ت

شَتْ - پرانگندہ۔ ج۔۔ اَشْتَات - شُتُوت -  
 پرانگندگی۔  
 شَتْ - شَتَات - شِتِيْت - (ض) پرانگندہ

سانپ۔ نر سانپ۔ چھوٹا سانپ۔  
ج ۱۔ شَجَعَان -

شَجَاعَة - (ك) اندیشہ اور خوف کی جگہ  
دلیری کرنا۔

شَجَاعَة - دلیرو بہادر عورت۔ ج ۱۔ شَجَاع -  
شَجْع -

شَجَب - حاجت۔ ضرورت۔ سٹون خانہ۔  
ج ۱۔ شَجُوب - آشجَاب -

شَجَب - (س) ہلاک ہونا۔ غم گین ہونا۔ مر  
جانا (د) سزائے موت۔

شَجَب - ہلاک ہونے والا۔ نکلین۔

شَجَبَة - سر کی چوٹ۔ ج ۱۔ شَجَاج -  
شَجَج - (س) سر میں چوٹ لگنا۔

شَجَذَة - ہلکی بارش۔

شَجَص - شجصا۔ تندر دار درخت۔ ہر روئیدگی  
جو ساق دار ہو۔ و ۱۔ شَجَرَة -

شَجَص - شجاص۔ خاردار درخت۔

شَجَص - مختلف فیہ کام۔ ٹھوڑی۔ منہ۔  
ج ۱۔ آشجَاس -

شَجُوس - شجاس۔ مص (د) ہاندھنا  
روکنا۔ باز رکھنا (ب) (نیزہ) سے  
ماننا۔

شَجِآء - درخت۔ تندر دار۔ روئیدگی۔ بن  
وہ جنگل جہاں درخت کثرت سے ہوں۔

شَجِآء - بن۔

شَجِآء - چھوٹا نقطہ۔ بچہ کی ٹھوڑی میں۔ چیز کی  
مقدار اور انداز و ہیئت۔

شَجَرَة الطَّلُق - پنچہ مریم۔ ہتھا جوڑی۔

شَجَرَة الدَّه - شاسترہ۔

بد شکل آدمی۔ غضبناک شیر۔  
شَدِيمَة - گالی۔ ج ۱۔ شَتَاثِم -

## ش - ث

شَثَث - چھوٹے سب کے مشابہ ایک خوشبودار  
اور کڑوا درخت۔ جس کے پتوں سے  
دہانت دی جاتی ہے۔ شہد کی مکھی۔ پاڑ  
کی چوٹی جو ٹوٹ جاتے۔ ج ۱۔ شَثَاث -  
کثیر۔ بہت۔

شَثَر - پاڑ کا کنارہ۔ ج ۱۔ شَثُوس -

شَثَل - (س) موٹا اور سخت ہونا۔

شَثَن - شَثُونَة - (س) سخت ہونا۔ گھٹے  
پڑھانا۔

شَثَنُ الْأَصَابِع - سخت انگلیوں والا۔

شَثُولَة - (ك) موٹا اور سخت ہونا۔

## ش - ح

شَحَج - (ن - ح) (س) توڑنا۔ دریا، چیرنا۔  
(ر) گتے میں گھس کرنا۔ آمیختہ کرنا۔

شَحَجًا - وہ بڑی وغیرہ جو گھسے میں اکٹھا جائے۔  
مص (س) گھسے میں کوئی چیز اکٹھا جانا۔

شَحَاوَة - (س) نکلین ہونا۔

شَحَاج - آپس میں سر پھوڑنا۔

شَحَاار - شَحَاار - ہودج کی کٹری۔ اونٹ کا  
ایک داغ۔ وہ کٹری جسے جانور کے

بچے کے منہ سے بانڈھا جاتا ہے تاکہ دودھ  
نہ لے سکے۔ ج ۱۔ شَحُو -

شَحَاع - دلیر خوف اور سختی میں۔ ج ۱۔

شَحَجَة - شَحَاع - شَحَجَان -

شجرو - حاجت - رنج - مص - دن - نمکین  
کرنا - خوش کرنا - (میں) اختلاف  
بڑھانا -

شجوب - نمکین عورت -  
شجوب - شجب - (ن س) ہلاک ہونا -  
شجوب - ہلاک کرنا - نمکین کرنا - روکنا - کھینچنا -  
ہلاک ہونا -

شجون - (س ک) کم کرنا - نمکین ہونا - (ن)  
نمکین کرنا -

شجوی - شچی - ملول - نمکین -  
شجیبتہ - نمکین عورت - ج: - شجایا -

شجیبر - سرکشستہ - ج: - آشجاء -  
شجیر - بہت درختوں والا مقام - تلوار مسافر  
اجنبی - نالائق دوست -

شجیرۃ - بہت درختوں والی زمین ج: - شجائزہ -  
شجیح - بہادر - ج: - شجعاء - شجعان -  
(م) شجیعۃ - ج: - شجائزہ -

## ش - ح

شخ - شخ - بخیلی - کنبوسی - حوص - مص  
(ض - ف - ن) (ب) [بخل کرنا -  
حوص کرنا -

شخاح - بخیل - حویص - زمین جس پر بغیر کثیر  
بارش کے پانی جاری نہ ہو -

شخاذ - جھگڑاؤ - تیز کرنے والا - اصرار سے  
مانگنے والا - (د) گداگر - فقیر - ج: -  
شخا حذۃ -

شخاطۃ - فاسفورک - دیاسلفائی (د)  
شخام - چربی بیچنے والا -

شجرۃ النجین - دیودار -

شجرۃ طلیحہ - کھجور کا درخت -

شجرۃ ابراہیم - سنبھالو -

شجرۃ اللین - انجیر کا درخت -

شجرۃ الخطایفین - ہلدی -

شجرۃ شوکتہ - شجرۃ شایگہ - جھاڑ -  
جھاڑی -

شجریۃ - تین حرف ہیں - ش - ض - ج -  
(د) باغیچہ -

شجج - (س) چوپایہ کا چلنے میں ہلکے ہلکے  
پاؤں اٹھانا - دواڑ ہونا -

شجج - بہادر - دلیر - باؤلا اونٹ -

شجعاء - بہادر عورت - ناقۃ شجعاء -  
سبک رفتار اونٹنی -

شجعۃ - شجیعۃ - بزدل - لمبا اور لچکدار -  
شجیعۃ - بہادر عورت - ناقۃ شجیعۃ -  
سبک رفتار اونٹنی -

شججہ - لمبے غیبت لوگ - مصائب -

شججن - وادی کا راستہ - ج: - شجون -

مص - (ن) نمکین کرنا - روک رکھنا -

شجن - غم - درخت کی شاخیں جو ایک  
دوسرے سے پیوست ہوں - اور

گنجان ہونا - ہر چیز کی شاخ -

ج: - شجون - آشجان - مص -  
(س) نمکین ہونا -

شجنۃ - ہر چیز کی شاخ -

شجنۃ - انور کا ایک تختہ - گھما - پسلاؤ کا

شگاف - درخت کی آپس میں گھسی

ہوتی بڑیں -

شَحَامَةٌ - (ك) موٹا ہونا۔

شَحِيحَةٌ - بخل کی حالت۔

شَحِيحٌ - (ف) چھری وغیرہ تیز کرنا۔

شَحِيحَانٌ - شَحِيحٌ - (ف) من) خچر یا کوسے

کا آدا کرنا۔

شَحَذٌ - (ف) تیز کرنا۔ دفع کرنا۔ سوال میں

اصرار کرنا۔ چھیلا۔ (ب) نظر لگانا۔

(علی) غصہ کرنا۔

شَحَذَانٌ - خوب ہانکنے والا۔ بھوکا۔ چالاک

پھر تیرلا۔

شَحْرٌ - عمان اور عدن کے درمیان ایک

ساحل مص - (ف) منہ کھولنا۔

شَحْمُوحَةٌ - پرہیز مص تیزی سے اڑنا۔

شَحْصٌ - وہ چوپایہ جو دودھ دینے سے رک

جائے (واحد و جمع)

شَحْطٌ - شَحْوُوطٌ - (ف) دور ہونا۔ ذبح کرنا۔

بھڑنا۔ پرندہ کا بیٹ کرنا۔ مقبول کا

خون میں تڑپنا۔

شَحْمٌ - چربی کھانے والا۔ چربی کا شوقین۔

کم عرق والا انکور۔

شَحْمٌ - (س) چربی کھانے کا عادی ہونا۔

چربی کھانے کا شوق ہونا۔

شَحْمٌ - چربی جو۔ شَحْوَمٌ - مص (ف)

چربی کھلانا۔ چربی دینا۔ چربی ملنا۔

شَحْمَةٌ - چربی کا ٹکڑا۔ ایک پرندہ۔

شَحْمَةُ الْأَرْضِ - کیچوا۔ سفید کھنسی۔

شَحْمَةُ الْأُذُنِ - کان کی لو۔

شَحْمَةُ الْحَنْظَلِ - انداموں کا گودا۔ ایک

دوائے مسهل)۔

شَحْمَةُ السَّمَانِ - انار کے اندر کے زرد

چھلکے جو دانوں سے ملے ہوئے

ہوتے ہیں۔

شَحْمَةُ الْخَلِّ - کبھور کے درخت کی چربی۔

شَحْمَةُ الْعَيْنِ - سیاہی سے ملی ہوئی آنکھ کی

سپیدی۔

شَحْسٌ - (ف) بھڑنا۔ دفع کرنا۔ دور کرنا۔

بھٹانا۔ ہانکنا۔

شَحْسٌ - (س) (علی) کینہ رکھنا۔ بغض رکھنا

شَحْنَاءٌ - دشمنی۔

شَحْنَةٌ - کوتوال۔ کینہ۔ دشمنی۔ چند گھوڑے۔

بقدر کفایت گھوڑے۔ اس قدر

گھاس کہ ایک چوپایہ کو ایک دن رات

کے لیے کافی ہو۔ (د) پولیس۔

شَحْوٌ - (ن) منہ کھولنا۔ منہ کھلنا۔

شَحْوَبٌ - شَحْوَبَةٌ - (ف) - (ن) - (ك) رنگ

متغیر ہو جانا۔

شَحْيِمٌ - شَحِيلٌ - حریص۔ جہ۔ اَشْتَعَاءٌ - اَشْتَعَاءٌ

شَحَّاحٌ -

موٹا۔ فریب۔

## ش - خ

شَحْبٌ - دودھ کی دھار۔ خون۔ مص (ف)

ن) دودھ دوہنا۔ بہنا۔

شَحْبَةٌ - باریک۔ کمزوری کے باعث لاغر

آدمی۔ جہ۔ شَحْبَاتٌ -

شَحْبُودٌ - چھوٹی کشتی۔ (د)

شَحْرٌ - عنقوان شباب۔ گھوڑے وغیرہ کی

آواز، دن، چرنا۔ بھاڑنا۔ تتر بتر کرنا۔

## ش۔ د

شَد (ن۔ ض) دھڑنا۔ آگ کی لواٹھنا۔  
قوت پہنچانا۔ مضبوط کرنا۔ جھک کرنا (ض)  
ارادہ کرنا۔ سخت ہونا۔

شَدُّ الْيَمِينِ - لنگوٹ کسنا۔ تہ بند کس کر باندھنا  
مجازاً اعدوتوں سے قربت نہ کرنا۔

شَدُّ النَّهَاسِ - دوپہر کا وقت۔

شَدَّاقٌ - سختی۔ قحط۔

شَدَّاقٌ - ایک بار حملہ کرنا۔ (د) بڈل۔ پارسل۔  
شَدُّ ح - (ن) موٹا ہونا۔ فریب ہونا۔

شَدَّخٌ - تھوڑی چیز۔ مص (ف) سر توڑنا۔  
گھوڑے کے چہرہ کی سفیدی کا فراخ  
ہونا۔ پانچمال کرنا۔ باطل کرنا۔

شَدَّافٌ - رخسارہ کی کچی۔ اندھیل۔ جسم۔ ج۔  
شَدُّوْفٌ - مص (س) کج رخسار ہونا۔  
سرکشی کرنا۔

شَدَّافٌ - (ض) ٹکڑے ٹکڑے کر کے کاٹنا۔  
شَدَّقٌ - ہاتھوں کی فراخی۔

شَدَّقٌ - ہاتھوں کا اندرونی رخ۔ ہاتھ۔ ج۔  
أَشْدَاقٌ -

شَدَّقَاءٌ - خوش تقریر عورت۔ کشادہ ہاتھوں والی  
ج۔ شَدَّقٌ -

شَدَّقَهُ - شَدَّقَهُ - کشادہ ہاتھوں والا شیر  
شَدُّو - (ن) ہانکنا۔ شعر پڑھنا۔ تھوڑا سا  
علم ادب سیکھنا۔ حاصل کرنا۔  
تشبیہ دینا۔ ارادہ کرنا۔

شَدُّوْنٌ - (ن) ہرن کے بچہ کا قوی ہونا۔ اور  
سینگ نکل آنا۔

(ض) چوپایہ کاناک سے یا لقم سے  
آواز نکالنا۔

شَخَنٌ - اضطراب۔ بے چینی۔ مص۔ (ن)  
مضطرب ہونا۔ (علی) مشکل پڑنا۔  
(بین) فساد ڈالنا۔

شَخَسٌ - بے چینی۔ اضطراب۔ مص۔ (ف)  
مضطرب کرنا۔ گدھے کا جمائی کے  
وقت منہ کھولنا۔

شَخَنَةٌ - نئے کپڑے۔ اور کاغذ وغیرہ کی  
کھل کھڑا ہٹ۔ ہتھیار کی جھنجکار (د)  
روشندان۔

شَخَصٌ - شَخَاصَةٌ - (ک) موٹا اور ضخیم ہونا۔  
شَخَصٌ - آدمی وغیرہ کا جسم۔ وجود۔ بدن (د)  
مجسمہ۔ ج۔ آشَخَصٌ - شَخُوصٌ -  
آشَخَاصٌ -

شَخْمٌ - شَخُومٌ - (ض۔ ن۔ ک) خراب ہونا۔  
بدبودار ہونا۔

شَخُوصٌ - (ف) بلندی پر چڑھنا۔ سر اٹھانا۔ آنکھ  
کھولنا۔ آنکھ کھلی رکھنا۔ بند نہ کرنا۔

(جھولنا) نگاہ اٹھانا۔ آنکھ کھلی رہ جانا۔  
(الی) [منتقل ہونا۔ بے قرار کر دینے  
والی بات پیش آنا۔

شَخِيْرٌ - گنگنا کر بولنے والا۔ ناک میں بولنے  
والا۔

شَخِيْرٌ - گلے کی آواز۔ ناک کی آواز۔ گھوڑے کی  
منہ کی آواز۔

شَخِيْصٌ - تندرست۔ موٹا تازہ آدمی۔  
سرور۔ سخت کلام۔

‡ ‡ ‡ ‡

شَدَّہ - بے خودی۔ بدحواسی۔ معص (ف)۔ سر  
 توڑ دینا۔ بے خود کر دینا۔  
 شَدَّید - بہادر۔ قوی۔ سمجھت۔ بارعب۔  
 جہ۔ آیشدَا۔ آیشدَا۔ آیشدَا۔  
**ش - د**  
 شَدَّ - شَدَّوڈ (ن۔ ص)۔ اکیلا اور نایاب  
 ہونا۔ متفرق اور الگ الگ ہونا۔ اکیلا  
 کرنا۔  
 شَدَّا - مسواک کا درخت۔ خارش۔ نمک  
 بو کی تیزی۔ ایک قسم کی کشتی۔ مکھی۔  
 رنج۔  
 شَدَّاہ - نمک بچھو کا ڈنک تیتے کا ڈنک۔  
 شَدَّاب - چھیلنا۔ چھال اتارنا۔ کاٹنا۔ درخت کی  
 شاخیں قلم کرنا۔ [عن] ہٹانا۔  
 شَدَّاب - گھر کا سامان۔ پانی کا بند۔ درخت کی  
 چھال۔ وہ پرانندہ لکڑیاں جنہیں درخت  
 سے کاٹ لیا ہو۔ و:- شَدَّابۃ -  
 جہ:- آشَدَّاب -  
 شَدَّاس - کچے سونے کے ٹکڑے کہ کان سے  
 نکلے ہوں۔ اور ہنوز کھائے نہ گئے ہوں  
 چھوٹا موتی۔ پونجھ۔ و:- شَدَّاسۃ -  
 جہ:- شَدَّاسات -  
 شَدَّات - ایڈیٹوریل۔ نوٹس۔  
 شَدَّوڈ - پَریشان۔ و متفرق۔

شَرَّہ - مص (ن۔ س)۔ عیب کرنا۔ بد ہونا۔  
 شَرَّہ - شَرَّارۃ۔ شَرَّار۔ شَرَّارۃ۔ (ص۔ ن)  
 بد ہونا۔ شریر ہونا۔  
 شَرَّہ - وہ جلد جس پر پتی اچھلی ہوتی ہو۔  
 شَرَّہ - مکروہ۔ ناپسند۔ ناخوشی۔ عیب۔  
 شَرَّاء - (ص)۔ خریدنا۔ بیچنا۔ ہنسی کرنا۔ ذلیل  
 و خوار کرنا۔  
 شَرَّاب - پینے کی چیز۔ (د)۔ شربت۔ جہ:-  
 آشَرَّابۃ -  
 شَرَّاب - بہت پینے والا۔  
 شَرَّابۃ - پھانا۔ (د)  
 شَرَّابۃ - سقا۔  
 شَرَّاس - آگ کی چنگاریاں۔ و:- شَرَّارۃ -  
 شَرَّاسۃ - شَرَّس۔ (س)۔ بد اخلاق ہونا۔  
 (چوہا پاک، ہمیشہ کیٹیل کھانا)۔  
 شَرَّاع - کتان بیچنے والا۔  
 شَرَّاعۃ - دیری۔ دلاوری۔ بہادری۔  
 (د) شَرَّاع - لب اور سیدھا نیزہ۔ جوتی  
 کا تسمہ۔ گھاس میں سے راستہ۔  
 جہ:- آشَرَّک - شَرَّک -  
 شَرَّب - پینے والے۔ و:- شَرَّاب - مص  
 (س)۔ پانی وغیرہ پینا۔ (ن)۔ سمجھنا۔  
 شَرَّب - (س)۔ پیسا ہونا۔ کسی کے اوتھوں کا  
 پیسا ہونا۔ سیلاب ہونا (لغات افساد  
 سے ہے)۔ (ب)۔ تہمت لگانا۔  
 شَرَّب - کھانے پینے کی چیز۔  
 شَرَّب - پانی۔ پانی کا حصہ۔ گھاٹ۔ پانی پینے  
 کا وقت۔  
 شَرَّبۃ - پیاس۔ گرمی کی سختی۔ درخت کا قافلہ

شَدَّہ - بے خودی۔ بدحواسی۔ معص (ف)۔ سر  
 توڑ دینا۔ بے خود کر دینا۔  
 شَدَّید - بہادر۔ قوی۔ سمجھت۔ بارعب۔  
 جہ۔ آیشدَا۔ آیشدَا۔ آیشدَا۔  
**ش - د**  
 شَدَّ - شَدَّوڈ (ن۔ ص)۔ اکیلا اور نایاب  
 ہونا۔ متفرق اور الگ الگ ہونا۔ اکیلا  
 کرنا۔  
 شَدَّا - مسواک کا درخت۔ خارش۔ نمک  
 بو کی تیزی۔ ایک قسم کی کشتی۔ مکھی۔  
 رنج۔  
 شَدَّاہ - نمک بچھو کا ڈنک تیتے کا ڈنک۔  
 شَدَّاب - چھیلنا۔ چھال اتارنا۔ کاٹنا۔ درخت کی  
 شاخیں قلم کرنا۔ [عن] ہٹانا۔  
 شَدَّاب - گھر کا سامان۔ پانی کا بند۔ درخت کی  
 چھال۔ وہ پرانندہ لکڑیاں جنہیں درخت  
 سے کاٹ لیا ہو۔ و:- شَدَّابۃ -  
 جہ:- آشَدَّاب -  
 شَدَّاس - کچے سونے کے ٹکڑے کہ کان سے  
 نکلے ہوں۔ اور ہنوز کھائے نہ گئے ہوں  
 چھوٹا موتی۔ پونجھ۔ و:- شَدَّاسۃ -  
 جہ:- شَدَّاسات -  
 شَدَّات - ایڈیٹوریل۔ نوٹس۔  
 شَدَّوڈ - پَریشان۔ و متفرق۔

ش - س

شَرَّہ - ہدی۔ برائی۔ جہ:- شَرَّوس - بد  
 بدتر۔ شیطان۔ جہ:- آشَرَّاس -

شربۃ ذمۃ - تھوڑے سے آدمی ہر چیز کا کھلے گا۔  
 قاش۔ ج۱۔ شربۃ ذمہ۔ شربۃ ذمہ۔  
 شربۃ سما۔ آگ کی چنگاریاں۔ ج۱۔ شربۃ۔  
 شربۃ سن۔ سختی۔ ہلاکت۔ مص (ض) کا طما۔  
 شربۃ سن۔ بد اخلاق آدمی۔  
 شربۃ ط۔ نشان چھوٹا نالہ۔ ہر چیز کا آغاز۔  
 چھوٹا چوپایہ۔ نکما۔ کمینہ۔ سفلا۔  
 چھچھورا۔ شریف زادہ۔ سردار۔  
 ج۱۔ آشربا۔ ط۔  
 شربۃ ط۔ (س) دشوار و عظیم الشان کام میں  
 پڑنا۔  
 شربۃ ط۔ پیمان و عمد۔ اگر مینٹ۔ ج۱۔  
 شربۃ وط۔ زبیل ناقص۔ کمینہ۔  
 نیچ۔ ج۱۔ آشربا۔ ط۔ مص (ن)  
 ض) کسی چیز کو اپنے لیے ضروری  
 قرار دینا کسی چیز کی تجارت اپنے  
 لیے لازم ٹھہرانا۔  
 شربۃ ط۔ مشروط۔ وہ شے جو کسی پر موقوف  
 ہو۔ شرط۔ پیمان کو توال کا سپاہی۔  
 ج۱۔ شربۃ۔  
 شربۃ طیح۔ کو توال کا اردلی۔  
 شربۃ طیح۔ پانی پیرنے والے۔ ج۱۔ شربۃ۔  
 شربۃ طیح۔ مثل۔ مانند۔ چال چلن۔ روش  
 طریقہ۔ دروازہ۔ سر راہ دروازہ۔  
 مص (ف) اٹھانا بلند کرنا بیدھا  
 ہونا۔ سیدھا کرنا۔ (ل) کسی کے  
 لیے راستہ بنانا۔ (فی) گھسنا۔  
 شروع کرنا۔  
 شربۃ عبتہ۔ کسی چیز کو طول میں کاٹنا۔

جس میں پانی بھرا جاتا ہے۔ ج۱۔  
 شربۃ۔ شربۃ بات معصیت  
 پانی پینا۔  
 شربۃ۔ اتنی مقدار جس سے میرانی ہو جائے۔  
 سرخی۔  
 شربۃ۔ بہت پانی پینے والا۔  
 شربۃ۔ موزے۔ پاتا ہے۔ (د)  
 شربۃ۔ بد عورت۔  
 شربۃ۔ حرص۔ تیزی۔ غصہ۔ شر۔  
 شربۃ الشبَاب۔ جوانی کی تزنگ اور امنگ۔  
 شربۃ۔ تیز تلوار۔  
 شربۃ۔ پھاڑنا۔ پارہ پارہ کرنا۔  
 شربۃ۔ (س) ماتھے پاؤں یا جوتی کا پھٹ  
 جانا۔  
 شربۃ۔ ٹوٹی ہوئی اور پھانی جوتی۔  
 شربۃ۔ کھکشاں کا راستہ۔ عورت کی شرمگاہ  
 وٹراٹ۔ ج۱۔ آشربا۔ ج۔ مص۔  
 (س) چوپایہ کے خصیوں کا بڑا ہونا  
 یا ایک خصیہ ہونا۔  
 شربۃ۔ (ن) جھوٹ بولنا۔ جمع کرنا (ب)  
 کسی چیز کو کسی چیز میں ملانا۔  
 شربۃ۔ (ف) ظاہر اور نمایاں کرنا۔ کھولنا۔  
 ازالہ بیکارت کرنا۔ چت لٹا کر جاع  
 کرنا۔ ڈھیلا کرنا مشکل اور دقیق  
 کلام کا مطلب واضح کرنا۔  
 شربۃ۔ نو جوان لوگ۔ ج۱۔ شربۃ۔  
 جڑ۔ اصل۔ رنگ۔ عنفوان شباب۔  
 مثل و مانند۔ اونٹ کا ہر سال کا بچہ۔  
 ج۱۔ شربۃ۔



[ ب ] چھو لگنا۔  
 کَشْرَقَاء۔ کن پھٹی۔ ج۔۱۔ سَرَق۔  
 مَشْرَقَة۔ جاڑوں کے زمانہ میں دھوپ میں  
 بیٹھنے کی جگہ۔  
 شَرْقَة۔ سورج جب طلوع ہو۔  
 شَرْقِيّ۔ مشرقی جانب۔ آفتاب نکلنے کی  
 طرف (د)۔ شَرْقِيَّة۔  
 مِشْرَاك۔ ساجھا۔ کفر۔ سا جھی۔ نسب میں میل  
 آدھے یا تھائی کے سا جھے پر زمین  
 ٹھیکہ دینا۔ ریا۔ حصہ۔  
 شَرْك۔ شکاری کا جال۔ سُرْك۔ وہ گڈھے  
 جو راستہ میں چوپایہ کے پاؤں سے ہو  
 جاتے ہیں۔  
 شَرْك۔ شَرَاكَة۔ (س) کسی کا شریک اور  
 سا جھی ہو جانا۔  
 مِشْرَاكَة۔ سا جھا (د) کہتی۔ چند شراک کی مشترکہ  
 دکان۔ ج۔۱۔ مِشْرَاكَات۔  
 شَرْكَة الشَّيْطَان۔ شیطان کی خباثت۔  
 شَرْكَة۔ شکاری کا جال۔ ج۔۱۔ شَرْك۔  
 شَرْكِيّ۔ دوڑ۔  
 شَرْه۔ (س) نیک کٹا ہونا۔  
 شَرْه۔ بھنور۔ ایک درخت کا نام۔ گھاس  
 خوب بڑھی ہوئی۔ ج۔۱۔ شَرْو۔  
 مص (ص) چیرنا کا ٹنا۔ [ ل ]  
 تھوڑا سادینا۔  
 شَرْفَة۔ کہیتی وغیرہ کے بڑھے ہوئے پتے۔  
 کاٹنا۔  
 شَرْو۔ شَرْو۔ شمد۔  
 شَرْوَال۔ پانچامہ۔

شَرْعِيّ۔ ایک قسم کی چادر لبیا اور جسیم آدمی۔  
 شَرْعَة۔ شریعت کا راستہ۔ روشن اور  
 سیدھا راستہ۔ کمان کا چلہ۔ مثل و  
 مانند۔ ج۔۱۔ شَرْع۔ شَرْع۔  
 شَرْع۔  
 شَرْعِيّ۔ جو چیز شریعت کے موافق ہو۔  
 شَرْف۔ بلندی۔ بلند جگہ۔ بزرگی۔ نقدی۔  
 پرہیزگاری۔ اونٹ کا کونان۔  
 گھوڑے کی دوڑ۔ ایک کوس کی  
 مقدار تک۔  
 شَرْف۔ شَرْفَة۔ (ف) اونچا ہونا۔ بزرگ  
 و بلند مرتبہ و عالی قدر ہونا۔  
 شَرْف۔ (ن) کسی پر بزرگی یا ذاتی کمالات  
 میں فوقیت رکھنا۔ دیوار کا کنگرہ  
 بنانا۔  
 شَرْفَاء۔ کنگرہ دار گھر۔ لبیا کان۔ شریف  
 حور۔ ج۔۱۔ شَرْف۔  
 شَرْفَة۔ کنگرہ۔ بزرگی۔ زیادتی۔ بڑا پن (د)  
 گیلری۔  
 شَرْفَة الْمَال۔ منتخب مال۔ چوٹی کا مال۔  
 ج۔۱۔ شَرْف۔  
 مَشْرُق۔ آفتاب۔ آفتاب کی روشنی۔ مشرق  
 وہ روشنی کہ جو جھروکہ میں سے آئے۔  
 خوبصورت عورت۔ بھروکہ۔ روزن۔  
 ایک پرندہ۔ روکھا گوشت۔ مص  
 (س) آفتاب کا کلکنا۔ کان چیرنا۔  
 پھل توڑنا۔ چننا۔  
 شَرْق۔ (س) کن پھا ہونا۔ غمگین ہونا۔  
 سورج کا قریب بہ غروب ہونا۔

شُرُوب - پتی چیز پینے کی - بہت پانی پینے والا۔  
نرکی خرابی مند اوٹنی۔

شُرُوب - (ن) (بچہ کا) جوان ہونا۔

شُرُود - (ض) بھاگنا۔

شُرُوق - (ن) آفتاب کا طلوع ہونا۔ کھجور  
وغیرہ کا خوشہ نکل آنا۔

شُرۃ - حریص۔

شُرۃ - (س) (الی - علی) حریص ہونا۔

شُرہان - حریص۔

شُرۃ - بدتر عورت۔

شُرۃ - اندرائن یا اندرائن کا درخت کھجور کا  
درخت جو ٹھلے سے لگا ہو۔

شُرۃ - (س) پھیل جانا - شائع ہو جانا (بجلی)  
چکنا جھگڑنا پتی اچھلنا - غصہ ہونا۔

شُرۃ - پتی - سرخ بادہ - کما اونٹ - عمدہ  
اونٹ۔

شُرۃ - بہت پینے والا - پینے کا بڑا شوقین۔

شُرۃ - پینے کے لائق پانی جو نہ میٹھا ہو، نہ  
کھاری۔ پانی میں شریک۔

شُرۃ - طریقہ - روش - طبیعت - عورت  
جس کے ہمیشہ لڑکی پیدا ہو۔ ج۔

شُرۃ -

شُرۃ - لوکرا - کبوترولی کا بک ٹکڑا۔ ج۔  
شُرۃ -

شُرۃ - ہٹایا ہوا - دھتکارا ہوا۔

شُرۃ - بہت شرارت کرنے والا - شوخ۔  
ج۔ ۱۶ - شُرۃ -

شُرۃ - بد - بُرا - ج۔ ۱ - آشوراس - آشوراس  
شُرۃ -

شُرۃ - سُوا (بڑی سوئی) ج۔ ۱ - شُرۃ -

شُرۃ - رخسار - ج۔ ۱ - شُرۃ -

شُرۃ - عطردان - گھمڑی - پٹارا - کھجور کی

رسی - (د) ڈوری - فیتہ - پتی - ج۔ ۱ -

شُرۃ -

شُرۃ - شرط - معاہدہ - پیمانہ - پھٹے ہوئے کان  
والا اونٹ - ج۔ ۱ - شُرۃ -

شُرۃ - بہادر - دلیر - عمدہ کتان۔

شُرۃ - خدائی احکام بیدھا اور کھلا ہوا راستہ  
دہلیز آستانہ - گھاٹ - (دین) (د)

قانون - ج۔ ۱ - شُرۃ -

شُرۃ - بزرگ - بڑے تیر والا - ج۔ ۱ -

شُرۃ - آشراف - شرف -

شُرۃ - کہیتی کے بڑھے ہوئے پتے کا ٹٹا۔

شُرۃ - آفتاب (نکلنے کے وقت) خوبصورت  
لڑکا۔ ج۔ ۱ - شُرۃ -

شُرۃ - ساجھی - بُت ج۔ ۱ - شُرۃ - آشوراک -  
(م) شُرۃ - ج۔ ۱ - شُرۃ -

شُرۃ - شُرۃ - عورت جس کی مقعد اور  
فرج دونوں ایک ہو جائیں۔

## نش - مشا

شُرۃ - (ض) بہت سوکھ جانا۔

شُرۃ - شُرۃ - (ن) سخت ہونا۔  
یا لاغر و خشک ہونا

شُرۃ - (ض) حالت غضب میں یا کھرے  
کن آنکھوں سے دیکھنا - نظر لگانا۔

نیزہ مارنا۔

شُرۃ - سرخ آنکھ۔

## ش - ط

شَطَاءٌ - کھیتی کنارہ - خوشہ - ج :-  
 شَطُوءٌ -  
 شِطْلٌ - کنارہ - ج :- شَطُوطٌ - شَطْلَانٌ -  
 مص - (رض) دور ہونا - ظلم کرنا -  
 خوشہ - بالی - ج :- آشَطَاءٌ -  
 شَطَارَةٌ - (ن - ك) شوخ دہے باک ہونا -  
 ایک پستان کا دوسرے سے بڑھ جانا -  
 شِطَاطٌ - درازی - دوری - قد کی راستی اور  
 موزونیت - روٹا -  
 شَطَاطَةٌ - دُورِی - بُعِد -  
 شَطْبَةٌ - سبز ٹہنی - دراز قامت لڑکی -  
 شَطْرٌ - آدھا نصف - ٹکڑا - سمت - گوشہ  
 قسم - ج :- آشَطْرٌ - شَطُوسٌ -  
 مص (ن) دو ہتھوں کو دو ہونا -  
 اور دو کو چھوڑ دینا -  
 شَطْرٌ - بعید - دور -  
 شِطْرَةٌ - آدھا آدھا دو قسموں کا -  
 شَطْرٌ - ایک مشہور کھیل -  
 شَطَطٌ - ظلم - زیادتی - حق سے دوری -  
 مص (س) عداورت سے تجاوز  
 کرنا - حق سے دور ہونا - چوپایہ کا  
 چرنے میں دور چلا جانا -  
 شَطْفَةٌ - کپڑے کا ایک سبز ٹکڑا جسے  
 سادات عمامہ یا ٹوپی پر باندھتے  
 ہیں (د)  
 شَطْنٌ - رسی یا لمبی رسی - ج :- آشَطَانٌ -

شُرَّارَةٌ - آنکھ کی سرخی -

شُرُونٌ - (س) مست ہونا -  
 شُرُوْدٌ - (ن) بلند ہونا - مرتفع ہونا -  
 شُرُوْبٌ - کڑی درست کیے جانے سے پہلے  
 کان ہونٹی ہونہ پرانی - ج :-  
 شُرُوْبٌ -

## ش - س

شَسَسٌ - سخت زمین - ج :- شِسَّاسٌ -  
 شُسُوسٌ -  
 شُسْبٌ - شُسُوبٌ - (س - ك) سوکھنا -  
 لاغر ہونا -  
 شُسَمٌ - شُسُوعٌ - (ف) دور ہونا - بعید ہونا  
 شُسُونٌ - (ض) سوکھنا -  
 شُسُونٌ - (ن) سوکھنا - لاغر ہونا - کمزور ہونا -  
 (س - ش)  
 شَسَمَةٌ - پاخانہ (د)

## ش - ص

شَصَصٌ - (ن) روکنا - باز رکھنا -  
 شِصَصٌ - مچھلیاں پکڑنے کا کاٹا اور ڈور -  
 چالاک چور - ج :- شِصُوصٌ -  
 شِصْبٌ - سختی - قحط - حصہ - ج :- آشِصَابٌ  
 شِصْرٌ - شاصیر - ہرن کا بچہ - ج :- آشِصَامَا -  
 شِصْصٌ - بکری جو دو دو دینے سے رک جائے -  
 شِصُوءٌ - (ن) رکنا - بلند ہونا -  
 شِصُوبٌ - شِصْبٌ - (ن) (س) سخت ہونا  
 دشوار ہونا -

شَعَّاس - وہ لفظ کہ شجنون ہارنے کے وقت یا جنگ کے وقت بطور علامت کے کہتے ہیں۔ تاکہ اپنے پرانے میں تمیز کر سکیں۔ اور آپس میں نہ لڑیں۔ رسم۔ گرج۔ درخت موت۔ گھوڑے کی جھول۔ کپڑا جو بدن سے متصل ہو جیسے ہندوستان میں کرتہ (د) کسی قوم کا نشان امتیازی۔ ج۔ آشَعْرَة - شَعْر۔

شَعَارَة - حج کا کوئی ضروری فعل جیسے وقوف طواف وغیرہ۔ ج۔ شَعَائِد - شَعَاع - آفتاب کی روشنی۔ آفتاب کی کرنیں و۔ شَعَاعَة - ج۔ آشَعْتَة - شَعَاع۔

شَعَاع - متفرق۔ پراگندہ۔ منتشر۔ شَعَائِد - جنون۔ دیوانگی۔ وارفتگی۔ شَعَائِد - عبادتیں۔ نشانیاں۔ حج کی قربانیاں۔ و۔ شَعَائِدَة -

شَعَائِدُ الدَّهَب - چمپا کلی (ایک زیور) شَعْب - بڑا خاندان۔ پہاڑ۔ سر کی ہڈیوں کے جوڑ۔ درز۔ پھٹن (د) قوم۔ پبلک ج۔ شَعْوَب - مص۔ (د) درز کو بند کرنا۔ ملانا۔ جدا کرنا۔ اچھا کرنا۔ خراب کرنا۔

شَعْب - گھائی۔ کنارہ۔ پیٹھ ہوئی نالی۔ اونٹوں کا ایک داغ۔ ج۔ شَعَاب - شَعْب - گلے کے سینگن اور شانوں کے درمیان کے جوڑ۔ مص۔ (د) دونوں سینگوں اور دونوں شانوں کے درمیان کا کشادہ ہونا۔

شَطْن - (ن) رسی سے باندھنا۔ ساتھی کا قصد و ارادہ میں مخالفت کرنا۔

شَطْوَس - (د) ایک پستان کا خشک ہونا یا دوسرے سے بڑھ جانا (عن) کسی کی غمی میں اس سے علیحدہ رہنا۔

شَطُون - (فی) دور ہونا۔ جانا۔

شَطِيب - ایک پہاڑ اور مقام کا نام۔

شَطِيبَة - (ض) (علی) کسی پر حکم میں جو رو ظلم کرنا۔ زیادتی کرنا۔

## ش۔ظ

شَطَاف - تنگی۔ سختی۔

شَطَاف - تنگی۔ سختی۔ ج۔ شَطَاف - مص۔ (س) بری زندگی بسر کرنا۔

شَطِيءٌ - ایک چھوٹی سی بڑی جو چوپایہ کے زانو یا بازو میں ہوتی ہے۔ مص۔ (س) ننگڑانا (چوپایہ کا) پھٹ جانا متفرق ہونا۔

شَطِيءُ القَوْم - وہ لوگ جو کسی دوسری قوم سے ملحق ہو جائیں۔

## ش۔ع

شَع - متفرق۔ پراگندہ۔ ۲۔ سماں۔ مص (د) جلدی کرنا۔ متفرق و پراگندہ ہونا۔ پراگندہ کرنا۔

شَع - آفتاب کی روشنی اور اس کی شعاع کڑھی کا جالا۔

شَعَّاس - گنجان درخت۔ بہت سایہ والا درخت۔

شَعْرَاء - بد شکل - بد ہیئت - بد مزاج -  
 (عورت وغیرہ) پوستین - زمین  
 جس میں درخت بکثرت ہوں -  
 سخت مصیبت - جہ - شَعْر -  
 شَعْرَانِی - مرد جس کے جسم پر بال کثرت سے  
 اور لمبے ہوں -

شَعْرَة - بال - بڑھاپا - بیٹی -  
 شَعْرَة - عورت کی اندام نہانی کے بال  
 شَعْر و ر - بہت ضعیف شاعر - چھوٹی نگر طمی -  
 جہ - شَعْرَانِی -  
 شَعْرَی - ایک ستارہ کا نام جس کی جاہلیت  
 میں پرستش ہوتی تھی - ایک پہاڑ  
 کا نام -

شَعْرَاع - شَعْرَعَان - لمبا اور اچھے  
 جسم کا آدمی -  
 شَعْرَعَان - [ب] کسی چیز کو کسی چیز میں ملانا -  
 شَعْف - خوف اور عشق جس میں کہ دل پر  
 اختیار نہ رہے اور دل ہاتھ سے  
 جاتا رہے -

شَعْف - [ف] کسی کی محبت کا دل کو فریفتہ  
 کرنا - مالش کرنا (جھوٹا) - بیماری  
 محبت ہونا -

شَعْفَة - پہاڑ کی چوٹی - سر چیز کا سرا - بالوں کی  
 لٹ - دل کا سرا - پھوار - ہلکی ہلکی  
 بارش - لٹ کے کی زلف - جہ -  
 شَعْوَف - شَعْفَات -

شَعْل - تیز ذہن - ذہین - ہلکا آدمی - معص  
 کام کا انجام سمجھنا - غور کرنا - آگ  
 بھڑکانا -

شَعْبَان - آٹھواں قمری مہینہ - جہ - شَعْبَانِی -  
 شَعْبَة - شاخ - جماعت - ٹکڑا - پیالہ  
 کا جوڑ - شاخ کا کنارہ - دو ٹہنیوں  
 یا گائے کے دو سینگوں کا درمیان  
 نالی - پہاڑ کا کھڈہ - زمانہ کی  
 سختی - چھوٹا پشتہ - جہ - شَعْبَا -  
 شَعَاب -

شَعْبَانَة - جادو کرنا - شعبہ کرنا -  
 شَعْبِی - قوم پرست - نیشنلسٹ (د)  
 شَعَث - کام کی پریشانی - مص - (س) اُلجھے  
 ہوئے بالوں والا ہونا -  
 شَعْتَاء - اُلجھے ہوئے بالوں والی -

شَعْتَانُ السَّرَاسِ - وہ شخص جس کے بال اُلجھے  
 ہوئے اور غبار آلود ہوں -  
 شَعْر - بال - و - شَعْرَة - جہ - آشَعَاس -  
 شَعْوَس - شَعَاس - زعفران -  
 شَعْس - کلام منظوم بہت - جہ - آشَعَاس -  
 شَعْر - شَعْر - شَعْرَة - شَعْرَی -  
 شَعْوَس - شَعْوَسَة - مَشَعْوَس -  
 مَشَعْوَسَة - (د) - (ن) (ب) [ب]  
 سمجھنا - جاننا -

شَعْر - شَعْر - (ن) شعر کہنا - شعر میں  
 غالب آنا - عورت کے ساتھ ایک  
 کپڑے میں سونا -

شَعْرُ - شَاعِر - بہت اچھا شعر -  
 شَعْر - (س) تمام جسم پر بہت بال ہونا -  
 غلاموں کا مالک ہونا -

شَعْس - وہ شخص جس کے بدن پر بہت بال  
 ہوں -

## ش - غ

شِخَاسَا - اپنی بہن یا بیٹی سے کر دوسرے کی بہن یا بیٹی سے نکاح بغیر مہر کے کرنا۔  
شِخَاف - دل کے اوپر کی جھلی۔ وہ پردہ جس میں دل رہتا ہے۔ سویداء قلب یعنی دل کا سیاہ نقطہ۔ دل کے اندر کا پردہ۔ ذات الجنب۔ ذات الصدر وغیرہ۔

شِخَب - شور و فریاد۔ چیخ پکار۔ تباہی۔ مص (س) لڑائی جھگڑا اٹھانا۔ (عن) اعراض کرنا۔

شِغَب - غل غپاڑا۔ فتنہ و فساد۔ تباہی۔ مص (ف) لڑائی جھگڑا اٹھانا۔ اعراض کرنا۔  
شِخَس - مص کسی کو اس کی جگہ سے نکال دینا شکر کا دور ہونا۔ روندنا۔ پامال کرنا۔ تیز چلنا۔

شِغَرِيَّة - کشتی کا ایک داؤ یعنی مقابل کی ٹانگ میں اپنی ٹانگ الجھا کر بچھاڑنا۔

شِغَف - (ف) کسی کی محبت کا دل میں جگہ کرنا۔ کسی کے عشق کی دل پر چوڑ لگانا۔

شِغَل - کاروباری آدمی۔ مصروف آدمی۔  
شِغَل - (ف) کام میں لگانا۔ مشغول کرنا۔  
شِغَل - کام۔ دھندا۔ ج۔ اَشْغَال۔  
شِغُول - بے پروائی۔

شِغُوس - (ن) دور ہونا۔ کم ہونا۔ متفرق ہونا۔

‡ ‡ ‡

شَعْل - گھوڑے وغیرہ کی دم اور پیشانی اور گدی کی سفیدی۔ مص (س) گھوڑے وغیرہ کی دم میں سفیدی ہونا۔

شَعْلَة - آگ کی نوادر پٹ جلتی ہوئی لکڑی۔ گھوڑے کی دم اور پیشانی و سر کے پیچھے کی سفیدی۔ ج۔ شَعْل شَعُول۔

شَعُول - انکارہ۔ گروہ۔ ج۔ شَعَالِيل۔  
شَعْم - (ف) صلح کرنا۔

شَعْنَبَة - چوپایہ کے سینگ کا سیدھا ہو کر کان کی طرف مڑ جانا۔

شَعُو - (ن) بالوں کا جسم پر کھڑا ہونا۔  
شَعُوب - موت کا نام (اس پر الف لام داخل نہیں ہوتا)۔

شَعُوبِيَّة - وہ فرقہ جو عرب کو عجم پر فضیلت نہیں دیتا۔

شَعُوذَة - لاکھ کی صفائی اور چالاکی۔ شجہہ نظر بندی۔

شَعِيْب - ایک پیغمبر کا نام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خسر تھے۔

شَعِيْر - جو۔ شَعِيْرَة - ایک جو۔ یار۔ مصاحب۔

شَعِيْرَة - حج کی قربانی۔ حج میں قربانی کرنے کے لیے اونٹنی جس پر پیمان کے لیے علامت کر دی گئی ہو۔ حج کے ضروری افعال میں سے کوئی فعل۔ جو کا ایک دانہ۔ ج۔ شَعَائِر۔

شَعِيْرَة - چلنے والی بتی۔ آگ جو بتی میں لگ رہی ہو۔ ج۔ شَعْل۔

## ش-ف

شَفَت - جھجھرا کپڑا ہوا۔ زیادتی۔ کمی۔ دن کا  
بقیہ۔ مقوڑی سی چیز۔ ج:-  
شَفُوْف -

شَفَت - شَفَّة (رض) زیادہ ہونا۔ کم ہونا  
حکوت کرنا۔

شَفَت - (ن) لاغر ہونا۔ لاغر کرنا۔

شَفَا - کنارہ۔ مقوڑا۔ ذرا سا۔ ج:-

آشَفَاء - شَفِي -

شَفَاء - دوا۔ تندرستی۔ ج:- آشَفِيَّة -

جج:- آشافی معارض صحت دینا۔

کسی کے لیے صحت چاہنا۔ علاج

کرنا۔ سورج کا غروب ہونا۔

شَفَارَة - (س) کم ہونا۔ گھٹنا۔

شَفَاعَة - (ف) سفارش کرنا۔ خواہش کرنا۔

شَفَافَة - برتن میں بچا ہوا پانی۔

شَفَّان - ٹھنڈی ہوا جو بارش کے ساتھ ہو۔

شَفَّاهِي - آشَفہ بڑے ہونٹ والا آدمی۔

شَفَّة - ہونٹ۔ تشبیہ۔ شَفَّتَان - ج:-

شَفَّاه - شَفَّوَات - بات۔

سخن۔

شَفَّةٌ حَسَنَةٌ - ذکرِ خیر۔

شَفَّةُ التَّرَكِيَّة - کوئیں کی من۔

شَفَّر - پلوں کے اگنے کی جگہ۔ ہر چیز کا

کنارہ۔ عورت کی فرج کا کنارہ۔

ج:- آشَفَّاسا

شَهْرُ السَّيْف - تلوار کی تیزی۔

شَقَّر - (س) کم ہونا۔ ناقص ہونا۔ گھٹ

جانا۔

شَفَرَاہ - عورت جس کی شہوت کنارہ فرج میں  
ہوتی ہے۔ لہذا وہ جلد منزل پر جاتی

ہے۔

شَفْرَاة - بڑی چھری چھرا۔ ہر تیز اور دھار

ذالالوٹا۔ تلوار کی باڑ۔ خدمت گار

(د) درانتی۔ بلڈ۔ ج:- شَفَّاسا۔

شَفَّس - (رض) ٹھوکر مارنا۔

شَفَّشَات - ٹھنڈی ہوا۔ خراب بنا ہوا کپڑا۔

شَفَّشَفَة - کانپنا۔ بد اخلاق ہونا۔ کمزور کرنا۔

خشک کر دینا۔

شَفْح - جوڑا جوڑا۔ جفت۔ بقر عید کا دن۔

مص۔ (ف) ایک کے ساتھ دوسرا

ٹلا کر جوڑا کرنا۔ ایک چیز پر دوسری

چیز کا اضافہ کرنا۔ مجموعاً ایک کو

دو دیکھنا۔ یعنی بھینگا ہونا۔ گھر کی

بیخ کے اندر پڑوسی کو غیر پڑوسی پر

ترجیح دینا۔

شَفْعَة - مکان وغیرہ جب فروخت ہو۔ بحق

ہمسایگی خریدنے کا حق دیوا لگی۔

شَقْف - مقوڑا۔ ہلکا پن۔ بد حالی۔

شَقَق - آسمان کے کناروں پر غروب کے

وقت کی سرخی۔ دن۔ ڈر۔ مہربانی

گوشہ۔ خراب چیز۔ ج: آشَفَاق -

شَقَقَة - مہربانی مع (رض) [علی] کسی پر

مہربانی کرنا۔ (من) ڈرنا۔

شَفْن - تیز لہرو والا۔

شَفْن - عقل مند۔ میراث کا منتظر۔ انتظار۔

شَفْن - شَفُون (ن) کن انکھیوں سے دیکھنا

## ش-ق

شَقِّ - پھٹن۔ درز۔ صبح۔ ج۔ شَقْوَت  
 و شواری۔ تکلیف۔ مص (ن)  
 چیزنا۔ بھاڑنا۔ متفرق کرنا۔ کھلا  
 رہ جانا۔ صبح ہونا۔ بجلی کا سیدھا  
 سیدھا نصف آسمان تک کوندنا۔  
 (علی) کسی پر کوئی چیز دشوار ہونا۔  
 مشقت میں ڈالنا۔

شَقِّ الْعَصَا۔ جماعت سے علیحدہ ہونا۔ ٹولی سے  
 باہر ہو جانا۔

شَقِّق۔ بھائی۔ دوست۔ جانب۔ ٹکڑا۔  
 کنارہ۔ آدھا۔ سختی۔

شَقِّ السَّحَابَةِ۔ برابر۔ مساوی۔  
 شَقِّء۔ شَقْوء۔ (ف) نکلنا۔ کنگھی کرنا۔  
 سر کی ناگ پر مارنا۔

شَقَا۔ سختی۔ تنگی۔ بدبختی۔ بد نصیبی۔ مص  
 (س) بد بخت و بد نصیب ہونا۔

شَقَا۔ شَقَا۔ شَقْوَة۔ شَقَادَة۔ (س)  
 بد بخت ہونا۔ بد نصیب ہونا۔

شَقَاة۔ (ك) بد صورت ہونا۔

شَقَاق۔ پھٹن۔ چھانٹنے کے سم کی پھٹن۔

شَقَاق۔ مُشَاقَة۔ مخالفت اور دشمنی کرنا  
 مشقت میں ڈالنا۔ ضرر پہنچانا۔  
 علیحدہ ہو جانا۔

شَقَاوَة۔ شَقْوَة۔ شَقْوَة۔ بد بختی۔  
 بد نصیبی۔ مص۔ (س) بد بخت و  
 بد نصیب ہونا۔

شَقَائِقُ النَّحْمَانِ۔ لالہ (سرخ رنگ کے پھول)

یا کراہت اور نفرت سے دیکھنا۔

شَقْفَتْرَى۔ شَقْفَتْرَى۔ متفرق و پرگانہ۔

شَقْوَف۔ (ن) بدن کا لاغر ہو جانا۔

شَقْوَف۔ شَقْفَت۔ شَقْفِيف۔ (ص)  
 کپڑے کا اتنا باریک پتلا اور چھدار ہونا  
 کہ اس کے نیچے کی چیز جھلکے۔

شَقْه۔ (ف) ہونٹ پر مارنا۔ کام میں لگانا۔  
 گڑا گڑا کر مارنا۔ مال کو کھانا۔ اور  
 کم کر دینا۔

شَقْفِيَّة۔ تین حرف جن کا مخرج ہونٹ ہیں۔  
 بٹ۔ ف۔ م۔

شَقْو۔ (ن) چھینے کے قریب ہونا۔ نکلنا۔  
 ظاہر ہونا۔ نظر آنے لگنا۔

شَقْوِي۔ (س) غروب ہونا۔ چھینا۔

شَقْوِيْر۔ آنکھ کے پونے کا کنارہ۔ پلوں کے  
 اگنے کی جگہ۔ ہر چیز کا کنارہ۔

شَقْفِيْرَة۔ وہ عورت جس کی فسر ج کے  
 کناروں میں شہوت ہو۔ اور جلد  
 منزل ہو جائے۔

شَقْفِيْم۔ دوسرے کے لیے سفارش کرنے  
 والا۔ سفارشی۔ ج۔ شَقْعَاء۔

شَقْفِيْف۔ عنکی۔ سردی۔ جاڑا۔ بھڑ۔ بارش۔  
 جس میں خشکی ہو۔ سرد ہوا۔ تیز دھوپ  
 گرمی کی تیزی۔ تھوڑی سی چیز۔  
 جاڑے کی تھوڑی۔ ج۔

شَقْفَات۔

شَقْفِيْق۔ مہربان۔ نصیحت کرنے والا۔  
 سمجھانے والا۔



کا پودا (واحد و جمع)

شَقَب - غار۔ پہاڑ کی کھوہ اور کھڑ۔

جہ:۔ شَقَاب - شَقُوب۔

يَشْقَبَة -

شُقَّة - دوری۔ بُعد۔ مسافت۔ گوشہ

مسافر کے جانے کی سمت۔ مسافت۔

بعیدہ۔ دور دراز سفر۔ سختی۔ وہ

کپڑا بوسلنے سے کھلا ہوا ہو مثلاً

اچکن۔ کوٹ۔ چوڑے وغیرہ۔ جہ:۔

شَقِق -

شَقَقَ الْبَاب - آدھا دروازہ۔ ایک کوڑا۔

شَقَقَة - کلاہی کا ٹکڑا۔ تختہ۔ چھڑی۔ کپڑے

کی لمبی دھجی۔ نصف۔

شَقَم - (ف) توڑنا۔

شَقِيح - سرخ۔

شَقِيذ - جاگتے سہنے والا۔ بہت نظر

لگانے والا۔

شَقِيذ - (ض) جانا۔ دور ہونا۔

شَقِيذ - (س) بیدار رہنا۔ بہت نظر لگانے

والا ہونا۔ جانا۔ دور ہونا۔

شَقِيذ - (مثلث) گرگٹ کا بچہ۔ جہ:۔

شَقِيذَان -

شَقِيص - دلچسپ اور حسبِ منشا کام۔ جہ:۔

شَقُوس - (س۔ ک) سرخ و

سپید ہونا۔

شَقِيص - لالہ۔ یا ایک سرخ رنگ کی گھاس

وا:۔ شَقِيصَة -

شَقْرَة - سُرخ و سپیدی۔ مع (س۔ ک)

سُرخ و سفید ہونا۔

شَقْرَة - شُكْرَف -

شَقْرَقَة - بونا۔ آواز کرنا۔

شَقْص - حصہ۔ نصیب۔ ٹکڑا۔

شَقْف - کوڑھی۔ وا:۔ شَقْفَة -

شَقْل - (ن) تولنا۔ وزن کرنا۔

شَقُونَة - (ك) کم ہونا۔ تھوڑا ہونا۔

شَقِيح - بد بخت و بد نصیب۔ جہ:۔ آَشَقِيَاء

شَقِيص - شریک۔ شرکت۔ حصہ۔ عمدہ گھوڑا۔

شَقِيصِيق - بھائی۔ ہر چیز کا نصف دوسرے نصف

کا شقیق ہے۔ جہ:۔ آَشَقَاء

شَقِيصَة - غار جس میں گھاس ہو۔ دو ٹیلوں کے

درمیان عمدہ زمین جس میں پیداوار

ہو۔ بڑی بڑی بوندوں کی کثیر بارش۔

جہ:۔ شَقَائِق -

## ش۔ ك

شَك - گمان۔ شک و شبہ۔ جہ:۔ شُكُوك -

ایک دوا جو چوہوں کے لیے قاتل ہے

مع (ن) اونٹ کے بازو کا پسلو

سے مل جانا اور ننگے نازنی (شک

کرنا۔ گمان کرنا۔ ہننا اب) کسی کے

نیزہ مار کر سے نیزہ میں پرو لینا۔

شُكَا - (ف) نکلنا۔ پھوٹ آنا۔

شُكَا - (س) پھٹ جانا۔

شُكَا - بیماری۔ مرض۔ دکھ۔

شُكَاة - بیماری۔ ملامت۔ عیب۔

شُكَارَة - آتشدان۔ (د)

شُكَاسَة - (ك) بد اخلاق ہونا۔

شُكَاعِي - ایک باریک گھاس ہے۔

شکال - رسی جو گھوڑے وغیرہ کے دو پاؤں میں  
چرنے کے وقت بانہسی جاتی ہے۔ تاکہ  
بھاگ نہ سکے۔ جہ۔ شکل۔

شکاکہ - مُشاکہتہ - مشابہ ہونا۔ نزدیک ہونا  
شکبان - بھس وغیرہ کے ٹھونے کی جالی۔

شکتہ - ہتھیار۔ دھانس جو کھاڑی وغیرہ  
کے دستے میں مضبوط کرنے کے  
لیے لگاتے ہیں۔

شکتہ - جو کپڑے سامنے سے کھلے ہوئے ہوں  
اچکن۔ کوٹ۔ صدی وغیرہ۔

شکد - بخشش و عطا۔ شکر و سپاس۔

شکد - (ن) عطا کرنا۔ دینا۔

شکس - عورت کی فرج۔ فرج کا گوشت۔

شکس - (ن) سپاس گزاری کرنا۔ محسن کی  
تعریف کرنا۔ خدا تعالیٰ کا بندہ کو نیک  
بدلا دینا۔ قبول کرنا۔

شکس - شکوٹس (ن) - من، درخت کی جڑ  
میں چھوٹی چھوٹی شاخیں پھوٹنا۔

شکس - (س) موٹا ہونا۔ دودھیل ہونا۔ بخیل  
کاسخی ہو جانا۔ درخت کی جڑ میں  
شاخیں پھوٹ آنا۔

شکسران - احسان مندی۔ شکر گزاری۔

شکسن - (ن) پاؤں سے یا انگلیوں سے  
دبانہ۔ نیزہ مارنا۔ زبان سے آزر دہ  
کرنا۔ صحبت کرنا۔

شکین - بد مزاج۔ چڑچڑا۔

شکس - بد اخلاق۔ کنجوس۔ جہ۔

شکس

شکص - شکصص - بد اخلاق آدمی۔

شکم - (ف) اٹھانا۔

شکم - (س) درد مند ہونا۔ شور و فریاد کرنا۔  
غصہ کرنا۔

شکل - مانند۔ موافق چیز۔ چند کام یکساں و  
باہم مشابہ۔ جہ۔ آشکال۔

صورت خواہ نظر آئے یا خیالی ہو۔

خصلت۔ مذہب۔ جہ۔ آشکال

شکول - کانوں کے پتے (زیور)  
جہ۔ آشکال۔

شکل - (س) ناز و نخوہ۔ چوچلا۔

شکل - (س) ناز و نخوہ کرنا۔ بکری کی کوکھ کا  
سپید ہونا۔ آنکھ کا گلابی ہونا۔

شکلاء - حاجت۔ بکری جس کی کوکھ سپید ہو۔ سیلی  
آنکھ کا گلابی آنکھ۔ جہ۔ شکل۔

شکلتہ - آنکھ کا گلابی پن۔ رسیلا پن۔ مشابہت  
شکلتہ - ناز و نخوہ کرنے والی۔

شکم - ثواب۔ بدلہ۔ عطا۔

شکم - (ن) بدلہ دینا۔ رشوت دینا۔

شکم - شکیم - (ن) دانتوں سے کاٹنا۔

شکم - چیمہ - چرمی الماری۔ بڑا مندوق (د)  
شکو - شکایت۔ گلہ۔ بیماری۔ چھوٹا سا  
اونٹ۔

شکوۃ - چھوٹا سا مشکیزہ۔ جہ۔ شکات  
شکاء۔

شکوٹس - بڑا شکر گزار۔ بہت شکر کرنے والا۔  
خدا تعالیٰ کا نام یعنی بڑا قدر دان۔  
مخوڑی سی نیکی پر بہت ثواب  
دینے والا۔

شکوٹس - نیک بدلہ دینا۔ جزا دینا۔

شکال - رسی جو گھوڑے وغیرہ کے دو پاؤں میں  
چرنے کے وقت بانہسی جاتی ہے۔ تاکہ  
بھاگ نہ سکے۔ جہ۔ شکل۔

شکاکہ - مُشاکہتہ - مشابہ ہونا۔ نزدیک ہونا  
شکبان - بھس وغیرہ کے ٹھونے کی جالی۔

شکتہ - ہتھیار۔ دھانس جو کھاڑی وغیرہ  
کے دستے میں مضبوط کرنے کے  
لیے لگاتے ہیں۔

شکتہ - جو کپڑے سامنے سے کھلے ہوئے ہوں  
اچکن۔ کوٹ۔ صدی وغیرہ۔

شکد - بخشش و عطا۔ شکر و سپاس۔

شکد - (ن) عطا کرنا۔ دینا۔

شکس - عورت کی فرج۔ فرج کا گوشت۔

شکس - (ن) سپاس گزاری کرنا۔ محسن کی  
تعریف کرنا۔ خدا تعالیٰ کا بندہ کو نیک  
بدلا دینا۔ قبول کرنا۔

شکس - شکوٹس (ن) - من، درخت کی جڑ  
میں چھوٹی چھوٹی شاخیں پھوٹنا۔

شکس - (س) موٹا ہونا۔ دودھیل ہونا۔ بخیل  
کاسخی ہو جانا۔ درخت کی جڑ میں  
شاخیں پھوٹ آنا۔

شکسران - احسان مندی۔ شکر گزاری۔

شکسن - (ن) پاؤں سے یا انگلیوں سے  
دبانہ۔ نیزہ مارنا۔ زبان سے آزر دہ  
کرنا۔ صحبت کرنا۔

شکین - بد مزاج۔ چڑچڑا۔

شکس - بد اخلاق۔ کنجوس۔ جہ۔

شکس

شکص - شکصص - بد اخلاق آدمی۔

شکوک - بہت بالوں والی اونٹنی، جس کی لاغری اور فریبی معلوم نہ ہو سکے۔  
ج: - شُک -

شُکول - شکل - (ن) کام کا پوشیدہ اور مشتبہ ہونا مشکل ہونا۔

شُکولاقو - چوکٹ - ایک قسم کی مٹھائی (د)  
شکوی - شکایت - گلہ - بیماری - ج: -  
شکاکوی -

شکوی - شکاکہ - شکاکہ - شکایتہ -  
شکایتہ - (ن) - ص) گلہ کرنا -  
بیمار کرنا - آزرده کرنا -

شکی - گلہ کیا ہوا - دردناک - تھوڑا سا بیمار -  
شکیتہ - چڑے کا ایک برتن پانی یا دودھ کے لیے -

شکیتہ - گلہ - بیماری - بچا بچایا - ج: -  
شکاکیا -

شکیتہ - وہ اونٹنی جو دودھ دے اور نہ اس کے پیٹ میں بچہ ہو - ج: -  
شکاکیں -

شکیتہ - آدمیوں کا گروہ - ٹولی - مجمع - راستہ -  
ج: - شکاکٹ -

شکیتہ - غیرت - انتقام - عہد - طبیعت -  
لگام کا لہا جو گھوڑے کے منہ میں رہتا ہے - ج: - شکم - شکاکٹ -

## ش - ل

شَل - شکل - (ن) ہانکنا - دفع کرنا - باریک  
سلائی سینا - بہانا (دس) ہاتھ پاؤں کا  
سُن ہو جانا - شَل ہو جانا -

شَل - زمین پوش (د)

شَلَاء - عورت جس کا ہاتھ سُن ہو گیا ہو -

شَلَاقہ - حرامکار عورت - چھنال - نمبہ -

شَلَق - فقروں کی جھولی -

شَلال - پراگندہ و پریشان - تتر بتر -

شَلال - آبخار - ج: - شَلالات (د)

شَلتہ - ارادہ یا سفر کا ارادہ - بعد کام جس کی  
تخص خواہش ہو -

شَلتاء - شلجی - تیز تلوار - ج: - شَلج -

شَلخ - جڑ - رگ - اولاد - مص - (ف) کاٹنا -

شَلشال - چھڑکاؤ کرنا -

شَلشکتہ - بہانا - ٹپکانا - تتر بتر کرنا - متفرق  
کرنا -

شَلطہ - لمبا اور باریک تیر - ج: - شَلط -

شَلغ - (ف) سرتوڑنا - بھیجا کھول دینا -

شَلغ - سلاح (د)

شَلفہ - چھوٹی زنبیل - (د)

شَلق - (ن) بہت مارنا - جماع کرنا -  
درازی میں چیرنا -

شَلل - کپڑے کا دھبہ جو دھونے سے زائل  
نہ ہو - (دس) ہاتھ کا سُن ہو جانا -  
شل ہو جانا -

شَلم - بیت المقدس کا نام - یروشلم -

شَلقی - شیخ فانی - پیر فرقت - ج: -

شَلاقیق -

شَلین - شلنگ - ایک انگریزی  
سکر - مساوی تقریباً ۱۲ - (د)

شَلو - (ن) چلنا - جانا - بلند کرنا -

شَلو - بدن - عضو - اس چیز کا ٹکڑا یا قاش

خصلت۔ اتر کی سمت۔ جہ۔ ۱۔ شَمَّائیل۔  
 شَمَّال۔ وہ ہوا جو اتر کی طرف سے چلے۔ جہ۔ ۱۔  
 شَمَّالَات۔ شَمَّائیل۔  
 شَمَّام۔ سنہ زور دھاریوں کے چھوٹے خربوزے  
 شَمَّامَات۔ خوشبوئیں۔ سوگنٹھنے کی چیزیں۔  
 شَمَّامِیْط۔ باغبان۔ جہ۔ ۱۔ شَمَّامِیْط۔ (د)  
 شَمَّج۔ (ن) مخلوط کرنا۔ دور دور ٹانگے بھرنا۔  
 (ع) کسی کو کسی چیز سے علیحدہ کرنا۔  
 شَمَّجَرَة۔ گھبرائے ہوؤں کی طرح دوڑنا۔

زناقت (شَمَّج)۔ تیز رفتار اونٹنی۔

شَمَّخ۔ دور۔ بلند۔

شَمَّخَرَة۔ تلک کرنا۔

شَمَّذَس۔ شَمَّذَس۔ تیز رفتار اونٹنی۔

شَمَّس۔ نانہ سے چلنا۔ اکر کر چلنا۔ ملنا۔ دوڑنا۔

بھپٹ کر چلنا۔ جمع کرنا۔ کھجور کو کاٹنا۔

شَمَّس۔ آزمودہ کار آدمی۔ جو افراد۔ تجربہ کار

رسا۔ جہاں دیدہ۔ قاتل حضرت

حسین رضی اللہ عنہ کا نام۔

شَمَّوَج۔ باریک بنا ہوا کپڑا۔ جہ۔ ۱۔ شَمَّاس۔ جہ۔

شَمَّوَج۔ بات میں جھوٹ بیچ ملانے والا۔

اناپ شناپ کینے والا۔ گپتی۔ جہ۔ ۱۔

شَمَّوَج۔

شَمَّوَج۔ انگور کا گچھا۔ جہ۔ ۱۔ شَمَّوَج۔ میخ۔

شَمَّوَجِیْتَة۔ خارجوں کا ایک گروہ جن کا سردار

عبداللہ بن غرار تھا۔

شَمَّوَجِیْتَة۔ لنگے۔

شَمَّوَجِیْتَة۔ کپڑے کو خراب سینا۔ دور دور ٹانگے

بھرنا۔

شَمَّوَجِیْتَة۔ خوبصورت اور تیز رفتار اونٹ وغیرہ۔

جس کو پھیل کر کھاتے ہیں۔ کسی خاندان

کے بچے ہوئے آدمی۔ جہ۔ ۱۔ آشَلَاء۔

شَلْوَة۔ ہر چیز کا ٹکڑا۔

شَلْوَة۔ گوشت کا ٹکڑا بچا ہوا۔ جہ۔ ۱۔ شَلْوَا۔

شَلْوِیْل۔ وہ کپڑا جسے زرہ کے نیچے پہنتے ہیں۔ بڑی

زرہ کے نیچے چھوٹی زرہ۔ دادی میں پانی

جاری ہونے کی جگہ۔ جہ۔ ۱۔ آشَلَة۔

## ش - م

شَمَّ۔ (ن) سوگھنا۔ تلک کرنا۔ تجربہ کار ہونا۔

شَمَّ النَّسِیْب۔ ایام بہار کی تعطیل۔ (د)

شَمَّ النَّهْوَاء۔ تفریح کرنا۔ (د)

شَمَّات۔ نام لودنا کام لوگ۔ پھلکارے ہوئے۔

شَمَّات۔ شَمَّاتَة۔ (س) دشمن کے غم سے

خوش ہونا۔

شَمَّاذ۔ (ض) اونٹنی کا حاملہ ہونا اور اوپر کو

دم اٹھانا۔ اٹھانا۔

شَمَّاسا۔ سونفت۔ بادیاں۔

شَمَّاس۔ شَمَّوَس۔ (ن) انکار کرنا۔ سرکشی کرنا

(ل) کسی کے ساتھ اظہار عداوت کرنا

اور اس کے درپے ہونا۔

شَمَّاس۔ پادری جو درجہ کے اعتبار سے قیس سے

کم ہوتا ہے۔ جہ۔ ۱۔ شَمَّاسَة۔

شَمَّاشِیْر۔ میلے کپڑے (د)

شَمَّاع۔ شَمَّاعَة۔ خوشی۔ ہنسی۔ دل لگی۔

شَمَّاقَة۔ جنون۔ دیوانگی۔ نشاط۔

شَمَّاطَة۔ ہنگامہ (د)

شَمَّال۔ ہایاں۔ مندیمین۔ جہ۔ ۱۔ آشَمَّال۔

شَمَّائیل۔ شَمَّال۔ سرشت۔ طبیعت۔

۵۔ شَمْسَ دَلَّة -

شَمْسُ - (ن) (من) نفرت کرنا۔

شَمْسُ - آفتاب۔ سورج۔ ایک قسم کی کتگی۔

ایک قسم کا گھونڈہ۔ جہاز۔ شَمْسُوس۔

شَمْسِيَّة - چیتری۔ (د)

شَمْسُ - (ن) مارنا تیز ٹانگنا۔ چوپایہ کو ڈنڈے

سے مارنا تاکہ جلد چلے۔

شَمْسُ - (س) کلام کے اندر جلدی کرنا۔

شَمَط - ہانڈی کا مصالحہ۔ جہاز۔ آشَمَاط۔

شَمَاط۔ مص (ض) ایک چیز کو

دوسری چیز میں ملانا۔ بھڑنا۔ درخت

کے پتے جھڑانا۔

شَمَط - (س) بالوں کا سپید وسیا ہونا۔

کچھڑی ہونا۔

شَمَطَان - رکے چند سفید بال۔

شَمَطَاط۔ شَمَطُوط۔ شَمَطِيط۔ فرقہ۔

گروہ۔ جہاز۔ شَمَاطِيط۔

شَمَطَاء۔ ادھیڑ کی عورت۔ سیاہ سفید

بالوں والی۔

شَمَط (ن) روکنا۔ ملانا۔ کسی چیز کو تھوڑا

تھوڑا لینا۔ آمادہ کرنا۔ ابھارنا۔ نرم

گرم بات کرنا۔

شَمَح - جو چیز کہ روشنی کے لیے جلا دیں۔

شہد کا موم۔ واہ۔ شَمَحَة۔

جہاز۔ شَمَحَات۔

شَمَح - شَمُوع - (ف) ہنسی کرنا۔ دل لگی

کرنا۔ متفرق ہونا (ب) چھوڑنا۔

شَمَحَة - متفرق ہونا۔ منتشر ہونا۔

شَمَق - (س) پاگل کی طرح مست و بیخود ہونا۔

شَمْل - گروہ۔ جماعت۔ امبوہ۔ ٹولی۔ متفرق و

پریشان کام۔ اکٹھا کام۔ شمالی ہوا۔

مص۔ (ن) بکری کے تھنوں پر

تھیلیاں چڑھانا۔

شَمْل - شَمُول - (ن) شامل ہونا۔ بائیں

طرف جانا۔ بائیں طرف کر لینا۔

شَمْل - کھجوروں کا گچھا۔ وہ گچھا جو کم پھلا ہو۔

شمالی ہوا کی کتگی۔ بھڑار۔ بوند باندی۔

چند آدمی۔ تھوڑی سی کھجوریں۔ چند

اونٹ۔ جہاز۔ آشَمَال مص (س) کسی

کو شمالی ہوا لگنا۔ ایک چیز کا سب کو اپنے

اندھے لینا۔ بھٹائی برائی کا پھینچنا۔

شَمَال - لایاں۔

شَمَلَة - وسیع چادر جس سے بدن پیٹ لیتے

ہیں۔ جہاز۔ شَمَلَات۔

دَام شَمَلَة - دنیا۔ شراب۔ سورج۔

شَمَلَة - تھوڑی سی بارش۔ تھوڑی سی کھجوریں۔

شَمَلَة - کپڑے میں پینے کی بیٹ۔

شَمَلَق - بد اخلاق عورت۔ جہاز۔ شَمَالِق۔

شَمَلَلَة - جلدی کرنا۔ درخت سے پھل توڑنا۔

شَمَلُول - تھوڑا سا۔ ذرا سا شاخ اوپر سے پھیلی

ہوئی۔ جہاز۔ شَمَالِيل۔

شَم - زد و یکی۔ دوری۔ پہاڑ کی بلندی۔ ناک

کی بلندی و خوبصورتی۔

شَمَهْدَة - چھری وغیرہ تیز کرنا۔

شَمُو - (ن) بلند ہونا۔

شَمُوخ - (ن) بلند ہونا۔ اپنے کو بڑا سمجھنا۔

کبکیر کرنا۔

شَمُود - الماس۔ ہیرا۔

شَنَاق - وہ تسمیر یا ڈورا جس سے مشک کا منہ باندھا جاتا ہے۔ سر کی درازی۔ وہ رسی جس سے قیدی کے ہاتھ کو گردن سے باندھا جاتا ہے۔ ج:- شُنُق - آسِنِقَة -

شَنَان - دھمتی - خلاف - جھگڑا -

شَنَان - ٹھنڈا پانی - برسنے والا بادل متفرق و منتشر -

شَنَان - سفوف - (د)

شَنَان - دشمنی کرنے والا - (م) شَنَانَة -

شَنَانَة - پانی کہ مشک سے یا کسی درخت سے ٹپکے -

شَنَب - دانتوں کی جلا اور آب داری - دن کی خشکی - دانت کے ذہانے اس طرح پرکھن کا کنارہ آسے کے مشابہ ہومص (س) آبدار دانتوں والا ہونا۔ ٹھنڈا ہونا (د) مونچھیں - ج:- آسَنَاب -

شَنَب - ٹھنڈا دن -

شَنَبَاء - آبدار دانتوں والی - انار بے دانہ -

(بغیر بیج کا)

شَنَبَة - پرانی مشک - ج:- آسَنَان -

شَنَان -

شَنَبْرَة - بھاڑ ڈالنا - پارہ پارہ کر دینا -

شَنَبْرَة - انگلی - دوا انگلیوں کا مابین - ج:-

شَنَابَر -

شَنَج - اونٹ - جھریاں - سلوٹیں - مص -

(س) جھریاں پڑ جانا -

شَنَجَار - شکار کا معرب ہے۔ رتن جوت اور وہ ایک خار دار گھاس ہے۔ زمین

شُمُوس - سرکش گھوڑا - ہدمزاج - سخت -

ج:- شُمُوس - شُمُوس -

شُمُوع - ٹھٹھے باز - شعبہ باز - ہنسور -

(مذکر مؤنث) عنبر آئینہ مشک -

شُمُول - ہوا جو قطب کی طرف سے چلے -

شراب شمالی ہوا میں ٹھنڈی کی ہوئی

شراب -

شُمُول - دن، بائیں طرف سے پھر جانا - درخت

سے پھل توڑنا - شراب وغیرہ کو شمالی

ہوا میں ٹھنڈا کرنا - جماع کرنا -

شُمُویْل - ایک نبی کا نام (علی نبینا و علیہ

الصلوة والسلام)

شُمُیْط - ملی ہوئی چیز صبح اولاد جن میں آدھے

لڑکے اور آدھی لڑکیاں ہوں -

شُمُیْم - بلند خوشبو -

## ش - ن

شَنَاء - شَنَان - شَنَاءَة - شَنَان -

(ف - س) دشمنی رکھنا - دشمنی کرنا -

(ب) اقرار کرنا - بیزار ہونا - (س)

نکال لانا - (ل) دینا - عطا کرنا -

شَن - پھٹی ہوئی اور پرانی مشک - ج:-

شَنَان - مص دن (علی) شراب

پر پانی چھڑکنا - غارت لو لانا -

شَنَاب - مست - ج:- شَنَب -

شَنَاب - شَنَاب حقی - لباً آدمی - لباً اونٹ -

شَنَاب - عیب و عار - مشہور براء کام -

شَنَابَة - برائی مص دک، برا ہو جانا -

شَنَاق - لباً - دراز -

چیز کو محبوب رکھنا۔ کسی چیز کا عشق رکھنا۔  
سَنَق - (ن - ض) اونٹ کی لگام کھینچنا  
مشک کا منہ تسمہ سے باندھنا۔ چوپایہ  
کی گردن میں رسی باندھ کر اسے درخت  
پر لٹکانا (د) پھانسی دینا۔

سَنَق - مشتاق۔ عاشق۔ جز۔ آشتاق۔  
سَنَکَل - بک مچھلی کے شکار کا نشانہ۔ (د)  
سَنَم - (ن) چھیلنا۔ خراش کرنا۔  
سَنَم - ٹھنڈا پانی۔

سَنُوَعَة - صاف ستھرا۔ ہر چیز سے نفرت  
کرنے والا۔ بھاگنے والا۔

سَنُوَع - برائی۔ قباحت۔  
سَنُون - بھوکا۔ فریب۔ لاغر۔ اونٹ بوفرہ  
ہونے لاغر۔

سَنِينَع - برا۔ نکما۔ خراب۔  
سَنِينِق - لے پاک۔ ایک نکلڑی جس پر شہد کی  
نکلڑی رکھ کر مکھیوں کے چھتے کے  
عرض میں رکھتے ہیں۔

سَنِين - پانی کے یا آنسو کے قطرے۔ دودھ  
جس میں پانی ملا ہوا ہو۔ مص (ض)  
قطرہ قطرہ ٹپکنا۔

## ش - و

شَوَاء - گوشت جو بھوننے کے لیے ہو۔  
شَوَاء - گوشت بھوننے والا۔  
شَوَائِب - عیوب۔ خوفناکیاں۔ سجاستیں۔  
واہ۔ شَائِبَة -  
شَوَاة - بھنی ہوئی چیز کا ٹکڑا۔  
شَوَاظ - آگ کی لور بغیر دھوئیں کی یا آگ کا دھواں۔

پڑھتی ہوئی۔

سَنَاب - سَنُخُوب۔ سَنُخُوبَة -  
پہاڑ کی چوٹی۔ جز۔ ۱۔ سَنَائِيْب -  
سَنَر - سیاہ ریشمین رومال جو سر پر باندھا  
جاتا ہے۔

سَنَشَنَة - فصاحت۔ عادت۔ جز۔ ۱۔ سَنَشَن -  
سَنَشَنَة - کاغذ اور نئے کپڑے کی آواز۔  
سَنَط - بھنے ہوئے گوشت۔

سَنَطْرَة - (ب) گالی دینا۔ بے آبروئی کرنا۔  
ہتک کرنا۔

سَنَم - (ف) کسی کو ہلکا سمجھنا۔ ذلیل  
کرنا۔ برا کہنا۔ گالی دینا۔ بدنام اور  
رسوا کرنا۔

سَنَم - (س) کسی کام کو برا سمجھنا۔  
سَنَعَاء - بہت بری۔ (مؤنث)  
سَنُوف - سَنَاعَات - پہاڑ کی چوٹی۔  
بلند پہاڑ۔ لمبا ست اور عاجز  
آدمی۔ جز۔ ۱۔ سَنَاعِيْف -

سَنَف - کان کے اوپر کے حصہ کی بالی۔ جز۔  
سَنُوف - مص (ن) (الی) کسی چیز  
کو نفرت کے ساتھ دیکھنا۔ تعجب سے  
یا نظر کرنا بہت سے دیکھنا۔

سَنَف - دشمنی رکھنے والا۔  
سَنَف - (س) دشمنی رکھنا۔ نفرت کرنا۔ نیچے  
کے ہونٹ کا تلک جانا۔

سَنَق - زخموں کی دیرت۔ زکوٰۃ کے دو  
نصابوں کا مابین (مثلاً چالیس بکریوں  
اور ایک سو بیس بکریوں کے درمیان  
کی بکریاں۔ (س - ض) کسی

(گھوڑے کی اصالت اور قدم دیکھنے کے لیے) دوڑانا۔ چوپایہ کا فریب اور خوبصورت ہونا۔ ظاہر کرنا۔

شَوَدَان - کسبم۔

شَوَدَاة - شرمندگی۔ نجالت۔

شَوَدَاة - اندر کا رخ۔ باہر کا رخ۔ شہد کی جگہ۔

شَوَدَاة - نوبی نیکی بیٹھت۔ لباس آراستگی۔

شَوَدَاة ج - مشورہ کا معرب

شَوَدَاة - ایک دریائی گھاس۔

شَوَدَاة - مشورہ۔ رائے اور صلاح۔

شَوَدَاة الدَاوَاة - کونسل آف اسٹیٹ (د)

شَوَدَاة (ن) (مجمولاً) فریفتہ ہونا۔ دل آجانا۔

شَوَدَاة - نشان۔ علامت۔ ج۔ شَوَاذِب۔

شَوَدَاة - (س) تکبر سے یا غصہ میں کن آنکھیں

سے دیکھنا۔ آنکھ کو بھیج کر دیکھنا۔

شَوَدَاة - (ن) مسواک کا چبانا۔ مسواک کرنا۔

شَوَدَاة - (س) مسواک چبانا۔ مسواک

کرنا۔ دانت میں یا پیٹ میں درد ہونا۔

بچے کا پیٹ میں حرکت کرنا۔ لاکھ سے

لانا۔ دھونا۔ خوب صاف کرنا۔

شَوَدَاة - (س) غرور یا غصہ میں آکر کن آنکھیں

سے دیکھنا۔

شَوَدَاة العَيْن - کن آنکھیں سے دیکھنے والی۔

شَوَدَاة - ایک درم پوسٹیلوں کے پردہ میں جو

جاتا ہے پریٹ کا ریاجی درد جو کبھی کسی

جگہ اور کبھی کسی جگہ ہوتا ہے۔

شَوَدَاة - قدم۔ ٹنگ۔ پھیرا۔ چکر۔ وا۔

شَوَدَاة - آشواط۔ ج۔ ۱۔ آشواط۔

شَوَدَاة - (ن) (ب) گالی دینا۔

اور اس کی گرمی۔ لپٹ۔ آفتاب کی گرمی۔ شہرت کا زور۔ جماع کی خواہش۔ گالی۔ شور و فریاد۔

شَوَات - تیز نظر آدمی۔

شَوَاتة - جھانواں (د)

شَوَاكِل - بڑی بڑی گلیاں۔ کوسچے۔ وا۔

شَوَاكِلَة -

شَوَال - بڑا تھیلہ۔ بورا۔ ج۔ شَوَالَات۔

(د)

شَوَال - عید الفطر کے مہینہ کا نام۔ ج۔

شَوَالَات - شَوَاوِيل۔

شَوَالَة - چنل خر عورت۔ بچھو کا علم (اس

معنی میں غیر منصرف ہے)

شَوَاوَت - چوپایہ کے پاؤں۔ وا۔ شَوَاوَتَة۔

شَوَان - غلہ جمع کرنے والا۔

شَوَاوِيَة - بھوننے کے لیے گوشت کا ٹکڑا۔

شَوَاوِيَة - ڈھیر میں سے تھوڑا سا۔ آسان کام۔

قوم کا بقیہ۔ خراب خستہ۔ بچے کچھے

ادنٹ وغیرہ۔

شَوَاب - شہد کسی چیز میں ملا ہوا۔ دودھ۔

شَوَابَة - (ن) ملا (عن)

آہستہ ہانکنا۔

شَوَابَة - فریب۔ مکر۔ دغا بازی۔

شَوَابِيَة - کڑی۔ دھنی۔ ج۔ شَوَاوِيَة (د)

شَوَادَاة - چادر سینہ بند۔ عورتوں کی کرتی۔

ج۔ ۱۔ شَوَادَاة۔

شَوَادِق - کنگن۔ ج۔ ۱۔ شَوَادِق۔

شَوَادِق - شیار۔ شیار۔ (ن) شہد کی مکھی

کے چھتہ میں سے شہد نکالنا۔



کھانا کھانے کا کانٹا۔

ذَاتُ الشَّوْكَةِ: بدبہ والی فروج۔ مسخ لشکر۔

شَّوْل - محوڑا پانی۔ ظرف میں بچا ہوا پانی۔ ہلکا

جہ:۔ آشوال۔ مص۔ (ن) دم

اٹھانا۔ دم اٹھنا۔

شُوْم - بد فال نخس۔ سبز قدم سیاہ اونٹ۔

شُوْمَلِی - بایاں۔

شُوْن - (ن) دماغ کے کپڑے نکالنے کے

لیے سر کا آپریشن کرنا۔

شُوْنَة - بے وقوف عورت۔

شُوْنَة - میگزین گدام۔ جہ:۔ شُوْن - (د)

شُوْة - شُوْهَة - (ت) چہرہ کا بد صورت

ہونا۔ ڈرانا۔ نظر لگانا۔ حسد کرنا۔

دیکھنا۔

شُوْهَاء - بد صورت عورت۔ خوب صورت عورت

جہ:۔ شُوْة۔

شُوْهَب - غار پشت (ایک جانور جس کی پشت پر

کانٹے ہوتے ہیں۔ جہ:۔ شُوْاْهَب

شُوْاْی - آسان کام۔ سر کی کھال۔ ہر عضو جو تلوار

مارنے کی جگہ نہ ہو جسم کے اطراف

یعنی ہاتھ پاؤں وغیرہ۔

شُوْی - بھوننے کے قابل۔

شُوْیَة - جو قوم ہلاک ہو گئی ہو۔ اس کے بچے

ہوئے لوگ۔ جہ:۔ شُوْاْیَا۔

شُوْیْعِی - کم دہے کا شاعر۔

## ش۔ ۵

شَرْهَاء - بہت خواہش کرنے والا۔

شَرْهَاب - آگ کی چمک۔ چنگاری۔ انگارہ۔ ہر

شَوْع - درخت بان۔ ایک گھاس جو پھاڑ

اور نرم زمین میں اگتی ہے۔ وا:۔

شَوْعَة -

شَوْع - پراگندہ۔ پریشان مص (س) سر کے

بالوں کا کانٹے کی طرح سخت ہو جانا۔

شَوْع - شَدِیْع - دوسرا بچہ۔

شَوْعَاء - گھوڑی جس کا ایک رخسار سفید ہو۔

جہ:۔ شَوْع

شَوْف - (ن) صاف کرنا۔ جلا دینا۔ (جمہولاً)

مزمین و آراستہ ہونا۔

شَوْق - نفس کی حرص۔ خواہش۔ میلان

خاطر جہ:۔ آشْوَاق - مص۔

(ن) آرزو مند کرنا۔ باندھنا۔ لٹکانا۔

مضبوط کرنا۔ کسی چیز کو سہارا دے کر

کھڑا کرنا۔

شَوْقَب - دراز قامت آدمی۔ چڑاسم۔ پالان کی

کڑی جس میں رسی لٹکائی جاتی ہے۔

جہ:۔ شَوْاقِب۔

شَوْك (جنس) کانٹے وا:۔ شَوْكَة - جہ:۔

آشْوَاك - مص (ن) کانٹا لگ

جانا۔ کانٹا چھونا۔ (س) قوت و

تیزی جتلانا۔ ظاہر ہونا۔ نکلنا۔ کانٹوں

میں پہنچانا۔

شَوْك - شَوْكَة - (س) قوت اور تیزی کا

اظہار کرنا۔

شَوْكَاء - سخت نبی ہوئی چادر۔ سخت کپڑا۔

شَوْكَة - دھار۔ ہتھیار۔ لڑائی کی شدت و

سختی۔ قوت۔ قدرت۔ زخم۔ جی۔ جیوگی

سرخ بادا۔ جولاہے کا کوٹخ۔ (د)

۱۰۔ شہادہ پر۔

شہادت کا لقب۔ سفیر کو نسل۔ (د)

شہادت کا لقب۔ شاہ تاج۔ ایک بوٹی جو خارش

اور کھجلی کے لیے مفید ہے۔ معرب

شاہترہ۔

شہادت۔ موم ملا ہوا شہد۔ ۱۱۔ شہادت۔

شہادت۔ شاہدانج۔ شاہدانج۔ شاہ دانہ۔

شہادت۔ مینہ۔ ۱۲۔ شہادت۔

شہادت۔ شہادت۔ (ف) ظاہر کرنا۔ مشہور

کرنا۔ تلوار سونتنا۔ تلوار کھینچنا۔ کسی

شے کا برائی کے ساتھ مشہور ہونا۔

شہادت۔ چیتھ۔ نعرہ۔

شہادت۔ (س) نشیلی دکھائی آنکھوں والا ہو

جانا۔

شہادت۔ ریشلی۔ گلابی آنکھوں والا۔

حاجت۔

شہادت۔ ہوشیار و تیز فہم آدمی۔ ۱۳۔ شہادت۔

مست گھوڑا۔ ۱۴۔ شہادت۔

شہادت۔ کلونجی۔

شہادت۔ خواہاں و آرزو مند۔ (م) شہادت۔

۱۵۔ شہادت۔

شہادت۔ خواہش۔ آرزو۔ آسا۔ ۱۶۔

شہادت۔ شہادت۔ مص (س۔ ن)

دوست رکھنا۔ چاہنا۔ آرزو مند ہونا۔

شہادت۔ حاضر ہونے والے گواہ لوگ۔ ۱۷۔

شہادت۔ مص (س) حاضر ہونا۔

شہادت۔ (ف۔ ض۔ س) بلند ہونا۔

شہادت۔ (ف) ڈرنا۔ سما دینا۔

ڈرنا۔

اس چیز کی پگ جو سفید ہو اور اوپر

پڑھی ہوئی ہو۔ پتھر پر کار اور رسا

آدمی۔ ۱۸۔ شہادت۔ شہادت۔

آشہاد۔

شہادت کا لقب۔ بھڑکا ہوا شعلہ۔

شہادت۔ دودھ جس میں دو تہائی پانی ہو۔

شہادت۔ گواہیاں۔

شہادت۔ ٹھیک اور درست چیز یقین۔ آگاہی۔

گواہی مص (س۔ ک) (ل) آگاہی

دینا۔ قسم کھانا۔ جاننا۔ کتنا (علیٰ)

کسی چیز پر مطلع ہونا۔

شہادت۔ سارٹیکٹ۔ سند (د)

شہادت۔ ماہانہ تنخواہ مقرر کرنا۔

شہادت۔ غول بیابانی۔ دیو۔

شہادت۔ (ک) تیز رو اور قوی ہونا۔ تیز طبع

اور چالاک ہو جاننا۔

شہادت۔ پہاڑ جس پر برف پڑے۔ مص

(ف) (د) گرمی اور سردی کا، رنگ کو

متغیر کر دینا۔ مواشی کو بغیر چارے کے

رکھنا اور ہلاک کر دینا۔

شہادت۔ سپیدی جو سیاہی پر غالب آگئی ہو۔

مص (ک۔ س) سپیدی کا

سیاہی پر غالب آنا۔

شہادت۔ سپیدی جو سیاہی پر غالب آجائے۔

شہادت۔ روشن ستارے۔ ۱۹۔ شہادت۔

شہادت۔ بھاری لشکر تو ہتھیاروں کی کثرت سے

جگمگاتا ہو۔ قحط کا سال جس میں گھاس

کا پتہ نہ ہو۔ سردی اور آبی رات۔

شہادت۔ بڑی عمر کا بوڑھا۔ (د) شہادت۔

شہیجہ - خواہش مند - آرزو مند - خواہش کردہ  
شے - پرشہوت - مرغوب -

شہید - حاضر - گواہ - پوری پوری اور سچی گواہی  
دینے والا - جس نے خدا کی راہ میں  
جان دی ہو - جو جہاد میں مارا گیا ہو -  
ج : - شہداء -

شہیر - نیک نام - جس کا چرچا ہو - مشہور و  
معروف -

شہیرۃ - چوڑی چمکی - (مؤنث) -

شہیق - گدھے کی آواز - ریک مص - (ف)  
ض : - س ، روتے روتے بچکی لگ جانا -  
نظر لگنا - گدھے کا آواز کرنا - بیچنا -

## ش - ی

شعی - (ض) - بھوننا -

شعی - چیز - ج : - ۱۔ آشیا - آشیا واکت -  
مص (ف) - چاہنا - ارادہ کرنا -

(یا) شعی - کلمہ تعجب -

شعیاب - پانی جو کسی چیز میں ملا جائے -

شعیاق - خواہش - ارادہ -

شعیاج - کوشش - پرہیز - قحط -

شعیاط - روٹی اور اون کے جلنے کی چراند اور  
بدلو -

شعیاع - لکڑی کی چھٹی جس سے آگ سلگائیں -  
چرواہے کی بانسی مص (ض) کسی  
کے پیچھے ہونا - کسی کے ساتھ ہونا -

شعیاف - آگہ وغیرہ کی دوائیں -

شعیاق - (ض) - رسی باندھنا -

شعیال - بوجھ اٹھانے والا -

شیشیا کہ - بوجھ اٹھانے کا پیشہ -

شیشیا م - نرم زمین - مٹی -

شیشیا م - مٹی - چرواہا - ج : - شیشیم -

شیشیان - خون سیاؤشان (ایک دوا ہے)  
تیز نظر آدمی -

شیشیب - سفید بال - بالوں کی سپیدی -

بڑھاپا - مص - (ض) - بالوں کا سپید  
ہونا -

شیشیب - پساڑ برف سے سپید ہو جائیں  
بڑھاپا -

شیشیباء (لیکن) - رات جس میں باکرہ عورت  
کی بکارت زائل کی جائے - شب  
تفاف - مہینہ کی آخر رات -

شیشیان - دکھان - جاڑے کے دو مہینے جن  
میں سردی زیادہ ہوتی ہے -

[یوم] شیشیان - وہ دن جس میں سردی ہوا اور  
ہلکی بدلی چھائی ہوئی ہو -

شیشیبتہ - بڑھاپا - ایک بوٹی جسے افستین بھی  
کہتے ہیں -

شیشیت - چھینٹ (د)

شیشیتہ - نشان - گھوڑے وغیرہ کے بدن پر -  
دوسرے رنگ کا دھبہ - ج : -

شیشیات مص (ض) - کپڑے کو چھاپنا -  
اچھا کرنا - جھوٹ کرنا - گفتگو کو جھوٹی  
سچی باتوں سے آراستہ کرنا -

شیشیم - (ض) - (علی) کو شش کرنا - بچنا -  
پرہیز کرنا -

شیشیمو - کام میں کوشش کرنے والا - پرہیز  
کرنے والا - ج : - شیشیاح -

شَیْخَان - رشک کرنے والا۔ بڑی غیرت والا آدمی۔ بے تکان دوڑنے والا۔ ہر لمبی چیز۔	شَیْخَان - عمدہ۔ اچھی۔
شَیْخَان - بڑی عمر کا آدمی۔ بزرگ۔ سردار۔	شَیْخَان - شیشیز۔ شیشیزئی۔ آنوس یا ایک قسم کی کالی اور بہت سخت لکڑی۔
شَیْخَان - شیعوی سمجھ والا۔ عقل مند۔ ج۔۔	شَیْخَان - سگرٹ کا پائپ۔ چلم۔ (د)
شَیْخَان - شیعوی۔ آشیانہ۔ شیعیت۔	شَیْخَان - ایک قسم کا ردی بھوارہ۔ ایک قسم کی پھلی۔ وا۔۔ شیعیت۔
شَیْخَان - مَشَائِخ۔	شَیْخَان - شیوٹ۔ شیوٹ۔ شیوٹ۔ شیوٹ۔
شَیْخَان - حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما امام اعظم و ابو یوسف رحمہما اللہ تعالیٰ، حکیم ابن سینا و ابو نصر فارابی۔	شَیْخَان - (ض) جل جانا۔ ہلاک ہونا۔ تقسیم ہو کر کسی چیز کا ختم ہو جانا۔ ملانا۔ دوڑ دھوپ کرنا۔ رائیگاں جانا (فی) جلدی کرنا۔
شَیْخَان - بڑھی عورت۔ بڑھیا۔	شَیْخَان - دلہ۔ سرکش۔ شریر اور فسادی آدمی چوہا یہ وغیرہ۔ ج۔۔ شَیْخَان
شَیْخَان - بڑھا۔ اسی برس کا بڑھا۔	شَیْخَان - ایک بوٹی کا نام ہے۔ چترک۔ چیتہ۔ (اس دوا کے یہ ہندی نام ہیں)
شَیْخَان - (ض) استرکاری کرنا۔ بلند کرنا۔ اونچا کرنا۔ ہلاک ہونا۔	شَیْخَان - سرکشی کرنا۔ شرارت کرنا۔ نافرمان ہو جانا۔
شَیْخَان - چونا۔ گچ۔ مٹی وغیرہ جس سے استرکاری یا کھنک کر رہی۔	شَیْخَان - مثل ماند شیر کا بچہ۔ ج۔۔ آشیانہ۔
شَیْخَان - بھیڑیا۔	شَیْخَان - شیعہ۔ شیعہ۔ شیعہ۔ شیعہ۔ شیعہ۔
شَیْخَان - تیز رفتار اونٹنی۔	شَیْخَان - خیر کا ظاہر ہونا۔ پھیل جانا کھل جانا۔ پڑ کرنا۔ بھرنے۔
شَیْخَان - مشورہ دینے والا۔ ج۔۔ شَیْخَان	شَیْخَان - تاج۔ پیرو۔ ج۔۔ شَیْخَان
شَیْخَان - فریب گھوڑا۔ ج۔۔ شَیْخَان	شَیْخَان - بچے چلنے والا اور مددگار۔ گردہ۔ جمع۔ ٹولی۔ ایک فرقہ جو خود کو اہل بیت سے منسوب کرتا ہے۔ ج۔۔ آشیانہ
شَیْخَان - طہررت کے بیٹے کا نام جس نے فارس میں ایک شہر بسا کر اس کا نام شیراز رکھا۔ جہاں دودھ جس میں سے پانی نکال دیا جھٹھے۔ ج۔۔ شَیْخَان	شَیْخَان - متبرک۔
شَیْخَان - شہر آریز۔	شَیْخَان - (الی) کسی چیز کو کھنک کر ہلانا۔
	شَیْخَان - مشتاق۔ آرزو مند۔

یشیق - پساڑکی چوٹی۔ چوپایہ کی دم کے بال۔  
ایک قسم کی مچھلی۔

شیدھ - (رض) تلوار کو میان میں کرنا۔ تلوار  
سو متنا۔ کسی کے دونوں ہاتھوں کو غبار  
آلود کرنا۔ بجلی کو نظر اٹھا کر دیکھنا کہ  
کدھر کو نذقی ہے اور کہاں بارش  
ہوتی ہے۔

شیدھ - شیوہ - (رض) لڑائی میں مضبوط  
اور ٹھیک ٹھیک حملہ کرنا۔ ایک چیز میں  
داخل ہونا۔ ایر لگانا۔ پوشیدہ کرنا۔  
بجلی کو دیکھنا۔ بارش کی سمت معلوم  
کرنے کی خاطر۔

شیدھ - زمین جو کھودی نہ گئی ہو۔ اور بہت  
سخت ہو۔

شیمۃ - خصلت۔ طبیعت۔ عادت۔ ج:۔  
یشیہ۔

شیمل - شمول - شمول - شمول  
شیمیل - شمالی ہوا۔

شین - عیب۔ برائی۔ مص (رض) کسی کی  
عیب گیری کرنا۔

شین - حرف شین۔ حرف تہجی میں سے  
ایک حرف ہے۔

شینیز - کلونجی۔  
شویوع - چھبیاں وغیرہ۔ جس چیز سے آگ  
سلاگٹیں اور بھڑکائیں۔

شویعیۃ - بالشوازم۔ روسی اشتراکیت (د)  
ھیوہ - بہت نظر لگانے والا۔

شہیدہ - (رض) کسی کا عیب بیان کرنا۔ نظر لگانا۔  
شہدہ - لمبے کانوں والا۔ نرغار پشت۔ ج:۔

شیاہم۔

ص - ۱

صَاۡة - وہ پانی جو ولادت کے بعد بچہ دانی  
سے نکلتا ہے۔

صَوَابۃ - جوں اور پستو کا اٹھا۔ ج:۔  
صائبان۔

صَاب - مینہ۔ برستا ہوا مینہ۔ جھڑی۔  
صَابۃ - آفت۔ مصیبت۔ ضعف۔ سستی۔

کم عقلی۔ ایک کڑوا درخت۔ ج:۔  
صَاب -

صَابِح - ظاہر و آشکار (د) تازہ۔ جدید۔  
صَابِد - سنے والا۔ صبر کرنے والا۔ کسی کو قتل  
کے لیے روکنے والا۔ ج:۔ صَابِدُون

۴ - صَابِدۃ - ج:۔ صَابِدَات۔  
صَوَابِد۔

صَابِیۃ - ستارہ پرست۔ ایک خاص مذہب  
کا معتقد۔ ایک مذہب سے دوسرے  
مذہب میں چلا جانے والا۔ ج:۔

صَابِیُون۔  
صَابِیۃ - پورب اور شمال کے درمیان کی ہوا۔  
ج:۔ صَوَابِی۔

صَات - آوازہ شہرت۔ سخت آواز والا۔  
صَا ج - ابر سے کھلا ہوا دن۔

صَاحِب - یار۔ دوست۔ ساتھی (د) مالک  
ج:۔ صَحَاب۔ صَحَاب۔

صَحَابۃ - جج:۔ آصَحَاب۔  
حجج:۔ آصَحَاب۔

صَاحِبِ الْبَرِیۃ - قاصد کا بیچنے والا۔

صاحب الحوت۔ مچھلی والا۔ حضرت یونس علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا لقب۔  
 صاحبان۔ امام ابو یوسف و محمد رحمہما اللہ تعالیٰ۔  
 صاحبۃ۔ بیوی صاحب کا مؤنث۔ ج۔۔  
 صواحب۔ سخت آواز ککانوں کے پرد پھاڑے  
 قیامت۔ سختی و مصیبت۔ ج۔۔  
 صواخ۔ مٹی کا آب خوردہ۔  
 صا۔ پیاسا۔  
 صاد۔ حرف ص۔ حروف تہجی میں سے ایک حرف۔ تانا۔ ج۔۔ آصیاد  
 صا۔ پھرانے والا۔ لوٹ آنے والا۔ لفظ والا۔  
 (د) برآمد۔ آمدنی۔ پیداوار۔  
 صا۔ لنبلیہاڑ۔ پانی کا تالہ اور در وجودور تک چلی گئی ہو۔ روشن صبح۔  
 صا۔ سچ بولنے والا۔ سچا۔ سچ۔ ظاہر روشن۔  
 (الصبر) الصادق۔ دوسری فہر جس کی روشنی اُفتق پر پھیلتی ہے۔  
 صا۔ پیاسی۔ ج۔۔ صواوی  
 صا۔ حاجت۔ پیاس۔ ج۔۔ صواشر  
 صوا۔  
 صا۔ نافذ مشک  
 صا۔ الجبل۔ پہاڑ کی چوٹی۔  
 صا۔ فریاد کو پہنچنے والا۔ فریاد چاہنے والا  
 مریخ۔  
 صا۔ فریاد چاہنے والے کی آواز۔ مص

رف) فریاد کو پہنچنا۔  
 صا۔ نفوذ کو جانے والا۔  
 صا۔ بہادر۔ شیر۔ شمشیر بران۔ ج۔۔  
 صا۔ گانے والا۔ ج۔۔ صا۔  
 صا۔ چونا جو راکھ وغیرہ میں ملا ہوا ہو۔  
 صا۔ کشتیان۔ ملاح۔ ناخدا۔ کشتی کا مستول۔ ج۔۔ صا۔  
 صا۔ کتے کے بیلے کا آنکھ کھلنے سے قبل دکھنے کی کوشش کرنا۔ ڈرنا۔ ذلیل ہونا۔ بڑول ہونا۔  
 صا۔ ایک پیمانہ ہے مساوی تقریباً ساڑھیں سین سیر انگریزی پست زمین۔ نشیب کی جگہ۔ ڈنڈا۔ بلا۔ کھیلنے کے لئے صاف کیا ہوا میدان۔ کھیل کا میدان۔ ج۔۔  
 صا۔ آصواع۔  
 صا۔ پست زمین۔ روٹی دھننے کی نغز سے صاف کی ہوئی جگہ (د) ڈرائنگ روم۔  
 صا۔ اوپر چڑھنے والا۔  
 صا۔ موت۔ مہلک عذاب، بولناک عذاب کی آواز۔ بجلی جو زمین پر گرتی ہے۔ ج۔۔ صوا۔  
 صا۔ آسمان۔  
 صا۔ آگ گرانہ۔  
 صا۔ پورا سکہ۔ خالص ترکی (د)۔  
 صا۔ ذلیل و خوار آدمی۔ وہ کہ جو ذلت و حول دہیہ اور گالی گلوج سے خوش رہے ج۔۔ صا۔  
 صا۔ جو اپنی حاجتوں میں دوسروں کے محتاج ہوں جو احتیاج کے سبب سے کسی کے ساتھ لیٹے رہیں۔

صَاقِل - آواز والا۔  
 صَاقِل - دنگ دُور کرنے والا۔ صیقِل گر۔  
 صَاقِس - کھاڑی۔ زبان۔ کڈال۔ ج۔۔  
 صَوَاقِب - کھوپڑی کا اندر درنی حصہ۔ تیسرے  
 آسمان کا نام۔  
 صَاك - پسینہ کی بدبو (س) جم جانا۔  
 صَاكَة - ترنگڑی کی بو۔  
 صَاكِل - آگ میں داخل ہونے والا۔  
 صَاكِب - پیٹھ کی بڈی۔ گردن سے سرین تک  
 پیٹھ کی بڈی کے مہرے۔ تپ لڑھ۔  
 صَاكَلَة - رٹ (خمل) کرنا۔ اونٹ وغیرہ کا آدمیوں  
 پر دوڑانا۔  
 صَاكَلَه - بڑا مال (د)۔  
 صَاكِح - نیک۔ قابل۔ م: صَاكِحَة - ج۔۔  
 صَاكِحَات - صَوَالِح - بہت ج۔۔  
 صَاكِح قوم ثمود کے نبی علی نبینا و  
 علی الصلوٰۃ والسلام۔  
 صَاكِح (جَرَب) - کھجلی کہ جس میں کھال اڑ جائے  
 یا کھجالتے کھجالتے پھل جائے۔  
 صَاكُون - برآمدہ (د)۔  
 صَاكِمَت - چُپ رہنے والا۔ خاموش ہونے  
 والا۔ جما ہوا دودھ میں اڈنٹ۔  
 سونا چاندن اور جوہرات۔  
 صَاكِمَان - منہ کے ہر دو کنارے۔ طبرستان  
 کا ایک شہر۔  
 صَاكِل خَشک - سوکھا

صَاك - بڑے بڑے بالوں والا مینٹھا۔ صَاك  
 ستمرا۔ خالص۔ ج۔۔ صَفَاة  
 (يَوْم) صَاك - ٹھنڈا دن بے ابر کا۔  
 صَاك - صَاكِف - گرم۔  
 صَاك - صف باندھنے والا۔ اکٹھا کرنے والا۔  
 ج۔۔ صَاكُون - صَفُوَف  
 صَاكَة - اونٹ جو قطار میں بند میں ج۔۔ صَوَاف  
 الصَّاقَاتِ صَفَا - برابر برابر صف باندھے  
 ہوئے منرشتے۔  
 صَاكِح - اونٹنی جس کا دودھ خشک ہو گیا ہو۔  
 ج۔۔ صَوَاقِح -  
 صَاكِنَا - جس کے دونوں پاؤں میں بیڑیاں پڑی  
 ہوئی ہوں ج۔۔۔ صَقَدَاة -  
 صَاكِر - جوڑ۔ ایک ڈرپوک پرندہ جو رات کو  
 جاگتا اور چیختا رہتا ہے کہ کس سوتے  
 میں اُسے پکڑ لیا جائے۔ ہر پرندہ  
 جو شکاری نہ ہو۔  
 صَاكِفَة - گردہ۔ مجمع۔ ٹولی۔ انبرہ۔ سختی۔  
 حادثہ۔ ج۔۔۔ صَوَاقِف  
 صَاكِن - گھوڑا جو مین پاؤں پر زور دے ہوئے  
 اور چوتھے سہم کا سرا نکالے ہوئے کھڑا  
 ہو۔ پنڈلی کی ایک رگ کا نام۔ ج۔۔  
 صَاكِنَات - صَوَاقِن صَبُوَن  
 وہ شخص جو دونوں پاؤں کو ملا کر  
 کھڑا ہو۔  
 صَاك - بمعنی ساق۔ پنڈلی۔  
 صَاكِمَة - مصیبت نازل ہونے والی۔ ج۔۔  
 صَوَاقِد -  
 صَاكِع - سر پر مارنے والا۔ چاٹا لگانے والا

م - صَائِمَةٌ جہ - صَوَائِمُ  
صَائِمَات

## ص - ب

صَدَبٌ - کھانے وغیرہ میں سے جو گرا دیا جائے۔

جو گر کر بہ جائے - عاشقِ مص (ن)  
بکھیرنا - بکھرنے (ف) [ اُترنا (مجمولاً)  
نا پید ہو جانا -

صَبَّوَةٌ - صَبَّوَةٌ - صَبَّوَةٌ - (ن) ایک

مذہب سے دوسرے مذہب میں جانا۔

کھانے میں ہاتھ ڈالنا - بچکے دانت  
نکل آنا - شریاکا طلوع ہونا -

صَبَاً - پروا ہوا ضد دہر - اس کا ثنیہ -

صَبَّوَانٌ - صَبَّيَانٌ - جہ -

صَبَّوَاتٌ - اَصْبَاءٌ

صَبَّاءٌ - (ن) باد صبا کا چلنا۔

پروا ہوا کا چلنا۔

صَبَاً - روکین -

صَبَابَةٌ - { عشق و شوق - نرم دلی - رقتِ قلت

{ عشق کی گرمی - اور سوزشِ عشق کی

{ تنگ دلی اور الجھنِ مص (س)

{ الی [ کسی پر عاشق و منسرِ یفتہ

ہونا۔

صَبَابَةٌ - برتن میں بچا ہوا پانی یا دودھ -

صَبَّاحٌ - ترکا - فجر -

صَبَّاحٌ - قندیل کا شعلہ اور روشنی حسین

خوبصورت آدمی م - صَبَّاحَةٌ

جہ - صَبَّاح

صَبَّاحٌ - خوبصورت - حسین آدمی -

صَانِعٌ - پیشہ ور - کاری گر - کاریگری کرنے

والے بنانے والا جہ - صُنَاعٌ

صَاوِيٌّ - سوکھا -

(مُخَلَّةٌ) صَاوِيَّةٌ - چھوارے کا سوکھا ہوا

درخت -

صَاهِلٌ - اونٹ جو ہاتھ پاؤں زمین پر دیدے

مارے اور کائے کو دوڑے بھوڑا

جہ - صَوَاهِلٌ -

صَاهِلَةٌ - آواز - کھیوں کی بھینٹنا ہٹ - جہ -

جہ - صَوَاهِلٌ -

صَعِيٌّ - جو ہے بلی وغیرہ کی آواز مص (ت)

ص (آواز کرنا -

صَائِبٌ - ٹھیک کام کرنے والا - خالی کا ضد

موسا دھار مینہ - بھڑی، بارش

کہ برابر برے جائے -

صَائِتٌ - فریاد کرنے والا -

صَائِحَةٌ - زریہ و زاری - رونے پٹینے کی آواز

چھیننے والی جہ - صَوَائِحٌ

صَائِدٌ - شکاری - شکار کھیلنے والا - شکار

کرنے والا -

صَائِرُ الْبَابِ - کواڑ کی دراز -

صَائِعٌ - شمار - جہ - صَاعَةٌ - صَوَاعٌ

صَائِعٌ -

صَائِفٌ - گرم دن

(نَيْكَةٌ) صَائِفَةٌ - گرم رات -

صَائِقٌ - چھٹنے والا -

صَائِمٌ - (مادہ صائم) پیاسا (مادہ صوم)

روزہ دار - کھڑا ہونے والا - اٹھا ہوا

جہ - صَوَامٌ - صَوَامٌ - صَيَّاهٌ -



صَبِيَّة - دسترخوان پر گرے ہوئے کھانے کے ریزے - دسترخوان - جمانور کا کالگہ - آدمیوں کا گروہ - مجمع - ٹوٹی رات کا حصہ - تھوڑی سی رات ہر چیز میں تھوڑی سی -  
 صُبْح - تڑکا - فجر - دن کا شروع - جہ : اھنیا  
 صَبِيح (ن) صبح کے وقت آنا عنان کا ہر کرنا - تشریح کرنا -  
 صَبِيح - (س) لوہے کی چمک مص (س) بھورے بالوں والا ہونا -

صَبِيحًا - بھورے بالوں والی عورت -  
 صَبِيحَان - خوب صورت - حسین - صبح کے وقت شراب پینے والا - م :- صَبِيحِي ج :- صَبِيحِي -  
 صَبِيحَان - صبح کی شراب میں جلدی کرنے والا -  
 صَبِيحَة - صبح کی میند - وہ کام جس میں علی الصباح مشغول ہوں -  
 چھوڑ پین -

صَبِيحَة - بجز زمین - جہ - صَبَاخ -  
 صَبْر - مزاج کا استقلال - جماؤ - گھبراہٹ کی ضد مص (ن) کسی کو کوئی چیز لازم ہونا [عن] کسی کو کسی چیز سے روکنا [علی] کسی کو کسی چیز پر مجبور کرنا - کسی کام میں مستقل رہنا - کسی کام کو چم کر کرنا -

صَبْر - صَبَارَة - (ن) ذمہ دار ہونا - ضامن دینا - بھیر کرنا -  
 صَبْر - ایلوا (بے گھی کو اور کا عصارہ) جہ : صَبْر

صَبَاخَة - خوبصورتی مص (ل) خوبصورت ہونا -  
 صَبَاخِيَّة - خوبصورتی - حسن و جمال -  
 صَبَاخِيَّة - چوڑی چوڑی بھالیں -  
 صَبَاس - ایک کڑوے درخت کا پھل - بوتل وغیرہ کی ڈاٹ - مرتبان وغیرہ کے منظر پر ماند ہونے کا کپڑا مص (مفاعلہ) ایک دوسرے کو صبر دینا - سلی دنیا - صبر کرنے میں مقابلہ کرنا -

صَبَاس - بہت صبر کرنے والا - بہت مستقل مزاج  
 صَبَاس - اعلیٰ - ترمندی - جنون - سوداوی  
 صَبَارَة - سخت و بلند زمین -  
 صَبَاس - اعلیٰ -

صَبَارَة - لوہے کا یا پتھر کا ٹکڑا - بہت سے پتھر -  
 صَبَارَة - جاڑے کے موسم میں کڑکے کی سردی -  
 صَبَارَة - بلند و سخت زمین -  
 صَبَاصِب - صَبْصِب - صَبْصَاب سخت - موٹا -

صَبَاغ - رنگ - جہ :- آصِبَة  
 صَبَاغ - رنگ ریزہ - نیلگہ - جھوٹا کہ اپنی خوب زبانی سے بات کو رنگ دے -  
 صَبَان - صَبَانِي - صابون بنانے والا -  
 صابون بیچنے والا -  
 صَبَب - نیچی زمین - گرٹھا جس میں برساتی پانی جمع ہو جائے - ندی کا بساؤ -  
 نشیبی زمین میں اترنے کا راستہ  
 جہ :- آصَبَاب

عاشق عورت کسی سے دلچسپی ہوتی -  
 جہ :- صَبَات

زالی) کھیل کود اور لڑکپن کی بوقتوں کی طرف مائل ہونا۔

صَبْوَب - پانی گرا ہوا - پھینکا ہوا۔

صَبْوَة - لڑکپن کی نادانی - کھیل کود - تلوار کی دھار - پاڑ -

صَبْوَة - صَبْوَة - صَبْوَة - (ن) [الے] (لڑکپن کی طرف) بھگنا - میل کرنا مشتاق ہونا - خواہش کرنا - چاہنا - پھرنا۔

صَبْوَح - دودھ وغیرہ جو صبح کے وقت پیتے - ناشتا - ادنیٰ وغیرہ جو صبح صبح درہی یا

صَبْوَحَة - ادنیٰ جو صبح کے وقت دوہی جائے - صَبْوَس - صابر -

متمحل - بردبار - صبر کرنے والا - درگزر کرنے والا کہ گناہ گاروں پر مؤلفانہ

ذکرے بلکہ ان کو بخش دے یا ان کی گرفت میں جلدی نہ کرے۔ جب۔

صَبْوَد - وہ آدمی جو قتل کے لئے روکا گیا ہو۔

صَبْوَع - (ف.ض.ن) چھاتوں یا تھنوں کا دودھ سے بڑھتا اور خوش رنگ ہونا

لبیا ہونا (ب.عندانی) اشارہ کرنا

صَبْهَيْد - اضر فوج (د)

صَبِي - لڑکا - دودھ پیتا لڑکا - آنکھ کی پتی کان کی لو کی بڑی - تلوار وغیرہ کی

دھار - پاڑ - سردار - رئیس قوم پاؤں کی پشت - ٹھوڑی - جب۔

أَصْبِيَة - صَبْوَة - صَبْبَان - صَبِي - صَبِيَاء - (س) لڑکپن کی حرکات کرنا - بچوں کے ساتھ کھیلنا۔

زالی) (لڑکپن کی طرف) مائل ہونا

صَبْر - پتھر پل زمین

صَبْر - برف - جہ - آصْبَاس

صَبْر - کنارہ - دل - سپید ابر - ہر چیز کا کل جہ - آصْبَاس

صَبْرَة - ڈھیر بے نیاٹا - جاڑے کے موسم میں گڑا کے کی سردی۔

صَبْرَة الشَّيْءِ - چیلے کا جاڑا - صَبْصَبَة - متفرق کرنا - منتشر کرنا۔

صَبِيَع - (ت) [ب] و [ا] کسی پر انگلی اٹھانا۔ انگلی سے جانا کسی کی طرف انگلی سے اشارہ کرنا۔ بفرصلہ برتن میں سے

انگلی سے پانی گرانے کہ ٹوٹنی کی طرح دھار نیدہ جائے۔

صَبِيْع - (ف.ض.ن) رنگا - ڈبونا - غوط دینا۔

صَبِيْع - رنگ - جب۔ آصْبِيَاع - سالن۔ جب۔ صَبِيَاع -

صَبْبَعَاء - ایک گھاس - سفید دم والی بکری۔ جب۔ صَبْبِيْع -

صَبْبَعَة - رنگ دین - مذہب - طریقہ (د) پتھر عیسائیت کی رسم - اَصْبِيَاع -

صَبْبَعَة - کچی کھجوریں جو کینے لگی ہوں اور پینڈی کی طرف سے مخرج ہو چکی ہوں۔

صَبْن - (ض) [ع] روکنا - پھیرنا اور دوسری طرف گھما دینا۔

صَبْبَاء - جوئے باز کا ہاتھ جس سے وہ اپنے مقابل کو دھوکہ دینا چاہے۔

صَبْبِيَة - سنار کی کاغذ - صَبْو - صَبِي - صَبْبَاء - (ن)

صَحَابَة - صُحْبَة - (س) ساتھ دینا۔ دوستی کرنا  
میل کرنا۔

صَحَابَة - وہ مقدس حضرات جنہوں نے حالت  
اسلام میں آنحضرتؐ کا فیضِ صحبت اٹھایا  
یا آپؐ کو دیکھا ہے۔ ۱۰:۱۔ صحابہ  
صَحَابِي - صحابہ کی طرف منسوب یعنی ان میں  
ایک

صَحَاح - تندرست۔ ہلکا۔ مشکل راستہ  
درست۔ ٹھیک۔

صَحَاحُ الْاَدْيَسِ - جس کی کھال کٹی پھٹی نہ ہو۔  
صحاف - پانی جمع ہونے کا چھوٹا گڑھا۔  
ج: ۱۰: ۱۔ صَحَفٌ -

صَحَاقٌ - صحیفہ کے پڑھنے میں غلطی کرنے والا  
صحیفہ سمیچنے والا۔

صَحَافٌ - اخبار نویسی۔ جرنلزم (د)

صَحَافِي - اخبار نویس۔ جرنلسٹ (د)

صَحَّابٌ - ذبح کئے ہوئے جانوروں کی کھال  
اُتارنا۔ اس کو تپانا اور صاف کرنا۔

صِحَّةٌ - تندرستی (ص) بیماری سے اچھا  
ہونا۔

صَحْرٌ - سرخی سپیدی باہم آمیختہ۔

صَحْرٌ - (ف) پکانا۔ (دودھ کا) صیحر بنانا  
(صیحر ایک قسم کا طعام)۔

صَحْرَاءٌ - چٹیل میدان۔ ہموار جگہ۔ میدان جس  
میں روئیدگی نہ ہو۔ ج: ۱۰: ۱۔ صَحَّادِي  
صَحْرٌ اَدَاتٌ

صَحْرَاءٌ - پتھر ملی زمینوں کے درمیان نرم ہموار  
زمین ج: ۱۰: ۱۔ صَحْرٌ سرخی و سپیدی ملی جلی۔

صَحْرَاءٌ - ہموار زمین ج: ۱۰: ۱۔ صَحْرٌ صِحْرٌ -

صَبِيَّةٌ - لڑکی۔ ج: ۱۰: ۱۔ صَبَايَا  
صَبِيْبٌ - کسم۔ سرخ رنگ۔ پینا۔ خون مندی  
کاعوق۔ سنا۔ تلوار کا کنارہ۔

صَبِيْبٌ - حسین۔ خوبصورت۔ م: ۱۰: ۱۔ صَبِيْحَةٌ  
ج: ۱۰: ۱۔ صَبَاحٌ -

صَبِيْبٌ - صابر۔ صابن۔ پہاڑ۔ سفید بادل۔  
ج: ۱۰: ۱۔ صَبَّاءٌ -

## ص - ت

صَتٌ - (ت) زور سے دھکیلنا۔ دوہڑانا  
صَتٌ - صِتٌ - صُتَةٌ - گروہ۔ جماعت۔  
صِتَاتٌ - مُصَاتَةٌ - ٹھگڑ کرنا اور آپس  
میں لڑنا۔

صَتَّتٌ - درپے (جیسے بِصَتَّتِهْ - یعنی  
وہ اس کے درپے ہے)۔

صَتَعٌ - (ت) پچھاڑنا۔

صَتْمٌ - صَتْمٌ - صَتْمٌ - مضبوط۔ مستحکم

صَتْمَةٌ - صَتِيْمَةٌ - سخت۔ پتھر۔

كَبِيْتٌ - جماعت و گروہ۔ شور و فریاد۔

## ص - ج

صَجٌ - (ن) لوہے کو لوہے پر مارنا کہ دونوں  
سے آواز نکلے۔

صَجِيْبٌ - صَجِيْبٌ - لوہے کو لوہے پر مارنے  
سے پیدا ہونے والی آواز۔

## ص - ح

صَحٌّ - تندرستی (ص) بیماری سے اچھا  
ہونا۔ درست ہونا۔ جیت پاک ہونا۔

صَحْفَة - بڑا پیالہ - جہ - صفحات  
 صَحْفَتی - وہ شخص جو اپنے ذاتی مطالعہ کے استاد  
 کی مدد کے بغیر علم حاصل کرے -  
 صَحْل - آواز کا بھاری پن اور جھوٹا پن  
 (س) گلے کا بیٹھ جانا - آواز کا بھرا جانا  
 صَحْمَاء - سیاہ زردی مالہ (اصْحَمُ کا مؤنث)  
 جہ - صَحْمُ ایک سبزی کا نام -  
 صَحْمَة - سیٹی زنگ - سیاہی زردی مالہ -  
 صَحْن - بڑا پیالہ - انگن - ہوا زمین - جہ -  
 صَحُونِ مِص (ت) کسی کو بڑے  
 پیالہ میں کھ دینا - مارتا - اچھا کرنا -  
 [بین] صلح کر دینا -  
 صَحْنَاء - صَحْنَاءَة - صَحْنی - ایک سالن جو  
 چھوٹی ٹھیل سے پکایا جاتا ہے -  
 صَحْنَة - پیالہ یا جو برتن پیالہ کے مشابہ ہو -  
 صَحْو - (ن - س) ہوشیاری صاف اور  
 بے ابرون - (یا آسمان میں لڑکپن  
 کی نادانی اور بیہودگی چھوڑ دینا -  
 نشتر اتر جانا - سردی کا جاتا رہنا -  
 ابر کا کھل جانا -  
 صَحِیم - تندرست - جھلا چنگا - ہٹا کٹ -  
 صیح سالم - درست - جہ - آصَحَاء  
 صِحاح  
 صَحِیْرُ الْاَدْنِی - جس کی کھال کٹی پٹی نہ ہو -  
 صَحِیْر - صَحْاَس - گدھے کی آواز میں (ت)  
 گدھے کا بہت زور سے چنگھاڑنا -  
 صَحِیْرَة - ایک قسم کا کھانا جو دودھ اور آٹے  
 سے بنتا ہے -  
 صَحِیف - سطح زمین -

## ص - خ

صَحْفَة - خط - کتابت (د) انجاء - رسالہ  
 جہ - صَحْفَات - صَحْفَت آدمی  
 وغیرہ کی کھال کا اوپر کا رخ - جہ -  
 صَحِیف -  
 صَحِیفَة - پیالہ -

صَحْر - پتھر کی آواز میں (ن) سخت چیز کو  
 نرم چیز پر مارتا - ہرا کر دینا - کوڑے  
 کا اونٹ کی پشت کے زخم پر  
 چوبچ مارنا -  
 صَحَاب - شور و فساد کرنے والا - سینچنے والا  
 سخت آواز والا - بد زبان -

صَحَب - آواز و فساد - چیخ پکار میں (س)  
 لڑائی مھڑکے میں آواز کا بھلنا کہ  
 جلدی میں کھٹے کھٹے - شور کرنا -  
 صَحِیب - شور و فساد کرنے والا -  
 صَحْنَان - شور و فساد کرنے والا - جہ: صَحْنَان  
 صَحِیْبَة - چینی والی - شور و فساد کرنے والی -  
 (عین) صَحِیْبَة پانی کا چشمہ جس  
 میں بہت شور و شغب ہو -

صَحْد - (ت) مجلس دینا - چڑھا دیا اور چوسے  
 کا آواز کرنا -  
 صَحْد - (س) بہت گرم ہونا -  
 صَحْر - پتھر ملی زمین -  
 صَحْنَة - سخت اور بڑا پتھر - چٹان -  
 جہ - صَحْر - صَحْر - صَحْر  
 صَحْرَات  
 صَحْف - (ت) کھودنا -

صِدَاق - عورت کا مہر ج۔۔ صِدَاق -  
اَصْدِاقَةٌ -

صِدَاقَةٌ - دوستی - محبت - سچائی -  
صِدَاق - اونٹ کے سر کی ایک بیماری -  
صِدَاق - صِدَاق - (ت) گانے کی آواز  
نکالت -

صِدَاق - جھنڈا - خالی جگہ بھونڈا اور پتھر پٹا  
ٹیلہ - کالا - ج۔۔ صِدَاقَان  
صِدَاق - نزدیکی - روبرو - آمنے سامنے -  
درپے -

صِدَاق - آدمی کا سینہ - چھاتی - ہر چیز کا آگ  
سامنے کا حصہ - سامنے کی چیز -  
ہر چیز کا ٹکڑا - ج۔۔ صِدَاقُومَص  
(ت) پھر آتا - لوٹ آتا - پھیر دینا  
سینہ پر مارنا - عروض میں الفت  
فاعلن کو گردینا (مجمولاً) سینہ میں  
درد ہونا -

(طَوَاف) الصَّدْرُ - س - حج سے بازگشت کا  
طواف -

الصَّدْرُ الْأَعْظَمُ - وزیر اعظم -  
صَدْرُ السُّلْطَم - ادھاتیر بیکان کی طرف  
کا -

صَدْرُ الْقَدَم - پیر کا پنجر جہاں سے انگلیاں  
شروع ہوتی ہیں -

صَدْرَةٌ - سینہ - سینہ کا بلند حصہ - آگلی صدری  
صَدْع - گھاس - شکاف - پھٹن - ڈراڑ -

فرق - جماعت - ٹولی - گروہ - ج۔۔  
صَدْع مَضْرُوف - چیرنا دو ٹوکے  
کرنا - ظاہر کرنا - ٹھیک ٹھیک فیصلہ

صَخْم - (ت) بھلس دینا -

صَخُوب - سخت آواز والا -

صَخُود - (ت) [انی] کسی کی طرف کان  
لگانا -

## ص - د

صَدَّ - پہاڑ - داوی کا کنارہ - گوشہ -  
ج۔۔ اَصْدَاد - صُدُود - مص  
(ت) روک دینا - پھیر دینا [عن] کسی  
سے منہ پھیرنا - اعراض کرنا -

صِدَا - پیاسا -  
صَدَاء - لوسے وغیرہ کا زنگ (ت) زنگ  
صاف کرنا - جلا دینا -

صَدَاء - نازک بدن - چھیرا آدمی مع راس  
(ت) زنگ لگ جانا تنکے کھڑا ہونا  
اور دیکھنا -

صَدِيَاء - زنگ خوردہ - زنگ لگا ہوا -  
رَكِيْبِيَّة - صَدَاء - لشکر جو لوسے میں ڈوبا ہو  
یعنی کثرت سے ہتھیار لئے ہوئے  
جو جس سے زنگ کی بو آئے

صَدَاعَةٌ - زنگ کا رنگ  
صَدَاد - پردہ - ج۔۔ اَصْدَاءَةٌ  
صَدَاد - سانپ - جنگلی چوہا - پانی کی طرف کا  
راستہ - ج۔۔ صَدَائِيْنَا -

صِدَاس - بغیر آستین کا کرتا جو سینہ کو چھپالے  
اونٹ کے سینہ کا داغ -

صَدَاع - درد سر  
صِدَاع - اونٹ کی کنپٹی کا داغ -

صَدَائَةٌ - (ت) ضعیف و کمزور ہو جانا -

دینا۔ بالخصوص تیز کرنا (والی) مائل ہونا۔  
 [معنی] پھیر دینا۔ روک دینا۔  
 (ذَاتُ) الصَّدَقِ - گھاس والی زمین،  
 صَدَقَ - ہلکا چھلکا آدمی - قوی جوان زنگ -  
 صَدَقَ - آدمیوں کا گروہ - ہر چیز کا ٹکڑا۔  
 صَدَقَاتُ - اخراجات - تفرقہ - انتشار - پرگندگی  
 صَدَقَةٌ - اونٹوں کا گلہ - بکریوں کا ریوڑ۔  
 ہر دو ٹکڑے کی ہوتی چیز کا نصف جہ۔  
 صَدَقَ -

صَدَغَ - کن پٹی - بل کھائے ہوئے ہال - کینٹی  
 پر پھلے ہوئے جہ۔ - اَصْدَاغَ -  
 صَدَغَ - کسی کے ساتھ کندھے سے کندھا طاکر  
 چلنا - نشان لگانا - داغ دینا -  
 مارڈالنا [معنی] لوٹانا - ہٹانا - ظلم  
 سے روکنا -

صَدَافٌ - (جنس) سیپ - صَدَقَةٌ ایک  
 سیپ - نشانی - مدت - پہاڑ کا  
 کنارہ - جانب - گوشہ جہ۔ - اَصْدَاغٌ  
 معنی (حق) [معنی] پھیرنا (والی)  
 مائل ہونا - کسی کی طرف خواہش کرنا  
 جھکانا -

صَدَفٌ - (حق) [معنی] منہ پھیر لینا - پھیر دینا  
 صَدَقٌ - راستی - سچائی - ضد کذب - سختی  
 مضبوطی - تعریف - نیک نامی  
 صَدَقٌ - سیدھا اور سخت - جہ۔ - صَدَقٌ  
 صَدَقٌ - ہر کامل چیز۔

صَدَقَ اللَّيْلُ، وَالنَّظْمُ خُوبٌ مَطْنُ وَالْأَلَا - اور  
 تارنے والا - لطافات کا اور نظر کا سچا  
 صَدَقٌ - صَدَقٌ - کلام میں سچا ہونا - سچ کن

سچ کرنا۔

صَدَقَةٌ - صَدَقَةٌ - عورت کا  
 مہر جہ۔ - اَصْدَقَةٌ - صَدَقٌ  
 صَدَقَةٌ جو کہ راہ خد میں فقیر کو دیا جائے -  
 جہ۔ - صَدَقَاتُ زَكَاةٌ -

صَدَه - (حق) کوٹنا - سخت چیز کو سخت  
 چیز پر مارنا - زور سے ہٹانا -  
 صَدَمَةٌ - مصیبت - تکلیف - اکھاڑ - ایک  
 مرتبہ دفع کرنا -

صَدَمَتَانِ - پیشانی کے دونوں کنارے -  
 صَدَوٌ - (ن) ہاتھ پر ہاتھ مارنا تا لیاں بجاتا  
 صَدُوْدٌ - جیلگر - جلسہ ساز - بات تیلنے والا -  
 عیبٹ اور -

صَدُوْدٌ - (ن) [معنی] منہ پھیرنا - اعراض کرنا -  
 (بغیر صلہ) روک دینا - پھیر دینا -

صَدُوْسٌ - اخبار یا رسالہ کا نکلنا - (د)

صَدُوْسٌ أَلْوَادِي - وادی کا شروع -

صَدُوْعٌ - (راستہ) طے کرنا (والی) جھکانا مسلمان  
 کرنا [معنی] لوٹا دینا (مجبوراً) سر میں  
 درد ہونا -

صَدُوْفٌ - عورت جو چھپکی دکھا کر منہ پھیرے گندہ ہن  
 صَدُوْقٌ - دوست ہمیشہ سچ بولنے والا جہ۔ - صَدَقٌ  
 صَدَقِي - گونج آواز - بازگشت - نازک بدن  
 ایک جانور جو قتل کے سر سے نکلنا ہے  
 (عرب جاہلیت کے گمان کے مطابق) -

مردہ کا جسم سر کا بھیجا - انتظا - پیاس -

جہ۔ - اَصْدَاغٌ (مرد) پیاسا ہونا -

صَدَيَا - صَدِيحٌ - پیاسی جہ۔ - صَوَاؤٌ

صَدَيَانٌ - پیاسا -

صَرَاحَة - صَرَاحَة (ك) خالص ہونا۔ بے  
 آمیزش۔  
 صَرَاحِيَة - صَرَاحِي - مینا کے شراب۔  
 صَرَاحِيَة - خالص شراب۔ خالص ادسیجی  
 بات۔  
 صَرَاحِي - فریاد۔ آواز۔ نعرہ۔ شور۔  
 صَرَاحِي - دُور اجس سے اونٹنی کے تھن باندھے  
 جائیں، تاکہ بچہ دودھ نہ پی سکے، بلند  
 جگہ جہاں پانی نہ چرٹھے۔ ج۔  
 صَرَاحِيَة -

صَرَاحَة - صَرَاحَة - جس نے حج نہ کیا ہو۔  
 یا جس نے شادی نہ کی ہو (واحد)  
 جمع ہر دو میں مستعمل ہے)۔  
 صَرَاحَة - صَرَاحَة - کالے ٹڈے جو رات  
 کو بولتے ہیں۔  
 صَرَاحَة - ایک قسم کا باز جو سانپوں کو کھاتا  
 ہے۔  
 صَرَاحِي - ملاح۔ کشتیوں۔ ناخدا۔  
 صَرَاحِيَة - ملک شام میں ترکان قوم کے لوگ۔  
 صَرَاحِي - راستہ۔ سڑک۔ پبل مراطہ۔ ج۔  
 صَرَاحِي -  
 صَرَاحِي - لمبی تلوار۔  
 صَرَاحِيَة - پہلوان جو اپنے برابر والوں کو پچھاڑے۔  
 صَرَاحِي - چاندی پر کھنے والا۔  
 صَرَاحِي - چھوڑوں کے پنے اور ان کے توڑنے کا وقت  
 صَرَاحِي ہرزوں قطام، لڑائی کیوں کہ  
 محبت و قرابت کو قطع کرتی ہے۔  
 صَرَاحِي - قوی آدمی، بڑا کٹھے والا، لڑائی۔

صَدِيدٌ - (رض) ن) پیپ۔ پسینہ۔ پیپ میں  
 خون ملا ہوا رنج لہو۔ فریاد و نالہ (مض  
 (رض) ن) چیخنا چلانا۔ رونا۔  
 صَدِيدٌ - ہرجہ کا ادھا جو چھول بیج چیری گئی ہو  
 اونٹوں کا گلہ۔ بکریوں کا ریوڑ۔ چراتے  
 کپڑے میں نیا ہوند صبح۔ جوان۔  
 پہاڑی بکری۔ ج۔ صَدُع  
 صَدِيدٌ - سات دن کا بچہ۔ کمزور آدمی۔  
 صَدِيدٌ - دوست۔ یار۔ ج۔ آصَدِ قَاءِ  
 صَدِيدٌ - صَدِيدٌ قَان ججہ، آصَدِ قِ  
 صَدِيدٌ - بہت سچ بولنے والا۔ ہمیشہ سچ  
 بولنے والا۔ م۔ صَدِيدٌ يَقِينَةٌ -

ص - س

صَرَّ - صَرَّير - (رض) منہ یاد کرنا۔ چیخنا چلانا  
 شور مچانا۔ تسلیم کا آواز کرنا۔  
 صَرَّ - (ن) جانور کے تھن باندھنا  
 ہمیشہ باندھنا۔ گدھے یا گھوڑے  
 کا سٹنٹے کے لئے کان کھڑے  
 کرنا۔  
 صَرَّ - جاڑے کی شدت چلنے کا جاڑہ  
 آندھی۔ ٹھنڈی اور سنسنائی ہوئی  
 ہوا۔ ایک زرد رنگ کا پھوٹا سا  
 پرندہ۔  
 صَرَاحِي - سخت  
 صَرَاحِي - مَصَّاحِيَة - کھلم کھلا کوئی کام کرنا۔  
 رو رو کوئی بات کہنا۔ ظاہر کرنا۔  
 صَرَاحِي - خالص چیز بے ملاوٹ کی۔ رو رو  
 پاکیزہ۔ سچی سچی بات، خالص بے

صَد ۵ - (س) جاڑے کا مارا ہوا ہونا۔ زخمی ٹیٹھ والا ہونا۔ (تیر کا) نشاد سے خطا کرنا

[عن] باز رہنا۔

صَد ۳ - صَد ۱ ح۔ ہوا حسبکہ۔

صَد ۴ - خوش جب کہ نکلنے لگے۔ یا وہ خوشتر جس میں دانہ پڑا ہو۔

صَد ۵ - آندھی۔ ہوا کے ٹھکڑے۔ ٹھڈی ہوا۔ جہ:۔ صَد ۱ ص۔

صَد ۶ - بولنا۔ چیخنا۔ جمع کرنا۔

صَد ۷ - مرگی۔ مثل و مانند۔ قسم۔ مقابل۔ ردیو برابر۔ جہ:۔ اصوع۔ صَد ۸ ص۔

(ف) کسی کو زمین پر دے مارنا پچھاڑ دینا۔ دو دروازے بنانا۔ دو حصے کرنا

صَد ۹ - پہلوان۔ پرتی کی ایک لٹ جہ: صَد ۱۰ ص۔

صَد ۱۱ - آپس میں دو شخص کشتی رٹنے والے صَد ۱۲ - صبح و شام۔ شب روز۔ دو گلے کہ ایک دالیں ہوتو دوسرا جائے۔

صَد ۱۳ - ایک بار پچھاڑنا۔

صَد ۱۴ - پچھاڑ کھانگر کرنے کی ہیئت۔

صَد ۱۵ - بہتوں سے پھیرا ہوا۔

صَد ۱۶ - پہلوان جو بہتوں کو پچھاڑتا ہو۔

صَد ۱۷ - تویر عمل۔ رشوت۔ جیل۔ مرتبہ کی زیادتی جہ:۔ صَد ۱۸ - مص (ض) پھیر دینا

صَد ۱۹ - انقلاب۔ زمانہ کے حوادث اور سختیاں انقلاب۔ جہ:۔ صَد ۲۰

صَد ۲۱ - کلام کا مذاق۔ لطف۔ صَد ۲۲ - کلام میں زیادتی جس کلام

کلام کا مذاق۔ لطف۔

صَد ۲۳ - خالص شراب۔ ہر چیز خالص۔ ایک سُرخ رنگ جس سے چمڑا رنگتے ہیں۔

مصیبت۔ تھنوں میں بچا ہوا دودھ صَد ۲۴ - (ک) دلیر و جالاک ہونا۔

صَد ۲۵ - اندرائن۔ اندرائن کا پانی جہ:۔ صَد ۲۶ - صَد ۲۷ - جما ہوا دترش دودھ۔ سُرخ گوند بھاؤ

کا گوند مص (ض) کاٹنا۔ حاصل کرنا روکن۔ دودھ جمانا (مجبوراً) پیشاب و

پاخانہ کا بند لگ جانا۔ صَد ۲۸ - (س) جمع ہونا۔ سہرا ہم ہونا۔

صَد ۲۹ - غم کی تکلیف۔ لڑائی کی سختی و تکلیف گرمی کی شدت۔ درخت جس پر انگور

کی شاخیں ٹکی ہوئی ہوں۔ آواز و سہر یا آدمی وغیرہ کا انبوہ۔ گره

ترش روئی۔ بکری وغیرہ جس کو زد ہیں تاکہ اس کے تھنوں میں خوب دودھ

نظر آئے۔ سخت حملہ۔ صَد ۳۰ - جاڑے کی شدت، چلنے کا جاڑا کہ

کھیتی اور گھاس کو جلا دے۔ آواز و فریاد۔ سخت چیخ۔ نعرہ۔ شور و شغب

صَد ۳۱ - تھیلی۔ ہمیانی۔ جہ:۔ صَد ۳۲ - صَد ۳۳ - اوپچا مکان۔ محل۔ بلند تعمیر جہ: صَد ۳۴

مص (ف) ظاہر کرنا۔ صَد ۳۵ - ہر چیز خالص بے ملاوٹ۔ کھری۔

صَد ۳۶ - ہمو آڑ زمین۔ صَد ۳۷ - الداس گھر کا صحن۔

صَد ۳۸ - صَد ۳۹ - پڑی آواز۔ اذان ہم (ف) شور و فریاد کرنا۔

صَد ۴۰ - ایک پرندہ جو چڑیا وغیرہ کا شرکار کرتا ہے صَد ۴۱ - خالص۔ بے نیل۔ پہاڑ کی بلند جگہ۔

بھاری لشکر۔ ٹھڈا سرد جہ:۔ صَد ۴۲



صِرْفَان - شب و روز -

صِرْفَان - سمرت - تانبہ قلعی - ایک قسم کا سخت

صِرْفَعَة - انگلیاں چٹکانا -

صِرْم - سنوارا ہوا چڑھ - بنایا ہوا چڑھ -

مص (ن) کا ٹٹا پھیل توڑنا - کٹ جانا -

قسم - گروہ - ج - : - اصْرَام - اصْرَام

اصْرَامِ رِیْم -

صِرْمَاء - جنگل جس میں پانی نہ ہو - کم دودھ والی

ادنی - ج - : -

صِرْو - (ن) نظر کرنا - دیکھنا -

صِرْوَع - پہلوان - بہت پچھاڑنے والا - ج - : -

صِرْوَف - صِرَات - (رض) حقیقی کی

خواہش کرنا - خالص رکھنا -

صِرْوَع (نَاقَة) صِرْوَف - ادنی جس کے دانت بہت بھین -

صِرْوَم - تیز تلوار - قوی آدمی - خوب تیل کرنے والا -

بہت کاٹنے والا -

صِرْوَى - دودھ صحن کا مرہ بدل گیا ہو کچی کھی

صِرْوَى - چھرا ہوا پانی -

صِرْوَى - ادنی وغیرہ جس کا دودھ دوبا نہ ہو تاکہ

تھن بڑے بڑے اور دودھ بھرے

معلوم ہوں -

صِرْوَى - کام کا پختہ ارادہ -

صِرْوَى (رض) قطع کرنا - منی کا بند رکھنا - یعنی

نکاح سے باز رہنا - بڑائی وغیرہ دفع

کرنا - جمع کرنا - روکنا - حفاظت کرنا -

یاد کرنا - پناہ دینا - مہربانی کرنا -

ہلاکت سے بچاتا - (بین) صلح کرانا -

صِرْبِيب - ترش دودھ - ج - : - صِرْبِيب

صِرْبِيب - ہر چیز خالص - خالی ج - : - صِرْحَاء

بھانچہ - مٹھا -

صِرْبِيبَة - خالص - بے ملاؤ - کھری - ج - : -

صِرْحَاء -

فریاد کو پہنچنے والا - بسر یاد رس -

صِرْبِيب - فریاد پھانسنے والا ج - : - صِرْحَاء

فریاد خواہ کی آواز -

صِرْبِيب - قلم کی آواز - دروازہ کی کھڑکھڑاہٹ

ٹڈیوں کی بھنبھناہٹ - کجاوے

وغیرہ کی آواز -

صِرْبِيبَة - پرھے ہوئے درم - بہانی میں باندھے

ہوئے درم - ج - : - صِرْبِيب

صِرْبِيب - بہت پچھاڑنے والا -

صِرْبِيب - پچھاڑا ہوا - گرہوا ج - : - صِرْعَى

صِرْبِيب - خالص چاندی - دروازہ کھلنے اور

بند ہونے کی آواز - ڈول کے کھینچنے کے

وقت چرنی کی آواز - تازہ دودھ

مص (رض) چرنی یا گھسی کا بولنا -

شراب پینا -

صِرْبِيبَة - چپاتی - چھوڑی سوکھی ہوئی شاخ -

ج - : - صِرْوَف - صِرَات

صِرْبِيبَة - تیلی روٹی - چپاتی - ج - : - صِرَاتِيق

صِرْوَق -

صِرْبِيب - کٹا ہوا - ریت کا علاوہ بڑا ٹیلہ صِرْبِيب

تاریک رات - جلی ہوئی زمین -

نا قابل کاشت -

صِرْبِيبَة - کسی کام کا پختہ ارادہ - دل میں ٹھانی

صَعَدَات - سیدھے قدم کی عورت  
 جہ: - صَعَدَات  
 صَعَر - (س) کبر و نخوت سے مُنہ پھسلانا  
 سُرک کا چھوٹا ہونا - صَعَادِير (ایک  
 قسم کا گوند) کھانا -  
 صَعَصَعَة - متفرق کرنا - ٹکڑے ٹکڑے کرنا چُرا  
 کرنا - حرکت دینا - سر میں تیل ڈالنا -  
 صَعَط - (ف) ناک میں دوا ڈالنا -  
 صَعْف - ایک چھوٹا سا پرندہ - اہل یمن کی ایک  
 خاص قسم کی شراب - جہ: - صِعَات  
 مص (ف) (بجھولا) کا پننا - لرزنا -  
 صَعْفُوق - صَعْفُوق - وہ شخص جو سر ہانکے  
 بغیر بازار میں خریدنے کے لئے جائے  
 کمرور جو نہ بہادر ہو اور نہ مسلح - جہ: -  
 صَعَا فِقَة - صَعَا فِق -  
 صَعَو - صدمہ - سخت آواز - دھماکا -  
 صَعَو - صَعْفَة - تَصَعَاق - (س)  
 بے ہوش ہو جانا - مرجانا -  
 صَعَو - جو سخت آواز سننے کے بے ہوش ہو گیا  
 ہو - سخت آواز والا -  
 صَعْفَة - بجلی جو آگ کی صورت میں زمین پر گرے  
 بے ہوشی - صود کی پہلی چھونک -  
 صَعَل - ہر لمبی چیز - گدھا جس کے بال گر گئے  
 ہوں - چھوٹے سرو اور باریک  
 گردن والا آدمی - یا شتر مرغ یا  
 کھجور -  
 صَعَل - (س) پہلی گردن اور چھوٹے سرو والا ہونا  
 صَعْلُوك - درویش - فقیر - جہ: -  
 صَعَالِيْك -

بات - ریت کے بڑے ڈھیروں میں چھوٹی  
 ڈھیری - کھیت جس کی کھیتی کٹ گئی ہو -  
 رات کا حصہ - تھوڑی سی رات - جہ: -  
 صَعَائِم - ص - ص

صَصُ الصَّبِي - بچہ کا پاجانہ اور اس کی ریح -  
 ص - ط

صَطِي - خط - جہ: - اصْطِي - صُطُوس مِص  
 (ن) کھنا -  
 صَطَس - ایک سال کا بکری کا بچہ -

ص - ع

صَعَاد - بہت چڑھنے والا -  
 صَعَّاس - حکم اور مغرور آدمی -  
 صَعَّاق - رعد کی آواز -  
 صَعَب - خیر - دشوار - سخت کام - شریہ -  
 سرکش اونٹ و آدمی وغیرہ - جہ: -  
 صَعَاب  
 صَعِيَة - تیز مزاج عورت - سرکش جہ: - صَعَاب  
 صُعُوب - دشوار - کٹھن - سخت - جہ: -  
 صَعَا يِيب -  
 صَعْتَر - ستر کے پہاڑی پودے سے ہے -  
 صَعْتَرَة - صعر گھاس چرانا - آراستہ کرنا -  
 صَعْتَرِي - شریعت - چالاک - بہادر -  
 صَعَد - سخت - کٹھن (عذاب)  
 صَعْدَاء - مشقت و محنت - دشواری -  
 صَعْدَاء - آہ - لمبا سانس -  
 صَعْدَاء - سیدھا نیرہ - جہ: - صَعَاد

صَعُو - (ن) باریک ہونا۔ چھوٹا ہونا۔  
 صَعُوْب - سخت - دشوار - کٹھن - جم :- صَعِيْب  
 صَعُوْبَة (ک) دشوار ہونا مشکل ہونا۔  
 صَعُوَة - ممولا - جم :- صِعَاء  
 صَعُوْد - بلند جگہ - بلندی دشوار گزار گھاٹی۔  
 دشوار امر - مشقت جم :- صَعْد  
 صَعَائِد - دوزخ کے ایک پہاڑ  
 کا نام۔

صَعُوْد - (س) [فی] چڑھنا۔  
 صَعُوْدَاء - دشوار گزار گھاٹی۔  
 صَعُوْط - ناک میں ڈالنے کی دوا۔  
 صَعِيْد - خاک - مٹی - روئے زمین - راستہ۔  
 قہر - جم :- صَعْد - صَعْدَات  
 صَعِيْدٌ وَّصُرٌ - میرکا بالائی حصہ۔

## ص - ف

صَف - قطار - کوئی چیز برابر رکھی ہوئی۔  
 (د) کلاس - جم :- صَفُوْف - صف  
 (ن) صف میں کھڑا کرنا - صف میں کھڑا  
 ہونا - گوشت کو سیخ میں پرونا۔  
 پرندہ کا دونوں بازووں کو پھیلاتا۔  
 صَفَا - مکہ کے ایک پہاڑ کا نام سخت پتھر۔  
 واہ - صَفَاة

صَفَاء - روشنی۔  
 صَفَاة - سخت پتھر - چمکار کہ اس پر کچھ نہ  
 آگ سکے - جم :- صَفَوَات - صَفَا۔  
 صِفَاح - مَصَافِحَة - ہاتھ سے اٹھانا۔  
 مصافحہ کرنا۔

صِفَاد - تسمہ یا زنجیر جس سے قیدی کی مشکیں  
 باندھیں جم :- اَصْفَاد

## ص - ع

صَع - (ن) بہت کھانا۔  
 صَعَا - صَعِي - خواری - ذلت۔  
 (س) (ک) ذیل و خوار ہونا۔  
 صَعَا - چھوٹا۔

صَعَاة - چھوٹائی - بڑائی کی ضد - تدر و  
 منزلت کی چھوٹائی - ذلت۔  
 صَعَاة - صَعِي - صَعِيْ - آن - (ک) (س)  
 چھوٹا ہونا۔

صَعَب - جوڑوں کے اٹنے۔  
 صَعْبَة - کھانے کو مرغن کرنا۔  
 صَعْر - خواری - ظلم۔

صَعِي - صَعَا - صَعَاة - صَعْر - آن -  
 صَعِي - (س) (ک) خوار ہونا - آفتاب کا

کافی - پتیل - سونا - ہر چیز خالی -  
ج: - اَصْفَاس

صَفِير - خالی - ج: - اَصْفَاس

صَفِير - صَفِير - صَفِير - خالی -

صَفِيرُ الْوَابِسِ - ریل گاڑی کا سیٹی دینا -

صَفِيرٌ سَمْعًا خَوْذٌ (د)

صَفِيرُ الْيَدَيْنِ - خالی ہاتھ - تھی دست -

صَفِيرٌ - برقان کی بیماری کہ آدمی کے چہرہ کو

زرد کر دیتی ہے عقل مجرم کے بعد کا

مہینہ -

صَفْرٌ - صَفْرٌ (س) برتن کا خالی ہونا - (جملاً)

پیٹ میں جمع ہونا -

صَفْرَاءٌ - سونا - مشہور غلط یعنی پت - زرد

عورت (اَصْفَرٌ کا مؤنث) ج: - صَفْرٌ

صَفْرَةٌ - زردی - سیاہی -

صَفْرَةٌ - ایک بار بھوکا ہونا -

صَفْرٌ د - ایک پرندہ جسے فارسی میں چکا دک

کہتے ہیں - ج: - صَفَارِدٌ

صَفْصَافٌ - بید کا درخت - وا: - صَفْصَافَةٌ

صَفْصَفٌ - ہموار زمین - پہاڑ کا کنارہ ج: - صَفَا

صَفْصَفَةٌ - ہموار زمین میں چلنا - آواز کرنا -

صَفْعٌ - (ت) چائٹا رسید کرنا یا گردن کے پیچھے

آہستہ گھونسا مارنا -

صَفْعَانٌ - جو بہت چتیا یا جائے -

صَفْفٌ - کپڑا جو زرہ کے نیچے نہیں -

صَفْقٌ - کنارہ - جگہ - پہاڑ کے نیچے کی زمین -

چرٹے کی دیانت کی بو -

صَفْقٌ - صَفْفَةٌ (ض) بیع یا بیعت کرنے

کے وقت ہاتھ پر ہاتھ مارنا (پرندہ کا بانوں کو)

صَفْصَافٌ - کسیرا ٹھسیرا

صَفْصَافَةٌ - سیٹی جو بجانی جاتی ہے - مقعد -

صَفْصَافٌ الْحَرْوْفُ - کمپوزیٹر (د)

صَفْصَاقٌ - بہت سفر کرنے والا سیاح - کاروبار

تجارت میں بہت ہوشیار - لین دین

کرنے والا -

صَفْصَاقٌ - آنتوں کے اوپر کی جھلی - پیٹ کی

کھال - کھال کے اوپر کا پتلا پوست

جس پر بال اُگتے ہیں - ج: - صَفْقٌ

صَفْصَاقَةٌ - بے شرمی - بے باکی - کپڑے کا کھورا

پن مص (ٹ) بے باک ہونا - کپڑے

کا دیر اور کھورا ہونا -

صَفْصَافٌ - سر کی چار بڑیاں چاروں طرف کی -

صِفَةٌ - وَصْفٌ - تعریف - بیان - مص

(ض) تعریف کرنا - بیان کرنا -

صِفَةُ الدَّاسِ - والان - مکان کے آگے کا صحن

ج: - صَفْفٌ - صَفَاتٌ

صَفْحٌ - ہر چیز کا کنارہ - آدمی کا پہلو - رُخْسَارٌ

تلوار کا عرض - عرض ج: - صَفْحٌ

مص (ت) متہ پھیرنا - ترک کرنا -

لوٹا دینا - چوڑا کر دینا - ورق گردانی

کرنا - ظاہر کرنا - سوچنا (عن [

ورگر کرنا - محاف کرنا -

صَفْحٌ الْجَبَلِ - پہاڑ کی جڑ میں یا درمیان میں

ہموار جگہ - پہاڑ کا سامنا -

صَفْحٌ - چوڑائی -

صَفْحَةٌ - کنارہ - ج: - صَفْحٌ

صَفْدٌ - قید - عطا -

صَفْدٌ - (ض) مضبوطی سے قید کرنا -

صَفْقُوف - بہت دودھ والی اونٹنی۔  
 صَفْقُوف - سرکش اونٹ - چکنا اور بلند پتھر۔ نرم  
 کمان - ج۔:- صَفْقُوف  
 صَفْقُوف (مخ) گھوڑے کا تین پاؤں پر کھڑا  
 ہونا اور چوتھے پاؤں کے سم کی  
 نوک کو زمین پر لگانا۔ دونوں پاؤں  
 ملا کر کھڑا ہونا [ب] کسی کو زمین  
 پر دے مارنا۔

صَفْقِی - خالص دوست - ج۔:- اَصْفِیَا۔  
 غنیمت کی منتخب چیز کہ سردار تقسیم  
 سے پہلے اپنے لئے پسند کرے۔

ہر چیز خالص اور منتخب - بہت دودھ  
 والی اونٹنی - ج۔:- صَفْقِیَا  
 صَفْقِیَّة - غنیمت کی عمدہ اور منتخب چیز - ج۔:-  
 صَفْقِیَا

صَفْبِیح - آسمان۔  
 صَفْبِیحَة - چوڑی تلوار - چوڑا پتھر - ہر چیز کا چوڑا  
 رُخ - دروازے کا تختہ - ج۔:- صَفْبِیحَة  
 صَفْبِیز - پرندوں کی چھما ہٹ مہ (مخ)  
 آواز نکالنا۔

صَفْبِیف - سیرخ میں پرویا ہوا گوشت یا  
 جو گوشت دھوپ میں سکھانے  
 کے لئے رکھا جائے یا جو گوشت  
 کرموں پر چھوننے کے لئے رکھا  
 جائے۔

صَفْبِیق - سخت بنا ہوا - کھرا (مخ)  
 صَفْبِیق - شوخ - بے باک۔

صَفْبِیقَة - حادثہ - ج۔:-  
 صَفْبِیق - صَفْبِیق

پھیر پھرانا - دروازہ کھولنا یا بند کرنا۔  
 آنکھ بند کرنا - بربط کے تاروں کو پھیرنا  
 بلانا - حرکت دینا - پھر کرنا - ایک برتن  
 سے دوسرے برتن میں ڈالنا۔  
 تالی بجاتا - پھیر دینا۔

صَفْق - دماغ کا آخری کنارہ - وباغت کی بو  
 کچی چمڑہ - نئی مشک کا پانی جو ملانے  
 سے زرد ہو جائے۔

صَفْق - دروازے کا ایک پٹ۔  
 صَفْقَة - بیع کا معاملہ - معاملہ کرنا - بیع میں ایک  
 پارہ بٹھارنا۔

صَفْن - آدمی کے فوطوں کی کھال - چمڑے  
 کا برتن جیسے مشکیزہ وغیرہ - دسترخوان  
 ج۔:- اَصْفَان - صَفْن - صَفْنَان  
 صَفْن - چمڑے کا برتن جس میں پانی بھریں۔

چھاگل - مشکیزہ - توڑا - تھیلا۔  
 صَفْو - روشنی - خالص اور منتخب چیز۔  
 صَفْو - (ن) صاف ہونا - روشن ہونا۔  
 صَفْوَاء - سخت پتھر - چمک دار۔  
 صَفْوَان - بغیر ابر کے ٹھنڈا دن - سخت اور

چمک دار پتھر۔  
 صَفْوَة - (مشترکہ) خالص - برگزیدہ - منتخب  
 صَفْوَة - سجاوید خالص دوست - پاکیزگی اور  
 صفائی کی نوعیت - کم - تھوڑا۔  
 صَفْوَح - جوان مرد - درگزر کرنے والا مرث

پھیرنے والی - اعراض کرنے والی -  
 رُکنے والی عورت۔

صَفْوَح - (مخ) دودھ کے جانور کا دودھ خشک  
 ہونا۔

## ص - ق

سَقَّ - میخ جو سخت جگہ میں زور سے ٹھونکی جاتے ہیں (صق) گڑگڑ وغیرہ کا آواز کرنا۔  
 صَقَّاسٌ - بہت لعن طعن کرنے والا معن چینی۔  
 صَقَبٌ - عیب، جُور - کافر - دو شاپ (مغمور) وغیرہ کا رس جس پر دورات گر گئی ہوں) فروخت کرنے والا۔  
 صِقَالٌ - زنگ پھڑانا - صیقِل کرنا - جلا دینا۔  
 (اسم مصدر)  
 صَقِبٌ - (سن) نژدیک ہونا۔  
 صَقْبٌ - دراز و فریب - اونٹ کا بچہ ج: صَقَابٌ صُقْبَانٌ گھر کے درمیان کا لمبا ستون ج: صَقُوبٌ - مص (ن) گونسہ مارتا - جمع کرنا۔  
 صَقَحٌ - پیشانی کے بال اُڑ جانا۔  
 صَقْرٌ - رشتہ کاری پرندہ - شکر - ج: صَقُوسٌ - آصَقْرٌ - مص (ن) مارتا - توڑنا - آگ بھڑکانا - سورج کا تیز ہونا۔  
 صَقْرٌ - صاقی - تیز نظر۔  
 صَقْرٌ - کیکر - ببول - یا ہر کانٹے دار درخت کے گرسے ہوئے پتے - جہنم - دوزخ صَقْرَةٌ - تیز فہم - تیز نگاہ کی عورت۔  
 صَقْرَةٌ - حوض میں بچا ہوا پانی جس میں کتوں وغیرہ نے پیشاب کر دیا ہو۔  
 صَقَعٌ - (ن) سر پر مارتا - مَرَّعٌ کا آواز کرنا - چلاتا - کج رو ہونا۔

صَقَّعٌ - زمین کا کنارہ - گوشہ۔  
 صَقَّعٌ - (س) بے ہوش ہو جانا - سر کا بیچ سفید ہو جانا۔  
 صَقَّعَاءٌ - سورج - ایک قسم کا مادہ جانور جس کا آدھا سر سفید ہوتا ہے ج: صَقَّعٌ صَقَّعَبٌ - ہر دراز چیر - چروچرو کرنے والا دروازہ آواز نکالنے والی اونٹنی ج: صَقَّعَبٌ صَقَّعَةٌ - جانور کے سر کے درمیان کی سفیدی۔  
 صَقَّلٌ - (ن) صاف کرنا - زنگ پھڑانا - قلعی کرنا - ڈیلکارتا [ب] مارتا۔  
 صَقَّلٌ - صَقَّلَةٌ - پہلو - کوک - ہر وہ جانور جو ہلکے بدن کا ہو۔  
 صَقْلِيَّةٌ - سسلی (بحر روم کا ایک جزیرہ)  
 صَقُوسٌ - گھسی - ڈالہ۔  
 صَقِيلٌ - زنگ صاف کی ہوئی تلوار - جلا دی ہوئی تلوار۔

## ص - ك

صَكٌّ - چک - دستاویز - بیع نامہ - تسک ج: آصَكٌ - صَكُوكٌ - صِكاكٌ - مص (ن) کسی کو زور سے مارتا - کوڑنا - بیخنامہ - قبالہ دستاویز وغیرہ لکھنا۔  
 صَكَّةٌ - دوپہر کی گرمی کی شدت (یہ لفظ عجمی کی طرف مضاف ہو کر مستعمل ہوتا ہے اور عجمی عمالقہ میں سے ایک شخص تھا جو دوپہر کے وقت ایک قوم پر حملہ آور ہوا تھا۔  
 صَكْمٌ - (ن) مارتا - دفع کرنا۔

صَلْمَة - پتھر وغیرہ سے ٹھونکنے کا نام ہے)  
 صَكُو - (ن) لازم کپڑا۔  
 صَكِيك - ضعیف دانا تو ان - کمزور۔

## ص - ل

صَل - کافی بارش - کم بارش - منتشر بارش۔  
 (لغات اصداد سے ہے) (ن) صاف کرنا  
 صَلَّ الْحَبَّ الْمُخْتَلِطَ بِالْبَرَابِ - پانی ڈال کر  
 غلہ کو مٹی سے جدا کیا۔  
 صَلَّوْهُمْ الصَّلَاةَ - تکلیف پہنچی انہیں۔  
 صَل - چھوڑنا سناپ جس پر منتر نہیں چلتا۔  
 صَلَا - کمزور کا پنجہ جہ: صَلَوَات - اصداد  
 صَلَاة - بھوننے کے لائق چیز۔  
 صَلَاة - صَلَاة بھوننے کی چیز مصلح کو  
 آگ سے بھر کا نا۔  
 صَلَابَة - (ك) سخت ہونا۔

صَلَاة - نماز - دُعا - استغفار - درود - رحمت  
 تَسْبِيح جہ: صَلَوَات  
 صَلَاح - نیکی - بھلائی - صَدَقَة فساد کے معنی تباہی  
 ہے۔

صَلَاة - چوڑا پتھر واہ: صَلَاة  
 صَلَامَة (مثلث) آدمیوں کا گردہ  
 صَلَابَة - پیشانی - چوڑا چمکا پتھر خوشبو پینے  
 کی سہل جہ: صَلِي

صَلْب - پیٹھ کی بڑی شانہ سے سرین تک  
 رپڑوہ - پشت پستی - بزرگی - طاقت و  
 قوت جہ: اَصْلَب - اَصْلَاب سخت  
 زمین جہ: صَلْبَة -  
 صَلْب - سخت مضبوط - سان کا پتھر۔

صَلْب - (ض) سولی پر کھینچنا - تجارت کا ہمیشہ آنا  
 اور تیز ہونا - گوشت کو بھوننا - ہڈیوں  
 کا گودا نکالنا۔

صَلَّة - کھال - تھوڑی سی گھاس - جوتی -  
 غیر بارش شدہ زمین جو دو بارش شدہ  
 زمینوں کے درمیان ہو جہ: صَلَال  
 صَلَّت - کشادہ سمرا - میدان - تلوار صِغَل  
 کی ہونٹنی سنگلی - تیز چھڑا - مرد جو اپنے  
 اُمور و حواج میں رسا اور چالاک ہو۔

جہ: اَصْلَات (ض) تلوار سے مارنا۔  
 پیالے کی چیر - گرا دینا گھوڑے کو دوڑانا  
 صَلَّة - انعام بخشش - جہ: صَلَات  
 مصل (ض) پیوست کرنا - پیوستہ ہونا  
 پہنچ جانا - خالص دوسٹی کرنا۔

صَلْحَة - ریشمیں کپڑا۔

صَلْح - میل - یاپ - سلوک۔

صَلْح - نیک۔

صَلْح - (ض) بہرا ہونا

صَدَد - سخت چمک دار چمکانہ جس پر بال نہ  
 ہوں - گھوڑا جو پسینہ نہ لاوے اور زمین

صَدَد - صَدُوْد - (ض) گھوڑے وغیرہ دوڑنے  
 میں اگلی ٹاپیں مارنا (زمین کا) سخت  
 ہونا (دانتوں کا) کرکڑا ہونا - (ض) [  
 چڑھنا۔

صَدَاء - نہایت سخت زمین۔

صَلْصَال - اچھا گارا - یاریت کا ظاہر ہونا یا گارا  
 جس کا اپ تک کوئی برتن نہ بنا ہونے تک  
 گارا کہ نئے برتن کی مانند بچے سڑا ہوا گارا  
 صَلْصَلَة - کپڑے - سر پر جمع شدہ بال - حوض کی تہیں

صَلْوَة - (ک) کشادہ پیشانی والا ہونا۔  
 صَلْوَج - (فک) نیک ہونا۔  
 صَلْوُود - (لک) بخیل اور کجخوس ہونا۔  
 صَلْوَع - (ن) بکری وغیرہ کا پانچویں یا چھٹے سال میں لگنا۔  
 صَلْوُول - (رض) بدبودار اور بد مزہ ہونا۔  
 صَلْوِي - (رض) بھوننا۔ تاپنا۔ آگ میں ڈالنا کسی کو ہلاکت میں ڈالنا۔ فریب دینا چاہنے کی کہنا۔  
 صَلْوِي - صَلْوَا - (س) آگ میں جل جانا سختی بھیلنا۔  
 صَلْيَان - ایک جنگلی گھاس۔ وا۔ صَلْيَانَة  
 صَلْيِيْب - سخت۔ مضبوط۔ سولی دیا نواج۔  
 صَلْبُ - نشان۔ تیز۔ وہ کڑی جس پر عیسائیوں کے زعم کے مطابق (معاذ اللہ) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی۔ ج۔ صَلْبَان  
 صَلْيِيْح - نیک ج۔ صَلْحَاء  
 چپاتی، چھتے ہوئے گوشت کی بوٹی ج۔ صَلَاتِيْق -

## ص - م

صَم - صَمَم - بہاؤ میں (ن) بہا ہونا  
 صَمَة - (ن) ڈاٹ لگانا یا پتھر وغیرہ سے مارتا۔ مرجانا۔  
 صَمَّ شِير - بلا۔ مصیبت  
 صَمَّ - بہرے لوگ۔ وا۔ اصَمَّ بہری عورتیں۔ وا۔ صَمَاء  
 صَمَاء - سخت زمین۔ گامین اونٹنی۔ موٹی اونٹنی

بچا ہوا پانی۔ ج۔ صَلَا حِيل۔  
 صَلْوَلَة - آواز۔ گرج کی آوازیں ہوتی۔  
 چینیٹا۔ فریاد کرنا۔ دھمکی دینا۔ سردار کو مار ڈالنا۔ سنیجی مارتا۔  
 صَلْع - (س) سر کے آگے کے بالوں کا گر جانا سر کے اگلے حصہ کا بالوں سے خالی ہونا  
 صَلْع - وہ جگہ جہاں کچھ میدان ہو۔ اور۔  
 صَلْعَاء - عورت جس کے سر کے آگے کے بال گر گئے ہوں۔ درختوں سے خالی جنگل مصیبت ج۔ صَلْع  
 صَلْعَة - سر کی وہ جگہ جہاں بال نہ رہے ہوں  
 صَلْف - (س) کھانے کا بے مزہ اور بے برکت ہونا۔ عورت کا شوہر سے محروم ہونا۔ بڑی بات کہنا۔ لاف زنی کرنا۔  
 صَلِيْف - لاف زن آدمی۔ بے مزہ کھانا۔  
 صَلِيْب - بادل جو بہت گرے۔ اور نہر سے۔  
 صَلْفَاء - سخت زمین۔ ج۔ صَلَا فِي  
 صَلْفَة - مارتا۔ موندنا۔ مفلس و قلاش ہونا  
 صَلْق - فریاد۔ سخت آواز میں (ن) چینیٹا مارتا۔ لڑکی کو لٹا کر جماع کرنا [رفی] کسی گروہ میں لڑائی کر دینا۔  
 صَلْم - (رض) ناک یا کان کو جڑ سے کاٹنا یا اکھاڑنا۔  
 صَلْمَة - جڑ سے اکھاڑنا۔ موندنا۔  
 صَلُو - (ن) کسی کی کمر پ مارتا۔  
 صَلَوَات - یہودیوں کے عبادت خانے۔  
 صَلَوَاة - دُعا۔ مغفرت۔ رحمت۔ درود۔



صنر - بدبو گوشت اور تازہ پھلی کی بو۔  
 صمصام - صمصام آدمی کام میں تھکتے  
 والا۔ بات کی تزکوپہنچنے والا۔ سخت  
 گھوڑا اپنے ارادہ کو پورا کرنے والا  
 سخت مضبوط۔ تلوار جس کا دار خالی نہ جا  
 صنصم - مرد جو اپنے ارادہ اور کام کو بن کئے  
 نہ پھوڑے۔ چالاک رسا آدمی دلاور  
 ٹھکانا۔ قوی اونٹ۔ سخت زمین۔  
 صمصاء - پھوٹے کان والی (اصمہ کا مؤنث)  
 جہ:۔ صنح  
 صنخ - درخت کا گوند۔ جہ:۔ صنوخ  
 صنح عری - درخت سلم کا گوند۔ تھوڑا  
 سا گوند۔  
 صنکوک صکیک بدخواد سخت آدمی۔  
 گاڑھا دودھ وغیرہ۔  
 صنل - صنول - (ن) سخت اور کھرو اور ہونا  
 باز رہنا۔  
 صنلاخ - صنلوخ - کان کا میل۔ جہ:۔  
 صنالینخ -  
 صنوت الخلائین - پازیبوں کی چپ کرنے  
 والی یعنی وہ لڑکی کہ اس کی پندلیوں  
 کے موٹاپے کے سبب پازیب  
 پھتے رہیں۔  
 صنیمان - دلاور اور جملہ کا سچا آدمی۔ ماہر آدمی  
 مص (حق) کو دانا جلدی کرنا۔ نازل  
 ہونا۔  
 صنیت - بہت چپ رہنے والا۔  
 صنیم - چیر کی اصل بڑی جس سے عضو قائم  
 رہتا ہے۔ چیر کا کھرا بن۔ خلاصہ۔

سخت آفت۔ جہ:۔ صم - صم  
 صمات - سخت پھر قنات صمات  
 ٹھوس نیزہ حقیقت صمات سانچ جس  
 پر منتر نہ چلے مص اس طرح چادر  
 اور ڈھتا کہ اچھے پاؤں سب ڈھک  
 جائیں۔

صمات - خاموش کر دینے والی چیز  
 (ن) خاموش رہنا۔ جلدی جلدی  
 پیاس لگنا۔

صماخ - کان کا سوراخ۔ کان۔ تھوڑا سا پانی  
 جہ:۔ صنخ - اصمخہ -

صمام - شیشی کی ڈاٹ جہ:۔ اصمہ -  
 صمتان - کھردری اور تھری زمین جو نرم اور  
 رتیلی زمین کے پاس ہو۔

صنت - صنوت - خاموش مص (ن) چپ  
 رہنا۔ مریض کی زبان بند ہونا۔

صنتہ - شیر بہادر۔ شیشی کی ڈاٹ جہ:۔  
 صنم -

صماج - قذلیں۔ واہ:۔ صمخہ -  
 صماخ - (ن) کسی کے کان کے سوراخ پر مارنا  
 صنخہ - گدازجم کی عورت۔

صمد - باند اور سخت جگہ (ن) قصد کرنا۔  
 وقت کا منتظر رہنا۔ فرصت کا انتظار  
 کرنا۔ مارتا۔ قائم کرنا۔ بندھن باندھنا

صمد - وہ جس کی طرف مہتمم یا نشان کا مول میں  
 رجوع کریں۔ خدا تعالیٰ کے ناموں

میں سے ایک نام ہے۔ بلند تر  
 بے نیاز۔ ہمیشہ رہنے والا۔ وہ جو  
 جھوکا پیاسا نہ ہو۔

چلہ کا جاڑا سخت گرمی۔ انڈے کا چھلکا۔

## ص - ن

صنّت - بڑی ذہنیل۔ روٹی رکھنے کی ڈھکنے دار ٹوکری۔

صنّاب - لمبی پشت اور لمبے شکم والا۔ ایک سالن جو رائی اور روغن زیتون سے بنایا جاتا ہے۔

صنّابی - سُرخ رنگ کا جو مال پر سفیدی ہو۔

صنّادیل - قوی اونٹ اور گدھا۔

صنّادیندا - فوجی لوگ۔ سردار اور بڑے آدمی واہ۔

صنّادیندستیاں - مصائب۔

صنّاعة - پیشہ

صنّان - بغل کی بدلو۔

صنّاق - بغل کی بدلو۔ جہا۔ صنّاق۔

صنّیت - سردار۔ کریم۔ شریف جہا۔ صنّیت

صنّیجہ - جنگ کا معرب (ایک باجر)

صنّیجۃ المیزان - ترازو کے باٹ۔

صنّدال - ایک خوشبودار کھڑی۔ چندن کا معرب مضبوط گدھا اور اونٹ۔

صنّدالائی - گدھی۔ دوافر دوش۔ عطار۔

صنّدوق - کبس۔ صندوق۔ جہا۔ صنّدوقین (د) فنڈ۔

صنّدوق الموسطة - لیٹ کبس (د)

صنّدوق السبریئیا - پوسٹ کبس (د)

صنّدوق التوفیر - سیونگ تک (د)

صنّدینا - سردار بہادر تیز ہوا سخت جاڑا۔ بڑی

بزدلی کا مینہ۔ غالب جہا۔ صنّادیندا۔

صنّح - سب کباب سیکھنے کی۔ بنائی ہوئی چیسز

دستکار کا رنگ۔ کپڑا۔ کپڑی جہا۔

## اصنّاع

صنّع الیدین - کاریگر جس کا ہاتھ اپنے کام میں صاف ہو۔

صنّع اللسان - خوش تقریر۔ شعر و سخن میں ماہر۔

صنّع - کسی چیز کو تیار کرنا اور بنانا۔

صنّع الیدین - کاریگر۔ ماہر فن۔

صنّع - صنّعة۔ (ف) کام اور پیشہ کرنا۔

پدروش اور خوب تر گیری کرنا۔

صنّع - کام۔ پیشہ۔ کاریگر۔ بناوٹ میں

(ف) بنانا [الحی] احسان کرنا [ب]

کسی کے ساتھ بدی کرنا۔

صنّعائی - مین کے مشہور ٹھہر۔ صنّعاء کی طرف

منسوب۔

صنّعة - کار۔ پیشہ۔

صنّف - قسم۔ نوع۔ صفت۔ ہر چیز کا کھڑا۔

جہا۔ اصنّاف۔ صنّف

صنّف التّوب کپڑے کا کنارہ۔

صنّف - بغل کی بدلو کی شدت میں (ص) بغل

کی بدلو کا سخت ہونا۔

صنّم - بدلو۔ پلید۔ بُت جہا۔ اصنّم میں

(ص) بدلو کا زیادہ ہونا۔

صنّم - مضبوط و طاقت ور۔

صنّو - حقیقی بھائی۔ یعنی جو ماں اور باپ

دونوں میں شریک ہو۔ چچا۔ مثل و مانند

ایک درخت کی اُگی ہوئی شاخوں میں سے

ہر ایک شاخ۔ جہا۔ اصنّاء

صنّوان

صنّو - دو پہاڑوں کے درمیان۔ پست زمین۔

جس میں تھوڑا پانی بھی بہ پڑے۔ ج۔  
صَوَان

صَوَان - وڈ کنوئین یا پاس کہ دونوں کا سوت  
ایک ہو۔

صَوَاب - ایک درخت ہے۔

صَوَاب - بخیل یکمیتہ۔ بد خو۔

صَوَاب - کام - گھوڑا جس کی بہت خورد پودا  
کی گئی ہو مٹی ہوئی اور آزمائی ہوئی

تلوار تیر جس کا پیکان مٹھا ہوا ہو۔ کھانا  
جو رواہ خراب میں دیا جائے۔ بھلائی۔ بنائی

ہوئی چیز۔ نئی تجویز کی ہوئی۔ ج۔

صَوَاب - دست کاری۔

صَوَاب - بھلائی۔ ہنر۔ کام۔ کاریگری۔ دستکاری

بنایا ہوا کام۔ ج۔۔ صَوَاب

## ص - و

صَوَاب - فارغ۔ خالی۔

صَوَاب - ٹھیک۔ درست۔ خطا کی ضد۔

صَوَاب - جوں کا انداز۔ یکہ۔ ج۔۔ صَوَاب

صَوَاب -

صَوَابَةُ الْقَوَد - قوم کے منتخب لوگ۔

صَوَاب - چونا۔ گھوڑے کا پسینہ۔ دودھ جس

میں پانی زیادہ ہو۔ بلند ٹیلا۔

صَوَاب - اونٹ جو گھاٹ پر رکے ہوئے اے

باری کے منتظر ہوں۔ واہ۔ صَوَابَةُ

صَوَابِي - کھجور کے اونچے درخت جو بغیر پانی

کے نہیں۔ واہ۔ صَوَابِي

صَوَاس - گایوں کا ریوڑ۔ ج۔۔ صَوَابَان

خوشبو۔ ج۔۔ اَصْوَابَةُ

صَوَاس - گایوں کا ریوڑ۔ خوشبو۔

صَوَاس - گایوں کا ریوڑ۔

صَوَاع - صَوَاع - بڑا پیالہ پانی پینے کا۔ ایک

پیمانہ۔

صَوَاع - زرگر۔ سنار۔ جھوٹا۔ ج۔۔ صَوَاعُ

صَوَاع - صف بستہ جانور۔ واہ۔ صَوَاعَةُ

صَوَاع (ارض) صَوَاہ - خشک زمین۔ بغیر پانی کی۔

صَوَانُ التَّوْب - صَبَانُ التَّوْب - گھڑی۔

صندوق۔ ج۔۔ اَصْوَابَةُ

صَوَاب - بارش۔ درست۔ ٹھیک۔ قصد

(ن) مین برستا۔ قصد کرنا۔ اوپر سے

اُترنا۔ ہانا۔ ابر کا مین برسانا۔ تیر کا

نشانہ پر پہنچنا۔

صَوَابَةُ - گیسوں کا ڈھیر

صَوَابَةُ - پتھر۔ نشان۔ یاد۔ چو پائی ہوا۔ ج۔۔

صَوَابِي جج۔۔ اَصْوَاب

صَوَات - آواز۔ شہرت۔ فریاد۔ ج۔۔ اَصْوَات

(د) ووت۔ رائے مص (ن) آواز

دنیا۔

صَوَاح - پہاڑ۔ وادی کا کنارہ۔ پہاڑ کا پچلا ہتھ

مص (ن) چیرنا۔

صَوَاح - (ن) زمین میں دھنس جانا۔

صَوَاد - سوڈا۔

صَوَاس - (ن) آواز نکالنا۔ ٹیڑھا کرنا۔ توڑ ڈانٹنا

رائی کسی کو کسی چیز کی طرف مائل کرنا۔

ہلانا۔ مانوس کرنا۔

صَوَاس - (س) ٹیڑھا ہو جانا۔ کاٹنا۔

صَوَاس - فرسنگھا۔ وہ چیز کہ جس میں قیامت کے

میں تاکہ سر کے تیل سے محفوظ رہے۔  
اور خراب نہ ہو۔ مص مارنا۔ سر پر  
مارنا۔

صَوْك - (ن) خوشبو کا لگ جانا۔ کپڑے بدن  
وغیرہ خوشبو میں لینا۔

صَوْل - صِيَال - صَوْتُوَل - صَوَاكَن - صَال  
(ن) حملہ کرنا۔ زیادتی کرنا۔

صَوْل - صَوْلَة (ن) [ا] اتنا زہ کیا جانا۔  
(یہ مجازاً ہے)۔

صَوْلَجَان - چوگان - بَلَا - جہ - صَوَالِجَة  
صَوْم - (جنس) روزہ - وَا - صَوْمَة

شتر مرغ کی بیٹ - روزہ دار۔ رمضان  
صَوْم - صِيَاه - (ن) اکھاتے پیئے اور بات

چیت اور جماع سے رُک رہنا۔ دن کا  
دوپہر ہونے کو آنا۔ چپ رہنا۔ ہوا

کا ٹھہرنا۔ بیکار ٹھہرنا۔  
صَوْمَان - روزہ دار۔

صَوْمَس - ریمان - نازبو - نسی - جنگلی۔  
صَوْمَعَة - گرہا - لمبی ٹوپی - جہ - صَوَامِع -

مص جمع کرنا۔  
صَوْن - صِيَان - صِيَانَة - (ن) حفاظت

کرنا۔  
صَوْنَة - خوشبو رکھنے کا ڈبہ۔

صَوِي - (ص) خشک ہو جانا۔  
صَوَامِي - خشک ہونا۔ قوی اور مضبوط ہونا۔

صَوِيْب - راست و درست۔  
صَوِيْبَة - خشک۔

صَوِيْبَة - { - سوکھی۔  
صَوِيْبِي - سَو۔

دن حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹیں گے۔  
صَوْمَاكَا - سر کی خارش۔

صَوْمَاكَا - مودت - تصویر - جہ - صَوَس - صَوِي  
صَوْمَاكَا شَتِيْسِيَة - فُوو - (د)

صَوَس - کتبوس مکھی چوس - نہایت بخیل و کمینہ  
کہ کسی کے سامنے کھانا نہ کھائے کہ کوئی

شتریک نہ ہو جائے۔  
صَوَع - ایک پیمانہ ہے مص (ن) صاع سے

ناپنا۔ جدا کرنا۔ متفرق کرنا۔ ڈرانا۔  
صَوَع - بچہ کی پیٹھ پر کا بچہ۔ اوپر تلے کے بچے۔

مثل و مانند مص (ن) (پانی کا)  
زمین میں اتر جانا۔ جذب ہو جانا۔ نمونہ

کے موافق چیز ٹھیک ٹھیک تیار کرنا  
سانچے میں ڈھان رل [خوش گوار ہونا

بچنا اور آسانی سے گلے میں اتر جانا۔  
صَوَف - بڑے بڑے بالوں والا مینڈھا۔

صَوَف - (س) بڑے بڑے بالوں والا  
ہونا۔

صَوَف - بکری کے بال۔  
صَوَف - صَوَدَف - (ن) بڑے بڑے بالوں

والا ہونا [عن] [تیر کا نشانہ سے]  
اچھٹ جانا۔ اعراض کرنا۔

صَوَقَاتِي - بہت اُدن والا۔  
صَوَقَاتِيَة - بہت اُدن والی۔

صَوَقَة - بکری کے بال۔  
صَوُق - (ن) ہانکنا

صَوُق - ہازار۔  
صَوُقَة - سر کا بیج۔ چند یا۔ لڑائی میں سخت مقام

رو مال کہ عورتیں دوپٹے کے نیچے رکھتی

## ص - ۵

صہ - چپ - خاموش رہ - مت بک -

چپ رہ - (واحد و جمع)

صہایتہ - لڑھی

صہارتہ - پھلی ہوئی چیز چربی کا ٹکڑا - ہڈی کا

گودا - بھیجا -

صہقال - ہنہانے والا گھوڑا -

صہقب - بالوں کی سرخی یا بھور اپن -

صہیام - انگوری شراب -

صہیتہ - بالوں کا بھور اپن -

صہمد - (ر) کسی کو آفتاب کی پیش کا مجلس

دینا -

صہدان - گرمی کی سختی -

صہس - ہر گرم چیز - (ر) آفتاب کا

جلادینا - پھلی ہوئی چربی وغیرہ سر پر

لانا - پھلانا -

صہس - یگانگت - رشتہ داری - قرابت -

نکاح کی حرمت - سسرال کا رشتہ

واماد - سالہ - خسر - جہ - آفتھاس

صہس آء -

صہسہ - خوش دامن - ساس -

صہسہ - حوض - تالاب - تیلہ - گڑھا جس میں

پانی جمع ہو -

صہسہ - حوض اور گڑھا جس میں پانی جمع ہوگا

جہ - صہار پیچہ -

صہصہتہ - خاموش کرنا اور صہ صہ کہنا - یعنی

چپ چپ -

صہسہم - شریف - سردار - سرکش اونٹ -

صہوبہ - ہر خالص چیز -

جہ - صہقا مینجہ -

صہوبہ - بالوں کا بھور اپن -

صہوہ - گھوڑے کی پشت کا درمیانی حصہ -

کومان کا پھیلا حصہ - بہاڑ کی چوٹی -

جہ - صہہاء - ٹیلے کے اوپر کا بروج

جہ - صہہی -

صہوس - بھوننے والا - چربی پھلانے والا -

جہ - صہس -

صہسہ - (ر) بہت مال دار ہونا - زخم کا پب

رسانا -

صہسہو - پھیلا ہوا -

صہسہیل - صہقال - گھوڑے سے ہنہا ہٹ -

ص (ر) گھوڑے کا آواز

نکالنا - ہنہانا -

صہسہوینتہ - جدید یہودی تحریک جس کا مقصد

فلسطین میں یہودی حکومت قائم کرنا

ہے (د)

## ص - ۵

صہیاب - صہیابہ - ہر خالص اور بے میل چیز -

صہیاح - (مقابلہ) ایک دوسرے کو آڑ دینا -

(ر) آواز نکالنا - چیننا -

صہیاح - ایک قسم کی خوشبو - سرد ہونے کی چیز

صہتاد - شکاری - شیر -

(کینلہ) صہتاحتہ - روشن اور چاندنی رات -

صہیاس - جنگ کی آواز -

صہیارتہ - کبریوں وغیرہ کے رہنے کا ماڑہ -

صہطاط - بہت شور وغل -

صیڈ - صیڈوسا - (ض) رائی مائل ہونا۔  
چھرنا۔ پانی پر آنا اور جمع ہونا۔

صیڈ - گرہ - قیر۔

صیڈ - پانی جس پر آمدورفت ہو۔ کام کا نتیجہ  
اور انجام۔ کواڑ کی دراڑ۔ ہودیوں کا  
پیشوا۔ پادری۔ جڑ۔ صلیبوسا

صیڈت - صیڈتی - صراف - رد پیر۔ اثرنی۔

پرکھنے والا جیلگر۔ چاہرگر۔ کاموں میں

تصرف کا سلیقہ رکھنے والا ج۔ صیڈارتہ

صیڈم - ہوشیار و عقلمند آدمی۔ دن رات میں

صرف ایک مرتبہ کھانا کھانا۔ راسم

(س)۔

صیڈتہ - صیڈتہ - بولہبے کا کربچ بھار

قلعہ۔ ہر وہ چیز جس سے پناہ حاصل

کریں اور دشمن کو روک سکیں۔ مرغ کا

خار۔ مرن کا سینگ ج۔ صیڈاص

صیڈج - (ض) پرانگندہ کرنا۔ ایک دوسرے پر

حملہ کرنا۔

صیڈغ - جھوٹا بے ہودہ گوہ۔ بات بتانے والا

صیڈغہ - ٹرید۔

صیڈغہ - اصل۔ ایک ہی بناوٹ کے تیر۔ ڈھلے

ہونے۔

صیڈف - موسم گرما۔ ج۔ آصیڈف - مص

(ض) [پ] گرمیوں میں کہیں قیام کرنا

صیڈف - صیڈوقہ - (ض) [خ] تیر کا نشاۃ

سے اُچھٹ جانا۔

صیڈف - گرمیوں کی بارش۔

صیڈفہ - گرمیوں کا موسم۔

صیڈفہ - گرمیوں کی بارش۔

صیباغہ - زرگری۔ سنار کا پیشہ۔

صیبال - صیبالہ - ایک دوسرے پر حملہ کرنا اور کودنا۔

صیب - بارش۔ برستا ہوا بادل۔

صیب - (ض) پہنچنا۔

صیبت - شہرت۔ ستار۔ تھوڑا۔ تھوڑی

صیبت - سخت آواز والا۔ بلند آواز والا

صیبتہ - شہرت۔

صیبتہ - صیبتان صیباح - (س)

زور سے چیخنا۔ چلاتا۔ آواز کرنا۔

صیبتان - پکارنا۔ انگور کا بڑھنا اور خوشوں کا

لٹکنے لگنا۔ جھوڑ کا پھلنا۔ چھوڑنا۔

بڑھنا (مبہولاً) [ب] خوف زدہ ہونا۔

[ف] ہلاک ہو جانا۔

صیبتہ - عذاب۔ چیخ۔ چنگھاڑ۔

صیڈ - شکار۔ حال۔ اور ہر وہ چیز جس سے

شکار کریں۔ ہر مضبوط چیز جو کسی ملک

میں نہ ہو۔ مص (ض) [ت] شکار کرنا

کچ گردن کر دینا۔

صیڈ - (س) شکار کرنا۔ کچ گردن ہونا غرور

سے نر کو بلند رکھنا۔

صیڈاء - سخت کھردری زمین۔ پتھر جس کی ہانڈی

بنائی جاتی ہے۔

صیڈانہ - مجت۔ بد اخلاق اور بہت بکواس

کرنے والی عورت۔

صیڈالہ - دوا فروش۔ دوا سازی (د)

صیڈالی - دوا فروش۔ عطار۔ (ح)

صیڈالیہ - دوا فروش کی دکان۔ ڈسپنسری

صیڈ - (ض) قطع کرنا۔ لوٹنا۔ پھرتا۔ حاضر

ہونا [و] راغب ہونا۔

صَیْبَات - یاد کرنے والا۔ ہوشیار آدمی طاقت ور اور سخت۔ طاقتور اور مضبوط۔ شیر۔  
جہ: صَیْبَات (د) فوجی افسر۔ جہ:  
صَوَائِب -

صَیْبَات - بولس میں۔ جہ: صَیْبَاتِیَّة (د)  
صَیْبِج - دادی کے موڑ کی جگہ۔ جہ: صَوَائِج۔  
کروٹ سے بیٹھا ہوا یا سویا ہوا۔ کابل بہت  
سونے والا۔ خانہ نشین۔ کابل یا  
برطھلپے کے سبب۔ ستارہ ڈو بتا ہوا  
اجاق۔ جہ: صُجَّج

صَیْحَہ - پانی کا بھرا ہوا ڈول کہ بوجھ کی وجہ سے  
بھکا جاتا ہو۔ جہ: صَوَائِج

صَاحَہ - نظر بصارت۔ بینائی۔ آنکھ۔  
صَاحِک - ہنسنے والا۔ ہمت ہنسنے والا۔ اجڑ  
میں بجلی کو نڈتی ہو۔ پہاڑ میں سفید پتھر جو  
خوب نظر آتا ہو۔

صَاحِکَہ - ہنسنے والی۔ دانت جو ہنسنے کے وقت  
ظاہر ہوں۔ سامنے کے چار دانتوں  
میں سے ہر دانت۔ جہ: صَوَائِک  
صَاحِج - ظاہر کھلا ہوا۔ جہ: صُحَّاحَہ  
صَاحِیَہ - ظاہر و علانیہ۔ آشکارا۔ کھلی ہوئی۔  
(د) شہر کے اردگرد کی آبادی۔ جہ:  
صَوَائِج -

صَاد - حروف ہجائیں ایک خاص عربی حرف  
صَاد - عورت کی شرم گاہ معص (ت) بھگرتا  
خصوصت کرتا۔

صَوْد - صَوْدَہ - صَوْدَہ - زکام۔  
صَادِی - غضب ناک۔ غصہ۔ جہ:  
صَدَّہ - بُری بات جس سے غصہ

صَنِيفِيّ - بچہ جو بڑھاپے میں پیدا ہوا ہو۔ جہ:  
صَنِيفِيّوْنَ - گرمی کے موسم کی بارش۔  
صَبِق - صَبِقَہ - گردوغبار۔ شور و غل۔ چوپالیوں  
کی بدبو۔ جہ: صَبِق -

صَبِیْل - تلوار وغیرہ کا تیز اور صاف کرنے والا۔ جہ:  
صَبِیْقَل - صَبِیْقَلَہ  
صَبِیْہ - طاقتور۔ مضبوط اور گول بدن کا آدمی۔  
صَبِیْن - چین کا معرب (ایک ملک کا نام) چین کا  
بنا ہوا برتن۔ جہ: صَوَائِی -  
صَنِيفِيّہ - (د) سینٹی طبقات کشتی۔

صَبِیْوْب - تیر نشانہ پر پہنچنے والا۔ جہ:  
صَبِیْب -

صَبِیْوْد - شکاری۔ جہ: صَبِیْد - صَبِیْد -  
صَبِیْوْد - تیر جو نشانہ سے خطا نہ کرے۔  
صَبِیْوْس - کام کا انجام عقل ور لے۔  
صَبِیْوْرَہ - انجام کار۔

صَبِیْکَہ - سراب۔ چٹیل میدان جس میں نہ پانی ہو  
نکوئی اور چیز۔ جہ: صَبِیْہ  
صَبِیْوُج - چمکدار۔ بےیت صَبِیْوُج پکا مکان۔  
کہ استرکاری کے سبب چمکتا ہو۔  
صَبِیْوُکَا - کارنس۔ ممبر کے مشابہ جو برتن  
وغیرہ رکھنے کے لئے گھس میں بنا  
لیتے ہیں۔

صَبِیْلُ الْقَسَس - گھوڑے کی ہنہناہٹ  
ص - ر

صَاب - گرم راہ۔  
صَابِج - وہ گھوڑا جس کے دوڑنے میں جوت  
سے آواز نکلے۔ جہ: صَوَائِج -

صَامِس - نازک اندام - لاغر - پھریرا - بلبلا پتلا  
جہ :- صَمْس

صَامِل - خشک -

صَامِن - کفیل - ذمہ دار جہ :- صَامُون  
حاملہ اونٹنی جہ :- صَوَامِن

صَامِنَة - کھجور کا درخت جو شہر یا گاؤں یا چار  
دیواری کے اندر ہو جہ :- صَوَامِن

صَان - بھیر - ڈنہہ جہ :- آصَان مص  
(ف) بھیروں کو بکریوں سے الگ  
کرتا -

صَانَة - اونٹ کی ناک کی تھمتی تانت سے بنی ہوئی  
صَاوِي - رات کر آنے والا -

صَاوِي - نازک اندام -

صَاهِس - پہاڑ کی چوٹی - وادی -  
صَاهِس - تھوڑی سی شے جو اگلے دانوں  
سے چھائی جاسکے -

صَايِي - (ف) بدن کا لاغر و کمزور ہونا -

صَايِيح - تباہ و خراب - تلف ہونے والا جہ :- صِيِيَاع  
صَايِيح - تنگ - تنگ ہونے والا -

صَايِيْن - سست لگے ہوئے پیٹ کا آدمی -  
باوجود کم خوراک کے تیز منہ - ڈنہہ -

جہ :- صَان - صَان وَصَيِيْن  
وَصَيِيْن -

بھیر (مادہ) جہ :- صَوَامِيْن

## ض - ب

صَبَب - کھجور کا گٹھا - گڑھ - سوسار - واہ - صَبَبَة  
جہ :- أَصَبَب - صَبَاب - صَبَابَان -

مَصَبَبَة - کینہ - بغض - غصہ - مص

آئے - جہ :- صَوَاوِي -

صَاوِي - مزر پھینانے والا - بگاڑنے والا -  
نقصان دہ -

صَاوِيب - اندھیری رات جہ :- صَوَاوِيب  
مارنے والا - سفر کرنے والا -

صَاوِيع - عاجزی کرنے والا - ٹھکھیانے والا -  
خوار - تابعدار - کمزور و ناتواں - دُبلّا  
پتلا جہ :- صَوَاوِيع

صَاوِيوَة - صَاوِيوَة - نیاز و حاجت مندی - تنگی  
منفلسی -

صَاوِيوَة - حَظ - سستی - مزر - بد حالی - نقصان  
کمی - نیاز مندی - حاجت ضرورت  
طلب -

صَاوِيوَة - صَاوِيوَة (ف) ظلم کرنا (حق) کم کر دینا -  
صَاوِيوَة - لڑائی میں آدمیوں کا شور و غل -

چلا ہٹ - غل غپاڑا -

صَاوِيوَة - لڑائی میں نالہ و دُشیا دکرنا - چلاتا -  
شور مچانا -

صَاوِيوَة - وہ گھوڑا کہ جب تک اُسے نہ مارا جائے  
نہ چلے -

صَال - گمراہ - جہ :- صَالَال

صَال بن صَال - اہل عرب کی گالی -

صَال - جنگلی بیری -

صَالَة - گم شدہ - اونٹ کہ بغیر چرواہے اور  
مالک کے ہو - راستے سے بہکا ہوا -  
(مذکر و مؤنث) جہ :- صَوَال

صَالَة - (لک) کمزور و ناتواں ہو جاتا - دُبلّا  
پتلا ہو جاتا - عقل کا ضعیف ہونا -

صَالِيَع - عالم - ستمگار - ڈیرٹھا جو قدرتی نہ ہو -



صَبَّحَة - آواز -  
صَبَّدا - (ن) بکری کھجوروں کو کچی کھجوروں میں

صَبَّدا - ملانا -  
صَبَّدا - غصہ - کیسہ

صَبَّو - بغل -

صَبَّو - اخروٹ کا درخت -

صَبَّو - غازیوں کی جماعت - جس بھری ہوئی

کھال - کروی جس کی اوٹ میں آدمی

(روائی میں قلعہ کے نیچے تک بڑھا چلا

جائے - جنگلی انار کا درخت - جو زلوا

جہ - صَبَّو

صَبَّو - صَبَّان - (حق) کو دینے کے لئے

پاؤں جوڑنا - پشتارہ گھڑا ہاتھنا

ترتیب سے اوپر تلے چلنا -

صَبَّس - (ن) قرضدار پر سخت تقاضا کرنا -

صَبَّس - (س) بد اخلاقی ہونا -

صَبَّس - صَبَّیس - بد اخلاق - سرکش -

صَبَّط - صَبَّاط - (حق) ہوشیاری سے کسی

چیز کی حفاظت کرنا -

صَبَّع - (ف) ہاتھ کو مارنے کے لئے بڑھانا

(راستہ) تقسیم کرنا - ظلم و جور کرنا

(علی) بددعا کے لئے ہاتھ اٹھانا -

(الی) کسی کی طرف تلواریں کرنا ہٹھ

بڑھانا -

صَبَّع - صَبَّوع - صَبَّعان - صلح کی طرف مائل

ہونا - تقسیم کرنا - چلتے میں بازوؤں ہلانا

صَبَّح - صَبَّحَة - (س) اونٹنی کا چلتی کی خواہش

کرنا - مجازاً عورت کے لئے بھی استعمال کہتے ہیں

صَبَّح - لگا - بگا - جہ - آصَبَّح - صَبَّاع

(حق) حاوی ہونا - رال ہنا - کسی چیز کو

گھیر لینا -

صَبَّو - صَبَّو - (ب) چمٹ جانا (ہوٹھ

میں) خون نکل آنا -

صَبَّو - صَبَّو - زمین سے چمٹنا - پوشیدہ ہونا

کسی کو فریب دینے کے لئے چھیننا -

(علی) اوپر سے جھانکنا (الی) پناہ چاہنا

امن چاہنا (من) شرمانا -

صَبَّاب - صَبَّابَة - گھر یعنی جاڑے کے موسم

میں فضا میں جو بخارات بھر جاتے

ہیں - دھوئیں کے مشابہ جہ - اصْبَابَة

صَبَّار - کتابیں (اس کا واحد نہیں ہے) -

صَبَّارَة - جسم کی پیدائشی - مضبوطی - آدمیوں

کا گردہ - جمع - جہ - صَبَّارو -

صَبَّارَة - کڑویوں کا بوجھ - گھاس گٹھ - کاغذ کی

گڈی -

صَبَّارِک - صَبَّارِک - خیر - طاقت ور آدمی -

جہ - صَبَّارِک -

صَبَّاع - بنات النعش کے نیچے کے ستارے

صَبَّاب - (س) زمین میں گوہ (سوسار) زیادہ

ہونا -

صَبَّابَة - زمین جو گوہ سے بھری ہوئی ہو -

صَبَّبت - (رض) مارنا (ب) کسی چیز کو بیخبر سے

بکڑھانا -

صَبَّج - صَبَّاح - دوڑنے میں گھوڑوں کے

جوت کی آواز میں (ف) سرپٹ

دوڑنا (آگ) کا کسی چیز کو بھلسا دینا

کہ رنگ بدل جائے اور جلے نہیں -

چھگڑا کرنا -

ضَجِجِ - بے قرار و طول مکان ضججی تنگ جگہ۔

ضَجِجَس - غم وغیرہ کے سبب بے قراری میں (س) ادنیٰ (کا) دوہنے یا لانے کے وقت بلبلانا [میں] غم کے مارے آہ و فغاں کرنا۔ تڑپنا۔ بے قرار ہونا۔ طول ہونا۔

ضَجِجَۃ - غم و طال۔ رنج و اندوہ۔

ضَجْجُوع - (ف) پہلو پر سونا۔

کروٹ سے سونا۔ پہلو کو زمین پر رکھ کر لپیٹنا۔ قریب بہ غروب ہوتا۔

ضَجْجُوع - خواہش۔ رغبت۔

ضَجْجَۃ - کروٹ سے لیٹنے کی ہیئت۔ فرش۔

ضَجْجَۃ - عقل و رائے کی سستی۔ بیماری۔

پہلو پر گرنے والا۔ مرد جو بہت سونے والا کا بل ہو۔ خانہ نشین۔ ایک جگہ کا مقیم۔

ضَجْجَۃ - بہت سونے والا۔ کا بل۔

ضَجْجَم - ٹیرٹھ۔ کچی۔ مص (س) اچ ہونا۔

ٹیرٹھا ہونا۔

ضَجْجَمَۃ - ایک چھوٹا سا بدبودار جانور۔

ضَجْجَن - ایک پہاڑ کا نام۔

ضَجْجَان - مکہ معظمہ کے نزدیک پہاڑ۔ (غیر منصرف ہے)

ضَجْجُوع - ادنیٰ جو دوہنے اور لانے کے وقت بلبلائے۔

ضَجْجُوس - ادنیٰ جو دوہنے اور لانے کے وقت بڑبڑائے اور چلائے۔

ضَجْجُوع - بھاری مشک کہ جو بوجھ کے باعث

ضَبَع - ضَبِيع - ضَبَعَات - مَضْبَعَة - ضَبَعَان - لکڑ بگڑ۔ ج۔۔۔ ضَبَاعِيْن - ضَبَاع (م) ضَبَعَات - ضَبَعَة - لکڑ بگڑ کی مادہ۔

ضَبِيْن - تھوڑا سا پانی (مکان ضَبِيْن) تنگ جگہ۔

ضَبِيْن - نقصان دہی۔

ضَبِيْن (ن) [ع] کسی سے کوئی چیز روک لیستنا۔

ضَبِيْن - سخت۔ وہ جگہ کہ کھد نہ سکے۔ کوک اور نخل کے درمیان کا حصہ۔

ضَبِيْنَة - مرد کے اہل و عیال اور اُس کے پیر۔

ضَبِيْنَة - سخت و طاقتور۔

ضَبُو - ضَبِيْ - (ن) بھلس دینا (الی) کسی کی پناہ لیستنا۔

ضَبِيْب - تلوار کی پاڑ۔

ضَبِيْبِيْۃ - مسک۔ مکھن۔ جو چیز بچھ کے لئے مکھن سے بنائی جائے۔ ج۔۔۔ ضَبَايْب

ضَبِيْر - سخت۔ مضبوط۔ عضو تناسل۔

ض - ج

ضَبَاَج - ہاتھی کا دانت یا ہم شور و غل مص (ض) کسی کو زبردستی کسی کام پر مقرر کرنا۔

ضَبَاَج - ہاتھی کا دانت یا ہم شور و غل مص (ض) کسی کو زبردستی کسی کام پر مقرر کرنا۔

ضَبَاَج - ہاتھی کا دانت یا ہم شور و غل مص (ض) کسی کو زبردستی کسی کام پر مقرر کرنا۔

ضَبَاَج - ہاتھی کا دانت یا ہم شور و غل مص (ض) کسی کو زبردستی کسی کام پر مقرر کرنا۔

ضَبَاَج - ہاتھی کا دانت یا ہم شور و غل مص (ض) کسی کو زبردستی کسی کام پر مقرر کرنا۔

ضَبَاَج - ہاتھی کا دانت یا ہم شور و غل مص (ض) کسی کو زبردستی کسی کام پر مقرر کرنا۔

ضَبَاَج - ہاتھی کا دانت یا ہم شور و غل مص (ض) کسی کو زبردستی کسی کام پر مقرر کرنا۔

ضَبَاَج - ہاتھی کا دانت یا ہم شور و غل مص (ض) کسی کو زبردستی کسی کام پر مقرر کرنا۔

ضَبَاَج - ہاتھی کا دانت یا ہم شور و غل مص (ض) کسی کو زبردستی کسی کام پر مقرر کرنا۔

ضَبَاَج - ہاتھی کا دانت یا ہم شور و غل مص (ض) کسی کو زبردستی کسی کام پر مقرر کرنا۔

ضَبَاَج - ہاتھی کا دانت یا ہم شور و غل مص (ض) کسی کو زبردستی کسی کام پر مقرر کرنا۔

ضَبَاَج - ہاتھی کا دانت یا ہم شور و غل مص (ض) کسی کو زبردستی کسی کام پر مقرر کرنا۔

سقے کی پٹھیر کبڑی کرو سے بڑا اور کشادہ  
 ڈول - عورت جس کی خاندان سے موافقت  
 نہ ہو - بڑا کتوال - سست تھل و ناقص  
 رائے کا آدمی - برسا ڈا بادل جو آہستہ  
 آہستہ چلے -

صَحْبِجِز - ناخوشی - مشقت - ڈر - مص (ض)  
 رونا - فریاد کرنا -

صَحْبِجِغ - ساتھ سونے والا - بھوک

## ض - ح

ضَح - آفتاب - پھیلی ہوئی دھوپ - جنگل -  
 صحرا - فساد - میدان جس پر دھوپ  
 پھیلی ہوئی ہو -

ضَحَاء - چاشت کا وقت - دوپہر کے قریب  
 کا وقت -

ضَحَائِك - بہت ہنسنے والا - سرطاک  
 ضَحْضَح - ٹٹھنوں ٹٹھنوں پانی - پاماب پانی -  
 تھوڑا پانی - اتنا پانی کہ آدمی اس میں  
 ڈوبے نہیں -

ضَحْضَح - صاف پانی - تھوڑا پانی -  
 ضَحْضَحَة - (سراب کا) چمکنا - جاری ہونا - ظاہر  
 آشکارا

ضَحْحَك - کلی - مزہ بند کلی جو ذرا چٹکی ہو - برف  
 دودھ کا بھاگ - شہد - بھج -  
 سپید دانت - راستہ کا بیج -

ضَحْحَك - ضَحْحَك - (س) ہنسنے - خوش ہونا  
 حیض آنا - ڈرنا - چمکنا (بند رک  
 بولنا)

صَحْبَكَة - ایک باری ہنسی

صَحْبَكَة - وہ شخص جس پر لوگ ہنسیں -

صَحْبَكَة - بہت ہنسنے والا -

صَحْبَكَة - بہت ہنسنے والا -

صَحْبَل - تھوڑا پانی - خالص - ج -

صَحْبُول - آضْحَال (مص) (ف)

پانی کا کم ہونا اور اتر جانا -

صَحْبُو - ایک پھردن چڑھے کا وقت - چاشت

کا وقت -

صَحْبُو - صَحْبُو - صَحْبُو - نماز چاشت پر دھنا -

دھوپ میں باہر نکلنا - ظاہر ہونا - وضع

اور آشکارا ہونا -

صَحْبُو - صَحْبُو - کسی کو دھوپ لگنی -

صَحْبُوَة - ایک پھردن چڑھے کا وقت - چاشت

کا وقت - ج - صَحْبُو

صَحْبُوك - بہت ہنسنے والا - فراخ و ظاہر و

روشن راستہ - ج - صَحْبُوك -

صَحْبُو - چاشت کا وقت (غیر منصرف ہے)

نماز چاشت - آفتاب کی روشنی

(منصرف ہے) -

صَحْبُو - (س) اسپینہ آجانا -

صَحْبُوَة - عورت جس کے پیڑوں پر بال نہ آئیں -

رَیْلِيَة صَحْبُوَة - روشن رات جس میں طلوع صاف ہو

(یوم) صَحْبُوَة - روشن دن -

صَحْبِيَان - مرد جو چاشت کے وقت کھانا کھائے

صَحْبِيَانَة - عورت جو چاشت کے وقت کھانا

کھاوے - پہاڑ کی چوٹی -

صَحْبِيَانَة - قربانی کی بکری - پھر بھردن چڑھے

کا وقت (د) قربانی - بھینٹ - ج -

صَحْبِيَانَا -

## ض - خ

صَحَّ - اُنسو۔ پانی کا پھرہ کا ڈ۔ مص (ن) پشاپ کرنا۔

صَحَّاه۔ بہت موٹا۔  
صَحَّخ۔ (اُنکھ) نکال ڈالنا۔

صَحَّحُم۔ صَحَّخِیم۔ دبیز۔ موٹا۔ ہر چیز پر بڑے ڈیل ڈیل کی۔ بھاری جسم کا۔ بڑے گوشت

کٹ وہ اور روشن۔ بہت پانی۔

بوجھل۔ بھاری وزن کا۔ جہ۔ صَحَّحَام

صَحَّحُم۔ صَحَّحَامَة۔ (ک) بڑا اور موٹا ہو جانا۔

صَحَّحَمَة۔ بڑے ڈیل کی بڑے گوشت۔ جہ۔  
صَحَّحَمَات۔

صَحَّحَمَة۔ خوشنما۔ نرم و گداز جسم کی چوڑی چکی عورت۔

## ض - د

صَدَّ - (ن) غالب آنا۔ بھرتا (ن) کسی کو کسی چیز سے پھیر دینا۔ نرمی و ملائمت کے ساتھ روکنا۔

صِدَّ - ماند۔ مماثل۔ مشابہ۔ غیر مشابہ۔

غیر مماثل۔ خلاف رذات اَضداد سے ہے (جہ)۔ اَصْدَاد

صَدَّ - (س) غصہ کرنا۔  
صَدَّ - (ن) (س) درست کرنا۔ آسان کرنا۔

صَدَّی غصہ۔ مص (س) غصہ ہوتا سنا راضی ہونا۔

صَدَّیْد۔ ماند۔ متضاد

‡ ‡ ‡

## ض - س

صَدَّ - نقصان۔ مص (ن) نقصان پہنچانا بیوی پر ایک اور بیوی کرنا۔

صَدَّ - سختی۔ نقصان۔ ملاغزی۔ بد حالی۔  
صَدَّ - ایک بیوی پر دوسری بیوی کرنا (اسم مصدر)۔

صَدَّء۔ (ت) پوشیدہ ہونا۔  
صَدَّاء۔ وادی میں درختوں کا جھنڈ جس میں

آدمی پوشیدہ ہو جائے۔

صَدَّاء۔ سختی و بد حالی۔ جان و مال کا نقصان

اپنا بیچ پن۔

صَدَّاءَة - (س) (ب) حریص ہونا۔ خواہش کرنا  
صَدَّاب - (ض) ترکا مادہ پر کھودنا۔

صَدَّاح - (ن) (گھوڑے کا) لات مارنا۔

صَدَّاس - تاوان۔ ڈنڈ۔ مص (م) مقابلہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا۔ موتیں

جمع کرنا۔ لڑنا۔ جھگڑنا۔  
صَدَّارَة - جان و مال کا گھانا۔

صَدَّاط - گوز۔  
صَدَّاط - گوز مارنے والا۔

صَدَّارَة - عاجزی و ذلت مص (ک) است

دنا تو ان ہر جانا۔ ذلیل و خوار ہونا۔  
(ف) میں (م) مطیع و فرمانبردار ہونا۔

صَدَّام - پھیٹی۔ خشک لکڑی جیلی سی۔ آگ میں بھرو کی ہوئی لکڑی۔

صَدَّامَة - پھیٹی کاتی کا درخت یعنی بن کا درخت  
صَدَّاقَة - کسی چیز کا خوگر ہونا۔ حریص ہونا۔ کتے

کا شکار کے پیچھے دوڑتے ہوئے جانا۔

صَرَبِج - (ن) چرنا۔ ڈالنا (خون میں)  
آلودہ کرنا۔

صَرَبِج - تیسندوا۔

صَرَبِج - (ف) ادفع کرنا۔ دُور کرنا۔ کیس کو کرنا۔

چوپایہ کالات مارنا (جیسے صَرَحَت  
الذَّائِبَةُ بِرَجْلَيْهَا) (ل) کسی کے  
لئے ڈر کھودنا۔

صَرَس - نقصان۔ تباہی۔ غار کا کنارہ۔ گھانا  
تنگی۔

ضِرْسِي - بہت کنبوس اور کیسند۔

ضِرْسِيَّة - کینی اور ٹھنکنی عورت۔

صَرَسِيَّة - دانتوں سے بڑی طرح کا ٹٹا۔ کسی چیز  
میں دانت گر دونا۔

ضِرْسِي - زمین جس میں کہیں کہیں گھاس ہوزمانہ  
کی سختی۔ ج۔۔۔ صَرَسِي صِص

(ن) دانتوں سے کاٹنا۔ زمانہ کا سخت  
ہونا۔ تمام دن چُپ رہنا۔

ضِرْسِي - دانت۔ ڈالنا۔ ج۔۔۔ صَرَسِي -  
آصَرَسِي - سخت و مضبوط پشتہ۔

تھوڑی سی بارش۔ ج۔۔۔ صَرَسِي -  
صَرَسِي - جھوک کے سبب جسے غصہ آ رہا ہو۔

صَرَسِي - (س) دانتوں کا ترشی سے کند ہونا۔  
دانتوں کا گھٹنا ہو جانا (زمانہ کا سخت  
ہونا۔

صَرَط - ڈالنا کا پھدراہن۔ ابرو کی باریکی۔  
مص (س) ٹیک ریش ہونا۔ باریک

ابرو والا ہونا۔

صَرَط - صَرَط - صَرَطِي - (ض) ن۔ اگور زمانہ  
صَرَطَاء - باریک ابرو کی عورت۔

صَرَب - مانند۔ مثل۔ ذہین آدمی۔ ہلکا پھلکا

چالاک۔ پھرتیلا۔ چلتا ہوا چلتا  
پہرہ۔ چاق و چوبند۔ ہلکا مینڈ یعنی

چھوڑا۔ سفید شہد۔ گاڑھا۔ شعر کا آواز  
ج۔۔۔ صَرَب - مص (ض)

مارنا۔ ڈسنا۔ حرکت کرنا۔ منہ پھیرنا  
اشارہ کرنا۔ بزرگی حاصل کرنا (ل)

کہادت اور مثل بیان کرنا (ف)  
چلنا۔ سفر کرنا (ب) کسی چیز کو کسی

چیز میں طانا۔

صَرَبُ (المِدْقُوعُ) توپ داغنا (د)

صَرَبُ التَّلْفُونِ - ٹیلی فون دینا۔ (د)  
صَرَب - بہت مارنے والا۔

صَرَب - (س) سردی سے ہلاک ہونا سردی زدہ  
ہونا۔ زمین کا ٹٹناک ہونا۔

صَرَبَان - (ض) (زخم کا) پیپ سے پڑ ہونا۔  
رگ کا پھوٹنا۔ (ب) آپس میں تفرقہ

ڈال دینا۔

صَرَبِيَّة - دار۔ ایک بار مارنا۔

صَرَبِيَّة خَاتِن - ٹکسال (د)

صَرَبِيَّة - ٹکس۔ ج۔۔۔ صَرَبِيَّة -  
صَرَبِيَّة - جان و مال کا گھٹنا۔ سوکن۔ اونٹوں

کبریوں کا ریوڑ۔ سختی۔ تنگ حالی۔  
عامت مندی۔ غم۔ تھن۔ انگوٹھے کے  
نیچے بتیل کا گوشت یا وہ گوشت جو

پاؤں کی انگلیوں کی جڑ کے نیچے ہے  
ج۔۔۔ صَرَبِيَّة -  
صَرَبَتَان - سرین۔ ایک مرد کی دو عورتیں۔ دو  
سوکنیں۔ چکی کے دونوں پاٹ۔

ضَرُوع - کتے کا دوڑنا ہوا یا بھاگنا۔ آضواء  
 صَرُوب - بہت مارنے والا۔  
 صَرُودَنَہ - نیاز حاجت - عجز۔  
 صَرُوط - گوز مارنے والا  
 صَرُوع - فرماں بردار۔ نرم خو۔  
 صَرُوع - سپید انگوٹھ سے دانہ کا آفتابیک  
 ڈو بنایا ڈو بننے کے قریب ہونا۔  
 زہن کا قریب ہونا۔  
 صَرُوع (صَرُوع) - رگ جس کا خون بند نہ ہو۔  
 صَرُوعی - کتے کا پلا۔ دوڑنے والا۔  
 صَرُوعی - صَرَاوَة - صَرُوعی - صَرَاوَة - (س)  
 زہن کا قریب ہونا۔  
 صَرُوعی - (حق) خون کا جاری ہونا  
 صَرُوب - مارا ہوا۔ پٹا۔ کٹا۔ انداز۔ خوب  
 مارنے والا۔ حصہ۔ آدمی کا پیٹ۔  
 برف۔ مثل ومانند۔  
 صَرُوبَنَة - رشقت۔ خو۔ عادت۔ اُجرت زمین  
 کا محصول۔ تلوار سے مارا ہوا۔ تلوار  
 کا زخمی۔ روٹی وغیرہ کی پوتی جسے  
 کاتتے ہیں۔ تلوار۔ تلوار کی دھار۔  
 تھوڑی سی روٹی۔ ج۔ صَرَاوَة  
 (عَدَاوَة) صَرُوبَنَة - سخت دوڑ۔  
 صَرُوبَن - قہر۔ گور کا گروہا۔ دور۔ ج۔  
 آضَرُوحَة - صَرَاوَة۔  
 صَرُوبَن - اندھا۔ تحیف۔ بیمار۔ ناقص چیز۔  
 رشک۔ صبر۔ نفس۔ دو تین عورتوں  
 کا خاوند۔ ج۔ آضَرُوع  
 صَرُوبَنَة - بیمار عورت۔ دہلی پتی عورت۔ اندھی۔  
 ج۔ صَرَاوَة۔

صَرُوع - تھن۔ ج۔ صَرُوع  
 صَرُوع - (ک) عاجزی کرنا خوار و حقیر ہوجانا۔  
 نظروں سے گر جانا۔ مطیع ہونا۔  
 صَرُوع - سست و ناتواں۔ وہ جو کمزوری  
 کے سبب دوڑ نہ سکے۔ ہر چیز چھوٹی  
 و کم عمر۔  
 صَرُوع - مثل ومانند۔ رتی کا بل۔ ج۔  
 صَرُوع - آضَرُوع۔  
 صَرُوع - متواضع۔ فرمانبردار۔ خوار۔ عاجز۔  
 سست۔ ناتواں۔  
 صَرُوع - بڑی پستانوں یا تھنوں والی۔  
 صَرُوع - تابعدار۔ متواضع۔ خوار۔ سست و  
 ناتواں۔  
 صَرُوع - شیر۔ بہادر۔  
 صَرُوع - شیر۔ بہادر و دلیر آدمی۔ سخت آدمی  
 سخت کپڑا۔  
 صَرُوع - شیر۔  
 صَرُوع - دلیری کرنا۔ شیر ہوجانا۔  
 صَرُوع - کثرت۔ بہتات۔  
 صَرُوع - پاندھنا۔ مضبوط کرنا۔  
 صَرُوع - (س) بہت بھوکا ہونا (اگ کا بھوکنا  
 جلن زیادہ ہونا۔ [علی] کسی پر ناراض  
 ہونا [ف] بہت کھانا اور کچھ نہ  
 چھوڑنا۔  
 صَرُوع - بھوکا۔ عقاب کا بچہ۔ بہت تیز  
 رفتار گھوڑا۔  
 صَرُوع - آگ کی چنگاری۔ آگ۔ کھجور کی ٹہنی  
 آدمی جلی ہوئی۔ ج۔ صَرُوع  
 صَرُوع - صَرُوع - (ان) رگ سے خون نکلنا۔

دک (د) خود کو خوار کرنا۔ کم حوصلہ اور ناکس  
 وفسر و مایہ ہو جانا۔  
 صَعَة - ایک درخت کا نام۔ ج۔:۔ صَعَوَات  
 صَعَة - وضع۔ تجارت میں نقصان اٹھانا۔  
 صَعْن - (ف) بہت کوشا۔ یا نمال کرنا۔  
 صَعَصَع - صَعَصَاع - سست و نرم اور کمزور  
 چیز۔ بے وقوف آدمی۔  
 صَعَصَعَة - مکان وغیرہ کو منہدم کر کے زمین کے  
 ہموار کرنا۔ پست کرنا۔ ابحاڑنا۔  
 صَعْف - ناتوانی۔ سستی۔  
 صَعْف - عقل کی سبکی اور کمی۔  
 صَعْف - صَعْفَة - صَعْفَة (د) سست ہو جانا  
 سیکر و رناتواں ہو جانا۔  
 صَعْفُ الشَّيْءِ - چیز کا مثل۔  
 صَعْف - دوہرے کپڑے۔ کمزوری۔  
 صَعْف - ناتوانی۔ کمزوری۔ بدن کی سستی۔  
 نقابست۔  
 صَعْفَان - سست و ناتواں۔ کمزور ج۔:۔ صَعْفَانِ  
 صَعْل - جسم کی لائوخی جو بزرگم اہل عرب والدین  
 کے قریب النسب ہونے کی وجہ  
 سے ہوتی ہے۔  
 صَعُو - (د) پوشیدہ ہونا۔ پھینا۔  
 صَعُوف - کمزور و ناتواں۔ ج۔:۔ صَعُوف  
 صَعْفَة  
 صَعِيف - کمزور و ناتواں۔ ہوا دہریں میں پھنسا  
 ہوا۔ نا بینا۔ اندھا۔ ج۔:۔ صَعِيف  
 صَعْفَاء - صَعْفَة  
 صَعِيفَة - نازک عورت۔ کمزور و سست عورت  
 ج۔:۔ صَعَائِف -

صَبْرَیں - کنواں جس کی من پتھر کی ہو۔ پیٹھ کے  
 ٹکے۔ بہت جھوکا۔ ج۔:۔ صَبْرَاسِي  
 صَبْرِيْط - گونا گونے والا مص (ض) گوزارنا۔  
 صَبْرِيْع - ایک خاردار درخت۔ دوزخ کی ایک  
 چیز کا نام جو ایلوے سے زیادہ کڑوی  
 مردار سے زیادہ بدبودار اور آگ سے  
 زیادہ گرم ہے۔  
 صَبْرِيْعَة - بڑے بڑے پستانوں والی عورت  
 بڑے بڑے تھنوں کی بکری۔ ج۔:۔  
 صَبْرَانِيْع -  
 صَبْرِيْك - نرگھ۔ احمق۔ ابا بچ۔ نا بینا۔ اندھا  
 بد حال فقیر۔ ج۔:۔ صَبْرَانِيْك - صَبْرَانِيْك  
 صَبْرِيْم - جلا ہوا۔ سوختہ۔

## ض - ز

ضَرَبَ - (س) بد اخلاق ہونا۔  
 ضَرَبَات (ض) ن کسی کے ہاتھ کی چیز لے لینا۔

## ض - ط

ضَطَط - سخت کپڑ۔ کھانچہ۔  
 ضُطَط - پلاٹیں۔ سختیاں۔  
 ضَطِيْط - سخت کپڑ۔ کھانچا۔

## ض - ع

ضَعَّ - (د) اونٹ کی ریاضت کرنا۔ جنگلی  
 اونٹ کو بلانا۔  
 ضَعَة - کینہ پن۔ خست۔ ناکسی۔ فردمانگی  
 مص (س) کسی شخص کا لین دین اور  
 تجارت میں نقصان زدہ ہو جانا۔

## ض - ع

صَغَامَةٌ - جسے دانتوں سے کاٹ کر پھینک دیں۔  
 صَغَبِيْنٌ - گلڑی کھیرا - ضعیف و کمزور آدمی۔  
 متوسط عمر اور متوسط جسم والا اونٹ۔  
 ج:۔ - صَغَابِيْنٌ -

صَغَنٌ - (ف) دانتوں سے چبانا۔

صَغْتٌ - خشک و تر ملی ہوئی گھاس کا مٹھا۔

ج:۔ - اَصْحَاتٌ

صَغْتٌ - (ت) (کپڑے کو) دھونا اور اچھی طرح  
 صاف نہ کرنا۔ (ب) بات کو خلط ملط کرنا  
 صَغْدٌ - (ف) اگلا گھونٹنا۔

صَغْدَارَةٌ - مُرغی - ج:۔ - صَغَادِرٌ

صَغْمَعَةٌ - کسی چیز کو اچھی طرح نہ چنانا - بغير ذکا  
 کے چبانا - مبہم اور غیر واضح بات کہنا۔

صَغَطٌ - (ن) - (ت) زور سے بھیجننا۔

صَغَطَةُ الْقَبْرِ - قبری تنگی اور اس کا بھیجننا۔

صَغْمَةٌ - سختی تنگی - قرض دانگی یہاں تک ٹال  
 مٹول کہ قرض خواہ تنگ ہو کر چھوڑ دینے  
 پر راضی ہو جائے۔

صَغْمٌ - (ف) دانتوں سے کاٹنا۔ منہ کو کسی  
 چیز سے بھرنا۔

صَغْنٌ - (س) (کینہ رکھنا) [مائل ہونا - آرام  
 دینا۔

صَغْنٌ - کینہ خواہش - رغبت - شوق - پہلو۔  
 اونٹ کی نعل - ج:۔ - اَصْغَانٌ

صَغُوٌ - صُغَاءٌ - (ن) است اور مضمحل ہونا  
 بلی وغیرہ کا رونا - خیانت کرنا۔

صَغِيْبٌ - کچھڑے سے بھرا ہوا کنواں جو اپنے پاس

کے پاکیزہ پانی والے کنوئیں کو بھی خراب کر  
 بے وقوف آدمی - ج:۔ - صَغَطِيٌّ -  
 صَغِيْنَةٌ - کینہ - بعض - ج:۔ - صَغَائِيْنٌ

## ض - ف

صَفْتُ - ایک چھوٹا سا کیڑا جیچڑی کے مشابہ  
 ج:۔ - صَفَقَةٌ

صَفَاً - جانب - گوشہ - کنارہ۔

صَفَائِرٌ - عورت کے بالوں کی پٹیاں - وا:۔ - صَفِيْرَةٌ

صَفَائِرُ الْعِجْتِ - پرسیا و شال۔

صَفَادٌ - بٹی ہوئی رسی جس سے اونٹ اور پالان  
 کو بانڈتے ہیں۔

صَفَاطَةٌ - نادانی - بے وقوفی (ص) (ک) بیوقوف  
 اور کم عقل ہونا۔

صَفَاقَةٌ - بے وقوف و بے عقل آدمی۔

صَفَسَةٌ - پانی پر بک بارگی جو کم کرنا۔

صَفَقَةُ النَّهْرِ - نہر کا کنارہ۔

صَفَقَةُ الْمِيْرِ - کنوئیں کا من۔

صَفَقَةُ الْبَحْرِ - دریا کا کنارہ اور گھاٹ۔

صَفْدٌ - (ن) طمانچہ مارنا۔

صَفْدَاعٌ - مینڈک ج:۔ - صَفْدَاعٌ - صَفْدَاوِيٌّ  
 رُعَيْنٌ یا رے سے بدل گئی ہے)

صَفْدَاعٌ - صَفْدَاعٌ - صَفْدَاعٌ - مینڈک۔  
 ج:۔ - صَفْدَاعٌ

صَفْدَاعَةٌ - مینڈکوں سے بھرا ہوا ہونا۔

صَفْدَاعَةٌ - مینڈکی - ج:۔ - صَفْدَاعٌ

صَفْدٌ - بٹی ہوئی رسی جس سے پالان کو بانڈتے  
 بالوں کی پٹیاں - ج:۔ - صَفْدُوْسٌ - صَفْدُوْسٌ

ریت کا بڑا تودہ - ج:۔ - صَفْدُوْسٌ



جو جماع کے وقت حدت کرے جو  
ادخال سے پہلے منزل ہو جائے۔ ج۔

## صَقّ - ص - ق

صَقّ - (رض) پتھر پر پتھر کے گرنے کی آواز کی نقل  
کرنا۔

## ص - ك

صَكّ - (ن) دشوار ہونا۔ تنگ ہونا۔ بھیپنا  
بچوڑنا۔

صَكّز - سخت بھیپنا۔ مص (ن) زور سے بھیپنا۔  
صَكْمَہَاك - ٹھکانا اور موٹا آدمی۔ م۔ صَكْمَاكَة  
صَكْمَكَة - رفتار۔ سرعت کے ساتھ چھپٹ  
مص بھیپنا۔

صَكْل - تھوڑا پانی۔

## ص - ل

صَلّ - گمراہی۔ ہلاکی  
صَلّ بن صَلّ - گمراہ کا گمراہ یعنی بہت گمراہ۔  
گمراہی میں ڈوبا ہوا۔

صَلّا صَلّ - ماہر۔ رہبر۔ راستہ بتانے والا۔  
صَلّا صَلّ الْمَاہر - سچا ہوا پانی۔

صَلّا عَة - پسلی کی ہڈیوں کی قوت و مضبوطی  
مص رٹ (مضبوط و سخت پسلیوں  
والا ہونا۔

صَلّال - صَلّالَة - گمراہی۔ مص (رض) میں  
ضائع ہونا۔ مرجانا۔ ہلاک ہونا

پرستش بہ ہو جانا۔ گم ہونا۔ گم کرنا  
راہ گم کرنا۔ گمراہ ہونا۔ بھٹک جانا۔

مکان جو بلیغ کا رے وغیرہ کے یوں ہی  
پتھر یا انٹیس چٹن کر بنا لیا گیا ہو۔ مص  
(رض) کودنا۔ دوڑنا۔ بالوں کو گوندھنا  
رسی بینا۔ بالوں کی پٹیاں گوندھنا۔ بالوں  
کو اکٹھا کرنا۔ جاناور سے مز میں چارہ دینا

صَفِيْرَة - ریت کا بڑا تودہ۔ ج۔ صَفِيْص  
صَفِيْرَة - (ن) اونٹ کا بھڑکونگان۔ دفع کرنا

جماع کرنا۔ دوڑنا۔ ہاتھ سے یالات سے  
مارنا۔ گھوڑے کے مز میں لگام دینا۔

صَفْع - (ف) گوبر کرنا۔ گوز مارنا۔  
صَفْف - اولاد کی کثرت۔ تگی مفلسی حاجت۔

کام میں جلدی اور چالاک صِغْف و سستی  
پیمانہ سے اوجھی ہیز۔ پانی پر آدمیوں کا  
بھرمٹ۔ کھلنے پر ہاتھوں کی کثرت۔

مص (ن) بھگھٹ ہونا۔ جمع کرنا۔  
صَفْن - (رض) جماع کرنا۔ ہاتھ پاؤں کو تین

پر مارنا۔ سوار کرنا۔ جو تڑپ رلات مارنا۔  
(الی) کسی کے پاس بیٹھنے کے لئے آنا

صَفْنَة - ٹھکانا۔ موٹا اور مضبوط و سخت جسم والا۔  
صَفُو - (ن) پلورا ہونا۔ کال ہونا۔ زیادہ ہونا

حوض کا بہ نکلتا۔  
صَفْوَة الْعَيْش - عیش کی زندگی۔ فارغ البالی

سے لبر اوقات۔  
صَفِيْر - بالوں کی ہر ایک ٹینڈھی۔

صَفِيْرُ الْبَحْرِ - دریا کا کنارہ  
صَفِيْرَة - گندھے ہوئے بال۔ بے ہوئے بال۔

ریت کا تودہ۔ ج۔ صَفَا شَر  
صَفِيْرَة - بڑا نوالہ۔ ج۔ صَفَا شَر

صَفِيْط - نادان۔ کم عقل۔ موٹا آدمی۔ پتھر پتھر۔

برٹے ذیلی ڈول کا چوڑے سینے کا فراخ  
پیشانی کا جز۔ اَصْلًا م۔ صَلِّع  
قدس صَلِّع گھوڑا چوڑا چکلا۔ ہاتھ پاؤں  
کا مضبوط۔

صَلِّعُ الْقَمِّ - فراخ دہن - برٹے دہن کا

صَلِّع - سخت گمراہ  
(الْمَكِثُ) الصَّلِيلُ - مشہور شاہ جاہلیت امراؤ اقبیس

کا لقب

صَلِيلُ - گمراہی کے بہت درپے ہونے والا۔  
بہت گمراہ - ج۔: اَصْلُهُ - اَصْلًا م

## ض - م

صَمَّ - (ن) ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ  
ملانا۔

صِمَاد - لیب - گاڑھی دو اجودن کے کسی حصہ  
پر رکائی جائے یا تھوپا جائے۔ یا پٹی  
سے باندھی جائے۔ ج۔: اَصْمَدًا قَا

صِمَاس - پرشیدہ مال - مال جس کی داپھی کی امید نہ ہو  
قرض جس کے وصول ہونے کی امید نہ ہو۔  
قرض جس کی ادائیگی کی کوئی مدت معین یا  
 وعدہ نہ ہو۔ عذاب جس کے وقوع میں

تناخیر ہو۔

صِمَام - کسی چیز کے جمع کرنے کا آلہ۔

صِمَامَةٌ - گٹھا - بوٹھ۔

صِمَانُ صَمْن - (س) ذمہ دار ہونا۔ گھیل ہونا (د) بیمہ  
صِمَانَةٌ - محبت معی (رک) لہجہ ہونا۔

صَمْتَةٌ - گھوڑوں کے گھوڑوں کا گروہ۔ گھوڑے  
جو کرایہ کے لئے جمع کئے جائیں۔ پیش۔

صَمْتَج - (س) زمیں سے چٹنا۔ شہوت اُنبزہ کا تیز

مغلوب ہونا۔  
صَلَّالُ بْنُ التَّلَّالِ - ایسا شخص جو خود غیر معروف

ہو اور اس کا باپ بھی  
صَلَّةٌ - پریشانی - غائب شدگی۔

صَلَّةٌ - گمراہی - رائیگاں۔

صَلَّةٌ - پوری پوری رہنمائی

صَلَّةٌ - گمراہی۔

صَلَّةٌ - برطانیہ جیسے ہاتھ میں لے سکیں

صَلَّةٌ - سخت زمین

صَلَّعٌ - پسلی - ج۔: اَصْلُهُ - صَلُّوعُ اَصْلًا م

صَلَّعٌ مِنَ البَطِيخِ - خربوزے کی ایک پھانک

صَلَّعٌ عَوْرَتٌ جَاءَ عَوْرَتٌ -

صَلَّعٌ - وہ جی جو پیدا نشی ہو۔

صَلَّعٌ - (ت) کھانے پینے سے اتنا پیٹ بھرنا

کہ پسلیوں تک تن جائے پسلیوں پر

مارنا [مع] کسی چیز سے پھر جانا۔ شش

صَلَّعٌ - برداشت و قوت۔ بھاری بوٹھ کی بڑا

قرض کا بوٹھ جو راستی سے کچی کی طرف

مائل کر دے مص (س) ٹیر دھا ہوجانا

[مع] جھگڑنا۔

صَلَّعَةٌ - ایک سبز رنگ کی پھولی سی پھل جس میں

پسلیاں کم ہوتی ہیں۔

صَلَّلٌ - گمراہی - پانی جو سایہ دار جگہ جاری ہو

صَلُّوعٌ - پتھریلی زمین کا راستہ۔ مرطی ہوتی

زمین۔

صَلُّوعَةٌ - کمان جس کی کڑھی میں خم ہو۔

صَلُّولٌ - گمراہ۔

صَلَّى - (ض) ہلاک ہوجانا

صَلِّعٌ - جوان کڑھیل - زور آور اور سخت آدمی

ضمصم - غصہ در آدمی - غضب ناک - بشیر - بہادر اور جیم آدمی -

ضمصمۃ - اپنے دل کو بڑھاتا - بشیر کا دھاڑنا - ڈرو کنا [علی] کسی چیز کا گلے لینا -

ضمصج - فریہ اور پورے جسم کی عورت یا اونٹنی - جہ - ضماصج

ضممن - (س) لہجا ہونا - عاجز ہونا -

ضممن - لہجا جس کے ہاتھ پاؤں رہ گئے ہوں - عاشق -

ضممن الکتاب - کتاب میں درج کیا ہوا - جس میں لکھا ہوا ضمور - ضمیمۃ (ن س) لاغر ہونا - ہلکا پھلکا ہونا

ضمنی - (ص) نظم کرنا -

ضمیر - بھید - پوشیدگی - مرہبیا ہوا (انگور د) اخلاقی قوت - جہ - ضمائر

ضمیر - پوشیدگی - بھید

ضمیۃ - یعنی عورت - نگرانی عورت جہ ضمائل ضمین - کیلین - ضامن - ذمہ دار - لہجا - جہ -

ضمنا - ضمنی

## ض - ن

ضن - اولاد کی کثرت جہ - ضنوء

ضنۃ ضنۃ - ضنوء (س ف) کثیر الاولاد ہونا - اونٹوں کا بہت ہونا [ف] چلا جانا اور

پوشیدہ ہونا -

ضنۃ - اصل - کان - معدن

ضنۃ - خاص -

ضنۃ - ضنۃ - (ص یس) کجس ہونا - کجس کرنا -

ضنۃ - بیمار -

ضنۃ - ضرورت - حاجت -

ہونا

ضمج - (ن) بدن پر خوشبو ملنا -

ضمج - (س) شہوت اُبنا کا تیز ہونا [ب] چمٹنا -

ضمج - (ن) عطر ملنا - خوشبو لگانا -

ضنخۃ - تیار اور تیار عورت یا اونٹنی - ہر چیز جس کے کھٹے -

ضمخر - فسرہ - موٹا تازہ -

ضمنا ضمنا - لیب ہاندھنا - مارنا - عورت کا ڈو مردوں کو چاہنا - دو چیزوں کو جمع کرنا -

برابری کرنا -

ضمنا - (س) خشک ہونا - دشمنی کرنا [علی] کسی پر بہت غصہ کرنا -

ضمنا - تر درخت - خشک درخت - فریہ - لاغر بہترین بکریاں - بدترین بکریاں -

دوست -

ضمنا - پوشیدگی - مرد جس کا بیٹا ہوا اور جسم نازک ہو -

ضنۃ - لاغری - دبلا پن - ہلکا پن - پیٹ کا پیٹ سے لگ جانا -

ضنۃ - دبلا پن - پیٹ کا پیٹ سے لگ جانا - ضنۃ - نازک بدن عورت جس کا پیٹ لگا ہوا ہو -

ضمنا ذ - بشیر - سخت اور کھوری زمین جہ - ضمنا ذہ

ضمن - (ن) خاموش رہنا اور کوئی بات نہ کہنا - نکل جانا - کسی چیز کو چھٹ جانا اور لازم

پکڑنا - ثبات و دوام اختیار کرنا [علی] کسی چیز کی حرص کرنا -

ضمنس - (ص) آہستگی اور نرمی سے چبانا -

## ض - و

صَوَّء - صَوَّاء (ن) روشن ہو جانا  
 صَوَّء - لیمپ (د)  
 صَوَّاء - صَوَّء صَيَّاء - روشنی جہاں۔ اَصَوَّاء  
 صَوَّاع - لومڑی  
 صَوَّاع - کوچک یعنی نرا کوئی آواز  
 صَوَّب - (ن) پوشیدہ ہونا۔ دشمن کو فریب  
 دینا۔  
 صَوَّبَان - فریب اور مضبوط دتوانا اونٹ (واحد و  
 جمع) اونٹ کا ندھیا  
 صَوَّبَج - نر کا موڑ جہاں۔ اَصَوَّبَج - مص  
 (ن) فراخ ہونا۔ رغبت کرنا (ع)  
 ہٹ جانا اور اعراض کرنا۔  
 صَوَّوس - (ن) تکلیف پہنچانا۔  
 صَوَّوس - سیاہ بادل۔  
 صَوَّومَاة - حقیر و ذلیل آدمی۔  
 صَوَّوس - (ن) کمی کرنا۔ چبانا۔ جو رو ستم کرنا۔  
 [علیٰ] حکومت میں ظلم کرنا۔  
 صَوَّوس - (ن) کھانا کھانا۔  
 صَوَّصَاء - غونا  
 صَوَّصَاءة - آدمیوں کا شور و غل  
 صَوَّوع - نرا تو جو تمام رات جیجتا ہے جسے فادسی  
 میں کوچک کہتے ہیں۔ جہاں۔ اَصَوَّوع  
 صَيَّعَان  
 صَوَّوع - (ن) حرکت دینا۔ اکھاڑنا۔ بے آرام  
 کرنا۔ ڈرانا۔ پھرتا۔ دو ٹکڑے کرنا  
 دُبل کرنا۔ بچے کو چوگا دینا۔ بھگا دینا  
 بچے کا رونے کے لئے آمادہ ہونا۔

صَنَائِن - نفیس چیزیں جن کے ساتھ کجیسی کی جادو  
 صَنَائِن اللہ تعالیٰ کے مقرب اور خاص  
 بندے۔

صَنَاط - کنوئیں وغیرہ پر بہت جھگٹ۔  
 صَنَآك - پر گوشت عورت۔ سخت عورت مضبوط  
 دتوانا (مذکر و مؤنث)

صَنَآك - زکام  
 صَنَب - (ع) [ب] کسی کو ٹپک دینا (جیسے  
 صَنَبْتُ بِهَ الْاَرْضَ) کسی چیز پر  
 قبضہ کرنا

صَنَط - (س) اکٹھا ہونا۔ جمع ہونا  
 صَنَنَك - ہر چیز کی تنگی۔ تنگ  
 صَنَنَك - صَنَنَاكَة - صَنَنُوَكَة (ك) تنگ ہونا  
 صَنَنَك - (ن) (مجمولاً) زکام زدہ ہونا  
 صَنَن - دلا اور آدمی۔ پختہ کار  
 صَنَوَّهِنُو - اولاد۔

صَنِيَّ - بیماری۔ بیمار اور مریض (مذکر و مؤنث)  
 مفرد و جمع) پوشیدہ بیماری کہ جب  
 اچھے ہونے کی توقع کریں تو خود کرائے  
 مص (ع) بیماری کا خود کرائے۔  
 کثیر الا اولاد ہونا۔

صَنِيَّ - صَنَاء - (ع) کثیر الا اولاد ہونا۔ کسی کے ہتھ  
 کا زیادہ اور بہت ہونا۔

صَنِيَّك - تنگی کے ساتھ گزارہ۔ عقل و تدبیر  
 کا ست۔ بدن اور جان کا ضعیف  
 مرل۔ خادم جو روٹی پر خدمت  
 کرے۔ قطع کیا ہوا۔ جہاں۔  
 صَنَنَك -

صَنِيَّيْن - بخیل۔ کیسہ جہاں۔ اَصَنَاء

صَوْتُک - (ن) نر کا مادہ پر حفتی کے لئے چڑھنا۔  
صَوْتُکَعَة - بھاری جسم کا موٹا تازہ اور بے وقوف آدمی۔

صَوْتُی - (س) بہت دہلا ہوا جاتا۔  
صَوْتُیْطَة - حوض کی نیچے بیٹھی ہوئی کیچڑ

## ض - ۵

صَحَبُ الْقَوْمِ - ملے جلے معتدل النسل لوگ۔  
صَحْبَاء - کمان جس میں آگ نے اثر کیا ہو۔  
صَحْت - (ف) پاؤں سے خوب مسلتا۔ روندنا۔

پائمال کرنا

صَحْد - (ف) کسی پر غالب ہونا۔ ظلم کرنا۔  
صَحْدَاء - پوچھ آدمی جو ہر ایک سے مغلوب ہو جائے۔

صَحْس - (ف) خوب کوٹنا۔ خوب پائمال کرنا۔  
جماع کرنا (چوپایہ کا) کسی پر منہ مارنا۔  
اور کاٹنا

صَحْسَم - کینہ۔ رزائل۔ فرومایہ جہ۔ صَحْمَا زِم  
صَحْس - (ف) اگلے دانٹوں سے کاٹنا۔

صَحْل - تھوڑا پانی (ف) کسی کے حق کو کم یا ہٹل کرنا۔ تھوڑا تھوڑا دینا (الی) کسی کی طرف پھر جانا۔

صَحْوَاء - لڑکی جس کی پستانیں نہ ابھری ہوں۔  
صَحْوَة - پانی کے ٹھہرنے کی جگہ۔ جہ۔  
أَصْحَاء -

صَحْوَل - (ف) جمع ہو جانا۔ پینے کی پیر کا تھوڑا اور پستلا ہونا۔

صَحْوَل - کم پانی والا کناں۔ کم دودھ والی

ادھنی وغیرہ۔ سفید شتر مرغ۔

صَحَّی (س) عورت کا حیض سے ہونا۔ عورت کا حیا ملنا۔ ہونا۔ چھاتیاں نہ ابھرنا

(زمین میں) گھاس نہ پیدا ہونا۔  
صَحَّی - مشابہ و مانند۔

صَحَّیَاء - عورت جسے حیض نہ آئے جس کی چھاتیاں نہ ابھریں نہ پریٹ رہے۔

صَحَّیَاءَة - عورت جس کے دودھ اور چھاتیاں نہ ہوں۔ بے پانی جنگل۔

## ض - ۶

صَحَّی - صَوْتُی - (ض) فراہم ہونا۔ رات کو آنا۔ (الی) کسی کی طرف پناہ لینا

ادراس کے پاس جگہ بچرانا۔  
صَحَّیَاء - روشنی۔

صَحَّیَاح - پستلا دودھ۔ پانی ملا ہوا۔

صَحَّیَاط - سخت آدمی۔ جھک کر چلنے والا۔  
صَحَّیَاع - اہل دیہات۔ بال بچے۔ ضعیف ناتواں

اسنہ اور دوسرے کے محتاج ہوں  
ہلاکت۔ ایک قسم کی خوشبو۔ مص (ض) ہلاک ہو جانا۔ تلف ہو جانا۔

لا علاج۔ بے کار ہو جانا۔  
(مات) صَحَّیَاعَاء - مر گیا اور کسی نے اس کی پروا نہ کی۔

صَحَّیَاقَة - (ض) کسی کے یہاں مہمان ہونا۔ سودج کا تریب پر غروب ہونا۔ تیر کا نشاہ سے ایک طرف جانا۔

صَحَّیَاق - خوشبو آلودہ چوتھڑے جس سے

عورتیں اپنی سرخ کوتنگ کرتی ہیں۔  
 صَبِيْحَان - صَبُوْج - (حق) مرثا - جھکنا۔  
 صَبِيْحَم - (حق) (دودھ میں پانی) ملانا - دیران اور خالی ہوجانا - ابرٹانا۔  
 صَبِيْحٌ - آفتاب - آفتاب کی روشنی - ہموار زمین جس پر دھوپ ہو۔  
 صَبِيْر - ضرر - احتیاج و بچاؤ کی مص (حق) نقصان پہنچانا۔  
 صَبِيْرٌ - (حق) اگھا دینا - کسی پر ظلم کرنا۔  
 صَبِيْرِيٌّ - ناقص و نادرست - ٹیڑھا۔  
 رَقِيْمَةٌ صَبِيْرِيٌّ - بے دھنگی تقسیم۔  
 صَبِيْسٌ - (حق) خشک ہونے لگنا۔  
 صَبِيْسَمٌ - شیریں۔  
 صَبِيْطٌ - صَبِيْطَانٌ - (حق) بہت موٹا ہونا۔ جسم ہلا ہلا کر چلنا۔  
 صَبِيْطَانٌ - چھو لاپرواہی کہ چلنے میں سب بدن تحمل تحمل کرے۔  
 صَبِيْحٌ - صَبِيْحَةٌ - صَبِيْحٌ (حق) ہلاک ہونا۔ تلف ہوجانا۔ بے کار و لاعلاج ہوجانا۔  
 صَبِيْحَةٌ - پانی زمین - زرخیز زمین جس میں پیداوار بہت ہو۔ (د) جامداد - جہ۔  
 صَبِيْحٌ - صَبِيْحٌ - صَبِيْحٌ - صَبِيْحَاتٌ - آدمی کا پیشہ - تجارت۔  
 صَبِيْحَمٌ - پھاڑنے والا شیر - جہ۔ صَبِيْحَمٌ - صَبِيْعِيٌّ - شیر۔  
 صَبِيْفٌ - مہان (مذکورہ نمونہ واحد و جمع)۔  
 جہ۔ آصِيَاْفٌ - صَبِيْوَفٌ - صَبِيْقَانٌ مص (حق) کسی کے ہاں مہان

ہونا۔ آفتاب کا غروب ہونے کے قریب ہونا۔ غم کا کسی پر ٹوٹ پڑنا۔ عورت کا حیض سے ہونا۔ مائل ہونا۔ غم کھانا۔  
 صَبِيْفٌ - پہلو - بازو۔  
 صَبِيْفَةٌ - مہان عورت - حالت عورت۔  
 صَبِيْفِيْنٌ - طفیلی - بغیر دعوت کے آنے والا۔ جہ۔  
 صَبِيْفِيْنٌ - تنگ - تنگی - شک مص (حق) تنگ ہونا - بخیل ہونا [عن] کسی چیز میں زسمانا (جیسے ضاق الشی عنہ) صَبِيْفَةٌ بَدَدَرَعًا مِرَادِلٌ اس سے تنگ ہوا۔  
 صَبِيْقٌ - تنگی - جو چیز کبھی کشادہ ہوا اور کبھی تنگ جیسے گھر کپڑا وغیرہ۔  
 صَبِيْقٌ - تنگ۔  
 صَبِيْقَةٌ - تنگ وستی مفلسی جہ۔ صَبِيْقٌ جہ۔  
 صَبِيْقَةٌ - مفلسی - عاجزی - تنگی - بد حالی - جہ۔  
 صَبِيْقِيٌّ - (آصِيْقٌ کا مؤنث) بہت تنگ اور دشوار۔  
 صَبِيْكٌ - (حق) گرمی کی وجہ سے چوپایہ کا کشادہ پاؤں رکھ کر چلنا [عنی] غضب ناک ہونا۔  
 صَبِيْعٌ - ظلم و ستم - جہ۔ صَبِيْعَمٌ (حق) کم کرتا (مہولاً) مظلوم و ستم زدہ ہونا۔  
 صَبِيْعٌ - پہاڑ کا کنارہ جہ۔  
 آصِيَاْمٌ - صَبِيْعِيْنٌ - صنعا میں ایک پہاڑ۔  
 صَبِيْعُوْنٌ - ہلا - ہلاؤ - جہ۔ صَبِيَاوِنٌ

## ط - ۹

طآءة - کیچڑ۔ چراگاہ میں دور چلا جانا۔

طآپ - خوشبو۔

طآب - طیب۔ طیبیة۔ (حق) خوش مزہ۔

صاف و پاکیزہ ہوجانا۔ حلال ہونا۔

(زمین کا) بہت گھاس والا ہونا۔

طآبے - مدینہ منورہ کا نام۔ انگوری شراب۔

(د) بخارہ۔ گیند۔

طآربخ - نہایت تیز بخار۔

طآربخے - دوپہر کی گرمی۔ کھانا پکانے والی۔ جہ۔

طوآربخ -

طآربع - آدمی کی عادتیں جو قدرتی اور طبعی طور پر

اس میں پائی جائیں۔ مثلاً کھانا پینا۔

وغیرہ۔ مہر۔ مہرگانے والا۔ انگوٹھی

(د) ٹکٹ۔

طآربع - انگوٹھی جس سے مہر لگائی جائے۔ علامت

علامت کرنے کی ہر چیز۔

طآرباق - بڑی اور پختہ اینٹ۔

طآربق - عضو۔ ہاتھ۔ تورا۔ بڑی اینٹ پختہ

جہ۔ کلوآربق۔ کلوآربیق (د)

مکان کی منزل۔

طآربن - عقل مند۔ سمجھ دار۔

طآربوسر - رجبٹ (د)

طآربون - آگ دہانے کی جگہ۔ الاؤ۔ جہ۔

طوآربین -

طآرة - کیچڑ۔

طآرة - کیچڑ۔

(د) بن، طآشر۔ جما ہوا دودھ۔

کھاجن - کرٹھائی۔

کھاجیل - تلی کے دھجک کا۔

کھاجن - بیل جو کھلیان گاسیتے وقت کھلیان

کے مرکز (گڑھی) ہوئی گڑھی میں بندھا

ہوا ہوا۔

کھاجونہ - جلی۔ جہ۔۔ کھوآجین

کھاجی - پھیدا ہوا۔ بلند اٹھا ہوا۔ بڑا گروہ

جہ۔۔ کھاجا

کھاج - سخت اندھیرا

کھاجو - سیاہ بادل۔

کھاد - ہر بھاری چیز مادہ کو چاہنے والا۔

اونٹ۔

کھادیۃ - پرانی عادت۔ جہ۔۔ کھادی

کھاستر - سہرہ۔ آغاز نوجوان۔

کھاساد - دفع کرنے والا۔ دور کرنے والا۔

کھارف - نیامال۔

کھارق - رات کو آنے والا۔ ستارہ صبح۔

کھسری پھینک کر فال لینے والا۔

جہ۔۔ کھسراق

کھارۃ - حادثہ۔ جہ۔۔ کھوارق

کھارۃ - لکڑی کا گھر (طارم کا معرب) جہ۔۔

کھارۃات -

کھاروٹی - ایک ریشمی کپڑا۔

کھاری - آنے والا۔ اچانک آنے والا۔ جہ۔۔

کھاراء۔ کھسراء

کھارۃ - حادثہ۔ مصیبت۔ جہ۔۔

کھوآربی - (د) نوا بادی۔ کولونی۔

کھاتراج - ستارہ کا معرب۔ ٹھیک بات۔ ہر چیز

خالص و پاکیزہ۔

<p>آواز۔ ج۔۔ کلو آغی  کلاف۔ بہت طواف کرنے والا۔  کلافیۃ۔ بہار اور جنگل کا ماہین۔  کلافۃ البستان۔ باغ کا گرداگرد۔  کلافیۃ۔ خشک۔ ج۔۔ کلو آغی۔  کلافی۔ پانی کے اوپر تیرنے والی شے۔ ج۔۔  کلافۃ  طاق۔ تاک کا معرب یعنی طاق جو مکان میں  بناتے ہیں۔ ہر محراب دار شے جیسے  کارنس وغیرہ۔ چادر ج۔۔ کلافات  طیقان  کلافۃ۔ قدرت۔ توانائی۔ زور (د) گلدستہ  کیرٹے کا نشان۔  کلافیۃ۔ عمامہ کے نیچے کی ٹوپی (د)  کلاف۔ چشمہ جس پر کانی تم گئی ہو۔ اندھیری رات  کلاب۔ ڈھونڈھنے والا۔ چاہنے والا ج۔۔  کلاب۔ کلاب۔ کلابۃ۔ کلاب  کلابۃ۔ گدھی۔ مادہ خمر۔  کلاب۔ تھکی ہوئی اونٹنی۔ ہد آدمی۔ صانع کی  ضد۔ ج۔۔ کلاب  کلاب۔ نیا چاند۔ صبح کا ذب۔ تیر جو نشانہ کے  بیچے پرٹے ج۔۔ کلاب  کلافیۃ۔ طلاق دی ہوئی عورت چھٹی ہوئی اونٹنی  بے مہار۔ ج۔۔ کلاب  کلابیۃ۔ طلاق دی ہوئی عورت۔ بے مہار اونٹنی  چھٹی ہوئی۔ ج۔۔ کلاب  کلابیۃ۔ نان ہائی۔ نان پڑی۔ ج۔۔ کلاب  کلابیۃ۔ ویرے جیسے کلاب کلاب متظر نامہ  میں بہت دیر سے تیرا متظر ہوں۔</p>	<p>کلاس۔ کشت۔ پالرج۔ کلاسات  رطبتۃ کلاسۃ۔ تیرہ جو پٹ میں گھس گیا ہو۔  کلاس۔ لمبا آدمی۔ تیر۔ شہوت اور آواز نکالنے  والا سانپ۔  کلاس۔ پست جب جو آنے والے کو دھک  لے۔ پست قداوٹ۔  کلاسۃ۔ سر ہلکانا۔ مال کے خسرچ میں جلدی  کرنی (گھوڑے کو) دونوں رانوں سے  دہانا۔ اور دونوں رانوں کو ہلانا۔  ایڑ لگانا تاکہ دوڑے اور بہت  تیز چلے۔  کلاس۔ شہ نامبردار۔  کلاعت۔ فرمانبرداری۔ اطاعت۔  کلاعل۔ سیدھا تیر۔  کلاعم۔ بے نیاز۔ کھانے والا۔ چکھنے والا۔  کھانے پینے میں اچھی حالت والا۔  کلاعون۔ و باج۔۔ کلاعیۃ۔  کلاعیۃ۔ عورت جو جگر کی بیمار ہو ج۔۔ کلو آغی  کلاعیۃ۔ لات و عسریٰ زمانہ جاہلیت  کے دو بت۔ جادو۔ جادوگر۔ کلاب  دیو۔ جھوٹی بات۔ بت۔ خدا کے  سوا جس چیز کی پرستش کریں۔  ج۔۔ کلاعیۃ  کلاعی۔ حد سے گزرنے والا۔ نامبرمان۔  ستمگار۔ ظالم۔ ج۔۔  کلاعیۃ  کلاعیۃ۔ سرکشی۔ گناہ۔ سخت ستمگار۔ حق پرست  متکبر۔ ظالم بادشاہ (مابعد لغت  کے لئے ہے) بت۔ عذاب کی سخت</p>
--	---



طالوت - ایک بادشاہ کا نام جس کے لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام نے شامل ہو کر کافر بادشاہ جالوت کو قتل کیا۔ (عجمی لفظ ہے)۔

طامّۃ - قیامت کا دن - بہت بڑی بلا۔

طامّۃ - حائفۃ عورت - جم: طو امیث

طامّۃ - عورت جو بے اجازت خاوند کے اپنے میکے میں جائے۔ مردوں کو دیکھنے والی عورت جم: طو امیث ہر بلند چیز۔

طامی - پستو۔

طامی بن طامی - وہ کہ اسے اور اس کے باپ کو کوئی نہ جانتا ہو۔ مجہول الحال۔

طامس - ددر - پرشیدہ جم: طو امس ناپید کرنے والا۔ مٹانے والا۔

طامس القلب - مردہ دل آدمی۔

طامع - حریص - امیدوار - خواہش مند۔

جم: آطماع

طامیل - بد زبان - بے باک - گدلا پانی - پڑانا کپڑا۔ جم: طمیل

طان - مٹی بھری جگہ۔

طانتہ - مٹی بھری زمین۔

طارد - بھوکا - اپنے آپ کو بھوکا رکھنے والا۔

طاوئس - مور جم: آطواس - کھو اوئس - چاندی - سرسبز زمین۔

طاوالتہ - ٹیل - میز (د)

طاویۃ - بھوکا - اپنے آپ کو بھوکا رکھنے والا۔

کھاہی - پاک جم: آطقدار - عورت جو جنس سے پاک ہو۔ جم: کھو اہی

طاہی الثیباب - پاکیزہ لباس والا۔

کھاہیۃ - عورت جو نجاست اور عیب سے پاک ہو۔ جم: طو اہی

کھاہل - پانی جس کا رنگ و مزہ بدل گیا ہو۔

کھاہی - گوشت پکانے والا۔ بھوننے والا۔

یاورچی - روٹی پکانے والا۔ نان پائی جم: طھافۃ

کھایۃ - کوٹھا - زمین جس میں پتھر نہ ہوں۔ چھوڑے خشک کرنے کی جگہ۔

کھاشر - پرندہ - عمل - منتر - جھاڑ پھونک۔

جم: کھیشر - جم: طھوش

آطیار - داغ - وہ شے جس سے فال لیوں۔

بہرہ - روزی - نصیب - غفۃ۔

کھائش - خفیف الحركات آدمی۔

کھایط - سخت - مضبوط مرد۔ لمبا تیر۔ شہوت ساند۔ بڑ بڑانے والا۔ جم: طاطۃ

کھایع - دریاں بردار۔ جم: طو اع

کھایف - گھومنے والا۔ پھرنے والا۔ رات کا چوکیدار۔ پاسبان۔ کمان کا قبضہ پتھر جو پہاڑ سے باہر نکل گیا ہو۔ خادم جو خوش دلی سے خدمت کرے۔ نیند کے خیالات - غفۃ - وسوسے۔

کھایفۃ - ہر چیز کا ٹکڑا۔ ہر چیز کا گروہ۔ طرت بجانب جم: طو ایف

کھایق - پہاڑ اور کنوئیں سے باہر نکلا ہوا پتھر۔

کھاییل - زیادتی - قدرت - دو لگندہ - فراخی (لا) کھایل - بے فائدہ۔

کھایلتہ - دشمنی - کینہ۔ جم: طو ایل

کھاؤس - مور۔ جم: کھو اوئس۔

طالوت - ایک بادشاہ کا نام جس کے لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام نے شامل ہو کر کافر بادشاہ جالوت کو قتل کیا۔ (عجمی لفظ ہے)۔

طامّۃ - قیامت کا دن - بہت بڑی بلا۔

طامّۃ - حائفۃ عورت - جم: طو امیث

طامّۃ - عورت جو بے اجازت خاوند کے اپنے میکے میں جائے۔ مردوں کو دیکھنے والی عورت جم: طو امیث ہر بلند چیز۔

طامی - پستو۔

طامی بن طامی - وہ کہ اسے اور اس کے باپ کو کوئی نہ جانتا ہو۔ مجہول الحال۔

طامس - ددر - پرشیدہ جم: طو امس ناپید کرنے والا۔ مٹانے والا۔

طامس القلب - مردہ دل آدمی۔

طامع - حریص - امیدوار - خواہش مند۔

جم: آطماع

طامیل - بد زبان - بے باک - گدلا پانی - پڑانا کپڑا۔ جم: طمیل

طان - مٹی بھری جگہ۔

طانتہ - مٹی بھری زمین۔

طارد - بھوکا - اپنے آپ کو بھوکا رکھنے والا۔

طاوئس - مور جم: آطواس - کھو اوئس - چاندی - سرسبز زمین۔

طاوالتہ - ٹیل - میز (د)

طاویۃ - بھوکا - اپنے آپ کو بھوکا رکھنے والا۔

کھاہی - پاک جم: آطقدار - عورت جو جنس سے پاک ہو۔ جم: کھو اہی

## ط - ب

کُتِبَ - جو کہ اپنے کام میں ہوشیار اور خوب ماہر ہو۔ دوا۔ علاج۔ پہچاننے والا۔ مص (ن. ص. ن) دوا کرتا۔ علاج کرتا۔ جادو کرتا۔ درز کو تسمہ سے سینا۔ طِبَّ - خواہش۔ ارادہ۔ آرزو۔ جادو۔ جادو شان۔ آدمی کا حال۔ طِبَابِيَّةٌ - لمبا لمبا اور بکریا ریت یا کپڑا یا زمین کا۔ چڑھے کا تسمہ جس سے مشک کی درزی سئیں۔ جہ۔ طِبَابِ طِبَابَةُ السَّمَاءِ - طِبَابُ السَّمَاءِ - آسمان کے کناروں میں لمبا لمبا بادل۔ طِبَابَةٌ - آدمیوں کی سرشت۔ عادت۔ طِبَاخٌ - مضبوطی۔ قوت۔ مٹا پنا۔ طِبَاخٌ - پکانے والا۔ یاد دہی۔ نان ہائی۔ طِبَاخَةٌ - باد چوگری۔ طِبَاخَةٌ - ہانڈی وغیرہ کے جھاگ۔ طِبَاخِيَّةٌ - جوان عورت۔ عقلمند طبع عورت۔ طِبَاخِيَّةٌ - بنسلوچن۔ طِبَاعٌ - سرشت۔ طبعی امور جیسے کھانے پینے کی عادت۔ طِبَاعٌ - بنانے والا۔ تلوار بنانے والا۔ مہر گانے والا۔ طِبَاعَةٌ - شمشیر سازی۔ طِبَاعَةٌ - فن طبع۔ پیشہ طبع کتب (د) الطِبَاعَةُ عَلَى الْحَيَاةِ - لیتھوگرافی (د) الطِبَاعَةُ بِالْحَيَاةِ - ٹائپ سے چھاپنا (د) طِبَاعٌ - موافق۔ برابر۔ مطابق۔ تہرتہ۔

طِبَابُ الْأَرْضِ - جو کچھ کہ زمین پر ہے۔ کُتِبَ قَاءً - تھکا ہوا۔ وہ شخص کہ گفتگو میں عاجز ہو جائے۔ طِبَالٌ - ڈھول بجانے والا۔ طِبَاكَةٌ - ڈھول بجانا۔ طِبْتَانٌ - ٹائر۔ (د) طِبِيحٌ - (س) احمق ہونا۔ طِبِيخٌ - (ن) ت۔ ہنڈیا میں ڈال کر یا کولوں پر بھون کر پکانا۔ سمٹ احمق ہونا۔ طِبِيخٌ - عذاب کے فرشتے۔ واہ۔ کھلیخ۔ طِبِيخَةٌ - بہت بیوقوف آدمی۔ طِبِيخٌ - (ن) کودنا۔ پرشیدہ ہونا۔ گھوڑے کا گھوڑی پر چھتی کے لئے چڑھنا۔ طِبِيخٌ - مصری۔ تیز زد کا عرب۔ طِبِيخٌ - بہت بھوٹ بولنے والا۔ طِبِيخٌ - (ن) جماع کرنا۔ طِبِيخٌ - بھیرٹیا۔ طِبِيخَةٌ - طوفان کی آواز۔ دوڑنے کے وقت پاؤں کی آواز۔ کوڑے کی آواز۔ طِبِيخٌ - سرشت۔ عادت۔ مثل دماند۔ نیاوٹ۔ ہیئت۔ جہ۔ طِبَاعٌ مص (ن) جانور پر علامت کے لئے داغ دینا۔ نقش کرنا۔ تلوار بنانا۔ ڈول کو بھرننا۔ دعلیٰ مہر گانا (د) چھاپنا۔ طِبِيحٌ - پست جگہ۔ نشیب۔ پانی کے ٹھہرنے کی جگہ۔ ندی۔ نہر۔ زنگ۔ میلا کچیلپان۔ جہ۔ آطِبَاعٌ طِبِيحٌ - میلا کچیلپان۔ زنگ۔ کامیل۔ زشتی۔ عیب۔ گناہ۔ ہر فعل قیام مص (س)

کسی چیز سے پھیر دیا اور متنفر کر دینا  
تھن کا سرا۔ جہ۔ آٹھتاء۔

طَبِی - (ض) [الی] کسی کو کسی چیز کی طرف بلانا  
(عن) کسی کو کسی چیز سے پھیر دینا۔

طَبِیْب - دانا۔ عقل مند اور خوب امر۔ علاج کرنے  
والا۔ معالج۔ جہ۔ آٹھتاء۔ آٹھتاء۔

طَبِیْبَہ - زمین۔ بادل اور کپڑے وغیرہ کا لباس ٹکڑا۔  
جہ۔۔ طَبَاب

طَبِیْح - نیم جو شیدہ شراب بچتہ اینٹ۔  
طَبِیْح - خربوزہ۔

طَبِیْحٌ (رَجْحٌ) طَبِیْحٌ - بہت پانی والا دریا۔  
طَبِیْعَہ - سرشت جس پر آدمی پیدا کیا گیا ہے۔

فطرت۔ نیچر۔ جہ۔۔ طَبِیْح -  
طَبِیْعِی - نیچرل۔ فطری (د)

طَبِیْق - زمانہ دراز۔ موافق و برابر۔ رات کی  
ایک گھڑی۔ جہ۔۔ طَبِیْق -

طَبِیْقَہ - موافق۔

ط - ت

طُتُو - (ن) جانا۔ چلنا۔

ط - ث

طُث - (ث) گلی ڈنڈا اٹھیلنا۔

طُثُو - (ن) دودھ مٹی وغیرہ کا گڑھا  
پن۔

طُثْرَہ - دودھ کی ملائی کیچڑ۔ کائی۔

طُثْرَج - چینیوٹی۔

طُثْرَن - نشاط۔ خوشی۔ ناز و نعمت

طُثِی - چھوٹی چھوٹی لکڑیاں

تلوار وغیرہ کو زنگ لگ جانا۔ میلا کچلا ہونا  
کابل اور کم بہت ہونا۔

طَبِیْعٌ - طَبِیْعٌ - بدخوب طبیعت والا۔ میلا کچلا  
بے شرم۔

طَبِیْعَہ - اپڈیشن (د)

طَبِیْق - آدمیوں کا گروہ۔ ٹولی۔ ٹڈی دل۔  
سریش۔ گوند لیتی۔ شکار کرنے کا پھندہ۔

طَبِیْق - مانڈ مسادی۔ برابر۔ لباس۔ سطح زمین  
طَباق۔ سینی۔ بڑی رکابی۔ بہت سے آدمی

ٹڈی دل۔ اوپر تلے کے بچے۔

طَبِیْق - (س) شروع کرنا۔ عہدہ ڈھونڈنا اور ملنا۔  
طَبِیْقَاتُ النَّاسِ - چند قوموں کے آدمی۔ گٹھ۔

طَبِیْقَہ - ان میں سے ایک جنس کے لوگ۔  
طَبِیْقَہ - مرتبہ۔ حال۔ (د) مکان کی منزل۔

(ی) (طَبِیْقَہ - پیلے سے چمٹا ہوا اٹھارہ اور سگڑا ہوا  
طَبِیْقَہ - حال بچتہ جس سے شکار کریں۔ دن

کی ایک گھڑی۔ جہ۔۔ طَبِیْق

طَبِیْل - ڈھول۔ طبل۔ نقارہ۔ محمول۔  
جہ۔۔ اُطْبَال - طَبُول۔ مص (ن)

ڈھول بجانا (د) میر۔ پنج۔

طَبِیْن - ہوشیاری۔ عقلمندی۔ مص (س)  
(ض) آگ دباناسا کر بچھے نہیں۔

طَبِیْن - طَبِیْن - طَبِیْن - طَبِیْن - (ض)  
عقلمند ہونا۔

طَبِیْن - عقل مند دانا

طَبِیْن - طَبِیْرہ یا ریاب۔

طَبِیْن - طَبِیْرہ یا ریاب کی آواز۔

طَبِیْن - عقل مندی۔ جہ۔۔ طَبِیْن

طَبِی - (ن) [الی] کسی کی طرف بلانا (عن)

طخو - (ن) بچھانا۔ بچھایا جاتا لمبائی میں کھینچنا۔  
 جانا۔ کسی کا دل ایک چیز پر اڑا کرنا۔  
 (ن) دور ہونا۔ ہلاک ہونا۔ غم گین ہونا  
 آدمی کو منہ کے بل گرانے۔  
 طخون - تین سو کے قریب بکریاں۔ بڑا لشکر  
 جنگ۔ بہت سے اونٹ۔  
 طخیز۔ طخاس۔ (ص) سانس پھولنا۔  
 طخین۔ آٹا۔

ط - خ

طخ - (ن) پھینکنا۔ دور کرنا۔ جماع کرنا۔  
 طخاء۔ بادل۔ رنج و غم۔  
 طخاف۔ پتلی بدلی۔  
 طخرووی۔ پتلی بدلی۔ مسافر آدمی۔ وہ شخص جو ہجرت  
 ہو رہا ہے۔ جہز۔ طخاریز۔  
 طخس۔ ہر چیز کی جڑ اور بنیاد۔  
 طخس۔ (س) (مجمولاً) آنکھ کا تاریک ہوجانا۔  
 طخف۔ پتلا بادل۔ غم جو دل کو گھیر لے۔  
 طخیاء۔ تاریک رات۔ دقیق اور گہری بات

ط - س

طرطروسی۔ (ن) حق خوب مانگنا پھیری وغیرہ  
 کو تیز کرنا۔ چیرنا۔ قطع کرنا۔ گھاس کا  
 پھینا۔ روشن ہونا۔ اوچک لینا عمارت  
 کا بلند کرنا یا پختہ مارنا۔  
 طر - سب (جیسے جاء و طر)۔  
 طرطروسی۔ (ن) (علیٰ) کسی کے پاس آنا۔ اچانک  
 آنا۔  
 طرآة۔ طرآء۔ (ن) ساگ کا تروتازہ ہونا۔

ط - ج

طخن - (ن) بھوننا۔

ط - ح

طخ - (ن) پھیلاتا۔ ایرٹی سے کھلانا۔ کوٹنا  
 طخا۔ فراخ و کشادہ زمین۔  
 طخاف۔ اوپر چڑھے ہوئے بادل۔  
 طخال۔ تلی۔ جہز۔ طخل۔  
 طخان۔ آٹا پیسنے والا۔ آٹا پیچنے والا۔  
 طخاتہ۔ آٹا پیسنے کا پیشہ۔ پکی بنانے کا پیشہ  
 طخت۔ ہاتھ سے ہٹانا۔  
 طخر۔ (ن) آنکھ یا چشم کا کوڑے کرکٹ کو اپنے  
 اندر سے نکال دینا۔ جماع کرنا۔  
 طخریہ۔ کپڑے کا ٹکڑا۔ بدلی۔ مہن بھرنا۔  
 طحل۔ غصہ میں بھرا ہوا۔ پانی جو کالا ہو گیا ہو۔  
 اور کافی گرم کئی ہو جس کی تلی بڑھ گئی ہو۔  
 طخل۔ (ن) تلی پر مارنا۔ بھرنا۔  
 طحل۔ (س) تلی میں درد ہونا۔ تلی کا بڑھ جانا۔  
 تلی کے رنگ کا ہونا۔

طخلب طخلب۔ کائی۔

طخلبہ۔ پانڈر کائی جم جانی۔ مارڈالتا۔ زمین کا  
 گھاس سے سرسبز ہونا۔

طخلتہ۔ تلی کا سارنگ۔

طخماء۔ ایک گھاس کا نام۔

طعمۃ۔ بہت سے اونٹ۔ سخت رطے والا آدمی

طخن۔ (ن) آٹا پینا (ساز) کا کنڈلی مار کر پھینا۔

طحن۔ شیر، ایک چھوٹا سا اچانور۔ ٹھگنا آدمی۔

طحن۔ آٹا۔

کُطْرَح - کُطْرَح (س) بد اخلاق ہوتا۔ ناز و نعمت کی زندگی  
 میسر ہونا۔  
 کُطْرَحَ - ترکی برقعہ۔ (د)  
 کُطْرَد - (ن) دو در کنا۔ ہاتھن جمع کنا۔ اطراف  
 سے ادنیوں کا۔  
 کُطْرَس - (ض) محو کرنا۔ مٹانا۔ پھینکا۔  
 کُطْرَس - کاغذ کا مٹا کر پھر لکھیں۔ ج۔  
 کُطْرَش - (س) بھرا ہونا۔ اونچا سناٹی دینا۔  
 کُطْرَشِی - اچار (د)  
 کُطْرَطِب - بڑی بڑی چھتیاں لٹکی ہوئی۔ بھن۔  
 ذکر۔  
 کُطْرَطِبْی - بڑی چھتیاں والی عورت۔  
 کُطْرُف - آنکھ جو ان مرد۔ ہر چیز کا منہا۔ مینگنی  
 ج۔:۔ اطراف (س) کسی کو کسی کی طرف  
 سے پھیر دینا۔ بٹا دینا۔ آنکھ کھینکا۔  
 یک بار مارنا۔ آنکھ میں کچھ پڑھانا کہ آنسو  
 پینکنے لگیں۔ کسی کی طرف دیکھنا۔ پٹا پڑ  
 مارنا۔  
 کُطْرُف - جو اندر۔ کیم سخی۔ جریس آدمی کہ جس چیز  
 کو دیکھے اس کے حاصل ہونے کی تمنا  
 کرے۔ عجب اطرفین آدمی ج۔:۔  
 اطراف اسیں نگھڑا۔ نسل دار گھوڑ  
 نی اکی ہوئی گھاس۔ دوپ۔ نیامال۔  
 ج۔:۔ کُطْرُف  
 (اسم صوت) کُطْرُف اکی کُٹِٹ خوش کام عورت جس کی تپیں  
 ہر ایک کو پیاری معلوم ہوں۔  
 کُطْرُف - ہر چیز کا ٹکڑا۔ ہر چیز میں ایک گروہ  
 جو ان مرد۔ کشارہ۔ ہاتھ پاؤں  
 سر انگلیاں۔ مواضع وضو۔ اشرف

کُطْرِ اَبْرُوْن - کُطْرِ اَبْرُوْن - کُطْرِ اَبْرُوْن  
 کُطْرِ اَبْرُوْن - تیز رفتار ڈونگی۔ چھوٹی سی کشتی۔ تیز  
 چلنے والی مزارح جگہ۔ وہ کہ ناز میں  
 قرأت کو بہت طویل کرے گویا کطول  
 قرأت سے لوگوں کو دفع کرتا ہے۔  
 (د) چھوٹا جگلی جھانز۔  
 کُطْرَادُ النّھْصِ - بیل (د)  
 کُطْرَادَة - کوارٹی سنگنی (د)  
 کُطْرَا س - تھیلی اور بیک لے جانے والا۔ گرہ کٹ۔  
 کُطْرَا س - کپڑے کے بیل بوئے۔ دل۔ طور غرض  
 عمدہ کپڑے پہنے جانے کا مقام (د)  
 چکن۔ ج۔:۔ کُطْرُف۔  
 کُطْرَا ف - چپڑے کا خیمہ ج۔:۔ کُطْرُف شرافت  
 بزرگی۔  
 کُطْرَاتَة - (لش) نیا ہونا۔ عیب ہونا۔  
 کُطْرَا فِش - بد اخلاق آدمی۔ شریر اونٹ۔  
 کُطْرَا ق - لوہا جس کو چوڑا اور گول کر کے خود وغیرہ  
 بنا تے ہیں۔ جوتی کا مکڑا جو موزہ پر  
 سیا جاتا ہے۔ بکری کے دونوں  
 کانوں کے درمیان کا ایک داغ۔ ج۔:۔  
 کُطْرُق -  
 کُطْرَا مَة - کھانا وغیرہ جو کہ دانتوں کے درمیان  
 میں رہ جائے۔  
 کُطْرَا وَة - کُطْرَا وَة کُطْرَا مَة - (ک) میں ترونا زہ ہونا  
 کُطْرَب - خوشی۔ رنج مصی (س) خوش ہونا۔  
 رنجبیدہ ہونا۔  
 کُطْرَة - ہر چیز کا کنارہ۔ پیشانی کے بال بھینڈنا  
 ج۔:۔ کُطْرَس۔  
 کُطْرَح - (ت) ڈاننا۔ پھینکنا۔ دور کرنا۔

اور دانش مند لوگ۔ آدمی کے باپ دادا اور بھائی وغیرہ جہ: اظہار آفت مص (س) چوپایہ کا علاحدہ ایک کنارے میں چرنا۔

طہرہ۔ آگ کی جھٹی۔ الاؤ۔ ایک درخت۔

طہرہ۔ (س) شہد کی مکھی کے چھتے میں سے شہد کا ٹپکنا۔

طہرہ۔ شہد موم سمیت۔

طہرہ۔ اوپر والے ہونٹ کا گڑھا۔

طہرہ مڈا۔ کہنا اور نہ کرنا (علیٰ) ڈینگ مارنا۔

فخر و ناز کرنا۔

طہرہ۔ پیچھے پیچھے چلنا۔ بھاگنا۔ کھے ہرنے کو مٹانا۔

طہرہ۔ راہ پر سینگی ہوتی روٹی۔ جہ:۔

طہرہ۔ امیسیں۔

طہرہ۔ جگاڑ۔ جہ:۔ طہرہ۔ امیق۔

طہرہ۔ آگ بجھانے کا انجن (د)۔

طہرہ۔ (ن) دُور سے آنا۔

طہرہ۔ خوش و خرم۔

طہرہ۔ دور جگہ۔ کمان خمیر کو دُور پھینکے مرد جو ہر جماع میں حاملہ کر دے۔

طہرہ۔ بیوی۔ وہ اونٹنی جس پر اونٹ چھوٹے لڑکے کی جماع کے قابل ہو گئی ہو۔

طہرہ۔ تروتادہ۔ جہ:۔ اٹھیا۔

طہرہ۔ (س) پیش آنا۔ جانا۔

طہرہ۔ تریاق۔ وہ دوا جو زہر کے اثر کو دور کر دے۔

طہرہ۔ دفع کیا ہوا دھتکارا ہوا۔

طہرہ۔ رات دن۔

طہرہ۔ جھکا یا ہوا شکار۔ دوڑایا ہوا شکار کہ شکاری اس کے پیچھے پیچھے ہوں۔

چورایا ہوا اونٹ۔ جہ:۔

طہرہ۔

وہ شخص جس کا ایک عورت پر اور ایک دوست پر تار تہ ہو۔ ہر جانی۔

طہرہ۔ جھاؤ کا درخت۔ وا:۔ طہرہ۔

طہرہ۔ درخت کا تھانا جہ:۔ طہرہ۔

طہرہ۔ آنکھ جھپکانی۔ ایک ستارہ

طہرہ۔ نیال۔ نادر و عجیب چیز۔ مال کی ہدایت آنکھ کی چوٹ۔

طہرہ۔ جھاؤ کا ایک درخت

طہرہ۔ تیز نظر سے دیکھنا۔ کھلی باندھنا بہت سے کپڑے پہننا۔

طہرہ۔ آنکھ کا دھندلا ہونا۔ دیکھا ٹپکسکی باندھنا (ب) کسی چیز کے اندر گھسنا۔

طہرہ۔ (ن) ہتھوڑے سے مارنا۔ کھٹکھٹانا۔

بال اٹھانا۔ پتھر سے فال لینا۔ رات کے وقت آنا۔

طہرہ۔ شکار کا پھندا۔ مشک کی شکن۔ پانی جمع ہونے کی جگہ جہ:۔ اٹھرا۔

مص (س) گدے پانی کو پینا۔ پرند کے پردوں کا تہ بہ تہ ہونا۔

طہرہ۔ قوت۔ موٹاپا۔ پیشہ۔

طہرہ۔ پیشہ۔ کارگیری۔ حرفہ۔ صنعت۔

طہرہ۔ رات کو آنے والا۔

طہرہ۔ تاریکی۔ اندھیرا۔ حرص ہو کا۔ بیوقوفی عادت۔ روش۔ طریقہ۔ چلن۔

جہ:۔ طہرہ۔

کٹستہ - تشت - تشلا - ج۔ طسوس - طساس  
 کٹسق - زمین کا مصول -  
 کٹسل - سراب کی چمک - سطح زمین پر جاری پانی  
 مص (ن) سراب کا چمکنا -  
 کٹسحہ - عرب - باندھ میں سے ایک قبیلہ کا نام  
 کٹسہ - اول شب کی تاریکی مص (س) اٹھانے  
 کا ہفتم نہ ہوتا اور پیٹ کا پھر جانا -  
 کٹسوج - کنارہ - جہ - کٹسایسینج -  
 کٹسورہ - (ض) ناپید ہو جانا - مرٹ جانا -

## ط - ش

کٹش - ہلکا میزہ - مص (من - ن) ہلکا میزہ برتا  
 کٹشاء - (ف) جماع کرنا -  
 کٹشاش - ٹپکے ہوئے آنسو وغیرہ

## ط - ع

کٹح - (ف) زبان سے جھانسا  
 کٹعام - کھانے کی چیز - گیہوں - مر ایک غلہ -  
 جہ - اطعمہ - جج - اطعمات  
 کٹقان - بہت نیرہ مارنے والا - لوگوں کا عیب  
 بہت بیان کرنے والا -  
 کٹعب - خوشبو - مرہ -  
 کٹعنتہ - ہر اخلاق عورت -  
 کٹعہ - (ف) جماع کرنا - قاضی کا فیصلہ کسی کو  
 مجبور کرنا -  
 کٹعس - (ف) جماع کرنا - صحبت کرنا -  
 کٹعل - (ف) کسی کے نسب میں طعنہ لگانا -  
 کٹعم - مرہ جیسے مٹھاس کٹھاس - کڑوا مرٹ  
 وغیرہ - جہ - طعمہ کھانے کی تربت

کٹیر - خوب صورت مرد - جوان جس پر لوگوں کی نظر  
 پڑے - نوجوان لڑکا جس کی مسیں  
 بھینکنے لگی ہوں -  
 کٹیریف - طرف - نیامال - تادیر پھل - جہ -  
 کٹیرت -  
 کٹیرق - راستہ - راہ - جہ - اطرق - طرق  
 جج - طرقات  
 کٹیرق - بہت خاموش - مرغ خانگی کے مشابہ  
 ایک پرندہ -

(ا) کٹیرق - لکڑ بگڑ -

کٹیرقہ - نرم زمین  
 کٹیرقہ - روشن - مذہب - چلن - سا بان کا  
 ستون کھجور کا لمبا درخت - جہ -  
 کٹیراق  
 کٹیرقہ - مثلی - بہت عمدہ راستہ  
 کٹیریم - غضب - غفہ -

## ط - ن

کٹرس - (ن) لات مار کر لگانا -  
 کٹرع - بے غیرت اور حریص آدمی -  
 کٹرع - (س) حریص ہوتا - شوخ چشم ہوتا -  
 کٹرع - (ف) جماع کرنا - لڑائی بگڑ رہنا -

## ط - س

کٹس - تشت - تشلا - جہ - طسوس  
 طساس  
 کٹساس - تشلا بنانے والا -  
 کٹساء - (ف) ناموافق ہونا - کسی چیز سے جی  
 بھر جانا - شرم کرنا -

اور خواہش - قوت عقل -  
 کُطْم - طَعَام - (س) کھانا کھانا - پانی پینا۔ درخت  
 میں بیوند لگانا - جھکن - قادر ہونا -  
 ہڈی کا گودے والا ہوجانا -

طَعْم - کھانے کی چیز -  
 کُطْم - کھانا پینا آدمی -  
 طَعْمَة - کھانے کی چیز - وجہ معاش - گزارے  
 کی صورت جز - طَعْم کھانے پر  
 کسی کو ملانا -

طَعْمَة - کھانے کی روش اور طریقہ - کھانے کا  
 ڈھنگ -

طَعْن (ف ن) کسی کو نیرہ مارنا - نیرے سے  
 چوکا دینا - بڑی عمر کا ہونا - جنگل کو  
 چلا جانا - کسی کو آزرہ کرنا - یعنی  
 لٹنے دینا (مجرماً) طاعون میں مبتلا  
 ہونا -

طَعْنَان - طَعَان - ایک دوسرے کو نیرہ مارنا -  
 نیرہ بازی کرنا -

طَعُوْر - اونٹ کہ نہ ڈبلا ہونہ موٹا -  
 طَعُوْمَة - بکری جسے کھانے کے لئے رکھ پھوڑا  
 ہو -

طَعِيْم - اونٹ کہ نہ ڈبلا ہونہ موٹا -  
 طَعِيْن - نیرہ کا زخمی طاعون سے مراد ہوا - جز -  
 طَعْن -

ط - غ

طَعَام - ناقابل کینہ آدمی (واحد صحیح) تاکارہ اور  
 گھٹیا قسم کا بزندہ - واہ - طَعَامَة  
 طَعْر - (ف) (ع) کسی کے پاس آنا -

طَعْر - ایک پرندہ کا نام جز - طَعْسَات  
 طَعْسَاء - طَعْرِي - شاہی دستخط (د)  
 طَعْم - دریا - بہت پانی -  
 طَعْوَة - بلند جگہ - میلہ - ہر چیز تھوڑی سی -  
 طَعْوِي - حد سے تجاوز کرنا -  
 طَعْوَان - (ن ف) حد سے گزرتا فرمانی کرنا -  
 طَعْوَة - بلند جگہ - ہر تھوڑی چیز -  
 طَعْيَا - آواز -

طَعْيَان (س) اندازہ سے گزر جانا بلند  
 ہونا - کفر میں حد سے گزر جانا اور ظلم میں  
 زیادتی کرنا (پانی کا) موج مارنا (پانی کا)  
 روکا زور شور سے آنا -

طَعْيَة - بلند جگہ - ہر تھوڑی چیز - پہاڑ کی چوٹی -  
 سخت جگہ وار پتھر - آواز -

ط - ف

طَعْت - جانب - بلند زمین - تیز رفتار اور سبک  
 رفتار ٹھوڑا عرب کی وہ زمین جو عراق سے  
 متصل ہے - کہ بلا معنی (ن) پاؤں یا  
 ہاتھ سے اٹھانا (من) نزدیک ہونا  
 طَفَّاحَة - ہڈی وغیرہ کا جھاگ -

طَفَّان - طَعْت - قطع - برتن وغیرہ کا بھراؤ  
 طَفَّان طَفَّانَة - جو چیز برتن سے زائد رہ جائے -  
 طَفَّالَة - طَفَّوْلَة (ک) نانا پروردہ ہونا چھوٹا ہونا  
 (آباء) طَفَّان - لیریز برتن اور برتن بھرا ہوا -  
 طَفَّاوَة - چاند کا مالہ - آفتاب کا مالہ - ہڈی کا جھاگ  
 اُبال - میکڑا -

طَفْح - طَفَّوْح - (ن) پیر ہونا یا بڑھ کرنا - اُڑ کر بھگانا  
 طَفْن - قبر گور - جز - اُطْفَاذ مٹھن دفن کرنا -



طَفِيَّةٌ - گول کا پتہ - برگ متیل - ایک عجیبیت  
 ساپ - جب :- طفی  
 طَفِيْفٌ - تھوڑا - ناقص - نام تمام  
 طَفِيْلٌ - حوص میں بچا ہوا گدلا پانی -  
 طَفِيْلِيٌّ - بن بلانے کھانے میں شامل ہونے والا -  
 مہمان کے ساتھ بن بلانے آنے والا -

## ط - ل

طَلٌّ - ہلکا مینہ - پھوار - نمی - جب :- طَلَالٌ  
 طَلٌّ - اچھی اور خوش چامیز - دودھ ادھنی  
 کے دودھ کی کمی -

طَلٌّ - طَلُولٌ (معی) (ن) رائیگاں کرنا - ہلکا مینہ  
 برستا - باز رکھنا - روک دینا - کم کر دینا -  
 طال موٹل کرنا [ب] تیل وغیرہ لگانا [ج] ہلکا  
 رائیگا ہونا - خون کا قصاص نہ لیا جانا -

طَلٌّ - گردن - دودھ کی ایک خوراک - جب :-  
 طَلَّلٌ دودھ - ٹون - چربی -

طَلٌّ - منہ کا لعاب جو بیماری یا کسی اور وجہ سے  
 سمعت ہو جائے - ہرن کا بچہ - ہرچیز کا  
 بیٹا [ج] کرنا - رہزہ جب :- اَطْلَاءٌ -

طَلَاءٌ - تیل وغیرہ جس کو کسی جگہ پر لیں یا پھر وہی  
 پکی ہوئی شراب کہ کچھ نچتے ایک تھانی  
 رہ جاتے - گالی - رتی جس سے بکری کے  
 بچہ کا پاؤں باندھیں (د) دارنش

طَلَاءٌ - خون  
 طَلَّابٌ - بہت ڈھونڈھنے والا - تلاش  
 کرنے والا - چاہنے والا - جب :-  
 طَلَّابُونَ -

طَفْصَاةٌ - طُفُوسٌ - (معی) کودنا - پھلانگنا  
 طَفَسٌ - (ن) جماع کرنا - صحبت کرنا -  
 طَفَسٌ - پلید و نجس - میل کچیل - میلا کچیل -  
 طَفَسٌ - نجاست - پلیدی -  
 طَفَسٌ - طَفَّاسَةٌ - (معی) میلا کچیل ہونا -  
 طَفَّاطٌ - نہر کا کنارہ - درخت کا کنارہ  
 طَفْفُطَةٌ - کوک - تہی گاہ - پیٹ کی زم بگر کا زم  
 گوشت کا کھوٹا حصہ دشمن کے سامنے زم  
 اور کر دیا ہونا -

طَفْفَةٌ - پیمانہ سے زائد -  
 طَفَّقٌ - طُفُوقٌ - (معی) کرتے لگنا - شروع کرنا  
 لازم بیڑنا [ب] (اپنی مراد کو) پالینا  
 طَفَّلٌ - ہرن نازک چیز - لاڈلا - جب :- طِفَالٌ  
 طُفُولٌ -

طِفْلٌ - بچہ - عاجزی - رات - ہر چھوٹی چیز -  
 جب :- اَطْفَالٌ

طَفَلٌ - تارکی - اندھیرا - مینہ مص (معی) خاک  
 آلودہ ہونا - بن بلانے مہمان بن جانا -

طَفْلَةٌ - نازک - لاڈلی بچاؤ سے ملی ہوئی -  
 طَفْنٌ - موت - قید خانہ - قید مص (ن) مرنا  
 قید کرنا -

طَفُوٌّ - طَفُوٌّ - (ن) پانی کے اوپر آ جانا - اوپر  
 چڑھنا - بہت دوڑنا - مرجانا [ف]  
 داخل ہونا -

طَفُوٌّ - (معی) آگ کا بھاتا  
 طُفُوسٌ - (معی) مرجانا

طُفُولٌ - (ن) رات کے وقت آنا - آفتاب کا  
 نکلنا - آفتاب کا پھینچنے لگنا - پرورش کرنا  
 طُفُولِيَّتٌ - بچپن -

طَّلَّاحٌ - فساد۔ خرابی۔ تباہی  
 طَّلَاعٌ - ہر وہ چیز جس پر کہ آفتاب چلے چیز کی  
 بڑی یعنی بھراؤ۔ جہ۔ طَّلَحٌ  
 طَّلَاقٌ - عورت کا قید نکاح سے رہا ہونا اس  
 فعل کا استعمال مجہولاً ہوتا ہے۔  
 طَّلَاقٌ - تَطْلِيقٌ - طلاق دینا۔ عورت کو قید نکاح  
 سے آزاد کرنا۔ چھوڑنا۔  
 طَّلَاقَةٌ - (ک) کشادہ رود اور خذہ پیشانی ہونا۔  
 مہنس مکھ ہونا۔ رات اور دن کا معتدل  
 ہونا کہ نہ گرمی ہمزہ سردی۔  
 طَّلَالَةٌ - خوشی و شرمی۔ اچھی حالت۔ خوبی بیعت  
 ہر چیز کا جسم۔ ٹوٹے پھوٹے ہوئے۔  
 کھنڈروں کا نشانہ مص (س) تعجب  
 کرنا۔ ہلکا مینہ برستا۔ پھوار پڑنا اس  
 معنی میں مجہولاً مستعمل ہوتا ہے  
 طَّلَادَةٌ - (ن) انتظار کرنا۔ توقف کرنا۔  
 طَّلَاوَةٌ - خوبی و شادمانی۔ مرغوب۔ جامد دکھانا  
 جو منہ میں نہ گیا ہو۔  
 طَّلَبٌ - ڈھونڈھ۔ تلاش۔ جستجو (د) درخواست  
 فرمائش مص (ن) تلاش کرنا (انی)  
 خواہش کرنا (س) ددر ہونا۔ دوری  
 اختیار کرنا۔  
 طَّلَبٌ - ہر وہ چیز جو طلب کی جائے۔ مرد و عورتوں  
 کا چھیننا۔ عورت کسی کی معشوق۔  
 جہ۔ اَطْلَابٌ - طَلِبَةٌ  
 طَلِبَةٌ - ڈھونڈھ۔ جستجو۔ تلاش۔ معشوقہ  
 طَلِبَةٌ - مطلوب جس کی خواہش ہو۔  
 طَلَّتٌ - مزید ارشاد۔ جو رو۔ اچھی ہوا مرغزار  
 جس پر ہلکا ہلکا مینہ پڑا ہو۔ بدھی عورت

بدر زبان۔ کھاتے پینے کی اچھی حالت  
 بول کا درخت۔ طَلْحٌ  
 کھجور کا پہلا مول۔ کیلا۔ بھوکا آدمی جس  
 میں باقی ماندہ۔ گدلا پانی۔ جہ۔ طَّلَاحٌ  
 طَلْحٌ مَنصُودٌ - کیلے کا درخت۔ تر تر۔  
 طَلْحٌ - طَّلَاحَةٌ - (ت) تھک جانا۔ تھکا دینا۔  
 طَلْحٌ - تھکا ہوا چتر یا یہ (مذکورہ وقت) جہ۔ اَطْلَاحٌ  
 طَلْحٌ - نعمت۔ تازگی۔ نزاکت مص (س)  
 خالی شک ہونا۔  
 طَلْحَةٌ - زمین جس میں کیلے کے درخت کثرت سے  
 ہوں۔  
 طَلْحِيَّةٌ - کافر کا ایک تختہ جہ۔ طَّلَاحِي  
 طَلْحٌ - تلے کی کچھ جس میں کیڑے پیدا ہو گئے ہوں  
 اس لئے کہ کوئی اس کا پانی نہ پیئے مص  
 (ن) کالی مٹی سے لپینا۔  
 طَلْحَاءٌ - پھوڑا اور بے وقوف عورت۔ جہ۔ طَلْحٌ  
 طَلْحَاهُ - بھٹنی۔ جہ۔ طَّلَاحِيْمٌ -  
 طَلْحُوْمٌ - پانی جس کا مزہ اور رنگ متعیر ہو گیا ہو۔  
 طَلْسٌ - کالی چادر مص (ض) مٹانا۔ اندھا ہونا  
 طَلْسٌ - محوشہ کتاب۔ میلا کھیل کپڑا۔ جہ۔  
 اَطْلَاسٌ  
 طَلْعٌ - اندازہ۔ مقدار (کھجور کی) کھلی۔ شگوفہ۔  
 پہلی کھلی۔  
 طَلْعُ النَّخْلِ - کھجور کے درخت کا مول۔ یعنی چیل۔  
 طَلْعُ الْوَادِي - میدان کا کنارہ۔  
 طَلْحٌ - (س) پہاڑ پر چڑھنا۔  
 طَلْحٌ - اطلاع۔ لباس نپ۔ بلند جگہ۔  
 جس سے اطلاع (د) لگا ہی  
 پائیں۔ کنارہ۔

طَلَعَاء۔ قے۔

طَلَعَاء۔ دیدار۔ درشن۔

طَلَعَاء۔ ایک چیز کا بہت ڈھونڈھنے والا۔

طَلَعَاء۔ دکھانے والی عورت۔

طَلَعَانَ۔ تھکا ہوا آدمی جو رنجیدگی سے کام کرے

طَلَفَت۔ رائیگان۔ باطل۔ عطا و بخشش۔

طَلَق۔ ہرن۔ درد زہ۔ شکاری کتا۔ جہ۔

طَلَقَ۔ اطلاق چھوٹی ہوئی ادبٹی۔ اچھی ہوا کا

طَلَقَ۔ دن کہ نہ گرم ہونے سے سردی (ک)

طَلَقَ۔ درد زہ میں عورت کا مبتلا ہوجانا (حق)

طَلَقَ۔ کسی کو کوئی چیز دینا بخشش کرنا۔

طَلَقَ الْوَجْهَ۔ ہنس کھمبہ۔ خندہ پیشانی۔

طَلَقَ الْيَدَيْنِ۔ سخی چہ طَلَقَ اللِّسَانَ۔ تیز زبان۔

طَلَقَ۔ حلال و جائز (من) بیزار۔ خارج

طَلَقَ۔ باہر۔

طَلَقَ۔ ہنس کھمبہ خندہ پیشانی۔ زبان کہ تیز ہو

طَلَقَ۔ زبان جو تیز ہو خوش تقریر۔

طَلَقَ۔ حقہ۔ نصیب۔ آنت۔ غلاب ذکر۔

طَلَقَ۔ گھوڑے کی ڈگ جہ۔ اطلاق

طَلَقَ۔ ابرک مص (س) دور ہونا۔ جانا۔

طَلَقَةَ۔ رات جو گرم ہو نہ سرد (د) بندوق یا

طَلَقَةَ۔ بہت طلاق دینے والا۔

طَلَقَ۔ عمارت اور ویران جگہ کا اثر و نشان

طَلَقَ۔ ہر چیز کا بدن جہ۔ اطلاق۔ طُلُوق

طَلَقَ۔ گھر میں بیٹھنے کا چبوترہ۔ تروتازہ۔

طَلَقَ۔ سطح آب۔

طَلَقَ۔ کلمہ۔ طُلُوم۔ (ن) روٹی کا برابر اور درست کرنا

طَلَم۔ دانتوں کا میل جو صاف نہ کرنے کی وجہ

طَلَم۔ سے جمع ہوجائے۔

طَلَم۔ روٹی رکھنے کا دسترخوان۔

طَلَمَةَ۔ نان کو ماج (ایک قسم کی روٹی)

طَلَمِيَّة۔ آگ بجھانے کا آئین (د)

طَلَنَج۔ بھوکا۔ ماندہ۔ تھکا ہوا۔

طَلُو۔ ریزہ۔ مص (ن) چوپایہ کے چپوں

طَلُو۔ کے پاؤں باندھنا۔

طَلُو۔ بھسٹیا۔

طَلُوب۔ طالب اور بہت چاہنے والا جہ۔

طَلُب۔ چوپایہ کا بچہ۔

طَلُوبَةَ۔ گردن۔ صبح کی سپیدی۔

طَلُوت۔ (ن) جاری ہونا۔ بننا۔

طَلُوع۔ (ف) چاند۔ سورج اور ستارہ نکلنا

طَلُوع۔ بچے کے دانت کے کنارے ظاہر ہونا۔

طَلُوع۔ کسی کی زمین میں جا پھینکا (کھجور کا) شکوفہ

طَلُوع۔ دار ہونا۔ قصد کرنا۔ چڑھنا (علی) آگاہ

طَلُوع۔ ہونا متوجہ ہونا (عن) پوشیدہ ہونا۔

طَلُوفَةَ۔ (ک) رات دن کا معتدل ہونا کہ نہ گرم

طَلُو۔ ہوں نہ سرد۔

طَلَه۔ (ف) جانا۔ آہستگی سے جانا۔

طَلَى۔ (حق) مالش کرنا۔ ملنا۔ چوپایہ کے بچے کا

طَلَى۔ پاؤں باندھنا۔

طَلَى۔ تمیل ملا ہوا۔ بہت بیمار آدمی خواہش

طَلَى۔ نفس جہ۔ اطلاق۔

طَلَى۔ لذت۔

طَلَى۔ بکری کا چھوٹا بچہ۔ پاؤں بندھا ہوا

طَلَى۔ بچہ۔ دانتوں کا میل جہ۔ طَلِيَان

تعجب میں ڈال دینے والا خوبصورت  
گھوڑا۔

طہاح - کرشمی - خاندندگی نافرمانی۔

طہاح - حریص - لالچی

طہاح - توندل - بڑے پیٹ والا۔

طہاح - اونٹ -

طہاس - بلند مقام - اونچی جگہ پر یہ لفظ غیر منفرد ہے

طہاس - برش (د)

طہاستہ - (حق) حفاظت کرنا - نگہداشت کرنا۔

طہاطم - ولایتی بیگن - (د)

طہانینتہ - آرام و قرار - اطمینان -

طہمت - (ن) جفا کی کارہاں - زائل کرنا بھرت

کا حلقہ ہونا - گھسیٹنا - میلنا کھیلنا ہونا۔

طہوح - (ف) عورت کا خاندان کے لئے

اجازت - اپنے گزیر میں چلا جانا - خاندان کے

علاوہ عورت کا اور مردوں کو تیز نظر سے

دیکھا اور گھورنا - جانا زانی [دور جانا -

زانی] تیز نگاہ ہونا - بلند نظر ہونا۔

طہحات اللہس - زمانہ کی سختیاں -

کٹخ - (ن) تکبر کرنا۔

طہر - (حق) زمین میں پھپھ جانا - پرشیدہ کرنا

نشیب میں کودنا - بلندی پر اُچھلنا

(ن) اکتی کو گھیسوں وغیرہ سے بھرنا - نرم

کا سوچ جانا -

طہر - (س) ماٹھ کا سوچ جانا زخمیلا درو ہونا

طہر - پرلنا کپڑا - پرلانی چادر کہ پشمینہ کی تہو

آطہاس -

طہس کا الشیباب - معنوں شباب - آغاز

جوانی - زجوانی -

طہسان - اٹلین قوم - باشندگان اٹلی (د)

طہیب - بہت ڈھونڈنے والا جہ - طہباء۔

طہیتہ - گردن - گردن کی جڑ جہ - طہی

طہیم - تھکا ہوا - اونٹ - چھری - جہ - طہلاٹخ

طہیتہ - ایک شخص کا نام -

طہیتہ - تھکی ہوئی اونٹنی - جہ - طہلاٹخ

(د) کاغذ کا ریم

طہیس - نابینا - اندھا۔

طہیتہ العیش - لشکر کا طہایہ - مقدمہ - العیش -

وہ گردہ جو استقامت کے لئے لشکر سے

آگے آگے جاتا ہے جہ - طہلاٹخ

طہیق - ہنس مکھ خندہ پیشانی قید سے رہائی -

پایا ہوا۔

طہیق التہسان - فیصیح و خوش تقریر۔

طہیق اللالہ - ہوا

طہیق - بہت طلاق دینے والا۔

طہیل - خون جو رابریگان گیا ہو - شیریں -

برریا - چٹائی - جہ - آہلہ

## ط - ہ

طہم - طہوم - (ن) پانی کا بہت ہونا - بھرنا

(ن) حق، حوض کو، آٹنا اور برابر کر دینا۔

پانی وغیرہ کا لہریں ہونا - کاٹ کھانا -

ریالوں کا جوڑہ ہانڈھنا چڑھ جانا -

طہم - طہیم - (ن) حق، ہلکا ہونا - آہستہ آہستہ

چلنا - دہلے دہلے پاؤں سے چلنا۔

دہلے پاؤں دوڑنا -

طہم - پانی کی رو کے اوپر کا گورڈ کرکٹ - دریا

تعداد کثیر - بہت سال - اونکھا آدمی

ہونا۔ پانی کا چڑھنا۔  
 کٹیس - اندھا۔ تاہنا۔  
 کٹیل - پرشیدہ حال۔ بکری کا بچہ۔ بوریا چٹائی  
 گدلا پانی۔ چوڑی پھلی۔ روٹی۔ خون۔ ٹوڈر  
 کٹیلہ۔ بکری کا بچہ۔ جہ۔ کٹائل۔

## ط - ن

کٹت - (ن) ٹن کرنا۔ تشلے وغیرہ کو بھانا۔  
 ٹن ٹن ہونا (د) ٹن۔ انگریزی وزن  
 مساوی ۲۸ من۔

کٹن - بدن۔ اندام۔ جہ۔ اٹھان۔ طنان  
 ڈونٹ بیل وغیرہ پر ڈونٹھے لاد کر چومری  
 کٹھڑی ان دو پر رکھتے ہیں۔ بوجھ۔  
 کٹتہ۔ ایک کٹھڑی۔

کٹنم۔ بقیر جہان۔ رستے کی حکم۔ فرش۔ خواہش  
 باغ۔ سپید زمین۔ بیماری۔ بلند پستہ  
 حوض میں بچا ہوا پانی۔ راگھ۔ نافرمانی۔  
 ہمت۔ قصد۔

کٹنم۔ (س) شرم سے دل کی بات کو ظاہر نہ کرنا  
 (ت) شرم کرنا۔

کٹناتہ۔ زانی لوگ۔ تماش بین۔ واہ۔ کٹانی  
 کٹناتہ۔ بہت مسخ کرنے والا۔ دل لگی۔ باز۔

کٹناتہ۔ غلغلہ انداز (د)  
 کٹناب۔ جسم کی دودریاں یا مینجس جہ۔ اٹھاناب  
 کٹناتہ جہ۔ درخت کے رگ دریشے  
 طرف۔ کنارہ۔

کٹناب۔ نیزہ کی کچی گھوڑے کے پاؤں کی لمبائی  
 نرمی و سستی کے ساتھ گھوڑے کی  
 پیٹھ کی لمبائی۔

کٹنس - (ن جن) تا پید کرنا۔ مٹانا۔ مٹنا کم کرنا  
 گم ہونا۔ جڑ سے اکھاڑ ڈالنا۔ دور  
 دیکھنا۔ دور ہونا (علی) روشنی زائل کر دینا  
 مٹا دینا۔ ہلاک کر دینا۔

کٹنم۔ کٹنماتی۔ غیر فصیح آدمی  
 کٹم۔ حریص۔ لالچی۔ امید دار جہ۔ کٹمعا  
 کٹم۔ لشکر کی تنخواہ۔ حرص۔ لالچ۔ امید۔  
 آس۔ جہ۔ آطمع۔

کٹم۔ کٹمعا۔ کٹماعتہ (س) (ب حق)  
 حریص ہونا۔ امید رکھنا۔

کٹمخ۔ (س) آنکھ کی کپڑا کا بہت ہونا۔  
 کٹمل۔ (س) تیز ہانپنا۔ پارک بننا۔ گہرا  
 رنگ رنگنا (بیلن سے روٹی کو) چوڑا چکلا  
 کرنا۔ آلودہ کرنا۔

کٹمل۔ بدزبان آدمی۔ دیدہ دلیر۔ بے باک  
 گدلا پانی۔ سبز کپڑا۔ کالاسیل۔ گلو بند  
 کبیرہ۔ احمق۔ چوہر۔ نافرمان۔ پرانا کپڑا  
 بدخو۔ بد حال۔ میلا پھیلا۔ ننگا آدمی۔  
 جہ۔ کٹمول

کٹملہ۔ حوض کی ترکی کپڑے حوض کی تڑکا گدلا پانی۔  
 نامتاسب اور برا کام۔

کٹمن۔ آرام پایا ہوا جہ۔ کٹمون  
 کٹمو۔ (ن) پڑھنا۔ بڑھنا۔ بلند ہونا۔  
 کٹموس۔ (ض) جانا۔ گذرنا۔ کودنا۔

کٹموس۔ (ن) راستہ وغیرہ کا مٹ جانا۔  
 کٹمول۔ بدزبان مرد۔ بے باک۔

کٹمولہ۔ بدزبان۔ بے باکی۔  
 کٹمی۔ (ض) پانی کا بہت ہونا۔ گھاس کا بڑھنا  
 ہمت و قصد کا بلند ہونا۔ دریا کا پڑ

طَبَّاس - طَبَّور - ستار - جہ - طَبَّابِیْد -  
 طَبَّیْلَة - مَقَلَمَدی کے بعد بے وقوفی کرنا -  
 طَبَّوْمُوس - ستار - جہ - طَبَّابِیْد -  
 طَلَح - (س) موٹا ہو جانا - بد معنی ہو جانا -  
 طَلَح - (س) بد معنی ہونا - موٹا اور پُر گوشت  
 ہونا -  
 طَلَح - ایک قسم کی مچھلی - مص (ن) مسخر کرنا  
 طَنْطَنَة - آواز ٹن ٹن - شہرت کرنا - ٹن ٹن کرنا -  
 شست وغیرہ کو بچانا -  
 طَنْف - پہاڑ کی چوٹی - پہاڑ وغیرہ کا باہر نکلا ہوا  
 حصہ - دروازہ کا پردہ - جہ -  
 اَطْفَان - طُفُوْت  
 طَنْفَسَة - غالیچ - کپڑا - ایک گرد کے عرض کا کھجور  
 سے بنایا ہوا - یورپیہ کے مشابہت  
 جہ - طَطَفَس -  
 طَنْفَسَة - بد اخلاق ہو جانا - خوش اخلاقی کے بعد  
 بہت سے کپڑے پہننا -  
 طَنِي - نافرمانی -  
 طَنِي - (س) بچھو کے کانٹے سے صحت یاب ہونا  
 پیاس کی وجہ سے تلی کا بائیں پہلو میں چپٹ  
 جانا (الی) زنا کرنا -  
 طَنِي - تہمت - ٹھنڈی راہ - بیماری - کائی -  
 (ض) درخت خریدنا - درخت کا پھل  
 خریدنا - درخت کا پھل فروخت کرنا -  
 طَنِي - وہ شخص جس کی تلی پیاس کی وجہ سے  
 بائیں پہلو میں چپٹ گئی ہو -  
 طَنِيْن - عین عین - ٹن ٹن - آواز مص (ن)  
 مرجانا -  
 طَوء - بھوکا - لاغر شکم آدمی -

طَوء - (ن) (ق) جانا - دور جانا -  
 طَوَّاحِن - بڑے دانت - واہ - طَاوْحَنَة یا  
 طَاوْحَنَة پیسنے والیاں - واہ - طَاوْحَنَة  
 طَوَّاس - چیز کی حد اور انتہا - فراخی اور نجاش -  
 طَوَّاس - انتہا اور مقدار -  
 طَوَّاسِيْم - قرآن شریف کی وہ سورتیں جن کے شروع  
 میں اَلَمْ ہے -  
 طَوَّاط - بہادر و دلیر آدمی -  
 طَوَّاعِيَة - اطاعت - بندگی - فسران برداری -  
 طَوَّان - خادم جو خوردگی سے خدمت کرے -  
 بہت پانی -  
 طَوَّال - غایت ومدت - گھر کا لمبا صحن -  
 طَوَّال - لمبا -  
 طَوَّال - خوب لمبا -  
 طَوَّالَة - ناند - جانوروں کے کھانے کا برتن -  
 طَوَّاح - ہلاک کرنے والی سختیاں - واہ -  
 مُطِيْحَتَه (من بقر لفظ)  
 طَوَّب - توپ - جہ - اطواب (د)  
 طَوَّبِي - گولہ انداز (د)  
 طَوَّبِي - پاک پائیدہ - بہشت کا ایک درخت اَطْب  
 کا مؤنث طیبہ کی جمع - اچھا پسندیدہ مقبول  
 طَوَّبَالَة - بیٹ - جہ - طَوَّبَالَات  
 طَوَّح - (ن) ہلاک ہو جانا - ہلاک کے نزدیک ہونا -  
 سرگشتہ ہونا اور شہروں شہر پھرنا -  
 طَوَّخ - (ن) کسی کو قول یا فعل سے تہمت لگانا  
 طَوَّوْد - پہاڑ یا بار پہاڑ - اونچا اُٹھا ہوا ریت  
 کا ٹیلہ - مص (ن) دیر تک رہنا - قرار پلٹنا  
 جہ - اَطْوَاد - طَوَّوْدَة  
 (ر) اَطْوَاد - بڑا سا پتھر کہ پہاڑ سے لڑھک کر نیچے

گرد پھرتا۔ طواف کرنا۔  
طُوَقَان - زور کی بارش۔ بہت پانی کو زور شور سے پھیل جانے اور غسرق کر دے۔ پانی کی رو۔ بہت سی چیز۔ کہ سب کو شامل ہو جائے۔

طُوَق - گلو بند۔ جو چیز کہ ایک چیز کے گرد جو۔ (د) کارہ جو۔ اَطُوَق کشادگی۔ توانائی۔ مص (ن) کر سکتا۔ قدرت رکھنا۔

طُوَقَة - نرم زمین۔ سخت زمین کے درمیان۔  
طُوَل - دیاتی۔ طاقت۔ تو نگر۔ قدرت۔ فراخی۔ مص (ن) کسی پر زیادتی کرنا۔ فخر کرنا۔ درازی میں غالب آنا۔ علی [احسان رکھنا۔

طُوَل - عمر۔ زندگی۔ توقف۔ طُوَلُ اللّٰہِ بہت سا زمانہ۔ مص (ن) دراز ہونا۔  
طُوَل - چوپایہ کے پاؤں باندھنے کی رسی یعنی رسی تیس سے چوپایہ کو باندھتے ہیں۔

طُوَل - ایک لمبے پاؤں والا دریا یا جانور۔  
طُوَل - عمر۔ دیر (طُوَلی)۔ اقل تفضیل مرث کی جمع)۔

طُوَل (السَّجْمُ الطُّوَل) - قرآن کریم کی سات سو تیس۔ یعنی بقرہ۔ آل عمران۔ نساء۔ مائدہ۔ انفاح۔ اعراف۔ انفال۔ دبراءۃ یا سورہ یاسین۔

طُوَل - اونٹ کے اوپر کے ہونٹ کی لمبائی۔  
طُوَلی - بہت لمبی عورت۔ اَطُوَل کی تائیت۔ حالت۔ بلند مرتبہ جو۔ طُوَل

طُوَمَاس - دفتر۔ جو۔ اَطُوَامِئِد - طُوَمَہ - مروت۔ بلا۔ سختی۔ مادہ چھوٹا۔

اگر ہے۔  
طُوَس - ایک بار۔ چیز کا مقابلہ برابر۔ حد و نہایت۔ مقدار۔ نوع و صنف۔ رنگ ڈھنگ۔ جو۔ اَطُوَارِ مص (ن) کسی چیز کے گرد پھرتا کسی چیز سے نزدیک ہونا۔  
طُوَس - ایک مشہور پہاڑ۔ ملک شام میں جہاں حضرت موسیٰ نے حق تعالیٰ سے کلام فرمایا۔ گھر کی چار دیواری۔ حد و نہایت۔

طُوَرَان - (ن) (ن) کسی چیز کے گرد پھرتا۔  
طُوَس (ب) کسی چیز کے پاس ہونا۔  
طُوَسَاة - فال بد۔

طُوَس - (ن) بیماری سے اُٹھنے کے بعد چہرے پر رونق آجانا۔ خوب صورت ہونا۔  
روندا۔

طُوَط۔ طُوَط۔ (ن) (س) سانڈ اونٹ کا تیر شہوت ہونا اور بڑھانا۔

طُوَط - سانپ۔ روٹی۔ بلند قامت آدمی۔  
چمکا دڑ۔ بہت لٹے والا آدمی شہوت سانڈ۔ جو۔ اَطُوَاط

طُوَع۔ طَاعَة۔ (ن) [ن] فرمانبرداری کرنا۔ مطیع ہونا۔ چراگاہ میں، گھاس افراط سے ہونا۔

طُوَعَة - ہر کسی کا فرمانبردار۔  
طُوَف - پلیدی گھنٹی مص (ن) بیت الخلاء میں جانا اور پاخانہ پھرتا علی [جماع کرنا]۔  
طُوَف (ب) خواب میں کسی کی صورت دیکھنا (حول۔ ب) گرد گھومنا۔

طُوَف۔ طُوَان طُوَقَان۔ (ن) (حول۔ ب) [

طہفۃ - ایک گھاس جو موسم گرما میں پیدا ہوتی اور فارسی میں زبورہ کہلاتی ہے۔

طہفل - (س - ف) (بانی کا) رنگ و مزہ متغیر ہونا  
طہفل - باریک جسم والی عورت - بد صورت اور موٹا آدمی - جہ: - طہفایا۔

طہو - (ن - ف) کام کرنا - زمین میں پھرنا اور سفر کرنا - گوشت پکانا۔

طہو - طہیانہ - طہو - طہی - (ن - ف) گوشت پکانا۔

طہوس - (پانی وغیرہ جس سے طہارت کریں) - طہارت کرنا - آب و دست لینا - پاک - پاک کرنے والا۔

طہی - (ف) گوشت پکانا - کام کرنا - زمین میں پھرنا اور سفر کرنا۔

طہیز - پاک - جہ: - طہیان - طہارہ

## ط - ی

طی - (حق) پیسٹنا - پھیلا تا - پوشیدہ کرنا - منہ پھیر لینا - مفارقت کرنا - خود کو بھوکا رکھنا (س) بھوکا ہونا۔

طیا - بھوک کی عورت - خوشبو - خوب اچھی چیز - پاکیزہ - پاک - طیاس - طائر کا اسم مبالغہ۔

(فرس) طیاتا - تیز و جست و چالاک گھوڑا (د) ہوا باز - طیارچی۔

طیارۃ - تیز رفتار کشتی - ہوائی جہاز - پتنگ - غبارہ (د)۔

طیاش - ہلکی طبیعت کا آدمی جو کہ مختلف ارادے رکھے اور ایک ارادے پر نہ چلے۔

طوی - بھوک - پرانی مشک طوی - (س) بے ارادہ کچھ نہ کھاتا۔

طوی - طوی - (منصرف و غیر منصرف) ملک نام کی ایک وادی۔

طوی - پختہ کنواں - ہتھیار اور سامان کا گٹھا رات کی ایک ساعت۔

طویۃ - بھید - قصد - پختہ کنواں - جہ: - طویا - طویل - لمبا - جہ: - طویل - طویل

طویۃ - لمبے قد کی عورت، رتھی جس سے جو پایہ کے پاؤں ماند ہوتے ہیں - جہ: - طویا۔

## ط - ہ

طہ - آرام کر (اسم فعل بمعنی امر)۔

طہاء - اونچا اٹھا ہوا بادل۔

طہاءۃ - ایک بادل کا ٹکڑا - بدلی۔

طہاۃ الغیل - گھوڑوں کی ہیننا ہٹ۔

طہاۃ - طائی کی طرح تپیلی کھال۔

طہس - (ف) دُور کرنا۔

طہس - پاک - جہ: - طہس وٹن۔

طہس - پاکی وہ زمانہ جس میں حیض نہ آئے۔

جہ: - آظہار۔

طہس - طہارۃ - (ن - ک) پاک ہونا - حیض کا منقطع ہونا - عورت کا بعد انقطاع خون کے غسل۔

طہس - پاکی و پاکیزگی۔

طہس - (ف) (ف) کھنا - آسمتہ استرجانہ طہش - (ف) کام کو تباہ کرنا - شروع کئے ہوئے کام کو درجہ برجم کر دینا۔

طہف - ایک نرم گھاس جس کی کین میں کاشت ہوتی ہے۔



کَٹینَش - سبکی (ص) (ص) سبکی ہونا، سبک ہونا، عقل کا جاتا رہنا، تیر کا نشاۃ سے خفا ہونا۔

کَٹیح - (ص) (ص) فراخ برداری کرنا۔

کَٹیف - غفرت، جنون، خیال، دوسرے (ص) خواب میں خیال کا آنا، کسی چیز کے گرد پھرنا۔

کَٹیف - خیال، دوسرے۔

کَٹیل - لمبائی۔

کَٹیلکے - عمر، زندگی۔

کَٹیلکسان - چادر، تالشان کا معرب

جہ: کَٹیلکس - کَٹیلکس۔

کَٹیلو - (ف) نیک ہونا، نیک سرشت بنانا۔

کَٹیلین - مٹی، گارا۔

کَٹیلین - (ص) کام کو اچھا کرتا، مٹی کی مہر لگانا، مٹی سے لینا، نیک سرشت پیدا کرنا۔

کَٹیلینہ - سرشت، طبیعت، عادت، تھوڑی مٹی۔

کَٹیلوس - بہت اڑنے والا، تیز رفتار۔

کَٹیلووح - تہو کہ ایک پرندہ کیک کے مشابہ لیکن اُس سے چھوٹا ہے۔

## ظ - ۱

ظاء - حروفِ بجا میں عربی کا ایک مخصوص حرف

ظوار - پایہ دیگر دان۔

ظباب - شور وغل، سردیاد کی آواز۔

ظبرے کی آواز، ظلم و ستم۔

ظہم زلف - ساڑھو، جہ:۔

ظطوب - ظطوب (ص) (ص)

آواز دکانا، شادھی کر لینا۔

ظطالت - (ف) گلا گھوٹنا۔

طِیَانَة - کھنگل کرنا، پائی کرنا۔

(ص) (ص) طِیْب نفس، خوشی سے۔

طِیْب - خوشبو، حلال، سب سے بہتر چیز۔

جہ: آطِیَاب

کَٹیب - پاک و حلال، خلافتِ نصیبت، م۔

کَٹیبَة (د) بخیر و عافیت۔

کَٹیبَة - حلال و جائز، صاف و خالص شراب۔

زمرم کا نام۔

کَٹیبَة - کَٹیبَة - مدینہ منورہ کا نام

کَٹیبَة - وہ کام جو دغا و فریب سے خالی ہو۔

کَٹیبی - بہشت۔

کَٹیبہ - پاؤں میں پاندھے کی پٹی (د)

کَٹیبَة - لپٹنے کی بہت، طرز، نیت، قصد

کَٹیبَة - وہ مشکلات جو آپس میں تفرقہ کا باعث

نہیں۔

کَٹینج - (ص) (ص) اُلوہہ ہونا، فعلِ قبیح

میں اُلوہہ کرنا، بکج کرنا، گناہ پر اصرار کرنا

اور اس میں شہم رکھنا۔

کَٹینجہ - احمق، جو کسی مصروف کا نہ ہو، فتنہ، بلا۔

مصیبت۔

کَٹینو - طِیْبَانِ طِیْبُو سَمَاءَ - (ص) اڑنا، لمبا ہونا۔

کَٹینو - سبکی، خفت۔

کَٹینو - فال بد۔

کَٹینو سَمَاءَ - سبکی۔

کَٹینس - کثیر، بیشمار، کوڑا کرکٹ، بہر مخلوق کے تیر لیس

جیسے چوٹی، مکھی وغیرہ، ریت پائی فوہ

جو کثرت سے ہومص (ص) بہت ہوتا۔

کَٹینسل - ہوا، سخت ہوا، بخار، اندھیری رات، جہت

ہر چیز بہت سی نشت، جہ:۔

کَٹینسل - کَٹینسل

ظَبْطَاب - بیماری۔ رنج۔ درد۔ عیب۔ فریاد  
 کی آواز اور شور و غل ج۔ ظَبْطَابِط  
 ظَبْطَبَّة - (مجموعاً) کسی کو بجا چڑھا آنا۔  
 ظَبْبِي - ہرن ج۔ آظِب - ظَبْبَاءُ - ظَبْبِي  
 موٹا گھوڑا۔ ظَبْبِيَانِ ایک شخص کا نام  
 ظَبْبِيَّة - ہرنی۔ بکری۔ گائے۔ عورت کی فرج۔  
 جھولی۔ خریطہ۔ بچھا۔ زعموم کا نام۔  
 ج۔ ظَبْبِيَات -

## ظ - ج

ظَبْج - (ن) جگ میں فریاد خواہی کرنا۔

## ظ - س

ظَبْرٌ - جما ہوا پانی۔ برت۔  
 ظَبْرٌ - (ن) پتھر سے ذبح کرنا۔  
 ظَبْرٌ - پتھر جس کے کنارے تیز ہوں ج۔ ظَبْرٌ  
 ظَبْرَات - عقل مند ج۔ ظَبْرٌ قَاءُ -  
 ظَبْرَات - عقل مند۔ زیرک ج۔ ظَبْرٌ اخُون  
 ظَبْرَاةٌ - (لک) عقل مند و ہوشیار ہوتا۔  
 ظَبْرِب - پھیلا ہوا اور نیچا پاٹ۔ پہاڑی چھوٹا  
 سا پہاڑ ج۔ ظَبْرَاب -  
 ظَبْرِب - سخت اور فریبیم کا ٹھنکتا آدمی۔  
 ظَبْرِب - (ب) چیکنا۔  
 ظَبْرِيَان - بلی کے مشابہ ایک چھوٹا سا بھورا  
 جانور ج۔ ظَبْرٌ اَبْيَن - ظَبْرٌ اَبْيَنِي  
 ظَبْرَس - ظَبْرَسَاة - گول اور تیز پتھر ج۔  
 ظَبْرَان -

ظَبْرُف - برتن۔ وہ چیز کہ اس میں کچھ سمائے۔  
 زمانہ یا مکان ج۔ ظَبْرُوفِ اَم

ظَبْرُف - دشمن جو اپنے ساتھ اپنی مانند ایک شخص کہتا ہو  
 ظَبْرٌ - وائے۔ انا۔ دودھ پلائی ج۔ آظَبْرٌ  
 آظَبْرٌ - ظَبْرُور -  
 ظَبْرَس - ظَبْرَسَاة - رت کسی کو دایہ معتد رکنا۔  
 اتا اور دایہ ہونا۔ مہربان کرنا۔ نائل کرنا۔  
 عقلی (ظلم سے کام کرنا) مجبور کرنا۔  
 ظَبْرِي - کاٹ کھانے والا ج۔ ظَبْرٌ اَعَاة  
 ظَبْرٌ اَعَاة - بکرے کا جنتی کے لئے آواز نکالنا۔  
 ظَبْرَات - رت، ہٹانا۔ دفع کرنا دھتکارنا۔  
 ظَبْرِيح - سنگڑا چوپایہ۔ گنہگار۔ تہمت زدہ۔  
 ج۔ ظَبْرِيح -

ظَبْرِيح - سنگڑا ج۔ ظَبْرِيح - ظَبْرِيح (م)  
 ظَبْرِيح ج۔ ظَبْرِيح عَشِيہ (ایک  
 بڑی مصفی خون)

ظَبْرٌ - کلام۔ آواز۔ شور۔ ساڑھو۔ مہی (ق)  
 جماع کرنا۔ دو بہنوں کو دو شخصوں کا  
 نکاح میں لانا۔ ہم زلف ہونا۔  
 ظَبْرَات - گمان کرنے والا۔ سمجھنے والا۔ خیال  
 کرنے والا۔

ظَبْرَاهِي - کھلا ہوا۔ غالب۔ خدا تعالیٰ کا ایک نام  
 ظَبْرَاهِي - کھلی ہوئی دوپہر۔ باہر نکل ہوئی آنکھ  
 آدمی کا کتبہ۔ وہ گھاٹ جس پر دوپہر کے  
 وقت اونٹ وغیرہ پانی پیتی (د)  
 علامت خصوصیت منظر ج۔ ظَبْرَاهِي  
 (ناقہ) ظَبْرُوفَس - اونٹنی جو غیر کے پتے پر مہربان ہو۔

## ظ - ب

ظَبْرَاة - لکڑ بگڑ۔  
 ظَبْرَاة - تلوار کی باڑ بڑھی کی آئی ج۔ ظَبْرَات  
 ظَبْرِيُون - ظَبْرِيُون

کے چاروں پاؤں کو ایک جگہ باندھنا  
 ظہار - ایک خوشبو یعنی مکھ۔  
 ظہنی - (ض) ناخن چھوٹنا۔  
 ظہر - ظہر - ناخن ناخنہ چشمہ کمان کے  
 گوشے جہاں آظہار - آظا فہیر۔  
 ظہر - سہوار و پست زمین - گھاس سے بھری  
 ہوئی مص (س) آنکھ میں ناخنہ ہوجانا  
 [علی - ب] مراد کو پہنچنا - کامیاب ہونا  
 ظہر - مرد کہ جس کام کا ارادہ کرے اُسے حاصل  
 کرے۔

ظہر - ناخنہ چشمہ  
 ظہر - ایک تیز گھاس جو مستوں کے لئے مفید ہے  
 ظہر - آنکھ جس میں ناخنہ نکلا ہو - مع مند و  
 کامیاب مرد۔  
 ظہر - کثرت عیال - تنگ حالی۔  
 ظہر - وہ شخص کہ جس چیز کا ارادہ کرے  
 اس کو حاصل کرے۔

## ظ - ل

ظل - سایہ جہاں - ظلال - ظلول - اطلال  
 جنت راحۃ و نعمت خیال جو دیو پوری  
 وغیرہ کا آئے مضبوطی - کپڑے -  
 کارواں - رات کا گھڑا - آغاز شب  
 پناہ - لباس - پہناوا۔  
 ظل القیظ - گرمی کی سختی۔  
 ظل السحاب - برادر اس کی سیاہی جو آفتاب  
 کو چھپا لے۔  
 ظل السیف - قرب سے کنایہ ہے یعنی اتنا قریب  
 کہ تلوار اس کے سر پر ہو۔

مص یعنی مندی (د) کارتوس خط کا لفظ  
 ظہوری - ہر شیار و ماہر آدمی۔  
 ظہری - (س) زیرک اور عقل مند ہونا۔  
 ظہری - (ض) جاری ہونا - رواں ہونا - پیٹ  
 چلنا - دست آنا۔  
 ظہری - پتھر ملی زمین - سخت زمین منارہ جس  
 سے راستہ معلوم ہو۔ جہاں ظہران  
 آظہر -  
 ظہرین - عقل مند ہونا - جہاں ظہر - ظہر  
 ظہر - ظہر - (یہ الفاظ  
 جوان مرد اور جوان عورتوں کے لئے  
 مخصوص ہیں - بوڑھوں کے لئے نہیں  
 بولے جاتے)۔

## ظ - ش

ظش - سخت اور کھردری جگہ۔

## ظ - ع

ظعام - بوجھ باندھنے کی رتی - ہودج کے  
 باندھنے کی رتی۔  
 ظعان - رتی جس سے ہودج یا بوجھ باندھیں۔  
 ظعن - (ف) جانا - کوچ کرنا۔  
 ظعون - کھیتی کا اونٹ - وہ اونٹ جس پر شہد  
 باندھیں جہاں - ظعن  
 ظعینة - ہودج - شہد - ہودج نشین عورت۔  
 جہاں - ظعن - ظعان - اظعان۔

## ظ - ف

ظفت - تلخ زندگی - ترخ کی گرانی مص (ن) چوہا پارہ

ظَلَج - شان و حالت میں (قد) سنگڑانا۔  
خم کھانا۔ رُکے لئے خواہش مند ہونا (معن) [

اعراض کرنا۔

ظَلَج - (معن) آدمیوں کی کثرت کے سبب جگہ کا

تنگ ہونا۔

ظَلَف - ناچیز۔ رائیگاں۔ تنگی و عیش میں (معن)

پیر دی کرتا۔ بکری وغیرہ کے سم پر مارنا

(معن) باز رکھنا۔ روکنا۔

ظَلَف - ظَلُوف - (معن) سخت زمین پر چینا تاکہ

اس زمین پر اثر نہ ہو۔ اور نشاں قدم

معلوم نہ ہو سکے۔

ظَلَف - چراہرا سم جیسے کھانے بکری وغیرہ کا ہوتا

ہے۔ مراد۔ مقصد حج۔ اظلاف

ظَلُوف -

ظَلَف - کال۔ تمام۔ پورا۔ زندگی اور گذران کی

سختی میں (معن) سخت ہونا (معن) رُک

رہنا۔

ظَلَفَاء - ہموار زمین سخت پتھر۔

ظَلَفَة - سخت زمین۔ پالان پر بندھنے والی چار

کھڑکیوں میں سے ایک کھڑکی۔ ظَلَف

ظَلَل - درختوں کے نیچے کا پانی جس پر دھوپ

نہ پڑے۔

ظَلْم - برت۔ دانت کی آبداری اور اس کی

صفائی اور چمک۔ حج۔ مظلموم میں

(معن) چیر۔ کوبے موقوف رکھنا۔ گھٹانا۔

بے کھدی زمین کو کھودنا (اچھے تندہ دست

اور کھ) ذبح کرنا (وادای کا پانی) حد

سے زیادہ ہوتا۔ دودھ کو دستی کرنے

سے پہلے کھانا۔ گدھے کا گھن گدھی پر

ظُلُّ الْعَرَشِ - رحمت یا بہشت یا سایہ رحمت یا

سایہ عرش۔

ظُلُّ النَّهَارِ - دن کا کھار جب کہ آفتاب ٹوپ روشن

ہو جائے۔

ظُلُّ اللَّيْلِ - رات کی تاریکی۔

ظُلُّ الظِّلِّ - سایہ دائمی۔

ظُلُّ الْعِلَاقِ - چوپایہ کے پاؤں کی ایک بیماری جو نہ

چیننے سے پیدا ہوتی ہے نہ مشقت سے

ظِلَال - سائبان بہشت۔ بارغ۔ ابرک سایہ۔

جہ۔ مَاطِلَة -

ظِلَالُ الْبَحْرِ - دریا کی لہریں۔

ظِلَال - جو چیز تم پر سایہ ڈالے۔

ظِلَالَة - جسم۔ ڈھانچہ۔

ظِلَالَة - ابرک اکیلا نظر آئے۔ زیادہ ابرک جس کا

سایہ زمین پر نظر آئے۔

ظِلَالَة الظِّل - جس سے سایہ کیا جائے۔

ظِلَاه - تاریکی

ظِلَاه - ظلم کرنے والا۔ ایک بوٹی صاحب ظلم۔

ظِلَاه - آسان۔ تھوڑی سی چیز۔ ایک بوٹی۔

ظِلَاه - مَقَالَمَة - ظلم کرتا۔ ستم کرنا۔

ظِلَامَة - انصاف۔ دادخواہی۔

ظِلْمَة - کسی جگہ پر اقامت۔ صحت۔

ظِلْمَة - سائبان۔ چھوٹا سائبان۔ سایہ دار

درخت۔ اول ابرج سایہ ڈالے۔ پُیا ہوا

چبوترہ وغیرہ جس کے سایہ میں گرمی اور

جارے میں بیٹھیں۔ حج۔ مظلل۔

ظِلَال - (د) پھرتی۔

ظِلْمَة الظِّل - جس سے سایہ کریں۔

ظِلْمَة - سائبان۔

پہلے کھایا جائے۔ جہ:- تَلَاَيْم

## ظ - ہ

ظلمہ:- آرزو مندی۔ پیاس اونٹوں کو گھاٹ پر دوبارہ لانے کے درمیان کی مدت جہ:-

أَطْمَاءُ - ظِلْمَةُ الْحَيَاةِ - پیدائش کے وقت سے مرنے تک -

ظَمَاءٌ - ظَمَاءٌ ظَمَاءَةٌ - (س) پیاسا ہونا سخت پیاسا ہونا (الی) کسی کی طرف آرزو مند ہونا -

ظَمَاءَةٌ الرَّجُلِ - مرد کی بے انصافی اور اس کی بدظینتی -

ظَهْنَانٌ - پیاسا - جہ:- ظَمَاءٌ  
ظَهْنَانِيٌّ - ظَهْنَانٌ - کامنٹ یعنی پیاسی تیز ہوا  
ظَهْنِيٌّ - پیاس لگانے والی -  
پیاسا -

ظَهْمَخٌ - چنار کے مشابہ ایک درخت (بجر) کا درخت  
ظَهْمِيٌّ - (س) دانتوں کی جڑوں میں خون کم ہونا -  
ہونٹوں کا سیاہ ہونا -

رَشْفَةٌ ظَهْمِيَاءٌ - گدھی ہونٹ - مڑھیا ہوا -  
رَنَاقَةٌ ظَهْمِيَاءٌ سِيَاهٌ أَوْ مِثْلِيٌّ [عَيْن]

ظَهْمِيَاءٌ مِمَّنْ كُوِشَتْ كِي أَيْ كُنْهٌ - کاغذی آنکھ  
جس کی پلکیں باریک ہوں (ساق)  
ظَهْمِيَاءٌ دُمْلِيٌّ مِثْلِيٌّ (لَيْثَةٌ) ظَهْمِيَاءٌ  
مَسْوُورَةٌ جِسْمِيٌّ مِثْلِيٌّ مِمَّنْ كُوِشَتْ

## ظ - ن

ظَلَمْتُ - وہ گمان جو قریب یقین کے ہو جہ: ظَلَمْتُ  
مَنْ (ن) گمان کرنا جانا - یقین کرنا

چوڑھ جانا - قوم کو بے جا دہی کھلا دینا  
راستے سے الگ ہونا -

(مَا) ظَلَمْتُ أَنْ تَفْعَلَ - لَكُنَّا - کس چیز نے تجھ کو  
اس کام کے کرنے سے روکا -

ظَلَمٌ - ستم - شرک - تاریکی - جہ:- ظِلَاہ  
ظَلَمٌ - جسم پہاڑ جہ:- ظَلَمٌ مِمَّنْ (س)  
تاریک ہونا -

ظَلَمٌ - ایک ندی کا نام - ایک گھاس جس کی شاخ  
لمبی اور نرم اور تر ہوتی ہے -

ظَلَمٌ - تین راتیں ہر ماہ کی انیسویں بیسویں  
انیسویں -

رَبِيٌّ ظَلَمٌ - سخت اندھیری رات -  
ظَلَمَاءٌ - تاریکی - اندھیرا - عذاب - شدت -

جہ:- ظَلَمٌ - ظَلَمَاتٌ  
رَبِيَّةٌ ظَلِيمَةٌ - اندھیری رات -  
ظَلُوفٌ ظَلَفٌ - سخت اور کھڑے ستم -

ظَلُورٌ - بڑا ظالم - ستمگار - جفا پیشہ -  
ظَلِيْفٌ - بد حال - ذلیل و خوار - سخت جگہ - دشوار

کام - ہلکے شدید سختی - گردن کی جڑ  
جہ:- ظَلَفٌ تمام و کامل -

ظَلِيْلٌ - سایہ دار - دائمی سایہ ٹھنڈا اور سرد -  
جہ:- آظَلَّةٌ

ظَلِيْلَةٌ - ندی کی گرائی - باغ جس میں درخت کثرت  
سے ہوں جہ:- ظَلَايِلٌ

ظَلِيْمٌ - بہت ظلم کرنے والا -  
ظَلِيْمٌ - دودھ جو چوہری طرح دہی ہونے سے

پہلے کھایا جائے - شتر مرغ تر - جہ:-  
ظَلَمَانٌ -

ظَلِيْمَةٌ - داد خواہی - دودھ جو دہی ہونے سے

ظہار - بدخلق آدمی  
 ظہار - تہمت - بہتان -  
 ظہار - درخت کی جڑ - جڑ - اظہار -  
 ظہار - بندگی کی نشک بڑی جڑ - ظہار -  
 ظہار - تہمت - تھوڑی چوڑی جڑ - ظہار -  
 ظہار - دودھ ایک بار پینے کے لائق کہ اس میں  
 سے مسک نہ نکلا ہو۔  
 ظہار - سست آدمی - شریف عورت خاندانی  
 عورت کہ اس کی شرافت کی وجہ سے اس  
 سے شادی کی جائے۔ بدگمان آدمی کو  
 جس کے اندر کاحال نہ معلوم ہو کہ پائی  
 ہے یا نہیں۔  
 ظہار - تہمت لگایا ہوا - متمم - تہمت زدہ -  
 جڑ - اظہار

ظ - و

ظہار - بے وقت و احمق آدمی -  
 ظہار - شریف لوگ -  
 ظہار - زمین کی بلندیاں - درخت  
 وغیرہ -  
 ظہار - خلاف الزکوٰۃ - گردن کی کھال

ظ - ہ

ظہار - سنگستان کی کھل ہوئی زمین -  
 ظہار - مرد کا عورت سے آنت علیٰ کظہار  
 ہتی کہنا یعنی تو میرے لئے ماں کی  
 طرح حرام ہے۔  
 ظہار - گردہ - جماعت -  
 ظہار - کپڑے کا برہ (د) زمین پوش -

ظہار - (ن) قوی پشت ہونا (ع) سٹ جانا  
 [ب] فراموش کرنا۔  
 ظہار - کشتی کا ایک داؤ یعنی ڈھینکلی سے  
 پیٹھ کے بل حریت کو پٹھاڑنا۔ اس کا  
 جوار (ن) اسم مصدر  
 ظہار - پیٹھ - جڑ - اظہار - ظہار  
 بہت سماں - فخر - جھگڑا - راستہ  
 سخت و بلند زمین - خبر - غائب چیز -  
 پیٹھ کے پیچھے کی چیز - مص (رض) پیٹھ پر  
 مارنا - پس پشت ڈال دینا - کپڑے کا ابرا  
 بنا کر [ب] فخر کرنا۔  
 ظہار - زوال آفتاب کے بعد کا وقت - سورج  
 ڈھلنے کے بعد کا وقت - جڑ - اظہار  
 ظہار - پیٹھ کا درد مص (س) پیٹھ کے درد کی  
 شکایت ہونا۔  
 ظہار - جس کی پیٹھ میں درد ہو۔  
 ظہار - گھر کا اسباب - آدمی کا کنبہ - تسبیلہ -  
 ظہار - یار - مددگار - کنبہ - قبیلہ -  
 ظہار - کھجور - مددگار - آدمی کا کنبہ -  
 ظہار - ادنیٰ جس کو وقت ضرورت کے لئے تیار  
 کیا گیا ہو۔ وہ چیز جسے پس پشت ڈال کر  
 اس سے غافل ہو جائیں۔ جڑ -  
 ظہار -  
 ظہار - (ت) ظاہر ہونا (ع) چڑھنا - مددگار  
 [ب] علیٰ غالب ہونا۔  
 ظہار - جس کی پیٹھ میں درد ہو۔ قوی پشت  
 چوپایہ جو زیادہ بوجھ اٹھا سکے۔  
 مددگار۔  
 ظہار - گرمی کے موسم کا دوپہر جڑ - ظہار

## ع - ا

عاب - عیب  
عابید - تنگ و عار رکھنے والا۔ عبادت گزار  
جہ: عباد - عبادۃ - م: عابدۃ  
جہ: عوا - عابد  
عایو - گذرنے والا۔ آنسو بہانے والا۔  
(مذکر مؤنث)  
عابرو السبیل - مسافر  
عایرۃ - عابر کا مؤنث لفظ عایرۃ  
محاورے کی بول چال۔ گذرنے والی  
جہ: عوا - عیر  
عالیس - ترش رو - شیر  
عابود - قدس کے نزدیک ایک شہر کا نام۔  
عابیۃ - خوبصورت و حسین عورت جہ: عوانی  
عابت - منکر بعد سے گذرنے والا جہ: عتی  
عایت - فرج جس کا مہ شہوت کے سبب کھلا ہوا  
ہو جہ: عاتو  
عایتق - آزاد پرانی خراب پرانی اور فراخ  
مشک - کیڑا کا بچہ۔ کندھا۔ کندھے  
اور گردن کا مایہ جہ: عتیق  
نوجوان لڑکی جہ: عتیق  
عایتقۃ - پرانی کمان سرخ رنگ کی جہ: عواتیق  
عایتق - جوان مرد۔ گرہ گرانے والا۔ اہل کردنیوالا  
ایک حال سے دوسرے حال کی طرف  
پھرنے والا۔ سرخ۔ پرانی کمان صاف  
پاکیزہ بنیڈ۔  
عایتقۃ - خوشبو میں لپی ہوئی عورت۔ سرخ پرانی  
کمان جہ: عواتیق -

عائِمہ - رات کے وقت آنے والا۔ دیر کی  
مہمانی۔  
عائِمات - ستارے جو گرد و بخار اور فضا کے  
مکدر ہو جانے کی وجہ سے چھپ جاتیں۔  
عائین - قوی۔ مضبوط۔ طاقت ور جہ: -  
عائین  
عایتہ - آزرده کرنے والا۔ کسی کی بات کی نقل  
کرنے والا۔ جہ: عاتہاء  
دریا (ع) عایتیۃ - بہت تیز اور حد سے گذری ہوئی  
ہوا۔  
عائیس - بلاکت کی جگہ۔ سختی اور مصیبت کی جگہ  
کنواں۔ شکار کرنے کے لئے گڑھا۔  
جہ: عوا - عیشو  
عائیۃ - تباہ و خراب کرنے والا۔ مفسد۔  
جہ: عاتۃ عیشی  
عاج عا جہ - اونٹنی کو ڈانٹنے کا کلمہ۔  
عاج - ہاتھی کے دانت کی بڑی۔ ایک دریائی  
جانور کی پیٹھ کی بڑی۔ کچھرے کی پیٹھ کی  
بڑی۔  
عاجب (ع) عاجب - بڑی تعجب انگیز چیز  
عاجیز - کمزور و ناتواں جہ: - عاجزۃ  
عاجل - بے مہلت۔ جلد۔ دینا۔ شاب۔ فوراً  
جلدی کرنے والا۔  
عاجلۃ - جلد۔ فوراً۔ جلدی کرنے والی۔ جہ: -  
عواچل دینا (د) اکسپریس گاڑی۔  
عاجین - بڑھا جو ضعف کے سبب ہاتھ زمین  
پر ٹیک کر اٹھے۔ اونٹنی جس کے پیٹ  
میں بچہ مسترار نہ پکڑے۔ جہ: -  
عاجین

خون۔ استخاضہ کی رگ۔	عَاجِزَات۔ وسط۔ پنج کا حصہ۔
عَاجِزَات۔ پخت۔ پلیدی۔ پاخانہ۔	عَاجِزَات۔ آدمی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا
عَاجِزَات۔ کھجوروں کی اصلاح کرنے والا انگلستان کا مالی جز۔ عَاجِزَاتِ	عَاجِزَات۔ شمار کرنے والا۔ گننے والا۔
عَاجِزَات۔ ملامت کرنے والا جز۔ عَاجِزَاتِ	عَاجِزَات۔ خو۔ جز۔ عاد۔ عین عادات۔
عَاجِزَات۔ عَاجِزَات۔ م۔ عَاجِزَاتِ	(د) ایام حیف۔
جز۔ عَاجِزَاتِ	عَاجِزَات۔ بہت بھڑانا۔ کذاب
عَاجِزَات۔ بدی۔ فساد۔ داغ۔ نشان۔ جز۔	عَاجِزَاتِ الرَّأْيِ۔ جس کی تدبیر صاحب نہ ہو۔
عَاجِزَاتِ	عَاجِزَات۔ منصف۔ حاکم جو خدا کے حکم کا تابع
عَاجِزَات۔ عیب۔ تنگ۔ رسوائی۔ فضیحت۔	ہو۔ جز۔ عَاجِزَاتِ
گالی۔ جو چیز کہ موجب عیب ہو۔	عَاجِزَات۔ اونٹنی چراگاہ میں چارے پر ایک جگہ
عَاجِزَات۔ عَاجِزَات۔ بہت پانی کی نر (عارب میں	رہنے والی۔ اونٹ ہمیشہ شور مچا
میں تا مبالغہ کی ہے)۔	چرنے والا۔ جز۔ عَاجِزَاتِ
عَاجِزَاتِ (العُزْبِ) العَاجِزَاتِ۔ خالص عربی جو ہلاک ہو	عَاجِزَات۔ ظالم چور۔ سرکش۔ حد سے تجاوز
چکے ہیں۔	کرنے والا۔ دوڑنے والا۔ دُش۔ جز۔
عَاجِزَات۔ مانگی ہوئی چیز۔ مستعار۔	عَاجِزَاتِ۔ عَاجِزَاتِ۔ شیر۔
عَاجِزَات۔ پوشیدہ وغائب۔	عَاجِزَاتِ۔ نادر چیز۔ ہر برائی چیز۔
عَاجِزَات۔ نکلنے والا۔ ایک طرف ہونے والا۔	عَاجِزَاتِ سَمَوَعِل۔ (جو وہ میں مشہور ہے)
کنا رہ کش۔	کے باپ کا نام
عَاجِزَات۔ بیمار اونٹنی۔ شکستہ و آفت رسیدہ	عَاجِزَاتِ۔ دوڑنے والے (گھوڑے یا اونٹ)
آدمی کا رخسار۔ سامنے کا دانت۔ ابر	وا۔ عَاجِزَاتِ
جو آسمان کے کنارے ہر پہاڑ	عَاجِزَاتِ۔ روٹنے والے ایک فوج کے لوگ حملہ
پرودہ وغیرہ جو تم کو آگے دکھائی دے	کرنے والے۔ پیادے۔ بہت دوڑنے
گردن۔ چہرہ کی دونوں طرفیں۔ پانچیں	والے اونٹ وغیرہ۔ ظلم۔ دوری
ٹھڈی دل	روکنے والا کام۔
عَاجِزَاتِ العُزْبِ۔ سالار۔ لشکر۔ سپہ سالار۔ کمانڈر	عَاجِزَات۔ چھپایہ جو پانی اور چارہ چھوڑ دے
انجیف۔	جو پیاس کی شدت کی وجہ سے نکلتے
عَاجِزَاتِ۔ رخسار۔ حاجت۔ حادثہ۔ بیمار و	جز۔ عَاجِزَاتِ
آفت رسیدہ۔ اونٹنی جس کو ذبح کریں۔	عَاجِزَات۔ مدد خواہ مرد۔ پلیدی۔ زخم کا نشان



عَاسِق - چوکیدار - پاسبان - جہ: عَسَس  
 عَسِيس - دم اٹھا کر دوڑنے والی اونٹنی جہ:-  
 عَوَاسِر -  
 عَاسِيف - طاعون کی ماری ہوئی اونٹنی - اونٹنی  
 جو مرنے کے قریب ہو اور اس وجہ سے  
 اس کا سانس پھولا ہوا ہو - جہ:-  
 عَوَاسِيف  
 عَاسِل - شہد توڑنے والا - خوب لچکدار نیزہ -  
 نیک آدمی - جہ: عَسَل بھریا -  
 جہ: عَسَل - عَوَاسِل -  
 عَاسِلَة - عامل کا مؤنث - حَقِيقَة عَاسِلَة شہد کا  
 چھتہ - شہد سے بھرا ہوا - جہ:-  
 عَوَاسِل -  
 عَاسِم - حریص اور لالچی - اہل دیہات پر رنج  
 اور سختی پہنچانے والا جہ:- عَسَم -  
 (مکان) عَاسِم - تنگ جگہ -  
 عَاسِي - کھجور کا درخت - کھجور کی شاخ - سخت  
 و درشت -  
 عَاشِر - رات کے وقت کھانے والا - رات  
 کے وقت قصد کرنے والا جہ: عَاشَاة  
 عَاشِب - سبزہ زار - بجینڈا عَاشِب ترگھاس  
 چرنے والا اونٹ -  
 (اَرْض) عَاشِبَة - زمین جس میں گھاس اور سبزہ  
 بہت ہو - سرسبز زمین -  
 عَاشِر - دسواں - دسواں حصہ لینے والا -  
 جہ: عَشْر -  
 عَاشِرَة - فترآن شریف کی دس آیتوں میں  
 سے دسویں آیت - جہ:- عَوَاشِر -

وانت جو مزے کے عوض میں یعنی سامنے ہو  
 جو چیز پیش آئے - کنارہ - دروازہ  
 کا پشتیبان - تیز زبانی چستی - دلیری  
 کلام وغیرہ پر تدرت - جہ:-  
 عَوَاصِر  
 عَارِف - پہچاننے والا - شتاندہ - مشہور  
 صاحب آدمی - بھلائی کا حکم دینے والا -  
 عَارِفَة - پہچانا ہوا - بھلائی - احسان - جہ:-  
 عَوَاصِر -  
 عَارِم - سخت شدید - یوہ عَارِم نہایت  
 ٹھنڈا دن رُجُل عَارِم پیدا آدمی -  
 صَبِي عَارِم - شوخ اور خوش و خرم  
 لڑکا جہ: عَسَمَة - مہ: عَارِمَة  
 جہ:- عَوَاصِر -  
 عَارِن - شیر - بیشہ - دور - بعید -  
 عَارِنَة - دور - بعید مؤنث جہ:- عَوَارِن  
 عَارِي - وہ شخص جسے بخار چڑھ آئے تب زدہ  
 عَارِي - ننگا برہنہ جہ: عَمْرَاة (تافض یا ئے)  
 عَارِيَة - برہنہ عورت مستعار چیز - مانگی ہوئی چیز  
 جہ:- عَوَارِي  
 عَارِيَة - مانگی ہوئی چیز - جہ: عَوَارِي -  
 عَارِب - دور - پوشیدہ - غائب - پانی اور گھاس  
 جو دور ہو - اونٹ جو رات کو قبیلہ میں  
 نہ آئے - جہ: عَزْبِي  
 عَارِبَة - بیوی - جو رو - اونٹ جہ: عَوَارِب  
 عَارِف - ایک قسم کا باجا بجانے والا - گائے  
 بجانے والا -  
 عَارِم - قصد کرنے والا - آمادہ کرنے والا -  
 جہ:- عَزَمَة

جہ :- عَصَاة -

عاصق - خاردار درخت - چرنے والا اونٹ

عاصق - خوش حال آدمی جس کے لئے زمانہ کے حالات سازگاریوں - جہ :- عَصَاة

عاصدا - سواری کے جانور کی طرت جانے والا -

عاصداة - مجبور کا وہ درخت جو ہنر کے کنارہ پر

اُگتا ہو - جہ :- عَوَا صِدا -

عاصد - ہارنے والا

عاصدہ - جادوگر - فی الفور ہلاک کر دینے والا -

سانپ جہ :- عَوَا صِندہ -

عاصفہ - جادوگر کی - کذب و بتان - فی الفور

ہلاک کر دینے والا سانپ - جہ :-

عَوَا صِندہ -

عاطب - عططر کا شوقین - جہ :- عَطْب

عاطس - پھینکنے والا - صبح - ہرن جو سامنے

سے آئے -

عاطش - پیاسا - جہ :- عِطَاش

عاطف - چادر یعنی ازار - مہربانی کرنے والا -

پھیر دینے والا جہ :- عَطْف

عاطفة - رشتہ داری اور قربت کی محبت -

رد جذبہ - جہ :- عَوَا طِف -

عاطل - بے زیور عورت - جہ :- عَوَا طِل عَقْل

عاطم - ہلاک ہونے والا - جہ :- عَطْم

عاطن - وہ اونٹ جسے ایک مرتبہ پانی پلا کر آرام

پہنچایا جائے تاکہ دوبارہ پانی پنی

سکے - جہ :- عَطَن - عَطَان

عاطنة - اونٹنی جسے ایک مرتبہ پانی پلا کر آرام

پہنچایا جائے تاکہ دوبارہ پانی پیے -

عاطوس - وہ چیز جس سے پھینکیں اُٹیں - ایک

بجڑ - جہ :- عَاشَوَات جرنے کا جھڈ

جہ :- اَعْتَاد -

عاشق - عشق کرنے والا (مذکورہ مؤنث) - جہ :-

عَشَق

عاشقة - عشق کرنے والی - جہ :- عَوَا شِق

عاشم - مقام عالیج میں ایک ریت کا تودہ -

ایک درخت جہ :- عَشْم

عاشوراء - عشا شوسامی - عشورای - عشوراء

مہرم کی دسویں تاریخ -

عاشیة - رات کے وقت چرنے والا اونٹ -

جہ :- عَوَا شِی -

عاص - عوص - (س) (ب) کسی کو پیچیدگی

میں ڈالنا -

عاصب - بہت بھوکا جس نے بھوک کی وجہ سے

پتھر باندھ لیا ہو - خیار آلود افق

سُرخ -

عاصب - پتھر ڈالنے والا - روکنے والا خیل -

مسک جہ :- عَصْرَة مہ - عاصرة

جہ :- عَوَا صِر -

عاصف - مائل اور خمیدہ بھکا ہوا - سہم

عاصف تیر جو نشانے سے ہٹ کر جائے

رمیج (عاصف سخت ہوا - یَوْم

عاصف - تیز ہوا والا دن -

عاصفة - سخت ہوا -

عاصم - بچا ہوا - محفوظ - بچانے والا -

عاصمة - مدینہ منورہ کا لقب (رد) دار السلطنت

را حیدھانی جہ :- عَوَا صِم

عاصی - نافرمان - رگ جس کا خون نہ رُکے

اونٹ کا بچہ جو ماں کا محتاج نہ ہو -

ادھنی جو ایک بار پانی پی کر جا بیٹھے  
اور پھر پانی پر آئے۔ جہ۔ عَوَاقِب  
سردار کا قائم مقام۔ نیک اعمال میں  
اسلاف کا متبع

عَاقِبَتٌ - انجام - نتیجہ - اولاد - نتیجہ پر خود۔

دورا نہ بنی - انجام بیٹی جہ۔ عَوَاقِب

عَاقِدٌ - کنویں کا من - گرہ لگانے والا۔ جہ۔

عَقْدَةٌ

عَاقِدَةٌ - گرہ لگانے والی - جادو گرنی جہ۔

عَوَاقِدَاتٌ

عَاقِسٌ - بائجہ عورت ریت کا اونچا ٹیلہ مرد

بے اولاد۔ ریت جس میں کچھ پیداوار

نہ ہو۔ بے مثل و بے نظیر عورت۔

جہ۔ عَقَسٌ

عَاقٌ - کائیں کاٹنے کی آواز کی نقل

عقل مند - خود مند - دانش مند - دانہ۔

جہ۔ عَقْلٌ - عقل - ہرن۔

مرد کے عصہ کے لوگ جو اس کے وارث

ہوں۔ جیسے باپ دادا اور پوتا پڑوتا

عَاقِلَةٌ - عقل مند عورت - مشاطہ - گلھی چوٹی

کرنے کا پیشہ کرنے والی عورت۔

عَاقِلَةُ الرَّجُلِ - مرد کے وہ اقارب جن پر ریت

یعنی خون بہا تقسیم کیا جاوے۔ داہ

عَاقِلٌ

عَاقُوسٌ - کنگھنا - سبز جھ عَاقُوسٌ زین جس

سے جانور کی پیٹھ نہ ٹھی ہو جائے۔

عَاقُولٌ - دریا کی لہر - ٹیلوہا تالہ۔

ریت کا ٹیلہ - پوشیدہ اور خفا ملط

کام جہ۔ عَوَاقِلٌ

جانور کا نام۔

عَاطُوفٌ - وہ ادھنی کرجب مرے ہوئے بچہ کی کھال

میں گھاس بھکر اس کے سامنے کر دیں

تو وہ اس پر مہربان ہو جائے اور اس کا

دودھ دوہ لیں۔

عَاطِيٌّ - لینے والا جہ۔ عَطَاةٌ

عَاطِبٌ - جنگل اور خشک مقامات میں اترنے

والا۔

عَاطِلٌ - عَاطِلَةٌ - بڈیوں کا اوپر سے دل - رزم

وہل۔

عَاطِظٌ - عَفِظٌ - گوزارنے والا۔

عَافِقٌ - ہر طرف آنے جانے والا۔ بہت آمد و

رفت کرتے والا۔

عَاقِلٌ - جو کبڑے کبڑوں پر چھوٹا کپڑا پہنے۔

عَاقُوسٌ - بڈی - جائے ہلاکت - سختی۔

عَاقِيٌّ - گھاس پانی طلب کرنے والا۔ روزی

چاہنے والا۔ بخشنے والا۔ معاف کرنے والا

مہمان آنے والا جہ۔ عَقَاةٌ نیست

و ناپو کرنے والا۔ ہانڈی میں بچا ہوا

شورہا۔ جہ۔ عَقْفٌ

عَاقِيَّةٌ - صحت - تندرستی - سلامتی - روزی

چاہنے والا جانور۔ درندے جہ۔

عَوَاقِيٌّ

عَاقِيَّةُ اللَّحْمِ - بہت گوشت والی ادھنی۔

عَاقِيَّةُ الْمَاءِ - پانی پر آنے والا۔

عَاقٌ - ماں باپ کو ستانے والا اور ان کا کہنا

نہ ماننے والا اور ان کو ناخوش رکھنے

والا۔ جہ۔ عَقْفَةٌ

عَاقِبٌ - ادھنی جو بچی گھی گھاس کھائے وہ

غائب انبوه - ڈھیر - جھگٹ - جہ -  
عُكُوب -

غائفت - گوشہ نشین - اپنے آپ کو روکنے والا  
جہ - عُكُوف

غاضل - پست قد - منحوس - جہ - عُكَل  
غائکی - پھرنے والا - معتمیم - جہ -  
عُكَاة -

غائلہ (مائلہ) عال و لامال - اس کے پاس کچھ  
نہیں ہے -

غالتہ - سایہ جس کے نیچے بارش سے بچیں -  
شتر مرغ - محتاج لوگ - واہ -

غاشل

غالجب - زہیریت - خاردار درخت کھانے والا  
اونٹ - جہ - عَوَالِجِب

غاشع (شاعری) غالیط - کلام کو آراستہ کرنے والا  
شاعر -

غالیق - خاردار - چارہ کھانے والا اونٹ -  
جہ - عَوَالِيق -

غالیث - چبانے والا - طَعَاهُ غَالِثٌ کھانا  
جو چبانے میں سخت ہو -

غالیہ - دانا - جہ - عَلَاه

غالہ - مخلوق - آسمان کے نیچے کا جہان -  
جہ - غَالِهُون - عَوَالِہ -

غالیی - بن الاقوامی - انٹرنیشنل (د)  
غالین - غلین - ظاہر - واضح - کھلا ہوا

غالیہ - دُہلی تہلی عورت - عورت جو محنت  
ارادے کرے اور کسی کو پورا نہ کرے

شتر مرغ - جہ - عَوَالِیہ  
غالی - بلند - مرکش - دھنکیر - اونچا - جہ -

عَلَاة - عالون -

غالبی الکعب - شریف آدمی -

غالییۃ - نیزہ کی نوک - آئی - بھال کی طرف کا  
آدھا نیزہ - بلند - اونچی - عال کا اونٹ

جہ - عَوَالِی -

غالییۃ السنیۃ - چیز کا بالائی حصہ - چوٹی کی چیز -  
عَاہ - برس - جہ - عَوَام

عَاہ سَتَیۃ - قحط کا سال -

عَامۃ - سوار کا سر جو جنگ میں دور سے نظر آئے  
پگڑی سمیت سر جو دور سے

نظر آئے - چارے وغیرہ کا گٹھا -  
جہ - عَامٌ گھنٹی -

عَامۃ - لکڑیوں کا بیڑہ جس پر بیٹھ کر دریا سے  
پار ہوں - قیامت - جماعت - خلاف

خاصہ - پوری اور تمام چیز جہ - عَوَام  
عَامِد - قصد کرنے والا جہ - عَامِدُون -

مہ - عَامِدَة جہ - عَوَامِد

رکبۃ عَامِدَة - لمبی رات

عَامِر - آباد - زیارت کرنے والا - بچو کا بچہ -  
جہ - عَمَامِس

عَامِرَة - سانپ رکھنے والی عمر لڑ ہوئی ہے  
جہ - عَوَامِر

عَامِق - عقیقے - (ایک مخصوص گھاس یا درخت)  
کھانے والا اونٹ

عَامِل - ماتھے سے کام کرنے والا - ہاتھ کا کاربگر -  
جہ - عَامِلُون - عَمَال - عَمَلَة

مہ - عَامِلَة جہ - عَوَامِل

عَامِلَة - نیزہ کا سینہ جو بھال کے قریب ہے جہ -  
عَوَامِل -

عَامِلِيَّة - کام - ڈیوٹی  
 عَامِب - گراہی میں پھٹنے والا - راستہ سے ہینکا  
 ہوا جو - عَمَّة  
 عَامِي كَيْسَالر تَبَّتْ عَامِي اِيك سال كى  
 تَشْكُكْ كَاس -  
 عَامِي عام - راجح الوقت (د)  
 عَامِيَّة - بہت رونے پینے والی عورت - جو -  
 عَوَامِي -  
 عَات - لمبی رتی پھیلا ہوا بادل -  
 عَائِب - انگر وال -  
 عَائِت لڑکی جو گھر میں دیر تک بے خاندان رہے  
 جو - عَوَائِت -  
 عَائِثَة - عَات کا مؤنث - ہدی - جو - عَوَائِت  
 عَائَة - گدھی - گدھی کے بچوں کا ریوڑ - گورنر کا  
 ریوڑ جو - عَوُون - موئے زما یعنی  
 موئے زیران - پیر -  
 عَائِن - راہ سے پھر جانے والا تاجی بھگڑنے  
 والا جتی کو روک کرنے والا - سرکش جو -  
 عَوُون -  
 عَائِس - لڑکی جو عرصہ تک بے خاندان گھر میں بیٹھی  
 رہے جو - عَوَائِس مرد جس نے عرصہ  
 تک نکاح نہ کیا ہو - خوبصورت مونا تازہ  
 جو - عَائِس - عَوُون -  
 عَائِسَة - خوبصورت موٹی تازی عورت - جو -  
 عَوَائِس -  
 عَائِضَاء - جنگلی جو ہے کا سوراخ -  
 عَائِك - ریت کا ٹیلہ جو سخت ہو گیا ہو - موٹی اور  
 سرخ عورت جو - عَوَائِك  
 عَائِي - مرویدی جو - عَائِيَة م عَائِيَة جو - عَوَائِي

عَاہَة - آفت جو - عَاہَات  
 عَاہِي - دنا کار - زانی جو - عَقَّاس (م)  
 عَاہِيَة - جو - عَوَاہِي  
 عَاہِيل - برطانیہ بادشاہ جو - عَقَّال - عورت  
 جس کا خاندان نہ ہو - عَوَاہِيل -  
 عَاہِن - عاجز درویش - حاضر و مقیم - کابل آدمی  
 کے ہاتھ پاؤں جو - عَوَاہِن  
 عَائِب - جما ہوا دودھ جو گاڑھا ہو گیا ہو - عیب  
 لگانے والا - عیب دار -  
 عَائِث - شیر - بیشہ -  
 عَائِد - واپس آنے والا - بیمار کے دیکھنے کو یا  
 لینے کو آنے والا جو - عَوُوْد - عَوُوْد  
 عَوُوْد -  
 عَائِدَة - عائد کا مؤنث - نیکی عطا بخشش -  
 مہربانی - فائدہ - نفع رد - محصول جو -  
 عَوَائِث -  
 عَائِن - پناہ لینے والا جو - عَوُوْد - کبری وغیرہ  
 جس نے آپکے میں بچ دیا ہو - جو -  
 عَوُوْد عَوُوْد عَوُوْد ان  
 عَائِد - کانا بنا دینے والا - تلف کر دینے والا -  
 آنکھ کا درد - وہ چیز جس سے آنکھ میں  
 درد ہو جائے - جو ریزہ آنکھ میں پڑ  
 جائے نیچے کے پوڑ میں جو ایک پھوٹا  
 سا ابلہ پیدا ہو جائے - تیرا در پتھر  
 وغیرہ جو آگے ادرا اس کا پھینکنے والا -  
 معلوم نہ ہو -  
 عَائِدَة - عَائِدَة عَائِن - جو چیز آنکھوں میں نہ  
 سائے - بہت سی چیز جس کو دیکھ کر  
 آنکھیں خیرہ ہو جائیں -

## ع - ب

عَبَت - (ن) پانی پینا۔ ندی میں منگاکر پانی پینا۔ ڈول کا کنویں میں پانی بھرتے وقت آواز کرنا۔

عَبَتُ الشَّمْسِ - سورج کی روشنی

عَبَتٌ ۱ - سورج کی روشنی (ص) (ف) اسباب درست کرنا۔ لشکر کا سامان تیار کرنا۔ خوشبو ملانا۔ پروا کرنا۔

عَبَتٌ ۲ - بوجھ۔ بھاری سی۔ متاع۔ بوجھ کی بوری یا گون جہ۔ اَعْبَاءٌ -

عَبَتٌ - واسکٹ۔ صدی (د)

عَبَاءٌ - دھاری دار کپل۔ احمق آدمی۔ موٹا اور جھڈا آدمی۔ جہ۔ اَعْبَاءَةٌ -

عَبَاءَةٌ - دھاری دار کپل جہ۔ اَعْبَاءَةٌ - فخر میں مقابلہ کرنا۔ کثرت اور بیشی میں مقابلہ کرنا۔

عَبَابٌ - بڑا تار پانی سے بھرا ہوا۔ پانی کی کثرت ہر چیز کا بالائی حصہ۔

عَبَابٌ بَیْدٌ - آدمیوں کی ٹولیاں۔ متفرق متفرق جماعتیں۔

عَبَادٌ - بندے وہ۔ عِبَادٌ -

عِبَادَةٌ - پرستش۔ بندگی۔ پوجا (ص) پوجنا عبادت کرنا۔

عِبَادِلَہ - حضرت عبداللہ بن عباس و عبد اللہ بن عمر و عبداللہ بن زبیر و عبد اللہ بن عمرو بن العاص و صلی اللہ عنہم۔

(عبداللہ کی جمع)

عَبَلٌ (جبل) عِبَارٌ - مضبوطی۔ اونٹ کی جو ہریشہ مقرر ہے

عَائِزٌ - عُوْزٌ - اَعُوْزٌ - فقیر و محتاج آدمی۔

عَائِيسٌ - اونٹوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنیوالا

عَائِيشٌ - خوش حال آدمی (م) عَائِيشَةٌ -

عَائِيسٌ - بکری جو برسوں کا بھین نہ ہو جہ۔ عُوْصٌ

عَائِيسٌ - عَوْصٌ دیا گیا (ا) م قابل یعنی اُم مقبول) بدلہ۔ عَوْصٌ

عَائِطٌ - اونٹنی اور عورت کہ بائٹھی نہ ہو اور بیوں

حامل بھی نہ ہو۔ جہ۔ عُوْطٌ - عَيْطٌ

عَائِفٌ - فال لینے والا۔ کھانے پینے کی چیز

کو ناپسند کرنے والا۔ تَمَكٌ رکھنے

والا۔

عَائِقٌ - جو دوسروں کو کام نہ کرنے دے اور

کام میں روٹے اٹکائے۔ مالِ طُولٌ

کرنے والا اور جلد کام کو انجام

نہ دینے والا۔ باز رکھنے والا۔ جہ۔

عَوَاقِبٌ - عَائِقٌ کاموں کی۔ مشکل۔ مانع۔ جہ۔

عَوَائِقٌ -

عَائِثٌ - کمانے والا۔ کسب کرنے والا۔ کماؤ۔

عَائِثٌ - جھکا ہوا۔ ترازو۔ غالب۔ درویش و

مفلس۔ نیاز مند۔ عاجز۔ محتاج۔

جہ۔ عَائِثٌ - عَائِثٌ - عَائِثٌ -

عَائِثَةٌ - دشوار۔ خصلت۔ جہ۔ عَوَائِثٌ -

(د) بیوی۔ خاندان۔

عَائِثٌ - تیرنے والا۔

عَائِثٌ - نظر بد لگانے والا۔

عَائِثَةٌ - عائن کاموں کا مال و دولت۔

عَائِثَةٌ - شور و فریاد۔

عَبَد - غصہ سخت کھلی - عار پشمانی - ملامت  
 حرص - انکار مص (س) غصہ کرنا - سخت  
 کھلی ہونا - شرمندہ ہونا - تنگ دغا رکھنا  
 عَبَد - بڑی عزت والا - عزت مند -  
 عَبَدَاة - پوجنے والے - واہ - عباہد -  
 قوت - موٹاپا - زندگی - تنگ دغا - خوشبو  
 پینے کا پتھر -  
 عَبَدَارِي - یعنی عبدالدار کی طرف منسوب -  
 عَبَدِي - ایک قسم کا خرپڑہ (د)  
 عَبَدِيَّة - زندگی - غلامی -  
 عَبَد - (ن) آنسو جاری ہونا (خواب کی) تعبیر بیان  
 کرنا (کلام کی) تفسیر بیان کرنا - غم گین  
 ہونا - گذرنا - پارا کرتا -  
 عَبُو - (ض) پرندہ کو بھڑکانا  
 عَبُو - بے اولاد نمودت - عورت جس کا بچہ مر گیا  
 مجر - تیز چلنے والا بادل - عقاب - آنکھ  
 کی گرمی - ہر چیز کی کمزرت -  
 عَبْرُ الْوَادِي - وادی کنارہ  
 عَبْر - اعتبار - آنکھ کی گرمی -  
 (أَبُو عَبْرَةَ - یہودہ کینے والا - مسخر  
 عَبْر - عَبْرَان - مرد جس کے آنسو جاری ہوں  
 عَبْرَاتِي - یہودیوں کی زبان -  
 عَبْرَةَ - بیان و تفسیر - آنکھ میں ڈبڈبایا ہوا  
 آنسو - رونے کی بجلی - غم - جہ -  
 عَبْرَات - عَبْر - مص (س)  
 آنسو بہانا - غم گین ہونا  
 عَبْرَةَ - آنکھ کی گرمی - بہت چیز - گردہ -  
 عَبْرَةَ الْوَادِي - وادی کا کنارہ -  
 عَبْرَةَ - لعب - نصیحت - جہ - عَبْر

اور ہر زمین میں گزر سکتا ہو -  
 عِبَادَة - (ن) تعبیر بیان کرنا - تشریح کرنا -  
 عَبَّاس - شیر - رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا  
 اسم گرامی -  
 عِبَاء - ہم خواب - ساتھ سونے والا -  
 عِبَا قَرِي - ایک قسم کا فرش -  
 عِبَا قَبِيَّة - بہت ہوشیار دچالاک آدمی - بڑا چور -  
 فسربھی - مکار -  
 عِبَا قَيْس - عِبَا قَيْس - بچی ہوئی چیز - باقی ماندہ -  
 بقیہ  
 عِبَال - ایک قسم کا پہاڑی گلاب کا درخت جس  
 سے لائیں بنائی جاتی ہیں -  
 عِبَالَة - (ك) بٹک اور کامل الخلق ہونا -  
 عِبَالَة - نقل و گرائی -  
 عِبَام - بہت - کافی - زیادہ -  
 عِبَام - عاجز و در ماندہ اور بھاری جسم کا  
 آدمی -  
 عِبَامَاء - بے قوت - اجرت -  
 عِبَا يَة - سخت اور بھاری جسم کا آدمی - ایک  
 قسم کا کیل -  
 عَيْب - اُچھلتا - بہتا پانی -  
 عَيْبَة - ایک درخت - جہ - عَيْب  
 عَيْبَة - (ض) ملانا خلط ملط کرنا -  
 عَيْبَة - (س) منہسی مذاق - کھیل کود کرنا -  
 عَيْبَة - کیسے آدمی جو اپنی بات کا لحاظ نہ  
 رکھے -  
 عَبَس - غلام - خلاف عزت آدمی جہ - عَيْبَة وَن  
 عَيْبَة - آنکھ - عِبَاد - جہ  
 آعَابِد

عَبَّعَة - شکست کھانا۔ بھاگ جانا۔  
عَبَّع - عِبَّاقَة (س) (ب) چٹن۔ مقیم ہونا۔  
حریص ہونا۔

عَبَّعَة - تیل وغیرہ کی چکنائی۔  
عَبَّعَس - ایک مقام اور ایک گاؤں اور ایک  
عورت کا نام

عَبَّعِيَّة - گداز۔ نازک اندام۔ حسین عورت۔  
مص سراب کا چکن۔

عَبَّعِيَّة - سردار قوی اور سخت۔ ہر چیز۔ بہتر کمال  
تر۔ جو چیز حسن و خوبی اور چھلانگی میں  
قائل اور غالب ہو۔ منقش دیا کا ایک  
قسم کا فرش (ظلم عَبَّعِيَّة) (ظلم  
سخت و شدید۔

عَبَّعِيَّة - عبد القیس (قبیلہ) کی طرف منسوب  
عَبَّك - (ن) ایک چیز کو دوسری چیز میں لانا  
عَبَّيل - کونیل۔ جھڑا ہوا پتہ۔ باریک پتہ۔  
وا۔ عِبَّكَة۔

عَبَّيل - ہر بڑی اور موٹی چیز۔ ج۔ عِبَّال  
مہا (م) درخت کے پتے جھاڑنا۔  
تیر میں چوڑا پرکان لگانا۔ رد کرنا (علی)  
درخت کا پت بھر ہونا۔ کونیلوں نکالنا  
(علی) کسی پر بوجھ ڈالنا۔

عَبَّيل - سفید پتھر وغیرہ جو کھر در اور ٹوٹا ہوا  
(صغریٰ) عِبَّلاء - سفید پتھر (آکٹہ عِبَّلاء)  
سخت ٹیلار شجرۃ عِبَّلاء) خوب  
موٹا درخت۔

عَبَّكَة - بڑے ڈیل ڈول کی عورت ج۔  
عَبَّكَات

عَبَّين - (ن) جسم کا پھیلنا ہوا اور کھر در ہونا۔

عَبْرَة - آنسو بہانے والی عورت۔  
عَبْرَة - نازک اندام۔ گوری لڑکی۔

عَبْرَة - نرم و نازک

عَبْرِي - بیری کا درخت۔ کنار بے ساق یعنی  
چھڑ بیری۔

عَبْرِي - عَبْرَانِي - یہودیوں کی قدیم زبان۔  
عَبْرِي - آنسو بہانے والی عورت۔ آنسو بھری  
آنکھ۔ ج۔ عِبَّادِي

عَبَّيس - گوبر وغیرہ جو پتہ پایہ کی دم پر خشک ہو  
جائے مہا (س) چوپایہ کی دم پر  
گوبر وغیرہ کا خشک ہوجانا۔

عَبَّيس - عِبَّوس - (م) مٹہ بگارتا۔ ترش روٹی  
کرتا۔

عَبَّيس - تیر۔ رفتار اوٹنی۔ ج۔ عِبَّاس -  
عَبَّيش - اصلاح۔ درستی۔ حماقت۔ کند ذہنی  
عَبَّيشَة - سستی۔ غفلت۔

عَبَّيط - (م) بے سبب مار ڈالنا۔ پوشیدہ ہونا  
خاک اُڑانا۔ بھاڑ ڈالنا۔ کسی کو بغیر  
مرض وغیرہ کے جوانی میں مار ڈالنا۔  
(علی) جھوٹ گڑھنی (فی) کسی کام میں  
بلا وجہ اور بے خوف کھس جانا۔

مَات قُلَان) عِبَّيطَة - فلاں شخص جوانی اور  
تندرستی کی حالت میں مر گیا۔

عَبَّيطَة - تازگی و تری۔  
عَبَّعَاب - کشادہ خلق کا تو نہ بلا آدمی۔ لمبے قد  
کا سڈول ہاتھ پاؤں کا۔

عَبَّعَب - جوانی کی نزاکت اور تازگی۔ پُرگشت  
جوان۔ ڈھیلا ڈھالا کپڑا۔ بُت خانہ۔  
لبا آدمی۔ پھاڑی بکرا۔



رَامُ عَبِيدٌ - خالی جنگل - ویران جنگل جس میں میترو  
برسا ہو۔

عَبِيدَةٌ - اوجھ کا ہر - ارخانہ - (یعنی اوجھ  
کی خانہ دار تھیل)۔

عَبِيْرٌ - زعفران - ایک خوشبو زعفران ملی ہوئی  
برط اگر وہ بہت پر والا تیر۔

عَبِيْطَةٌ - فربہ اونٹ - تازہ گوشت یا زعفران  
نیا قطع کیا ہوا کپڑا جس :- عَبَاط -

عَبِيْلَةٌ - موٹی تازی عورت جس :- عَبَايِل -

## ع - ت

عَتَّ - (ن) بات کا اعادہ کرنا [سوال  
میں اصرار کرنا - برسرِ نیش کرنا -

عَتَابٌ - غصہ کرنا - ملامت کرنا - ایک دوسرے  
پر غصہ کرنا - ناز کرنا - غصہ پیدا کرنا -

غصہ کو یاد کرنا -

اُمُّ عَتَابٍ - لکڑی کا ٹکڑا -

عَتَابٌ - مَعَاتٌ - کسی کے ساتھ لڑنا -

عَتَادٌ - سامان سفر - جو چیز سفر کے لئے تیار کریں  
برط ایسا لہ - جس :- اَعْتَدُ -

عَتَادَةٌ - عَتَادٌ - (ل) آمادہ ہونا -

عَتَاَسٌ - دلاور و قوی گھوڑا - سخت و خالی مقام  
عَتَاَسٌ - مرد کا کہ تامل -

عَتَاَقٌ - پرانی اور اچھی شراب -

عَتَاَقُ الْقَطِيْرِ - شکاری پرندے -

عَتَاَقُ الْحَيْلِ - اسیل اور عمدہ گھوڑے

عَتَاَقَةٌ - رک پرانا ہونا - دیرینہ ہونا -

عَتَاَلٌ - قسلی - بیگار -

عَتَاَهَةٌ - بے عقل - گمراہی - گمراہ - احمق -

عَبْنٌ - فربہ گدھا - فربہ اونٹ (م) عَبْنَةٌ  
جس :- عَبْنَاتٌ

عَبْنِيْلٌ - برط اور سخت

عَبْنَقَسٌ - بد اخلاق آدمی - لمبے اور نازک جسم کا  
آدمی -

عَبْنَقَسَاءٌ - خوش و خرم - شاداں و فرحان

عَبْنُو - (ن) چہرے کا روشن ہونا - سامان کو  
آراستہ اور ٹھیک کرنا -

عَبُوْدَةٌ - عَبُوْدِيَّةٌ - پرستش بندگی -

عَبُوْسٌ - (ن) پار اترنا - گزرجانا -

عَبُوْسٌ - بکری کا بچہ - جس :- عَبَايِيُو - خندہ نکیا  
ہوا - جس :- عَبِيُو -

رَالْتَقِي (العَبُوْس) - ایک ستارہ کا نام جو جو زار  
کے بعد طلوع ہوتا ہے -

عَبُوْسٌ - مشر بیشہ - ترش رو -

اَيُوْمٌ (عَبُوْسٌ) - سخت دن - روز قیامت -

عَبُوْلٌ - موت

عَبِيْهَسٌ - طویل القامت - بھرے ہوئے جسم کا  
آدمی - ہر چیز لمبی - خوش قامت اور

سڈول - جس :- عَبَايِهَسٌ -

عَبِيْهَسَةٌ - پتلی کھال کی گوری خوبصورت - بندرت  
اور بھرے ہوئے جسم کی اور سڈول ہاتھ

پاؤں کی عورت - جس :- عَبَايِهَسٌ -

عَبِيْهَكَةٌ - چوپایہ کو بیکار چھوڑنا - غصہ کرنا -

عَبِيْبِيٌّ - عورت جس کی اولاد نہ رہے -

عَبِيْبِيَّةٌ - فخر - ناز - نخوت - تکبر -

عَبِيْبِيَّتٌ - کھیل میں بہت انہماک رکھنے والا -

عَبِيْبِيَّةٌ - ہر جنس کے بچے آدمی - جس :-

عَبَايِيَّتٌ -

کھیرا۔ لکڑی۔ تھوڑا سا مشک خالص  
مشک و عنبر کا گلوبند۔

عَٰثِرَٰة - سخت پکڑ مصلحت پکڑنا۔ ظلم کرنا  
سختی کرنا۔

عَٰثِرَٰة - مرغ۔ ایک گھاس جو گرمیوں میں پیدا ہوتی  
ہے۔

عَٰثِرَٰة - پلید۔ بدکار۔ بے باک دلاور۔ سمگار  
سخت و مضبوط جسم کا اونٹ۔

جہ:۔ عَٰثِرَٰة

عَٰثِرَٰة - غصہ و آدمی۔ بیہوشی پریت۔ بلا۔  
سختی۔ سخت۔ سرکش۔ جہ:۔ عَٰثِرَٰة

عَٰثِرَٰة - پلید و بدکار۔ بے باک دلاور و کار گزار  
ظالم و سمگار۔ مضبوط اونٹ۔ جہ:۔

عَٰثِرَٰة

عَٰثِرَٰة - (ض) احم دینا۔ دہرا کرنا۔  
عَٰثِرَٰة - بکری کا ترچہ۔ بہت مضبوط و قوی  
پورے بدن کا لمبا ترچہ کا آدمی۔

جہ:۔ عَٰثِرَٰة -  
عَٰثِرَٰة - پرانی اور اچھی شراب مصلحت (ض) اکاٹ  
کھانا۔ اچھا کرنا۔ اچھا ہونا (ض) ک

اچھا ہونا۔ (قسم کا) واجب ہونا۔  
آگے نکل جانا۔ چیز کا پرانا ہونا۔

عَٰثِرَٰة - جو مزدی۔ شرافت۔ بزرگی جمال  
آزادی۔

عَٰثِرَٰة - عَٰثِرَٰة - عَٰثِرَٰة (ض) آزاد ہونا  
معزز ہونا۔ جوان ہونا۔

عَٰثِرَٰة - کاندھے۔ واہ۔ عَٰثِرَٰة - ایک درخت  
جس سے کمان بناتے ہیں۔ قدامت  
پرانا پن۔ آزادی۔

عَٰثِرَٰة - آدمی کے بال بچے اور خاص رشتہ دار  
اور گھر کے لوگ۔ رشتے تاتے دلے  
دانتوں کی چمک صفائی اور آبداری۔

عَٰثِرَٰة - کم عقلی۔ گراہی۔ گراہ و بے عقل (ض)  
آدمی۔

عَٰثِرَٰة - غصہ۔ ملامت۔ لنگڑا پن مصلحت (ض)  
(ض) غصہ کرنا۔ ملامت کرنا۔ لنگڑا کر  
چلنا۔ کسی کے دروازے پر قدم رکھنا۔

عَٰثِرَٰة - برا کام۔ ناپسند کام۔ سختی۔ تباہی  
خرابی۔

عَٰثِرَٰة - غصہ و۔ مغلوب الغضب۔  
عَٰثِرَٰة - (ض) غصہ کرنا۔ ملامت کرنا۔ آدمی  
کا ایک پاؤں اٹھا کر کودنا۔ چوپایہ  
کا تین ٹانگوں سے چلنا۔

عَٰثِرَٰة - لکڑ بگڑ۔  
عَٰثِرَٰة - چوکھٹ۔ بیوی۔ سختی۔ ناپسند کام  
ناپسند کام۔ سپرھی کا ایک پایہ  
جہ:۔ عَٰثِرَٰة - عَٰثِرَٰة

عَٰثِرَٰة - خوشنودی۔ رضامندی۔  
عَٰثِرَٰة - قوی گھوڑا۔ آمادہ رفتار گھوڑا۔  
عَٰثِرَٰة - سامان سفر۔ ترشہ۔ بڑا پیالہ۔  
جہ:۔ عَٰثِرَٰة - عَٰثِرَٰة

عَٰثِرَٰة - (ض) نیزہ وغیرہ کا مضبوط ہونا۔  
نیزہ کا بنا اور لچکنا۔ ذکر استادہ کرنا۔

عَٰثِرَٰة - اصل ذکر۔ بکری جسے جاہلیت میں بتوں  
کے لئے رجب میں ذبح کرتے تھے  
بیہودہ کہنا۔

عَٰثِرَٰة - (ض) نیزہ وغیرہ کا مضبوط ہونا۔  
نیزہ کا بنا اور لچکنا۔

عَٰثِرَٰة - آدمی کے بال بچے اور خاص رشتہ دار  
اور گھر کے لوگ۔ رشتے تاتے دلے  
دانتوں کی چمک صفائی اور آبداری۔

عَٰثِرَٰة - آدمی کے بال بچے اور خاص رشتہ دار  
اور گھر کے لوگ۔ رشتے تاتے دلے  
دانتوں کی چمک صفائی اور آبداری۔

عَٰثِرَٰة - آدمی کے بال بچے اور خاص رشتہ دار  
اور گھر کے لوگ۔ رشتے تاتے دلے  
دانتوں کی چمک صفائی اور آبداری۔

عَٰثِرَٰة - آدمی کے بال بچے اور خاص رشتہ دار  
اور گھر کے لوگ۔ رشتے تاتے دلے  
دانتوں کی چمک صفائی اور آبداری۔

عَٰثِرَٰة - آدمی کے بال بچے اور خاص رشتہ دار  
اور گھر کے لوگ۔ رشتے تاتے دلے  
دانتوں کی چمک صفائی اور آبداری۔

عَٰثِرَٰة - آدمی کے بال بچے اور خاص رشتہ دار  
اور گھر کے لوگ۔ رشتے تاتے دلے  
دانتوں کی چمک صفائی اور آبداری۔

عَتُوْد - بیری کا درخت - ایک بڑا ریگستانی درخت  
 بھیر کا ایک برس کا بچہ -  
 جہ :- اَعْتَدَۃٌ -  
 عَتُوْس - عورت کی فرج کہ غلبہ شہوت سے کھلی ہوئی  
 ہو - جہ :- عَتُوْسٌ -  
 عَتُوْس - (ض) ذکر کو استادہ کرنا -  
 عَتُوْك - (ض) [رفی] اکیلا پھرنا - سفر کرنا -  
 عَتُوْل - وہ شخص جو عورتوں سے مستغنی نہ ہو  
 سکے - مرن -  
 عَتُوْن - مصنیوط - قوی - جہ :- عَتْنٌ -  
 عَتْنہ - بے عقلی - دل کا لاف سے جاتا رہنا -  
 عَتْنہ - عَتْنہ - عَتْنہ - (ض) [رفی] حرص کرنا -  
 سبک عقل ہونا (مبجولاً) عقل کا جاتا رہنا  
 مدہوش ہوجانا -  
 عَتْنِی - منکبیر حد سے گذرنے والا - کمینہ - سرکش  
 جہ :- اَعْتَاءٌ -  
 عَتْنِی - (ض) بڑائی جتنا - حد سے گذرنا - تکبر  
 کرنا -  
 عَتْنِی - (ن) بڑی عمر کا ہونا - کبڑا ہوجانا -  
 عَتْنِی - عَتْنُو - (ن) تکبر کرنا - سرکشی کرنا - حد سے  
 گذر جانا -  
 عَتْبِب - ایک ہلاک شدہ قبیلہ کا نام -  
 (کَزْبِیَّةٌ) عَتْبِیَّة - بے خیر و بے سودستی -  
 عَتْبِد - حاضر و آمادہ -  
 عَتْبِدَاۃٌ - عطر دان جہ :- عَتْبِد -  
 عَتْبِیْرَة - قربانی کی بکری جس کو جاہلیت میں بتوں  
 کے نام پر ماہِ رجب میں ذبح کرتے تھے  
 جہ :- عَتْبِیْر -  
 عَتْبِیْق - آزاد - پانی چرنی - شراب - دودھ وغیرہ

عَتَكْ - زمانہ  
 عَتَكْ - عَتُوْك - (ض) کنگلی سے (گمان کا) سُرخ  
 ہونا (دودھ کا) خوب ترش ہونا - پھانی  
 پر ہاتھ رکھنا - محافظت کرنا - معزز ہونا  
 (الی) خواہش کرنا -  
 عَتَكْ - (ض) بڑائی میں حملہ کرنا - مزے کاٹنے  
 کا ارادہ کرنا - نافرمانی کرنا -  
 عَتَل - بدی کی طرف جلدی کرنے والا آدمی -  
 عَتَل - بہت کھانے والا - سرکش - بدتر - بیٹھ بھڑیا  
 سخت تکلیف دینے والا  
 عَتَل - (ض) ن) سختی سے کھینچنا -  
 عَتَل - (س) (الی) سرعت کرنا - دوڑنا -  
 عَتَلہ - زمین سے اٹھاڑا ہوا بڑا ڈھیلہ -  
 کدال - برما - سوٹا - ڈنڈا - جہ :-  
 عَتَل -  
 عَتْم - زیمون دشتی -  
 عَتْم - (ض) دیر لگانا (تھوڑی سی رات کا)  
 گذرنا - اٹھاڑنا - اونٹنیوں وغیرہ کا  
 عشاء کے وقت دو با جانا زعمنا کسی  
 کلام کا ارادہ کر کے پھر رک رہنا -  
 عَتْمَة - شفق کے چھب جانے کے بعد سے  
 تہائی رات کے سبک نماز عشاء کا وقت  
 رات کا اندھیرا - وہ دودھ جو عشاء  
 کے وقت دو با جائے - شام کے وقت  
 چراگاہ سے اونٹوں کی واپسی - بقیہ  
 دودھ جو تھن میں اُتر آئے -  
 عَتْن - (ض) ن) زور سے دھکیلنا -  
 عَتُوَادَة - ٹھگنا آدمی -  
 عَتُوْب - جس پر غصہ کرنے کا اثر نہ ہو -

بل گر پڑتا ریز کے بل گرنا۔ ٹھوکر کھاکر  
گرنا۔

عُثْرٌ - عقاب بھوٹ بولنے والا۔ بھوٹا۔  
لسانی۔

عُثْرَةٌ - ٹھوکر۔ ج۔ عَثْرَاتٌ  
عَثْرِيٌّ - درخت یا کھیت جس کو بارش سیراب

کرے۔ بے پروا آدمی  
عَثْرُكٌ - کھجور کے درخت کے ریشے۔

عُثْرُولٌ - عَثْرُكَالٌ - کھجور کا ٹھکا۔ بڑی شاخ۔ پھوٹی  
شاخ۔ ج۔ عَثْرٌ كَيْلٌ - عَثْرٌ كَيْلٌ -

عَثْمٌ - غیر ہموار۔ بندھی ہوئی پٹی (مص) (س)  
ٹوٹی پٹی کا کچی سے غیر ہموار بندھا ہوا

ہونا۔ ٹوٹی پٹی پر غیر ہموار کچی باز ہونا  
قرشدان کو خراب سینا۔ زخم پر

بغیر ابھا ہونے کو رشت چڑھ جانا۔  
عُثْمَانٌ - اڑدے کا بچہ۔ سانپ۔ سانپ کا بچہ۔

سرخاب کا چوزہ خوبصورت قلم (یہ لفظ  
بغیر منفرد ہے) خلیفہ سوم کا نام نامی۔

عَثْمَثْمٌ - شیر۔ لہیا اور مضبوط اونٹ (م)  
عَثْمَثْمَةٌ

عَثْنٌ - چھوٹا سابت۔ دھواں۔ ج۔  
أَعَثْنَانٌ

عَثْنٌ - کھانا جس میں دھویں کی بو ہو۔  
عَثْنٌ - عَثْنَانٌ عَثْنُونٌ - (ن) آگ میں سے دھواں

نکلنا (رق) چڑھنا۔  
عَثْنُونٌ - ڈاڑھی۔ بارش۔ ابر۔ ج۔

عَثَانِيْنٌ -  
عَثْوٌ - (ن) تباہ کرنا۔ فساد اٹھانا۔

عَثْوَاءٌ - لکڑی۔ بڑھیا عورت۔

میں کاسب سے عمدہ حصہ۔ بزرگ  
آزاد کیا ہوا۔ چھٹا ہوا۔ پسندیدہ۔

پرائی شراب۔ امیل ٹھوٹا۔ ج۔  
عَثْقٌ - عَثْقَاءٌ -

الْبَيْتُ الْعَيْتِيُّ - پرائی گھر یعنی خانہ کعبہ۔  
عَيْتِيَّةٌ - آذان کی ہوئی لونڈی۔ پرائی شراب۔

ج۔ عَثَائِقٌ -  
عَيْتِيكٌ - سخت گرم دن۔

عَيْتِيْلٌ - مردور۔ خادم۔ ج۔ عَثْلَاءٌ

## ع - ت

عُتٌ - مفسد۔ خراب و تباہ کرنے والا۔  
عُتٌ - (ن) اصرار کرنا۔ کیرٹے کا ادن کو کھا

لینا۔ سانپ وغیرہ کا کاٹ کھانا۔  
عُشَارٌ - جائے ہلاکت۔

عُشَانٌ - غبار۔ دھواں۔ ج۔ عَوْاشِنٌ -  
عُشَّةٌ - ادن کا کھانے والا کیرٹا۔ ج۔ عُشْتٌ

سانپ جو قلم میں بھوک کی وجہ سے  
دوسرے سانپ کو کھا جائے۔ ج۔

عُشَاتٌ -  
عُشَجَلٌ - بڑے پیٹ والا۔ بڑی مشک۔ بڑا

برتن۔ ج۔ عُشَايِلٌ  
عُشَلَةٌ - بڑھا پے یا بیماری کے سبب نشست و

برخواست مشکل ہونا۔  
عُثْرٌ - درخت یا کھیت جو بارش سے سیراب

ہو مص (ن) بھوٹ بولنا۔ رگ کا  
پھینا۔

عُثْرٌ عَثْوَسٌ - (ن) علیٰ مطلع ہونا۔ غیر داہن ہونا  
عُثْرٌ عَثْرِيٌّ - (ن) ص۔ س۔ ک۔ مر کے

عَنْوَة - بالوں کی ٹ زلف دراز جہ۔ عُنْی  
عَنْوَقْل - کینز اور لکے ہوئے گوشت والا آدمی۔  
عَنْوَل - احمق۔ کھجور کا درخت جس کا تنہ موٹا ہو  
جہ۔ عُنْثَل  
عَنْوَل - کینز اور سست آدمی۔ ٹھٹھ جس کے  
سر اور جسم پر بہت بال ہوں۔

## ع - ج

عَجَج - عَجَجِج (ن ص س) آواز بلند کرنا۔  
سواری کے فن میں خوب ماہر ہونا (ہوا کا)  
تیز چلنا اور گرد و غبار اڑانا۔ گرجنا۔  
عَجَاب - بڑا انوکھا کام۔  
عَجَاب - بہت ہی انوکھا کام۔ حد سے زیادہ  
انوکھا کام۔

عَجَاج - کینے۔ وا۔ عَجَاجَة غبار۔ دھواں  
بے وقوف آدمی۔

عَجَاج - شور مچانے والا  
عَجَاجَة - اونٹوں کا بڑا گد۔ گرد و غبار۔  
عَجَارِف - عَجَارِيف - سختیاں۔ بارش کی شدت  
چھوٹا سا تیکہ جس کو عورتیں مٹا یا  
دکھانے کے لئے سرین پر باندھتی  
ہیں۔

عَجَاف - کھجور کی ایک قسم۔

عَجَاف - اندران کا چھل۔ زماہ۔ کمزور اور  
ڈیلے پیلے (مذکر مونث) وا۔ عَجَافِ  
(مذکر) عَجَافَاء (مؤنث)

عَجَالَة - ماحضہ جو چیز سردست میسر آئے۔  
اور بھٹ پٹ حاضر کی جائے۔

عَجَالِد - عَجَالِد - جما ہوا دودھ۔ دودھ جو وہی

بن جائے۔

رَعَجَان - گردن۔ سرسین۔ ٹھوڑھی کا گڑھا۔  
خصیصہ اور ڈبر کا بیج جہ۔ عَجَجَة  
عَجَجَن -

رَعَجَان - بے وقوف۔ احمق۔

رَعَجَاهِن - وہ شخص جس کا نسب خالص نہ ہو۔

نکاح کا دلیل۔ ہاورچی جہ۔ عَجَاجَة

عَجَاجَة - مشاطہ عورت جو دھن ادا اس کے اہل

کے درمیان کد خدائی کے معاملہ میں تھامد  
ہو۔

عَجَب - دم کی جڑ۔ ہر چیز کا پھلا حصہ۔ جہ۔

عَجُوب -

عَجُوب - خود بینی۔ ناز۔ تکبر و غرور جو عورتوں

کے ساتھ بات چیت کرنے کو پسند

کرے جہ۔ عَجَاب

عَجَب - انوکھا کام۔ اچھٹھا۔ رضامندی۔

عَجَبٌ - عَجَابٌ - عَجَبٌ - عَجَاب

بہت تعجب۔

عَجَب - رس (تعجب کرنا۔ آنے والی چیز کو

نہ پہچاننا۔

عَجَبَاء - عورت جو اپنی خوبصورتی یا بدصورتی

سے تعجب میں ڈالے۔ وا۔

عَجَب - جہ۔ عَجَب -

عَجْر - عَجْرَان - (رض) گردن موٹا۔ خوف

سے گزر جانا۔ کسی پر تلوار سونٹنا۔

گدھے کا کودنا۔ قاضی کا کسی کو

ایک کام سے روکتا۔ گرد گڑانا

عَجْبَر - (س) موٹا ہونا۔ تو نہیلا ہونا۔

عَجْرَة - رگ۔ پٹھے اور لکڑی وغیرہ کی گڑ۔

عَبْء - منقصد - دشوار و مشکل کام  
 ج۱: عَجَب -  
 عَجَب - گنگے ہوئے بدن کا مضبوط آدمی -  
 ج۲: عَجَاب -  
 عَجَابَة - سویا دوسویا پچاس سے سو تک  
 اونٹ - مصلی دوڑنا - جلدی کرنا -  
 عَجْمَاوَف - بڑھیا - چست اور سبک رفتار اونٹنی  
 لمبے پاؤں والی تیز رد چلیونٹی -  
 عَجَبَز - تلوار کا قبضہ - ایک بیماری ہے  
 کرب نوروں کے سرین میں ہوتی  
 ہے -  
 عَجَبَان - عَجَبَان - (ص) کمرور و ناتواں  
 ہوجانا - ایک ایسی چیز کو ترک کر دینا  
 جس کا کرنا ضروری تھا - سستی کرنا -  
 عَجَبَز - عَجَبَز - (س) اکال سر میں ہونا -  
 عَجَبَز - سرین - ہر چیز کی بڑ (مذکر و مؤنث)  
 ج۱: اَجْبَاز -  
 عَجَبَزَاء - بڑے سرین کی عورت - ج۱: عَجَبَز -  
 عَجَبَانَة - پکھلا پچ جس کے بعد کوئی بچہ نہ ہو -  
 (مذکر و مؤنث واحد و جمع)  
 عَجَس - عَجَس - عَجَس - مکان کا قبضہ - رات کا  
 ایک حصہ -  
 عَجَس - (ص) پنجے سے پکڑنا (ص) روک دینا -  
 باز رکھنا -  
 عَجَسَة - رات کا ایک حصہ - وقت  
 عَجَسَمَة - بکاپن - جلدی مصل اور بکاپن ہونا  
 جلدی کرنا -  
 عَجَسَا ج - شور مچانے والا - میل و عمر رسیدہ گھوڑا  
 عَجَبَة - اونٹ کا بڑ بڑانا - شور مچانا - حرف

تی کو حیم سے بدل کر یونٹا -  
 عَجَف (س) لاغر ہونا - ٹوپلا ہونا -  
 عَجَف - عَجَف - (ص) [ع] باز رکھنا - روکنا  
 [ع] تیار داری اہستہ تھال کے  
 ساتھ کرنا -  
 عَجَف - (ن) ص) ابرو بار بنانا - دبا کرنا -  
 [ع] جدا ہونا اور دُور ہونا -  
 عَجَفَاء - بہت دینی - ج۱: عَجَف  
 (قوم) عَجَفِي - ڈیلے لوگ -  
 عَجَل - بچھڑا - گرسالہ - ج۱: عَجُول -  
 عَجَلَة - عَجَال -  
 عَجَل - ماحضر -  
 عَجَل - جلد - فرد آشتاب و سریع -  
 عَجَل - گارا - کالی کیچڑ - سڑی ہوئی -  
 عَجَل - عَجَلَة - (س) دوڑنا - جلدی کرنا  
 عَجَلَان - تیز رفتار - ج۱: عَجَالِي  
 عَجَال -  
 عَجَلَة - گاڑی - بھکڑا - کنویں کی گھرنی -  
 گارا - کالا گارا - (د) گاڑی کا پہیہ -  
 ج۱: اَجْجَال - عَجَال -  
 عَجَلَة - بچھیا تیل کی مشک - کنویں کی گھرنی  
 توشہ دان - ج۱: عَجَل - عَجَال  
 عَجَلَة - مضبوط و قوی اونٹنی ج۱: عَجَالِي  
 عَجَلِي - جلد باز عورت (قوم عَجَلِي) جلد  
 تیر پھینکے والی کمان ج۱: عَجَالِي  
 عَجْم - چھوٹے چھوٹے اونٹ (مذکر و مؤنث)  
 ج۱: عَجْم - عَجْم - عقل مند  
 عَجْم - عَجْم - (ن) کسی چیز میں دانت گھسانا  
 دانت سے چیز کی سختی و نرمی معلوم کرنا

عَجْوَة - وہ دودھ جو تیسرے پیر کو پلا جا جائے۔

عَجْوَج - چوڑی بڑیل والا آدمی۔

عَجْوَن - بہت بڑی عمر کی عورت۔ بڑھیا بڑی

بی۔ بڑھا۔ جہ۔ عَجَز - بچاؤ

عَجْوَن - (ک۔ ن) بہت بڑھیا ہونا۔

عَجْوَس - بھاری بادل۔ لگاتار برسنے والی

بارش۔

عَجْوَف - (ن) باوجود اشتہا کے کھانا چھوڑ

دینا۔

عَجْوَل - عورت جس کا بچہ مر گیا ہو۔ اونٹنی جس

کا بچہ کم ہو گیا ہو۔ جلد باز۔ خوب

دوڑنے والا۔ سرگرداں عورت

یا اونٹنی۔ جہ۔ عَجَل - عَجَائِل

موت۔ صبح کا ناشتہ۔

عَجْوَل - گوسالہ۔ بھڑا۔ م۔ عَجْوَلَة - جہ۔

عَجَائِل -

عَجْوَمَة - سفر کی طاقت رکھنے والی اونٹنی۔

عَجِي - بچہ جسے دیر میں دودھ ملا ہو۔ بچہ جس

نے پیر کے دودھ سے تربت پانی

پیا۔ جہ۔ عَجَائِيَا (م) عَجِيَة -

عَجِيْب - اونٹنی چیر۔ اونٹ کا کام۔ جہ۔ عَجَائِيَا

عَجِيْبَة - اونٹ کا کام۔ عجب اکیز کام۔ جہ۔

عَجَائِيَا -

عَجِيَة - خشک کھال جسے پکا کر کھاتے ہیں۔

جہ۔ عَجِي -

عَجِيْز - نام درج عورت پر قادر نہ ہو۔ سرین۔

خاص عورت کے سرین۔ جہ۔ عَجَائِيْز

عَجِيْس - زجر جفتی نہ کر سکے۔ جھوٹا درخت جو

تلیق قبول نہ کرے۔

آزائش کرنا۔ حرفوں پر نقطے لگانا۔

عَجْم - غیر عرب۔

عَجْم - کھجور کی گھٹلی۔ انگور وغیرہ کا بیج۔ وا۔

عَجْمَة - عرب کے علاوہ دوسرے ممالک

کے باشندے۔ وا۔ عَجْمِي -

عَجْمَاء - چوپایہ۔ گونگی عورت جو بات نہ کر سکے

(آعجم کا مؤنث) رگیستان بے درخت

دن کی ناز۔ جہ۔ عَجْم -

عَجْمَة - سخت پتھر کی چٹان۔ ایک گھٹلی یا ایک

بیج۔ پانچ برس تک کے اونٹ کے

بچے۔ جہ۔ عَجْمَات

عَجْمَة - ریت کا ٹیلہ۔ ریت کی کثرت۔ عجیت

یعنی عربی نہ ہونا۔

عَجْمِي - جو صاف بات نہ کر سکے۔ عجم کا رہنے

والا۔ اگر پیر فصیح ہو۔ جہ۔

عَجْم -

عَجْن (ض۔ ن) گوندھنا۔ خمیر کرنا (اونٹنی

کا چلتے ہوئے زمین پر ماتھ مارنا۔

عَجِيْن { خصیہ اور دیر کے مابین حصہ پر

مارنا۔

عَجَن - (س) (اونٹ کا) فرہ ہونا (اونٹنی کے)

فرج اور دیر کے مابین حصہ کا سوج

جانا۔

عَجِن - موٹا اور شہرہ اونٹ۔

عَجُو - (ن) اونٹ کا بڑبڑانا۔ بدخو ہونا

کھولنا۔ سمیٹنا اور ٹیڑھا کرنا۔

عَجْوَة - ایک قسم کی مدینہ منورہ کی کھجور

میں دن ۱۴ ماں کا بچہ کو دیر میں دودھ

دینا۔

عَدَاد - ہمسرہ - برابر کا - بخشش - دیوانگی -  
 کا اثر - موت کا وقت - کمان کی آواز  
 مصا آپس میں برابر باٹ لینا - ایک  
 ایک سال کے بعد سانپ کے  
 کاٹے ہوئے کی تکلیف کا نمود کرنا  
 جنگ میں ایک کا دوسرے کے  
 مقابلہ میں آنا -

عَدَار - ملاح -

عَدَات - تھوڑا -

عَدَال - دو چیزوں میں سے ایک کے اختیار  
 کرنے میں متردد ہونا - کسی کے ساتھ  
 کجا وہ میں سوار ہونا -

عَدَاآل - انصاف - راستی (ك) گواہی کے  
 لائق ہونا -

عَدَامَة - عُدْم (ك) الحق ہو جانا -  
 عَدَامِس - بہت سی خشک گھاس جو ایک جگہ جمع  
 ہو -

عَدَان - دریا کا کنارہ - ہزاروں ندی کا کنارہ - سات  
 سال کا عرصہ -

عَدَانُ الشَّمْسِ - چیز کا عمدہ زمانہ - چیز کا بہتر و  
 شروع -

عَدَاآت - آدمیوں کا گروہ - جہ - عَدَاآت  
 عَدَاوَة - دشمنی -

عَدَا لِس - قوی - مضبوط - گٹھے ہوئے جسم والا -  
 بد اخلاق - بد صورت - جہ -

عَدَا لِس -

عَدَا بِي - اچھی عادت والا - خوش اخلاق آدمی  
 بے عیب -

عَدَاة - گروہ -

عَجِيل - سرعت کرنے والا - جہ - عَجَالِي -  
 عَجَال -

عَجِيل - صبح کا ناشتہ - ماحضہ جو کسی کے لئے  
 بھٹ پٹ تیار کیا جائے -

عَجِيْلَة - دوڑ - جھپٹ -  
 عَجِيْلِي - دوڑ - جھپٹ -

عَجِيْن - گندھا ہوا اٹا - مخنت - جہ -  
 عَجْن -

عَجِيْنَة - مخنت - سست مرد یا عورت -  
 احمق - گروہ -

## ع - د

عَدَا - (ن) شمار کرنا - گننا -  
 عَدَا - پانی جو منقطع نہ ہو جیسے چشمہ کا پانی -

عَدَا - کثرت - پرانا کنواں - ہمسرہ - حریت  
 جہ - اَعْدَاء

عَدَا - سوا فعل ہے اپنے مابعد کو زبردیتا  
 ہے - اور اس پر ما بھی داخل ہوتا  
 ہے -

عَدَاآء - بہت تیز دوڑنے والا -  
 عَدَاآء - ایک ڈنگ - لمبائی چوڑائی -

(مفاعلہ) دو شنگوں کو ایک دوسرے  
 کے بعد مار لینا -

عَدَاآء - دوری - ہر وہ چیز جو کسی چیز سے روک  
 دے -

عَدَاآئِم - مدینہ منورہ کی ایک قسم کی کھجوریں جو  
 فصل کے آخر میں پھل لاتی ہیں -

عَدَاآب - باریک ریت (واحد و جمع)  
 عَدَاآبَة - بچہ دانی - دیر نافت کی جڑ -



عِدَات رات کا ایک حصہ۔ آدمیوں کے گروہ  
ہر چیز کی اصل۔ دس سے پچاس تک  
آدمیوں کا گروہ۔

عِدَات غس و خاشاک۔ تھوڑا سا چارہ  
وغیرہ۔

عِدَات ہر چیز کی جڑ۔ اصل بنیاد۔ جہ۔

عِدَات ہر چیز کا ٹکڑا۔ انگلیا۔ کپڑے کا پلو۔  
جہ۔ عِدَات دس سے پچاس تک  
کا گروہ۔

عِدَات (س) ایک کام کو اپنی غالب رائے پر  
کرنا۔ عدم یقین کے ساتھ حوض کے  
کناروں میں ہتھ ڈالنا جیسے کوئی  
کسی چیز کو تلاش کرتا ہے۔

عِدَات (ت) جمع کرنا۔ اپنی غالب رائے پر  
کام کرنا جس کا یقین نہ ہو۔

عِدَات لوہے کا کاٹنا جس سے کنوئیں میں  
سے ڈول نکالتے ہیں۔ جہ۔

عِدَات (ض) تھوڑے سے اون کو کوٹ کر  
ڈھننا۔

عِدَات انصاف ضد جور۔ گواہی کے لائق  
کہ لوگوں کے نزدیک ٹھیک چال چلن  
رکھتا ہو۔ منصف (مذکر و مؤنث)  
واحد و جمع مساوی۔ برابر۔ مانند  
مثل۔ ہم جنس ہو یا غیر ہم جنس۔  
جہ۔ اَعْدَال پیمانہ۔ بدلہ۔  
خریند۔

عِدَات (ض) خمد دار اور کج ہونا۔

عِدَات کِتَاب کتابوں کا ٹکڑا۔

عِدَات الْمَرْءَةِ عورت کے حقیق کے دن یا طہر  
کے دن۔ خاندان کے مرنے کے بعد عورت  
کے سوگ کی مدت۔ طلاق کے بعد گھر  
میں بیٹھنے کی مدت۔

عِدَات ساز و سامان۔ آمدگی۔ تیاری۔ جہ۔

عِدَات (ض) وعدہ کرنا۔

عِدَات عادت کی نرمی

عِدَات شمار۔ شمار کیا ہوا۔ کسی کی عمر کے سال  
جو شمار کئے جائیں۔ جہ۔ اَعْدَاد

عِدَات مدت کے بعد سانپ کے کاٹے ہوئے  
کی تکلیف کا عود کر آنا۔

عِدَات (س) بہت پانی والا ہونا۔

عِدَات دلیری۔ زور کی بارش۔

عِدَات ہلکا اور تیز رو۔

عِدَات (ض) خدمت کرنا۔ چہرانا۔ بہت  
پامال کرنا۔ کوشش کرنا۔ سوچنا۔

(مجبوراً) چپک یا سرخ بادہ ہوجانا

عِدَات عِدَاتَسَان۔ عِدَاتَس۔ عِدَاتَس۔

(ض) ارقی پھینا۔ چلنا۔

عِدَاتَس مسور۔ وا۔ عِدَاتَسَةُ

عِدَاتَس مسور کا ایک دائرہ۔ سرخ دائرہ جو

بدن پر نکلتا ہے۔ ایک قسم کا دباؤ

آئینہ۔

عِدَاتَس شستابی۔ جلدی مص چلنے میں جلدی

کرنا۔

عِدَات تھوڑی بخشش۔ چوپاری کی تھوڑی خرچہ

ہر چیز تھوڑی سی مص (ض) کھانا۔

ہوتا۔  
 عَدَن - (رض) کھا ڈوانا - کھلاڑی وغیرہ سے  
 کاٹنا - اکھاڑنا۔  
 عَدَوٌ - دشمن (واحد و جمع مذکر مؤنث)۔  
 ج: - اَعْدَاءٌ جمع - اَعَادٌ  
 عَدُوٌ - عَدُوٌّ - عَدَوَانٌ - عَدَائِيٌّ (ن)  
 دوڑتا دوڑے کا ارادہ کرنا۔  
 عَدَاوٌ - عَدَاوَانٌ - سرکشی - حد سے تجاوز۔  
 مص (ن) حد سے تجاوز کرنا۔  
 عَدُوٌّ - عَدُوٌّ - عَدَاءٌ - عَدَوَانٌ - عَدَاوِيٌّ -  
 (علی) (ن) کسی پر ظلم کرنا حد سے گزر جانا  
 عَدَاوٌ - چیز کی لمبائی اور چوڑائی - چیز کی جسامت  
 کی حدود - چھوٹا پتھر - جس سے کوئی  
 چیز ڈھکی جائے - ج: -  
 عَدَاءٌ -  
 عَدَاوَاءٌ - سخت زمین خشک جگہ کی دوری وہ  
 جگہ کہ بیٹھنے والا وہاں بے آرام  
 رہے۔  
 عَدَاوَاءٌ الشَّغْل - شغل کے مواقع۔  
 عَدَاوَانٌ - بے محاشا دور - مص (ن) دوڑنا۔  
 عَدَاوَانٌ - صریح ظلم - زیادتی۔  
 عَدَاوِبٌ - بہت ریت۔  
 عَدَاوَةٌ - عَدَاوَةٌ - بلند مقام - دادی کا کانا  
 ج: - عَدَاءٌ -  
 عَدَاوَةٌ - دشمن عورت۔  
 عَدَاوُسٌ - دلیر و بہادر عورت۔  
 عَدَاوُسٌ السُّورِيٌّ - جورات میں سفر کرنے پر قوی و  
 مضبوط ہو۔  
 عَدَاوِفٌ - بہت چکھنے والا - چوپایہ کا چارہ۔

رک جانا (ن) مانند مشابہ کرنا - برابر  
 کرنا (ب) شرک کرنا (بین) دو  
 چیزوں میں سے ایک کے اختیار کرنے  
 میں مترادف ہونا (ع) اعراض کرنا۔  
 (الی) کسی کی طرف پھرنا۔  
 عَدَالٌ - عَدَاوَةٌ - (رض) انصاف کرنا۔  
 ہم وزن کرنا - سیدھا کرنا - برابر  
 کرنا - کسی کے برابر آنا - کسی کے  
 ہمراہ سوار ہونا - کسی کو کسی کے برابر  
 اور مشابہ کرنا۔  
 عَدَالٌ - مانند و ہمسر - وزن اور مقدار میں مانند  
 و مثل - ج: - اَعْدَالٌ - عَدَاوُلٌ  
 عَدَالٌ - دو گھڑیوں کی برابری۔  
 عَدَالَةٌ - منصف عورت۔  
 عَدَالَةٌ - گواہی کی لیاقت رکھنے والے منصف  
 لوگ - وا: - عَادِلٌ  
 عَدَالَةٌ - گواہی کی لیاقت رکھنے والا۔  
 عَدَالِيَّةٌ - حکمہ - عدالت (د)  
 عَدَاوٌ - نیستی - درویشی - مص (س) کم کرنا۔  
 عَدَاوٌ - درویشی۔  
 عَدَاوٌ - درویشی و محتاج۔  
 عَدَاوَاءٌ - زمین ویران - بکری جس کے تمام  
 جسم میں صرف سر سفید ہو - ج: -  
 عَدَاوٌ -  
 عَدَاوُلٌ - دیرینہ - پرانا - زرگدھ۔  
 عَدَاوِيٌّ - انار - کسٹ (د)  
 عَدَنٌ - ہمیشگی - مداومت (رض) (ن) اقامت  
 کرنا - ایک جگہ میں ہمیشہ رہنا - لازم  
 پکڑنا - کھجور کے درخت کا دراز

## ع - ذ

عَدَاب - شکنجہ - تکلیف - دکھ - درد -

جہزہ - اَعْدَابِيَّة -

عَدَابِيَّة - عَدَابِيَّة بچہ دانی -

عَدَاآة - اچھی زمین پانی سے دور جس کی آب و ہوا اچھی ہو اور اس میں شوریّت نہ ہو۔ جہزہ۔ عَدَا اَوَات

عَدَاار - حیا - شرم - رخسار - ڈاڑھی کا وہ

حصہ جو کان کے مقابل ہے۔ کسی

تقریب کا کھانا - چٹیل سخت میدان

جہزہ۔ عَدَا ما ملک عرب کی زمین جو

عراق سے متصل ہے۔

اَحْلِيْعُ، اَلْعَدَاار - خود سر چوپایہ جس کی ڈھائی

ٹوٹ گئی ہو اور بے قابو ہو گیا ہو۔

عَدَا اَصْنَتِ النَّصْلِ - پیکان کے دونوں کنارے

پھل کے تیز پہلو۔

عَدَا اَصْنَتِ النَّصْلِ - زہر قاتل۔

عَدَا اَصْر - شہر - مضبوط دقوی الجبہ اونٹ (م)

عَدَا اَصْرَة -

عَدَا اَل - بہت ملامت کرنے والا - نصیحت

کرنے والا۔

عَدَا اَلَة - سرین - مقعد - بہت - ملامت کرنے والا

(مذکورہ مؤنث)

عَدَا اَه - متہ سے بہت کاٹنے والا - بہت

ملامت کرنے والا۔

عَدَا اَوَة - (لٹ) (گجرات) پاکیزہ ہونا - اچھی آب

ہوادالا ہوتا۔

عَدَاب - تنکا - ڈورا جس سے ترازو اٹھائی

جہزہ۔ عَدَا ف

عَدَاوِي - کشتیمان - طاح

عَدَاوَم - محتاج - مفلس جس کے پاس کچھ نہ ہو۔

عَدَاوِي - بیماری جو ایک سے دوسرے کو تک جاتی

عَدَاوِي - خرابی و فساد۔

عَدَاوِي - اگے دوڑنے والے - وہ پیدل فوج

جو دھاوا کرتی ہے اور آگے بڑھ

کر جنگ کرتی ہے - لشکر جو محمد

کے لئے دوڑ رہا ہو۔

عَدَاوِي - کنارہ - جہزہ - اَعْدَا اء - دوڑنے

والے - مسافر لوگ - دشمن لوگ۔

عَدَاوِي - دشمن (اسم جمع)

عَدَاوِي - عَدَاوَان - (علی) چوری کرنا

عَدَاوِيَّة - قبیلہ - پشتہ - ٹیلا۔

عَدَاوِيْد - شمار گنتی - سہسر - کمان کی آواز۔

مثل و مشابہ

عَدَاوِيْدُ الْقَوْم - قوم میں شمار کیا ہوا یعنی قوم

میں کا۔

عَدَاوِيْدُ الشَّتِيْم - شمار میں دوسری شے کے

برابر۔

عَدَاوِيْدَاة - حصّہ - نصیبہ - شمار کی ہوئی - جہزہ۔

عَدَاوِيْدَاة

عَدَاوِيْل - مانند - ہم وزن - سہسر - برابر کا۔

جہزہ۔ عَدَاوَاء -

عَدَاوِيْم - احمق و دیوانہ اس لئے کہ عقل کو نہیں

رکھتا، محتاج و مفلس - جہزہ۔

عَدَاوَاء

عَدَاوِيْتِيَّة - ڈول کی جڑ کی کھال کا ٹکڑا - جہزہ۔

جہزہ - عَدَاوِيْتِيْن

جاتی ہے۔ درخت کی شاخیں۔  
 عامر کا غملا۔ داہ۔ عَدَابِیۃ  
 عَدَاب - بیٹھا۔ ہلکا اور خوشگوار پانی خوش گوار  
 لذیذ و شیریں اور زود مضمہ کھانا۔  
 مص (ن) پیاس کی شدت سے  
 کھانا نہ کھانا۔ رکن۔ روکنا۔ کسی چیز  
 کو چھوڑ دینا۔  
 عَدَاب - کائی دار پانی۔  
 عَدَابِیۃ - کائی۔ ایک درخت جس کے کھاتے  
 سے اونٹ مر جاتا ہے۔  
 عَدَابِیۃ - کائی۔ خس و خاشاک۔ بھس  
 پھٹان۔  
 عَدَابِیۃ - کائی۔ بگڑی کا شملہ۔ درخت کی شاخ  
 زبان کی تیزی جہ۔ عَدَاب  
 عَدَابِیۃ - کریم الاخلاق۔ خوش خوادمی۔  
 عَدَاب جہ۔ پینا۔ (ن)  
 عَدَاب - (ن) بیت عیب دار اور گنہگار  
 ہونا۔ ختنہ کرنا۔  
 عَدَاب - بہانہ۔ جہ۔ آعَدَا اس نعمتی علیہ  
 کنواری پن۔ دوشیزگی  
 عَدَابِیۃ - معذرت۔ بہانہ۔ دلیل جو معذرت خواہی کے لئے  
 پیش کی جائے مص (رض) بہانہ کرنا۔ تیل  
 کرنا۔ معذور رکھنا۔ ختنہ کرنا  
 عَدَاۃ - کنواری۔ بوجہ کی سیخ وغیرہ جس سے کسی  
 امر کا اقرار حاصل کرنے کے لئے تکلیف  
 دیں۔ بن بندھا موتی۔ درنا سفتہ جہ۔  
 عَدَاۃ - عَدَاۃ  
 عَدَاۃ - بالوں کی لٹ گھوڑے کی پیشانی یا  
 چوٹی یا ایال کے بال۔ ختنہ کا علف

جو کاٹ دیا جاتا ہے۔ عورت کی فرج  
 کے درمیان کا اُبھار۔ کنواری پن۔  
 نشان۔ گلے کی دکھن۔ جہ۔  
 عَدَاۃ۔ ازالہ بکارت۔  
 ۱) اَبُو عَدَاة - کنواری پن زائل کرنے والا مرد۔  
 عَدَاة - عذر خواہی۔  
 عَدَاة - پلیدی۔ گھر کے سامنے کا صحن۔  
 نشست گاہ۔ چوپال۔  
 عَدَاۃ - (رض) تھوڑا کھانا۔  
 عَدَاۃ - کھجور کا درخت۔ پھلا ہوا۔ جہ۔  
 آعَدَاۃ - عَدَاۃ - ایک قسم کی مدینہ  
 منورہ کی کھجور مص (رض) کھجور کی  
 شاخوں کو کاٹنا۔  
 عَدَاۃ - کھجور کا خوشہ۔ انگور کا خوشہ۔  
 کچھا۔ جہ۔ آعَدَاۃ - عَدَاۃ  
 نعمتی جس میں اور بہت سی نعمتیاں ہوں  
 عَدَاۃ - عقل مند آدمی۔ ہر شیار۔ تیز زبان  
 طرار۔ طیب عَدَاۃ تیز و تند۔ بو۔  
 خوشبو۔  
 عَدَاۃ - زبان دراز عورت۔  
 عَدَاۃ - اون وغیرہ کی ایک علامت جو بکری  
 پر لگائی جاتی ہے اور اس کے رنگ  
 کے مخالفت ہوتی ہے۔  
 عَدَاۃ - (رض) علامت کرنا۔  
 (آیۃ) عَدَاۃ - خوب گرم دن۔  
 عَدَاۃ - بلامت  
 عَدَاۃ - بہت بلامت کرنے والا۔  
 عَدَاۃ - پڑ کرنا۔ بھرتا۔ اچھی غذا  
 دینا۔

عَدُوْتُق - بکا پھلکا - چالاک تیز قدم لڑکا - جہ۔  
 عَدَا اَبِيْق -  
 عَدُوْد - (ن) ادا سے کاٹنے - ملامت کرنا  
 زور سے کھانا - [عین] دفع  
 کرنا۔  
 عَدُوْد - (ن) اشہر کی آب و ہوا کا اچھا  
 ہونا۔

عَدُوْب - بندھا ہوا - جو پایہ جو پانی اور چارہ  
 نہ کھائے - جو شخص شدت  
 تشنگی سے نہ کھائے - وہ کہ اس  
 کے اور آسمان کے درمیان کوئی  
 چیز حاصل نہ ہو۔

## ع - س

عَدُوْب - بندھا ہوا - جو پایہ جو پانی اور چارہ  
 نہ کھائے - جو شخص شدت  
 تشنگی سے نہ کھائے - وہ کہ اس  
 کے اور آسمان کے درمیان کوئی  
 چیز حاصل نہ ہو۔

عَدُوْبِيَّة - (لک) پانی کا پاکیزہ ہونا۔  
 عَدُوْدِي - بڑے پیٹ والا گدھا - بد اخلاق و  
 سنگ دل آدمی۔

عَدُوْف - خوب کھانے والا - مزے چکھنے والا  
 جو پایہ کا چارہ۔

عَدُوْل - بہت ملامت کرنے والا۔  
 عَدُوْم - بہت مزے کاٹنے والا - بہت ملامت  
 کرنے والا - جہ۔ عَدُوْم -

عَدُوْمِي - کھیت جو مینہ کے پانی سے سیراب  
 ہو - وہ مقام جہاں کی زمین شورہ  
 ہو - جہ۔ اَعْدَاء

عَدُوْمِي - کھیت جو مینہ کے پانی سے سیراب  
 ہو - وہ مقام جہاں کی زمین شورہ  
 ہو - جہ۔ اَعْدَاء

عَدُوْمِي - کھیت جو مینہ کے پانی سے سیراب  
 ہو - وہ مقام جہاں کی زمین شورہ  
 ہو - جہ۔ اَعْدَاء

عَدُوْمِي - کھیت جو مینہ کے پانی سے سیراب  
 ہو - وہ مقام جہاں کی زمین شورہ  
 ہو - جہ۔ اَعْدَاء

عَدُوْمِي - کھیت جو مینہ کے پانی سے سیراب  
 ہو - وہ مقام جہاں کی زمین شورہ  
 ہو - جہ۔ اَعْدَاء

عَدُوْمِي - کھیت جو مینہ کے پانی سے سیراب  
 ہو - وہ مقام جہاں کی زمین شورہ  
 ہو - جہ۔ اَعْدَاء

عَدُوْمِي - کھیت جو مینہ کے پانی سے سیراب  
 ہو - وہ مقام جہاں کی زمین شورہ  
 ہو - جہ۔ اَعْدَاء

عَدُوْمِي - کھیت جو مینہ کے پانی سے سیراب  
 ہو - وہ مقام جہاں کی زمین شورہ  
 ہو - جہ۔ اَعْدَاء

عَدُوْمِي - کھیت جو مینہ کے پانی سے سیراب  
 ہو - وہ مقام جہاں کی زمین شورہ  
 ہو - جہ۔ اَعْدَاء

عَدُوْمِي - کھیت جو مینہ کے پانی سے سیراب  
 ہو - وہ مقام جہاں کی زمین شورہ  
 ہو - جہ۔ اَعْدَاء

عَدُوْمِي - کھیت جو مینہ کے پانی سے سیراب  
 ہو - وہ مقام جہاں کی زمین شورہ  
 ہو - جہ۔ اَعْدَاء

عَمَّارِج - چودھری ہوتا۔  
عرب کے چند ریگستان جن میں راستہ  
نہیں ہے۔  
عَمَّاق - گوشت دار بڑی۔ صاف پانی۔ کثیر  
بارش۔

عَمَّاق - دریا کا کنارہ۔ پانی کا کنارہ۔ پہاڑ  
کی حد اور اس کا کنارہ۔ کان کا  
گھیرا۔ ہر کے آگے کا صحن۔ جہ:  
اعْمَقَاتَ - عَمَّقَ - عرب کی وہ  
سرزمین جو طول میں عبادان سے  
موصول تک اور عرض میں قادسیہ  
سے حلوان تک ہے۔

عَمَّاقُ الْعَيْبَتِ - گھاس جو بارش کے بعد آگے  
عَمَّاقَان - کوڑا اور بھرہ۔  
عَمَّاقَاتَ - صاف پانی۔ بہت بارش۔  
عَمَّاقِيبَ - پہاڑ کے ناکے اور دشوار گزار  
راستے۔

طَبِيبًا لِعَمَّاقِيبَ - ایک نقطہ دار پرندہ۔  
عَمَّاقِيبَ الْأَمُوْنِيَّ - امور عظیمہ و دشوار۔  
(اہل) عَمَّاقِيبَةَ - اونٹ جو بچی ہوئی گھاس  
کھائیں۔

عَمَّاقِيبِلَ - سختیاں۔ دشواریاں۔  
عَمَّاقِيبَ - بڑی جس پر سے گوشت چھڑا لیا گیا  
ہو۔ درخت جس کی پھال اتر گئی ہو  
شوخ۔ بد خوئی۔ رنجش۔ اذیت  
خوشی و سرور مص (ن۔ ک۔ س)  
سخت ہونا۔ شوخ ہونا (علی) ناکرنا  
مرگشتہ ہونا۔ تباہ ہونا۔

عَمَّاقِيبِيسَ - لشکر کی کثرت اور تیزی و سختی۔

عَمَّاد - لمبی اور سخت گھاس۔ ایک خاص  
گھاس۔

عَمَّادَةَ - منجھنق سے چھڑا۔ ایک حربی آلہ۔  
عَمَّادَةَ - مادہ ٹیڑھی حال۔  
عَمَّادِيسَ - بڑیوں کے جوڑ۔

عَمَّاسَ - سختی۔ بندی۔ سرداری۔ چیز کی  
اصل۔ عادت کی برائی۔ خون کا بدلہ  
خون۔ بچہ جو جلد دودھ چھوڑ دے  
ایک خوش بودار پھول۔ زرگس  
صحرانی۔

عَمَّاسَاتَ - رطکی جو جلد دودھ چھوڑ دے۔  
بد خوئی۔ سرداری۔ سختی۔ اصل۔

عَمَّادِہ - عَمَّادِہ - عَمَّادِہ - شیر۔  
عَمَّادِئِيلَ - وہ لوگ جو چوری میں متفق اور ہم  
مشرب ہوں۔

عَمَّاسَ - رستی جس سے اونٹ کی گردن اس  
کے بازو سے باندھتے ہیں۔ جہ۔  
عَمَّاسَاتَ -

عَمَّاسَ - ابر جس میں گرج اور جیلی ہو۔ لچکدار  
عَمَّاسِمَ - شمشیر۔ لچکدار۔ نیزہ۔  
شیر۔

عَمَّاصِنَ - کنارہ۔ مص (مقاعلہ) سامنے آنا  
پھس جانا۔ ایک طرف ہو جانا۔  
کنارے کنارے چلنا

عَمَّاصِنَ - چوڑا۔ تحفہ۔  
عَمَّاصِنَةَ - چوڑی۔ غلہ وغیرہ جو باہر سے لایا  
جائے۔

عَمَّاصِنَاتَ - کاہن۔ طبیب۔  
عَمَّاصِنَاتَ - چودھری (مص دن) (علی)

عمران - اونٹ کی نیکل - چوپایہ کی ایک بیماری  
 سینک - میخ - مص (ن) روائی  
 لوطا - نرم ہونا -  
 عمرانیۃ - پانی کی طعمیانی - پانی کی کثرت -  
 عمر اہل - پر سے بدن کا کھوٹا -  
 (جمل) عمر آہن - عمدہ اونٹ -  
 عمر اھیسل - بن سری - جماعت -  
 عمر اھیم - موٹا اونٹنی - شیر -  
 عمر ب - خوشی - شادمانی -  
 عمر ب - سوکھی (بھی) گھاس  
 عمر ب - عرب کا آدمی عرب کے شہروں کا رہنے  
 والا -  
 عمر ب - صاف بہت سا پانی - دجلہ عرب  
 تباہ حال مرد -  
 عمر ب - (س) خوش ہونا - سوچ جانا - زخمی  
 ہونا - نشان پائی رہنا - خراب ہوجانا  
 بہت پانی والا ہونا -  
 عمر ب و عاریبۃ - خالص عرب -  
 عمر ب و عمر بۃ و عمر بۃ - عمر بۃت - عرب  
 خالص -  
 عمر باض - سخت - قوی - مضبوط آدمی یا اونٹ  
 قد آور چوڑے سینہ کا - شیر ببر -  
 جہ - عمر ازمینص  
 عمر بان - بیعانہ  
 عمر بۃ - نہر جس کا پانی بہت تیز چلے سانس  
 (د) گاڑی -  
 عمر بۃ - عرب خالص - بہت ہنسنے والی عورت  
 عمدہ جو خراب ہو گیا ہو بہت  
 پانی کا کنواں -

عمر صبح - موٹا تازہ کتا - جہ - عمر ایبج  
 عمر بچی - کوچ میں - گاڑی بان (د)  
 عمر بڈا - سانپ - سخت زہیں - جہ -  
 عمر آرید -  
 عمر بڈا - ہر چیز سخت - عادت زسان -  
 عمر بڈا - بد خلقی و جنگ جوئی مص بد خلقی کرنا  
 جنگ جوئی کرنا -  
 عمر یس - آخر شب میں اترنے کے لئے زم  
 زمین کا بلند و ہموار ٹیلا - جہ -  
 عمر ایس -  
 عمر بوون - عمر بوون - عمر بان - بیعانہ -  
 جہ - عمر ایبن -  
 عمر بے - سپید جو اور اس کا خوشہ - عرب  
 کی طرف منسوب - عرب کا باشندہ -  
 جہ - عمر ب -  
 عمر ب و عمر بۃ - جس کا لہری ہونا ظاہر ہو -  
 عمر بۃ - عرب کی بولی - نکرتی - کامنٹ -  
 عمر ب - روائی کی سختی - بری عادت - لڑکی  
 جس کا دودھ جلد چھڑا دیا جائے -  
 عمر ب - بکری کی مینگن - آدمی کی پلیدی گناہ  
 وہ شخص جو قوم کی برائی کا سبب  
 ہو بخس - چھوٹی عمر کی  
 لڑکی -  
 عمر ت - (ن) سخت ہونا - چکنا - چمکنا -  
 (ناک) رگڑ دینا -  
 عمر تم - نکرتی - ناک کی جڑ - ناک اور ہونٹ  
 کے بیچ کا حصہ - جہ -  
 عمر آیمہ  
 عمر تن - ایک گھاس جس سے چرے کو دباغت

دی جاتی ہے۔  
 عَمْرَات - (ن) اکھاڑنا۔ ملنا۔ اُکھڑنا۔  
 عَمْرَج - اونٹوں کا گلہ۔ جہ۔ آعَمْرَج۔  
 عَمْرُوَج۔  
 عَمْرَج - اونٹ جس کے پیشاب کی دھار ٹیر پھی  
 پڑے  
 عَمْرَج - (س) آفتاب کا عسروب ہونا۔  
 عَمْرَج - (غیر منصرف) لکڑ بگڑ کا اسمِ علم  
 عَمْرَجَان - شکر کے پین کی چال۔ رفتار لنگ۔  
 عَمْرَجَة - توقف۔ میلان۔  
 عَمْرَجَلَة - گھوڑوں کا گلہ۔ بکریوں کا ریوڑ۔ پیادہ  
 چلنے والوں کا گروہ۔  
 عَمْرَجَنْتَة - خون میں رنگ دینا۔ زعفران لتیرنا  
 خضاب کرنا۔ کھجور کے پٹھے سے  
 مارنا۔  
 عَمْرَجُوْد - کھجور کا ٹیر پٹھا۔ انگور جو ابھی چنے  
 کی برابر ہو۔ جہ۔ عَمْرَجُوْبِيْد۔  
 عَمْرَجُوْف - موٹی تازی مضبوط اونٹنی۔ جہ۔  
 عَمْرَجُوْف - عَمْرَجُوْف - سخت اور مضبوط جسم کی اونٹنی۔  
 جہ۔ عَمْرَجُوْبِيْد۔  
 عَمْرَجُوْن - کھجور کا پٹھا یا سوکھا ہوا پٹھا کہ ٹیر پٹھا  
 ہو گیا ہو یا پٹھے کی جڑ یا کھجور کے  
 پٹھے کی لکڑی بغیر پتے کے جہ۔  
 عَمْرَجُوْن۔  
 عَمْرَد - (س) جھگانا۔ سنا رہنا۔  
 عَمْرَد - سخت اور ٹھوس۔ ٹھہرا ہوا کھڑا  
 ہوا۔ گدھا گردن کی جڑ۔  
 عَمْرَدَام - شاخ جس میں پٹھے ہوں۔

بروی شاخ جس پر پھوٹی پھوٹی شاخیں  
 ہوں۔ جہ۔ عَمْرَدَام۔  
 عَمْرَدَام - گردن۔ ہر وہ چیز جو موٹی اور پرگشت  
 ہو۔ جہ۔ عَمْرَدَام۔  
 عَمْرَدَامَة - کھدر اپن۔ سختی۔  
 عَمْرَدَز - کولن کا پھونپان۔ کولن کی کمی مص  
 (س) کولن کا پھونپانا۔  
 عَمْرَس - (ن) منقبض اور زچ ہونا (صن)  
 ماست و سر ز نش کرنا سخت ہونا۔  
 عَمْرَزَال - آدمیوں کا گروہ۔ درخت کی شاخ  
 بچان۔  
 عَمْرَسَاب - درخت و سخت۔ قوی و توانا۔ جہ  
 عَمْرَسَاب۔  
 عَمْرَسَام - سخت اور گول چیز۔  
 عَمْرَزَم - پرانا ساپ۔ جہ۔ عَمْرَزَم۔  
 عَمْرَس - (ن) خوش و حسرم بنا دینا [پھر جاتا  
 عَمْرَس - خاندان والی عورت۔ سہاگن۔ بیوی  
 والا مرد۔ شیر۔ جہ۔ آعَمْرَس۔  
 (س) عَمْرَس - نیولا۔  
 عَمْرَس - (مؤنث) شادی کی تقریب شادی  
 کی دعوت۔ جہ۔ آعَمْرَس۔ عَمْرَسَات  
 مص (ن) جماع کرنا۔  
 عَمْرَس - (س) امگیر کرنا۔ بیخود ہونا (صن)  
 دہشت کھانا [عقلی] روک رکھنا۔  
 (ب) مانوس ہونا۔ لگ جانا۔  
 عَمْرَسِي - پریشان۔ شیر۔ ڈرنے والا۔  
 عَمْرَسِي - تحت۔ بادشاہ کا تخت۔ مرتبہ  
 اور عورت۔ بچت۔ سائبان۔ خیمہ۔  
 حق سبحانہ و تعالیٰ کا تخت۔ جہ۔



عمر صی گزارنا - بچانا - بن بیمار ہوئے مر  
جاتا (س) بکری کا گھاس کی افراط  
سے منسرب ہوجانا - پیش آنا -

عمر ص - پہاڑ کی جڑ - کنارہ - طرف - ندی -  
اور دریا کا وسط - بزرگ و شریف  
آدمی - قصد - بہت گردن کی دونوں  
جانیں - عوام الناس - گوشہ چشم -  
جہ :- عی ص

عی ص - اتمام - ہر عضو جس سے پسینہ آئے  
آدمی کے بدن کی بدبو یا خوشبو -

آبرودار عزت جس کی حفاظت کی  
جاوے - نسل و خاندان جو باعث  
فخر ہو - طبیعت - نیک عادت -

شکر - جھاڑ - پلوی - طرف - گرد و لوح  
بڑا ایر - ہڈی دل - جہ :- اع ص

عی ص - بیماری - نقصان - شکر - مال غنیمت  
حرص - عارضی چیز - مص (س) بے خبری  
میں آپہنچنا کسی کے عشق میں بلا ارادہ

پھنس جانا - بہت موٹا اور بڑا گوشت  
ہونا - آفت زدہ ہونا (ل) نمودار  
ہونا - ظاہر ہونا -

عی ص - گوشہ چشم - کنارہ -  
عی ص - عی ص - راک (ل) چوڑا ہونا -

عی ص - قصد - قوت - بہت - وہ شخص جس  
کو ہر کوئی برا کہنے لے -

عی ص - سرکشی - کن آنکھیوں کی نظر -  
عی ص - وہ شخص جو زمین پر نہ جم سکے - سرکشی  
اور چلنے میں شوقی کرنے والا اونٹ

(م) عمر صیبتہ

عمر ش - عمر ش - قوم کا سردار محل نیازہ  
پرند کا گھونسلا - کنویں کے اوپر کی کڑی  
پاؤں کی پٹیٹھ - مص (ض) - چھپر  
بنانا - ٹانڈ بستانا - متیر ہونا - گھر  
بنانا - [ب] مقیم ہونا -

عمر ش - (س) سرکشند و متیر ہونا [عن] پھر  
جانا اعلیٰ قوی ہونا -

عمر ش - گردن کی جانب میں یا گردن  
کی جڑ میں گوشت کا لمبا ٹکڑا بڑے  
سینے کی موٹی ادنیٰ - مکہ معطرہ -

جہ :- عی شتہ - عمر آتش  
عمر ص - (ض) گاتار بجلی کا چمکنا اور بادل کا  
گر جبا مضطرب ہونا -

عمر ص - (س) بجلی کا چمکنا - خوشش اور نشان  
ہونا - گھاس اور گھر میں نمی آجانی -

عی ص - ہٹھے کا بنا ہوا کوڑا - لسمہ - کجاوہ  
کی مسج - جہ :- عی صیف

عی ص - گھروں کے درمیان کا صحن - آنگن -  
رطائی کا میدان - جہ :- عی اص -

عی ص - عی ص - عی ص - شہیر -  
عی ص - کینہ - ناکارہ - ناقابل -

عی ص - چوڑائی - سامان - سونے چاندی کے  
سوا ہر چیز - جہ :- عی ص -

سراچی - وادی - میدان - بادل -  
بہت دارادہ - گاؤں - جہ :- اع ص

مص (ض) ظاہر ہونا - ظاہر کرنا -  
کنارہ پر پہنچنا - مشک وغیرہ بھرنا -

بکری کا بیمار ہو کر مرجانا - عرض کرنا -

عربی - ایک قسم کا کپڑا گھر۔  
 عربیہ - بیباکی یعنی سرکشی۔  
 عربی ط - (ن) پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ غیبت کرنا  
 عربی طسہ - کیسو سہوتا۔ کنارہ کش ہونا۔ مطیع و  
 ذلیل ہونا۔  
 عربی عثر - سرو کا درخت جو ہمیشہ سبز رہتا ہے۔  
 عربی ف - خوشبو۔ بدبو مٹانے (حق) گھوڑے  
 کی ایال کے بال کاٹنا۔ بدلہ دینا۔  
 [ل] صبر اختیار کرنا [ل] ب [ا] قرار  
 کرتا۔  
 عربی ف - صبر۔ بچانے میں دیر۔ دیر میں  
 بچانا۔  
 عربی ف - بچانا ہوا۔ نیکی۔ بھلائی۔ جو انمولی  
 سخاوت۔ موج۔ بچان۔ اقرار۔  
 گھوڑے کی ایال۔ مرغ کی سسی۔ بندہ  
 جگہ۔ جہ۔ عربی ف - آعرب اف -  
 پے در پے۔ پیہم۔ لگاتار۔  
 عربی ف - (س) بہت خوش بو مکانا۔  
 عربی فاء - لکڑی بگڑا۔ چھنکار مارنے والا اونٹ  
 جہ۔ عربی ف  
 عربی فات - مکہ معظمہ سے بارہ کوس پر ایک مقام  
 جہاں نیم ذوالحجہ کو حاجی ٹھرتے ہیں۔  
 عربی فاص - کوڑا ٹیپی۔ پید۔ ڈوڑھ جہ۔ عربی فیض  
 عربی فان - عربی فان - (ض) بچان لینا  
 نادانی کے بعد جانا۔  
 عربی فان - عربی فان - بڑا ڈنڈا۔ ایک چھوٹا سا کپڑا  
 عربی فہ - ہوا۔ بھیل کا زخم۔ سوال۔  
 عربی فہ - شناخت بچان۔  
 عربی فہ - بلند جگہ۔ دو چیزوں کے درمیان

حد فاصل۔ جہ۔ عربی ف  
 عربی فہ - ذی الحجہ کے مہینہ کا نواں دن۔  
 عربی فہج - ایک درخت کا نام۔ دا۔ عربی فہجہ  
 جہ۔ عربی اف جہ۔  
 عربی فہیس - سخت اور موٹا اونٹ یا عورت۔  
 عربی ق - چوڑی ہوتی ہڈی۔ پگڑی کا کٹا ہڈی۔  
 جہ۔ عربی ق ہاؤں کو لگا ہوا راستہ  
 مص (ن) ہڈی کے اوپر کا گوشت  
 کھانا (ق) چنانچہ (مجموعاً) ڈبلا ہوا جانا۔  
 کم گوشت ہونا۔  
 عربی ق - رگ۔ ریشے۔ جڑ کے ریشے۔ جہ۔  
 عربی ق - آعرب اق  
 عربی ق - پسینہ خاک۔ دودھ۔ قطار۔  
 ردائے منقہ۔ اسخیر۔ چٹائی۔ کھجور کے  
 پتوں کی زنجیل۔ گھوڑوں کا ایک دوسرے  
 کے پیچھے چلنا۔  
 عربی القہین - ماتھے کا پسینہ۔ سکران موت  
 کی شدت اور طلب حلال کی مشقت  
 سے کنایہ ہے مص (س) است  
 ہونا۔ پسینہ آنا۔  
 عربی ق - دودھ جس کا مزہ متغیر ہو گیا ہو۔  
 عربی ق - جس کو پسینہ بہت آئے۔  
 عربی قات - صاف پانی۔ جڑ۔  
 عربی قال - کج بد آدمی جو سیدھی راہ نہ آئے۔  
 عربی قبتہ - کوچیں کاٹنا۔ کوچیں پکڑ کر اٹھانا۔  
 حیل کرنا۔  
 عربی قہ - پہاڑی راستہ۔  
 عربی قہ - جڑ۔ بنیاد۔ اصل مال نہ۔ عربی قات  
 عربی قہ -

عَرَقَة - لکڑی جو دو دستوں کے موصف میں رکھی ہوئی ہو۔ چنائی کا ایک ردا۔ قطار۔ ڈرد۔ ڈور۔ رسی جس سے قیدیوں کو باندھتے ہیں۔ پہاڑی راستہ پہاڑ کی چوٹی۔ ج۔ عَرَق عَرَقَات

عَرَقَة - جس کو سیتہ بہت آتا ہو۔

عَرَقْدَة - سخت بنتا۔  
عَرَقَصَة - سانپ کی ایک قسم کی چال مص دوڑنا ناچنا۔

عَرَقُط - ایک قسم کا درخت۔ ج۔ عَرَاقُط  
عَرَقَلَة - سچ نہ کہنا۔ استی سے مخرف ہونا [علی] پیچیدہ بنانا مشکل بنانا۔

عَرَقَلَا - خرام ناز۔ بیکری کی چال۔

عَرَقُوب - آدمی کی لڑائی کا موٹا پٹھا۔ نالہ کا حشم۔ موڑ۔ چوپایہ کے پاؤں کا پٹھا ج۔ عَرَاقُوب ایک شخص کا نام جو جھوٹ اور وعدہ شکنی میں ضرب المثل ہے۔

عَرَقُوقَة - زمین کا معمولی ابھار۔ آسان گزار  
عَرَقُوقَة اَللَّو - ڈول کی لکڑی۔

عَرَقِيَّة - پسینہ سے بچاؤ کے لئے عمامہ کے نیچے جو ٹوپی استعمال کی جاتی ہے (د)

عَرَقِيل - اندھے کی زردی۔

عَرَك - اپنے حریفوں کو خوب بھپاڑنا والا۔

عَرَك تھریر کار اور قوی و مضبوط۔ ج۔ عَرَكُون جمع شدہ ریت کہ جب کہ سخت ہو گیا ہو۔ آواز۔ دریا کی دھار۔ منجدار۔

عَرَك - درندوں کی پسیدی مص (ن) زمانہ کا کسی کو تھوڑا بہ کار بنا دینا۔ کھال کو رگڑنا اور ملنا۔ ساری گھاس چرنا۔

عَرَك عَرَاك عَرَاك (ن) عورت کا مائع ہوتا۔

عَرَك (س) سمسروں کا خوب پھارنے والا ہوتا۔ لڑائی میں بڑی طرح پھیر جانا۔

عَرَاكَة - ایک ہار۔ ج۔ عَرَاكَات - عَرَاكَة - جمیٹ و پلید اور بید آدمی۔

عَرَاكَة - قوی اور مضبوط اونٹ۔  
عَرَاكَة - فہرہ اور موٹی تازی عورت۔

عَرَاكَة - زائیرہ۔ بدکار پھنال۔ موٹی اور سخت عورت۔

عَرَم - گڑھا۔ پانی کے جمع ہونے کی جگہ۔ ج۔ عَرَمَان پھنٹی۔ ہانڈی کا بقیہ۔

مص (ن) ہڈی پر سے گوشت چھڑانا۔ تکلیف دینا۔ اپنی مال کا دودھ پینا۔

عَرَم عَرَامَة - عَرَام - (ن) لک میں سخت ہوتا شوخ ہونا [علی] ناز کرنا۔ ناز سے چلنا۔ خوش ہونا [من] کھانے میں سے کچھ نوش کرنا۔

عَرَم - سیاہی و پسیدی ملی ہوئی۔ کچا گوشت مص (س) نرم دست بوجھانا۔ سیاہی و پسیدی کے نقطے لگانا

عَرَم - سخت چیز جو دو چیزوں کے درمیان حائل ہو۔ دریا وغیرہ کا بند۔ جنگلی چوڑا گھوس (ع) جمع ہے بلا واحد کے

عَرَم - سخت چیز جو دو چیزوں کے درمیان حائل ہو۔ دریا وغیرہ کا بند۔ جنگلی چوڑا گھوس (ع) جمع ہے بلا واحد کے

عَرَم - سخت چیز جو دو چیزوں کے درمیان حائل ہو۔ دریا وغیرہ کا بند۔ جنگلی چوڑا گھوس (ع) جمع ہے بلا واحد کے

یا عَرَمَة (کی جمع ہے)  
 سَبِيلُ الْعَرَاءِ - عین کا مشہور سیلاب جس نے  
 سد مار ب کو توڑ دیا تھا اور اہل عین  
 کو روم و ایران کی سرحدوں پر  
 بھاگنا پڑا تھا۔  
 عَرَمَة - ریت کے جمع ہونے کی جگہ۔  
 عَرَمَة الرَّجُل - مرد کا کنبد۔  
 عَرَمَة - سفیدی ملی ہوئی سیاہی بکری کے  
 لبوں کی سفیدی۔ کچا گوشت۔  
 عَرَمَة - پانی کا بند۔ دو چیزوں کے درمیان  
 ایک روک ج۔ عَرَسَ ہر جنگلی چوہا۔  
 زور کی بارش۔  
 عَرَمَة - آگ پر پکی ہوئی چیز کی بو۔ کھلیاں جسے  
 برسا یا نہ گیا ہو۔ ریت کا تودہ۔  
 عَرَسَان - بہت سا پانی۔ آگ میں بجی ہوئی چیز کی  
 بو۔ دھواں۔ بکا ہوا گوشت۔  
 عَرَسَان - (مجبوراً) اوتڑ کی ناک کیل سے دھکنے  
 لگنا۔ (ن جی) اوتڑ کے نیل ڈالنا۔  
 عَرَسَان - آگ میں پکی ہوئی چیز کی بو۔  
 عَرَسَانَة - ناک کی رگیں۔ پلید و کم ورا آدمی۔  
 عَرَسَانِيْن - ناک۔ ناک کی سخت ٹہری۔ ناک  
 کی جڑ۔ ہر چیز کا اول۔ سردار اور بزرگ  
 قوم۔ ج۔ عَرَسَانِيْن۔  
 عَرَو - (ن) کسی کو دیا لینا۔ احسان اور  
 بھلائی چاہنے کے لئے آنا۔  
 کسی کا قصد کرنا (مجبوراً) کسی چیز کو  
 فروخت کر کے رنجیدہ ہوتا جاڑے  
 سے بجا آنا۔  
 عَرَو - کنارہ۔ وہ شخص کہ جو کوئی کام انتظام

واہتمام کے ساتھ نہ کرے ج۔  
 عَرَوَاءُ - بخار کی سردی اور کپکپاہٹ۔  
 شیر کے چلنے کی آواز۔ سورج کے  
 زرد ہو جانے اور رات کے درمیان  
 کا وقت۔ جب کہ ٹھنڈی ہوا پھل رہی  
 ہو۔  
 عَرَوْب - حسین و جمیل اور خاندان کی عاشق عورت  
 بہت مہینے والی۔ ج۔  
 عَرَوْب -  
 عَرَوْبِيَّة - عَرَوْبِيَّة - (ل) عربی اللسان  
 ہونا۔  
 عَرَوْبَة - چھانگل و بوزہ کا دستہ۔ قبضہ۔  
 آدمیوں کا گروہ۔ بخار دار درخت  
 شہر کا اردگرد۔ ٹکڑے۔ کاج ج۔  
 عَرَوْبِي -  
 عَرَوْبِي - (ن) بلند ہوتا۔ چڑھنا۔ پاؤں میں  
 چوٹ لگنے کی وجہ سے ننگڑا ہوجانا۔  
 عَرَوْبِي - (ن) اگنا۔ بڑھنا۔ دور پھینکنا۔  
 عَرَوْبِي - دو لہا ج۔ عَرَوْبِي دو لہن۔  
 ج۔ عَرَوْبِي (د) کسی افسانہ یا ڈرامہ  
 کی ہیروئن۔  
 عَرَوْبِي - کنارہ۔ گوشہ۔ پہاڑ میں کار راستہ  
 حاجت ج۔ عَرَوْبِي - شعر کے پہلے  
 مصرعہ کا آخری جزو۔ ج۔  
 اَعَارِيْفِيْن شعر کے اوزان سے متعلق  
 ایک خاص فن کا نام۔ مکروہ و بدینہ اور ان  
 کے تواج۔  
 عَرَوْبِي - اونٹنی جس کے دانت درخت کھانے کی

ہاتھ - پاؤں - چہرہ -  
 عُودِج - ناستوار - کمزور -  
 عُودِ نِد - دور - عادت - جہ - عُودِ ذَا ع  
 عُودِ فِر - مسافر - اجلی - بیگانہ جہ - اَحْمَاة  
 اَعْرَاء -  
 عِدْرِ لِس - عِدْرَ لَيْسَة - اونٹ کی خراب گاہ -  
 عُودِ لَيْس - کجاوہ - ٹی جس پر انگوڑی کی بیل پھلتی  
 ہے پھیر - سائبان - کھیت والوں کا  
 ٹانڈ - شکار کی ٹی جہ - عُودِ شِی -  
 عُودِ بِيض - چوڑا پکلا بھیر کا ایک سال کا بچہ جنہی کا ارادہ  
 کرتے تھی برا جہ - عُودِ هَان - عُودِ مَن  
 عُودِ نِيْنُ الْبِيْطَان - فارغ البال - دو تمند آدمی  
 (دُعَاؤُ) عُودِ بِيض - لمبی چوڑی دُعا -  
 عُودِ بِيض - شر اور فساد پھیلانے والا - بقیائدہ  
 کام کرنے والا -  
 عُودِ يَهْنَة - دوزخ است - عُودِ ضِي (د)  
 عُودِ يَط - اُمُّ عُودِ يَط - بچھو -  
 عُودِ يَف - کار گزار - واقف کار - دانائے  
 قوم جہ - عُودِ قَاء -  
 عُودِ يَقْطَة - ایک چوڑے جسم کا جانور جو حرکت  
 کرتا رہتا ہے -  
 عُودِ يَك - گتھیلے بدن کا آدمی  
 عُودِ يَكَة - کولان - نفس - طبیعت - عادت  
 و خصلت جہ - عُودِ اَمَلِك -  
 عُودِ يَم - مصلحت و سختی -  
 عُودِ يَم - جنگل - بِن - گوشت - فاختہ کی  
 آواز - کاشا - گوہ کابل - دوزخوں  
 کا بھنڈ - جہ -  
 عُودِ مَن -

وجہ سے جھڑ گئے ہوں جہ - عُودِ ط -  
 عُودِ ق - بہت صبر کرنے والا آدمی - جہ -  
 سَاَف -  
 عُودِ قَة - عقل مند آدمی - واقف کار  
 عُودِ قِ - عُودِ قِ - (ن) [ق] چلنا - جانا  
 الْعُرُوقُ الْبِيضُ - ہلدی  
 عُودِ قِ الْكَاوُوس - زرنباد - زرنچوڑ -  
 عُودِ رُكَة - اونٹنی کہ بغیر کولان کے ملے ہوئے  
 اس کی فرہی نہ معلوم ہو -  
 عُودِ وِي - ٹیلا - ایک مقام اور ایک شخص کا  
 نام -  
 عُودِ هَم - عُودِ هَم - شیر - جہ - عُودِ اَهَم -  
 عُودِ هُوْم - بادشہرزم و نازک چیر - انگوڑی کا  
 درخت جس کا سر ظاہر ہو گیا ہو -  
 جہ - عُودِ اَهْلِيْم -  
 عُودِ هُوْن - ایک گھاس - جہ - عُودِ اَهْيِن -  
 عُودِ ي - مرد ہوا -  
 عُودِ ي - (ض) پوشیدہ کرتا کسی کے پاس آنا  
 عُودِ اِي - عیب دار عورت -  
 عُودِ ي - برسنگی - عریانی فترس عُودِ ي  
 بے زین کا یعنی تنگی پیٹھ کا گھوڑا  
 جہ - اَعْرَاء -  
 عُودِ ي - عُودِ يَة - (س) ننگا ہوجانا -  
 مرد ہوا کھجور کا درخت جو نہ پھلے -  
 کھجور کا درخت جس کا پھل کھایا ہو  
 جو مقدار کھجور کے درخت کو فروخت  
 کرنے کے وقت مستثنیٰ کری - جہ -  
 عُودِ اِيَا -  
 عُودِ يَة - وہ اعضاء جو کھلے رہتے ہیں جیسے

عَنْب - مجرد آدمی - عمدت بے شوہر - جر :-

أَعْنَاب - عُنْتَاب -

عُنْتَابَة - دن ( مرد کا بے عورت کے یا عورت کا بے خاوند کے ہونا -

عُنْتَابَة - عورت بے خاوند - جر :- عُنْتَاب -

عُنْتَابَة - پردہ بھونٹنا کا ڈول - جر :- عُنْتَاب - (د)

عُنْتَابَة - آدمیوں کا جھڑپ - جر :- عُنْتَابُون - عُنْتَابِي

عُنْتَابَة - عزت - آبرو - غلبہ - قوت - شدت زور کی بارش -

عُنْتَابَة - ہرن کا مادہ بچہ -

عُنْتَابُ تَلُو - آزیسیل (د)

عُنْتَابُ ج - دن ( دور کرنا - جماع کرنا پہلے سے کھودنا -

عُنْتَابُ د - دن ( جماع کرنا -

عُنْتَابُ س - دن ( ملامت کرنا - مدد کرنا - روکنا -

جماع کرنا - کسی کو زبردستی کسی کام پر متعین کرنا - فرائض و احکام پر آگاہ ہونا -

عُنْتَابُ ط - نکاح مص ( دن ) جماع کرنا -

عُنْتَابَة - عزت میں غالب آنا - ڈانٹنا -

سزائش کرنا -

عُنْتَابُ ف - دن ( کھاتے پیتے رہنا - موت کے وقت زرخہ کا پھڑکنا -

عُنْتَابُ ق - عُنْتَابُ ق - دن ( دھڑکنے میں جلدی کرنا - بھلائی کو کسی سے روکنا -

عُنْتَابُ ق - دن ( زمین کھودنا دن ) تیز دوڑنا روکنا - خون ریزی کرنا -

عُنْتَابُ ق - دن ( کسی کو چھٹ جانا - اور

عُرْبِيَّة - ایک قبیلہ کا نام -

عُرْبِيَّة - جنگل - بن - درختوں کا جھنڈ - کہ

درندوں کا مسکن ہو - جر :-

عُرْبَانِي -

## ع - متر

عَزَّ - عزت - مدد - ارجمندی -

عَزَّ - عَزَّ اَذَّة - (ض) آبرودار ہونا

لائق ہونا - ذلت و خواری کے بعد

معزز ہونا - کم یاب ہونا - جاری ہونا (علی) دشوار ہونا -

عَزَّ - دن ( عزت و ارجمندی میں کسی پر

غالب آنا -

عَزَّ - صابر -

عَزَّ اء - سال جس میں سختی ہو - قحط کا سال -

عَزَّ اء - نسب کا دعویٰ - صبر - اچھا صبر -

مص ( دن ) کسی کی طرف منسوب

کرنا - منسوب ہونا (س) صبر کرنا -

عَزَّ اذ - سخت زمین -

عَزَّ اَذَّة - کثرت - قوت - آبرو -

عَزَّ اف - اگر جس میں کوڑک ہو -

عَزَّ اَقَّة - سرین - حلقہ دبر -

عَزَّ ام - شیر بیشہ -

عَزَّ اَرْم - منتر آیات قرآنی جو دفع آفت کے لیے

پڑھی جائیں - و اذ - عُنْتَابِيَّة -

عَزَّ اَمُ اللّٰه - خدا تعالیٰ کے فرائض جو بندوں پر لازم

ہیں -

عَزَّ اَمُ الْمَغْضُوبَة - وہ اعمال اور خصلتیں جن سے

مغفرت لازم ہو جائے -

لازم پکڑنا۔

عَنْق - گیہوں کو ہوا سے صاف کرنے والے بدخواہوں یا آدمی۔

عَنْق - بد خو۔ کم ہمت۔ کینہ۔

عَنْق - بیکاری ہے سامانی۔ نہتھاپن۔

عَنْق - (ض) بیکسو کرنا۔ جدا کرنا۔ عورت سے

صحبت کرنے کے وقت ذکر یا نہر کال کر منزل ہونا تاکہ نظر نہ ٹھیرے۔

عَنْق - نہتھابے ہتھیار۔ ج۔ ۱۔ آعْزَال۔

عَنْقَاء - سرین۔ در۔ منہ۔ مشک وغیرہ میں سے

پانی کرنے کی جگہ۔ مشک کا دھانہ۔

توشہ دان کا منہ۔ ج۔ ۱۔ عَنْقَالِي۔

عَنْقَبَة - نکاح کرنا۔ جماع کرنا۔

عَنْقَاة - دوری۔ گوشہ نشینی۔

عَنْقَاة - چوتھو کی بڑی جوزمین کو کہتی ہے۔

عَنْقُم - قصد۔ ہمت۔ ارادہ مص (ض) منتر

پڑھنا۔ سخت دوڑنا (علی) ارادہ کرنا۔

کوشش کرنا۔ قسم کھلانا۔

اَدْوِي الْعَنْمَة - وہ پیغمبر جنہوں نے صبر آزمائش

کرنے کی تبلیغی خدمات انجام دیں۔

حضرات نوح۔ ابراہیم۔ موسیٰ، محمد۔

علیہم الصلوٰۃ والسلام۔

عَنْمَة - عَنْمَان عِنْمَة (ض) منتر

پڑھنا۔ واجب کرنا (علی) کسی چیز کا

قصد کرنا اور اس پر دل بکھلنا اور اس

کے لیے کوشش کرنا۔ قسم دینا۔

عَنْمَة - توییش واقارب۔ کنہ اور قبیلہ کے

آدمی۔ ج۔ ۱۔ عَنْمَة -

عَنْمَة - واجب وثابت۔ ضروری۔ حق۔ ج۔ ۱۔

عَنْمَات -

عَنْمَة - اَمْرُ الْعِزْم - اَمْرُ الْعِزْمَة -

کون۔ مقعد۔ دُبر۔

عَنْمَجِي - وعدے کا سچا۔

عَنْمُوب - (ن۔ ض) (عن) کسی سے پوشیدہ

ہونا۔ دور ہونا (فی) دور جانا۔

عَنْمُوبَة - زمین جس سے چراگاہ دور ہو۔

عَنْمُوسَا - (ن) ادنیٰ وغیرہ کے تھنوں کے

سوراخ کا تنگ ہونا۔

عَنْمُوسَا - وہ ادنیٰ یا بکری وغیرہ جس کے

تھنوں کے سوراخ تنگ ہوں۔

ج۔ ۱۔ عَنْمُوسَا -

عَنْمُوف - دل تنگ کسی چیز سے منہ مٹے ہوئے۔

عَنْمُوف - (ض۔ ن) (عن) کسی چیز کو ناپسند کرنا

اور اس سے طول ہونا۔ باز رکھنا۔

عَنْمُوم - بڑھیا عمر رسیدہ ادنیٰ جس میں تھوڑی

سی قوت ہو۔ ج۔ ۱۔ عَنْمُوم -

عَنْمُون - متفرق جماعتیں۔ مختلف گروہ۔ وا۔

عَنْمَة -

عَنْمَة - مرد و جماع سے رغبت رکھے۔ ج۔ ۱۔

عَنْمَة -

عَنْمَاهَاة - جماع اور عیاشی کی

رغبت نہ رکھنے والا۔ ج۔ ۱۔ عَنْمَاهَاة -

عَنْمَاهِل - غیر مستقل تیر چلنے والا۔ آگے بڑھنے والا

نر کبوتر۔ ج۔ ۱۔ عَنْمَاهِل -

عَنْمَاهُول - گزرنے والا تیز چلنے والا۔ چھوٹا ہوا

ادنیٰ۔ ج۔ ۱۔ عَنْمَاهِيل -

عَنْمَامِي - (ص) کسی کو کسی کے نام سے پکارنا۔

(الی) منسوب کرنا۔

آعَسَاس - عُسَس.  
 (جَاءُوا) عَسَارِي - ایک دوسرے کے  
 پیچھے آئے۔  
 (جَاءُوا) عَسَارِيَات - ایک دوسرے  
 کے پیچھے آئے۔  
 (ذَهَبُوا) عَسَارِيَات - متفرق و پراگندہ  
 ہو کر چلے گئے۔  
 عَسَاس - بھیڑیا۔  
 عَسَاف - طاعون کی ماری ہوئی اونٹنی۔  
 عَسَاقِيل - ایک قسم کی گھاس۔ سراب۔  
 عَسَّال - شہد توڑنے والا۔ بہت بچکدار نیزہ۔  
 عَسَّالَة - شہد کی مکھی۔ شہد کا چھتہ۔  
 عَسْب - نر کا لطف۔ نسل۔ اولاد۔ مص۔ (ن)  
 نر کا مادہ پر چڑھنا۔ نر کو جفتی کے لیے  
 کرایہ پر دینا۔  
 (رَأْس) عَسِيب - سر جس میں مدت سے کنگھی نہ  
 ہوئی ہو۔  
 عَسْبَار - بھیڑیے کا بچہ۔ گلاب کا بچہ جو بھیڑیے  
 سے پیدا ہوا۔  
 عَسْبُر - تیندوا۔ (م) عَسْبُرَة - ج۔  
 عَسَايِد -  
 عَسْبُوس - کتے کا پلا۔ جو بھیڑیے کی مادہ کے  
 پریٹھے سے پیدا ہو۔  
 عَسْبَج - (ن) گردن اونچی کر کے چلنا۔  
 عَسْجِد - موتی۔ یا قوت۔ وغیرہ جو اہرات  
 سونا۔ مضبوط و جسم اونٹ۔ ج۔  
 عَسَاجِد -  
 عَسْجِدِيَّة - اونٹ۔ بادشاہوں کی سواری کے  
 سائڈ۔ اونٹ جس پر سونا لدا ہوا ہو۔

عُزَّى - آبرودار عورت۔ لائق عورت۔ کباب  
 اور پسندیدہ عورت (اعْتَرَّ كَا مَثَلٌ)  
 ایک بہت کا نام۔  
 عُزَيْب - مہر آدمی۔ مرد جو اپنے اہل و عیال  
 اور مال سے دور ہو۔  
 عِزِيَّة - نسبت و دعویٰ۔  
 عُزَيْد - کٹی ہوئی گھاس کی قیمت۔ ج۔  
 عَزَائِد -  
 عُزَيْد - ایک تغیر کا نام علی نبینا وعلیہ السلام  
 عُزَيْد - بزرگ۔ گرامی۔ اجنبہ لائق۔ صفات  
 باری تعالیٰ میں سے ایک صفت۔  
 کباب۔ غالب۔ بادشاہ مصر کا لقب  
 ج۔ آعِزَّة - آعِزَّاء - عِزَّاس -  
 عِزَّاسَة -  
 عِزِيَّة - عقاب۔ شاہین۔ بانہ۔ ج۔  
 عِزَّائِد -  
 عُزَيْدِي - گھوڑے کا سرین۔  
 عُزَيْف - فضا میں ہوا کی ہر جزیرہ ٹپ۔ مص۔  
 (رض) آواز نکالنا۔  
 عُزَيْم - سخت اور قوی دشمن۔ ج۔  
 عَزْمَاء -  
 عُزَيْمَة - قصد۔ ارادہ۔ نیت۔ منتر۔ ج۔  
 عَزَائِم -  
 ع - س  
 عَس - عَسَس - (ن) ذات کو پھر کر  
 چونکداری کرنا۔ پاسبانی کرنا۔ ظاہر کرنا۔  
 تھوڑی چیز کھلانا۔  
 عَس - بڑا پیالہ۔ ج۔ عَسَّاس - عِيسَة۔



اذرت کے بڑے بڑے بچے۔  
 عَسَجَس - ایک مقام کا نام۔ ننگ۔  
 عَسَجَرَجَة - بدی۔ پلیدی۔ نجاست۔ مص۔  
 خور سے دیکھنا۔ اذرت کا ہمیشہ  
 سفر میں رہنا۔ گوشت وغیرہ میں  
 ننگ ڈالنا۔  
 عَسَجَمَة - نفرت۔ سبکی۔ شتابی۔ جلدی۔  
 عَسَد - (رض) سیر کے لیے جانا۔ جراع کرنا۔  
 سخت پٹنا۔  
 عَسِير - دشوار پیچیدہ۔  
 رَيَوْمٌ عَسِيرٌ - سخت اور مصیبت کا دن۔ بُرَا  
 دن۔  
 (حَاجَةٌ) عَسِيرٌ - سخت حاجت۔  
 عَسِيرٌ يَتِيمٌ الْعَسِيرُ - بڑا بدخود اور بد مزاج آدمی۔  
 عَسْر - دشواری۔ بھل۔ کجھومی۔ بدخوئی و  
 بد مزاجی۔ مص۔ (رس) مشکل اور  
 دشوار ہونا۔  
 عُسْر - دشواری۔ آسانی کی ضد۔  
 عُسْرٌ - عُسْرٌ - عَسَارَةٌ (ك) دشوار ہونا  
 سخت ہونا، علیٰ غلاف کرنا۔  
 عَسْرَان - عَسْرٌ (رض) بائیں طرف سے آنا۔  
 دم اٹھا کر دھڑنا۔  
 عَسْرَاء - عورت جو بائیں ہاتھ سے کام کرے۔  
 (أَعْسَرُ كَامُونٌ) ج:۱۔ عَسْرٌ۔  
 عَسْرَب - شیر۔ ج:۱۔ عَسَارِب۔  
 عَسْرَةٌ - تنگی و دشواری۔  
 عَسْرَائِي - تنگی۔ دشواری۔ عذاب۔ دشوار چیز۔  
 عَسْطَلَّة - اچھی طرح بات نہ بنانا۔  
 عَسَّاس - بھیڑیا۔ سراب۔

عَسَسَس - بھیڑیا۔ سی۔ خار پشت۔ ج:۔  
 عَسَا عَس -  
 عَسَّصَة - رات کا تاریک ہوجانا۔ رات کا  
 آخر ہونا۔ بھیڑیے کے رات کو پھرنا۔  
 (ا) برکا) نیچا ہونا۔ کام کو مشتبہ اور  
 گول مول اور خلط ملط کرنا۔  
 حرکت دینا۔  
 عَسَف - دم مرگ۔ نزع۔ بڑا پیالہ۔  
 مص (رض) ظلم و ستم کرنا۔ خدمت  
 کا طالب ہونا۔ حفاظت کرنا۔ کسی  
 چیز کی طلب میں راتوں کو گھومنا۔  
 (من عین) ہٹ جانا۔ منحرف  
 ہونا۔ (فی) کسی کام کو بلا سوچے  
 سمجھے کر گدنا۔  
 عَسَق - دشواری۔ بدخوئی۔ شام کی تاریکی۔  
 ٹہنی سوکھی ہوئی (مص) (دس) (ب) [  
 حرایص ہونا۔ کسی چیز کا ہوکا ہونا۔  
 کسی کو چٹلنا۔ اصرار کے ساتھ طلب  
 کرنا۔  
 عَسَقِي - قرضدار پر سختی کرنے والے۔  
 عَسِيْقِي - بدخو سخت مزاج۔  
 عَسَقْلَان - شام کے ایک شہر کا نام۔  
 عَسَقْلَانُ الرَّاسِ - سر کی چندیا۔ سر کا اوپر کا  
 حصہ۔  
 عَسِقَبَة - انگور کا چھوٹا خوشہ جو بڑے  
 خوشہ کی جڑ میں ملا ہوا ہو۔ ج:۔  
 عَسَا قَب۔  
 عَسْقُد - لبا۔ بے دقوف۔ موٹا اور سخت  
 بدن کا آدمی۔ ج:۔ عَسَا قَد۔

- عَسَقَّة - رونے کے وقت آنکھوں سے آنسو نہ نکلنا۔ رونا چاہنا۔ مگر نہ رو سکا۔
- عَسَقَلَة - وہ جگہ جہاں سفید پتھر ہوں۔ مص۔ سراب کا چکنا۔
- عَسَك - (س) چمٹنا۔ لازم ہونا۔
- عَسَكِر - لشکر۔ فوج۔ گروہ۔ ہر چیز بہت سی۔ رات کی تاریکی۔ ج۔ عَسَاکِر۔
- عَسَاکِرَان - عرف و مٹی۔
- عَسَاکِرَة - سختی خشک سالی۔ مص۔ رات کی تاریکی کا زیادہ ہونا۔ لوگوں کا جمع ہونا۔ سختی میں بڑھنا۔ لشکر کو بھرتی کرنا۔ لشکر میں بھرتی ہونا۔
- عَسَاکِرِي - سپاہی۔
- عَسَل - شہد۔ تیز روادھنی۔ جاری پانی کا بہاؤ۔ دھار۔ شبنم۔ ترنجبین شیرخشت۔ ج۔ آعَسَال۔ عَسَل۔ عَسُول۔ عَسَلَان۔
- تعریف۔ ثناء۔ سرعت رفتار۔
- عَسَل - (ض۔ ن) شہد دینا۔ کھانے وغیرہ میں شہد ڈالنا۔
- عَسَل - عَسَلَان - (ض) نیزہ وغیرہ کا بہت ہلنا اور حرکت کرنا۔ دوڑنا۔ پریشان ہو کر دوڑنا۔
- عَسِيل - سخت مار لگانے والا۔ تیز دست۔
- عَسَاکَة - مقوط اساشد۔ بڑا۔
- عَسَلَج - جھکی ہوئی نرم و سبز مٹی۔ کونپل۔
- عَسَاکَجَة - درخت میں نرم و سبز شاخیں نکلنا۔
- عَسَلَق - سراب۔ بیڑیا۔ شتر مرغ۔ شکاری درندہ۔ ج۔ عَسَالِق۔
- (جَارِيَة) عَسَلُوْجَة اَلْبَنَات - نرم و نازک کنواری لڑکی۔
- عَسَم - (ض) (ضی) حرص کرنا۔ لالچ کرنا۔
- عَسَم عَسُوْم - (ض) اختیار کرنا۔ آنسو ٹپکانا۔ (ضی) کوشش کرنا (وسط) بیباکانہ کھس جانا۔
- عَسَم - (س) ہاتھ پاؤں کا خشک ہو کر ٹپٹھا ہونا۔
- عَسَمَاء - عورت جس کا ہاتھ پاؤں خشک ہو کر ٹپٹھا ہو گیا ہو۔ (اعْتَمَم کا مؤنث) ج۔ عَسَم۔
- عَسَمَة - سوکھی روٹی کا ٹکڑا۔
- عَسَن - بالوں کی لمبائی اور خوبصورتی۔
- عَسَن - مٹاپا۔ پرانی چربی۔
- عَسِن - مقوڑے چارے پر قناعت کرنے والا چوپایہ۔
- عَسِن - مانند۔ ہمتا۔ مشابہ۔ بڑھا۔ ج۔ آعَسَنَکَا۔
- عَسِن - عَسِن - (س) پانی اور چارہ کا ہضم ہو جانا۔
- عَسِن عَسِن - موٹاپا۔ فرہی۔ پرانی چسبیری۔
- عَسُو - عَسُو عَسِيْتِي - عَسَا - (ن) بڑی عمر کا ہونا۔ (گھاس کا) سخت ہو جانا۔ اور سوکھ جانا (گھاس کا) خوب بڑھنا۔
- (رات کا) خوب تاریک ہونا۔
- عَسُو - (ن) ہاتھ کا کام سے سخت ہونا۔
- عَسُوْب - بڑا سردار۔
- عَسُوْس - تنہا چرنے والی ادھنی۔ کم دودھ

والی ادنیٰ - دودھ دوہنے کے

وقت اشراوت کرنے والی ادنیٰ -

بیک اور تدر عودت -

عَسُوفٌ - بڑا ظالم بے راہ -

عَسُوفَةٌ - عَسَافٌ - (حق) اونٹ کا طاعون

کی وجہ سے قریب بہ مرگ ہو کر گلا

کاٹنے لگنا -

عَسُولٌ - بلتا ہوا نیزہ - نیک آدمی - اچھا

آدمی - جر - عَسَلٌ -

عَسِيٌّ - کھجور کی شاخ - قریب ہے (افعال

مقاربت میں سے ہے)

عَسِيْبٌ - دم کی بڑی کھجور کا پٹھا کہ جس پر پتی نہ

ہو - جر - عَسَبٌ - عَسْبَانٌ -

عَسِيْرٌ - دشوار - جر - عَسِيْرٌ -

(يَوْمٌ) عَسِيْرٌ - سخت دن یعنی روز قیامت -

عَسِيْفٌ - مزدور - غلام - پیر فانی - جر -

عَسَفَاءٌ -

عَسِيْقَةٌ - خراب و بیکار شراب جس میں بہت پانی

پڑا ہوا ہو - جر - عَسَائِقٌ -

عَسِيْلٌ - بہت سخت مارنے والا تیز دست

جر - عَسَلٌ -

عَسِيْلَةٌ - نطفہ - منی - جماع کی لذت -

## ع - ش

عَشْشُ - تھوڑی سی بخشش - تھوڑا سا -

دبلا پتلا آدمی - لیے قد کا حص (ن)

دبلا پتلا ہونا - ڈھونڈنا - جمع کرنا -

مارنا - پیوند لگانا - سخاوت کو کم

کرنا - پرند جانور کا اپنے گھونسلے

کو نہ پھوڑنا - کمانا -

عَشْشُ - جانور کا گھونسلہ جو درخت پر ہو - نشین -

دَوَكْنٌ اور دَوَكُوٌ جو دیوار اور

پھاڑ میں ہو - جر - عَشَّاشٌ -

عَشِيْشَةٌ -

عَشْشُ - جس کی بینائی کمزور ہو - نابینا -

رتوند والا -

عَشَّاشٌ - نگاہ کی کمزوری - رتوند مص (س)

ن) رتوند آنا -

عَشَّاءٌ - شام کی تاریکی - زوال آفتاب سے

طلوع فجر تک کا وقت -

(صَلَاتُ) الْعَشَّاءِ - نماز مغرب اور نماز عشاء -

عَشَّاءٌ - شام کا کھانا - جر - آعَشِيَّةٌ -

عَشَّابَةٌ - (ك) جگہ کا گھاس والا ہونا -

عَشَّاسٌ - دسواں حصہ لینے والا -

عَشَّاسٌ - دس - دس

عَشَّارَةٌ - ہر چیز کا دسواں حصہ -

عَشَّارِمٌ - عَشَّوْمٌ - شہر -

عَشَّارِيٌّ - دس ہاتھ کا لمبا -

عَشَّارِيَّاتٌ - پر اگنہ و متفرق - تیز رفتاری -

عَشَّائَةٌ - پھل جو درخت سے گر پڑا ہو - اور

رائیگاں گیا ہو - درخت کا تنہ -

عَشَّاءَةٌ - رتوند - انصاپن - مص (س - ن)

رتوند آنا - اندھا ہونا -

عَشَّابٌ - ہری گھاس - جر - آعَشَابٌ -

عَشَّابٌ - (س) خشک ہونا کسی مقام کا گھاس

والا ہونا -

عَشِيْبَةٌ - زمین جس میں بہت سی گھاس ہو

کبڑا بڑھا - بوڑھی ادنیٰ - ٹٹنگنا

عَشَق - (حاصل مصدر) فریفتگی۔ درستی اور محبت میں حد سے تجاوز مص (س) کسی پر دل آجانا۔ فریفتہ ہونا (ب) کسی سے چمٹ جانا۔  
 عَشَم - امید۔ حرص۔ سوکھی ہوئی خراب روٹی۔ (س) خشک ہونا۔ حریص ہونا۔  
 عَشَمَة - ترشش۔ بڑھاپا۔ بوڑھا۔ بوڑھی۔  
 عَشَابَج - ترشرو اور بدخلق آدمی۔  
 عَشَق - دراز قامت اور چہرے جسم کا آدمی۔ (ہ) عَشَقَة - ج۔ عَشَائِقَة۔  
 عَشُو - اس دودھ سے بھرا ہوا پیالہ کہ جو شام کو چلا گاہ سے واپسی کے بعد پئیں۔  
 عَشْوِيَّة - عَشَابَة - (ك) ٹھنڈا اور بد صورت ہونا۔  
 عَشْوَة - تاریکی یا سرشام سے چوتھائی رات تک کا وقت۔  
 عَشْوَة - آگ جو رات کو دور سے نظر آئے۔ آگ کا شعلہ۔  
 عَشْوَس - سوشل۔ ہر قسم کی سوسائٹی میں دل دل جانے والا۔ (د)  
 عَشْوَاء - محرم کی نویں یا دسویں تاریخ۔  
 عَشْوَم - (س) خشک ہونا۔ حریص ہونا۔  
 عَشِيَّة - آخر روز۔ ابر۔ اونٹ جو رات کو دیر تک چمے۔ (ہ) عَشِيَّة۔ ج۔ عَشَائِيَا۔  
 (مَلَائِيَا) الْعَشِيَّة - نماز ظہر و عصر۔  
 عَشِيَّة - (س) رات کو چرنا زعلیٰ ظلم و ستم کرنا۔

آدمی یا عورت۔  
 عَشَّة - دہلی پہلی لمحے قد کی عورت۔ سخت و خشک زمین۔  
 عَشَّة - جھونپڑا۔ (د)  
 عَشَجَب - ننگے ہوئے جسم والا آدمی۔ ج۔ عَشَايِب۔  
 عَشَجَدَة - ہلکا مینہ پڑنا۔  
 عَشْر - دس (مؤنث) مص (رض) دس میں سے ایک لینا۔ نوپہ ایک زیادہ کر دینا دسواں ہونا۔  
 عَشْر - اونٹ کے دو مرتبہ پانی پینے کی بیچ کی مدت کہ وہ آٹھ دن ہیں۔ دسواں ٹکڑا۔  
 عَشْر - دسواں حصہ۔ ج۔ عَشْوَد - آعَشَار۔  
 عَشْر - (رض) مال میں سے دسواں حصہ لینا۔  
 عَشْرَاء - دس یا آٹھ ماہ کی کابھن اونٹنی۔ ج۔ عَشَار۔ عَشْرَاءَات۔  
 عَشْرَة - دس۔ (مذکر)  
 عَشْرَة - میل ملاپ۔ خلط ملط۔ خوش دلی۔  
 عَشْرَة - دس (مذکر)  
 عَشْرَة - درخت یا درخت کا گوند۔ ج۔ عَشْر۔ عَشْرَات۔  
 عَشْرَة - سبز اور تر ہونا۔  
 عَشْرَة - بہت کھردرا۔ ج۔ عَشَارَة۔  
 عَشْرُون - بیس۔  
 عَشْرَان - (رض) کٹے ہوئے پاؤں والوں کی طرح چلنا۔ (ع) ٹیک لگانا۔  
 عَشْرَة - مخالفت کرنا۔

عَشِيَّة (ن) رات کا کھانا کھانا۔ رات کو چرانا۔

اندھوں کی طرح کام کرنا۔

عَشِيَان - رات کا کھانا کھانے والا۔

عَشِيْب - ٹھنکنا آدمی۔ بہت گھاس والی جگہ۔

عَشِيَّة - عَشِيَّة دن کا آخری حصہ۔ شام۔ ابر

جہ۔ عَشَايَا۔ عَشِيَات

عَشِيْر - دسواں حصہ۔ جہ۔ اَعَشِيْرَاء۔ عَشُوْر

اَعَشَاَس۔ رشتہ دار۔ کنیز۔ دوست

خاوند شوہر۔ جہ۔ عَشَسَاء۔

عَشِيْرَة - باپ کی طرف سے رشتہ دار۔

دو دوھیال۔ جہ۔ عَشَاثِيْر

عَشِيْتِيْق - ایک دوسرے کو چاہنے والا۔ جہ۔

عَشَقَاء۔

عَشِيْتِيْق - بڑا عشق کرنے والا۔ عشق باز۔

## ع-ص

عَص - ہر چیز کی اصل۔ بڑ۔ پیدائش۔ مص

(ض) سمٹ ہونا۔

عَصَا - کھڑکی۔ لاکھی (مؤنٹ ہے) (تشنیہ)

عَصَوَان - زبان۔ پندلی کی ہڈی۔

عورتوں کا سر بند (سر پر باندھنے کا

رومال)۔ گروہ۔ جماعت۔ جہ۔

عَصِيَّة - آعَصَاء۔

رَأْفِي عَصَاہ - مقیم ہوا۔ خیمہ کھڑا کیا۔

رَشَقِي (العَصَا) - اختلاف پیدا کیا۔ جماعت

میں تفرقہ ڈالا۔

رَأْفَقِي (العَصَا) - اختلاف پیدا ہوا۔

عَصَا (س) عصابنا۔ تلوار سے لاکھی کی طرح ماننا۔

عَصَاب - کتنے والا۔

عَصَاب - سر بند۔ رسی جس سے اڈٹنی کی

رانیں دوہنے کے لیے باندھی جاتی

ہیں۔

عَصَابِيَّة - پٹی۔ سر بند۔ پگڑی۔ ایک قسم کا

سرخ بادل جو قحط سالی میں دکھائی

دیتا ہے۔ دس سے چالیس تک

آدمیوں گھوڑوں اور پرندوں میں

سے کسی کا گروہ۔ جہ۔

عَصَابِيْب۔

عَصَاس - بہت گرد و غبار۔ وقت۔

عَصَاس - نچوڑنے والا۔

عَصَاس - پانی وغیرہ جو نچوڑنے سے نکلے۔

عَصَاْرَة - نچوڑنے سے جو چیز نکلے۔ عرق۔

رَكِيْمِي الْعَصَاْرَة - جو سوال کے وقت سخی ثابت ہو۔

عَصَافَة - جو چیز خوشہ میں سے پتی وغیرہ کی قسم کی

جھڑ کر جائے۔

عَصَافِيْر - پڑیاں۔ واہ۔ عَصْفُوْس - ایک

درخت کا نام جو فارس میں بکثرت

ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا نام جَمْر

رَاي مِيْثِي - ہے۔

عَصَافِيْر الْقَنْب - پالان کی میٹھی۔

عَصَافِيْر الْمُنْدِيْس - عمدہ اور اصیل اونٹ

جو نعمان بن منذر بادشاہ کے

پاس تھے۔

عَصَاقِيَّة - عَصَاقِيَاء۔ شور و غل۔ غل غپاڑا

عَصَاقِيْل - گبولے۔

عَصَال - ٹیڑھا ٹیڑھا تیر۔ ایک مقام کا نام۔

عَصَام - کتے کی گردن کا پٹہ۔ جہ۔ اَعَصَام

دارت نہیں۔  
 (یَوْمٌ) عَصَبٌ - سخت گرمی کا دن سخت دن۔  
 عَصَدٌ - مرد کی منی۔ مص۔ (ض) لپیٹنا۔ جماع کرنا۔ کسی کو کسی کام پر زبردستی متعین کرنا۔  
 عَصْرٌ - زمانہ۔ رات دن۔ دن کا اخیر۔ آفتاب کے سرخ ہونے اور شفق پھولنے تک شام۔ نماز عصر۔ قید خانہ۔ گروہ۔ قبیلہ۔ بارش۔ بخشش۔ جہ۔ اَعَصَرَ عَصُورٌ - مص (ض) نچڑنا۔ روکنا۔ پناہ لینا۔ نجات پانا۔ دوہنا۔  
 عَصْرٌ - جائے پناہ۔ جائے رہائی۔ زمانہ۔  
 عَصْرٌ - وقت۔ زمانہ۔ جہ۔ عَصُوسٌ - اَعَصَارٌ اَعَصَرَ عَصْرٌ - نماز عصر۔  
 عَصْرٌ - جائے پناہ۔ جائے رہائی۔ گردو غبار۔  
 عَصْرَانٌ - رات دن۔ صبح و شام۔  
 عَصْرَةٌ - بہت سا غبار۔  
 عَصْرَقٌ - پناہ۔ چھٹکارے کی جگہ۔ اقربا۔  
 عَصْرُونَةٌ - نیچ۔ شام کا ناشتہ (د)۔  
 عَصْرِيٌّ - زمانہ حال کی چیز۔ (د)۔  
 عَصُصٌ - بکرے کے چوڑے کا گوشت۔ دم کی جڑ۔ دم کی بڑی۔ جہ۔  
 عَصَاعِصٌ -  
 عَصْفٌ - ہری کھیتی کی پتی۔ بھس۔ مص (ن)۔ بے پکے ہوئے کھیت کو کاٹنا۔ (ض) ہوا کا سخت چلنا۔ محنت مزدوری کرنا۔ (د)۔ (ب) [

عَصَامٌ - بندہ شک۔ تسمہ۔ بندھن۔ دم کی باریک جانب۔ جہ۔ آ عَصِمَةٌ - برتن کا دستہ جس کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں۔  
 جہ۔ آ عَصِمَةٌ - عَصْمٌ -  
 عَصْبٌ - عشق بیچاں جو ایک قسم کی روئیدگی ہے کہ درخت پر لپٹ جاتی ہے۔  
 آکاش بیل۔ ایک قسم کا سرخ ابر جو قحط سالی میں ظاہر ہوتا ہے۔ ایک قسم کی چادر مص (ض) لپیٹنا۔ بٹنا۔ باندھنا۔ ملانا۔ افق کا سرخ ہوجانا۔ شفق پھوٹنا۔ دانوں کا میلا ہونا۔ سر بڑھی باندھنا۔ کاٹنا۔ پیاس کی جہ سے تھوک خشک ہو جانا۔  
 ب [ احاطہ کرنا۔  
 عَصَبٌ - ن کے پٹے۔ عشق بیچاں۔ قوم۔  
 عَصْبَةٌ - گتھن لوگ واہ۔ عَصْبَةٌ -  
 جہ۔ آ عَصَابٌ - مص (ض) گت میں پٹے زیادہ ہونا۔ جمع ہوا۔  
 عَصْبَةٌ - آدن۔ گھوڑوں۔ پرندوں میں سے ایک کا دس سے چالیس تک گروہ۔  
 عَصْبَةُ الْاُمَمِ - لیگ آف نیشنز۔ جمعیت اقوام (د)۔  
 عَصْبَةٌ - عمامہ ہننے کی بیٹت۔  
 عَصْبَةٌ - بیٹ۔ دھیال کے مرد۔ باپ کی طرف سے رشتہ دار مرد۔ آدمی کی قے لوگ کہ جن کی وہ حمایت کہ۔ دہ کے رشتہ دار جو

ہلاک کرنا۔

عَصْفَة - خراب کی بُر۔

عُصْفُر - کسم۔

عَصْفَرَة - کپڑے کو کسم سے رنگنا۔

عُصْفُور - چڑا۔ کبوتر سے چھوٹا سر پرندہ۔

پیشانی کے بالوں کے اگنے کی جگہ۔

گھوڑے کی پیشانی کی ابھری ہوئی

بڈھی۔ بادشاہ۔ سردار۔ کتاب۔

ج۱۔ عَصَا فِئْر -

عُصْفُورَة - چڑیا۔ ج۱۔ عَصَا فِئْر -

عُصْفُورَان - گھوڑے کے دونوں جڑوں کی

بڈھیاں۔

عُصْفُورَل - ٹڈا۔

عَصَل - انٹری۔ ج۱۔ آعَصَال گھوڑے

کی دم کی ایک کچی۔ دانتوں کی کچی مہس

(س) سخت ہونا۔ کچ ہونا۔

عَصَل - ٹیڑھی اور سخت چیز۔

عَصَل - دن، ٹیڑھا کرنا۔

عَصَلِج - جس کی پنڈھلیاں ٹیڑھی ہوں۔

عَصَلَد - عَصَلُود - سخت درشت۔

عُصْم - عَصْم - ہندی وغیرہ کا رنگ، جو

ہاتھ پاؤں پر باقی ہو۔ ہرن وغیرہ کے

بازو کی سفیدی ج۱۔ آعَصَام۔

عَصَم - (س) ہرن وغیرہ کے بازو کا سفید

اور تمام جسم کا سیاہ ہونا۔

عَصِيم - دھن، کسب کرنا۔ گمانا۔

عَصَم - عزت، ناموس۔

عَصْمَة - ہرن وغیرہ کے بازو کی سفیدی۔ کتے

کی گردن میں پڑا ہوا حلقہ۔

عَصْمَة - ناموس و عزت۔ دست بند۔ ج۱۔

عَصَم - مص (صن) گناہ وغیرہ سے

باز رکھنا اور حفاظت کرنا۔ مشک

کے لیے عصام بنانا۔ جس کو کندھے

میں ڈال کر اٹھاتے ہیں۔ کسی کو گناہ اور

خوف سے باز رکھنا۔ الی ام کو کھنڈی

سے بچانا۔ پناہ پکڑنا۔

عَصُوب - دانتوں کا میلپن۔ اونٹنی۔ پاؤں

باندھے بغیر دودھ نہ دے۔ بد صورت

یا ہلکے سریزوں والی عورت۔

عَصَوَاد - بہت بد اخلاق (مذکر و مؤنث) بڑا

اور سخت کام۔ ج۱۔ عَصَاوِيد -

عَصَوْد - نازک بدن عورت۔

عَصُود - (س) ن، فنا، ہلاک ہونا۔

عَصُوم - بہت کھانے والا۔

عَصِي - نافرمان۔ گنہگار۔ ج۱۔ عَصِيَاء

عَصِي - معصیت۔ (صن) فرمائی کرنا۔

عَصِيَان - نافرمانی مص (صن) نافرمانی کرنا۔

عدول حکمی کرنا۔

عَصِيْب - پیپڑا جو انٹریوں کے ساتھ بھونا

جائے۔ ج۱۔ عَجْب - آعَصِبَة -

رَبْوَم عَصِيْب - بہت گردن۔ سخت دن۔

عَصِيْد - تمت زدہ۔ ہم۔ اعلان کرانے کا

عادی۔

عَصِيْدَة - ایک قسم کا داجے بتا بہتے

ہیں۔

عَصِيْر - چھڑا ہوا، وغیرہ جو پھوڑنے سے

نکلے۔

عَصِيْفَة - تپے جن کے بان خوشہ ہو۔ ج۱۔ عَصَا لَف

عَصَادَاتَا الْبَاب - دروازے کے دونوں بازو۔

عَصَادِي - بڑے اور موٹے بازو والا۔

عَصَارِس - گود خزر سردوشیر میں پانی۔ جر۔

عَصَارِس -

عَصَاض - جو چیز منہ سے کاٹی اور کھائی جائے۔

کھانے کی چیز۔ موٹا درخت۔

عَصَاض - عَصَاض - ناک کی جڑ ابرو کے پاس۔

عَصَاض - آپس میں ایک دوسرے کو کاٹ

کھانا گھوڑے کا کاٹ کھانا۔

عَصَاضِي - نرم و نازک آدمی۔ فرہ اور شکم سیر

اونٹ۔

عَصَاذِيَج - سخت و درخت۔ فرہ و پرہ گوشت۔

عَصَال - سخت۔ دشوار۔ عاجز کر دینے والی

چیز۔

عَصَام - اونٹ اور گھوڑے کی دم کی جڑ۔

عَصَاهَةٌ - خاردار بڑا لمبا چکلا درخت۔ ٹیکر وغیرہ

کا درخت۔ جر۔ عَصَاه -

عَصَاهِي - عصاب کھانے والا اونٹ۔

عَصَب - تلوار۔ شمشیر براں۔ تیز زبان آدمی۔

چپ زبان۔ چھوٹے سے سرکا لڑکا۔

بچھڑا معن (من) کا ٹنا۔ گالی دینا۔ پکڑنا

مارنا۔ طعنے دینا۔ ضعیف کرنا۔ پھر جانا۔

پرانہ ہوجانا۔ کبری وغیرہ کا کان چیر

دینا۔ (عصاب کر دینا)

عَصَب - (س) ٹوٹے ہوئے سینگ والا

ہونا۔ کان چرا ہونا۔

عَصْبَاء - چوے ہوئے کان والی۔

عَصِيم - میل پھیل ہوا اونٹ کے ران پر شک ہو

گیا ہو۔ پسینہ بچی ہوئی چیز۔ مندی

وغیرہ کا لاقہ پر بچا ہوا رنگ۔

## ع-ض

عَض - عَضِيض - (س-ن) دانت سے

کاٹنا۔ زور سے کاٹ کھانا زب

علیٰ دانت سے کاٹنا۔ لازم

پکڑنا۔

عَضُّ الزَّمَان - زمانہ کی سختی۔ عَضُّ الْحَرَاب

لڑائی کی سختی۔

عَضُّ - آٹا ہوا اونٹ کو کھلاتے ہیں۔ جو

خالص گیہوں۔ درخت کی موٹی جڑ۔

آٹا۔ سوکھی ہوئی گھاس۔ کھجور کی

گٹھلیوں وغیرہ کی سانی

عَضُّ - بد مزاج۔ بد خو۔ خوش بیان۔ بخیل۔

سخت آدمی۔ عقل مند و رسا۔

مصیبت۔ جر۔ عَضُوض - خار

دار درخت کا چھوٹا پتہ۔ جر۔

أَعْضَان -

عَضَاب - بہت گالیاں بکنے والا۔

عَضَاد - پست قدر۔ بد صورت اور سخت

بازوؤں کی عورت۔

عَصَاد - ٹھنکا مرد اور عورت، جس کے سخت

اڈوٹے بازو ہوں۔

عَصَاد - بازو بند۔ ایک ٹیڑھے سرکا لڑکا جس سے

ٹہنیاں اونٹ کی طرف جھکا دیتے ہیں

جر۔ أَعْصَادَة -

عَصَادَة - جانب کنارہ۔ طرف۔



عَضَبِل - سخت و درشت جڑ۔ عَضَابِل۔

عَضَّة - گردہ۔ فرقہ۔ ٹکڑا۔ جھوٹ۔ جڑ۔ عَضُون۔

عَضْد - بازو۔ کنارہ۔ مددگار۔ قوت بازو جڑ۔ اَعْضَاد۔ کھجور کے درختوں کی قطار۔ جڑ۔ عَضْدَان۔

عَضْد (ن) مدد کرنا۔ بازو پر مارنا۔ (مجموعاً) بازو میں درد ہونا۔ بازو پر باندھنا۔ قوی بازو ہونا۔ (ض) درخت کو کاٹنا۔

عَضْد - کٹا ہوا درخت۔ چوپایہ کے بازو کا درد۔ مص (س) اونٹ کے بازو میں درد ہونا۔

عَضْد - جس کا بازو دکھتا ہو۔

اَيْدِ عَضْدَاة - ایسا لہجہ جس کا بازو کوتاہ ہو۔ عَضْر - عَضْوَس (ن) (ب) بات ظاہر کرنا اور اس کو زبان پر لے آنا۔

عَضْرَة - خیر قصہ

عَضْرَس - گورنر۔ سرد شیریں پانی۔ برف۔

عَضْرَط - عَضَارَط - نوکر جو صرف کھانے پر نوکری کرے۔ جڑ۔ عَضَارَط۔

عَضَارِطَة -

عَضْرَفُوْط - چھپکی۔ جڑ۔ عَضَارِف تَصْفِیْر

عَضْرِیْر -

عَضْرُوْط - مزدور۔ محامد۔ کسی کے پیچھے دوڑنے والا۔ جڑ۔ عَضَارِیْط۔

عَضَل - عَضُول (ن) (علی) تنگ کرنا۔

[ب] کسی پر کام کا دشوار ہونا۔

عَضَل - عَضَلَان - (ض) ن

س (عورت کو نکاح کرنے سے

زبردستی باز رکھنا۔

عَضَل - جنگلی چوہا۔ جڑ۔ عَضَلَان - مص

(س) پنڈلی وغیرہ کے پٹھوں میں

بہت گوشت ہونا۔

عَضِل - وہ شخص جس کے جسم میں عضلات

بہت ہوں۔

عَضَلَة - بلا سختی۔ جڑ۔ عَضَل - عَضَل۔

عَضَلَة - پنڈلی وغیرہ کی پھلیاں۔ ہر گوشت کہ

پٹھے میں بندھا ہوا ہو۔ جڑ۔ عَضَل

عَضَلَات -

عَضْم - کمان کا قبضہ۔ جڑ۔ عَضَام - غلہ

صاف کرنے کی جھلی۔ پہاڑی بکرا۔

جڑ۔ اَعْضَمَة - عَضْم۔

عَضْمَجَة - مادہ لومڑی۔

عَضْمَر - تنگ دل و بد نحو۔ بخیل۔

عَضْمُوْر - کنوئیں کی چرخی۔ جڑ۔ عَضَامِیْر -

عَضُو - ہر گوشت جو ہڈی میں جڑا ہوا ہو۔

بدن (د) مہسر رکن۔ جڑ۔ اَعْضَاء۔

عَضُوْفَخْرَامِی - اعزازی مہسر۔

عَضُو - (ن) جدا کرنا اور جڑ جڑ الگ کرنا۔

عَضُوْب - عَضُوْبَة - (ک) چرب زبان ہونا

تلوار کا تیز ہونا۔

عَضُوْض - جو چیز منہ سے کاٹی جائے۔ کاٹنے

دالا۔ مشقت میں ڈالنے والا۔ عورت

جس کی فرج تنگ ہو۔ بلا۔ چھوٹے

سے منہ کا گہرا کنواں۔ جڑ۔ عَضَاض۔

عَضُوْم - سخت جسم کی اونٹنی۔

عَضْم - خار دار بڑا درخت۔ کیکر وغیرہ کا

درخت۔

عَضَّہ - (ف) جھوٹ بولنا۔ جادو کرنا۔  
سخن چینی کرنا۔

عَضِيد - کھجور کی قطار کھجور کا چھوٹا سا دخت  
جس پر لٹکے ہوئے۔ جڑ: عَضِدَان

عَضِيض - ہم عمر۔ ہمسر۔ حرین۔ جڑ: اَعَضَّة -  
اَعْطَاء -

عَضِيْل - کینہ۔ ناقابل۔ بد اخلاق۔  
عَضِيْدَك - پٹھا۔ ہر سخت گوشت۔ جڑ: -  
عَضَائِل -

عَضِيْهَةٌ - جھوٹ۔ بہتان۔ تہمت۔

## ع-ط

عَطَّ - (دن) لبائی میں پیرنا (الی الارض)،  
زمین پر کچھال دینا اور غالب ہو جانا۔

عَطَاء - بخشش۔ جو چیز بخشی جائے۔ جڑ: -  
اَعْطِيَّة -

عَطَاء - (مفاعلہ) آپس میں لینا دینا۔ عطا کرنا۔  
عَطَّاس - عطر فروخت کرنے والا۔ گندھی (د)  
بنیا۔

عَطَّارَةٌ - جو بازار میں رائج ہو۔  
عَطَّارَةٌ - عطر سازی۔

عَطَّارِد - ایک ستارہ۔  
عَطَّاس - چھینک۔ صبح۔

عَطَّاش - پیاس کی بیماری۔ پیاس کی شدت۔  
عَطَّاط - جسیم آدمی۔ بہادر۔ دلاور۔ شیر۔

عَطَّاف - تلوار۔ چادر۔ جڑ: عَطْف -  
عَطَّاكَة - بیکاری (د)

عَطَّان - گوبر یا نمک جو کھال پر چھڑکتے ہیں تاکہ  
وہ خراب نہ ہو۔

عَطَب - نرمی بزرگت۔ روٹی مص۔ (ن)  
روٹی کا نرم و نازک ہونا۔

عَطَب - (س) ہلاک ہو جانا۔ اونٹ اور گھوڑے  
کا چلنے سے رہ جانا اور تنگ جانا۔

عَطَب - روٹی۔  
چیتھڑا جس سے آگ سلگائیں۔

عَطْبَل - تھوڑی سی روٹی۔ جڑ: عَطْبَل -  
عَطْبُول - خوبصورت جوان اور

لبے جسم کی فریبہ دورا ز گردن عورت۔  
بہت لمبے قد اور لمبی گردن والی ہرنی

جڑ: عَطَائِيل -  
عَطْر - خوشبو لے ہوئے۔ معطر۔ عطر لگانے  
ہوئے۔

عَطْر - (س) خوشبودار ہونا۔  
عَطْر - خوشبو۔ جڑ: عَطْوَس -

عَطْرَةٌ - بازار میں جو رائج ہو۔ معطر عورت۔  
عَطْرَةٌ - سخت و دشوار تیز چال۔ روشن راستہ

لمبی رسی۔ پورا سال۔  
عَطْرَدَةٌ - حفاظت کرنا۔ کسی چیز کا ساز و سامان

درست کرنا۔ آمادہ کرنا۔  
عَطْس - عَطْوَس، عَطَّاس (ن) چھینکنا۔ صبح

ہونا۔ مرجانا۔  
عَطْسَةٌ - چھینک۔ مشابہ و مانند۔ مثل۔

عَطَش - پیاس مص (س) پیاس ہونا (الی)  
مشائق ہونا۔ آرزو رکھنا۔

عَطَش - پیاس۔ کم پانی کی جگہ۔  
عَطَش - پیاس۔

عَطَشَان - پیاسا کسی چیز کا رخص (م) عطشی  
عَطَشَاقَةٌ - جڑ: عَطَّاش -

عَطِشَة - پیاسی عورت۔ ج:۔ عَطِشَات -

عُطَط - چری ہوئی اور قطع کی ہوئی چادریں۔

عَطُوط - بکری بیٹھو وغیرہ کا یکساںہ بچہ۔ ج:۔

عَطَاعَط -

عَطَعَطَة - پیہم آواز کرنا۔ آپس میں گتھ جانا۔

عَطَف - رض، دوسرا کرنا۔ کڑھی کو خم دینا۔

کپڑے کو لپیٹنا۔ ایک کام کو دوسرے

پر معطوف کرنا۔ (یعنی) مہربانی

کرنا (الی) میلان کرنا۔

عَطَف - کنارہ۔ پہلو۔ جانب۔ گوشہ۔ ج:۔

أَعْطَاف -

عِطْفًا الرَّجُل - آدمی کے دونوں پہلو۔

دونوں جانبیں۔

عَطَف - پلک کی درازی۔ مص (دس) پلکوں

کا دراز ہونا۔

عَطْفَة - ایک مہرہ جس سے عورت مرد پر منتر

کرتی ہے تاکہ وہ دوسری عورت سے

رک جائے۔

عَطْفَة - آنسو کی شاخیں جو ٹپکی ہوئی ہوں۔

عَطَل - قندوقامت۔ خالی گردن جس میں زیور

نہ ہو۔ ج:۔ أَعْطَال

عُطَل - بے زیور عورت۔ نہت آدمی بے سامان

و بے ہتھیار۔ مفلس۔ بے ادب۔

ج:۔ أَعْطَال

(قَوَس) عُطَل - بے چلے کی کمان۔

عَطَل - عُطُول - (س) عورت کا بے زیور رہنا۔

مرد کا موٹا ہونا۔ مفلس ہونا۔ بے ادب

ہونا۔

عَطَلَة - اپنے جسم کا اونٹ۔ منتخب اور عمدہ

اونٹنی۔ بہت دودھ والی بکری۔

عُطْلَة - بیکاری عورت کا بے زیور پن۔

عَطَلَس - دراز قامت۔ لمبے قد کا۔

عُطْمُوس - خوب صورت۔ بلند قامت اور

فرب عورت۔ پرانی اونٹنی۔ ج:۔

عَطَامِيس -

عَطْن - پانی کے قریب اونٹوں کی نشست گاہ۔

ج:۔ أَعْطَان - مص (دس)

چڑے کو پکانے کے لیے چھال وغیرہ

کا پانی میں ڈالا جانا۔ اور اس کا

بدبودار ہونا۔ چڑے کو پانی چھڑک

کر دینا کرنا۔ تاکہ بال صاف ہو

سکیں۔

عَطْن - عُطُون - (رض) اونٹوں کا پانی پی کر

نشست گاہ میں سونا چڑے کو باغیت

کے لیے ناند وغیرہ میں رکھنا یا بھگو کر دبا

دینا تاکہ بال صاف کیے جا سکیں۔

عَطْنَة - (اسم مصدر) اونٹوں کو نشست گاہ پر

چھوڑنا۔ وہ لوگ جو اونٹوں کو

نشست گاہ پر لائے ہوں۔

عَطُو - (ن) ہاتھ سے پکڑنا۔ ہاتھ سے

لینے میں غالب آنا۔

عَطُوب - (ن) روٹی کا نرم و نازک ہونا۔

لُجْمُ الْعَطُوس - موت۔ ہلاکت۔ مرگ۔

عَطُوف - مہربان۔ محسن۔ شوہر سے محبت

کرنے والی عورت۔ ج:۔ عَطُف -

نشست گاہ میں سویا ہوا اونٹ۔

عَطُون - (ن رض) اونٹوں کا سیراب ہو کر

نشست گاہ میں سو جانا۔

عَظِيَّة - بخشش سخاوت بخشی ہوئی چیز۔  
جر: عَطَايَا۔

عَطِيف - نرم مزاج۔ فرمانبردار عورت جس میں  
نخوت نہ ہو۔ جر: عَطَاف۔

عَطِيفٌ - چمڑا جو دباغت کے لیے رتن میں پڑا  
ہو۔ سڑھی ہوئی بو۔ بگڑا ہوا چمڑا۔  
بدبودار جسم والا آدمی۔

## ع-ظ

عَظ - عَطُوظ (دن، جنگ کا مصیبت  
پہنچانا۔ زمین سے لگا دینا۔

عَظَاءة - عَظَايَا - چمپکلی سے مشابہ ایک  
جانور۔ جر: عِظَاء۔

عِظَارَة - شراب کی سیرابی۔  
عِظَارِي - مڈے۔

عِظَاظ - ایک دوسرے کو منہ سے کاٹنا۔ آپس  
میں کالم گلہبج کے اندر سختی کرنا۔

عِظَال - (مفاعلہ) تضحیل کرنا۔ قافیہ کو کمر لانا۔  
نر کا مادہ کے پیچھے لگا پھرنا۔

عِظَام - بڑا بزرگ۔  
عِظَام - بڑا بزرگ۔

عِظَامَة - چھوٹا سا تکیہ جسے عورتیں سرین سے  
اسے بڑا دکھانے کے لیے باندھتی  
ہیں۔

عِظَامَة - بزرگی۔ غور۔ نخوت۔ ناز۔ چھوٹا سا  
تکیہ سرین پر باندھنے کا۔

عَظَب - (رض) پرندہ کا جلدی جلدی دم ہلانا۔  
عَظَب - عَطُوب - خشک ہونا (رض) (علی) (

لازم پکڑنا۔ صبر کرنا۔ نجر گیری کرنا۔

عَظَب - خشک تکیہ میں اترنے والا۔  
عَظَب - (اس) موٹا ہوجانا۔ (علی) لازم پکڑنا  
صبر کرنا۔

عِظَة - وعظ - نصیحت مص (رض) نرم نرم  
باتوں سے نصیحت کرنا۔ وعظ کرنا۔

عَظَة - جنگ کی سختی۔  
عَظَر - حمل کا بوجھ (اس) ناپسند رکھنا۔  
بھڑنا۔

عِظْرَب - چھوٹا سا نپ۔ جر: عِظَارِب۔  
عِظْرَة - اونٹنی جو حاملہ نہ ہو۔ اونٹنی جو حاملہ  
ہو جائے۔

عِظْم - شیر کی مینگنی۔  
عِظْمَة - تیر کا ٹیڑھا پڑجانا اور مضطرب ہوجانا

حفت جنگ سے پیچھے ہٹ جانا۔  
(فی) پہاڑ پر چڑھ جانا۔

عِظْلَام - گردوغبار۔  
عِظْلَام - تاریک رات۔ دسمہ۔ نیل۔ جر:۔

عِظَالِيَم - تاریکی۔  
عِظْم - بڑی۔ جر: اَعْظَم۔ عِظَام۔

عِظَامَة - مص (ن) بڑی کھلانا۔  
بڑی پر مارنا۔

عِظْمُ العِظْمِ رِق - درمیانی راستہ۔ کشادہ و  
فراخ راستہ۔

عِظْم - بزرگی۔ بڑائی۔ زیادتی۔ جماعت  
کشیز۔

عِظْم - عِظَامَة - بزرگی۔ بڑائی (ك)  
بڑا ہونا۔ بزرگ ہونا۔

عِظَمَاتُ القَوْم - سروران قوم۔

روکھی روٹی، ستونبغیر شکر کے گھلا  
ہوا کھجور کے مادہ درختوں کو نر کا گاہ  
دینا۔

عَقَّار - جو شخص مادہ کھجور کو نر کا گاہ دے۔

عَقَّارَة - پلیدی، خباث

عَقَّارِيَّة - سخت پلید آدمی، مضبوط اور سخت

جسم کا شیر۔

عَقَّاس - اخروٹ۔

عَقَّازَة - ٹیلا۔

عَقَّازَة - روٹی کا پھل یعنی کپاس کا ٹینٹ۔

عَقَّاش - گھنی ڈالھی والا۔

عَقَّاشَة - بے خبر آدمی۔

عَقَّاص - چڑے کا ٹکڑا جس سے مرتبان

وغیرہ کا منہ بند کر کے باندھ دیں۔

جڑ۔ عَقَّص -

عَقَّاط - گفتگو میں عاجز رہ جانے والا۔

عَقَّاطَة - چڑبے کا کام کرنے والی لونڈی۔

عَقَّاطِيَّة - گفتگو میں عاجز رہ جانے والا۔

عَقَّاقَة - جمع شدہ دودھ۔ تھنوں میں بچا ہوا

دودھ۔

عَقَّاقَة - دبر کون مقعد۔

عَقَّان - وقت۔

عَقَّاوَة - شور بے کے اوپر کا تار۔ ہانڈی میں

بچا ہوا کھانا۔ وہ کھانا جسے

بچے بطور ہدیہ کے بھیجیں یعنی ہنڈ کھایا

کا کھانا۔

عَقَّت - (من) توڑنا، ہانڈی کو مڑنا۔ لکنت کے

سبب ٹوٹی ٹوٹی بات کہنا۔

عَقَّة - پستان میں بچا ہوا دودھ بہت

عُظْمَة - چھوٹا سا تکیہ جسے عورتیں سرینوں کی  
پڑائی دکھانے کو باندھتی ہیں۔

عُظْمَة - عورت جو بڑے ذکر در یص، اور

مشتاق ہو۔

عُظْمَة - بزرگی، ناز، گردن کشی اور

غرور و نخوت۔

عُظْمُوت - بزرگی، خود نمائی، ناز، گردن کشی

غرور، نخوت۔

عُظُو - (ن) برا کر دینا، زہر کھلا کر

ہلاک کر دینا۔ برا بھلا کہنا۔

عُظُوْس - سیراب، پر شکم، جڑ۔ عُظُر -

عُظِيْم - بزرگ، کلاں، حاکم، امیر

جڑ۔ عِظَام - خدا تعالیٰ کی ایک

صفت۔ بایں معنی کہ اس کی

ذات پاک حدود اور اک عقل سے

متجاوز ہے۔

عُظْمَة - سخی، سخت آفت۔ جڑ۔ عِظَائِم -

عِظِيُوْتُ - جماع کے وقت حدت کرنے والا۔ دخول

سے قبل منزل ہو جانے والا۔

## ع-ف

عَمَّ - پارسا۔ (م) عَمَّة - جڑ۔ عَمَّةَة -

عَمَّ - عَمَّان - عَمَّافَة - عَمَّة - (ض)

حرام سے رک رہنا، پاکدامن ہونا۔

(دودھ کا پستان میں) جمع ہونا۔

عَمَاء - خاک، بارش۔ پوشیدگی مص

(ن) مرٹ جانا۔ ہلاک ہونا۔

عَمَّاس - ایک درخت جس سے چمقان بنایا

کرتے تھے۔ وا۔ عَمَّاسَة -

عِفْرَس۔ عِفْرُدَس۔ عِفْرَاس۔ مضبوط  
 و قوی شیر۔  
 عِفْرَسَتَہ۔ پچھاڑنا۔ غالب ہونا۔ شیر کا کسی کو  
 بھاڑ ڈالنا۔  
 عِفْرَقَرَقَہ۔ ناپاک۔ پلید۔ نجس۔ شیر۔  
 عِفْرَوَس۔ سخت و مضبوط شیر جس کی گردن  
 موٹی ہو۔  
 عِفْرَوْنِی۔ شیر۔  
 عِفْرَوْنِی۔ بڑا خبیث۔ فریبی۔  
 عِفْرَوْنِی۔ آدمی کی گدی کے بال۔ پھوپھ کی  
 پیشانی کے بال۔ مرغے کی گردن کے  
 بال۔  
 عِفْرَوْنِی۔ ناپاک اور کبوا س کرنے والا۔ ظالم و  
 ستم گار۔ جر۔ عِفْرَوْنِی۔  
 عِفْرَوْنِی۔ ہر کام کو اختتام تک پہنچانے والا۔  
 چالاک ہوشیار۔ کوشش کرنے والا۔  
 عقل مند۔ قوی اور سخت شیر اور دیو۔  
 خبیث اور فریبی آدمی (م) عِفْرَوْنِی۔  
 جر۔ عِفْرَوْنِی۔  
 عِفْرَز۔ اخروٹ (م) مرد کا اپنی بیوی  
 سے کھیلنا۔ اونٹ کو ٹھلانا۔  
 عِفْرَس۔ (ن) ہازر کھنا۔ خوار و حقیر کرنا۔ زور  
 سے دفع کرنا۔ ہٹانا۔ پاؤں سے کسی  
 کے سرین پر لات مارنا۔  
 عِفْرَس۔ (ض) جمع کرنا۔  
 عِفْرَسَتَہ۔ اسباب۔ فرنیچر۔ روی چیز (د)  
 عِفْرَسَال۔ شوخ و بیباک آدمی۔  
 عِفْرَسَل۔ بھاری اور سُست آدمی۔ جر۔  
 عِفْرَسَل۔

بوڑھا۔  
 عِفْتَان۔ گٹھے ہوئے بدن کا مضبوط و فریب  
 آدمی۔  
 عِفْج۔ آنت جس میں کھانا معدہ میں سے  
 منتقل ہو۔ (مشتتہ العین)  
 عِفْج۔ (ض) مارنا۔ جماع کرنا۔ (دھوبی کا  
 کپڑے کو پڑے پہ، مارنا۔ اغلام  
 کرنا۔  
 عِفْج۔ (س) آنتوں کا موٹا اور بڑا ہوجانا۔  
 عِفْجَہ۔ بڑے حوض کے پسلو میں چھوٹا  
 حوض۔  
 عِفْد۔ عِفْدَان۔ (ض) دونوں پاؤں  
 کو ملا کر کودنا۔  
 عِفْد۔ کبوتر کے مشابہ ایک جانور۔  
 عِفْر۔ (ض) خاک میں لٹانا۔ خاک میں  
 آلودہ کرنا۔ خاک کے نیچے دفن کرنا  
 (س) خاک رنگ کا ہوجانا۔ ٹھیلانا  
 ہوجانا۔  
 عِفْر۔ بڑا خبیث مرد۔ فریبی۔ دغا باز  
 نرسور۔ (د) عِفْرَقَہ۔  
 عِفْر۔ زمانہ۔ وقت۔ مہینہ۔  
 عِفْر۔ دلیر چست و چالاک۔ قوی مرد۔ موٹا  
 تازہ۔ جر۔ آعْفَاس۔  
 عِفْر۔ پلید و ناپاک آدمی۔ خبیث۔  
 عِفْر۔ خاک۔ پھسلا پانی جو کھیت کو دین۔  
 دشواری۔  
 عِفْرَاء۔ سپید عورت۔ چاند کی تیرھویں  
 تاریخ۔ جر۔ عِفْر۔  
 عِفْرَجِج۔ بدسیرت و بد خو آدمی۔

عَفْصُ - بازومص (رض) اکھاڑنا۔ کشتی میں غالب آنا۔ مروڑنا۔ جماع کرنا۔

عَفِصُ - بکٹھا۔ کیٹلا۔

عَفْصَجٌ - پھولے ہوئے جسم کا آدمی سخت اور گھٹے ہوئے جسم کا (لغات اصداد سے ہے)

عَفْطُ - عَفِيطٌ - عَفْطَانٌ - (رض) گوز مارنا دونوں لبوں سے پڑ پڑی بجانا۔ کلام میں عاجز رہنا۔

عَفِطٌ - گوز مارنے والا۔

عَفْطَلَةٌ - ایک چیز کو دوسری چیز میں ملانا۔ خلط ملط کرنا۔

عَفَعَفٌ - کیلے کی پھلی۔ جہ ۱۔ عَقَاعِيفٌ -

عَفْعَفَةٌ - کیلے کی پھلی کھانا۔

عَفَقٌ - (رض) متفرق اور تتر بتر ہو جانا۔

عَفَوِيٌّ - دیر سو کر بیدار ہو جانا۔

عَفِيفٌ - جمع کرنا۔ مارنا۔ جھپٹ کر چلنا

(عن) روک دینا۔

عَفُقٌ - کھمی۔ گس۔

عَفَقٌ - پانی پر اونٹوں کی آمد و رفت۔

عَفَكَ - حماقت بے وقوفی۔ مص (س)

بہت بے وقوف ہونا۔

عَفَكَ - (رض) بے سوچے نا پسندیدہ بات کہہ دینا۔ کسی کو حاجت سے روک دینا۔ ٹال مٹول کرنا۔ (س) سخت

اجتق ہو جانا۔

عَفَلَقٌ - سست و پرگوشٹ

چیز فراخ فرج۔ بد کلام و بیوقوف

عورت۔

عَفِينٌ - رٹا ہوا گوشت۔ ہر چیز کی سڑی۔

عَفِينٌ - عَفْوَانٌ - (رض) گوشت کا سڑانا۔

(فی) چڑھنا۔

عَفِينٌ - عَفْوَانَةٌ - (س) گل جانا۔ سڑ جانا۔

عَفْوَجٌ - موٹا اور بے وقوف آدمی۔ تیز رفتار

اونٹنی۔

عَفْوَحَلٌ - بھاری اور سست آدمی۔ بد اخلاق

آدمی جس کی صحبت اچھی نہ سمجھی جائے۔

بکواس کرنے والا۔

عَفِيفٌ - بے شرم و زبان دراز عورت۔

عَفْوٌ - چیز کا عمدہ حصہ۔ زیادتی۔ معافی۔

مہربانی۔ فائدہ۔ عذر۔ زمین جس میں

کوئی نشان نہ ہو۔ خرچ سے زائد مال۔

جہ ۱۔ عَقَاءٌ - آسان و سہل۔ مص

(ن) بڑھنا۔ مٹ جانا۔ نشان مٹا

دینا۔ زکوٰۃ نہ لینا۔ کسی سے احسان

چاہنا (عن) قصور معاف کرنا۔

درگزر کرنا۔ حق چھوڑ دینا۔

عَفْوٌ عَفَاءٌ - (ن) (نشان کا) مٹ جانا۔

(مکان کا) بوسیدہ ہو جانا۔

عَفْوٌ - بہت معاف کر دینے والا۔ خطا سے

درگزر کرنے والا۔ صفات باری تعالیٰ

میں سے ایک صفت ہے۔

عَفْوَةٌ - دیت۔ خون بہا۔ دیگ کا جھاگ۔

ہانڈی میں اوپر اوپر کا تار۔

عَفْوَةٌ - ہر چیز کا عمدہ حصہ۔ اچھی چیز کا گاہ۔

عَفْوَصَةٌ - کڑواہٹ۔ مزہ کی تیزی۔ بکٹاپن۔

عَفْوَانَةٌ - بدبو۔ رٹا ہندہ۔ مص (س) گل جانا۔

سڑ جانا۔ بدبو دار ہونا۔

عَفِيرٌ - پھیکے ستور۔ روکھی روٹی۔ عورت جو ہمسایہ کو کچھ نہ دے۔ دھوپ میں خشک کیا ہوا گوشت۔  
 عَفِيرَةٌ - عورت جو کسی کو تحفہ بدیہ نہ بھیجے۔  
 جہ: - عَقَائِرٌ -  
 عَفِيْطٌ - بھڑک کی ناک کی رطوبت۔  
 عَفِيْفٌ - پارسا نیک بخت۔ جہ: - آعْقَاءٌ -  
 عَفِيْفَةٌ - پارسا عورت۔ جہ: - عَقَائِفٌ -  
 عَقَّاقٌ - نافرمانی۔ ماں باپ کی نافرمانی۔  
 اور دل آزاری۔  
 عَقَّاقٌ - کڑوا اور کھاری پانی۔  
 عِقْقَالٌ - رسی جس سے اونٹ کے زانو کو باندھ دیتے ہیں۔ جوان اونٹنی۔  
 اونٹوں اور بکریوں کی سال بھر کی زکوٰۃ۔ جہ: - عَقْقَلٌ - سرکا رومال۔ باندھنے کی ریشمی ڈوری۔  
 عِقْقَالٌ - چوپایہ کے پاؤں کی ایک بیماری۔  
 کہ جب چلے تو تھوڑی دور تک لنگڑائے اور پھر ٹھیک ہو جائے۔  
 عَقْقَاهُ - مرد جس کے اولاد نہ ہو۔ باندھ عورت جہ: - عَقْقَمَاءٌ -  
 (دَاءٌ) عَقْقَاهُ - جو بیماری دور نہ ہو۔  
 (حَرْبٌ) عَقْقَاهُ - سخت لڑائی۔  
 (رَجُلٌ) عَقْقَاهُ - بد مزاج آدمی۔  
 عَقْقِبٌ - بیٹا۔ پوتا۔ ایڑی طرف۔ سمت۔ جہ: - آعَقَابٌ -  
 عَقْبٌ - عَقْوِبٌ - (ن) ایڑی پر مارنا۔ کسی کا جانشین ہونا۔

عَفِيرٌ - پھیکے ستور۔ روکھی روٹی۔ عورت جو ہمسایہ کو کچھ نہ دے۔ دھوپ میں خشک کیا ہوا گوشت۔  
 عَفِيرَةٌ - عورت جو کسی کو تحفہ بدیہ نہ بھیجے۔  
 جہ: - عَقَائِرٌ -  
 عَفِيْطٌ - بھڑک کی ناک کی رطوبت۔  
 عَفِيْفٌ - پارسا نیک بخت۔ جہ: - آعْقَاءٌ -  
 عَفِيْفَةٌ - پارسا عورت۔ جہ: - عَقَائِفٌ -

## ع-ق

عَقٌّ - ماں باپ کا نافرمان اور ان کو دکھ دینے والا۔ شگاف۔ پھٹن۔ مص (ن) پھاڑنا [عن]۔ بچہ کا عقیدہ کرنا۔  
 عَقَابٌ - ایک پرندہ۔ بڑا جھنڈا۔ ٹیلا۔ جہ: - آعَقْبٌ -  
 عَقَابٌ - (مفاعلہ) مزادینا۔ مواخذہ کرنا۔ کسی کے پیچھے سے آنا۔  
 عَقْقَاسٌ - گھر کا سامان۔ عمدہ سامان جو عید پر استعمال ہو۔ زمین۔ مکان۔ ہر خشک چیز۔ جاتا۔ جہ: - عَقْقَاسَاتٌ -  
 عَقْقَاسٌ - شراب۔ ایک قسم کا رنگین کپڑا۔ بہترین گھاس یا مال۔ گھر کا ساز و سامان۔  
 عَقْقَاسٌ - بڑی۔ بوٹی جو بطور دوا کے استعمال ہو۔ جہ: - عَقْقَاقِيْرٌ -  
 عَقْقَابٌ - سخن چینیوں۔ سختیاں۔ چیل خوریاں۔ کٹی بچھو۔ واز۔ عَقْقَابٌ -



والی چیز کا گاڑھا ہونا۔ گاڑھا کرنا۔  
بغیر استثناء کے قسم کھانا۔ ڈاڑھی  
پڑھانا۔

عُقُدٌ - گلوں کا ٹکڑا۔ مٹیوں کا ہار۔ جر۔  
عُقُودٌ۔

عُقُدٌ - ریت کا تودہ۔ زبان کی لکنت۔  
معن۔ (س) زبان کا لکنت زدہ  
ہونا۔ کتے اور کتیا کی جفتی کے وقت  
لینڈی جڑنا۔

عُقُدٌ - جو صفائی سے نہ بول سکے جس کی  
زبان میں لکنت اور بستگی ہو۔  
تودہ ریگ۔

عُقُدَاؤٌ - لٹندی۔ بکری جس کی دم لپٹی ہوئی ہو۔  
عُقُدَانٌ - ایک قسم کی کھجور۔  
عُقُدَاةٌ - حکومت۔ گمرہ۔ جر۔ عُقُدٌ - جاہلداد  
جیسے مکان زمین وغیرہ۔ گرہ بندھنے  
کی جگہ۔ عمدہ بیان بندھا ہوا۔

عُقُدَاةٌ - زبان کی جڑ۔  
عُقُرٌ - شکاف۔ اصل۔ محل یادیران محل۔  
اوپرچی عمارت۔ سفید چیز معن۔ (ن)  
رحمی کرنا۔ چلنے سے باز رکھنا۔ چوپایہ  
کی کوچیں کا ٹٹنا۔

عُقُرٌ عَقَارٌ - عَقَارَاةٌ - (ض) عورت کا بانجھ  
ہونا۔

عُقُرٌ - عورت کا مہر۔ وہ مہر جو کسی غیر عورت  
کو اپنی بی بی سمجھ کر صحبت کرنے سے  
واجب ہوتا ہے۔ پڑاؤ۔ لوگوں کے  
اترنے کی جگہ۔ حوض کا پھیلا حصہ۔  
جہاں جانور پانی پینے کے لیے کھڑے ہوں

عُقُوبٌ - عُقُبٌ - کام کا انجام۔ ثواب۔  
عُقِبٌ - بیٹا۔ پوتا۔ ایڑی۔ نسل۔ جر۔  
أَعْقَابٌ۔

عُقِبُ الشَّهْرِ - آخر ماہ۔ باقی مہینہ۔  
عُقْبَانٌ - کام کا انجام۔ ہر چیز کا آخر۔  
عُقْبَةٌ - ایک قسم کا نقش کپڑا۔ جو ہودج پر  
ڈالا جاتا ہے۔ کونسل۔  
عُقْبَةٌ - مہینہ میں ایک مرتبہ کسی کام کو  
کرنا۔

عُقْبَةٌ - نوبت۔ ہاری۔ قیدی کا بدلا۔  
رات اور دن۔ کسی چیز کا بقیہ  
نشان۔

عُقْبَةٌ - پہاڑ پر دشوار گزار جگہ۔ گھاٹی۔  
جر۔ عَقَابٌ - عَقَبَاتٌ - پٹھا  
جس سے کمان کا چلہ بنائیں۔ یا  
رسی بٹیں۔ جر۔ عَقَبٌ - ٹیلا  
جر۔ عَقَبَاتٌ۔

عُقْبَةٌ - کسی کے پیچھے چلنے والا۔  
عُقْبُولٌ - بقیہ بیماری۔ پھالا جو بخار چھوٹنے  
کے بعد ہونٹوں پر ہوجاتا ہے۔ بقیہ  
حوادث۔ جر۔ عَقَابِيْلٌ۔

عُقْبِيٌّ - کام کا بدلا اور حق۔ بدل۔ آخرت۔  
عُقْبَةٌ - جڑولے بال۔ جر۔ عَقْنٌ -  
عُقْدٌ - عمدہ پیمان۔ رائے۔ فکر۔  
جر۔ عُقُودٌ - طاق (مکان وغیرہ  
کا)۔ جر۔ أَعْقَادٌ۔

أَهْلُ الْحَيْلِ وَالْعَقْدِ - لوگوں کا معتمد  
علیہ۔

عُقْدٌ - (ض) باندھنا۔ شمار کرنا۔ بننے

ج۱۔ آعُقَاس - بے اولاد آدمی۔  
 عُقْرَی - جائیداد غیر منقولہ۔  
 عُقْرَی - (ن) چوٹیوں کا قطار باندھ کر آگے پیچھے چلنا۔  
 عُقْش - ایک قسم کی سبزی۔ درخت۔ پیلو کا پھل انگور کی شاخوں کا سرا۔ ماضی۔ (ن) جمع کرنا۔ موٹنا۔ خم دینا۔  
 عُقْص - (ض) بالوں کو گوندھنا۔  
 عُقْص - اوجھ۔ کینہ آدمی۔  
 عُقْص - (س) بد اخلاق ہونا۔ بکری کے سینگوں کا ٹیلا ہوا ہونا۔  
 عُقْص - ریت کا سخت ٹیلا جس میں راستہ نہ ہو۔ بخیل بد اخلاق۔  
 عُقْصَة - گندھے ہوئے بال۔ چوٹی۔ ج۱۔  
 عُقْص - عَقْص - سینگ کی گرہ، اور اس کی پیچیدگی۔ ج۱۔ عُقْص۔  
 عُقْط - (ف) پگڑی کس کر باندھنا۔  
 عُقْط - کوئے کی ایک قسم، جس کا رنگ سفیدی اور سیاہی سے مخلوط ہوتا ہے۔ آواز اس کی عین قاف ہے ج۱۔ عُقْطَاق۔  
 عُقْف - لڑھی ماضی (ض) خم دینا۔  
 عُقْفَاء - طوطھی، مفلس و محتاج عورت۔ (آعُقْف کا مؤنث) ج۱۔ عُقْف۔  
 ایک گھاس جو اونٹ کو کچھ نقصان نہیں پہنچاتی۔ اور بکری اس کے کھانے سے مر جاتی ہے۔  
 عُقْفَان - سرخ چوٹیوں کا دادا (اور سیاہ چوٹیوں کے دادا کو قارنہ کہتے ہیں،

ج۱۔ آعُقَاس - بے اولاد آدمی۔  
 عُقْرَی - جائیداد غیر منقولہ۔  
 عُقْرَی - (ن) چوٹیوں کا قطار باندھ کر آگے پیچھے چلنا۔  
 عُقْش - ایک قسم کی سبزی۔ درخت۔ پیلو کا پھل انگور کی شاخوں کا سرا۔ ماضی۔ (ن) جمع کرنا۔ موٹنا۔ خم دینا۔  
 عُقْص - (ض) بالوں کو گوندھنا۔  
 عُقْص - اوجھ۔ کینہ آدمی۔  
 عُقْص - (س) بد اخلاق ہونا۔ بکری کے سینگوں کا ٹیلا ہوا ہونا۔  
 عُقْص - ریت کا سخت ٹیلا جس میں راستہ نہ ہو۔ بخیل بد اخلاق۔  
 عُقْصَة - گندھے ہوئے بال۔ چوٹی۔ ج۱۔  
 عُقْص - عَقْص - سینگ کی گرہ، اور اس کی پیچیدگی۔ ج۱۔ عُقْص۔  
 عُقْط - (ف) پگڑی کس کر باندھنا۔  
 عُقْط - کوئے کی ایک قسم، جس کا رنگ سفیدی اور سیاہی سے مخلوط ہوتا ہے۔ آواز اس کی عین قاف ہے ج۱۔ عُقْطَاق۔  
 عُقْف - لڑھی ماضی (ض) خم دینا۔  
 عُقْفَاء - طوطھی، مفلس و محتاج عورت۔ (آعُقْف کا مؤنث) ج۱۔ عُقْف۔  
 ایک گھاس جو اونٹ کو کچھ نقصان نہیں پہنچاتی۔ اور بکری اس کے کھانے سے مر جاتی ہے۔  
 عُقْفَان - سرخ چوٹیوں کا دادا (اور سیاہ چوٹیوں کے دادا کو قارنہ کہتے ہیں،

عُقْر - پرندہ جس کے جسم پر کسی آفت کی وجہ سے پر نہ آگئیں۔  
 عُقْر - زخمی کرنے والا۔ دَجَلُ عُقْر۔ وہ آدمی جو اونٹوں کو تھکا دے۔ اور مجروح کر دے۔  
 عُقْر - (س) ناگمانی خوف کی وجہ سے مدبوش و بے حرکت ہو جانا۔  
 عُقْرُ الدَّار - قوم کے اترنے کی جگہ۔ پُراد۔  
 عُقْرَب - بچھورو گھڑی کی سوئی۔ ج۱۔  
 عُقْرَاب (م) عُقْرَابَة۔ عُقْرَابَاء۔ آسمان کا ایک بُرج۔  
 عُقْرَاتَان - ایک چھوٹا سا کھڑا جوکان میں گھس جاتا ہے۔ نہ بچھو۔  
 عُقْرَابَة - عقل مند خدمت گزار باندی۔  
 عُقْرَابَة - بانجھ پن۔  
 عُقْرَابَة - ڈر پوک اونٹنی۔  
 عُقْرَابَة - کٹ کھنا۔ مہرہ جسے عورتیں حاملہ نہ ہونے کے لیے اپنے پاس رکھتی ہیں۔  
 (امْرَأَة) عُقْرَابَة - عورت جس کے رحم میں بیماری ہو۔  
 عُقْرَابَل - ہتھنی۔  
 عُقْرَابِي - حائض۔  
 عُقْرَابِي حَلْقِي - گورھی۔ سرمنڈی۔

عَقْم - عَقْمَة - عَقْمَة - عَقْمَة - نقش - سرخ کبیل  
 بانجھ عورت۔ ج:۔ عَقَائِم - عَقْم  
 عَقْم - بانجھ پن۔  
 عَقْفَل - بڑی اور فراخ ندی۔ ریت کا ٹیلا۔  
 بڑا پیالہ۔ تلوار۔ گوہ کی انتڑی۔  
 ج:۔ عَقَائِل۔  
 عَقْو - (ن) جنھڑے کا اونچا ہونا۔ باز  
 رکھنا۔ برا سمجھنا۔  
 عَقُوب - جو امر نیک میں اپنے اسلاف کا  
 قائم مقام ہو۔  
 عَقُوس - کٹ کھنا۔ ج:۔ عَقُص۔  
 عَقُوف - گائے کا تھن جس کے دودھ کی  
 دھار ٹیڑھی پڑے۔  
 عَقُوق - غیر حاملہ گھوڑی۔ حاملہ گھوڑی۔ ج:۔  
 عَقُوق - عَقُوق - عَقُوق - عَقُوق - عَقُوق  
 عَقُوق - مَحَقَّة - (ن) والدین کی نافرمانی  
 کرنا۔  
 عَقُول - عقل مند۔ سمجھنے والا۔ قابض دوا۔  
 عَقِيَان - خالص سونا۔  
 عَقِيْب - دوسرے کے پیچھے آنے والا۔  
 عَقِيْبِد - عہد و پیمان کرنے والا۔ گاڑھی بننے  
 والی چیز۔  
 عَقِيْدَة - دین و مذہب۔ اعتقاد۔ ج:۔  
 عَقَائِد۔  
 عَقِيْر - جس کے اولاد نہ ہو۔ زخمی۔ چوپایہ  
 جس کی کونسیں کٹی ہوئی ہوں۔ حیران  
 و پریشان۔ ج:۔ عَقْمَاي۔  
 عَقِيْرَة - کوچے کٹا ہوا شکار وغیرہ۔ رونے  
 کی آواز۔ بلند آواز گانے والے کی

عَقْفَرَة - بچھاڑ دینا۔ ہلاک کر دینا۔  
 عَقُق - بجلی جو بادل میں چمکے۔ ماں باپ کا  
 نافرمان اور ستانے والا۔  
 عَقُق - حاملہ اونٹنی۔ ج:۔ عَقَاق  
 عَقُق - ماں باپ کو ستانے والا۔ نافرمان  
 بھٹن۔ پیٹ کا حمل۔  
 عَقُق - عَقَاق - (ض) اونٹنی وغیرہ کا  
 حاملہ ہونا۔  
 عَقْل - خرد و دانش۔ دریافت۔ چیزوں  
 کے حالات، یعنی سبب لائی برائی۔  
 کمال و نقصان کی واقفیت۔  
 ایک جوہر لطیف اور نور روحانی  
 جس کے ذریعے سے نفس علوم نظریہ  
 کا ادراک کرتا ہے۔ دیت، خون بہا  
 پناہ۔ قلعہ۔ دل۔ جائے پناہ۔  
 ج:۔ عَقُول - مص (ض۔ ن)۔  
 دوا کا پیٹ میں قبض کر دینا۔  
 (ض) شعور کرنا۔ جاننا۔ سمجھنا۔  
 اونٹ کی پٹلی سے اس کے  
 خنک کو باندھ دینا۔ مقتول کی  
 دیت دینا۔  
 عَقْل - عَقُول - (ض) (ہرن کا) پہاڑ  
 پر چڑھ کر پناہ لینا۔ (سایہ کا)  
 نصف النہار کے وقت قائم ہونا۔  
 عورت کا بالوں میں لنگھی کرنا (الی)۔  
 کسی کی پناہ لینا۔  
 عَقْم - عَقْم (س) عورت  
 کا بانجھ ہونا۔  
 عَقْم - (س) خاموش ہو جانا۔

## ع-ک

عَلَق - (۱) بات کو دوبارہ کہنے کا ارادہ کرنا کسی کے ساتھ بار بار برائی کرنا۔ دلیل میں غالب آنا (رضی) گرم ہونا۔

عُكَاب - گرد و غبار۔ دھواں۔

عُكَابَة - بنی بکر کے ایک قبیلہ کے باپ کا نام۔  
عُكَابِس - عُنُقَس۔ بہت سارے اونٹ جو ہزار کی تعداد تک پہنچ گئے ہوں۔

عُكَار - بہت حملہ کرنے والا۔ لوٹ لوٹ کر حملہ کرنے والا۔

عُكَازَة - ایک قسم کا عصا جس کے نیچے حصہ میں شام لگی ہوتی ہو۔ پادری کا عصا۔ ج: ۱۔ عُكََا كَيْز۔

عُكَاس - رسی جس سے اونٹ کے ہاتھ کو مہار سے باندھتے ہیں مص (مفاعلہ) عکس کرنا۔ الٹ دینا۔ باہم ایک دوسرے کی پیشانی کے بال پکڑنا۔

عُكَاش - ایک شخص کا نام۔

عُكَاشَة (غیر منصرف) دو صحابیوں کا نام۔ رضی اللہ عنہما (منصرف) مکرلی یا مکرلی کا جالا۔

عُكَاط - عرب جاہلیت کا ایک مشہور قبیلہ جو نخل اور طائف کے درمیان مقام عکاظ میں لگتا تھا اور بیس دن تک شعر و شاعری کا چرچا رہتا تھا۔

عُكَاه - بوجھ باندھنے کی رسی۔ ج: ۱۔ عُكْم۔

عُكَان - گردن۔

عُكَب - چست۔ پھرتیلا۔ زندہ دل۔ مص

آواز۔ ج: ۱۔ عَقَائِد۔

عَقِيصَة - گندھے ہوئے بال۔ ج: ۱۔

عَقَاص - عَقَائِص۔

عَقِيْق - (جنس) ایک سرخ رنگ کا قیمتی پتھر جس سے نگینہ وغیرہ بناتے ہیں (۱) عَقِيْقَة - ج: ۱۔ عَقَائِق۔

عَقِيْقَة - انسان یا جانور کے بچے کے بال۔

جو ماں کے پیٹ سے اُگے ہوئے

نکلے ہوں۔ بکری وغیرہ کے بال۔

بکری وغیرہ جو آدمی کے بچہ کے

لیے ساتویں دن ذبح کریں۔ ج: ۱۔

عَقَائِق

عَقِيْل - حضرت علیؑ کے بھائی کا نام (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) قرشہ دان - ندی کا پانی۔

عَقِيْلَة - شریف و معزز گھرانے کی پردہ

نشین اور نیک بخت عورت۔ قوم کا

سردار۔ ہر چیز محترم اور قابل قدر (د)

لیڈی سنسر۔ ج: ۱۔ عَقَائِل۔

عَقِيْم - بے اولاد آدمی۔ ج: ۱۔ عَقَمَاء

عَقَام - عَقْمِي۔ بانجھ عورت۔

ج: ۱۔ عَقَائِم۔ عَقْم۔ رحم کہ

حمل قبول نہ کرے۔ قیامت کا دن

(کیونکہ اس کے بعد دن نہیں ہے)

دینا۔

رِيْحٌ) عَقِيْم - ہوا کہ نہ بادل لائے نہ اس

سے پھل پیدا ہوں۔

حَرْبٌ) عَقِيْم - سخت لڑائی۔ عَقْلٌ عَقِيْم -

غیر مفید عقل۔

عکیر - گدلا پانی - شراب جو صاف اور نہ قہری ہوئی نہ ہو۔ تیل جس میں گاد ہو۔  
 عکیر - اونٹوں کا گلہ۔ تلوار کا زنگ۔ تلچھٹ (س) پانی وغیرہ کا گدلا ہونا۔  
 عکیرۃ - حملہ۔  
 عکیر - ہر چیز کی اصلیت و حقیقت عادت۔  
 عکیر - محکوم۔ (رض) [علی] کسی چیز کی طرف رخ کرنا اور اس پر حملہ کرنا۔ (الی) کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا۔ گدھے کا اپنے مالک کو مکان پر واپس لے آنا۔  
 عکیرۃ - حملہ۔  
 عکیرۃ - اونٹوں کا گلہ۔ زبان کی جڑ۔ جہ۔  
 عکیر - اشتباہ و التباس۔  
 عکیرۃ - لڑکا جو بلوغ کے قریب ہو۔  
 عکیرۃ - فریب اور قوی ہونا۔ لوطانا۔  
 عکیرۃ - کبوتری۔ قمری۔  
 عکیر - گرفت (س) پنجرے سے پکڑنا۔ سگڑنا (ن) گاڑنا [ب] کسی چیز کے ذریعہ سے راستہ معلوم کر لینا [علی] ٹیک لگانا۔  
 عکس - (رض) اٹا کرنا۔ کسی چیز کے آخر کو اول میں کر دینا۔ چوپایہ کو روکنا۔ باگ کھینچنا۔ کھانے پر دودھ ڈالنا۔  
 عکش - (رض) مکاری کا جالا بننا۔ جمع کرنا۔ (علی) حملہ کرنا۔  
 عکص - بد مزاجی۔ اعضاء کا ٹھیلنا [پن] (رض) کسی چیز کو رد کر دینا۔ پھیر دینا۔  
 (رملۃ) عکصۃ - ریت کا دشوار گزار راستہ

(ن) اونٹوں کا جگھٹ بھجانا۔ بانڈی کا جوش مارنا۔ آدمی کا ٹھہر جانا۔  
 عکب - ٹھوڑی اور ہونٹ اور دانوں کا موٹا یا اور ان کی درازی مص (س) پاؤں کی انگلیوں کا آپس میں ملا ہوا اور پاس پاس ہونا۔ دھوئیں کا کثرت سے ہونا۔  
 عکب - ٹھکننا اور موٹا تازہ آدمی۔ سرکش آدمی۔ وہ شخص جس کی ماں نے دوسرا نکاح کر لیا ہو۔  
 عکباء - مضبوط اور کھیلے بدن کی عورت۔ جس کے ہونٹ موٹے موٹے اور دانت بڑے بڑے ہوں۔  
 عکبۃ - مضبوطی سے باندھنا۔  
 عکۃ - بخار کی کپکپی۔ آس صحن عکۃ (تغتا و اصنافۃ) گرم زمین کیلے عکۃ۔ بہت گرم رات جس میں ہوانہ چلے۔  
 عکۃ - کھن رکھنے کا برتن۔ گھی رکھنے کی چھوٹی مشک۔ بخار کے دورہ کی کپکپی۔ ریت کا گرم تودہ۔ جس ہونے کی وجہ سے گرمی کی شدت۔ جہ۔  
 عکک - عکاک۔  
 عکث - دو چیزوں کا جمع ہونا۔ دو چیزوں کا موافق ہونا [اس کا فعل نہیں آتا]۔  
 عکد - (رض) قادر کرنا [الی] پناہ لینا۔  
 عکذ - (س) فریب ہونا [ب] چمٹنا۔ لازم ہونا۔  
 عکذۃ - زبان کی جڑ۔ دل کی جڑ۔

عکس - (ص) چوپایہ کا سرکشی کرنا، اور چلتے چلتے رگ جانا۔

عکس - (ض) دن، روک دینا۔ پھیر دینا۔

عکظ - (ض) کسی کو قید کرنا۔ جدا کرنا۔

مغلوب کرنا۔

عکف - گھونگر یا لے بال۔

عکف - (ض) (عن) بند کرنا۔ روکنا۔

(علی) کسی کام میں لگا دینا (فی)

ٹھیرنا۔ مقیم ہونا۔

عکل - کینہ۔ نیشیم۔ جہ۔ آعکال۔

عکل - (ن) (ض) جمع کرنا، بانٹنا۔ پھیر دینا۔

اونٹ کے دونوں ہاتھوں کو بازو

سے باندھ دینا۔ بند کرنا۔ روک

رکھنا۔ پھیر دینا۔ زمین پردے مارنا

مر جانا۔

(فی) ب [ا] مشکل اور قیاس سے

بات کتنا (علی) کام کا دشوار ہونا۔

کسی پر۔

عکھ - (ض) کپڑے میں سامان کی گٹھڑی

باندھ کر لادنا۔ قصد کرنا۔ انتظار کرنا

(علی) کسی پر حملہ کے لیے لوٹنا۔

(عن) باز رہنا۔

عکھ - گٹھڑی۔ بوجھ۔ سخت ہوا۔ جہ۔

آعکامہ۔

عکمان - کپڑے رکھنے کا صندوق وغیرہ۔ کپڑوں

کی گٹھڑی۔ جہ۔ عکومہ

عکسہ - تاریک ہونا۔

عکساء - لڑکی جس کے پیٹ میں سلوٹیں

ہوں۔ اونٹنی جس کے ہتھوں کے

لوٹنے موٹے ہوں۔ جہ۔ عککن

عکنتہ - مثل پنے کے سبب پیٹ کے سلوٹ

جہ۔ عککن۔ آعککان۔

عکنو - (ن) باندھنا۔ غم دینا۔ چڑھنا۔ بلند

ہونا (علی) رغبت و مہربانی کرنا۔

عکواء - بکری جس کی دم سفید اور باقی تمام

جسم کالا ہو۔

عکوب - عاکوب - گردوغبار۔

عکوب - (ن) حوض وغیرہ پر اونٹوں کا اکٹھا

ہونا۔ کھڑا ہونا۔ شور و فریاد کرنا۔

عکوة - زبان کی جڑ۔ ہر چیز کا سخت اور

دلدار اور ابھرا ہوا حصہ۔ دم کی جڑ

جہ۔ عکاء۔ عکاء۔

عکوف - (ض) لازم پکڑنا۔ موتیوں کی لڑی

میں منسلک ہونا۔ (عن) روکنا

(علی) مقیم ہونا۔ ٹھہرنا۔ (فی)

مسجد میں اعتکاف کرنا۔ اور گوشہ

نشین ہونا۔

عکوک - گول بدن کا مضبوط و جسم، اور

ٹھنکن آدمی۔ سخت جگہ۔

عکومہ - لٹھے والا۔ وہ جگہ جہاں لوٹ کر

جائیں۔ عورت جس کے ہر مرتبہ لڑکی

کے بعد لڑکا ہو۔

عکی - (ض) مرنا (ب) ازار وغیرہ

مضبوط باندھنا۔

عکی - خالص دودھ۔ دودھ کی مشک۔

عکیک - گرمی کی سختی جب کہ ہوا نہ چل رہی

ہو۔ جہ۔ عکاک۔

## ع-ل

عَل - چیچکڑی - آدمی جو عورتوں میں گھسار ہے۔ دہلا پتلا سن رسیدہ آدمی۔

عَل - شاید۔ مگر (عَلَّ ب) اضافہ لام تاکیدی بھی اسی معنی میں آتا ہے،

عَل - عِلَّة - (رض) بیمار ہونا۔

عَل - عِلَل - (دن - س) پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے دو مرتبہ پینا۔ یا پلانا۔

عَلَا - بلند۔

عَلَاء - قدر و منزلت کی بلندی معنی (س) بلند مرتبہ اور معزز ہونا۔

عَلَابَط - عَلِبَط - بکریوں کا گلہ۔ جما ہوا دودھ۔

عَلَاقَة - دو ملی ہوئی اور مخلوط چیزیں۔ روغن اور پنیہ ملا ہوا۔

عِلَاج - کام۔ عمل معنی (مفاعیلہ) بیمار کو دوا دارو پلانا۔ کسی چیز کا پابند ہونا۔ تلوار سے مارنا۔ کسی سے سختی دیکھنا۔

عِلَاط - گردن کا ایک رخ یعنی داہنی یا بائیں جانب۔ کبوتر کے گلے کی کٹھی۔ آفتاب کی کرنیں۔ سوئی کا دھاگا۔ اونٹ کے گردن کی رسی۔

جہ: - آعِلَطَة - عِلَط -

عَلَّاف - چارہ بیچنے والا۔ جہ: - عَلَاقَة -

عَلَّاق - اتنا چارہ اور خوراک جس سے دن کٹ جائے، راستہ گھرنی۔ وہ ککڑی جس میں گھرنی لگائی گئی ہو۔ بڑا ڈول ڈول کی رسی۔ خواہش۔ دوست

دوستی۔ گوشت کا ٹکڑا۔

عَلَّاق - لٹک جا (امر ہے)

عَلَّاقَة - اتنی خوراک جس سے دن کٹ جائے راستہ کنوئیں کی گھرنی۔ وہ ککڑی وغیرہ جس میں گھرنی لگائی گئی ہو۔ بڑا ڈول۔

ڈول کی رسی۔ خواہش جھگڑا۔ دوستی

پیشہ۔ عورت کا مہر۔ تعلق۔ موت

جہ: - عَلَّاقِيق -

عِلَاقَة - پھندا۔ گپھا۔ کٹنا وغیرہ جس میں کوئی چیز لٹکائی جائے۔ جہ: -

عَلَّاقِيق - عَلَّاقِيق -

عِلَاقَة - موت۔ سختی۔ مصیبت۔

عِلَاقِيَّة - لقب۔ جہ: - عَلَّاقِيق - رَجُلٌ

عِلَاقِيَّة - جو کسی چیز میں مشغول ہو

جائے۔ اور اس سے دست بردار نہ ہو۔

عَلَّاک - عِلَّاک - تھوڑی سی چیز جو چبائی جائے۔

عَلَّاک - گوند بیچنے والا۔

عِلَّاکِید - جا ہوا گاڑھا دودھ۔

عِلَّاکِیم - عِلَّاکِوم - مضبوط اونٹ وغیرہ

جہ: - عَلَّاکِیم -

عِلَّاکَة - عذر اور بہانہ کی تہہ بہہ بچی بچائی چیز۔ بوڑھے کی رہی سہی طاقت۔

عِلَّام - تَعَلَّیم - سکھانا۔ واقف کرنا۔

عِلَّام - بہت جاننے والا۔ بڑا عالم۔ نسب کا جاننے والا۔ حنا۔ شکرہ۔

عِلَّام - عَلَّامَة - بہت بڑا عالم۔

عِلَّامَة - نشان۔ دوزیموں کے درمیان

عَلَب - وہ شخص کہ جو چیز اس کے پاس ہو۔ اس میں کوئی طمع نہ کر سکے۔ وہ زمین جس میں باوجود بارش کے کچھ پیدا نہ ہو۔ ٹھوس اور سخت چیز۔ ج: -  
عَلُوب۔

عَلَب - سختی۔ کھردرا پن۔ سخت ہونا۔ تلوار کی باڑھ کا گر جانا۔

عَلَب - ہر سخت اور ٹھوس چیز۔ بڑی عمر کا پہاڑی بکرا۔ پرانی سوسمار یعنی گوہ۔

عَلْبَاة - گردن کے پٹھے کا کاٹنا۔ بڑھاپے کی وجہ سے کسی کی گردن کے پٹھے کا ظاہر و نمایاں ہونا۔

عَلْبَة - لبا کھجور کا درخت۔ چمڑے یا لکڑی کی دو ٹاؤنی (د) ڈبہ۔ ج: -

عَلَاب - عَلَب۔

عَلْبَطَة - بکریوں کا گلہ۔

عَلْتَة - حاجت۔ ضرورت۔ تنگی اور سخت حالی۔

عَلْتَة - بہانہ۔ بیماری۔ سبب۔ وجہ۔ باعث ج: - عَلَل۔ عَلَات۔

عَلْت - (ص) ملانا۔ جمع کرنا۔ چقماق کا آگ نہ دینا۔

عَلْت - (ط) ائی کی سختی۔ مص (س) نور شور سے جنگ کرنا۔

عَلْت - جو اپنے حق سے دست بردار نہ ہوا ہو۔ اور اصرار کے ساتھ مطالبہ کرے۔ جو اپنے باپ کے سوا دوسرے کی طرف منسوب ہو۔

عَلْتَة - اتنی خوراک جس سے دن کٹ جائے

حد فاصل۔ راستہ کے پتھر وغیرہ جو بطور نشان کے نصب کیے گئے ہوں۔ ج: - عَلَام۔

عَلَامَات۔

عَلَامَة - کسی چیز کے گمان کی جگہ۔ ہر وہ چیز جو کسی دوسری چیز کی طرف رہنمائی کرے۔

عَلَامِض - وہ شخص جس کے پاس بیٹھنا اچھا نہ سمجھا جائے۔

عَلَامِيّ - پھرتیلا۔ تیز فہم اور خوش مزاج آدمی۔

عَلَان - یا ہم ایک دوسرے پر کسی امر کو ظاہر کرنا۔

عَلَانِيّ - مرد جس کا کام ظاہر و مشہور ہو۔ ج: - عَلَانِيُون۔

عَلَانِيَّة - ظاہر کھلم کھلا۔ وہ آدمی جس کا کام معروف و مشہور ہو۔ ج: - عَلَانُون۔

عَلَادَة - ہر چیز کا بالائی حصہ۔

عَلَادَة - کھوپڑی۔ آدمی کا سر جب تک کہ گردن پر ہو۔ وہ چیز جو کسی چیز پر

زیادہ ہو۔ بالا خانہ کی اوپر کی جانب۔ ج: - عَلَاوِيّ۔

عَلَاوَة - بہترین چیز۔ اعلیٰ درجہ کی چیز۔ بلندی۔

عَلَاهِم - سخت اور قوی ہیکل اور ٹپ۔

عَلَايَة - بلند جگہ۔

عَلَب - نشان۔ سخت جگہ۔ ہر چیز سخت اور ٹھوس۔ ج: - عَلُوب۔ مص۔ دن۔ (ص) کاٹنا۔ چھیلنا۔ نشان کرنا۔



عَلَض - (ض) کسی چیز کو اکھاڑنے کے لیے ہلانا۔

عَلَط - (ض) ن، (ن) اونٹنی کی گردن پر داغ دینا۔ کسی کی برائی کرنا۔ (ب) کسی کو تیر وغیرہ سے مارنا۔

عَلَبَ (بَعِيْبُ) عُلَط - شتر بے مہار۔  
عَلَطَ (رَأَقَةُ) عُلَط - بے مہار بے داغ اونٹنی۔  
ج: - اَعْلَاط -

عَلَف - (ض) چوپایہ کو چارہ دینا۔ بہت پینا۔

عَلَف - بہت کھانے والا۔  
عَلَف - چارہ۔ ج: - عُلُوفَةٌ - اَعْلَافٌ - عِلَافٌ -

عَلْفَصَةٌ - سخت کرنا۔ بیگار کرانا۔  
عَلْفُطَةٌ - ملانا۔ خلط ملط کرنا۔  
عَلْفُوفٌ - بیوقوف آدمی جو بے سوچے سمجھے بات کہے۔

عَلَقٌ - جھولی۔ برتن۔ گالی۔ ایک درخت جس کی چھال وغیرہ چڑے کی دباغت میں کام آتی ہے۔ مص (ن) کسی کو برا بھلا کہنا اور تکلیف دینا۔ جھولاً کسی کے چونک چمٹ جانا۔ گھاس کا اوپر اوپر سے چرنا۔

عَلَقٌ - ہر بیش قیمت چیز۔ جھولی۔ برتن۔ شراب۔ ج: - اَعْلَاقٌ - عُلُوقٌ -

عَلَقٌ عِلْمٌ - علم دوست آدمی۔  
عَلَقٌ - خون۔ بہت سرخ خون۔ جما ہوا خون۔ ہر رنگی ہوئی چیز۔ مٹی کہ لاکھ میں لھس جائے۔ دشمنی جو

عَلَج - (ن) مقابلہ میں غالب آنا۔  
عَلَج - سخت آدمی سچھاڑنے والا۔ محنت و مشقت برداشت کرنے والا۔

عَلَج - چھوٹے چھوٹے کھجور کے درخت واہ۔ - عَلَجَةٌ -

عَلَج - بے دین عجمی کہ اس کا کچھ مذہب نہ ہو مضبوط جنگل گدھا۔ روٹی جس کے کنارے سخت ہوں۔ ج: - عُلُوجٌ - اَعْلَاجٌ - عَلَجَةٌ -

عَلَجَمٌ - لمبے قد کا۔ ج: - اَعْلَاجِمٌ -  
عَلَجَنٌ - شوخ و بیباک عورت۔ فریب اونٹنی۔ ج: - عِلَاجِنٌ -

عَلَجُوْمٌ - بہت درختوں والا باغ۔ رات کی تاریکی۔ بہت پانی۔ دریا کی موج۔ چھوٹی۔ قومی اونٹ۔ بڑی عمر کا بیل۔ ج: - اَعْلَاجِيْمٌ -

عَلَجُوْنٌ - قوی بیکل اونٹنی۔ ج: - اَعْلَاجِيْنٌ -  
عَلْدٌ - بہ سخت چیز۔ سختی۔ گردن کا پھٹا۔ مص (س) سخت ہونا۔

عَلْدِيٌّ - مرلیں۔ پیٹ کا بندہ کہ چھپائے کھا جائے۔

عَلَزٌ - بے قراری۔ بے چینی۔ بیتابی۔ مص (س) بے چین ہونا۔ مضطرب ہونا۔

عَلَزٌ - بے قرار جس کو نیند نہ آئے۔  
عَلَسٌ - بڑی چھوٹی۔ ایک قسم کی چیونٹی۔ ایک قسم کا گیدھوں۔

عَلَسٌ - کھانے کی چیز۔ پینے کی چیز۔ (ض) پینا۔ کھانے کی چیز پانا۔

عَلَسِيٌّ - مضبوط و سخت اونٹ یا آدمی۔

شَيْءٌ عَلَيْكَ - لیس وار چیز۔  
عَلَيْكَ - (ن۔ ض) ، دانتوں کو پینا۔ اتنا کہ  
ان میں سے آواز نکلے۔

عَلَيْكَ - موٹی تازی اور اچھے جسم والی اونٹنی۔  
عَلَيْكَ - عَلَيْكَ - سخت و دراز چیز۔  
عَلَيْكَ - چالاک و ہوشیار بڑھیا۔ سخت و  
مضبوط آدمی۔

عَلَيْكَ - جا ہوا دودھ۔  
عَلَمٌ - مخلوق یا جو چیز آسمان کے احاطہ  
میں ہے۔ عالم مص (ن۔ ض) کسی  
پر نشان کرنا۔ چیزنا۔

عَلَمٌ - آگاہی۔ دانائی۔ علم۔ مص (س)۔  
جاننا۔ یقین کرنا۔ ناپڑنا۔ مضبوط کرنا۔

عِلْمُ الْأَدَبِ - لطریح (د)۔  
عِلْمُ الْحُقُوقِ - علم قانون۔ لا۔ (د)۔  
عِلْمُ نِجْمِ الْأَرْضِ - جغرافیہ۔ (د)۔  
عِلْمُ الْكَلَامِ - علم الہیات۔

عِلْمٌ وَظَائِفُ الْأَعْضَاءِ - فریالوجی۔  
عَلَمٌ - دوزیموں کے درمیان کی حد فاصل۔  
میںڈھ۔ راستہ کا نشان برشناخت  
کے لیے قائم کیا گیا ہو۔ جھنڈا۔ لمبا۔

پہاڑ۔ کپڑے کا نقش و نگار۔ جہ۔  
آعلام۔ علامہ۔ قوم کا سردار۔  
وہ کام جس سے آدمی مشہور ہو۔ عرف  
جہ۔ آعلام۔ مص (س) ہونٹ  
پھٹا ہوا ہونا۔

عَلَمَاءُ - عورت جس کا ہونٹ پھٹا ہوا ہو۔  
زرہ۔ جہ۔ علم۔

(شَقَّةٌ) عَلَمَاءُ - پھٹا ہوا ہونٹ۔

ہمیشہ رہے۔ دائمی عشق و محبت۔  
جوزک۔ اتنا چارہ جس سے چوپایہ  
دن گزار دے۔ کونٹوں کی گھرنی۔

ڈول کی رسی۔ بڑا ڈول۔ راستہ کا  
نیچوں بیچ۔ محور جس پر دائرہ پھرے  
دا۔ عِلْقَةٌ۔

عَلَقٌ - (غیر منصرف) مصیبت۔ سختی۔ بڑا  
گروہ۔ مشاغل۔

عَلَقٌ - عَلَقٌ - عَلَقَةٌ (س)۔  
پانی پیتے وقت کسی کے گلے میں جو تک  
کا چمٹ جانا۔ برن کا جال میں پھنس  
جانا (ب) کسی کو چاہنا۔ محبت کرنا۔  
خواہش کرنا۔ جھگڑا کرنا۔

عِلْقَةٌ - بے آستین کا کرتہ۔ نوزائیدہ بچہ کا  
کپڑا۔ ایک دخت جس سے چڑے  
کو دباغت کرتے ہیں۔

عِلْقَةٌ - لٹکاؤ۔ اتنا چارہ جو ایک دن کو  
کافی ہو جائے۔ ایک دن کی  
خوراک۔ گوشت کا ٹکڑا۔ تقوڑی  
سی چیز ہر پیش قیمت چیز جہ۔  
عَلَقِيٌّ۔

عَلَقِيٌّ - منتقل یعنی اندرائیں۔ ہر کڑوی چیز۔  
جہ۔ عَلَاقِيٌّ۔

عَلَقِيَّةٌ - کھانے میں کڑوی چیز ڈالنا۔  
عَلَقُومٌ - مضبوط اونٹ (مذکر و مؤنث)۔  
جہ۔ عَلَاقِيَّةٌ۔

عَلَيْكَ - منوبہ اور رپستہ اور سرد وغیرہ کا گوند  
جہ۔ عَلَوُكٌ - آعَلَكَ۔

عَلَمًا عَلَيْكَ - کھانا جو چبانے میں سخت ہو۔

ناممکن ہو جائے

عَلْوَسْ - پیٹ کا درد۔ دیوانگی۔ جلدی کی موت۔

عَلْوَش - گیدڑ۔ بھیڑیا۔ حریص اور چھوڑا آدمی۔

عَلْوَفَة - چارہ۔ وہ بکری وغیرہ جسے گھرباندھ کر چارہ کھلائیں اور چرنے کے لیے بڑھچھوڑیں۔ جڑ۔ عُلْف -

عَلْوُق - موت۔ بھوت۔ مصیبت۔ سختی۔ عورت جو شوہر کے سوا اور کسی سے محبت کرے۔ دودھ پلانے والی دانی۔

عَلْوُق - بیش قیمت ہترمال۔ واہ۔ عُلُق -

عَلْوَنَة - عَلْوَان - عنوان کھنا۔ عِلْم - بھوکا ہونا۔ دہشت کھانا۔ حیران و سرگردان ہونا۔

عَلْهَاص - بوتل وغیرہ کی ڈاٹ۔ جڑ۔ عَلَاهِيص -

عَلْهَان - بھوکا آدمی۔ زشت مرغ۔ (م) عَلْهِي - جڑ۔ عَلَاة - عَلَاهِي -

عَلْهَب - لمبے سینگوں والا بکرا دبل گائے۔ بلند قامت آدمی جڑ۔ عَلَاهِب - (م) عَلْهَبَة -

عَلْهَدَة - بچہ کو اچھی غذا کھلانا۔ عَلْهَز - پرانی اونٹنی جڑ۔ عَلَاهِز -

عَلْهَصَة - ہاتھ سے بوتل وغیرہ کی ڈاٹ نکلنے لگنا۔ کسی کی آنکھ نکال لینے کا ارادہ کرنا (من) کسی سے کوئی چیز پانا اب کسی کو ریکارڈ پر لگانا۔ کسی پر

عَلِيص - تعجب انگیز چیز۔

عَلْن - عَلْوَن - عَلَانِيَة (ن من ك) ظاہر ہونا۔ ظاہر کرنا۔

عَلَنْتَة - بھید چھپانے والا۔ بہت ظاہر کرنے والا۔

عَلَنْدَس - سخت مضبوط۔ قوی شیر۔ (م) عَلَنْدَسَة -

عَلَنْدِي - ہر موٹی چیز ایک خاردار درخت والا۔ عَلَنْدَاة - جڑ۔ عَلَانِد -

عَلَنْدِي - مضبوط و فریب اونٹ۔ عَلُو - اوپر۔ بلندی۔ زبردستی۔ اور سختی۔ (جیسے آخَذْتُہ عَلُوًا)

عَلُو - بلندی۔ چیز چوٹی۔ چیز کا ہتر و منتخب حصہ۔

عَلُوَالِدَا اس وَعَلُوَالِدَا اسَا - بالاخانہ۔ عَلُو - بلندی۔ مرتبہ کی بڑائی۔ مص (ن) بلند ہونا۔ بلند جگہ پر پڑھنا۔ غالب آنا۔ قہر کرنا۔ سوار ہونا۔ (م) کسی کو بلند کر دینا۔ چٹ ہانا۔ (بالسيف) کسی کو تلوار وغیرہ سے مارنا۔ (في الارض) تکبر۔ وغیرہ کرنا۔

عَلُوَاء - بڑا قصہ۔ عَلْوَان - عنوان۔ سرخی۔ خط کا پتہ

(د) عَلُوَج - پیغام۔ پیغامبر۔ عَلُوْدَة - کسی جگہ اس طرح چٹ جانا۔ کہ وہاں سے اسے حرکت دینا

عَلُوَج - پیغام۔ پیغامبر۔ عَلُوْدَة - کسی جگہ اس طرح چٹ جانا۔ کہ وہاں سے اسے حرکت دینا

عَلُوَج - پیغام۔ پیغامبر۔ عَلُوْدَة - کسی جگہ اس طرح چٹ جانا۔ کہ وہاں سے اسے حرکت دینا

عَلُوَج - پیغام۔ پیغامبر۔ عَلُوْدَة - کسی جگہ اس طرح چٹ جانا۔ کہ وہاں سے اسے حرکت دینا

عَلُوَج - پیغام۔ پیغامبر۔ عَلُوْدَة - کسی جگہ اس طرح چٹ جانا۔ کہ وہاں سے اسے حرکت دینا

عَلُوَج - پیغام۔ پیغامبر۔ عَلُوْدَة - کسی جگہ اس طرح چٹ جانا۔ کہ وہاں سے اسے حرکت دینا

سختی کرنا۔

عَلِيَّةٌ - ہاتھ سے بوتل وغیرہ کی ڈاسٹ  
نکالنے لگنا۔ کسی کا آنکھ نکال  
لینے کا ارادہ کرنا۔

عَلِيَّةٌ - سخت اور قوی ہیکل اندر۔

عَلِيٌّ - بلند۔ قوی و مضبوط۔ بڑا۔ بزرگ۔  
شریف و بلند مرتبہ۔

عَلِيٌّ - بالا خانہ۔ جہ: - عَلِيُّونَ

عَلِيٌّ - مرتبہ کی بلندی۔ مرتبہ کی بڑائی  
اور بلندی اختیار کرنا۔ بلند  
درجات۔

عَلِيٌّ - اوپر۔ پر (حرف جار)

عَلِيَاءٌ - آسمان۔ پہاڑ کی چوٹی۔ بلند جگہ  
اہم اور ضروری کام۔

عَلِيًّا - (اعلیٰ کا مؤنث) اونچی۔

عَلِيَّانٌ - دراز قامت جسم مرد۔ دراز قد  
موٹی تازی عورت۔

عَلِيَّانٌ - بڑے ٹیل ڈول کا لمبا ترانگا  
آدمی۔ اونچی اونٹنی۔ بلند آواز  
نر بچو۔

عَلِيَّانٌ - اونچی اونٹنی۔ اونچی آواز۔

عَلِيَّانٌ - عنوان کتاب۔

عَلِيَّةٌ - عَلِيَّةٌ - بالا خانہ۔ جہ: - عَلَا لِيٌّ  
عَلِيْفٌ - موٹی بکری۔

عَلِيْفَةٌ - اونٹنی اور بکری جسے گھرباندھ کر چارہ  
کھلائیں اور چرنے کے لیے نہ  
چھوڑیں۔ جہ: - عَلَا لَيْفٌ

عَلِيْفِيٌّ - چوپایہ کا چارہ۔ جو۔ اسپست  
دکھ ایک گھاس ہے،

عَلِيْفَةٌ - عورت کا مہر۔ جہ: - عَلَا لَيْفٌ

عَلِيْلٌ - بیمار۔ جہ: - آعَلَةٌ - آعَلَاءٌ

عَلِيْكَةٌ - عمت جس نے دوبارہ خوشبو ملی ہو  
بیمار عورت۔ جہ: - عَلَا لَاتٌ -  
و عَلَا لِيلٌ

عَلِيْمٌ - دانش مند علم والا۔ جس کا علم تمام  
اشیا کو محیط ہو۔ جہ: - عَلَمَاءٌ

خدا تعالیٰ کا ایک اسم صفت۔  
عَلِيُّونَ - جنت کے بالا خانے۔ وا: - عَلِيٌّ

ساتویں آسمان میں ایک مقام  
جہاں مومنین کی ارواح

رہتی ہیں۔ بلند مقامات کے  
باشندے۔

## ع۔ م

عَمٌّ - چچا۔ تایا۔ جہ: - أَعْمَامٌ - عُمُوْمَةٌ -  
أَعْمَةٌ - بہت بڑا گروہ۔ متفرق و

پراگندہ۔ جہ: - عَمَائِمٌ -

عَمٌّ - کس چیز سے؟ (لفظ استفہام ہے  
اصل میں عَنْ مَاتِقًا)

عَمِدٌ - اندھا۔ جاہل (م) عَمِيَّةٌ - جہ: -  
عَمُوْنٌ -

عَمِدُ الْقَلْبِ - جاہل مرد۔ (م) عَمِيَّةٌ  
الْقَلْبِ -

عَمَّ صَبَا حًا - آ لَعَمَّ صَبَا حًا - صبح کے  
وقت خیریت سے رہو۔ گڈ مارنگ

(عرب جاہلیت کا سلام تھا)

عَمَاءٌ - گراہی۔ جھگڑا۔ ابر۔

عِمَادٌ - گھر۔ اونچی عمارت۔ لشکر کا قائد

سَام بن نوح کے پرتوتے عمیق کی  
 نسل سے تھی۔ فراعنہ مصر اسی قوم  
 میں سے تھے۔  
 عَمَامَة - پگڑی۔ خود۔ جر۔ عَمَامَة۔  
 عَمَامَة - بڑا یعنی لکڑیاں آپس میں  
 بندھی ہوئی جن پر بیٹھ کر دریا وغیرہ کو  
 عبور کریں۔ گھنٹی۔  
 عَمَاوَة اللہ - (بمعنی اَمَّاوَة اللہ) قسم ہے  
 اللہ کی۔  
 عَمَائِيَة - گراہی۔ تاریکی۔ رات کا بقیہ حصہ۔  
 ایک پہاڑ کا نام۔  
 عَمَّت - (رض) کاتنے کے لیے پونی بنانا۔  
 غالب آنا۔ روک دینا۔ چھڑی سے  
 بے باکانہ مارنا۔  
 عَمَّة - چھوٹی۔ جر۔ عَمَّات  
 عَمَّة - عامر باندھنے کی ہیئت۔  
 عَمَّج - عَمَّج - عَمَّج - سانپ۔  
 عَمَّج - (رض) جلدی چلنا۔ فی (تیرنا۔  
 عَمِد - وہ جگہ جس کو بارش نے ٹر کر دیا ہو۔  
 (بِعیب) عَمِد - اونٹ جس کے کونان میں  
 زخم ہو۔  
 عَمِد - کوشش۔ ارادہ۔ یقین۔ مص  
 (ن) ستون بنانا۔ ستون پر کھڑا  
 کرنا۔ بیماری کا کسی کو کمزور کر دینا  
 تکلیف دینا۔ گرا دینا۔ ٹکلین کرنا۔  
 (ل) قصد کرنا۔  
 عَمِد - ستون۔ وا۔ عَمُود۔ مص  
 (س) غصہ کرنا۔ اونٹ کے کونان  
 کا اندر سے زخمی ہونا۔ کمزور ہونا۔

فیک لگانے کی چیز۔ وا۔ عَمَادَة۔  
 جر۔ عَمُد۔  
 عَمَّاس - تحفہ۔ ہدیہ۔ پگڑی۔ ٹوپی۔ گل دستے۔  
 قبیلہ کی ایک شاخ۔ وا۔ عَمَّارَة۔  
 جر۔ عَمَّائِد۔  
 عَمَّاس - صاحب علم و وقار۔ نمازیں جماعت  
 کا پابند۔ نیک صفات والا۔  
 بہت عبادت گزار۔ ایک صحابی  
 جلیل القدر کا نام۔  
 عَمَّاس - آباد رکھنے والے۔ بسانے والے۔  
 وا۔ عَمَّاس۔  
 عَمَّاسُ الْبَيْتِ - اہل خانہ۔ گھر میں بود و باش  
 رکھنے والے۔  
 عَمَّارَة - پگڑی۔ ٹوپی۔ تاج۔ جر۔ عَمَّار۔  
 قبیلہ کی ایک شاخ۔ بڑا قبیلہ۔  
 جر۔ عَمَّائِد۔ تحفہ۔ ہدیہ۔  
 عَمَّارَة - آبادی۔ قبیلہ کی ایک شاخ۔ جر۔  
 عَمَّائِر۔  
 عَمَّاس - سخت لڑائی۔ سختی۔ دشوار کام۔ خوب  
 اندھیری رات۔ جر۔ عَمَّس۔  
 عَمَّاسَة - عَمُوسَة - عَمَّسَان (ك) - (س)  
 سیاہ و تاریک ہو جانا۔  
 (يَوْم) عَمَّاس - وہ دن جس میں خوب  
 تاریکی چھا جائے۔  
 عَمَّاضِيَم - سخت و درشت گھوڑا۔  
 عَمَّاقَة - عَمَّق (ك) - (س) دوڑ تک  
 گہرا ہونا۔  
 عَمَّاكَة - مزدوری (د) مویہ۔  
 عَمَّا لِيَقِي - ایک قدیم قوم جو

ترک کرنا۔ تر ہونا۔ (ب) کسی سے چھٹنا۔

عَمَدُ النَّوْمِي - بہت احسان و سلوک کرنے والا۔

عَمَدٌ - جوانی میں بھرا ہوا جوان۔

عَمَدَان - لشکر کا پیغام لے جانے والا۔

عَمَدَان - بلند قامت آدمی۔

عَمَدَةٌ - بھروسہ کا آدمی۔ لشکر کا اہلچی۔

(د) گاؤں کا چودھری۔ کمیٹی کا

پُرستہ۔

عَمْرٌ - عَمَسٌ۔ عَمَسٌ۔ زندگی۔ جز۔ آخمار۔

عَمْرٌ - نام (عامر سے مصدر)۔

عَمْرٌ - عیسائیوں کا عبادت خانہ۔ گرجا۔

دین۔ مذہب۔ مسوڑھے۔ کان کی

ادریک بالی۔ جز۔ عَمُوسٌ

عَمْرٌ - زندگی۔ (اس لفظ کا استعمال اکثر

قسم کے لیے ہوتا ہے)۔

عَمْرُ اللّٰہِ - لَعَمْرُ اللّٰہِ - خدا کی قسم۔

عَمْرٌ - عَمْرٌ - عَمَارَةٌ (س۔ ن) دیر تک

رہنا۔ جینا۔ زندہ رہنا۔

عَمْرٌ - عَمَارَةٌ - (ن۔ ض) خدا کی

عبادت کرنا۔ خدمت کرنا۔ روزہ

رکھنا۔ نماز پڑھنا۔

عَمْرَان - دو گوشت کے ٹکڑے حلق کے

کوسے پر لٹکے ہوئے۔

عَمْرَان - آبادی۔ تہذیب۔ شائستگی (د)

عَمَدَةٌ - پگڑی۔ گہنی۔ جو چیز سر پر رکھی

جائے۔

عَمْرَةٌ - حج۔ زیارت۔ ایک عبادت جو

مکہ معظمہ میں ادا کی جاتی ہے۔

عورت کا ازالہ بکارت اس کے

میکے میں۔ جز۔ عَمَسٌ -

عَمَسَاد - سخت مزاج و طاقتور آدمی۔

اصیل اونٹ لمبے سفر کی صلاحیت

رکھنے والا۔

عَمَسَاس - مضبوط و قوی آدمی۔ تیز چپال

سخت قوت۔

عَمَسَاط - لمبا۔ دراز۔ جز۔ عَمَارِط -

عَمَسَاط - چھریا جوان۔ بہت ہسار آدمی

لمبا۔ مصیبت۔

عَمَرُوط - چور مغل۔ مضبوط اصیل اونٹ۔

جز۔ عَمَارِيط -

عَمْرِي - جو چیز عمر بھر کے لیے دے دی

گئی ہو۔

عَمْرِي الشَّجَر - پرانا درخت۔

عَمَسٌ - سخت رطائی۔ دشوار کام۔ مص

(ن) مٹ جانا۔ مٹا دینا۔ چھپا

دینا۔ خود کو باوجود واقف ہونے

کے ناواقف ظاہر کرنا۔

عَمَسٌ - بھلائی۔ بہبودی۔ موافق و برابر۔

مص (ن) بلا قصد مار بیٹھنا۔

عَمَسٌ - (س) موٹا ہونا۔ بینائی کا کمزور

ہونا اور آنکھوں سے پانی بہنا۔

{ فح } اثر کرنا۔

عَمَشُوش - خوشہ جس کا بعض میوہ کھایا جا چکا

ہو۔ جز۔ عَمَاشِيش -

عَمَطٌ - (ن) عیب لگانا۔ ناشکری

کرنا۔

عَمَقُ - گہرائی - جز: - اَعْمَاقُ  
 عَمَقُ - گہرائی - جھلک کا کنارہ نظر سے دور  
 جز: - اَعْمَاقُ -  
 عَمَلٌ - کام - عزت و حرمت (د) کا نام -  
 کارروائی - جز: - اَعْمَالٌ - مص  
 (س) ، کام کرنا - اچھے کام والا  
 ہونا -  
 عَمِلٌ - کامی آدمی - کسی دھندے میں لگا  
 ہوا - بَرَقَ عَمِلٌ - لگاتار چمکنے  
 والی بجلی -  
 عَمَلَاتٌ - جو لوگوں کو خوش طبعی سے فریب  
 دے - جز: - عَمَالِيَتٌ -  
 عَمَلَةٌ - دغا بازی - فریب دہی - چوری -  
 عَمَلَةٌ - کام کرنے کا انداز - مزدوری - بد  
 نیتی - کام -  
 عَمَلَةٌ - کام - نَاقَةُ عَمَلَةٍ چست اونٹنی -  
 عَمَلَةٌ - زلفندہ سر یا یہ بسکہ راج الوقت (د) -  
 عَمَلَقَةٌ - پیشاب - گوبر مص چوپایہ کا گوبر  
 کرنا - بات کی تہہ کو پہنچ جانا -  
 عَمَلِيَّةٌ - آپریشن - زخم کی چیر بھانڈ (د) -  
 عَمَمٌ - آدمی کے جسم کی بڑائی - کثرت  
 بلاروک ٹوک سب کے واسطے  
 عام -  
 عَمُوٌ - گہرائی - خواری - ذلت - جز: -  
 اَعْمَاءٌ - مص (ن) عاجزی  
 کرنا - تابعدار ہونا - (الی) مائل  
 ہونا -  
 (طَاعُونَ) عَمُوَسٌ - دبائے طاعون جو  
 زمانہ اسلام میں عمد حضرت عمر

میں پہلے پہل شام میں پھیلی -  
 عَمُوجٌ - تیر جو بل کھاتا ہوا جانے -  
 عَمُوْدٌ - ستون - سردار - سپہ سالار - تلوار  
 کی پشت کی گیریں - بہت غم زدہ  
 آدمی (د) اخبار کا کالم - جز: -  
 اَعْمَدَةٌ - عَمَدٌ - عَمَلٌ -  
 عَمُوْدُ الْبَطْنِ - پیچھے -  
 عَمُوْدُ الصُّبْحِ - صبح کی روشنی -  
 عَمُوَسٌ - عَمَّاسَةٌ - (ن - ض) گھر سے جدا  
 نہ ہونا - آباد رکھنا -  
 عَمُوَسٌ - جو بغیر غور و فکر کوئی کام شروع کر  
 دے اور پھر غلطیاں کرے - دشوار  
 کام - قابو سے باہر -  
 عَمُولٌ - محنتی - مزدور -  
 عَمُوَكَةٌ - ایجنٹ کا کمیشن - (د) -  
 عَمُوَمٌ - عَمَمٌ (ن) سب کو شامل ہونا -  
 (مجمولاً) سر پر عامہ بندھا ہوا ہونا -  
 عَمُوْمَةٌ - (ن) چچا ہونا -  
 عَمُوِيٌّ - عم کی طرف منسوب -  
 عَمَمٌ - حیرانی و گہرستی - راستہ گم کرنے یا بحث  
 کرنے کی جہالت گہرائی - یا مباحثہ  
 میں راستہ اور دلیل سے جہالت و  
 نادانانہ فہم اور تردد مص (س)  
 زمین کا بے نشان ہونا -  
 عَمَمٌ - سرگشتہ و مترد - جو ہر طرف بھٹکتا  
 اور ٹھوکریں کھاتا پھرے - جز: -  
 عَمَمُونَ -  
 عَمَمٌ - عَمُوَمٌ - عَمُوْمَةٌ - عَمَمَانٌ (ن)  
 (س) سرگشتہ و مترد ہونا -

بہشتگنا۔

(اَرْضٌ) عَمَّهَاءُ۔ زمین جس میں کوئی نشان نہ ہو۔

عَمِّيَّةٌ۔ عام آدمیوں میں سے ایک۔

عَمِّيٌّ۔ نابینائی۔ قد۔ درازی۔ گردوغبار

مص (دس)، اندھا ہو جانا۔ مخفی ہونا

دل کی بینائی اور بصیرت کا ضائع ہونا۔

عَمِّيٌّ۔ (رض) جاری ہونا۔ اونٹ کا بڑا بڑانا۔

اور جھاگ اڑانا۔

عَمِيٌّ۔ دل کا اندھا جاہل۔ جہ۔ عَمُونٌ۔

(قَتِيلٌ) عَمِيَّتًا۔ مقتول جس کا قاتل معلوم

نہ ہو۔

عَمِيَاءُ۔ اندھی عورت۔ جہ۔ عَمِيٌّ۔ مذ

عَمِيٌّ۔

عَمِيَانٌ۔ اندھے۔ دا۔ عَمِيٌّ۔

عَمِيَّتٌ۔ نگہبان۔ مست۔ احمق و

سُست جس کی کوئی رائے

نہ ہو اور کوئی بات اس کی سمجھ

میں نہ آئے۔

عَمِيَّةٌ۔ گمراہی۔ چہل۔

عَمِيَّةٌ۔ تکبر و غور۔ گمراہی۔

عَمِيَّةٌ۔ اون وغیرہ کا ایک گھما۔ جہ۔

عَمِيَّتٌ۔

عَمِيَّتَلٌ۔ مٹاپے کی وجہ سے سُست آدمی۔

عمہ گھوڑا۔ ناز سے دامن گھسیٹ

کر چلنے والا۔ چست آدمی۔

عَمِيْدٌ۔ قوم کا سردار شکستہ دل عاشق۔

بے چین و بے قرار۔ بے امام (د)

پرنسپل۔ ڈین۔

عَمِيْدَرٌ۔ نازک بدن اور مال دار۔ بچہ۔

عَمِيرٌ۔ آباد جگہ قَدِيْبٌ عَمِيْرٌ۔ سخت

بنا ہوا کپڑا۔

عَمِيْرَةٌ۔ شہد کا چھتہ۔ جہ۔ عَمَائِرٌ۔

عَمِيْسٌ۔ بے سرو پا اور دشوار کام۔ جو کام قابو

میں نہ آئے۔

عَمِيْسَةٌ۔ ناحق قسم۔ جہ۔ عَمَائِسٌ۔

عَمِيْقٌ۔ گہرا۔ طَرِيْقٌ عَمِيْقٌ۔ لمبا راستہ

جہ۔ عَمِقٌ۔ عَمَاقٌ۔

عَمِيْقَةٌ۔ گہرا۔ جہ۔ عَمِقٌ۔ عَمَائِقٌ۔

عَمَاقٌ۔ بَدْرٌ عَمِيْقَةٌ۔ گہرا

کنواں۔

عَمِيْلٌ۔ ایجنٹ۔ گاہک۔ (د)

عَمِيْمٌ۔ تمام۔ بہت سی جمع کی ہوئی چیز سوکھا

ہوا چارہ۔ جہ۔ عَمْمٌ۔

(جَارِيَةٌ) عَمِيْمَةٌ۔ کشیدہ قامت لڑکی

تَخَلَّةٌ عَمِيْمَةٌ۔ لمبی کھجور۔

جہ۔ عَمْمٌ۔

## ع-ن

عَنْ (اسم) جانب (حرف جار معنی) سے

(مقتدری) بنو تمیم کے نزدیک فعل کو

مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے۔

عَنِ۔ مصیبت زدہ۔ مغموں۔ رنجیدہ۔

عَنْ۔ (ن) عنوان لکھنا۔ لگام کی ڈوریاں

بنانا۔ باگ کھینچ کر روکنا۔ گالیاں دینا

(عن) (م) (جہولاً) قاضی کا کسی پر

نام دی کا حکم لگانا۔ جادو کے ذریعہ

عورت کے کام کا نہ رہنا۔

عَنْ۔ عَنَّ۔ عَنَّوْن (ض-ن) ظاہر ہونا



میں بیچ کا ستارہ۔ دو سال کی زکوٰۃ۔  
 عَنَاقُ الْأَرْضِ - ایک شکاری جانور جس کا  
 نام فارسی میں سیاہ گوش ہے۔  
 عَنَاقَة - محرومی۔ ناکامی۔ سختی۔  
 عَنَاق - ریت کا تودہ۔  
 عَنَان - بادل۔ برسائے بادل۔ ۱۹۔  
 عَنَانَة -  
 عِنَان - لگام کی ڈوریاں۔ باگ۔ ۱۶۔  
 آعِنَة - عُنُن - پیٹھ کی ایک  
 رگ۔ آسمان میں نظر آنے والی  
 چیزوں میں سے کوئی چیز گھس کا  
 گرداگرد۔ مصدقہ (مفاعلہ) شریک  
 ہونا۔ پیش آنا۔  
 عَنَان - طال مٹول کرنے والا۔ ڈھیل کرنے  
 والا۔ بڑھ جانے والا۔  
 عَنَانَة - نامردی۔  
 عَنَانِيَة - (من) کسی کو غلین کرنا بے آرام کرنا۔  
 عَنَانِيَة - (من) کسی کو فکر میں ڈال دینا اور اس  
 کو مصروف و بے آرام کر دینا۔ قصد کرنا۔  
 کسی چیز کی حفاظت کرنا (مجمولاً)  
 کسی کے سبب رنج پیش آنا۔  
 عِنَب - انگور۔ ۱۹۔ عِنَبَة - انگوری  
 شراب۔ ۱۶۔ عِنَبَات  
 آعِنَاب -  
 عِنَابَان - شاداں و فرحان اور چست و  
 سبک آدمی۔ سست اور بھاری  
 جسم والا آدمی۔ پرانا ہرن۔  
 عِنْبَة - انگور کا دانہ۔ ۱۶۔ عِنَبَات  
 عُنُوب - عِنَب - چھوٹا سا

سامنے رکھ لینا۔ پیش آنا۔  
 عَنَاء - رنج مصدقہ (من) رنج برداشت  
 کرنا۔ تکلیف دہ اٹھانا۔  
 عَنَاب - انگور بیچنے والا۔  
 عُنَاب - بڑی ناک والا مرد۔ عورت کی فرج  
 کی بستگی۔ چھوٹا اور کالا پہاڑ۔ بڑا  
 اور گول پہاڑ۔  
 عُنَاب - (جنس) بیر کے مشابہ سرخ رنگ  
 کا ایک مشور پھل۔ پیلو کا پھل۔  
 ۱۹۔ عُنَابَة -  
 عُنَابَج - اکھر آدمی۔ بد مزاج۔  
 عُنَابِس - شیر۔  
 عُنَابَج - پشت کا درد۔ رسی جو بڑے ڈول  
 کے نیچے باندھی جاتی ہے۔ ۱۶۔  
 آعِنْبَجَة - عُنْبَج -  
 عِنَاد - مَعَانِدَة - مخالفت کرنا۔ مفارقت  
 کرنا۔ جھگڑا کرنا۔  
 عِنَاس - آئینہ۔ ۱۶۔ عُنَس -  
 عِنَاش - مَعَانِشَة - لڑائی میں معانقہ  
 کرنا۔ ہاہم فخر کرنا۔  
 عِنَافَة - (نک) (ب) علیٰ کسی پر سخت  
 ہونا۔  
 عِنَاق - ایک دوسرے کی گردن میں محبت  
 سے ہاتھ ڈالنا۔ معانقہ کرنا۔ گلے  
 ملنا۔  
 عِنَاق - بھڑکا مادہ۔ بچہ جو ایک سال  
 سے کم کا ہو۔ ۱۶۔ آعِنَاق -  
 عُنُوق - مصیبت و سختی۔  
 سخت کام۔ نا امیدی۔ بنات العنق

آبلہ جو آدمی کے جسم پر نکل آئے۔  
 عُنْبُرٌ - بے وقوف۔ بھاری جسم اور ڈھیلے  
 گوشت والا۔  
 عُنْبُرٌ - ایک قسم کی خوشبو۔ ایک بڑی مچھلی  
 وا۔ عُنْبُرَةٌ - جرہ۔ عُنْبُرٌ -  
 جاڑے کی شدت۔ قوم میں خالص  
 النسب لوگ (د) کارخانہ۔ مخزن۔  
 گودام۔ مال خانہ۔  
 عُنْبُرَةُ الْقُدْسِ - پیاز  
 عُنْبُرِيٌّ - شراب وغیرہ جس میں عنبر کی  
 آمیزش ہو۔  
 عُنْبُسٌ - شیر۔ جرہ۔ عُنْبَالِسٌ -  
 عُنْبُطٌ - ٹھنکنا اور بہت گوشت والا آدمی۔  
 عُنْبُلٌ - عُنْبُلَةٌ - عورت کی فرج کے  
 درمیان کی گوشت کی بلندی۔ عورت  
 جس کی فرج کے درمیان کا ابھار لبا  
 ہو۔ گیہوں وغیرہ کوٹنے کا موصل۔  
 جرہ۔ عُنْبَابِلٌ -  
 عُنْبِتٌ - بڑی جو بڑھنے کے بعد پھوٹ گئی ہو۔  
 عُنْتٌ - تباہی۔ گناہ۔ مص (س) پیوند لگی  
 ہوئی بڑی کاٹوٹ جانا۔ نیست و  
 نابود ہو جانا۔ سختی میں پڑنا۔ اور  
 رنج پہنچنا۔ گنہگار ہونا۔ مشکل  
 کام میں پڑنا۔ نافرمانی کرنا۔ تباہ  
 کرنا۔ کمزور ہونا۔  
 عُنْتَةٌ - کلاسی کا احاطہ۔ بھٹی۔ بڑا چڑھا۔  
 رمی۔ جرہ۔ عُنْتَنٌ - عُنْتَانٌ - کسی  
 کی نامردی پر قاضی کا فتویٰ۔ جادو  
 کا کسی عورت کے کام کا نہ رکھنا۔

(اسم مصدر)  
 عُنْتُرٌ - حصہ۔ بڑی کمی۔ وا۔ عُنْتُرَةٌ -  
 عُنْتُرَةٌ - کمی کی بھینچنا ہٹ۔ مص سختیوں  
 میں پڑنا۔ جنگ میں بہادری دکھانا۔  
 نیزہ مارنا۔  
 عُنْتُلٌ - سخت کھدرا۔ عورت کی فرج کے  
 بیچ میں جو زائد گوشت ہے۔ جرہ۔  
 عُنْتَا تِلٌ -  
 عُنْتَلَةٌ - کھڑے کھڑے کرنا۔ پارہ پارہ کرنا۔  
 عُنْجٌ - (ن) اونٹ کو اس طرح سدھانا، کہ  
 جب مہار گھینیں تو پیچھے کو ہٹے۔  
 کھینچنا۔ ڈول میں عناج باندھنا۔  
 عُنْجَةُ الْهُودِ - جرہ۔ ہودہ کا ایک بازو۔  
 عُنْجُجٌ - جنگلی ریحان۔ تلسی۔ نازبو۔ جرہ۔  
 عُنْجَا جِجٌ -  
 عُنْجِجٌ - بڑا۔ کھان۔ عُنْجَا جِجٌ -  
 عُنْجِدٌ - عُنْجِدٌ - عُنْجِدٌ - ایک  
 قسم کی منقہ یا سیاہ منقہ۔ یا منگی  
 منقہ۔  
 عُنْجِدَاةٌ - انگور کا منگی منقہ ہو جانا۔  
 عُنْجِرَةٌ - نڈر اور دلیر عورت۔ مص ہونٹ  
 بے کس کے انھیں الٹ پلٹ کرتے  
 ہوئے بڑھانا۔  
 عُنْجُشٌ - بہت بوڑھا۔ شیخ فانی۔ جرہ۔  
 عُنْجَا حِشٌ -  
 عُنْجَفٌ - لاغری کے سبب خشک۔ گھٹیلنا  
 ٹھنکنا۔ جرہ۔ عُنْجَا حِجَفٌ -  
 عُنْجِلٌ - بڑھا جس کی بڑھاپے سے بڑیاں  
 نکل آئی ہوں۔ جرہ۔ عُنْجَا حِجَلٌ -

عَجْوَج - آغاز شباب۔ عنفوان شباب۔  
 عمدہ اونٹ۔ عمدہ گھوڑا۔ ج:۔  
 عَمَّا جِيْمَج -  
 عَجْوَرَة - شیشہ کا غلاف۔ ج:۔  
 عَمَّا جِيْر -  
 عَعْد - جانب۔ طرف۔  
 عَعْد - عَعْد - عَعْد - پاس (ظرف زمان و مکان) جانب۔  
 عَعْدَاءَة - دشواری۔ فریب۔ ظلم۔  
 عَعْدَد - حیلہ۔ چارہ۔ پرانی چیز۔  
 عَعْدَرَة - مینہ کا زور سے برسنا۔  
 عَعْدَلَة - بڑی بڑی چھاتیوں والی عورت۔  
 مص پٹے کا سخت ہوجانا۔ بلبلی کا چمکنا۔  
 عَعْدَلِيْب - بلبلی۔ ج:۔ عَمَّا دِل - دب  
 حذت کر دی گئی،  
 عَعْدَم - ایک گھاس جس سے کپڑے وغیرہ کو سرخ رنگ دیتے ہیں۔ دم الاخوین۔  
 عَعْدِيَة - (ب) شوق دلانا۔ ابھارنا۔  
 عَعْن - مادہ بھیڑ۔ ہرنی۔ ج:۔ آَعْنُ  
 عَعْنُوْس - عَمَّا سِن - مص (ن)  
 کسی کو چھوٹے نیزہ سے مارنا۔  
 (عن) [اعراض کرنا۔  
 عَعْنِيَة - چھوٹا سانپ۔ ج:۔ عَعْنُ -  
 عَعْنِيَة الْفَأْس - کھانسی کی دھار۔  
 عَعْس - (س) مسلسل اور ہر وقت آئینہ دیکھتے رہنا۔  
 عَعْس - شاہین۔ مضبوط اونٹنی۔ ج:۔  
 عَعْس - عَعْس - (ن) لکڑی

کو موڑنا اور خم دینا۔  
 عَعْس - (ن) موڑنا۔ اکھاڑنا۔ جدا کرنا۔  
 بے آرام کرنا۔ ہٹانا۔ دور کرنا۔  
 عَعْسِر - جڑ۔ اصل۔ مادہ۔ مصیبت۔ ہمت ارادہ۔ حاجت و ضرورت۔ ج:۔  
 عَمَّا صِر -  
 عَعْدُ الْعَصْرَة - عید جو عیسائیوں کے یہاں حضرت مسیح کے شاگردوں میں روح القدس کے حلول کرنے کی یادگار میں منائی جاتی ہے۔ عید جو یہودیوں میں کوہ طور پر تورات کے نزول کی یادگار ہے۔  
 عَعْسَل - عَعْسَلَاء - جنگلی پیاز۔  
 زگی پیاز۔ ج:۔ عَمَّا صِل -  
 عَعْسُوَة - نقوڑی سی گھاس کہ کہیں کہیں اگی ہو۔ متفرق و پر اگنہ۔ تھوڑا سا۔  
 بقیہ۔ ج:۔ عَمَّا صِي -  
 عَعَسَا - گردن کی لمبائی اور خوب صورتی ہر چیز کی درازی۔  
 عَعْسَب - عَعْسَبَان - عَعْسُوْب - ایک قسم کی ٹڈی۔ م:۔ عَعْسُوْبِيَة  
 عَعْسَبِيَة - (ب) مذاق کرنا۔ گالی دینا۔ برا بھلا کہنا۔  
 عَعْسَبَة - ہمزہ کو عین سے بدلنا۔ عن کے ساتھ روایت بیان کرنا۔ (مثلاً سمعنا عن فلان عن فلان)  
 عَعْف - سختی (رفق کی ضد) ہر چیز کا شروع مص (ك) سخت ہونا۔ (ب) وعلیٰ [کسی پر سخت ہونا۔

عُنْفٌ - عُنْفٌ - سختی - شدت - بستگاری۔  
عُنْفَةٌ - پن پکی کا چرخہ جس پر پانی گرنے سے  
پھٹی جاتی ہے۔

عُنْفَةٌ - عُنْفَةٌ - طبیعت کی کراہت۔ نفرت  
عُنْفِيسٌ - چھوٹا اور کھوٹا یعنی کینہ اور ٹھنکنا۔  
جہ : عُنْفِيسٌ -

عُنْفِشٌ الدَّحِيَّةُ - گھنی ڈالھی والا مرد۔  
عُنْفِصٌ - بد زبان - تیز مزاج - بے شرم  
دہلی عورت - فریب دینے والی -

پست قدم کی عورت - بد مزاج اکھڑ  
آدمی - خوشنما - لاٹھی کا مادہ بچہ۔  
جہ : عُنْفِصٌ -

عُنْفِصَةٌ - بہت کجواں کرنے والی عورت -  
عورت جس میں سے بدبو آتی ہو۔  
عُنْفُطٌ - دونوں موٹھوں کا بیچ ناک تک -

بد مزاج پست اور ذلیل طبیعت  
والا - (م) عُنْفُطَةٌ - جہ :  
عُنْفُطٌ -

عُنْفُقَةٌ - ڈالھی کی بچی - ریش بچہ یعنی وہ  
بال جو نچلے ہونٹ کے درمیانی  
حصہ میں نیچے کی طرف کو ہوتے ہیں۔  
جہ : عُنْفُقٌ -

عُنْفُكٌ - بے وقوف - احمق (مذکر و مؤنث)  
بھاری آدمی -  
عُنْفُوٌ - آغاز - ابتداء - شروع - خوبی -

عُنْفُوَانٌ - ہر چیز کا شروع اور اس کی خوبصورتی -  
عُنُقٌ - گروں - جہ : آعُنُقٌ - گروہ -  
سردار لوگ - چوپایہ کے اوجھ کا  
نچلا حصہ -

عُنُقُ الدَّاهِرِ - زمانہ قدیم  
(هَمْ) عُنُقُ الْيَتِيمِ - وہ تیری طرف مائل و  
متوجہ ہیں (کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے)

عُنُقٌ - چوپایہ کی ایک قسم کی تیز رفتاری  
گردن کی درازی - مص (س)  
دراز گردن ہونا -

عُنْقَاءٌ - سختی و مصیبت - لمبی گردن والی  
عورت جہ : عُنُقٌ - ایک فرضی  
جانور کا نام -

عُنْقَادٌ - انگور وغیرہ کا خوشہ - جہ :  
عُنْقَائِدٌ -  
عُنْقَاشٌ - ناقابل کینہ -

عُنْقَرٌ - بانس کی جڑ - اصل و نژاد -  
عُنْقَشَةٌ - [ب] لٹکانا - متعلق ہونا -  
عُنْقُودٌ - انگور وغیرہ کا خوشہ جہ : عُنْقَائِدٌ -

عُنْكٌ - جڑ - اصل - ہر چیز کا بڑا حصہ - اول  
شب سے تھائی رات تک کا وقت  
دروازہ -

عُنْكٌ - عُنْكٌ - عُنْكٌ - ہر چیز میں کا  
بڑا حصہ - دروازہ -  
عُنُوكٌ - (ن) نافرمانی کرنا - دودھ  
وغیرہ کا جم کر گڑھا ہونا - سیر و  
تفریح کرتے پھرنا - حملہ کرنا - لوٹ  
جانا - خون وغیرہ کا بہت سرخ ہونا -  
دروازہ بند کرنا -

عُنْكَبُوتٌ - کلوسی - جہ : عُنَاكِبٌ -  
عُنْكَبُوتَاتٌ (تصغیر) عُنْكَبٌ -  
عُنْكَبٌ - نر کلوسی - (م) عُنْكَبَةٌ -  
عُنْكُدٌ - سخت و درشت - بہر قوف - احمق -

عَنْكَرَةٌ - بڑے ڈبل ڈول کی اونٹنی۔

عَنْكَل - سخت۔ کھدرا۔ پیٹھ کی بڑھی کندھے سے سرہن تک۔

عَنْكَشْتَه - زرد ہونا۔ خشک ہونا۔

عَنْكَه - ایک عربی درخت جس کا پھل سرخ ہوتا ہے اور ان سے مندی لگی ہوئی انگلیوں کو تشبیہ دیتے ہیں۔

عَنْعِيَّيْ - سرخ رنگ۔ خوب صورت چہرہ والا۔

عَنْوُ - آسمان کا کنارہ۔ افق۔ جہ۔ آعْتَاء  
عَنْوَالْتَأَس - آدمیوں کا گردہ مختلف قبیلوں سے۔

عَنْوُ - عْتَاء (ن) مشقت میں ڈالنا۔ ظاہر کرنا۔ سخت ہونا۔ اگنا (ب) اگنا۔ نکال لانا۔ بھوم کرنا (علی) دشوار ہونا۔ (ل) عاجزی کرنا فروتنی کرنا۔

عَنْوَأَش - لیے پاؤں والی اونٹنی۔

عَنْوَان - عْتَان - تحریر کی سرخی۔ سرنامہ (د) خط کا پتہ۔

عَنْوَةٌ - زبردستی۔ قہر غلبہ۔ مص۔ (ن) زبردستی کوئی چیز لینا۔

عَنْوُت - ٹیلا جس پر چڑھنا دشوار ہو۔

عَنْوُود - راستے سے پھر جانے والا۔ مَحَابَةُ عَنْوُود - بہت بارش والا ابر۔ جہ۔ عُنُود -

عَنْوُود - (ن۔ ض۔ س۔ ل) پسینہ کا جانی ہونا اتنا کہ خشک نہ ہو۔ حق کے برخلاف سرگرم عمل ہونا۔ حق

کو رد کرنا۔ امر باطل پر جسکرتنا۔

(عن) [راستے سے] پھر جانا۔ دیدہ و دانستہ حق سے پھر جانا۔

عَنْوَسْت - آفت رسیدہ۔ مصیبت زدہ۔

عَنْوُس - (ن۔ ض۔ س) لڑکی کا بلا شادی کے بیٹھا رہنا کہ کنواریوں کی حد سے نکل جائے۔ بڑھاپے کا چہرہ کو متغیر کر دینا۔

عَنْوُن - پوپایہ جواروں سے آگے نکل جائے اور سب کے آگے رہ کر چرے۔

عَنْوَانَةٌ - کتاب کا دیا چہر لکھنا۔

عَنْوِي - (س) قیدی ہو جانا۔

عَنْوِيَان - تحریر کی سرخی۔ عنوان۔

عَنْوِيِي - فلرند۔ (م) عَنِیَّة -

عَنْوِيَّة - عْتَاء۔ سبج۔ تکلیف۔ غم۔ دکھ۔

عَنْوِيْد - دیدہ و دانستہ حق سے روگردانی کرنے والا۔ امر باطل پر جسکرتنے

والا۔ حق کو رد کرنے والا۔ سرکش جہ۔ عُنُود -

عن یتد - معرفت۔ بذریعہ (د)

عَنْوِيْز - آفت رسیدہ۔ مصیبت زدہ

جہ۔ عُنُود

عَنْوِيْف - سخت۔ سخت کام کا مرتکب۔ جہ۔ عُنُف

عَنْوِيْق - گردن۔ ایک دوسرے کی گردن میں ہاتھ ڈالنے والوں میں سے ہر ایک۔

عَنْوِيْك - جماہوریت کا تودہ۔ جہ۔ عُنُك

عَنْوِيْن - جو شخص ریح شکم کو ضبط نہ کر سکے۔

ج:۔ اَعْتَاء۔

عَوَاسِین - نامرد۔ جو عورت کی خواہش نہ رکھے۔

عَوَاسِیَّة - عَمَانَة - نامردی۔

عَوَاسِیَّة - وہ عورت جس کو مرد کی خواہش نہ ہو۔

## ع-و

عَوَاء - بھونکنے والا کتا۔ بڑی عمر کا اونٹ آدمی کی مقعد۔

عَوَاء - بھیڑیے کتے وغیرہ کی آواز مص۔

رض، بھیڑیے اور کتے وغیرہ کا آواز نکالنا۔ خم دینا۔ ٹوڑنا (عین)

بل دینا کسی کی بات کو جھوٹا سمجھنا۔

الٹی آبلانا۔ پکارنا۔

عَوَاج - لمبھی دانت بیچنے والا۔ جس کے پاس ہاتھی دانت ہو۔

عَوَاجِم - دانت۔ وا:۔ عَاجِم۔

عَوَاد - سارنگی بجانے والا۔

عَوَاد - عَوَاد - عَوَاد - مطلوب خواستہ

عَوَاد - عود کر۔ لوٹ (امر ہے)

عَوَادَة - وہ کھانا کہ جب سب لوگ کھا چکیں تو کسی خاص آدمی کے لیے

لایا جائے یا کھانا کھانے کے بعد دوبارہ جو کھانا لایا جائے۔

عَوَادِی - بڑے درختوں کی جھڑیاں۔

عَوَائِج - دوڑنے والیاں۔ وا:۔

عَازِیَّة -

عَوَاس - عیب کپڑے کی پھٹن۔

عَوَاس - آنکھ کا تنکا۔ چمگا ڈر۔ سُست۔

بزدل۔ تھوڑا دلا۔ علت اُبْنَة کا مرین

ج:۔ عَوَاسِیَّة۔

عَوَاسِی - ٹاڑھ۔ دانت (جمع)

عَوَاسِی - ایک درخت جس سے مکہ میں گردن بند بناتے ہیں۔

عَوَاسِب - بیویاں۔ خاوند والیاں۔ سہاگتیاں

وا:۔ عَازِیَّة۔

عَوَاسِبُ الْأَطْفَالِ - سہاگن عورتیں۔ خاوند

والی عورتیں۔

عَوَاسِی - اونٹ جو دسویں روز پانی پیس۔

عَوَاسِیُّ الْقَمَرَان - وہ آستین جن پر عشر (دس

دس آستین) تمام ہوں۔

عَوَاسِی - رات کو چرنے والے اونٹ، بھیڑ

وغیرہ۔ وا:۔ عَازِیَّة۔

عَوَاسِر - تین پتھر جن سے انگوروں وغیرہ کو

چھوڑتے ہیں۔

عَوَاف - عَوَاقِف - وہ شکار جس کو شیر نے

رات میں شکار کیا ہو۔ مال غنیمت۔

عَوَاق - وہ آواز جو دوڑنے کے وقت

پو پایہ کے پیٹ میں سے آتی ہے۔

عَوَام - بہت تیرنے والا۔ سبک رفتار

گھوڑا کہ گویا پانی میں تیرتا ہے۔

عَوَامِل - بہت سے پاؤں۔ کھیتی وغیرہ کے

بیل۔

عَوَان - وہ سخت جنگ جس میں کے بعد دیکھے

مقابلہ اور زور آزمائی ہوتی ہو۔ وہ

گائے وغیرہ جس کے دوسری بار

بچہ ہوا ہو (یعنی پوری جوان) خاوند

دالی عورت - وہ زمین جس پر مینہ  
برسا ہو۔ جر۔ عَوْن  
عَوَان - مَعَادِنَةُ مدد کرنا۔ مسعدت کرنا۔  
عَوَانَةٌ - کجھور کا لمبا درخت۔  
عَوَانِث - محصول۔ وا۔ عَائِدَاتُ - (د)  
عَوَانِث - ٹیڑھی کے متفرق کردہ۔  
عَوَانِث - موانع مشکلات۔ سختیاں۔ وا۔  
عَائِقَةٌ -  
عَوَانِثُ الدَّهْرِ - زمانہ کی سختیاں مصیبتیں۔  
اور تکلیفیں۔  
عَوْبَتٌ - پہاڑ کے اندر کا راستہ۔ جر۔  
عَوَابِثٌ -  
عَوْبَرٌ - تین دو سے کا بچہ۔ جر۔ عَوَابِرٌ -  
عَوَّةٌ - عَوَّةٌ - بڑا۔ دبر۔ مقعد۔ آواز۔  
فریاد۔  
عَوْتُ - (ن) کسی کو کسی کام سے روک دینا  
کہ متعیر ہو جائے۔  
عَوَجٌ - کجی۔ ٹیڑھ۔ سیدھی چیز کا بل۔  
دیوار لاکھی۔ درخت وغیرہ کا خم۔  
ٹیڑھا پن۔ مص (دس) ٹیڑھا  
ہو جانا۔ بدخلق ہونا۔  
عَوَجٌ - کجی۔ معیشت یا دین وغیرہ کی  
خامی۔  
عَوَجٌ (ن) لوٹ آنا۔ موڑنا۔ (ب)  
ٹھیرنا۔ ٹھیرانا۔ کھڑا ہونا۔  
عَوَجَاءٌ - کمان۔ دبلا پتلا اونٹ۔ ٹیڑھی۔  
جر۔ عَوُجٌ -  
عَوْدٌ - سرداری میں دوم تیز۔ بڑی عمر کی بکری  
وغیرہ۔ جر۔ عَيْدَةٌ -

عَوْدَةٌ - پرانی سرداری۔ پرانا راستہ  
عَوْدٌ - عِيَادٌ - عِيَادَةٌ - عَوَادَةٌ - (ن)  
بیمار پرسی کرنا۔ کسی چیز کو بار بار کرنا  
کسی چیز کی عادت ڈالنا۔  
عَوْدٌ - لکڑی جو درخت سے کاٹ لی جائے  
سارنگی۔ ایک لکڑی جس کا دھواں  
خوشبودار ہے۔ دریائی قسط۔ زبان  
کی جڑ کی بڑی۔ جر۔ عَيْدَانٌ  
آعْوَادٌ -  
عَوْدٌ اسیر - عَوْدٌ يُسْبِرُ - ایک لکڑی جو  
پیشاب جاری کرنے کے لیے پیٹ  
پر رکھی جاتی ہے۔  
عَوْدَانٌ - نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر اور  
عصائے شریف۔  
عَوْدَةٌ - عَوْدٌ - (ن) ایک مال سے دوسرے  
حال میں ہو جانا۔ پھر جانا۔ پلٹ  
جانا۔ رو کرنا۔ پھیرنا۔  
عَوْدَةٌ - حوض میں ہاتھ ڈال کر ٹوٹنا۔ گمان  
سے کام کرنا۔ اور یقین نہ ہونا۔  
کانٹے سے کنویں کی چیز نکالنا۔  
عَوْدٌ - (ن) [ب] پناہ لینا۔ [من]  
پناہ مانگنا۔  
عَوْدٌ - جائے پناہ۔ درخت سے جھڑے  
ہوئے پتے۔ کینہ۔ نیچ۔ کراہت۔  
ناپسندیدگی۔ نفرت۔  
عَوْدٌ - کانٹوں کی جڑ میں یا ایسے مقام میں  
کہ جہاں پہنچنا دشوار ہو۔ آگی ہوئی۔  
گھاس۔ گوشت جو بڑی پر چٹا ہوا  
ہو۔ ایک پرندہ جو ہمیشہ پساڑ

دیگرہ میں پناہ لیے رہتا ہے۔

عَوْدَة - منتر تعویذ۔

عَوَسَا - بد باطن۔ بد ذات۔ بد طبیعت۔

عَوَسَا - (ن) کسی کو کاناکر دینا (ن - ص)

کسی کو کپڑے کر لے جانا ہلاک کر دینا۔

عَوَسَا - (س) ایک آنکھ کی روشنی جاتی

رہنا۔ کاناکر ہونا۔

عَوْدَاء - بری بات۔ برا کام۔ کافی عورت

بھینگی عورت۔ جہ۔ عَوَسَا۔

قَلَاةٌ عَوَسَاءٌ بے پانی کا جنگل۔

رُكَيْتَةٌ عَوْرَانٌ - ٹوٹا پھوٹا کنواں۔ (مذکر و

مؤنث، واحد و جمع)

عَوَسَاةٌ - عیب و خلل والا۔ جس میں نقص ہو۔

عَوَسَاةٌ - آدمی کا ستر۔ ناف سے لے کر گھٹن

تک ہر چیز کہ اس کے دکھانے

اور دیکھنے سے شرم آئے۔ جہ۔

عَوَسَاتٌ رُخْنَةٌ وَشُكَاةٌ۔

وہ اوقات جو پردے کے ہیں۔

یعنی منار فجر سے قبل۔ دوپہر

اور نسا از عشاء کے بعد۔ کاناکر

نیک چینی۔

عَوْدَةٌ (الشَّمْس) - آفتاب کے نکلنے اور

دوبنے کی جگہ۔

عَوَسَا - انگور۔ واہ۔ عَوَسَاةٌ - مص (ن)

کسی چیز کا نایاب ہونا۔ حاصل

نہ ہونا۔

عَوَسَا - حاجت۔ محتاجگی مص (س) چیز کا

نایاب ہونا۔ نیاز مند ہونا۔ محتاج

ہونا۔ کام کا مشکل ہونا۔

عَوْدَب - بہت بڑھا۔

عَوْدَم - سن رسیدہ عورت۔ بڑی عمر کی

اونٹنی۔ جہ۔ عَوَاذِم۔

عَوَسٌ - سفید بینڈھے۔ واہ۔ عَوَسِي

عَوَسٌ - اہل و عیال کو روزینہ دینا۔ رات

کے وقت گھومنا۔ اونٹ وغیرہ کی

خوب حفاظت کرنا (علیٰ کسی کے

واسطے کوشش کرنا اور مشقت اٹھانا۔

عَوَسٌ - (س) ہنسی کے وقت باپھوں کا

اندر کو گھس جانا۔

عَوَسَاءٌ - عورت جس کی باپھیں ہنسنے وقت

اندر کو گھس جائیں۔ جہ۔ عَوَسٌ

عَوَسَانٌ - رات کے وقت گھومنا۔

عَوَصٌ - شدت۔ حاجت۔ نفس۔ قوت

حرکت۔

عَوَصٌ - (س) دشوار ہونا۔ سخت اور مشکل

ہونا۔

عَوَصَاءٌ - قلیل الاستعمال لفظ مشکل۔ سختی

جہ۔ عَوَصٌ۔

عَوَصٌ - کبھی نہیں (استغراق زمانہ مستقبل

کے لیے ظرف ہے اور نفی ہی میں

استعمال ہوتا ہے)

عَوَصٌ - بدل۔ جو چیز دوسری جگہ کی ہو۔

جہ۔ آعَوَاضٌ۔

عَوَصٌ - عَوَصٌ - عَوَاضٌ - (ن) بدل

دینا۔ عوض دینا۔

عَوَطٌ - (ن) اونٹنی کا پہلے سال حاملہ نہ

ہونا۔

عَوَعَاءٌ - شور و غل۔ چیخ پکار۔ فریاد و غروش



عَوَق - حال۔ شان۔ کام۔ مہمان۔ قسمت  
 رزق۔ شیر مرغ۔ بھیڑیا۔ اونٹ کا  
 اچھا خدمت گار۔ اہل وعیال کے  
 لیے کوشش کرنے والا۔ پساڑ۔  
 مص (دن) پرندہ کا پانی وغیرہ  
 پر بند لانا۔ پرندہ کا اترنے کے  
 لیے کسی چیز پر گھومنا۔ کسی چیز کو  
 لازم کیڑنا۔

عَوَق - بے خیر و برکت مرد۔ جو آدمیوں کو  
 خیر سے روکے۔ زمانہ۔ وادی کا  
 موڑ۔ جہاں آعَوَاق - مص  
 (دن) بند کرنا۔ باز رکھنا۔ پھیر دینا۔  
 طال مٹول کرنا۔

عَوَق - بھلائی سے روکنے والا۔ عَوُج  
 کے باب کا نام۔  
 بھوک بھر سکی۔

عَوَق - کوق۔ شرمیلا اور بیوقوف آدمی۔  
 عَوَق - عَوَق - عَوَق - بھلائی  
 اور سلوک کرنے سے روکنے والا۔  
 طال مٹول کرنے والا۔ بزدل۔ جس کو  
 مختلف کام اس کے فرائض سے  
 روکیں۔ وہ شخص کہ جب کام کا  
 ارادہ کرے تو اس کو نہ کر سکے۔  
 عَوَق - عَوَق - جو لوگوں کو امر خیر سے  
 روکے۔

عَوَک - چیز حرکت مص (دن) اپنے گھر  
 لوٹنا۔ اور جو کچھ ہوا سے کھانا۔  
 (ب) کسی کی پناہ میں آنا (علیٰ)  
 اپنے مال کا امیدوار کرنا۔ متوجہ ہونا

حملہ کرنا۔

عَوَکَل - ریت کا ٹیلہ۔ احمق عورت۔

عَوَل - فریاد و واویلا اور مصیبت کے  
 وقت چیخ پکار جس سے مدد طلب  
 کی جائے۔ نان نفقہ۔ حص راستی  
 سے منہ موڑنا۔ کترانا۔ کسی چیز کا  
 غالب آجانا۔ اور بے آرام کر دینا۔  
 مخلوب ہونا۔ تول کا کم ہو جانا۔  
 فرائض کا حصوں میں زیادہ ہو جانا۔  
 چلا کر رونا۔ مدد چاہنا۔

عَوَل - عیال (دن) بہت عیالدار ہونا  
 اپنے اہل وعیال کے لیے کافی ہونا  
 کھانے پینے کو دینا۔ ماں سے بچہ  
 کا کم ہو جانا۔ غالب آنا۔ (فی)  
 حکم، میں ظلم کرنا۔

عَوَل - مذکی طلب۔ اعتماد۔ بھروسہ۔

عَوَل - گریہ و زاری میں بلند آواز۔  
 عَوَل - بچہ دانی کی رگ۔ گھوڑے بکری  
 اور گدھے کی شرمگاہ کی پوشیدہ  
 اور باریک رگ۔ جہاں عَوَالک  
 (ن) پانی میں تیرنا۔ کشتی چلانا۔  
 اونٹ اور کشتی کا چلنا۔

عَوَمَة - ایک قسم کی مچھلی۔ ایک سیاہ  
 کیڑا جو پانی پر تیرتا ہے۔ جہاں۔  
 عَوَم۔

عَوَن - پشتیبان۔ مددگار (واحد  
 و جمع مذکر مؤنث) جہاں۔  
 آعَوَان - مص (ن) ادھیڑ  
 عمر کا ہونا۔

رَأْبُو عَوْنٍ - کھجور اور نمک کی کنیت۔  
عَوْنٌ - بکری جو کوشش کے باوجود  
دو دھنڈے۔

عَوْنٌ - گدھے وغیرہ کو پکارنے کا لفظ۔  
عَوْنٌ - لمبی گردن والا شتر مرغ اور سرن  
اور اونٹنی سانپ۔ جوان اونٹنی۔

عَوْنٌ - دراز قدم (مذکورہ مؤنث) سیاہ  
بیل۔ سیاہ کوا۔ سیاہ اونٹ۔  
عَوْنٌ - ناپسندیدہ خصلت۔ کوا۔

عَوْنِيَّةٌ - چاقو۔ (د)  
عَوْنِيٌّ - کلام جس کے معنی کا سمجھنا دشوار  
ہو۔ دشوار کام۔ سخت مصیبت۔

سخت اور پتھریلا بلند مقام۔  
قوت۔ حرکت۔  
عَوْنِيَّةٌ - جنگ۔ آدریش۔ کشمکش۔

جہ۔ عَوْنِيَّةٌ -  
عَوْنِيٌّ - گریہ و زاری اور فریاد میں بلند  
آوازی۔

عَوْنِيٌّ - عَوْنِيَّةٌ - (د) رونے میں  
آواز بلند کرنا۔  
عَوْنِيٌّ - مدد کرنے والے (عَوْنٌ) کا اسم  
جمع۔

عَوْنِيَّةٌ - عینک۔ جہ۔ عَوْنِيَّاتٌ - (د)

ع-۵

عَهَادَةٌ - موسم بہار کی پہلی بارش۔  
عَهَارٌ - بدکاری کرنا۔ زنا کرنا۔ بدی کا  
مترکب ہونا۔ چسپانا۔  
عَهَانٌ - کھجور کے خوشہ کی جڑ۔

عَهَبٌ - (د) کسی کو نہ جاننا۔ نادانگہ ہونا۔  
عَهْدٌ - نصیحت۔ قول و قرار۔ قسم۔ عہد نامہ  
حق کی محافظت۔ امان۔ ملاقات

شناخت۔ موسم بہار کی پہلی بارش۔  
زمانہ۔ وفا۔ ضمانت۔ ذمہ داری۔  
جہ۔ عَهَادٌ - عَهْوٌ - مص

(د) صلح کرنا۔ پہچاننا۔ خدا تعالیٰ  
کی یکتائی کا عقیدہ رکھنا۔ دوستی  
کی حفاظت کرنا۔ نصیحت کرنا۔

(مجموعاً) موسم بہار کی پہلی بارش سے  
کسی جگہ کا سیراب ہونا۔ ملاقات کرنا  
(الی) عہد و پیمانہ کرنا۔ نصیحت کرنا۔

العَهْدُ الْجَدِيدُ - انجیل۔  
العَهْدُ الْعَتِيقُ - تورات۔  
عَهْدٌ - امور مملکت کا نگران۔ دیوان۔

عَهْدَانٌ - ضمانت۔ ذمہ داری۔  
عَهْدَةٌ - موسم بہار کی پہلی بارش۔  
عَهْدَةٌ - سوگند نامہ۔ بیع نامہ۔ تباوان کی تحریر۔  
عقل کی کمی۔ ذمہ داری۔

عَهْرٌ - زنا۔  
عَهْرٌ - عَهْرٌ - عَهْرَةٌ - عَهْوَةٌ - عَهْوَةٌ  
(ف) کسی عورت کے پاس فسق و  
فجور کے لیے آنا اور زنا کرنا۔ بدکاری  
کا مترکب ہونا۔ چسپانا۔

عَهْدٌ - ادنٹ کو طیلانے کا ایک کلمہ  
عَهْدَةٌ - عَهْدٌ - کہہ کر ادنٹ کو ٹھہرانا۔  
عَهْمُنٌ - ادن۔ رنگین ادن۔ جہ۔ عَهْوُنٌ

ادنٹوں کا اچھا انتظام کرنے والا۔  
اچھا شتر بان۔

عہن۔ (ن) (ب) مقیم ہونا کسی جگہ جم کر رہنا (من) باہر آنا سفر کرنا (لغات اشد اسے ہے) (فی) کوشش کرنا (الی) عمدہ بیان کرنا۔ (ل) کسی کی ضرورت جلد پوری کر دینا۔  
 عہنتہ۔ تھوڑی سی اون۔ ایک درخت جس کا پھول سرخ ہوتا ہے۔  
 عہنتہ۔ (من) درخت کی شاخ کا ٹوٹ کر ٹک جانا۔  
 عہو۔ گدھے کا بچہ۔ مضبوط وقوی اونٹ جس کی پشت نازک اور شانے پوڑے ہوں۔  
 عہید۔ ہم پیمان۔ ہم پیشہ۔ ذمی۔ پرانا۔

## ع۔ ی

عج۔ عواء۔ عوۃ۔ عویۃ۔ (من) کتے وغیرہ کا بھونکنا بری اور کریہ آواز۔ نکالنا۔ بیڑھا کرنا۔ مروڑنا۔ (الی) کسی چیز کی طرف بلانا۔ بالوں کا اور رسی کا بنا۔  
 عج۔ کام میں یا کلام میں عاجز و در ماندہ آدمی۔ جہ۔ آعبا۔  
 عتی۔ اس (ناواقف ہونا) (ب) (ع) (من) کام نہ کر سکا۔ شک جانا۔ مقصد حاصل نہ کر سکا اور مجبور رہ جانا۔ (فی) گفتگو میں بند ہو جانا۔ اور بیان نہ کر سکا۔  
 عیاء۔ بیماری جو اچھی نہ ہو۔ مرد جس نے عورت سے صحبت نہ کی ہو اور صحبت

کرنا نہ جانتا ہو۔  
 عیاب۔ دھتے کی کان۔ مجازاً بمعنی دل وسینہ۔  
 عیاب۔ حکیمانہ۔ بہت عیب گیری کرنے والا۔  
 عیاب۔ شیر۔  
 عیاد۔ دوسرے درجہ کا سردار۔  
 عیادۃ۔ کسی ٹاکڑ یا حکیم کا مطب (د) عیاذ۔ جائے پناہ۔ پہاڑ وغیرہ میں جس پرندہ نے پناہ حاصل کی ہو۔ (من) (ن) پناہ لینا۔ ہرنی وغیرہ کے بچے پیدا ہونا (ب) کسی چیز کے ساتھ چمٹنا اور اسی کا ہو رہنا۔  
 عیاس۔ بچاؤ۔ گریز۔ ناپ یا وزن کے جانچنے کا معیار۔ کسوٹی۔ دراجم و دانائیر میں چاندی سونے کا جزو۔ (د) بندوق یا پتھچ کی گولی۔  
 عیاس۔ بہت آمدورفت کرنے والا۔ بھاگنے والا۔ شوخ مزاج چلنا پرزہ (د) بوجھ اٹھانے کی مشین۔  
 عیارتہ۔ شہرت۔ ظہور۔ آوازہ۔  
 عیاش۔ نان فروش (د) عیاص۔ عیص (س) دشوار ہونا۔  
 عیافتہ۔ (من) پرندہ سے فال لینا۔  
 عیال۔ ملک ملک کر چلنے والا گھوڑا، یا آدمی (مؤنث)۔ عیالۃ۔  
 عیالۃ۔ چوپایہ کا چارہ۔ علف۔  
 عیام۔ روز۔ دن۔  
 عیان۔ کام اور کلام میں عاجز۔ در ماندہ۔  
 عیان۔ ہل کا ایک ٹوٹا۔ جہ۔ آعینۃ۔

عُیْن۔ کسانوں کا ہل۔ جر۔ عُیْن  
مص (مفاعلہ) حقیقی بھائی ہونا۔  
آنکھ سے دیکھنا۔

عِیَانَة۔ جاسوس۔ خبر لانے والا۔  
عِیَاہَة۔ تیز رفتار اونٹنی۔

عِیَا یَاء۔ جو کام نہ کر سکے۔ جو بات کرنے سے  
عاجز ہو۔ جس نے عورت سے صحبت  
نہ کی ہو یا صحبت کرنا نہ جانتا ہو۔  
جر۔ آعِیَاء

عَیْب۔ ہنر کی ضد۔ جر۔ عِیُوب۔ (دن)  
عیب دار ہونا۔ عیب دار کرنا۔

عَیْبَة۔ تھیلی عیب۔ راز دار (د) چڑھے کا  
ہینڈ بیگ۔ جر۔ عَیْب۔ عِیَاب۔  
عَیْبَة۔ عیب گیری کرنے والا۔ ہر ایک میں  
عیب نکالنے والا۔

عَیْتُوْم۔ گھٹیلٹا اور موٹا آدمی۔ آہستہ چلنے  
والا اونٹ۔ جر۔ عِیَا تَیْم۔  
عَیْث۔ (ض) تباہ کرنا۔ بیڑیے کا نقصان  
پہنچانا۔

عَیْفَا۔ ایک درخت کا نام۔ ایک قسم کا  
کھانا جو بڑھی سے بنایا جاتا ہے۔

عَیْشَة۔ نرم زمین مص (ض) ایک بار  
تباہ کرنا اور فساد پھیلانا۔

عَیْشَمَی۔ گور خر۔  
عَیْشُوْم۔ ہر سخت و قوی چیز۔ گلابوٹ۔ ہاتھی۔

عَیْج۔ قومی بیگل اونٹ۔ جر۔ عِیَا شَیْم۔  
عَیْج۔ (ض) [ب] کسی سے ڈرنا۔ پروا  
کرنا۔ خوش ہونا۔ سیراب ہونا۔ دوا سے

فائدہ ہونا (جملہ معانی میں ہمیشہ

بصورت نفی استعمال ہوتا ہے)

عَجَلُوف۔ اس چیز کوئی کا نام جس کا قرآن مجید  
میں ذکر ہے۔

عَیْسِد۔ ہر وہ چیز جس کی عادت پڑ جائے جو چیز  
بار بار آئے لوگوں کے جمع ہونے کا دن۔

اہل اسلام کا روزِ جشن۔ جر۔ آعِیَاد  
ایک پہاڑی درخت۔

عَیْدُ الْقَصَم۔ عَیْدُ الْقِیَامَة۔ الیٰسٹر  
حضرت مسیح کا بزعم نصاریٰ صلیب  
پر پڑھائے جانے کا دن۔

الوَعْدُ الْقَضَی۔ سلور جو بلی (د)

عَیْدُ الْفَیْطِیْر۔ ایک یہودی عید۔

عَیْدُ الْبَیْلَاد۔ کرسمس ٹے حضرت مسیح کا یومِ ولادت  
تَحِیْدَان۔ کھجور کا لبا و زرت۔ وا۔ عَیْدَانَة

عَیْدَانَة۔ تحفہ عید (د)

عَیْدَان۔ بد اخلاق اور کٹر آدمی۔

عَیْر۔ گدھا (اہلی ہویا جنگلی) گور خر۔ (م)  
عَیْرَة۔ جر۔ آعِیَار۔ عِیَار۔ عِیُوسَا۔

ابھار۔ آنکھ کا گوشہ۔ پھوٹا۔ پتلی۔ کن  
آنکھوں سے دیکھنے والے کی نگاہ۔ پہاڑ

قوم کا سردار۔ بادشاہ۔ ڈھول۔ میخ۔  
ہودہ کی ایک لکڑی۔

هُوَجُوف (عَیْب)۔ اس میں کچھ نفع نہیں ہے  
اس لیے کہ گدھے کے پیٹ سے

دودھ وغیرہ حاصل نہیں ہوتا۔ مص  
(ض) اونٹنی کا سانڈ کی آواز میں نکل

آنا۔ گھوڑے کا چرنے کے لیے ہر  
طرف پھرنا (ض) جانا۔

عَیْبُ السَّرَاة۔ ایک پرندہ۔

عَيْر۔ قافلہ۔ غدلانے کے جانور گدھوں کا  
 قافلہ۔ جز۔ عَيْرَات  
 عَيْرَان الْجَرَاد۔ ٹڈی دل۔  
 عَيْرَانَة۔ اونٹ بوسرعت رفتار میں گورنر  
 کے مشابہ ہو۔  
 عَيْرَار۔ مضبوط سخت چیز جست اور پھرتیلا  
 لڑکا۔ ایک درخت۔ جز۔ عَيَانِيَّة۔  
 اَبُو الْعَيْرَار۔ لمبی گردن کے ایک پرندہ  
 کی کنیت جو پانی میں رہتا ہے۔  
 شيطان کی کنیت۔  
 عَيْس۔ سائڈ کا لطف مص (ض) جفتی کرنا۔  
 عَيْس۔ سرخ بالوں والے سفید اونٹ و۔  
 آعَيْس (م) عَيْسَاء  
 عَيْسَان۔ مردوں کا ہجوم۔  
 عَيْسِيَّة۔ عَيْسِيَّة۔ نیدنا عيسیٰ علی نبینا و  
 علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف منسوب  
 عَيْسِي۔ مشہور پیغمبر حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ  
 والسلام کا اسم گرامی۔  
 عَيْش۔ زندگی۔ کھانے کی چیز جو مدار زندگی  
 ہو۔ غذا۔ خوراک۔ رزق (د) روٹی۔  
 عَيْش۔ عَيْشَة۔ عَيْشُوْمَة۔ (ض) زندہ  
 رہنا۔ جینا۔  
 عَيْشِ اَبَلَة۔ زندگی ناز و نعمت کے ساتھ۔  
 عَيْشِيَّة۔ خشک روٹی۔ جز۔ عَيْا شِيَّة۔  
 عَيْشُوْم۔ شور گھاس جو خشک ہوگئی ہو۔ و۔  
 عَيْشُوْمَة۔  
 عَيْص۔ گنجان درخت۔ گنجان جھاڑیاں۔  
 جز۔ عَيْصَان۔ آعْيَا ص۔  
 عَيْصُوْم۔ بہت کھانے والا۔ بڑی خوراک والا۔

عَيْط۔ گردن کی لمبائی (س) دراز گردن ہونا۔  
 عَيْط۔ عمدہ اور جوان اونٹ (اسم جمع)  
 عَيْط۔ (ض) گردن کا لمبا ہونا۔  
 عَيْط۔ عَيْطَا۔ (ض) بغیر بانجھ ہوئے  
 حاملہ نہ ہونا۔  
 عَيْطَاء۔ لمبی گردن والی۔  
 عَيْطَل۔ لمبی چیز۔ لمبی گردن والا۔ کھجور کے  
 نر درخت کا پھول۔ جز۔  
 عَيْا طَل۔  
 عَيْعَب۔ صوف کا کپڑا۔ جوانی کی تازگی۔  
 عَيْف۔ (ض) پرندہ کا کسی چیز کے گرد  
 گھومتا۔ منڈلانا۔  
 عَيْفَان۔ عَيْا قَة۔ عَيْا ف۔ (س)  
 (ض) عار و ننگ رکھنا۔ کھانے کو  
 ناپسند کرنا اور اسے نہ کھانا۔  
 عَيْفَان۔ جس کی عادت ہر چیز کے ناپسند  
 کرنے کی ہو۔  
 عَيْفَة۔ عمدہ منتخب اونٹ۔  
 عَيْفَة۔ پرند کا کسی چیز کے گرد گھومتا۔  
 عَيْق۔ دیر لگانے والا۔ بے فیض آدمی۔  
 پانی کا ایک حصہ۔  
 عَيْق۔ دیر لگانے والا۔ ہود و سروں کو  
 کام کرنے سے روکنے۔  
 عَيْقَة۔ دریا کا کنارہ۔ مکان کا گوشہ اور  
 اس کی ایک جانب۔  
 عَيْكَان۔ (ض) کا ندھا بلاتے ہوئے  
 چلنا۔  
 عَيْكَة۔ گنجان اور گھنے درخت۔ بیر لوں  
 کا باغ۔



اونٹ۔ جنگ کا سامان۔ بکری کی  
آکھ کا حلقہ۔ جہ۔ عین۔

عیوب۔ بہت عیب گیری کرنے والا۔

عیوث۔ شیر۔

عیوف۔ پیاسا اونٹ جو پانی کو سونگھے اور  
پئے نہیں۔ بہت نفرت اور کراہت

کرنے والا۔

عیوق۔ ایک چھوٹے ستارہ کا نام۔

عیول۔ عیلتہ۔ عالتہ۔ (ض) محتاج و  
درویش ہونا۔

عیون۔ بڑا نظر بد لگانے والا جہ۔ عین عین۔

عیون البقس۔ آلو بخارے۔ کالے رنگ  
کے گول انگور۔

عیہ۔ (ض) آفت رسیدہ ہونا۔

عیہ قباب۔ سوہ شخص جسکو گمراہی کی طرف منسوب کریں  
عیہ ہامہ۔ تیز رفتار اونٹنی۔

عیہ لب۔ جو کمزور ہو یا اعتبار خاندان اور قبیلہ  
کے کہ قصاص نہ لے سکے۔ ناگوار و

گراں۔ بہت اون والا کمبل۔ جہ۔  
عیہ لب۔

عیہ ہاء۔ بے عزت اور بدکار عورت۔ زانیہ  
مضبوط بدن کا اونٹ۔ بختا۔ مص۔

عورت کا ذلیل و بدکار ہونا۔

عیہ لکۃ۔ جنگ کرنا۔ زمین پر دے مارنا۔ فریاد  
کرنا۔ شور مچانا۔

عیہ ل۔ تیز رفتار اونٹنی۔ عمدہ اور مضبوط اونٹنی۔  
بڑھیا عورت۔ چست و چالاک عورت

جہ۔ عیہ ل۔

عیہ م۔ ہر مضبوط چیز تیز رفتار اونٹنی۔ ہاتھی۔

جہ۔ عیہ ہم۔

عیہ مہ۔ جلدی کرنا۔

عیہ ی۔ دراز قامت اور چوڑا آدمی وغیرہ۔

عیہ ی۔ جس سے کام نہ ہو سکے۔ جو پوری طرح

بات نہ کر سکے جہ۔ آعیاء۔ آعیاء۔

عیہ ینہ۔ عینک (د)

ع۔ ۱۔

غاب۔ باسی (گوشت اور روٹی)

غابۃ۔ ہموار پست زمین۔ آدمیوں کا گردہ۔

لبانیزہ۔ چکدار نیزہ جھاڑی۔ درختوں

کابن۔ جہ۔ غاب۔ غابات۔

غابۃ۔ اونٹ جو تیسرے دن پانی پیئیں۔

جہ۔ غواب

غابہ۔ باقی۔ ٹھہرنے والا۔ گزر جانے والا۔

جہ۔ غابہ۔

غابۃ۔ بقیہ۔ بچا ہوا جہ۔ غوابہ۔

غابیش۔ خائن۔ فریب دینے والا۔ کمزور نگاہ کا۔

غابیط۔ رشک کرنے والا۔ جو دوسرے کا

اچھا حال دیکھ کر اپنے لیے اس کی

آرزو کرے۔ لیکن اس سے اس کا

زوال نہ چاہے۔

غابین۔ سست کام کرنے والا۔

غابیتہ۔ بیوقوف عورت۔ جہ۔ غوابی۔

غاد۔ طاعون زدہ اونٹ۔

غادۃ۔ بہت نرم و نازک اندام عورت۔  
سر سبز و شاداب اور نرم درخت۔

جہ۔ غادات۔

غادسا۔ بے وفامرد۔ خیانت کرنے والا۔

جر۔ غَدْرَة۔ غُدَّاس۔

غَارِد - ملاح۔ ناخدا۔

غَادُوْف - کشتی چلانے کا چپو۔

غَارِی - چلنے والا۔ صبح کے وقت چلنے والا

غَارِیَة - صبح کا ابر صبح کی بارش۔ جہ۔ غَوَادِی۔

غَاثِی - ناسور۔ آنکھ کے پانی کی رگ، جو جاری رہے۔

غَاذِی - اصلاح کرنے والا۔ جہ۔ جہ۔ غُدَاة۔

(م) غَاذِیَة - جہ۔ غَوَاذِی۔

غَاذِیَة - (مادہ غذا) غَاذِیَة - (مادہ غذا)

بچہ کا تالو جو حرکت کرتا رہتا ہے۔

غَاذِیَة - وہ قوت جو غذا کو تحلیل کرتی ہے اور

اس کو جزو بدن بناتی ہے۔ ایک

رگ کا نام۔ جہ۔ غَوَاذِی۔

غَاَسْر - دھوکہ دینے والا۔ باطل۔ ناچیز۔

غافل۔ کنواں کھودنے والا۔ جہ۔

غُرُوَس۔

غَاَس - گڑھا۔ بھٹ۔ پست ہموار زمین۔ بڑا

گڑھا۔ جہاں جنگلی جانور پناہ لیتے

ہوں۔ جہ۔ آغُوَارِ غُفْرَان - بڑا

گروہ۔ لشکر۔ غلہ جو ایک جگہ سے

دوسری جگہ لے جائیں۔ گرد۔ انگوڑے کے

پتے۔ منہ کا اندرونی حصہ۔

غَادَان - دہن اور فرج یا حکم اور فرج، آنکھ

کے حلقہ کی دونوں ہڈیاں۔

غَارِب - کندھا۔ کمان اور گردن شتر کا

مادین۔ جہ۔ غَوَارِب -

غَارَة - ناف۔ غارت گری۔ لوٹ مار کرنے

والے گھوڑے (د)۔ حملہ۔ جہ۔

غَارَات -

غَارَة جَوِیَة - فضائی حملہ۔ (د)

(حَبَلٌ شَدِيدٌ الْغَارَة - خوب بٹی ہوئی

رسی۔

غَارِز - غَارِزَة - کم دودھ کی اونٹنی۔ مٹی

جو اپنی دم اٹھا دینے کے لیے زمین میں

گاڑے۔ جہ۔ غَوَارِز -

غَارِض - لمبی ناک۔ صبح کے وقت پانی پر آنے

والا۔

غَارِفَة - تیز رفتار اونٹنی۔ جہ۔ غَوَارِف -

غَارِق - پانی میں ڈوبنے والا۔ ڈوبا ہوا۔ جہ۔

غَرَقِی -

غَارِم - مقروض۔ تاوان زدہ۔

غَارِیْقُون - ایک بوٹی کی جڑ ہے۔

غَاَسَا - گیس۔ مٹی کا تیل۔ پٹول۔ (د)

غَاذِکَة - کاتنے والی۔ جہ۔ غُغَل - غَوَارِز -

غَاذِی - مرد جنگ آزما۔ دشمن دین سے

لڑنے والا۔ جہ۔ غُغَلِی - غُرَاة

غُغَلِی -

غَاذِیَة - گزٹ۔ اخبار (د)

غَاَسِی - بہت بوڑھا۔ پیر فرقت۔ جہ۔ غَمَاة -

غَاَسِی - اندھیری رات۔ چاند غروب شفق

کے بعد اندھیرا۔ رات غروب شفق

کے وقت کی۔

غَاَسِی - اندھیری رات۔

غَاَسُوْل - صابون وغیرہ۔ ایک گھاس جس سے

کپڑے وغیرہ دھوتے ہیں۔

غَاَسِی - خیانت کرنے والا۔ کینہ رکھنے والا۔



تھا طیۃ - انگوڑی کی بیل۔ ڈھکنے والی۔ جہ :-  
 عَوَاطِی -  
 غَاغ - پودینہ۔ وا۱۔ غَاغَۃ -  
 غَاغَاء - کوسے کا کائیں کائیں۔ غوغا۔  
 غَاغَۃ - مختلف قسم کے لوگوں کا جوم۔ چھوٹی  
 مکھی۔ ایک گھاس۔  
 غَاغ - ایک درخت جس کا پھل بہت شیریں  
 ہوتا ہے۔ وا۱۔ غَاغَۃ -  
 غَاغِر - معاف کرنے والا۔ بخشنے والا۔  
 جہ :- عَقْرَۃ -  
 غَاغِصَۃ - ناگمانی مصیبت۔ جہ :- عَوَاطِص -  
 غَاغِل - غفلت والا۔ چھپانے والا۔ جہ :-  
 عَقُول - عَقْل -  
 عَاق - غَاقَۃ - ایک آبی پرندہ۔ کوا۔  
 عَاق - کائیں کائیں۔ کوسے کی آواز کی نقل۔  
 عَاَل - تالا۔ جہ :- غَاَلَات -  
 عَاَل - بہت زمین دزنتوں سے بھری ہوئی۔ ایک  
 گھاس پھسکی کا گھر۔ جہ :- عَاَلَان  
 (دَعْبِیْر) عَاَل - پیاسا اونٹ۔  
 عَاَلِب - غالب ہونے والا۔ زبردست۔  
 جہ :- عَاَلِبَۃ - بہت۔ اکثر۔  
 عَاَلِی - قیمتی۔ ہنگاموں کا گوشت۔ نہایت قوت سے  
 تیر کر بہت دور پھینکنے والا۔ جہ :- عَاَلَاۃ  
 غَاَلِیۃ - ایک خوشبو۔ جہ :- عَوَاطِی -  
 (یَوْم) عَاۃ - غبار آلود دن۔ وہ دن جس میں  
 گرمی کی وجہ سے سانس پھولے۔ بہت  
 گرم دن۔  
 عَاۃ - غَاۃ - اٹا ہوا کنواں۔ بوجھ سے  
 لدی ہوئی کشتی۔ جہ :- عَوَاطِص -

فہمی۔ جہ :- عَشَشَۃ - عَشَّاش -  
 عَاۃ - ظلم کرنے والا۔ زبردستی چھین لینے  
 والا۔  
 عَاۃ - لباس۔ قیامت۔ جہنم کی آگ۔ درد  
 پیٹ کی بیماری۔ ملاقات کرنے والے  
 دوست جو آتے رہتے ہوں۔ چھا  
 جانے والی۔ جہ :- عَوَاطِش  
 عَاۃ - جس کے گلے میں کچھ انک ماٹے  
 (مکان) عَاۃ (بھری ہوئی جگہ۔  
 عَاۃ - چھین لینے والا۔ کھال سے بال اور  
 اون اکھڑنے والا۔ جہ :-  
 عَاۃ - جمع کی ہوئی چیز جگمگٹ۔ انہوہ۔ خوش  
 حال آدمی جو اپنے اہل و عیال کے  
 لیے کافی ہو۔ جہ :- عَصَاۃ (ہ)  
 عَاۃ - عَوَاطِص - (لیل)  
 عَاۃ - اندھیری رات۔ چاندنی  
 رات۔  
 عَاۃ - غضب ناک۔  
 عَاۃ - علی الصبح اپنے کام کے لیے نکل جانے  
 والا۔ اچھا دباغت دیا ہوا چمڑا۔  
 عَاۃ - خوش حال۔ کتاب جس کے کان آگے  
 سے لکھے ہوئے ہوں۔  
 (کِلَیۃ) عَاۃ - اندھیری رات۔ چاندنی رات  
 (تَاۃ) عَاۃ - روشن اور ممتی ہوئی آگ۔  
 عَاۃ - گروہ۔ بہت و فراخ زمین۔ جہ :- عَاۃ  
 عَاۃ - عَاۃ - عَاۃ (لیل) عَاۃ -  
 اندھیری رات۔ لیل عَاۃ -  
 اندھیری رات۔ عَاۃ - بہت پانی  
 ڈھانپنے والا۔

غَاوِر - دیران زمین۔ پانی میں ڈوبی ہوئی زمین۔

غَاوِرہ آباد، کی ضد۔ جہ۔

غَاوِرہ۔

غَاوِرَة - کھجور کا درخت جس کو پانی دینے کی ضرورت نہ ہو۔ جہ۔ غَاوِرہ۔

غَاوِر - نیزہ کو سیدھا کرنے کا خواہش مند۔

غَاوِض - پست و نرم زمین۔ گڑھوں والی زمین۔ جہ۔ غَاوِض جو سستی

سے حکم کرے۔ کلام جس کے معنی غیر واضح ہوں۔ گننام آدمی جس کی کچھ

قد و منزلت نہ ہو۔ یا زرب جو پتلی کو بھروسے پر گوشت اور گداز

پتلی۔ اور اڑی۔

دَائِر غَاوِضَة - گھر جو راستہ پر نہ ہو۔

غَاكَة - کمان کے چلے کا پھندا جس سے کمان کے سرے میں چلے کو اٹکاتے ہیں۔

غَايِن - نرغہ۔

غَايِنِي - مالدار۔ دولت مند۔ جہ۔ غَنَاة

غَايِنِيَة - حُسن یا دولت کے سبب بے پروا۔

اور بے نیاز عورت جو اپنے میکے میں

ہواد رہتی کسی کے عقد میں نہ آئی ہو۔

پاکلامن عورت۔ جہ۔ غَاوِرَانِي -

غَاوِي - بڑی۔ گمراہ۔ ناامید شیطان۔ جہ۔

غَاوَاة -

رَاسُ، غَاچہ - چھوٹا ساسر۔

غَاوِيَة - گمراہ عورت۔ توشہ دان۔ مشک جس میں پانی ہو۔

غَايَة - زمان و مکان میں ہر چیز کی انتہا۔

جھنڈا۔ جہ۔ غَايِي - غَايَا ت۔ مص

رض، جھنڈا کھڑا کرنا۔

غَاثِب پوشیدہ۔ نظر سے اوجھل۔ جہ۔

غَثِيْب - غَثِيَاب -

غَاثِبَة - چھپنے والی پوشیدہ۔ جہ۔ غَاوَاثِب -

غَاثِر - پانی جو تلی میں پہنچ گیا ہو۔

غَاثِرَة - دوپہر۔ جہ۔ غَاوَاثِر -

غَاثِص - کسی اچانک چیز پر پہنچ جانے والا۔

غوطہ غور۔ جہ۔ غَاوَاص -

غَاثِصَة - عورت جو جماع کے اشتیاق میں

خاوند کو حیض کی خبر نہ کرے۔ جہ۔

غَاوَاثِص -

غَاثِط - گڑھوں والی پست و فراخ زمین۔

جہ۔ غَثِيْطَان - غَثِيْط - آغَاوَاط -

غَاثِظ - غصہ میں ڈالنے والا۔ ناراض کرنے

والا۔

غَاثِكَة - بیوقوف عورت۔ جہ۔ غَاوَاثِك -

غَاثِكَة - کینہ۔ بدی بصیبت۔ جہ۔ غَاوَاثِئِل -

## غ-ب

غِبْت - ہر چیز کی انتہا میں دن، باسی ہونا

بدبو دار ہونا۔ ناغہ کر کے طلاقات کرنا

(عن کسی کے پاس ایک دن آنا

اور ایک دن نہ آنا۔) عند کسی

کے پاس رات گزارنا۔ (علیٰ)

بھار کا باری سے آنا۔ ناغہ کر کے

پانی پر آنا۔

غُبْت - دریا اتنا چڑھا ہو کہ جنگلوں میں

پھیل جائے۔ پست زمین۔ پانی کے





(عُتَيْمٌ) موت اور ہلاکت سے کنایہ۔

## ع-ث

عَثَقٌ - عُثَيْثٌ (رض) زخم سے پیپ بھاری ہونا  
[علیٰ] جگہ کا ناموافق ہونا۔

عُثَاءٌ - عُثَاءٌ - کوزا کرکٹ جو پانی کے ساتھ  
بہہ کر آیا ہو جھاگ - درخت کے خراب  
خستہ پتے جو سیلاب میں بہہ کر  
آئیں - جہ - آعُثَاءٌ -

عُثَاثَةٌ - عُثُوْقَةٌ (رض) دہلا ہونا۔  
ناقص و خراب ہونا۔

عُثَاغُثٌ - شیر۔

عُثَّةٌ - اتنی غذا جس سے دن گزر جائے۔

عُثْبَيْثٌ - شیر۔

عُثْرٌ - عُثُوْسَا (رض) زمین کا سبز گھاس  
سے لہلہانا۔

عُثْرٌ - کپڑے کا رُوَاں۔

عُثْرَاءٌ - شیر باہیڑ یا نادان اور کمینہ عورت  
ہر قسم کے آدمیوں کا ملاحظہ گروہ بہت  
ادون والا کھیل - جہ - عُثْرٌ -

عُثْرَةٌ - کمینہ اور نیچ آدمی۔

عُثْرَةٌ - ارزانی - فراخ سالی۔

عُثْرَةٌ - سیاہی سرخی ملی ہوئی - سبزی مائل  
سیاہی - آدمیوں کا گروہ۔

عُثْرِيٌّ - کھیت جو بارش سے سیراب ہو۔

عُثْرُفَةٌ - بغیر سلمان کے کزوری کے ساتھ  
جنگ کرنا - ایک جگہ میں قرار پکڑنا۔  
کپڑے کو لپیٹنا - دھونا۔

عُثْمٌ - (رض) [لی] عمدہ اور نفیس مال

کسی کو کبھارگی دے ڈالنا۔

عُثْمٌ - روٹی کا ٹکڑا جو کھایا جائے۔

عُثْمَةٌ - سیاہی جو تیرگی مائل ہو۔

عُثْمَةٌ - اوجھ میں ایک خانہ دار چیز ہوتی ہے  
یعنی چار خانہ۔

عُثْمَرَةٌ - مال کو تباہ کر دینا۔

عُثُوٌ - (رض) پانی کی رو میں جھاگ آجانا۔

عُثُوْتٌ - شیر بیشہ۔

عُثُوِيٌّ - (رض) سیلاب کا کوزا کرکٹ بہا کر لانا۔ پانی

کی رو کا چراگاہ کو خراب کر دینا - جی متلانا  
آسمان کا ابراؤد ہونا۔

عُثْيَانٌ (رض) جی کا مالش کرنا - جی متلانا

عُثْيَيْثٌ - دہلا دہلا گوشت - زخم کی پیپ۔

عُثْيَيْثَةٌ - زخم کا خون اور پیپ اور کچھ لہو اور

خراب گوشت - خرابی - بگاڑ - بے

دقوت - بے فیض - فتور عقل - کھجور کا

درخت جس کی کھجوریں شیریں نہ

ہوں - جہ - عُثْيَيْثٌ -

عُثْيَيْمَةٌ - ایک قسم کا کھانا جو ٹڈی سے بنایا  
جاتا ہے۔

## ع-د

عَدَدٌ - (رض) طاعون زدہ ہونا۔

عَدَدٌ - آنے والی کل - مجازاً روز قیامت۔

عَدَاةٌ - صبح کا کھانا - خلاف عشاء (د)

عَدَاةٌ - جہ - آعَدَاةٌ -

عَدَاةٌ - جہ - عَدَاوَاتٌ - عَدَاوَةٌ -

عَدَاةٌ - صبح کا طلوع فجر اور طلوع  
شمس کا درمیانی زمانہ۔

عَدَس - عَدَدَان (ن. ض. س) بیوہ الی کرنا  
عَدَس بے وفائی، عمدہ شکنی، مص (رض)  
تالاب میں سے پانی پینا۔  
عَدَس بے وفامردیہ لفظ اکثر موقع ندامت  
بطور شتم استعمال ہوتا ہے۔ جمع کے  
موقع پر کہتے ہیں یا ال عَدَس

چھ بچہ۔  
عَدَاء - تاریکی۔

دَلِیْلَت (عَدَاء - اندھیری رات -  
عَدَاة - عَدَاة - جو چیز پیچھے چھوڑی جائے  
بقیہ - جرہ - عَدَات -

عَدَاة - بے وفا۔

عَدَاة - اندھیری رات

عَدَف - شیر۔

عَدَف - ارزانی - فراخ حالی - فارغ البالی  
آسودگی۔

عَدَف - (ن) [ بہت بخشنا بے حد  
سخاوت کرنا۔

عَدَقَل - بہت لمبا - بزرگ جثہ اونٹ - پرانا  
کپڑا - جرہ - عَدَاة

عَدَق (رض) سرسبز و شاداب ہونا۔

عَدَق - بہت پانی (س) چشمے کا بہت پانی  
والا ہونا۔

عَدَقَات - چشمہ جس کا پانی بہت اور شیریں ہو۔

عَدَن - دسترس - نیکل - نرمی - نراکت۔

سُستی - دوہ پیڑوں کے درمیان

کا خالی زمانہ مص (س) سونا نرم

اور ڈھیلا ہونا۔

عَدَنَة - سُستی - نرمی۔

رَیَا، عَدَاة - اے بے وفاعت (ایک گالی ہے)

عَدَاة - (مکر، دھڑنٹ، بے وفا۔ م) عَدَاة

عَدَاة - پستول - طنپچہ - (د)

عَدَاة - (مفاعلم) چھوڑ دینا - ترک کر دینا۔

عَدَاة - جس چیز کو پیچھے چھوڑ دیں۔

عَدَاة - سیاہ کوا - سیاہ لہے بال - سیاہ

بازو - جرہ - عَدَاة

عَدَاة - اونٹ بکرا جس کی پونچھ پر بکثرت

بال ہوں۔

عَدَان - شاخ جس پر کپڑا لٹکائیں - (د)

انگریزی طرز کی کھونٹی۔

عَدَاة - نازک و نرم اندام جوان - شَبَاب

عَدَاة - (اچھی جوانی -

عَدَب - سخت اور ٹھکانا آدمی جس کے جسم

میں اعصاب بہت ہوں۔

عَدَاة - گوشت کی گرہ - بستہ خون جو گوشت

و پوست میں ہو - جرہ - عَدَاة

اونٹوں کی و باء جس سے اونٹ

مر جائیں - جرہ - عَدَاة - تمسہ جو

بدن پر نکل آئے - جس میں تکلیف

کچھ نہ ہو - اونٹوں کا گلہ - جرہ -

عَدَاة - عَدَاة

عَدَاد - اونٹوں کی و باء - جرہ - عَدَاة

عَدَاة - سخت اور پتھر کی جگہ - بڑا پتھر - نہر

کی کھجور (مص (س) بارش کا پانی

پینا - تاریک ہونا - (رض) بکری

وغیرہ کا گلہ سے پیچھے رہ جانا (فی)

زمین کا کھنکریوں والا ہونا - شکم

سیر ہونا۔

غَدُو۔ غُدُو۔ غُدُوۃ۔ (ن) صبح کے وقت چلنا۔ ہوجانا (علی) صبح کے وقت کسی کے پاس آنا۔  
 غُدُوۃ۔ صبح۔ طلوع فجر اور طلوع آفتاب کا مابین۔ ج۱۔ غُدُوۃ۔  
 غُدُوۃ۔ لے اور گھٹکریا لے بال۔  
 غُدُوۃ۔ (مذکورہ نوشت) بے وفا۔ ج۱۔ غُدُوۃ۔  
 غُدُوۃ۔ پیچھے رہی ہوئی اونٹنی۔  
 غُدُوۃ۔ (س) صبح کے وقت کھانا ناشتا کرنا۔  
 غُدُوۃ۔ غُدُوۃ۔ کل والا (خدا کی طرف منسوب)۔  
 غُدُوۃ۔ ناشتا کرنے والا۔ صبح کے وقت کھانے والا دم، غُدُوۃ۔ غُدُوۃ۔

غُدُوۃ۔ تیز رفتار گھوڑا سخت مزاج اور زبان دراز آدمی (۲) غُدُوۃ۔  
 غُدُوۃ۔ پیٹ کا بچہ۔ بکری کا بچہ۔ بیٹھ کا بچہ۔ ج۱۔ غُدُوۃ۔  
 غُدُوۃ۔ زخم کا خون۔ زخم کا خراب گوشت۔ ج۱۔ غُدُوۃ۔

## غ۔ س

غَر۔ کپڑے کی شکن۔ کھال کی جھری۔ پتلی نر۔ ج۱۔ غَر۔  
 غَر۔ جو فریب کھائے۔ بھولا بھالا۔ نا تجربہ کار (مذکورہ نوشت) (۲) غَر۔ ج۱۔  
 غَر۔ زمین کی درز تنگ و تاریک چشمہ۔ کپڑے کی شکن۔ کھال کی جھری۔ تلوار کی باڑھ۔ ایک آبی پرندہ

غَدُو۔ غُدُو۔ غُدُوۃ۔ (ن) صبح کے وقت چلنا۔ ہوجانا (علی) صبح کے وقت کسی کے پاس آنا۔  
 غُدُوۃ۔ صبح۔ طلوع فجر اور طلوع آفتاب کا مابین۔ ج۱۔ غُدُوۃ۔  
 غُدُوۃ۔ لے اور گھٹکریا لے بال۔  
 غُدُوۃ۔ (مذکورہ نوشت) بے وفا۔ ج۱۔ غُدُوۃ۔  
 غُدُوۃ۔ پیچھے رہی ہوئی اونٹنی۔  
 غُدُوۃ۔ (س) صبح کے وقت کھانا ناشتا کرنا۔  
 غُدُوۃ۔ غُدُوۃ۔ کل والا (خدا کی طرف منسوب)۔  
 غُدُوۃ۔ ناشتا کرنے والا۔ صبح کے وقت کھانے والا دم، غُدُوۃ۔ غُدُوۃ۔  
 غُدُوۃ۔ تلوار۔ پانی جو سیلاب گزر جانے کے بعد گڑھوں میں رہ جائے۔ ج۱۔ غُدُوۃ۔  
 غُدُوۃ۔ بہت بے وفامرد۔  
 غُدُوۃ۔ تھوڑی سی گھاس۔ ج۱۔ غُدُوۃ۔  
 زلف۔ گندھی ہوئی۔ میٹھی۔ بکری وغیرہ جو پیچھے رہ گئی ہو۔ ج۱۔ غُدُوۃ۔

## غ۔ ذ

غَذ۔ (ن) کم کر دینا۔ تیز چلنا۔ (ن) صبح زخم سے پیپ کا جاری ہونا۔ یا زخم کا سورج جانا۔  
 غَذ۔ خوراک جس سے جسم کی نشوونما ہو۔ ج۱۔ آغَذ۔  
 غَذ۔ بہت پانی۔ چینی پیمانہ۔  
 غَذ۔ ایک شور گھاس۔ ج۱۔ غَذ۔

عُذْرَا - عُذْرَا - عُذْرَا (دن، فریب دینا۔ کسی کو جھوٹ موٹ امیدوار کرنا۔ پانی کا جذب ہوجانا۔ پردے کا چوزہ کو چنگا دینا۔ عُذْرَا عِرَا - (س) [ب] حریص ہونا۔ آرزومند ہونا۔

عُذْرَا - سریش۔ سریشم ماہی۔ نیا پیدا شدہ بچہ۔ جہ۔ آعُذْرَا - خوب صورتی۔

عُذْرَا - سریش چکانے کی چیز۔ سریشم ماہی۔ جہ۔ آعُذْرَا -

عُذْرَا - اشتیاق۔ ہوکا۔ آرزو۔ عُذْرَا - جس کے پاس جانور نہ ہو۔

عُذْرَا - مَعَارَاة - لڑائی میں جھگڑا کرنا۔ عُذْرَا - گھوڑی جس کے ماتھے پر سفید

ٹیکہ ہو۔ بہت گرم۔ مدینہ منورہ۔ ایک خوشبودار گھاس۔ ایک سفید

سرکا پرندہ۔ عُذْرَاب - کوا۔ آعُذْرَاب -

عُذْرَابَان - عُذْرَاب - انتہائیزی اور بعث۔ سرکی گدی۔ سرین کے نچلے

حصہ کی سختی۔ جہ۔ عِذْرَابَان - عُذْرَابَة - (دن، وطن سے دور ہونا) [ك] مخفی

ہونا۔ غیر معروف ہونا۔ عُذْرَابَة - ہر ایک چیز کا شروع۔ ہر چیز کی تیاری۔

عُذْرَابِي - ایک قسم کی کھجور۔ ایک مقام کا نام۔

عُذْرَابِيْب - بہت زیادہ سیاہ۔ ۱۰۔ عِذْرَابِيْب -

عُذْرَاة - گائے کا بچہ۔ ہر چیز کا نیا پیدا شدہ

بچہ۔

عُذْرَا سَا - بہت فریب دینے والا۔

عُذْرَا سَا - تلوار وغیرہ کی دھار۔ روش۔ جلدی مقدار تھوڑی۔ نیند وغیرہ۔ جہ۔

آعُذْرَا -

عُذْرَاة - ناخچر بہ کاری۔ نوعری۔ مص (س) ناخچر بہ کار ہونا۔ سفید ہونا۔

عُذْرَاة - تھیلہ۔ بوری۔ گون۔ جہ۔ عُذْرَاة - عُذْرَا سَا - دوٹے سہل سے جو خون

نکلے۔

عُذْرَا سَا - پودا لگانے کا وقت۔ لگایا ہوا پودا۔

عُذْرَا ف - ایک بڑا پیمانہ۔

عُذْرَا ف - بہت پانی والی نہر۔ لمبے قدم رکھنے والا گھوڑا۔ (د) پن چکی۔

عُذْرَا ه - اشتیاق۔ شیفٹکل۔ آرزو۔ برائی جو مسلسل ہو۔ ہلاکت۔ عذاب۔

عُذْرَا ه - گرام۔ ایک انگریزی وزن (د) عُذْرَا مَا طِيْبِي - گرام (د)

عُذْرَا مَة - قرض۔ جس چیز کا ادا کرنا لازم ہو۔ تاوان۔ مص۔ (س) قرض وغیرہ

ادا کرنا (فی) کسی چیز میں نقصان اٹھانا۔

عُذْرَا مَوْفُون - گراموفون (د)

عُذْرَا نِيْق - نازک اندام۔ پورے اعضاء کا جوان (مذکورہ نمونہ) جہ۔ عُذْرَا نِيْق - عُذْرَا نِيْق -

عُذْرَا نِيْقَة -

عُذْرَا نِيْقَة - بھرے ہوئے جسم کی جوان عورت۔



- (عُصْرَةُ) عُصْرَةُ - کان تک لٹکے ہوئے۔ نرم بال جو ہوسے ادھر ادھر ہوں۔  
 عُصْرُومی - (بالعظم) بڑا پھتسرا۔ ملائی - جہ :-  
 عُصْرُومی - (بالفتح)  
 عُصْرَب - آفتاب کے غروب ہونے کی جگہ ہر چیز کا شروع۔ ہر چیز کی تیزی۔ رفتار کی ابتدا۔ تیز رفتار گھوڑا۔ پانی کی مشک۔ بڑا ڈول۔ آنکھ کی رگ جس سے ہمیشہ پانی جاری رہے۔ آنسو بہنے کی جگہ۔ آنسو گرنے کی جگہ۔ دانتوں کی تیزی اور ان کی آبداری۔ آنسو۔ آنکھ کا گویا۔ آنکھ کے کوٹے کا درم۔ زانہ۔ شراب اور آنسوؤں کی روانی۔ تھوک۔ تھوک کی کثرت۔ ڈوری۔ جہ :- عُصْرَب - (اصابت) سَهْمُ عُصْرَب - (باضافت و بلااضافت) اس کو ایسا تیر آ لگا جس کا پھینکنے والا معلوم نہیں۔ معص (ن) چھپ جانا۔ غائب ہو جانا۔ دور ہونا۔ چلا جانا [عصن] یکسو ہونا۔  
 عُصْرَب - وطن سے دوری۔  
 عُصْرَب - شراب۔ چاندی۔ چاندی کا پیالہ ہونا بکری کی ایک بیماری۔ کچھڑ کی بو۔ گھوڑے کی آنکھ کی نیلا ہٹ حص (س) نہایت سیاہ ہونا۔  
 عُصْرَب - مسافر۔ نادر۔  
 عُصْرَبَال - چھلنی عیب گیری کرنے والا۔ جہ :-  
 عُصْرَابِيل  
 عُصْرَبَة - دوری۔
- عُصْرَبَة - وطن سے دوری۔ مسافرت (ن) دور ہونا وطن سے۔  
 عُصْرَبَلَة - چھاننا۔ ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ پیس ڈالنا۔ قتل کر ڈالنا۔  
 عُصْرَبِيح - کچے انگور کی شراب۔ درخت جس پر آفتاب کے غروب ہونے کے وقت دھوپ آئے۔ ایک قسم کی کھجور۔ ایک سرخ رنگ۔ غرب کی طرف منسوب۔  
 عُصْرَبِيَّة - مغرب کی سمت منسوب عُصْرَبِيَّة - کا مؤنث۔  
 عُصْرَبِيْب - ایک قسم کے عمدہ انگور۔ بڑھا ہوا بالوں کو خضاب سے سیاہ رکھے۔  
 (أَسْوَدُ) عُصْرَبِيْب - نہایت سیاہ۔ جہ :-  
 عُصْرَابِيْب  
 عُصْرَبِيْل - چھلنی (ف) سخن چین آدمی۔ جہ :-  
 عُصْرَابِيْل  
 عُصْرَبَة - ناخجیرہ کاری۔ غفلت۔ بے خبری۔ بھولی عودت ہو فریب میں آ جائے۔  
 عُصْرَبَة - گھوڑے کی پیشانی کی سپیدی ایک درم سے بڑی۔ غلام۔ لوٹھی۔ دل۔ چاند رات۔ نیا چاند۔ دانتوں کی آبداری۔ منتخب چیز قوم کا سردار۔ عینہ کی پہلی رات۔ آدمی کا چہرہ۔ جہ :-  
 عُصْرَب - غوس۔  
 عُصْرَبَة - (س) بھوکا ہونا۔  
 عُصْرَبَان - بھوکا۔ جہ :- عُصْرَبَانِي - عُصْرَبَانِي - عُصْرَبَانِي (م) عُصْرَبَانِي - جہ :- عُصْرَبَانِي - عُصْرَبَانِي - پتلی کر کی عودت۔  
 عُصْرَبَانِي - بانسوں کا گھر۔ مکان جس پر چھپر ہو۔

وا۔ عَرَدَة۔

عَرَد۔ بلند اور اچھی آواز بلند آواز اور خوش

آواز پرندہ۔ جر۔ عَرَدَة۔ عَرَاد۔

عَرَد۔ (س) پرندہ کا بلند آواز سے چکنا۔

عَرِد۔ عَرِيد۔ بلند آواز اور خوش آواز

پرندہ۔

عَرَدَة۔ پوشیدہ کرنا۔ ڈھانپنا۔ پردہ

وغیرہ لشکانا۔

عَرَسُ الشَّهْرِ۔ عینہ کی شروع کی تین راتیں۔

عَرَسَا۔ ہلاکت۔ خطو۔ جو چیز قبضہ میں نہ ہو اس

کی بیخ (مثلاً پھل کی پانی میں)

عَرَسَ۔ عَرَسَة۔ عَرَسَا تے (س) چہرہ کا

چکھارا اور گورا ہونا۔

عَرَسَ۔ چڑے کی رکاب۔ شاخ جس کا دوسری

شاخ میں پیوند لگایا جائے۔ جر۔

عَرُوسًا۔ مص (ص) گاڑنا۔

چھونا۔ رکاب میں پاؤں ڈالنا۔ (س)

حکم عدول کے بعد مان لینا۔

(البرہ) عَرَسَا۔ اس کے حکم کو مان۔

(الهدد) بَعَرَسَا۔ اس کا دامن مت چھوڑ

عَرَسَا عَرَسَا (ن) اونٹنی وغیرہ کا دودھ

کم ہو جانا۔

عَرَسَا رَحَلَتَا۔ لالھی۔ چوبدستی۔

عَرَسَ۔ پودا۔ جر۔ عَرَسَا۔ عَرَسَا۔ (س) اس۔

مص (ص) پودا لگانا۔

عَرَسَ۔ پودا۔ وہ رطوبت جو رحم سے

بچہ کے ساتھ نکلتی ہے۔ وہ جھلی

جو پیدائش کے وقت بچہ کے

منہ پر ہوتی ہے۔ سیاہ کوا۔ جر۔

عَرَسَا۔

عَرَش۔ پیاسٹر۔ ایک مصری بسکہ مسادی

۲۔ جر۔ عَرُوش۔

عَرُوش۔ کپڑے کی شکن۔ مٹے آدمی کے بدن

کی جھریاں جو دبیلے ہو جانے کے بعد

پڑ جائیں۔ جر۔ عَرُوش مص (ن)

اونٹ کو پیش بند سے بانڈھنا۔ مص

(ص) کسی چیز کو تروتازہ توڑنا۔

بھرننا۔ بچنا۔

عَرُوش۔ تیر کا نشانہ بمقصد خواہش بمقصد و

ارادہ۔ غم شوق۔ جر۔ عَرُوش۔

مص (س) زچ ہونا (الی) آرزو نہ

ہونا (ص) ڈرنا۔ تنگ آنا۔

عَرُوش۔ (ك) تروتازہ ہونا۔

عَرُوشَة۔ اونٹ کا پیش بند۔ جر۔ عَرُوش۔

عَرُوشُوف۔ (بعضی عَرُوشُوف) چینی ہڈی۔

جس کو چبا کر کھاتے ہیں۔ جر۔

عَرَا ضَيْف۔

عَرَا طَلَبَانِي۔ خوبصورت جوان۔

عَرَسَا۔ حبشی مرغی۔ وا۔ عَرَسَا تے۔ ایک

گھاس کا نام۔

عَرَسَا تے۔ گھوڑے کی پیشانی کی سپیدی۔

شریف و بزرگ آدمی۔

عَرَسَا تے۔ پکنے کے وقت دیگ کی آواز۔ مص

حلق میں نیزہ مارنا۔ غزارہ کرنا۔ ناک

کی ہڈی توڑ دینا۔ مرنے کے قریب

ہونا۔ گلا کاٹنا۔ آواز کا اور جان کا

گلے میں آجانا۔

عَرُوف۔ ایک درخت جو باغیت کے کام

آتا ہے مص (ض) پیشانی کے بال کا ٹٹا۔ (ن۔ ض) پانی کو چلو سے لینا۔ چمڑے کو درخت غرق سے دباغت دینا۔

عَرَق - (س) چوپایہ کا درخت غرق کے کھانے سے بیمار ہونا۔  
عَرَقَة - ایک بار کا ٹٹا۔ پانی کا ایک مرتبہ چلو بھرنا۔

عَرَقَة - پانی کو ہاتھ میں بھرنے کا انداز۔ جوتی جہ: عَرَق -

عَرَقَة - ایک چلو پانی۔ جہ: عَرَق - بالاخاندہ۔ بالوں کی لٹ۔ اونٹ کے گلے کی رسی جس میں گرہ ایسی لگائی ہو جو آسانی سے کھل سکے۔ ساتواں آسمان۔ جہ: عَرَق عَرَقَات -

عَرَق - ڈوب۔ ڈبکی۔ غرق آبی۔ (س) ڈوبنا۔ بقدر سیرابی پانی پینا۔ بے نیاز ہو جانا۔ ڈوبنا۔

عَرَق - (ن) سختی کے ساتھ کھینچنا۔ دودھ وغیرہ کی ایک مرتبہ پینے کی مقدار پینا۔

عَرَق - ڈوبا ہوا۔

عَرَقَة - دودھ وغیرہ کے ایک مرتبہ پینے کی مقدار۔ جہ: عَرَق

عَرَقَة - خوب سیراب زمین۔

عَرَقْد - ایک بڑے درخت کا نام۔ وا۔

عَرَقْدَة - انڈے کی سپیدی۔

عَرَقْلَة - ایک بار پانی سر پہ گرانا۔ انڈے اور خر بوزے وغیرہ کا اندر سے

خراب ہو جانا۔

عَرَقِی - انڈے کی سفیدی۔ انڈے کی سفیدی وزردی کے اوپر کی باریک جھلی۔ جہ: عَرَقِی -

عَرَق - لمبائیزہ۔ لمبے اور ڈھلے بدن کا آدمی۔

عَرَقَة - وہ غلاف بوختنہ میں قطع کر دیا جاتا ہے۔

عَرَم - (س) تاوان ادا کرنا (فی التجارة) تجارت میں گھٹانا اٹھانا۔

عَرَم - جس پر تاوان لازم ہو۔

عَرَم - جس چیز کا ادا کرنا لازم ہو۔ قرض تاوان۔

عَرَمُول - عضو تناسل یا نرم اور موٹا عضو تناسل۔ جو ٹٹکا ہوا اور غیر نختون ہو۔ جہ: عَرَمِیْل -

عَرَمِی - بھاری جسم کی عورت۔

عَرَم - عقاب یا اس کے مشابہ ایک پرندہ۔ کیسکا۔ جہ: -

عَرَمَان - مص (س) خشک ہونا۔ سوکھ جانا۔

عَرَمَان - سُست۔

عَرَمِیْل - چھیل

عَرَمِیْق - عَرَمِیْق - ایک سیاہ

آبی پرندہ۔ لمبی گردن کا سارس۔

کَلْب - جہ: - عَرَمِیْق -

عَرَمِیْقَة - عَرَمِیْق -

سپید۔ خوبصورت۔ نوجوان

(م) عَرَمِیْقَة۔

عَرِيْزَة - تجب (مص) دل پر  
 چرنی کا چھا جانا۔ سریش سے  
 چپکنا۔ اچنبھا کرنا۔  
 عَرُوْب (ون) آفتاب وغیرہ کا ڈوب  
 جانا۔  
 عَرُوْس - فریب دینے والا۔ شیطان۔  
 دنیا۔ وہ دو جس سے غرغہ  
 کیا جائے۔  
 عَرُوْف - کنواں جس کے پانی تک ہاتھ  
 پہنچے۔  
 عَرُوْب (عَرُوْب) عَرُوْف - بڑا ڈول۔  
 عَرُوْبِي - تجب۔ شوق و رغبت۔  
 بھڑکانا۔  
 عَرُوْبِي - خوبصورت۔ جہ۔ آخِرِ يَاء۔  
 عَرُوْبِيَاء - (س) ٹھنڈا ہونا (ب) ٹھنڈے  
 و مشتاق ہونا۔  
 عَرُوْبِي - سردار عورت۔  
 عَرِيْب - ہرناد اور نئی چیز مسافر۔  
 دور ہونے والا اجنبی۔ جہ۔  
 عَرُوْبِيَاء۔  
 عَرِيْبَة - غریب کا مؤنث۔ چسکی جو زمین  
 میں گڑھی ہوئی نہ ہو۔ جہ۔  
 عَرُوْبِيَاء۔

عَرِيْزَة - جہ۔ عَدَا ئِيْذ۔  
 عَرِيْزَة - سرشت۔ طبیعت۔ فطرت۔  
 جبلت۔ جہ۔ عَدَا ئِيْذ۔  
 عَرِيْس - بیٹھڑ۔  
 عَرِيْسَة - نیا اگا ہوا کمبور۔ جہ۔  
 عَدَا ئِيْس۔  
 عَرِيْس - تازہ۔ اچھا گانے والا۔ بارش۔  
 کا پانی۔ ہر تازہ و سفید چیز  
 کلی۔ نیا پودہ۔ جہ۔  
 آخِرِ يٰئِيْس۔  
 عَرِيْف - انس کی جھاڑی۔ بن۔  
 عَرَبِي (عَرَبِي) عَرِيْف - بڑا ڈول۔ بہت  
 پانی لانے والا۔  
 عَرِيْفَة - مختلف قسم کے بہت سے گنجان  
 درخت۔ جولنا۔ پارسا نہ ہونا۔ جہ۔  
 عَرَا ئِيْف۔  
 عَرِيْق - ڈوبا ہوا۔ جہ۔ عَرَا ئِيْق۔  
 عَرِيْب - قرضدار۔ قرض خواہ دلغات  
 اصدا سے ہے۔ جہ۔  
 عَرْمَا ء۔  
 عَرِيْن - جھاگ۔ مٹی جو سیلاب بہا کر  
 لائے۔ حماقت۔

## ع - سزا

عُرْ - ہاچھ کا اندونی حصہ۔ ترکوں کا  
 ایک گروہ۔  
 عَرَا ء - عَرَا ءَة - جنگ۔ لڑائی۔ جہ۔  
 عَرَا ءِيْت۔  
 عَرَا ءَة - عَرَس۔ عَرَس (ك) کسی چیز کا

عَرِيْد - فریب دیا ہوا۔ خوف زدہ  
 کرنے والا۔ اچھی عادت۔ ذمہ  
 دار۔ آسودگی اور بے فکری  
 کے ساتھ بسر اوقات۔  
 تجربہ کار۔ جہ۔ عَرَسَان۔  
 آعَرَا ء۔ آعَرَا ءَة۔ (م)

زیادتی کے ساتھ ہونا۔ اونٹنی کا بہت دودھ والا ہوجانا۔ آنکھ کا بہت آنسوؤں والا ہوجانا۔  
 عُذَّاسُ - خویش واقارب کے ساتھ احسان کرنے والے۔  
 عُذَّالٌ - ہرن کا بچہ جو دوڑنے لگا ہو۔ جہ: - عُذْنُ لَکۃٌ - عُذْنُ لَانٍ -  
 عُذَّالَةٌ - برنی، سُورج - سُورج بوقت طلوع۔  
 عُذَّالَةُ الطَّحٰحٰی - شروع چاشت۔  
 عُذَّالٌ - سوت کاتنے والا۔ (د)  
 عُذَّیٌّ - مجاہدین۔ لڑنے والے۔ واہ۔ غازی۔  
 عُذَّسٌ - کھجور کی پتی کا بنا ہوا ایک قسم کا برتن۔ بہت کثیر۔ جہ: - عُذَّرٌ -  
 عُذَّسًا - (ن) نظر بد کے دفعیہ کے لیے چوپایہ وغیرہ پر رنگین اونی کپڑا ڈالنا۔ اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو مخصوص کر لینا۔  
 عُذَّسٌ - یاچھ کا اندرونی حصہ۔  
 عُذَّسٌ - ڈورا۔ دھاگہ۔ مص (رض) کاتنا۔  
 عُذَّیْلٌ - عورتوں کے ساتھ عشق بازی اور گفتگو کرنے والا۔ ہرگز وراور نرم چیز۔  
 عُذَّیْلٌ - عورتوں کے ساتھ بات چیت اور عشق بازی مص (س) (ب)

عورتوں کے ساتھ بات چیت۔ اور عشق بازی کرنا۔ (ص) کاتنا۔  
 عُذْنَةُ - بہترین۔ و پاکیزہ و کشادہ جگہ۔  
 عُذْوٌ - قصد۔ ارادہ۔ مص۔ (ن) خواہش کرنا۔ ارادہ کرنا۔  
 عُذْوٌ - عُذْرٌ وَانٍ - عُذْرٌ اَوْقَۃٌ - (ن) جنگ کے لیے نکلنا۔ جنگ کرنا۔  
 عُذْوَقَۃٌ - مسلمانوں کی وہ لشکر کشی جس میں آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بہ نفس نفیس شرکت فرمائی ہو جہ: - عُذْوَاتٌ -  
 عُذْوِیٌّ - عُذْوٌ کی طرف منسوب۔ جنگ کرنے والا۔  
 عُذَّیٌّ - مجاہدین۔ جنگ کرنے والے۔ غازی۔  
 عُذَّیْدٌ - بہت سی چیز۔ جہ: - عُذَّانَا -  
 عُذَّیْدَةٌ - اونٹنی وغیرہ جو بہت دودھ دینے والی ہو۔ بہت پانی والا کنواں اور چشمہ۔ جہ: - عُذَّانَا -

## غ - س

غَسَّ - (ن) (فی) آمدورفت کرنا۔ غوطہ دینا۔  
 غَسَّ - سُسْتُ - کبینہ۔ (واحد جمع)  
 غَسَّاقٌ - غَسَّاقٌ - سرد اور بدبودار۔ دوزخیوں کے جسم سے جو مواد

پکے۔

عَسَّال - دھوپ، دھونے والا۔

عَسَاكَة - دھوپ، پکھا ہوا پانی، جو چیز دھوئی جائے۔

عَسَّان - جوانی کی تیزی، قلب کی گمراہی، ایک چشمہ، ایک قبیلہ کا نام۔

عَسَّانِيّ - بہت خوبصورت، قبیلہ عَسَّان کی طرف منسوب۔

عَسَّس - ساند کا بغیر خواہش کے (اونٹنی پر، پڑھنا) علی [قرضدار پر سختی کرنا۔

عَسَّف - تاریکی۔

عَسَّق - عَسَّقَان (رض)، ہلکا مینہ پڑنا، پھوار پڑنا، دھوا کا چھتاہوں سے ٹپکنا۔

رات کا تاریک ہو جانا۔

عَسَّق - رات کے ابتدائی حصہ کی تاریکی، ایک قسم کے گیہوں۔

عَسَّل - (رض) دھونا، مار کر دردمند بنا دینا، بہت جماع کرنا (مجمولاً) پسینہ آ جانا۔

عَسَّل - عَسَّل - غسل کا پانی جس سے سر دھویا جائے جیسے آنولہ، غطلی وغیرہ۔

عَسَّلَة - آب غسل، ایک خوشبو کا نام جس چیز سے سردھویا جائے۔

عَسَّلَة - مرد یا ساند جو بہت جفتی کرے اور حاملہ نہ کرے۔

عَسَّلِيْن - کپڑے وغیرہ کا دھوون، دوزخوں کے جسم سے بچنے والی پیپ اور

کچھ لہو، دوزخ کا ایک درخت۔

عَسَم - سیاہی، تاریکی، گرد کی آمیزش مص (س) رات کا تاریک ہو

جانا۔

عَسَم - آعَسَام - بادل کا ٹکڑا۔

عَسْن - (ن) چبانا۔

عَسْن - سُست و نرم لٹکا ہوا۔

عَسْنَة - بالوں کی لٹ - زلف، گھوڑے کی ایال، جر، عَسْن۔

عَسُو - (ن) تاریک ہونا۔

عَسُوْق - عَسَّقَان (رض - س) آنکھوں کا چندھیانا، آنکھوں میں اندھیرا آ جانا، آنکھوں کا آنسو لے آنا۔

عَسُوْل - عَسُوْل - نہانے کا پانی، صابن وغیرہ جس سے جسم دھو دیں۔

عَسُوْلَة - پانی کو گرانا۔

عَسِيّ - (س) رات کا تاریک ہونا۔

عَسِيْل - دھویا ہوا (مذکر و مؤنث)، جر۔

عَسْلَاء - عَسْلِيّ - عَسَالِيّ - (د) کپڑوں کی دھلائی۔

## ع - ش

عَشَق - سُست، کینہ، فریب دینے والا، جر، عَشُوْن۔

عَشَق (رجل) عَشَق - بڑی ناف والا۔

عَشَق - کھوٹ، کینہ مص (ن) باطن کے خلاف اظہارِ مخصوصہ نسیمت نہ کرنا، جودل میں ہو اس کے خلاف ظاہر کرنا، خیانت کرنا۔

عَشَاء - دل کے ادیر کی جھلی، زمین پوش، بتلوار وغیرہ کا غلاف، جر، آعَشِيْمَة۔

عَشَارِب - بہادر و تجر بہ کار آدمی۔

عَشَّاش - شروع تاریکی۔ اخیر تاریکی شُرُوب  
عَشَّاش - پینے کی تھوڑی سی یا  
ناگوار چیز۔

عُشَّانَة - درخت کے کاٹنے کے بعد اس کی  
برط جو پھر پھوٹ آئی ہو۔

عُشَّادَة - پردہ آنکھ کی جھلی۔

عُشَّايَة - عَشَّايَة - پردہ۔ پوشش

عُشْرَب - شیر۔

عُشْغَل - لومڑی۔

عُشْشَق - نرم چیز کو کوٹنا۔

عُشْشَم - ظلم۔ ستم۔

عُشْشَم - (ض) لکڑہارے کارات کے وقت

بے سوچ سمجھے ہو جانے لگے کاٹنا۔

عُشْشَمَة - ظلم و ستم آواز جہ۔ عَشَّاشِيسِر۔

مص خود راں کرنا۔ کسی کام کا بیباکانہ

مرتبک ہونا۔ ظلم کرنا۔

عُشْشَمِيَّة - ظلم و ستم۔

عُشْشَمِيَّة - خود رائے اور بہادر آدمی۔

عُشْشَمِيَّر - سختی۔

عُشْشَن - (ن) لالھی اور تلوار سے مارنا۔

عُشْشَو - (ن) کسی کے قریب آنا۔

عُشْشَوَاء - بھیڑ جس کا منہ سفید ہو سفید سر کی

گھوڑی۔

عُشْشَوَة - عَشَّادَة (مثلثہ) پردہ۔ پوشش

عُشْشِي - عَشَّيَّان (س) چھا جانا۔ گھیر لینا

کسی کے پاس آنا۔ جماع کرنا (ب) [

کسی کو کوڑے وغیرہ سے مارنا (علی) [

بے ہوش ہو جانا۔

عُشْشِيَّة - عُشْشِي - عُشْشِي - ضعفِ قلب کی وجہ سے

قوی کا معطل ہو جانا۔ بے ہوشی۔  
عُشْشِيَّة - پردہ۔ پوشش۔

## ع-ص

عَصَّان - جس کے گلے میں کچھ انگ جائے جس

کے گلے میں پھندا لگ جائے۔

عَصَب - زبردستی پھیندا ہوا۔ مص (ض) ظلماً

مادر زبردستی کسی سے کوئی چیز لے

لینا۔ چھین لینا۔

عُصَبَه - غم جو گلہ بند کرنے پھندا اُچھو۔ جو

گلے میں انگ جائے جہ۔ عَصَص۔

عَصَص - (س) ف، (ب) [ گلے میں کھانا

دیگرہ انگ جانا۔

عُصَلَب - لچکدار اور بلند قامت آدمی۔ جہ۔

عَصَالِب۔

عُصْن - شاخ۔ ٹہنی۔ جہ۔ عَصُون۔

أَعْصَان۔ عَصْنَة۔

عَصْن - (ض) شاخ کو اپنی طرف کھینچنا اور

اسے کاٹنا۔ کسی چیز کو پکڑنا (عن) [

روک دینا۔ باز رکھنا۔

عُصْنَة - چھوٹی سی شاخ۔

## ع-ض

عَضَّض - تازہ اور نازک پھول۔ گائے کا

نومولود بچہ۔ جہ۔ عَضَّضَان - ہنس

کھ اور تازہ رو۔ جوانی۔

عَضَّض - عَضَّضَان - عَضَّضَانَة -

(ض) جھکانا۔ پست کرنا۔ توڑنا۔

روکنا۔ ناگوار چیز کو برداشت کرنا۔

عَضْبٌ مِثْلُهُ - کسی کی عزت بڑھ کر رہ کرنا۔  
 عَضْبًا - جھاڑ کے درخت کی ایک قسم جس کی لکڑی بہت سخت اور آگ دیرپا ہوتی ہے۔ وا:۔ عَضْبَاتٌ -  
 عَضَابٌ - چھپک۔ آنکھ کا تنکنا وغیرہ۔ مص۔  
 (دس) چھپک زدہ ہونا۔  
 عَضَابٌ - آنکھ کا تنکنا۔  
 عَضَابِيٌّ - تنگدست۔ جس کی زندگی مگر رہو۔  
 عَضَائِسٌ - خالص چکنی مٹی۔ چکنی مٹی کا بنا ہوا۔  
 پیالہ، ایک سفید رنگ کی ٹھیکری جو نظر بد کے دفعیہ کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔  
 عَضَارَةٌ - اچھی خوشبودار اور کھنی مٹی۔ نعمت۔  
 آسودگی و فراخی، ارزانی، کشادگی۔  
 جر:۔ عَضَائِرٌ -  
 عَضَائِنٌ - عَضَائِنٌ - سر کا اگلا حصہ۔  
 پیشانی۔ ناک۔  
 عَضَائِنَةٌ - ذلت، منغصت، گھاٹا۔ جر:۔  
 عَضَائِنٌ -  
 عَضَائِنَةٌ - عَضَائِنَةٌ (دک) - س، تازہ رو ہوجانا۔  
 عَضَبٌ - غصہ (دس) غصہ کرنا۔  
 عَضْبٌ - بڑا غصہ کرنے والا۔ غصیلا۔ جلد غصہ ہونے والا۔  
 عَضِبٌ - غصہ ور، خشم ناک۔  
 عَضْبٌ - شیر نہایت سُرخ پیل (چوپایہ)۔  
 عَضْبَانٌ - غصہ میں بھرا ہوا۔ خشم ناک (د)۔  
 عَضْبِيٌّ - عَضْبَانَةٌ - جر:۔

عَضَابٌ - غَضَبِيٌّ - عَضَابِيٌّ -  
 عَضْبَةٌ - بڑھی بکری کی کھال۔ مچھلی کی کھال۔  
 ایک مرتبہ غصہ کرنا۔  
 عَضْبِيٌّ - سوانٹ کا گلہ۔  
 عَضْبَةٌ - خورائی۔ ذلت۔ جر:۔ عَضْبَانٌ -  
 عَضْبٌ - (دس) مفلسی کے بعد کسی کو دو لہند اور آسودہ کروینا (رض) روکنا اور بند کرنا کا (شاعر علی) مائل ہونا۔ (ل) کسی کے لیے کسی چیز میں سے کچھ جدا کرنا۔  
 (ع) اعراض کرنا۔ پھر مانا۔  
 عَضْرَاءٌ - گذراؤقت کی سہولت اور راحت و آرام۔ زمین جس کی مٹی اچھی ہو۔ سبز مٹی۔ جر:۔ عَضْرَائِيٌّ -  
 عَضْرُوفٌ - چینی بڑی۔ جر:۔ عَضْرَائِفٌ -  
 عَضْرُوفَةٌ - گھٹانا۔ کم کرنا۔ کم ہونا۔  
 عَضْفٌ - کھجور کی مانند ایک درخت وا:۔  
 عَضْفَةٌ - کان کا ڈھلا ڈھلا پن۔  
 (دس) کان کا پیدائشی طور پر ڈھیللا اور لٹکا ہوا ہونا۔ تارک ہونا۔  
 عَضْفٌ - (دس) توڑنا۔ کان جھکانا۔ چلنا۔  
 گدھیا کا گوز مارنا۔  
 عَضْفَاءٌ - ڈھیلے ڈھالی۔ خوش عیش (عورت)۔  
 جر:۔ عَضْفٌ -  
 عَضْفَةٌ - بھٹ۔ تیر کے مشابہ ایک جانور۔  
 جر:۔ عَضْفٌ -  
 عَضْفَانٌ - کپڑے کی تہ کی شکن۔ کھال کی جھری۔  
 زرہ کی شکن۔ جر:۔ عَضْفُونٌ -  
 مص (دس) روک دینا۔ باز رکھنا۔  
 (ب) پیٹ سے ناام۔ بچہ ڈال دینا۔



عَطَاطٌ - صبح کا شروع کچھل رات کی سیاہی کا بقیہ۔ ترکے کا اندھیرا۔  
 عَطَاطٌ - سنگ خوار کی قسم کا ایک جانور۔  
 ۱۱۔ عَطَاطَةٌ -  
 عَطَايَةٌ - جو چیزیں کہ عورتیں کپڑوں کے نیچے ہستی ہیں جیسے انگلیا وغیرہ۔  
 عَطْرٌ - ناز سے چلنے والا۔ مص (صن) چلنے میں ماتہ ہلانا۔  
 عَطْرَافٌ - عَطْرٌ وَّفٌ۔ سردار ہوانزو۔ خوبصورت ہوان و سخی۔ جر۔ عَطْرَافَةٌ  
 عَطْرٌ ہس۔ ظالم و متکبر۔ جر۔ عَطْرَافِيسُ۔  
 عَطْرَفَةٌ - تکبر کرنا۔ کھینا۔  
 عَطْرُ نِسْ - ظالم و متکبر۔ جر۔ عَطْرَافِيسُ۔  
 عَطْرَسٌ - (صن) (فی) غوطہ دینا۔ غوطہ لگانا۔ برتن وغیرہ میں منہ ڈال کر پانی پینا۔  
 عَطْرَشٌ - (س) آنکھوں سے کم نظر آنا۔ اور پانی جاری رہنا۔  
 عَطْرَشٌ - (صن) رات کا تاریک ہونا۔ بیماری یا بڑھاپے کے سبب آہستہ چلنا۔  
 (فَلَاةٌ) عَطْرَشَاءٌ - عَطْرَشِيٌّ - بے راہ جنگل۔  
 عَطْرَشَانٌ - (صن) بیماری یا بڑھاپے کے سبب آہستہ آہستہ چلنا۔  
 عَطْرَخَطَةٌ - دریا کی موج۔ ہنڈیا پکنے کے وقت کھد بھاہٹ۔ نیند کے خراٹے۔  
 عَطْفٌ - راحت و آرام۔ آسودگی۔ ابرو کے بالوں کی زیادتی۔ پیلو کی درازی۔  
 مص (س) ابرو کے بالوں کا زیادہ ہونا۔ پلک کا دراز ہونا۔  
 عَطْفُلٌ - (ن) بادل کا گرا ہوا۔

عَضَنَقَرٌ - شیر سخت مزاج اور سخت بدن کا آدمی۔  
 عَضُوٌ - (ن) رات کا تاریک ہوجانا۔ درخت عَضْنَا کھانا۔ ڈھک لینا۔ خاموش ہونا اور دل میں رکھنا۔  
 عَضُوٌ - (ن) خوش عیش و خوشحال ہونا۔  
 عَضُوْبٌ - شیر غصہ ور۔ بد ذات بخیت۔ سانپ عجبیت اور اونٹنی جو بد مزاج ہو، اور پیچھے چلائے (مذکر و مؤنث) عَضُوْرَةٌ - غصہ کرنا۔  
 عَضُوِيٌّ - جنگل (س) چوپایہ کے پیٹ میں عَضْنَا کھانے سے درد ہونا۔  
 عَضْبَاءٌ - زمین جس میں درخت غضا بہت ہوں۔  
 عَضْبِيْرٌ - ہرزہ و نازک چیز۔ سرسبز و شاداب۔  
 عَضْبِيْنٌ - تازہ اور نرم و نازک پھول۔ پست نگاہ۔ خوارو بے حقیقت۔ چشم بیمار۔  
 جر۔ آعَضَةٌ - آعَضَاءٌ - (م) عَضْبِيْضَةٌ - جر۔ عَضْبَائِيْضٌ -  
 عَضْبِيْمَةٌ - خوراسی۔ ذلت۔ گھانا۔ جر۔ عَضْبَائِيْضٌ -  
 عَضْبِيْنٌ - اونٹنی کا بچہ جو نام ساقط ہو گیا ہو۔

## ع-ط

عَطٌ - عَطِيْطٌ - (صن) سونے والے کا خراٹے لینا۔ اونٹ کا بڑھڑانا۔  
 عَطٌ - (صن) (فی الماء) پانی میں غوطہ دینا۔  
 عَطَاءٌ - لباس۔ پردہ۔ غلاف۔ ڈھکنے کی چیز۔  
 جر۔ آعْطِيْطِيَّةٌ -  
 عَطَّاسٌ - بہتسمہ۔ اصطباغ (د)  
 عَطَّاطٌ - آپس میں ایک دوسرے کو غوطہ دینا۔

کے وقت چہرہ پر ڈال لیتا ہے۔ سر کی  
زردہ جو ٹوپی کے نیچے پہنی جاتی ہے۔  
پھاڑ کی چوٹی۔ جر۔ غَفَّارُ

غَفَّارَةَ - ایک وسیع چادر جسے پادری گرامیں  
پہنتے ہیں۔

غَفَاص - مَغَافِصَة - اچانک اور غفلت  
میں پکڑ لینا۔

غَفَّة - خوراک جس سے دن گزر جائے۔ قوت  
لا بیوت۔ چوہا۔

غَفَس - پیٹ۔ کپڑے کا رواں۔ پہاڑی بکری کا  
بچہ۔ جر۔ آغَفَاس۔

غَفْرَةَ - غَفُورٌ - پنڈلی یا عورت کی پیشانی۔  
کارواں مص (ص) درست کرنا۔

ڈھک لینا بچھا دینا۔ مرض کا لوٹ آنا  
غم اور ملال کا لوٹ آنا۔ آبخش  
دینا۔ معاف کر دینا۔

غَفْرٌ - چھوٹی گھاس یا گدی یا پنڈلی یا عورت  
کی پیشانی یا رخسارہ کا رواں۔ مص۔

(ص) کپڑے میں رواں ہو جانا۔ مریض  
کی بیماری کا عود کر آنا۔ زخم کا ہرا ہو  
جانا۔

غَفْرٌ - گائے کا بچہ۔ ایک چھوٹا سا جانور۔

غَفْرٌ - پہاڑی بکری کا بچہ۔  
غَفْرُ الْقَفَا - جس کی گدی پر رواں ہو۔

غَفْرَةَ - ڈھکنے کی چیز۔  
غَفْرَةُ الْقَفَا - عورت جس کی گردن پر ریشم  
ہوں۔

غَفَش - آنکھ کا چیپڑا۔  
غَفَق - ہلکی بارش مص (ص) ریح شکم کا

غَطَمَ - بڑا دریا۔ مجمع کثیر۔  
غَطْمَش - سُست بینائی والا۔ بد اخلاق و ظالم۔

غَطْمَشَة - کسی بڑے کو ظلم و ستم اور زبردستی سے لینا۔  
غَطُو - غَطُو - دن، ستارے کا ہونا پانی کا

چڑھانا اور زیادہ ہونا، کسی چیز کو  
ڈھک لینا اور گھیر لینا۔

غَطَوَان - آسودگی، مال کی کثرت۔  
غَطِي - (ص) جوانی بھر جانا۔ چلنا۔ ڈھک لینا

اور چھپا جانا۔ بڑھنا اور پھیلنا۔  
غَطِيْلَةٌ - بات چیت کرنے میں شور بلند ہونا۔

بہت مال و دولت ہونا۔  
غَطِيْمٌ - غَطْمَطَه - بڑا سمندر۔ بہت پانی والا۔

## غ ف

غَمَت - سوکھا ہوا پتہ۔  
غُمَّاء - کھجوروں کی ایک آفت۔ جس کی وجہ

سے وہ پکتے نہیں۔  
غُمَّاء - سفیدی جو سیاہی چشم پر آجائے۔

پھولہ۔  
غُمَّاس - بہت بخشنے والا۔ بڑی مغفرت کرنے والا۔

صفات پائی آتالی میں سے ہے۔  
غُمَّاس - گردن یا گدی یا پنڈلی یا پیشانی کا

رواں۔  
غُمَّاس - رخسارہ کا ایک داغ۔ ایک قبیلہ

کے مورت کا نام۔  
غَفَّارَةَ - رومال جسے عورتیں دوپٹے کے نیچے سر

پر ڈال لیتی ہیں کہ دوپٹے میلان نہ ہو۔  
زردہ کا کھڑا جسے ہتھیار بند آدمی جنگ

عَقْفَى - کوڑا کرکٹ، بھُس، رومی اور خراب چیز مص (س) ادنگنا۔  
عَقْفَى - (ص) غلہ کو تنکوں وغیرہ سے صاف کرنا۔

عَقْفِيَّةٌ - بلند ٹیلہ جس پر پانی نہ جاسکے۔ مص (س) سونا۔  
عَقْفِيْرٌ - گردن کے بال گدی کے بال، رخسار کے بال۔

عَقْفِيْرَةٌ - جس سے کسی چیز کو ڈھکا جائے۔ جس سے کسی چیز کی اصلاح کی جائے۔  
ج: عَقْفَاثِرٌ۔

(صایہ) عَقْفِيْرَةٌ - وہ کسی کا گناہ نہیں بخشتا۔ اور اس میں درگزر کرنے کا وصف نہیں۔

عَقْفِيْفَةٌ - سبز اور تازہ گھاس ج: عَقْفَاثِفٌ۔

## ع-ق

عَقَى - تحقیق - (ض) جوش میں آنا اور آواز نکالنا۔ پرندہ کا بولنا۔

عَقَى الْمَاءَ - پانی کی آواز جبکہ فراخ جگہ سے تنگ جگہ میں آئے۔

عَقْوُقٌ - عَقْقَاقٌ - عورت جس کی شرمگاہ سے جماع کے وقت آواز نکلے۔

عَقْقِيْقٌ - پانی کی آواز جبکہ تنگ جگہ میں داخل ہو

## ع-ق

عُقَلٌ - پیاس - پیاس کی سوزش - گلے کا طوق - شیشہ محیط ج: آعُقَالٌ۔

عُقَلٌ - عُكَلَةٌ - (ص) (مجمولاً) پیاسا ہونا۔

عُقَلٌ - (ن) گردن میں طوق ڈالنا۔ داخل ہونا۔

خارج ہونا۔ آنکھ لگنا (علی) کسی چیز پر هجوم کرنا۔ اونٹوں کا ہر گھڑی پانی پر آنا۔

عَقْفَةٌ - (ص) ایک نیند سونا۔

عُقْلٌ - راستہ جس میں کوئی علامت اور کوئی نشان نہ ہو۔ زمین جس میں

عمارت کا کوئی نشان نہ ہو۔ بے داغ چوپایہ۔ وہ آدمی جو خاندانی شرافت نہ

رکے۔ شعر جس کا قائل معلوم نہ ہو۔

گن نام مشاعر۔ نا تجربہ کار۔ ج:۔

آعُقَالٌ۔

دَنَاقَةٌ (عُقْلٌ) - بے دودھ کی اونٹنی۔ ج:۔

آعُقَالٌ۔

عُقَلٌ - زیادہ بلند۔ راحت و آسائش۔

بے خبری۔ فوگذاشت۔

عُقْلَانٌ - غافل آدمی۔

عُقْلَانٌ - غفلت۔ غافل آدمی۔

عُقْلَةٌ - بے خبری۔ فوگذاشت مص (ن) چوپایہ کو داغ نہ لگانا۔

عُقْلَقَةٌ - بد زبان اور بدکار عورت۔

عُقْفُوٌ - بلند پشتہ جس پر پانی نہ جاسکے۔

عُقْفُوٌ - عُقْفُوٌ (ن) سوچانا۔ ڈوب کر پانی پر ابھر آنا۔ ادنگنا۔

عُقْفُوْسٌ - بہت بخشنے والا۔ ج: عُقْفُوْسٌ - اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔

عُقْفُوْلٌ - اونٹنی جو سیدھی اور غریب مزاج کی ہو کہ کسی چیز سے نہ بد لے۔

عُقْفُوْلٌ - عُقْفَلَةٌ (ن) (عمن) فراموش کرنا۔ چھوڑنا۔

<p>سے ہے، جر:۔ آغَلَمَۃ - غَلَمَۃ -</p> <p>عَلَمَان - ام، غَلَمَۃ (تصغیر) غَلَمَۃ -</p> <p>عَلَمَۃ - کیتلی - ساد (د)</p> <p>عَلَمَان - بہت پیاسا۔</p> <p>عَلَب - عَمَلَبَۃ - (ض) غالب ہونا۔</p> <p>عَلَب - غلبہ - فتح مندی مص (س) موٹی گردن والا ہونا۔</p> <p>عَلَبَاء - بڑا ٹیلہ جس میں درخت بہت گنجان ہوں۔ جر:۔ عَمَلَب</p> <p>عَلَبَۃ - غلبہ رَجُلٌ عَمَلَبَۃ جس کی ناک پر غصہ دھرا ہے۔ غصیا را۔ جلد غالب آنے والا۔</p> <p>عَلَّت - (س) غلطی کرنا حساب میں غلطی کرنا۔</p> <p>عَلَّتَ - اناج وغیرہ کی آمدنی برکان کے کرایہ کی آمدنی۔ غلام کی مزدوری۔ زمین کی پیداوار۔ جر:۔ عَمَلَات</p> <p>عَلَّت - (ن) بیع کا معاملہ فتح کر دینا۔</p> <p>عَلَّتَ - پیاس پیاس کی شدت اور سوزش۔ پیٹ کی گرمی اور سوزش۔ انگلیا، جو زرہ کے نیچے پہنی جاتی ہے۔</p> <p>عَلَّتَۃ - اول شب۔</p> <p>عَلَّتَۃ - غلطی۔ حساب کی غلطی۔</p> <p>عَلَّت - (ض) خلط ملط کرنا۔</p> <p>عَلَّت - بڑا جنگ کرنے والا جس کو کھانے پینے سے نشہ ہو جائے۔ جو نیند کے غلبہ سے سُست ہو اور جھونٹے کھائے۔</p> <p>عَلَّت - (س) سخت لڑائی لڑنا۔ چتھاق کا آگ نہ دینا اب کسی کے پیچھے پڑ جانا۔ کسی کا ہور بہنا۔</p>	<p>نیانت کرنا۔ پرشیدہ طریقہ سے کوئی چیز اٹھا کر اپنے سامان میں رکھ لینا۔</p> <p>عَل - کینہ مص (س) (ض) کینہ رکھنا۔ کینہ ور ہونا۔</p> <p>عَلَاء - تیر کو دور پھینکنے والا۔ ایک قسم کی چھوٹی مچھلی۔ جر:۔ اَعْلَمَۃ - مص (ن) دھنگا ہونا۔ بھاؤ کا تیز ہونا۔</p> <p>عَلَاء - مص تیر پھینکنے میں ہاتھ کو او سچا اٹھانا۔ اور تیر کو نہایت قوت سے پھینکنا۔</p> <p>عَلَاب - بہت زبردست۔ غلبہ حاصل کرنے والا۔</p> <p>عَلَاب - مُعَالَبَۃ - ایک دوسرے پر غلبہ چاہنا۔ غالب آنا۔</p> <p>عَلَاظ - بے رحم اور سخت و مضبوط۔ وا:۔ عَمَلِظ</p> <p>عَلَاظ - غلطی میں ڈالنا۔ ایک دوسرے کو غلطی میں ڈالنا۔</p> <p>عَلَاظ - موٹا اور سخت۔</p> <p>عَلَاظَۃ - عَمَلِظ - سختی اور مٹاپا۔ کھدرا پن۔ گاٹھا پن مص - (ک) (ض) سخت ہونا۔ موٹا ہونا۔</p> <p>عَلَابَف - ڈھکنے کی چیز جس میں تلوار وغیرہ رہے۔ جر:۔ عَمَلَف - عَمَلَف</p> <p>عَلَالَۃ - بکریوں کی ایک بیماری۔</p> <p>عَلَالَۃ - چھوٹا سا کتہہ جسے عورتیں اپنے سر میں بڑا دکھانے کے لیے باندھتی ہیں۔ انگلی وغیرہ جو کپڑوں کے نیچے پہنی جاتے۔ جر:۔ عَمَلَالِیل</p> <p>عَلَام - لڑکا۔ ادھیڑ آدمی دلخات اصدا</p>
---	--

نرم کمان کھجور کے درخت کی چھال۔  
انگور کا پتہ۔ انگور کی بیل پر لگا ہوا۔  
احتمی۔ بد زبان اور بد اطوار عورت۔  
جر۔ - غَلْفَق۔

غَلْفَقَة - غریب ہو جانا۔ بری بات کہنا۔  
عَلَق - بڑی عمر کا دبلا پتلا آدمی۔ دروازہ کی  
بستکی مص (ن)، دروازہ بند  
کرنا (فی) [دور چلا جانا۔

(کَلَامٌ) عَلَق - مشکل کلام۔

عَلَق - بند کیا ہوا دروازہ۔

عَلَق - دروازہ کا قفل یا پٹی (د) ٹوٹ کر۔

مص (س) کھجور وغیرہ کی بوڑھیں

کیڑا لگ جانے کے سبب پھل نہ آنا۔

زخم اچھانہ ہونا۔ ہلاک ہو جانا۔ رہن

کا مرتن کی ملکیت بن جانا۔ غصہ

ہونا۔ بدخلق ہونا۔

غَلْفَقَة - عَلَق - ایک چھوٹا سا کڑوا زہریلا

حجازی درخت جو چڑھے کی دباغت میں

کام آتا ہے۔

غَلَل - پیاس کی سوزش اور شدت۔ پیاس

پیٹ کی جلن۔ بکریوں کی ایک بیماری

درختوں کے اندر رہتا ہوا پانی۔ جر۔

أَعْلَال مص (ن) سیراب ہو کر

پانی نہ پینا (مجمولاً) پیاسا ہونا۔

عَلِمَة - تیز شہوت مرد۔ (م) عَلِمَة۔

غَلِمَان - لڑکے۔ ۱۵۔ عَلَامَة۔

عَلِمَة - جماع کی خواہش کی تیزی۔

عَلِمَة - عَلِم - تیز شہوت ہو جانا۔

عَلْن - (ص) جوانی کا ڈھل جانا۔ جلدی

عَلْتِي - ایک کڑوا درخت۔

عَلْبَج - اچھی جوانی۔

عَلْبَج - رض، گھوڑے کا یکساں چلنا۔

عَلَس - اخیرات کی تار کی جہ۔ آغْلَاس

عَلَص - (ن) گلا کا ٹٹنا۔

عَلَصَة - سردار لوگ۔ انبوه۔ سردار گردن کے

درمیان کا گوشت مص۔ گلا پکڑنا

گلا گھونٹنا۔

عَلَط - (س) (فی) [غلطی کرنا۔

عَلَط - سخت زمین۔

عِلْظ - (دک) خوشہ میں دانہ پڑ جانا۔ سخت اور

دلدار ہو جانا۔ موٹا ہو جانا۔

عِلْظَة - سختی۔ کھردرا پن۔ مٹاپا۔ گاڑھا پن۔

کینہ۔ دشمنی۔

غَلَعَلَة - جلد جانا (فی) [داخل کرنا۔

(قُلُوبٌ) عَلَف - پردہ پڑے ہوئے دل جو کسی

بات کو نہ سمجھ سکیں۔ ۱۵۔ آعَلَف

عَلَف - (س) مرد کا بے حق نہ رہ جانا۔

عَلَف - (ن) کسی چیز کو غلاف میں رکھنا۔

بالوں کو غالبہ (ایک قسم کی خوشبو)

ملنا۔

غَلْفَاء - آعَلَف کی تانیث قَوْمٌ غَلْفَاء۔

کمان غلاف میں کی ہوئی۔ سَتَة

غَلْفَاء ازبانی اور فراخی کا سال۔

غِلْفَاق - لیے قد کی عورت۔ جر۔ ۱۔ عِلْكَ فَيْق۔

(أَمْرًا) غِلْفَاقُ الْمَثَبِي - تیز چلنے والی

عورت۔

عُلْفَة - سرد کر کا غلاف۔ جر۔ عَلَف

عَلْفَق - کائی۔ آسودگی کے ساتھ زندگی۔

عَلَائِل -

عَلِيم - نوح علیہ السلام کے پوتے کا نام۔  
 عَلِيم - جس کو جاس کی بہت خواہش ہو (مذکر  
 و مؤنث) (۲) ، عَلِيمَة -  
 عَلِيُون - حقہ یا گریٹ کا پائپ (د)

ع-م

عَم - رنج، اندوہ، ملال، جہ، عَمُوم دِيَوْم  
 عَمَد، دن جس میں گرمی کی شدت سے  
 سانس پھولے مصل (دن) ٹھیک کرنا  
 گدھے وغیرہ کی تھوڑھڑی ٹھیکے سے  
 باندھنا۔ ڈھک (دینا) (دن کا)  
 سخت گرم ہونا۔ کہ گرمی کی وجہ سے  
 سانس پھولے (مجبوراً) بلکہ ابر  
 میں پہلی تاریخ کے چاند کا چھپ  
 جانا اور نظر نہ آنا۔

عَمَاء - جو گھر جس سے گھوڑے کو پسینہ لانے  
 کے لیے ڈھک دیا جاتا ہے۔ جہ۔  
 آ عَمِيَة -

عَمَاء - رنج و غم، مصیبت، سختی۔  
 عَمَارَاتُ النَّاسِ - مختلف لوگوں کا انبوہ آدمیوں  
 کا گروہ۔

عَمَارَة - عَمُودَة - (س) بہت ہو جانا۔  
 عَمَارَة - (ك) احمق و بیوقوف ہونا۔  
 كَهْتَارَة - خوبصورت اور خوشنما اعضاء کی  
 لڑکی۔ ناز و انداز دکھانے والی۔

عَمَاسَة - آبی جانوروں میں سے ایک پرند۔  
 جانور۔ جہ۔ عَمَاس -  
 عَمَاص - نیند آنکھ لگ جانا۔

کرنا۔

عُلُو - دراز و گنجان ہونا (فی) [ حد سے گزرنا۔  
 (ب) تیر پھینکنے میں ہاتھ کو بہت  
 اونچا کرنا۔ پوری قوت سے تیر کو  
 دور پھینکنا۔

عُلُوَاء - سرکشی، شروع جروانی، حد سے تجاوز۔  
 جروانی کا گزر جانا۔ (اسم)

عُلُوَان - سرکشی، آغاز شباب، سرعت۔  
 حد سے تجاوز۔ جروانی کا ختم ہو جانا۔  
 (اسم)

عُلُوَة - اتنی مسامت جتنی دور تیر جا کرے۔  
 نشانہ جہ۔ عُلُوَات - عِلَاء

عُلُوْطَة - غلط بات۔ وہ کلام جس سے کسی کو  
 غلطی میں ڈال دیا جائے۔

عُلُوْل - نرم غذا۔ خیانت کرنے والا۔  
 عُلُوْل - (ن) خیانت کرنا۔ مال غنیمت میں

سے چرا کر رکھ لینا۔ کسی کے ہاتھ  
 پاؤں میں بیڑی اور گلے میں طوق ڈالنا  
 عورت پر چڑھ بیٹھنا۔

عُلُوْمَة - عُلُوْمِيَة - عِلْمِيَة - روکین  
 عِلِيّ - گراں، ہنگام۔

عَلِيّ - عَلِيَان - (رض) ہڈی کا بوش  
 مارنا۔

عَلِيْظ - دلدار، موٹا، سخت اور کھرا۔ جہ۔  
 عِلَاط -

عَلِيْل - پیاس پیٹ کی سوزش، پیاسا۔  
 کینہ، دشمنی، رنج و ملال میں دل کی  
 سوزش اور بے کلی۔ جہ۔ عِلَال -

عَلِيْلَة - زہ، زہ کے نیچے کی پوشش۔ جہ۔

عَمَام - زکام۔

عَمَامَة - ابر سفید ابرو: عَمَام۔ عَمَامَة

عَمَامَة - چوپایہ کا ٹھیکنا جسے اس کے منہ پر باندھ دیتے ہیں کہ کچھ کھانہ سکے۔

ایک چھیڑا جس سے اونٹنی کی

آنکھیں باندھتے ہیں۔ بچہ کے سر کا

غلاف۔ ج:۔ عَمَامَة

عَمَاج - سخت و دربیہ آدمی وغیرہ۔

عَمَت - (صن) کھانے کا کھانے والے کو

بیہوش کر دینا۔ پانی میں غوطہ دینا کسی

چیز کو دالینا۔

عَمَت - (س) کھانے کا نشہ چڑھ جانا۔

عَمَة - رنج و غم۔ دریا وغیرہ کی تھاہ بہشتہ کام

بوفکر کا باعث ہو۔ ج:۔ عَمَة

(صُمَّتَالِ) عَمَة - شک ہو جانے کی وجہ

سے ہم نے روزہ رکھا۔

(رَلِيلَة) عَمَة - نہایت گرم رات۔

عَمِج - پانی بوشیریں نہ ہو۔ اونٹ کا

بچہ جو مال کی رانوں میں گھس کر دودھ

پے۔

عَمِج - (ن) پانی کو حلق سے اتارنا۔ گھونٹ

پر گھونٹ پینا۔

عَمَجَار - سریش جو کمان پر لگا یا جاتا ہے۔

عَمَجَة - پانی اور شراب کا ایک گھونٹ۔

پس خودہ۔ ج:۔ عَمَج -

عَمَجَرَة - کمان پر سریش چیکنا۔ بارش کا مرغزار

کو بھر دینا۔ پے در پے پانی پینا۔

عَمَد - تلوار اور چھری کا میان۔ ج:۔

اَعْمَاد - عَمُود -

عَمَد - دن، تلوار وغیرہ کو میان میں کرنا۔

عَمَد - (س) کنوئیں کا پانی زیادہ ہو جانا۔

کنوئیں کا پانی کم ہو جانا۔ دلغات اضا

سے ہے، رات چھا جانا۔

عَمَدَان - تلوار کا میان۔

عَمَدَرَة - زیادہ تاپنا۔

عَمَس - بہت پانی جو افرود۔ وسیع الاخلاق۔

بہت پانی والا دریا۔ دریا اور سمندر

کا بڑا حصہ۔ تیز رفتار گھوڑا۔ فراخ اور

لبا کپڑا۔ مختلف قسم کے لوگوں کی

جماعت۔ نا تجربہ کار۔ ج:۔ عَمَسَا -

عَمُود - مص (ن) پانی کا کسی چیز

پر اپنی کثرت کی وجہ سے چڑھ جانا۔

بلند ہونا۔

عَمَسَا - پیاس۔ کینہ۔ ج:۔ اَعْمَسَا -

عَمَس - زعفران۔ احمق آدمی (د) گٹھا۔ پولہ

ج:۔ اَعْمَسَا -

عَمَسَا - چھوٹا پیالہ۔ ج:۔ عَمَسَا -

عَمَس - متفرق لوگوں کا گروہ۔ گوشت کی

چکنائی جو ہاتھوں میں لگ جاتی ہے۔

(س) کینہ رکھنا۔ گوشت کا مزہ اور

بو بھل جانا۔ ہاتھ چکنا ہو جانا۔

عَمَسَا - سختی کسی چیز کے اٹھے ہونے کی جگہ

ج:۔ عَمَسَات -

عَمَسَا - گروہ۔ پانی کی کثرت۔ ج:۔ عَمَسَار -

عَمَسَا - چکنائی لگا ہوا ہاتھ۔ غلاموں اور

خادموں کا سیاہ لباس۔

عَمَسَا - احمق عورت۔ ایک قسم کا غاڑہ جو

عورتیں چہرہ پر ملتی ہیں۔ زعفران۔

عَمَسٌ - کمزور آدمی حقیقہ چیز د بے جانور  
جز:۔ اَعْمَسَانٌ -

عَمَسٌ - (ض) ظاہر و آشکارا ہوجانا۔ لنگرانا  
زمین میں بھٹانا۔ (ب) کسی کی  
چغلی کرنا۔ (ب) یاد کسی چیز  
کو ہاتھ سے دہانا (ب) عین  
جفن حاجب یا آنکھ یا پلک یا برو  
سے اشارہ کرنا۔

عَمَسٌ - (ض) غروب ہونا (ض) ڈوب دینا۔  
عَمَسٌ - عَمُوَسٌ - (ن) ہاتھ کو بے نقش و  
نکار رنگنا۔

عَمَشٌ - (س) بھوک یا پیاس کے سبب  
آنکھوں میں اندھیرا آجانا۔

عَمَصٌ - آنکھ کا چھپڑا۔ (س) آنکھ کے چھپڑے  
ہنا۔

عَمَصٌ - (ض) (س) ناشکری کرنا۔ حقیقہ سمجھنا  
عیب نکالنا [علی] جھوٹ بولنا  
تمت لگانا۔

عَمَضٌ - پست زمین۔ نرم زمین۔ گڑھوں والی  
زمین۔ جز:۔ عَمُوَضٌ اَعْمَاضٌ -  
عَمَضٌ - نیند۔

عَمَطٌ - پست و نرم زمین مص (س) (ض)  
حقیر سمجھنا۔ شکر ادا نہ کرنا۔ کسی چیز کو  
گلے سے شواری کے ساتھ اتار نہ دینا  
کرنا۔ ناز سے چلنا۔ اتارنا۔

(سَمَاءٌ) عَمَطِيٌّ مسلسل برسنے والا ہاہل۔  
عَمَمَةٌ - ڈر کے وقت گایوں کی آواز۔  
رطائی کا شور۔ وہ بات جس کا مطلب

صاف طور پر سمجھ میں نہ آئے۔ مص  
ڈر کے وقت آواز نکالنا۔ جنگ میں  
شور و غوغا کرنا۔ واضح بات نہ کہنا۔

نَبَاتٌ عَمِيقٌ - بہت رطوبت کی وجہ سے  
بدبودار گھاس۔

عَمَقٌ - (س) (ض) (ک) زمین میں سے  
تری کا نکل آنا۔

عَمَقَةٌ - ایک بیماری جو پشت میں ہوتی ہے۔  
(أَرْضٌ) عَمَقَةٌ - (ن) (س) (ک) زمین۔ (لَيْلَةٌ)  
عَمَقَةٌ (طُنْجِيٌّ) رات۔

عَمَلٌ - (ن) گدرائے ہوئے یا کچے میوہ کی  
پال دہانا۔ کسی چیز کی اصلاح کرنا۔

پسینہ لانے کے لیے کپڑا وغیرہ اوڑھا  
دینا کسی چیز کا بکثرت اور کجاں آگنا۔

عَمَلَجٌ - جو ایک روش اور ایک حالت  
پر نہ رہے کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ جز:۔

عَمَالِجٌ

عَمَلُولٌ - اکٹھی چیز۔ ابر۔ تاریکی۔ بلند ٹیلہ  
جز:۔ عَمَالِيلٌ -

عَمَدٌ - (س) بالوں کا (پیشانی اور گردی پر)  
چھا جانا۔

عَمَنٌ - (ن) کپڑا ڈالنا تاکہ پسینہ آجائے (مجموعاً)  
زمین میں داخل کیا جانا۔

عُمَنَةٌ - ایک قسم کا اُبتن جس سے عورتیں منہ  
دھوتی ہیں۔

عَمُوٌ - (ن) گھر کی چھت پانٹنا۔

عَمُوْدٌ - (ن) (کنوئیں کا) خشک ہوجانا۔

عَمُوْدَةٌ - جو اندری خوش خلقی۔ مص۔ (س)  
بہت ہونا۔



نرم و نازک اور شہاب میں بھرا  
ہوا جوان۔

عَمِيْزُ - سبز گھاس جو خشک گھاس کے نیچے  
اُلی ہو۔ بہت پانی۔ جہ۔ آعَمِيْزَاءُ  
عَمِيْزَةٌ - عیب۔ کم عقلی۔ حوص دلاج کرنے  
کا موقع۔ عیب گیری کا موقع۔ جہ۔

عَمَائِزُ

عَمِيْسُ - تاریک رات۔ نادر شے۔ بے نظیر چیز  
گنجان درخت۔ ایسی گنجان اور پُر چیز  
جس میں چھپ جانا آسان ہو کھیت  
میں پانی کی نالی۔

عَمِيْصَةٌ - عیب۔ گنماہی۔ ذلت و خواری۔  
گنماہی۔ جہ۔ عَمَائِصُ -

عَمِيْصَةٌ - آنکھ چھوٹی۔ بچوں کا ایک کھیل۔ (د)  
عَمِيْصٌ - بوش دیا ہوا گاڑھا دودھ۔

عَمِيْسِيْنُ - کھجور کا خوشہ جو پکانہ ہو۔ ترکھال جو  
کسی چیز کے نیچے رکھی ہوئی ہوتا کہ اس  
کے بال صاف ہو جائیں۔

ع-ن

عَنْاءُ - فائدہ۔ نفع۔ کفایت۔ اصلاح۔  
(قَرِيْبَةٌ) عَنْاءُ - بستی جس میں آبادی اور مکان  
بکثرت ہوں وَوَصْفَةُ عَنْاءُ - ماغ  
جس میں درخت بکثرت اور بہت  
گنجان ہوں کہ ہوا گزرے تو آواز  
غنے کے مشابہ پیدا ہو۔

عَنْاءُ - راگ اچھی آواز جو خوشی پیدا کرے۔

عَنْاءُ - لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے میں  
ادب کا اچھی طرح لحاظ رکھنے والا۔

عَمُوسُ - ادنیٰ کہ جب تک اس کی کوٹان نہ ملیں  
لاغری و فریبی معلوم نہ ہو۔

عَمُوسُ - سخت کام بمشکل میں پھینسا دینے  
والا۔ آر پار زخم۔ جھوٹی قسم جو جان  
بوجھ کر کھائی جائے۔

عَمُوسُ - جھوٹی قسم جو دیدہ و دانستہ کسی کی حق  
تلفی کے لیے کھائی جائے۔

عَمُوسُ الْحَاجِرَةُ - سخت جھوٹا۔ کذاب۔

عَمُوسُ - (ن) پست اور نا ہموار ہونا [فی]  
چلنا (ص) [عن] آسانی کرنا۔

(فی) پیوست ہو جانا۔ گھسنا۔  
جانا۔ چلنا۔

عَمُوسَةٌ - عَمَاءُ صَنَةٌ - دك، پست اور نا ہموار  
ہونا۔

عَمُوسَةٌ - عَمُوسُ - (دك - ن) دشوار فہم  
اور دقیق ہونا۔

عَمُومٌ - چھوٹے چھوٹے پوشیدہ ستارے۔  
(كَيْلَةٌ) عَمِيٌّ - بہت گرم رات۔ غم کی رات  
رات جس میں فضا مکدر ہو اور چاند  
نظر نہ آئے۔

عَمِيٌّ - دھندلا پن۔ تاریکی۔ سختی۔ جو قوم کو  
جنگ میں طول کر دے۔

عَمِيٌّ - بے ہوش (دکر و مؤنث واحد) تشنید  
و جمع، بالا خانہ (شنید) عَمِيَانُ -  
جہ۔ آعَمَاءُ -

عَمِيٌّ - بلا دستگی۔ دشوار کام۔  
عَمِيٌّ - (ص) گھر کی چمت پائنا (جمولاً)  
[علی] بے ہوش ہو جانا۔

عَمِيْسٌ - احمق اور ناسمجھ آدمی۔

عُتَاَج - ناز و ادا کرشمہ۔

عُتَاَفِرٌ - بے وقوف اور کند ذہن آدمی۔

عُرْطُ بَطِيْطٍ - جس کے جسم پر بکثرت

بال ہوں۔

عُنَائِمٌ - غنیمت کے اموال۔

عُنْبٌ - بہت سالوٹ، کامال۔

عُنْبَةٌ - خوبصورت اور صلیح لڑکے کی ہاچھ کا

دائرہ۔ جر: ۱۔ عُنْبٌ۔

عُنْتَةٌ - (س) ناک میں لولنا، گنگنا، پتھر کا

آواز کرنا۔ کھجوروں کا پک جانا۔

عُنْتَلٌ - بے عزت اور گنہگار آدمی۔

(اُمُّ) عُنْتَلٌ - مگر بڑا کفتار۔

عُنْثٌ - (س) پانی کو چھونک مار کر پینا۔ جی

کا متلانا۔

عُنْثَرٌ - عُنْثَرٌ - احمق۔ بے وقوف۔ کمینہ

جر: ۱۔ عُنْثَاثِرٌ۔

عُنْثَرَةٌ - سر کی صفائی اور بالوں کی کثرت۔

عُنْجٌ - عُنْجٌ - ناز و ادا کرشمہ۔

عُنْجٌ - تیل کا دھواں۔

عُنْجِيٌّ - (س) ناز و ادا کرنا۔ کرشمہ سنجی

کرنا۔

عُنْجِيَّةٌ - شیریں ادا عورت۔ ناز و ادا ناز

دکھانے والی عورت۔

عُنْجِيْلٌ - سیاہ گوش (ایک جانور کا نام)

جر: ۱۔ عُنْجَايِلٌ۔

عُنْدِيَّةٌ - گلے کے ارد گرد سخت گوشت کا ٹکڑا

جر: ۱۔ عُنْدَايِبٌ۔

عُنْدَارٌ - نوجوان۔ موٹا تازہ ناز و نعمت میں

پلا ہوا۔ عُنْدَايِقٌ - بندوق (د)

عُنْدُ لَايَةٍ - بڑے سرو والا آدمی۔

عُنْظٌ - سخت اور ہمدانہ ہونے والا رنج مص

(س) رنج دینا۔ اندوہ گین کرنا۔

عُنْمٌ - غنیمت۔ جو چیز بلا محنت و مشقت

حاصل ہو۔ جر: ۱۔ عُنْمٌ۔

عُنْمٌ - عُنْمِيَّةٌ - (س) لوٹ کا مال حاصل کرنا۔

غنیمت کے مال پر پہنچ جانا۔

عُنْمٌ - (اسم جمع) بکریاں۔ بکرے۔ جر: ۱۔

أَعْتَامٌ - عُنْمٌ - آغَانِمٌ۔

عُنْمٌ - مَعْنَمَةٌ - بہت سی بکریاں۔

عُنْوَةٌ - بے نیازی۔ کسی سے بے پروائی۔

عُنْيَةٌ - مالدار۔ دولت مند۔ سرمایہ دار۔

توانگر۔ جر: ۱۔ آعُنْيَاءٌ۔

عُنْيٌ - کفایت۔ چارہ یعنی تدبیر۔ مص۔

(س) مالدار ہونا۔ شادی شدہ ہونا۔

عورت کا غائب ہونا۔ زندگی بسر کرنا۔

دیدار کرنا۔ قائم رہنا۔

عُنْيَانٌ - عُنْيِيَّةٌ - بے نیازی۔ دسترس۔

قدرت۔ کفایت۔ چارہ و تدبیر۔

عُنْيِمٌ - لوٹ کا مال۔ بلا محنت و مشقت

کسی چیز کا حصول۔

عُنْيِمَةٌ - مال جو لڑائی میں کفار سے حاصل ہو

بلا محنت کسی مال کا حصول۔

ع-و

عَوٌ - گراہ۔ نا امید۔ اونٹ کا بچہ جسے

بدبھمی ہو گئی ہو۔

عَوَاثٌ - فریاد۔ فریاد رس۔

عَوَاثٌ - دن جس میں شکست اور

کشت و نمون واقع ہو۔

غَوَاشِش - ڈھانپنے والیاں۔ بے ہوشیاں۔  
واہ۔ غَاثِشِيَّة -

غَوَاص - دریا میں موتیوں کے لیے غوطہ لگانے  
والا۔ (م) غَوَاصَّة -

غَوَاصَّة - تار پٹیو۔ ایک بحری جنگی کشتی (د)  
غَوَائِل - سختیاں مصیبتیں۔ واہ۔ غَاثِکَة -

غَوَث - فریاد۔ فریاد رس مص (ن) مدد  
کرنا۔ اعانت کرنا۔

غَوُج - چوڑے سینہ والا گھوڑا (ن) دوہرا  
ہونا۔ مڑ جانا۔

غَوَس - گہرائی۔ پست زمین۔ پانی جو زمین میں  
جذب ہو گیا ہو۔ مص (ن) (د) دن

کا نہایت گرم ہونا پانی کو صحت سے  
اتارنا۔ پست ہونا کسی چیز کی

گہرائی تک پہنچنا۔ داخل ہونا۔ پانی کا  
زمین میں جذب ہو جانا۔

غَوَدَس - غِيَار (ن) آفتاب کا ڈوب جانا۔  
غَوَس - خون بہا۔ دیرت۔

غَوَرَة - آفتاب۔ قبیلوہ۔  
غَوْرِي - ہر چیز کی تھاہ۔

غَوَسَن - (ن) کسی کا قصد کرنا۔  
غَوَص - غِيَاص - غِيَاصَة (ن) (فی) پانی

میں غوطہ مارنا (علی) [اچانک آ جانا۔  
معنی کی حقیقت تک پہنچنا۔

غَوَط - مص (ن) کھودنا۔ ایک چیز کا کسی  
چیز میں داخل ہونا۔ ڈوب جانا۔

غَوَط - غَاط - پست و ہموار زمین۔ جر۔  
آغَوَاط - غِيَاط -

غَوَطَة - شام میں ایک نہایت سرسبز و شاداب  
مقام۔

غَوَطِي - گاتھ قوم۔  
غَوَغَاء - چھوٹی کھسی۔ ٹڈی۔ ٹڈی دل۔ آدمیوں

کا ہجوم۔ (د) شور و شغب۔  
غَوَل - سختی و دشواری۔ لیشیمی زمین۔ درد سر

مستی و خمار مص (ن) ہلاک کر  
دینا۔ اچانک پکڑ لینا اور مار ڈالنا۔

دفعۃً اچک لینا۔  
غَوَلُ غَاثِکَة - دشوار معاملہ۔

غَوَل - ہلاکت۔ مصیبت۔ بھوت۔ دیو۔ جن  
جو چیز اچانک آ کر دبا لے اور مار ڈالے

ج۔:۔ آغَوَال - غِيَالَان - سانپ۔  
ج۔:۔ آغَوَال - جا دو کرنے والا۔ فریب

دینے والا۔ موت۔ ایک مردم خور جن۔  
جو چیز عقل کو کھودے۔

غَوَلُ الْحَلِيْم - غصہ۔  
(عیش) غَوَل - خوشحال زندگی۔

غَوَلَان - اشنان کے مشابہ ایک کڑوی  
گھاس۔

غَوَسِي - مص (س) بچہ کا ماں کے  
دودھ سے سیر نہ ہونا۔ لاغر ہونا۔

غَوَسِي - قریب مرگ ہونا۔  
غَوَسِي - گمراہ۔ ج۔:۔ آغَوِيَاء -

غَوِيْث - جس چیز سے کسی کی مدد کی جائے۔  
غَوِيْطَة - بہت گہرا کنواں۔

غ - غ

غَيَّ - غَوَايَة - (ض) گمراہ ہو جانا۔ نا امید

عَيْدُثْ - بارش، بارش، جو دور دور تک برے گھاس جو بارش کے پانی سے اُگے۔ ج:۔ اَعْيَاثْ - عُيُوثْ مص (ص)، بارش برسانا، مینہ برسنا۔ روشن اور منور ہونا۔ زمین کا بارش سے سیراب ہونا۔

سَعَابُ (عَيْدُثْ) بہت بارش والا بادل۔

عَيْدُثْمَةٌ - لٹنا، بھڑنا۔

عَيْدُثْ - نزاکت مص (س) کچ گردن ہونا۔ عَيْدُثْ عَيْدُثْ - جلدی کر (اسم فعل)

عَيْدَاؤْ - نرمی اور نزاکت کے سبب بل کھانے والی۔ مذا:۔ اَعْيَدْ - ج:۔ عَيْدَاؤْ

عَيْدَاؤْ - سرسبز و شاداب۔ سنی و شریف آدمی۔

عَيْدَاؤْ - نرم و نازک۔

عَيْدَانْ - عنفوان شباب۔ نوجوانی۔

عَيْدَاؤْ - بارش کا بہت ہونا۔

عَيْدَاؤْ - گدھا۔ ج:۔ عَيْدَاؤْ

عَيْدَاؤْ - بدی، گفتگو کی زیادتی۔ مص۔ بات کو خلط ملط کر دینا۔

عَيْرْ - سوانہیں (مگر نیز اسم ہے معنی) تبدیل۔

سوا۔ ج:۔ اَعْيَادْ - مص (ص) دیت دینا۔ خون بہا دینا۔ کسی کو مار ڈالنا۔

عَيْرُ الدَّهْمِ - زمانہ کے حوادث

عَيْرْ - عَيْرَةٌ - عَادْ عَيْارِصْ (علیٰ) غیرت کرنا۔ رتک کرنا۔ د، جوشش۔

حمیت۔

عَيْمَانْ - غیرت مند آدمی (م) عَيْوِيْ -

ہونا۔ گمراہ کرنا۔

عِيَابْ - قبر۔ عِيَابُ الشَّجَرِ - عَتِيَابُ الشَّجَرِ - درخت کی زمین میں پھیلی ہوئی جڑیں۔

عِيَابَةٌ - سائبان، جس چیز سے سر پر سایہ ہو جائے۔ قبر، کنوئیں وغیرہ کی تھاہ۔

عِيَاثْ - فریاد رسی، فریاد خواہی۔ عِيَادُ يُونُوقْ - بارش، مینہ (صیغہ جمع بمعنی مغرور)

عِيَاْسْ - (ن) آفتاب کا غروب ہونا (ص) (علیٰ) غیرت ورشک کرنا (مفاعلہ)

معاوضہ اور مبادلہ کے ساتھ۔ خرید و فروخت کرنا۔ مخالفت کرنا۔ غیر ہونا۔

عِيَاصْ - عِيَاصَةٌ - (ن) (فی) غوطہ لگانا۔ (علیٰ) حملہ کرنا۔

عِيَاظْ - محنت و مشقت۔ رنج و غم۔ عِيَاتْ - دراز قد۔ لمبی ڈاڑھی والا۔

عِيَتَالْ - شیر۔

عِيَتَانْ - گمراہ۔

عِيْبْ - گمان، پوشیدگی۔ پوشیدہ چیز۔ ج:۔ عِيَابْ - عِيُوبْ - بکری بھڑکے

اوجھ کی چربی۔

عِيْبْ - عَيْبَةٌ - عِيَابْ - عِيُوبَةٌ - عِيُوبْ عِيُوبَةٌ - (ص) چھپ جانا۔ آفتاب کا غروب ہونا۔

عِيْبَةٌ - پست زمین مص (ص) پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔

عِيْبَةٌ - پس پشت عیب جوئی۔

عِيْبَةٌ - گمراہی۔ زنا۔

دَوْلْدْ - عَيْبَةٌ - زنا سے پیدا ہونے والا۔

ج :- غیارسی ۔

غیرۃ - غلبہ جو کس سے اپنے لیے لایا جائے ۔

ہلاکت ۔ خون بہا ۔ ج :- غیر ۔

غیس - خوش نما اور گھنے بال ۔

غیسان - جوانی ۔ نوجوانی ۔ قسم و صنف ۔

غیسائی - خوبصورت و خوش قامت ۔

غیض - ناتمام بچہ جو حمل سے ساقط ہو جائے

بہت میں سے تھوڑا سا ۔ مص ۔

(ض) پانی کا کم ہو جانا ۔ زمین میں

جذب ہو جانا ۔ (پانی کو) کم کر دینا اور

زمین میں جذب کر دینا ۔ ناقص کر

دینا ۔

غیضۃ - جنگل ۔ نیچی زمین میں پانی کے ٹھہرنے

کی جگہ ۔ درختوں کا جھنڈ ۔ ج :-

غیاض - آغیاض

غیط - باغ مص (ض) (خی) اسی چیز کا

دوسری چیز میں داخل ہونا ۔ چھپ

جانا ۔ گھس جانا ۔

غیطلۃ - شور و غوغا ۔ تاریکی ۔ دنیا کی دولت ۔

گنجان درختوں کا جھنڈ ۔ ج :- غیطل

تھاؤ کے درخت ۔ بہت سے آدمیوں

کا گروہ ۔ دودھ کی گاٹے اور بہنی ۔

ج :- غیاطل ۔ نیند کا غلبہ ۔ مجموع

کھانا پینا ۔ گنجان ہونا ۔

غیظ - غصہ ۔ تیز غصہ مص (ض) کسی کو

غصہ دلانا ۔

غیظ - پرندوں کا جھنڈ ۔

غیفاء - درخت جس کی ٹہنیاں دائیں بائیں

بھکی ہوں ۔

غیفان - (ض) درخت کا لہلہانا ۔

غیفان - غیفان - مگک (چال میں)

غییل - بھرے ہوئے مضبوط بازو ۔ موٹا اور

جسیم لڑکا ۔ کپڑے کا نقش ۔ جو چیز دور

ہو اور نزدیک معلوم ہو ۔ حاملہ کا دودھ ۔

دودھ جو جماع کی ہوئی عورت ۔ بچہ کو

پلائے مص (ض) دودھ پلانے

والی عورت سے جماع کرنا ۔

غییل - گنجان درخت ۔ بن جس میں شیر رسے ۔

پانی والا جنگل ۔ ج :- آغیال ۔ غیول ۔

غیڈۃ - موٹی تازی عورت ۔

غیڈلۃ - ناگمانی ہلاکت ۔ فریبہ دھوکہ کے ساتھ

قتل ۔ جماع کے ساتھ دودھ پلانا ۔ محل

ہوتے ہوئے جماع کرنا (اسم)

غیڈلہ - خوبصورت لڑکی جو شہوت کی حد کو

پہنچ گئی تھی ۔ مینڈک نہ کھچوا ۔ ج :-

غیڈلہ ۔

غیڈم - اردو ۔ غیڈم ۔ ج :- غیڈمہ پیاس

دل اور سینہ وغیرہ کی گرمی ۔ مص

(ض) پیاسا ہونا ۔ جوف کا بھڑکنا ۔

(آسمان کا) بادلوں والا ہونا ۔

غیڈمان - پیاسا جس پر خشکی غالب ہو ۔ (م)

غیڈمآء - ج :- غیڈمآء ۔

غیڈین - پیاسا ۔ ابر حروف ہجاء میں سے

ایک حرف مص ۔ (ض) پیاسا ہونا

جی مثلانا (مجموعاً) [علیٰ قلب ]

مرض سے دل کا پریشانی ہو جانا ۔

بے ہوش ہونا ۔

غیڈنآء - بہت پتوں والا بھرا ہوا درخت ۔

سرسبز درخت - ج :- غین  
 غیوس - براطیغرت مند (مذکر مؤنث) ج :- غیور  
 غیہب - تاریکی - اندھیرا - ج :- غیاب  
 غیہبہ - جنگ کے اندر شور و فریاد کرنا  
 غیہم - تاریکی - اندھیرا - ج :- غیابم

## ف - ا

فؤاد - دل - نفس - روح - ج :- آذینۃ  
 فؤال - بچوں کا ایک کھیل کہ کسی چیز کو مٹی وغیرہ  
 میں پھیلا دیتے ہیں اور اس مٹی کو آپس میں  
 تقسیم کر کے پو پھتے ہیں کہ کس کے حصے  
 میں وہ چیز آئی ہے۔

فشام - گر وہ - ٹولی کبیل جو ہودج میں ڈالا  
 جاتا ہے - ج :- فشم

فشۃ - گردہ - جماعت - ٹولی ج :- فشات  
 فشیح - کھولنے والا - فیصلہ کرنے والا - فتح  
 کرنے والا ج :- فوائیح

فایحۃ - چیز کا اڈل اور شروع - سورۃ الحمد کا  
 نام۔

فایبہ - پانی جس کا جوش ٹھنڈا ہو گیا ہو۔  
 کظرفۃ فایبہ کمزور نگاہ - چشم بیمار۔

فایک - دیہ - اچانک قتل کرنے والا ج :- فکاک  
 فایتین - دیہ - گمراہ کرنے والا - جیسے کسی عورت  
 نے فریفتہ کر لیا ہو۔

فایوس - پانی جس کو جوش دے دیا گیا ہو۔  
 فاییح - جوان حاملہ اونٹنی فریہ اور غیر حاملہ  
 اونٹنی پر طے کو بان کی اونٹنی - ج :-

فاییح - فواییح  
 فایوس - تشت بخوان - سورج کی کیا جاسوس

خوشی - پیالہ - آدمی کا سینہ۔

فاجر - بظفران - زنا کار - جادوگر - ج :-

فاجار - فجرۃ م :- فاجرۃ ج :-

فواجب

فایمیں (نیمیں) فاجرۃ - جھوٹی قسم

فاییح - جنگلی نوا افسانۃ فاجرۃ مصیبت

زده عورت -

فایجۃ - سختی - غم - مصیبت - درد مند کر دینے

والی - ج :- فواجیح -

فاجل - جو جو سے میں غالب آئے - جواری۔

فاجوس - گناہ کا مرکب - زنا کار۔

فاحش - بڑا بخیل - بدی جو حد سے گزر جائے۔

فحش کینے والا - بہت غالب - م :-

فاحشۃ -

فاحشۃ - بدگونی کرنے والی - زنا جس چیز سے

اندھیرا و جلنے منع فرمایا - ہر مڑائی جو حد

سے گزر جائے - ج :- فواحش -

فاحیم - خوب سیاہ - سیاہ بادل - ٹھہرا ہوا

پانی -

فایحۃ - ایک مشہور پرندہ - فاخۃ - ج :-

فواخۃ -

فایحہ - فخر کرنے والا - ہر عمدہ چیز بیش قیمت

بغیر گھٹی کی بھجود۔

فایحوس - ایک قسم کی پھلوا ری - ج :- فایایحہ -

فائد - بھجوبھل میں (روٹی کو) سینکن (گوشت)

بھوننا - دل پر ماتا - بزدل کر دینا -

(جھولنا) دل میں درد ہونا -

فائد - (س) بیماری دل میں مبتلا ہونا -

فائد - دشوار و مشکل -

قَارِصَةٌ - مصیبت - بلا - حادثہ - جہ - قَوَارِصُ

قَارِصًا - پکا ہوا ٹھنڈا گوشت - پہاڑی کرا -

اکیلی ادھنی - جہ - قَارِصًا - قَلْدُوسِ

قَارِصًا - بھاگنے والا - اسم جمع قَارِصًا -

قَارِصًا - جوبہ - جہ - قَارِصًا - قَارِصًا - قَارِصًا -

قَارِصًا - چوہا - چومیا - نافہ مشک - ایک ذرت

خوشبو - جہ - قَارِصًا - قَارِصًا - قَارِصًا -

قَارِصًا - قَارِصًا - خوش و حشرم -

قَارِصًا - اکیلا - ہرنی جو گلے سے الگ ہوگئی ہو -

قَارِصَةٌ - اکیلی چرنے والی ادھنی - جہ -

قَارِصًا -

قَارِصًا (لِسَانُ) قَارِصًا - زبان روشن بیان -

قَارِصًا - گھوڑے کا سوار بہادر جہ - قَارِصًا

قَارِصًا - ایران کے رہنے والے -

قَارِصًا - قَارِصًا - قَارِصًا - قَارِصًا -

قَارِصًا (عَرَب) شَیْر -

قَارِصًا التَّنْظَر - جو آدمی نظر سے اور صرف خرائق

سے پتہ چلائے -

قَارِصًا - ملک فارس کی طرف منسوب - ایران

کا باشندہ - جہ - قَارِصًا -

قَارِصًا - یوڑھا - علم سرائف کا واقف -

قَارِصًا - حمد و مہروں سے پہلے سپہ سچک پانی وغیرہ

کا انتظام کرے - جہ -

قَارِصًا - بلند خوبصورت آدمی چڑھنے والا -

اترنے والا - بادشاہ کا مددگار -

جہ - قَارِصَةٌ

قَارِصَةُ الْجَبَلِ - پہاڑ کا بالائی حصہ قَارِصَةٌ

آنوادی وادی کا سرا - جہ -

قَوَارِصُ -

قَارِصًا - کام سے مسرت پانے والا - تپنے

والا -

قَارِصًا - جو چوپایہ درد زہ کی دجہ سے بھاگے

ارکا ٹکڑا جو یادوں سے جدا ہو گیا ہو

حق و باطل میں امتیاز کرنے والا -

جہ - قَوَارِصُ

قَارِصَاتُ - فرشتے جو حق و باطل میں فیصلہ کرنے

کے لئے نازل ہوں -

قَارِصُوقُ - بہت خوفزدہ آدمی - حق و باطل میں بڑا

امتیاز کرنے والا - حضرت عمر رضی اللہ

عنه -

قَارِصُوقُ (تَرْيَاقُ) قَارِصُوقُ - ایک عمدہ تریاق جو بیماری

اور تندرستی کو الگ الگ کر دیتا

ہے -

قَارِصُوقَةٌ - بہت ڈرنے والا (مذکر مؤنث)

قَارِصًا - شوہر سے بغض رکھنے والی جہ -

قَوَارِصُ -

قَارِصَةٌ - قَارِصًا - (ایک قسم کا چوڑھا) پیر روٹی

پکانے والی جہ - قَوَارِصًا -

قَارِصَةٌ - ہوشیار - عقل مند - تیز رو - خچر یا

گدھا - جہ - قَارِصَةٌ - قَارِصَةٌ - قَارِصَةٌ -

قَارِصَةٌ - لمبے خوبصورت لڑکی - گانے والی

لوندی بہت کھانے والی - جہ -

قَوَارِصُ

قَاذَة - سائبان جو ستونوں پر قائم ہو۔  
 قَاذِرَاد - سیاہ رنگ کی سرخی مائل چوٹی بلیا  
 چوڑا راستہ (مڑک) م۔ قَاذِرَاة -  
 قَارِغ - ڈرنے والا۔ مدد چاہنے والا۔  
 ج۔ قَزَعَة  
 قَاؤُس - کھٹاری (مؤنٹ) ج۔ آقوُس  
 قُوُس مَعْلَاَت (پھرنا۔ تیر سے  
 مارنا۔ کسی کے سر کے پیچھے ابھار پر  
 مارنا۔ کھانا کھانا۔  
 قَاؤُس السَّرَاس - سر کے پیچھے کا ابھار۔  
 قَاؤُسٌ قَصِيْمٌ - بڑی اور بھاری کھٹاری  
 قَاوِسِيَج - تیز رفتار و جوان اونٹنی۔ جوان و  
 حاملہ اونٹنی۔ قرب وغیرہ۔ حاملہ اونٹنی  
 ج۔ قُوَاوِسِيَج -  
 قَاوِسِد - تباہ و برباد۔ خراب۔ ج۔  
 قَسَدَى  
 قَاوِسِق - بدکار۔ زنا کار۔ ج۔ قَسَاق  
 م۔ قَاوِسِقَة ج۔ قُوَاوِسِق -  
 قَاوِسِقِيَّة - بگڑی یا بڑھنے کا ایک خاص طریقہ۔  
 قَاوِسِيَاء - قَاوِسِيَّة - گبر بلیا۔  
 قَاوِسِيَخ - کسی پر کوڑا اٹھانے والا۔ م۔  
 قَاوِسِيَخَة -  
 قَاوِسُوْس - کمزور رائے اور ضعیف ارادہ والا  
 قَاوِسِي - منتشر مشہور ظاہر۔ م۔ قَاوِسِيَّة  
 ج۔ قُوَاوِسِي -  
 قَاوِصِل - جدا کرنے والا (حکْمٌ قَاوِصِل)  
 اہل حکم۔  
 قَاوِصِلَة - کوڑی جو ہار میں دو موٹیوں کے  
 درمیان پروٹی جائے۔ قرآن مجید

کی پوری آیت۔ ج۔ قُوَاوِصِل  
 قَاوِصِلَة - سختی۔ مصیبت۔ ج۔ قُوَاوِصِل  
 قَاوِصِلِح - رسوا کرنے والا۔ صبح۔ بہور۔  
 قَاوِصِل - فضل والا۔ فضیلت والا۔ ج۔  
 قَاوِصِلَة ع - قَاوِصِلَة ج۔ قُوَاوِصِل  
 قَاوِصِلَة - فضیلت و احسان کا بلند درجہ ج۔  
 قُوَاوِصِل -  
 قَاوِصِي - چوڑا اتالی۔ ظاہر  
 قَاوِطِر - بد کرنے والا۔ پھاڑنے والا۔ وہ  
 شخص جس کے عقل داڑھ نکل آئے  
 قَاوِطِس - مرنے والا۔ ہلاک ہونے والا۔  
 قَاوِطِم - دودھ سے پھر لایا ہوا بچہ۔  
 (نَاوِطَة) قَاوِطِم - اونٹنی جس کا بچہ سال بھر کا  
 ہو جائے۔ اور اس سے جدا کر لیا  
 جائے۔ وہ اونٹنی جس کا بچہ دودھ  
 پھر لانے کے وقت کو پہنچ جائے۔  
 ج۔ قُوَاوِطِم -  
 قَاوِطِمَة - دودھ سے پھر لائی ہوئی بچی۔ ج۔  
 قُوَاوِطِم -  
 قَاوِطِق - ذہن و عقل مند۔ ہوشیار۔ ج۔  
 قُطُن  
 قَاوِئِل - کرنے والا ج۔ قَاوِئِلَة م۔ قَاوِئِلَة  
 ج۔ قُوَاوِئِل  
 قَاوِوِس - سانپ۔ ذکر کا سر مصیبت پہناری  
 بکری۔  
 قَاوِغِي - غضب ناک جس کے منہ سے جھاگ  
 نکل رہے ہوں۔  
 قَاوِغِيَّة - چغل خور عورت۔ مندی کے پھول  
 ج۔ قُوَاوِغِي -



قَائِعِر - ایک چھوٹے سے جانور کا نام۔  
 قَائِعْرَة - نیلوفر کی جڑ۔ جہ: قَوَائِعِر  
 قَائِعِيَّة - ہندی کا پھول۔ ہندی کی شاخ  
 جس کو اٹا لگایا جاتا ہے اور  
 اس سے بہت زین پھول حاصل  
 ہوتے ہیں۔  
 قَائِق - کھانے سے بھرا ہوا پیالہ بہوار جنگل۔  
 قَائِقَاء - ذرا سی پتلی سی کھال جو بچے کے سر یا  
 ناک سے ولادت کے وقت علیحدہ  
 ہوتی ہے۔  
 قَائِقَة - متواجی۔ منسربہی۔  
 قَائِقِد - عورت جس کا خاندان یا بیٹا مر گیا ہو  
 گائے جس کے بچے کو درندے نے کھا  
 لیا ہو۔ جہ: قَوَائِقِد  
 قَائِقِة - مصیبت و سختی۔ جہ: قَوَائِقِہ  
 قَائِقِم - نہایت زرد۔ ہر رنگ جو خالص ہو  
 اور اس میں دوسرے رنگ کی ملاوٹ  
 نہ ہو۔ گہرا رنگ۔  
 قَائِقِة - سختی۔ جہ: قَوَائِقِم  
 بڑی عمر کا نہایت احمق۔ جہ:۔  
 قَائِقِة - ذکاوت۔  
 قَائِك - میوہ رکھنے والا۔ خوش مزاج آدمی۔  
 قَائِكھَانِي - میوہ فروش۔  
 قَائِكھَانِيہ - ہر ایک میوہ تعجب میں ڈالتے والا۔  
 کھجور کا درخت ایک قسم کا حلوہ۔ جہ  
 قَوَائِكھَانِيہ خوش مزاج دوستوں  
 سے ہنس کر بات کہنے والا۔  
 قَائِ التَّرَامِي - کم عقل۔ ناقص الرائے۔  
 قَائِل - شگون (نیک و بد دونوں میں استعمال

ہوتا ہے۔ جہ:۔ قَوْل - اقْوَال  
 قَائِح - موٹا اونٹ دو کوٹن والا۔ ایک مشہور  
 بیماری تیر بہت رسیدہ۔  
 قَائِعَة - مصیبت سختی۔  
 قَائِلِق - پہاڑ کا شکاف۔ دو بندوں کے بیچ  
 میں پست زمین۔  
 قَائِلِقُ الْحَبْت - دانوں کا پھیر کرنے والا۔ یا ان  
 کو چیر کر پستے باہر نکالنے والا خداوند  
 قدوس)۔  
 قَائِلِك - گول پستانوں والی لڑکی۔ جہ:۔  
 قَوَائِك -  
 قَائِلُوذ - فولاد (ایک حلوہ جو آٹے اور دودھ  
 اور شہد کا بناتے ہیں)۔  
 قَائِد - (فت) ترگھاس سے اونٹ کا منہ پھیرنا  
 [مِنْ أَلْمَاءٍ سِرَابٍ بَرْمَانَا۔  
 قَائِمِي - لہسن نیچنے والا۔  
 قَائِلِق - نازک آدمی۔ آرام و آسائش  
 کے ساتھ رہنے والا۔  
 قَائِلِيس - سخن چین۔ جینل خور۔ مشعل جو  
 ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی  
 جاسکے۔  
 قَائِلِيسُ السَّمْح - کا پتھ کا وہ خول جس میں موم  
 بٹی رہتی ہے۔ جہ:۔  
 قَوَائِلِيس -  
 قَائِي - بڑی عمر کا بڑھا۔ فنا ہونے والا۔  
 جہ:۔ قَائِيَة  
 قَائِيْنِد - (پانینڈ کا معرب) قد سفید۔ شکر  
 مصری۔  
 قَائِيِد - دوپہاڑوں کے درمیان راستہ

دوستگ لاج زمینوں کے بیچ میں نرم  
زمین - رات - آفتاب کے غروب  
ہونے کی جگہ - گڑھیلی زمین - مہی  
(ن) مارنا - چیرنا - تلوار سے سرچیرنا  
خامی (ض) مارنا - چیرنا - تلوار  
سے سرچیرنا -

فَيْسِد - آگ - بزدل آدمی  
قَاوَاتِيَا - عود صلیب -

قَاوِي - سر ذکر -

قَاهِقَّة - زخم جس میں سے خون جاری ہو - تیر کا  
زخم - جہ - قَوَاهِق -

قَائِحَّة - دوزمینوں کے درمیان کی دوست -  
ریت کا تودہ - گردہ - جہ -

قَوَائِح

قَائِدَا - علم اور مال وغیرہ میں سے جو چیز لی  
یادی جائے - جہ - قَوَائِد

قَائِر - کینہ - غضب - جہ - قَوَائِس -  
قَائِيز - کامیاب و بامراد -

قَائِحَّة - خوشبو مست کر دینے والی جہ -  
قَوَائِح -

قَائِق - ہر چیز میں سے عمدہ اور بہتر چھتہ -  
سر کا گردن کے ساتھ جوڑے -

قَائِلُ الرَّاي - کمزور عقل کا آدمی -

## ف - ت

فَت - متفرق منتشر - پرانہ مہل کوٹنا  
ریزہ ریزہ کرنا - پتھر کو توڑنا -

کمزور کر دینا -

(مَا) فَتِي - ہمیشہ رہا (جیسے مَا فَتِي يَذْكُرُ)

یعنی ہمیشہ اُسے یاد کرتا رہا -  
فَتَا - (ت) توڑنا - بھجانا [عن] ساکن کر  
دینا (س) [عن] بھول جانا - باز  
رہنا -

فَتَاو - جواں مردی - کرم - سخاوت -

فَتَات - ریزہ - ٹکڑا

فَتَا ح - حاکم - دو ٹھکانے والوں میں فیصلہ  
کرنے والا - ایک پرندہ - جہ -

فِتَا حَة - دشمنوں کے درمیان  
فیصلہ -

فِتَا حَات - ٹھکانے - خصوصیتیں -

فِتَا حَة - فتح - مدد -

فِتَا سَا - سستی کی ابتدا -

فِتَا قِيت - پوشیدہ باتیں -

فِتَا ق - سورج کی شعاع - سورج کی وجہ  
سے ابر کا کھل جانا (اسم) معجون  
مرکب -

فِتَال - بہت بیٹنے والا - بلبل

فِتَان - چمڑے کا غلاف جیسے پالان پر کسا  
جاتا ہے -

فِتَان - سنار چور - جن بہت فتنہ میں  
ڈالنے والا - مہ - فِتَانَة

فِتَانَان - روپیہ اور اداشرقی - درہم و دینار  
قبر کے دو فرشتوں کے نام جنکو  
بمکیر -

فِتَانَة - کسوٹی کا پتھر -

فِتَا م - پانی کا گھڑا - جہ - فِتَاوُن -

فِتَا مَة - کھجور کا گھڑا - چھٹھڑا وغیرہ جس سے  
آگ سُلا گئیں -

فَتْزَصَة - کاٹنا - قطع کرنا۔  
 فَتْسُش - (حق) کھودنا - کاوش کرنا۔  
 فَتْسُغ - (حق) کسی چیز کو روندنا۔ یہاں تک کہ وہ ٹوٹ جائے۔  
 فَتْسَقَتَه - راز کہنا۔ پوشیدہ بات کہنا  
 فَتْسَق - تڑکا۔ قراخ زمین۔ فتوں کی ایک بیماری مص (حق) چیرنا۔ نافہ مشک کو کھولنا۔ مشک کی خوشبو کسی چیز میں پہنچانا۔ جماعت کے خلاف کرنا۔ اور اس سے الگ ہو جانا۔  
 فَتْسَق - صبح ہونے کی پہلی روشنی۔ سراج وار (انی مص) عورت کی فرج کا فراخ ہونا۔  
 فَتْسَق - چرب زبان اور روشن بیان عورت۔  
 فَتْسَاء - عورت جس کی مندرج فراخ اور بڑی ہو۔  
 فَتْسَك (مثلث) فَتْسُوك (حق) (ن) بیباک ہو جانا۔ نفس کی خواہش پر چلنا۔ اچانک قتل کر دینا۔ دلیری کرنا  
 فَتْسَل - اونٹ کے پہلو اور کہنی کے درمیان کا بقعہ۔  
 فَتْسَل - بیل کی آواز گھاس جس کے پتے اس میں پھنسے ہوئے ہوں مص (حق) بیٹا [عن] روگردانی کرنا۔ کسی کو کسی سے برگشتہ کر دینا۔ فریب کے لئے کسی کے پیچھے پیچھے پھرتا۔  
 فَتْسَلَة - ایک مرتبہ بیٹا۔ کلائی کے پٹھے کی

فَتْح پانی چشمہ وغیرہ سے نکلا ہوا موسم بہار کی پہلی بارش۔ جھکڑے کا فیصلہ ج۔: فَتْسُوح مص (حق) کھولنا [بین] فیصلہ کرنا۔ یُوْهُرُ الْفَتْحِ قیامت کا دن۔  
 فَتْحُ فتراخ اور کشادہ دروازہ۔ بڑے مت کی شیشی کھلی ہوئی شیشی۔  
 فَتْحَة - ایک مرتبہ کھولنا۔ فتح کی علامات یعنی ذریعہ۔  
 فَتْحَة - علم دہیز وغیرہ میں پوری طرح سے دسترس ہونے پر ناز اور طبیعت کی امانت۔  
 فَتْحِي - ہوا۔  
 فَتْح - جانور کے گلے میں لٹکانے کا چھوٹا گھنٹہ جس میں آواز نہ ہو مص (س) بدن کے جوڑوں کا سست ہونا۔ بدن کا ڈھیلا ہونا۔  
 فَتْح - (ف) [الاصح] انگلیوں کا موڑنا۔ نرم کرنا۔  
 فَتْحَة - بغیر کلینڈ کی انگریزی بھلا۔ ج۔: فَتْح - فَتْسُوح۔  
 فَتْحَة - بازو اور کلائی کا اندرونی حصہ۔  
 فَتْح - انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کا درمیان۔  
 فَتْح - ضعف۔ کمزوری۔ خرابی۔ فتور۔  
 فَتْح - کھجور کے پتوں کی چٹائی۔ جس پر اٹا پھائیں۔  
 فَتْحَة - دو پیغمبروں کے درمیان کا خالی زمانہ سستی۔

فَسْوَاةٌ - فُسُوَةٌ مُفْتَى (م) فَتَاةٌ  
ج۱ - فِتْيَاتٌ مص (س) جوان ہونا۔  
جوان مرد ہونا۔

فَسْتَى - ہر جوان چیرہ - ج۱ - فِتَاءٌ - اَفْتَاءٌ  
فُتَيْبَا - عالم اور مفتی کا حکم - فُسْتَوَى -

فِتْيَانَةٌ - جوان عورت - ج۱ - فِتْيَاتٌ -  
فِتْيَانٌ - رات اور دن -

فِتْيَانَةٌ - گناہ - عذاب - سال - اولاد - آزمائش  
عظمت - تعجب - گراہی - ناشکری - رسوائی  
دیوانگی - غلاف مص (ن) گناہ کرنا۔

فِتْيَانَةٌ - توڑی ہوئی چیرہ کا ٹکڑا - ج۱ -  
فِتْيَانَةٌ -

فِتْيَانَةٌ - صبح روشن - اونٹ جو مٹاپے کے سبب  
پھٹا پڑے -

فِتْيَانَةُ اللِّسَانِ - تیز زبان -

فِتْيَانَةٌ - ٹیٹا ہوا کھجور کی سستی اور ڈوری -  
کھجور کی گٹھلی کا ڈورا - میل کی تیلیاں

فِتْيَانَةٌ - بٹی - ختیلہ - ج۱ - فِتْيَانَةٌ

فِتْيَانَةٌ - کالی اور چھلی ہوئی پتھر سی زمین - ج۱ -  
فَسْنٌ (وَرَقٌ) فِتْيَانٌ - جلی ہوئی  
چاندی -

## ف - ث

فَسْوَاءٌ - فُسُوَةٌ (ف) پانی پھینکا دے کر

(ہانڈی کا جوش) ٹھنڈا کرنا - مقابل  
کو گفتگو میں ہرا دینا - گرم کر کے

کسی چیز کی سردی دور کر دینا - کسی  
سے ایک چیز کو روک رکھنا کسی کے غصہ

کو ٹھنڈا کر دینا

فَسْفِيْدٌ - فِتْيَانٌ - تو بر تو سفید بلیاں - کپڑے

سختی -

فَسْنٌ - حال - رنگ -  
فَسْنٌ - فُسُوَةٌ - (ص) آزمانا کسی کو تعجب میں

ڈالنا - فتنہ میں ڈالنا - فتنہ میں پڑ  
جانا - فتح مندی زانی عورت سے

زنما کی خواہش کرنا - آگ میں جلانا -  
صبح و شام -

فَسْتَانٌ - گناہ - عذاب - سال - اولاد - آزمائش  
عظمت - تعجب - گراہی - ناشکری - رسوائی

دیوانگی - غلاف مص (ن) گناہ کرنا۔  
گردیدہ نہ ہونا - امتحان کے لئے سونے

چاندی کو آگ میں ڈالنا اور گلانا -  
اختلاف کرنا - گراہ کرنا -

فَسْتَوٌ - (ن) مردانگی میں غالب آنا -  
فَسْتَوَةٌ - کوٹنا ہوا - ریزہ ریزہ کیا ہوا -

فَسْتَوَةٌ - جوان مردی - مردانگی -  
فَسْتَوٌ - موسم بہار کی پہلی بارش - ج۱ - فُسُوَةٌ

فَسْتَوَاتٌ - وہ مقامات جو جنگ میں فتح کئے جائیں  
فَسْتَوُسٌ - فِتْسَا (ص) جوش ٹھنڈا ہوا

جانا - سختی کے بعد نرم ہو جانا -  
(پانی کا) ٹھہر جانا اور اس کا جوش و

خسروش ذب جانا -  
فَسْتَوِقٌ - تھوڑی سی بارش - آفات - قرص

مقلی اور بیماری وغیرہ -  
فَسْوَكٌ - (ن) ص (ض) آری کسی چیز میں ماہر ہونا

فَسْوَى - فُسُوَى - عالم و مفتی کا حکم مذہبی حکم -  
ج۱ - فِتْسَا وَى -

جوان - جوان مرد - نیک خصلت -  
فَسْتَوَانٌ (فَسْتَوَانٌ) فِتْيَانٌ - ج۱ - فِتْيَانٌ

فجاس - زنا کاری و خجور کا اسم ہے، زنا کار

عورت (فجاسہ سے معدول)

فجاسہ - شکاف - پھٹن۔

فجاس - وہ لوگ جن کے پاس اٹھنا بیٹھنا اچھا

نہ سمجھا جائے (اسم جمع)

فجاس - اخیر رات کی سپیدی صبح کی روشنی

فجاس - فجوس فجاسہ تین گنہ پر آمادہ ہونا۔

زنا کرتا جاری کرتا (عن) حق سے منہ

پھیرتا (عن) (بیماری سے) صحت یاب

ہوتا۔

فجاس - بخشش - جو انروہی - مرد انگی احسان

مال - مال کی کثرت

فجاسہ - جھوٹ (علمیت اور تائیسٹ کی وجہ

سے غیر منصرف ہے) بدکار لوگ (موقوف)

واہ - فاجس -

فجورۃ الوادی - پہاڑی میدان کا راستہ

جس کی طرف پانی بہہ کر جائے۔

فجورۃ - پانی رسنے کی جگہ۔

فجور - (ن) بڑائی جتلانا - پھولنا - غرور کرنا

فجوس - (ن) بڑائی جتلانا - غالب ہونا کسی

خواب کام کی ایجاد کرنا۔

فجوش - (ن) استورٹن کسی چیز کو فراخ کر دینا

فجوح - (ف) کسی کو تکلیف پہنچانا - مصیبت

زدہ کرتا (مجبوراً) کسی قابل قدر اور

بے بہا چیز کے جاتے رہنے سے

سبب بول ہوتا۔

فجوج - فجوجہ - کچھ بہت بولنے والا آدمی - نجو

اپنے آپ کو اپنی حیثیت سے زیادہ

نمایاں کرے۔

کے استر۔

فجاس - (ن) منتشر اور پر اگندہ کر دینا۔

فجاس - (ف) کم ہونا - بھاری کرنا۔

فجاس - (ف) توڑنا۔

## ف - ج

فج - دو پہاڑوں کے بیچ میں کشادہ راستہ

راستہ ج - (ف) فجاس (معرن) (کمان

کے چوڑے) بلند کرنا۔

فج - کچا میوہ - تر بوز۔

فجاس - دونوں ٹانگوں کے درمیان کا بچہ۔

(س) اذہنی کا بڑے پیٹ والی

ہونا۔

فجاس - (ف) جماع کرنا - اچانک آجانا - یکا

یک پکڑ لینا۔

فجاس - کسی کو اچانک پکڑ لینا - یکا یک آجانا

فجاس - کمان جس کا چوڑے قبضہ سے دور اور جدا

ہو۔

فجاس - (س) اذہنی کا بڑے پیٹ والی ہونا۔

فجاس - (س) (ف) اچانک پکڑ لینا

یکا یک آجانا۔

فجاس - اچانک - یکا یک

فجاس - فراخ راستہ - دو پہاڑوں کے درمیان

فجاس - کچا میوہ۔

فجاس - بدکار لوگ - واہ - فاجس

فجاس - راستے۔

فجاس - (ف) عرب کی مشہور رطابیاں جن میں

آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی

شریک ہوئے تھے۔

اِتس املنا کہ اس کے کانٹے دور ہو جائیں۔

فَحْش - (لٹ) بدی کا حد سے گزر جانا۔ جواب میں حد سے گزر جانا۔ خوب بخیل ہونا۔ فَحْشَاء - ادا سے زکوٰۃ میں بخیل۔ زنا۔ بدکاری بے حیائی۔

فَحْص - (ف) (مارش کا مٹی کی) ایلٹ دینا۔ دوڑنا۔ جلدی کرنا (عن) تلاش کرنا۔

فَحْض - (ف) (گھڑی وغیرہ) کوئی تحریر توڑنا۔ فَحْضًا - وہ شخص جس کی آواز میں کوئی رکاوٹ ہو۔

فَحْفَحَة - سچی دوستی کرنا۔ گلابیٹھ جانا۔ نیند میں خراٹے لینا۔

فَحْل - نرم قسم کے چوپایہ کا۔ ج: فَحُول - فحولة - فحل - فحال - فحالة - تر کھجور کھجور کا محافظ۔ بہت دانش مند۔ کھجور کی چٹائی ج: فَحُول مص (ف) (اوشنیل) میں (س) پھوٹ دینا۔ اپنی اوشنیلوں کے لئے اسیل اور عمدہ اوشنیل انتخاب کرنا۔

فَحْلَة - زبان دراز عورت۔

فَحْلَة - فحالة - فحولة - (ن) جفتی کرنا۔

فَحْم - کوئلہ۔ وہ: فَحْمَة -

فَحْم - فحام - فحوم - (ن) (س) اتارنا تاکہ تھک کر خاموش ہو جائے۔

فَحْم - آواز نکالنے والا بکرا۔

فَحْمَة اَللَّيْل - آدل شب اور اس کی تاریکی موم گرام کی شام۔ ہتایت تاریک رات

فَجَل - (ن) نرم اور ڈھیللا اور موٹا ہوتا۔

فَجَل - مولیٰ۔ وہ: فَجَلَة -

فَجْو - (ن) کھونکا (کان کا پتہ) کھینپنا۔

فَجْوَاء - فراخ و کشادہ زمین۔ بہت بھی ہوئی

کمان جس کا پتہ اس سے دور ہو۔

فَجْوَة - دو پہاڑوں کے درمیان کا شگاف۔

فراخ وسیع زمین۔ گھر کا صحن۔ ج:۔

فَجْوَات - فِجَاء -

فَجْوَس - مرکب گناہ۔ زنا کار۔ ج:۔ فَجْم -

فَجْوَس - (ن) جھوٹ بولنا۔ تا فرمانی کرنا مخالفت

انتیاء کرنا۔ تیا ہی پھیلاتا بھک جانا۔

کام خراب ہو جانا۔ بینائی کم۔ در ہو

جانا۔

مَوْت (فَجْوَع - موت اور ہلاکت جو اپنی

شدت کی وجہ سے لوگوں کو مصیبت

زدہ کر دے۔

فَجِيعَة - سختی۔ غم۔ ج:۔ فَجَائِع

## ف - ح

فَح - سانپ کی پھنکا رمص (ن) سانپ

کا پھنکا ر مارنا۔ نیند میں خراٹے لینا۔

فَحَا - ہانڈی کا مصالحہ۔ ج:۔ آفْحَاء

بے حیائی کی باتیں کہنے والا۔

فَحَال - کھجور کا زرد رخت ج:۔ فَحَائِل -

وَحَة - مریح کی سوزش اور گرمی۔

فَحْج - (ف) بزرگ منشی کرنا۔ بکتر کرنا۔

فَحْت - (ف) کسی چیز کی تفتیس کرنا کھڑ

کریں کرنا۔

فَحْس - (ف) چلو سے پانی پینا۔ جو کو ہاتھ

فَحْدَانٌ - ران (مؤنث) جھوٹا قبیلہ اور کنسبہ  
(مذکر ہے)۔ آفَحَادٌ مص (صاف)  
ران پر رانا۔ ران توڑ ڈالنا (جھوٹاً)  
ران پر چوڑٹ کھانا  
فَحْدَانٌ - ران (مؤنث ہے) قبیلہ اور کنسبہ  
(مذکر ہے)۔ آفَحَادٌ  
فَحْدَاءٌ - عورت جو مرد کو رانوں میں لے کر بھیج  
لے۔

فَحْدَانٌ - (ن) بڑا اٹی جتانے میں دوسرے پر  
غالب آتا۔  
فَحْدَانٌ - فَحْدَانٌ (ن) ناز کرنا۔ اچھی نخصلت  
پر ناز کرنا کسی کو دوسرے پر بڑا اٹی  
ماننے میں نخصلت دینا۔

فَحْدَانٌ - (س) تنگ دغا رکھنا۔  
فَحْدَانٌ - فَحْدَانٌ - ناز - غرور۔  
فَحْدَانٌ (ن) تکبر کرنا۔ بڑا اٹی جلتا (ن) غالب  
ہونا۔

فَحْدَانٌ - (ف) کسی کو حقیر کر دینا اور بے یار و  
مددگار چھوڑ دینا

فَحْدَانٌ - باطل اور بیہودہ چیز پر فخر کرنا۔

فَحْدَانٌ - بڑے مرتبہ والا۔ فصیح اور پختہ بات

فَحْدَانٌ - بڑا اٹی۔ بلندی۔ تکبر۔  
فَحْدَانٌ - بہت اترانے والا۔ چھوڑ کر بڑا درخت  
مرٹے ذکر کا گھوڑا۔

فَحْدَانٌ (الافعی)۔ سانپ کی پھنکار۔  
فَحْدَانٌ - فَحْدَانٌ - بہت ناز کرنے والا۔ اترنے  
والا۔

فَحْدَانٌ - بڑا بزرگ۔ فریب۔ ج۔۔۔ فَحْدَانٌ  
فَحْدَانٌ - بڑگی و بلندی۔

ج۔۔۔ فَحْدَانٌ - فَحْدَانٌ

فَحْمَةُ السَّخْرِ - صبح کا دھند لکا۔  
فَحْوَاءٌ - ہندی کا مصالحہ۔ معنی۔

فَحْوَةٌ - خالص شہد  
فَحْوَمٌ - (لث) کالا ہونا۔

فَحْوَمَةٌ - سیاہ رنگ مص (س) سیاہ ہونا۔  
فَحْوَمٌ (الافعی)۔ سانپ کی پھنکار۔

فَحْوَيْصٌ - کسی چیز کی تفتیش کرنے والا۔  
فَحْوَيْلٌ - بہت دانش مند آدمی اصل بہت  
جماع کرنے والا۔

فَحْوَيْمٌ - نہایت سیاہ۔ کونکہ۔

## ف - خ

فَخْرٌ - شکاری کا جال۔ ج۔۔۔ فَخْرٌ - فَخْرٌ  
مص (ص) دونوں پاؤں کا ڈھیلا ہوا  
جانا اور لنگ جانا۔ خراٹے لینا۔

مکنا۔  
فَخْرٌ (ص) خراٹے لینا۔ بڑا پھیلنا۔۔۔  
فَخْرٌ - مٹی کا گھڑا۔ ٹھیکرا۔ واہ۔ فَخْرَةٌ  
بہت بڑا اٹی جتانے والا۔

فَخْرَةٌ - (لث) موٹا اور جسیم ہونا۔ بڑھنا۔  
فَخْرٌ - (ف) کاٹنا۔ کھول دینا۔ فاختہ کا  
بولنا (ب) تلوار و نیزہ سے مارنا اور  
کاٹ دینا۔

فَخْرَةٌ - پیروں کی کمزوری اور ڈھیلا پن۔ بیند  
جو جماع کے بعد آئے۔ صبح کے وقت  
کی بیند۔ نرم کمان۔ موٹی تازی عورت  
میلی پھیلی عورت۔

فَخْرٌ - (ف) بڑا اٹی جلتا نا۔

## ف - د

قَدَّاء - ایک چیز کا حجم اور جسامت . نعل کا ڈھیر  
جہ :- اَخْدِیَّة -

قَدَّاء - پنچھاور . نثار مہن (مفاعلہ) فدییہ  
دینا کسی کو۔

قَدَّاء - قَدَّای - قَدَّای (ض) فدییہ  
دے کر چھوٹ جانا (بالنفس) [

اپنے آپ کو فدییہ میں دے دینا۔  
قَدَّاد - بلند آواز والا سخت آواز آدمی۔

پامال کرنے والا اونٹوں کا گلے کا مالک  
نیا نیت منکر آدمی۔ جہ :-

قَدَّادُون -

قَدَّادُون - شتر بان لوگ۔ چرواہے۔ کسان  
لوگ۔ جو لوگ اپنے اونٹوں وغیرہ

میں رہیں اور ان کو مانگتے اور شور  
مچاتے پھریں۔ وہ :- قَدَّاد

قَدَّاء - چھاگل وغیرہ کا ڈھکنا۔ مخوسوں  
کا وہ رومال جس کو منہ لگا کر پانی پیتے

ہیں۔ جہ :- قَدَّاه

قَدَّام - قَدَّاه۔ گڑھی۔ بیلوں کے منہ پر  
باجھنے کی جال۔

قَدَّامَة - قَدَّامَة (ث) تو تھما ہوا جانا۔  
گفت گو نہ کر سکتا۔ بے وقوف اور

بد اطوار ہونا۔  
قَدَّان - بیلوں کی جوڑی۔ کھیت۔ جہ :-

قَدَّادِیْن -

قَدَّاح - (ث) کسی کو گراں بار کر دینا۔  
قَدَّخ - (ث) پتھر سے نرم چیز کا سر توڑنا۔

قَدَّاس - بڑی عمر کا پہاڑی بکرہ جہ :- قَدَّاس  
قَدَّاس - چاندی۔ فربہ لڑکا۔

قَدَّاد - احمق جلد ٹوٹ جانے والی لکڑی۔  
قَدَّاد - قَدَّاس - (ن) کچے ہوئے گوشت

کا سرد ہونا (حقیقی کے بعد ساند کا)  
جوش ٹھنڈا ہونا اور اس کا رک

جانا۔

قَدَّاسَة - پختہ گوشت کا ٹھنڈا لکڑا۔ رات کا ایک  
حصہ۔ پہاڑ کا ایک گوشہ۔

قَدَّاسَة - اکیلا اور تنہا جانے والا۔

قَدَّاس - لکڑی۔ جہ :- قَدَّاسَة

قَدَّاش - (ن) توڑنا (ض) اٹھیلنا۔ دلیع کرنا  
قَدَّاش - نادان۔ نا تجربہ کار۔

قَدَّاع - (س) کسی کے اٹھ یا پاؤں کے پینچے  
کا ٹیڑھا ہونا۔

قَدَّاعاء - عورت جس کے اٹھ یا پاؤں کا پینچا  
ٹیڑھا ہو۔ اَقْدَاع - قَدَّاع -

قَدَّاع - (ث) توڑنا۔ گھی کو کھانے کے ادھر  
رکھنا۔

قَدَّاعِم - بڑے ڈیل ڈول کا خوبصورت آدمی۔  
خوبصورت اور بھرا ہوا چہرہ۔

قَدَّاعَة - (م) چوکھٹا چہرہ والا ہونا۔

قَدَّاقْد - سہوار زمین۔ جہ :- قَدَّاقْد

قَدَّاقْد - بلند اور سخت آواز والا۔  
قَدَّاقْدَة - دشمن سے بھاگ کر دوڑنا آواز بلند کرنا

قَدَّاک - خیر میں ایک مقام کا نام

قَدَّام - تو تھما۔ سست۔ کم فہم۔ احمق۔

بدنحو۔ م قَدَّامَة جہ :-  
قَدَّام -



قَدَم - (ض) جانور کے منہ پر چپکا (دہان بند) باندھنا۔

قَدَان - استرکاری کیا ہوا محل جہ :- اَقْدَان  
قَدُوم - پہاڑی بکرا جہ :- قَدُومس -  
قَدَاوْکس - شیر مضبوط سخت آدمی -  
قَدَاوْم - مجوسیوں کا رومال جسے منہ پر باندھتے ہیں -

قَدِی - قذیہ - جان کی رہائی کا بدلہ بچھاور  
قَدِیَّة - وہ مال جس کو دسے کر رہائی حاصل کی جائے۔

قَدَائِيَّةُ الْقَطْرِ - گہوں کا تقریباً پونے دو سیر اور موٹا تاج اس سے ڈنگن جس کو عید القطر کے دن فتراہ و مساکین پر تقسیم کیا جاتا ہے۔

قَدِيد - آواز سخت آوار مص (ض) آواز کرنا - چلانا - دوڑنا

ف - ذ

قَدَا - اکیلا جہ :- اَقْدَاد - قَدَاوْد مص (ض) زور سے ہٹانا - دُور کرنا۔

قَدَاد - قَدَاوْخ - قَدَاذی - قَدَاذی الگ الگ - ایک ایک

قَدَا قَدَا - فریب سے کودنے کے لئے سمننا  
قَدَا لکے - حساب کا جوڑ خلاصہ مص حساب کو مکمل کر دینا حساب کا خلاصہ نکالنا۔

ف - س

قَدَر - بھاگنے والا (مذکر مؤنث) - واحد تشفیہ (جمع) -

قَدَر - قَدَر (ض) بھاگان عمر معلوم کرنے کے لئے جانور کے دانت دیکھنا

قَدَرِی - قوم میں برگزیدہ اور بہترین آدمی -  
قَدَرِیَّة (ض) خوش نما عورت  
قَدَرَاء - گورخر - جوان گورخر - گورخر کا بچہ -  
جہ :- اَقْرَاء - قَدَرَاء -  
(کل الصید فی حیوف) القَدَرَاء - سب شکار گورخر کے شکار سے کم ہیں۔

قَدَرَات - نفیس و شیریں پانی (واحد و جمع) عراق کی ایک نهر۔

قَدَرَاتَان - نردجل و نمرسات -  
قَدَرَات - فضلہ جو بگرا اور ادھیں ہو۔

قَدَرَاد - موتی بیچنے والا  
قَدَرَادِیس - جوڑی چمکی ہڈیوں والا۔  
قَدَرَادِی - قَدَرَادِی قَدَرِی - قَدَرَادِی - قَدَرَادِی

قَدَرَادِی - قَدَرَادِی - قَدَرَادِی - قَدَرَادِی  
قَدَرَادِی - قَدَرَادِی - قَدَرَادِی - قَدَرَادِی  
قَدَرَادِی - قَدَرَادِی - قَدَرَادِی - قَدَرَادِی  
قَدَرَادِی - قَدَرَادِی - قَدَرَادِی - قَدَرَادِی  
قَدَرَادِی - قَدَرَادِی - قَدَرَادِی - قَدَرَادِی

قَدَرَادِی - قَدَرَادِی - قَدَرَادِی - قَدَرَادِی  
قَدَرَادِی - قَدَرَادِی - قَدَرَادِی - قَدَرَادِی  
قَدَرَادِی - قَدَرَادِی - قَدَرَادِی - قَدَرَادِی  
قَدَرَادِی - قَدَرَادِی - قَدَرَادِی - قَدَرَادِی

قَدَرَادِی - قَدَرَادِی - قَدَرَادِی - قَدَرَادِی  
قَدَرَادِی - قَدَرَادِی - قَدَرَادِی - قَدَرَادِی  
قَدَرَادِی - قَدَرَادِی - قَدَرَادِی - قَدَرَادِی  
قَدَرَادِی - قَدَرَادِی - قَدَرَادِی - قَدَرَادِی  
قَدَرَادِی - قَدَرَادِی - قَدَرَادِی - قَدَرَادِی  
قَدَرَادِی - قَدَرَادِی - قَدَرَادِی - قَدَرَادِی  
قَدَرَادِی - قَدَرَادِی - قَدَرَادِی - قَدَرَادِی  
قَدَرَادِی - قَدَرَادِی - قَدَرَادِی - قَدَرَادِی

قَدَرَادِی - قَدَرَادِی - قَدَرَادِی - قَدَرَادِی  
قَدَرَادِی - قَدَرَادِی - قَدَرَادِی - قَدَرَادِی  
قَدَرَادِی - قَدَرَادِی - قَدَرَادِی - قَدَرَادِی  
قَدَرَادِی - قَدَرَادِی - قَدَرَادِی - قَدَرَادِی

قِسْمِ اَسْبُوْن - پہاڑی گندنا (ایک دوا)  
 قِسْمِ اَشْت - کچھڑ جو زمین پر خشک ہوگئی ہو۔ شراب  
 کے تیلے۔ پسینہ کے قطرے۔ زبان  
 کے نیچے دو سبز رنگ کی رگیں۔ لوہے  
 کے دو ٹکڑے جن کے ذریعے سے  
 باگیں نگام سے باندھتے ہیں۔  
 قِسْمِ اَشْت - بچھانے کی چیز۔ فرش۔ جہ۔ قِسْمِ اَشْت  
 مرد کی بیوی۔ پرند کا گھونسلہ۔ مزہبی  
 زبان کی جگہ۔  
 قِسْمِ اَشْت - چرخ۔ پروانہ جہ۔ قِسْمِ اَشْت -  
 تالے کی جھڑ۔ چینی ہڈی۔ ہلکا پھلکا چھالکا  
 آدمی۔ تھوڑا پانی۔  
 قِسْمِ اَص - سخت۔ نہایت سرخ رنگ کپڑا۔  
 قِسْمِ اَصَدَة - علم فراغ سے واقف ہونا۔  
 قِسْمِ اَصْن - جامہ۔ کپڑا۔ لباس۔  
 قِسْمِ اَصَدَة - قِسْمِ اَصْن (ک ص) گائے وغیرہ کا  
 بڑی عمر کا ہونا۔  
 قِسْمِ اَط - پانی جس کو سب سے پہلے پہنچنے والا  
 حاصل کرے۔  
 قِسْمِ اَطِ الْقَطَا - دادی یا پانی وغیرہ کی طرف  
 آگے جانے والے۔ سنگ خوار  
 نامی پرندے۔  
 قِسْمِ اَعْتَة - قلم صاف کرنے والا پتھر۔ چہرہ  
 صاف کرنے کا رومال۔  
 قِسْمِ اَع - بڑا پیالہ۔ خوش رفتار گھوڑا۔ کمان  
 جس کی پیکان فراخ زخم لگائے۔  
 جہ۔ آہنی عتہ (مفاعلہ) بھیرنا۔  
 خوریزی کرنا۔  
 قِسْمِ اَعْتَة - بے صبری۔ بے چینی۔ اضطراب۔

تعلق۔  
 قِسْمِ اَعْتَة - مرد کی منی۔ نطفہ  
 قِسْمِ اَقْب - ایک درخت جس سے پالان بنا تے  
 ہیں۔  
 قِسْمِ اَقْب - بگری کا بچہ جو ان لڑکا۔ بیوقوف اور  
 ناتجربہ کار آدمی۔  
 قِسْمِ اَقْبَض - سخت اور پھاڑنے والا شیر۔ سخت  
 گیر آدمی۔  
 قِسْمِ اَقْب - ایک دوسرے سے جدا ہونا (مصدر  
 مفاعلہ)  
 قِسْمِ اَم - کپڑا جسے عورتیں ایام حین میں رکھتی ہیں  
 یعنی گدی۔ ایک دوا مضیق قبل۔  
 (اسم جنس) جہ۔ قِسْمِ اَم  
 قِسْمِ اَمَة - حین کا پتھر۔ گدی۔ جہ۔ قِسْمِ اَم  
 قِسْمِ اَمِيس - موٹی گردن کا شیر۔  
 قِسْمِ اَمِيق - شیر۔ ایک جانور جو شیر کے آگے چلتا  
 ہوا چلتا ہے۔ شکر کا پیش رو۔ داک  
 کا نمبر۔  
 قِسْمِ اَهَة - قِسْمِ اَهِيَة (ک) عقل مند ہونا۔ ماہر  
 ہونا۔ حاذق ہونا۔ سبک عقل ہونا۔  
 قِسْمِ اَشِيْل الدُّم - بڑے بڑے موتی۔ درلئے  
 یتیم۔ وا۔ قِسْمِ اَشِيْلَة  
 قِسْمِ اَشِيْل - آمیزش۔ سختی۔  
 قِسْمِ اَشِيْل - گرمی کی سختی۔ گرمی کا آغاز۔  
 قِسْمِ اَت - انگوٹھے اور تشمد کی انگلی کا درمیانی  
 حصہ۔  
 قِسْمِ اَت - قِسْمِ اَت - (ن) بدکار و فاجر ہونا۔  
 قِسْمِ اَت - (س) عقل مندی کے بعد کم عقل ہو  
 جانا۔

(مِیَاہ) قُرَّتَان - شیریں اور عمدہ پانی۔

قُرَّتِکَہ - خراب کرنا۔ ریزہ ریزہ کرنا۔ نزدیک  
زودیک قدم رکھنا۔

قُرَّتِیۃ - قریب قریب پاؤں رکھ کر چلنا۔

قُرَّتِی - بدکار عورت۔ مکر و جھوٹ کا بچہ۔

قُرَّت - گوبر جو ادھیر میں ہو۔ ج۔ قُرَّتِیۃ  
مص (ن) حاملہ عورت کا جی مٹلانا۔

(مَکَان) قُرَّت - وہ مقام جو پہاڑی ہونہ  
رہگستانی۔

قُرَّت - (س) سیر ہوجانا۔ پرانگندہ و متفرق  
ہوجانا۔

قُرَّتِیۃ (الوجہ) چہرہ کا پُر گوشت ہوجانا۔  
موٹا ہوجانا۔

قُرَّتِیۃ - زمین پر جسم ڈھیلنا کر کے گر پڑنا۔

قُرَّتِج - شرم گاہ۔ دو چیزوں کے درمیان کی  
کشاوگی خونناک جگہ۔ دشمن کے ملک

کی سرحد۔ گھوڑے کی دونوں ٹانگوں  
کامابین۔ ج۔ قُرَّتِج

قُرَّتِج - جو بھید نہ بھپائے۔ کمان جس کا چلہ  
بوجہ زیادہ کھچی ہوئی ہونے کے دور

ہو۔ عورت جو صرف ایک کپڑا  
پہننے ہوئے ہو۔

قُرَّتِج - (س) ہمیشہ شرم گاہ کا کھلا رہنا۔

کال اور ضخیم ہونے کی وجہ سے دونوں  
سرین کا آپس میں نہ ملنا (رض) ائم

کو دور کرنا کٹنا لیش کرنا۔

قُرَّتِج - جس کی شرم گاہ ہمیشہ کھلی رہے۔  
قُرَّتِجَاء - عورت جس کی شرم گاہ ہمیشہ کھلی رہے

عورت جس کے سرین بڑے اور

موٹے ہونے کے سبب آپس میں  
نہ میں۔ مڈ۔ آخرا ج۔ ج۔

قُرَّتِج

قُرَّتِجِاس - پکار۔

قُرَّتِجَارِذ - پر کالہ۔ بیٹھی۔

قُرَّتِجَۃ - (مُتَلَد) رنج و غم سے رہائی ننگی و  
وشواری سے نجات۔

قُرَّتِجَۃ - شگاف۔ رخنہ۔ درز۔ ج۔ قُرَّتِج  
قُرَّتِجَۃ - ٹانگیں چیر کر دوڑنا۔

قُرَّتِجَۃ - جانور پر کھیر پھیرنا۔

قُرَّتِجُول - جو پایہ کا کھیرا۔

قُرَّتِج - خوشی (س) خوش ہونا۔ اترانا۔

قُرَّتِج - خوش۔ شاداں۔ اترانے والا۔

م۔ قُرَّتِجَۃ۔

قُرَّتِجَان - اترانے والا خوش ہونے والا۔

شاداں۔ ج۔ قُرَّتِجَۃ۔ قُرَّتِجَۃ۔ قُرَّتِجَۃ

م۔ قُرَّتِجَۃ۔ قُرَّتِجَۃ۔

قُرَّتِجَۃ - قُرَّتِجَۃ خوشی خوش خبری دینے کا  
انعام۔

قُرَّتِجَۃ - لمبی لمبی ڈگ رکھ کر چلنا۔

قُرَّتِجَۃ - کو دو کر چلنا (اسم مصدر)

قُرَّتِج - چوزہ۔ شاخ۔ درخت کی جڑ کی۔  
ج۔ آخرا۔ آخرا۔ آخرا۔

قُرَّتِج - ذیل و خوار اور ٹھیکارا ہوا  
آدمی۔ کھیت جس میں خوشہ نکلنے والا ہو۔

سر کے بھیجے کا اکھا جھتہ۔

قُرَّتِج - (س) دل سے خوف کا نکل جانا اور  
چین و آرام حاصل کرنا (الے)

چمٹنا۔

فَرَخَة - چوڑا ہمالا - مادہ چوزہ ج۔ - فَرَخِ اَخ  
 قَدْ - اکیلا - تنہا - جوڑے میں سے ہر ایک  
 ج۔ - فَرَخِ اَد سے مثل خیرِ اَتالی بے مثل  
 جوہر دارِ تلوار ج۔ - اَضِ اَد مص  
 (ض۔ س۔ لث) اکیلا ہونا ب کسی کام  
 کو تنہا انجام دینا -  
 فَرَخِ قَدْ - بے مثل - بے نظیر سَسِیْفٌ  
 فَرَخِ اَد - بے نظیر جوہر دارِ تلوار -  
 فَرَخِ دَان - کیٹا - یگانہ - بے مثل -  
 فَرَخِ دَاةٌ - اکیلا چلنے والا -  
 فَرَخِ دَسَّةٌ - فراخی و کشادگی - مص (برتن کو خوب  
 بھرتا - زمین پر دسے مارنا پچھاڑ  
 دینا -  
 فَرَخِ دَوْدٌ - ستارے جو ثریا کے پچھلے صف بستہ  
 نظر آتے ہیں -  
 فَرَخِ دَوْسٌ - کھانا جو مہمان کے سامنے رکھا جائے -  
 فَرَخِ دَوْسٌ - عربی یا رومی یا سریانی (باغ جس میں  
 ہر قسم کے میوے اور پھول ہوں -  
 واوی جس میں ہر قسم کی گھاس اُگے -  
 جنت کا اعلیٰ طبقہ - ج۔ -  
 فَرَخِ اَدِیْسٌ -  
 فَرَخِ رَاةٌ - بہت بھاگنے والا -  
 فَرَخِ مَرٌ - سہوار و پست زمین مص (حق)  
 ایک چرم سے دو سر می چیز کو جو اکرنا  
 فَرَخِ مَرٌ - راستہ جو ٹیلے کے اوپر سے گزرتا ہو  
 تندرست غلام -  
 فَرَخِ زَانٌ - (فرزین کا معرب) شطرنج کا ایک مہرہ  
 ج۔ - فَرَخِ زَانَةٌ -  
 فَرَخِ سَاةٌ - کسی چیز میں سے ایک ٹکڑا اعلیٰ ہ کیا

ہوا - ج۔ - فَرَخِ سَرَسِی -  
 فَرَخِ دَدِی - روتی جو تیز میں لگ کر بدلتا اور خراب  
 ہو جائے - ایک مشہور شاعر کا نام  
 وا۔ - فَرَخِ دَدِی قَتِی ج۔ - فَرَخِ اَزِیق -  
 فَرَخِ سَرِی ع - بولہ - وا۔ - فَرَخِ رَعْدِ ج۔ - فَرَخِ اَزِی ع -  
 فَرَخِ رَعْدِ ع - گھاس کا ایک ٹکڑا - ج۔ - فَرَخِ اَزِی ع -  
 فَرَخِ زِل - باغبان کی قینچی - لوہاروں کی قینچی  
 قید - ج۔ - فَرَخِ زِلِ  
 فَرَخِ زِل - موٹا آدمی -  
 فَرَخِ زَلَّةٌ - قید کرنا  
 فَرَخِ سٌ - (حق) شیر کا شکار کو پچھاڑنا اور  
 مار ڈالنا -  
 فَرَخِ سٌ - گھوڑا گھوڑی - م۔ - فَرَخِ سَّةٌ -  
 ج۔ - اَضِ اَسٌ - فَرَخِ سٌ - (تصغیر)  
 فَرَخِ یَسٌ -  
 فَرَخِ سٌ - فَرَخِ یَسَّةٌ - (حق) شکار کی گردن کی ہڈی  
 کو توڑنا -  
 فَرَخِ سَلِخٌ - آرام و آسائش - تین میل باشمی کی  
 مسافت - بارہ ہزار قدم کی مسافت  
 شگاف - رخنے - درز - مدت دراز  
 بہت سی چیز کہ ختم نہ ہو - ج۔ -  
 فَرَخِ اَسِیخٌ -  
 فَرَخِ سَخَّةٌ - سروی کا ادب جانا -  
 فَرَخِ سِیخٌ (شفتالو)  
 فَرَخِ سِیْنٌ - اونٹ کا سم - بکری کا کھر - ج۔ -  
 فَرَخِ اَسِیْنٌ -  
 فَرَخِ شِشٌ - چٹائی دری وغیرہ زمین پر کھی ہوئی  
 فراخ و کشادہ جنگل وہ مقام جہاں  
 گھاس خوب بھری ہوئی ہو - پھوٹے

پھولے اونٹ۔ گائے۔ بکری جو  
 صرف ذبح کے کام آئے۔ جھوٹ  
 جہ:۔ فِرْسُو شِق - مہص (ن)  
 پھانا  
 فِرْسَا ح - بادل جس میں بارش نہ ہو خشک بادل  
 سن رسیدہ عورت۔  
 فِرْسَا شَة - فرش کی ہیئت و صورت۔  
 فِرْسَا شَخْطَة - کوونا۔ بدن کو ڈھیلا کر کے بیٹھنا۔  
 ران کو زمین سے چلانا۔  
 فِرْسَا شَخْطَة - آرام و آسائش۔ سکون۔  
 فِرْسَا شَخْطَة - ذراخ و کشادہ ہونا۔  
 فِرْسَا شَطْطَة - اوکڑوں بیٹھنا۔ سواری پر دونوں  
 پاؤں ایک طرف لٹکانا۔ چیرنا گوشت  
 کی بوٹیاں کرنا۔  
 فِرْسَا ص - (رض) کسی کی گردن کی رگ پر دانا  
 کاٹنا۔ پھاڑنا۔ چیرنا۔  
 فِرْسَا صَة - حصّہ۔ پانی کی نوبت۔ فرصت۔  
 فِرْسَا صَة - کپڑے وغیرہ کا ٹوکڑا جس سے حائل  
 عورت اپنے جسم کو ساف کرتی ہے  
 جہ:۔ فِرْسَا ص -  
 فِرْسَا ض - حقیقہ۔ ندی کا دلتہ۔ جہ:۔ فِرْسَا ض  
 خدا کا بندوں کے لئے حکم۔ قرارت۔  
 سنت۔ متخوہ دار لشکر۔ ڈھال۔  
 جہ:۔ فِرْسَا ض - مہص (ن) واجب کرنا  
 ضروری اور لازم کر دینا۔ دقت  
 ظاہر کرنا۔ کاٹنا۔ مقرر کرنا۔ بخشش  
 کرنا۔  
 فِرْسَا ضَا ح - لہتاڑنگا آدمی۔ مہ:۔ فِرْسَا ضَا حَة  
 فِرْسَا ضَا حَة - فِرْسَا ضَا حَة بڑے بڑے پستانوں

والی عورت۔  
 فِرْسَا صَة - ندی کا گھاٹ۔ دریا کا کنارہ جہاں  
 سے کشتی میں سوار ہوں۔ دوات کا  
 منہ۔ کواڑ کی چول کا سوراخ۔ جہ:۔  
 فِرْسَا ص -  
 فِرْسَا ضَبْط - بھجیو۔ کزوم۔ جہ:۔ فِرْسَا ضَبْط  
 فِرْسَا ضَبْط - پرانی بکری۔ یا وہ جس کے سینک  
 ٹوٹ گئے ہوں۔ بے دانت والی  
 بکری۔ جہ:۔ فِرْسَا ضَبْط -  
 فِرْسَا ضَبْط - علم و الفاض کا جاننے والا۔  
 فِرْسَا ط - زیادتی۔ غلبہ۔ چھوٹا پہاڑ۔ راستہ کا  
 نشان۔ جہ:۔ فِرْسَا ط - دقت مہص  
 (ن) کسی کا نام یا لقب جو مر جانا۔ سستی  
 کرنا۔ فوت کرنا۔ ہاتھ سے کھودینا  
 بے غم خوار چھوڑ دینا۔ حد سے  
 بڑھ جانا۔ (علمی) زیادتی کرنا جلدی  
 کرنا (الحی) کسی کے پاس بھیجنا۔  
 فِرْسَا ط - فِرْسَا طَة (رض) پانی کے گھاٹ پر قوم  
 سے پہلے جانا۔ تاکہ ضروری انتظام  
 کرے۔  
 فِرْسَا ط - جو قوم کے آگے آگے جائے تاکہ گھاٹ پران  
 کے ٹھہرنے کا بندوبست کرے (واحد  
 وجمع) اجر و عمل اور نایاب اولاد۔  
 فِرْسَا ط - تیز رفتار گھوڑا۔ بلندی۔ ٹیلہ۔ جہ:۔  
 فِرْسَا ط - جو کام چھوڑ دیا گیا ہو ظلم و  
 ستم۔ حد سے تجاوز۔  
 فِرْسَا طَا س - چوڑی چیز۔ جہ:۔ فِرْسَا طَا س  
 فِرْسَا طَة - ایک مرتبہ سے تجاوز کرنا۔  
 فِرْسَا طَة - برآمدگی۔ پیشی۔ (خروج و تقدم کا

فردوسہ - سور یا سور کی ناک۔  
 فردوس - موزہ کی ٹوک۔  
 فردوس - بہت سرکش اونٹ یا آدمی۔  
 فردوس - نفع بخش مال۔ درخت کی شاخ۔ عورت کی چوٹی۔ سارے سر کے بال۔ کان کے اوپر کی جھانپ۔ مسلمان جو کسی مال سے مستنہط ہو جے۔۔۔ فردوس۔  
 فردوس - سیلاب کے بننے کا راستہ جے۔ فردوس۔  
 فردوس (ف) پہاڑ پر چڑھنا۔ پہاڑ سے اترنا۔ کنواری لڑکی کی بکارت زائل کرنا کسی کے سر پر مارنا۔  
 فردوس - فردوس - (ف) بزرگی یا حسن و جمال میں فائق ہونا۔ (گھوڑے کی) یاگ کھینچنا [بین] لوگوں میں باہم مصافحہ کر دینا۔  
 فردوس الشبی - چیرکا اور کا حصہ چوٹی۔  
 فردوس القوم - شریف و سردار قوم۔  
 فردوس - اونٹنی یا بکری کا پہلا بچہ جسے برکت کے لئے سببوں کے سامنے ذبح کرتے تھے۔ جے۔۔۔ فردوس زنگ - چوئیں (جو بالوں اور کپڑوں میں ہوجاتی ہیں۔ وہ۔ فردوسہ مص (س) تمام سر پر بال ہونا۔  
 فردوس - عورت جس کے سارے سر پر بال ہوں۔ جے۔۔۔ فردوس۔  
 فردوس - بلند جگہ۔ کان جو بن چری شاخ سے بنائی گئی ہو۔ جے۔۔۔ فردوس۔  
 فردوس - نگر بگڑ۔ نگر بگڑ کا بچہ۔۔۔ فردوسہ۔

جے۔۔۔ فردوس۔ فردوس اعلیٰ۔ فردوس اعلیٰ۔  
 فردوس - چالاک مصلیٰ چالاک کی کرنا۔ تکبر کرنا۔  
 فردوس - نگر بگڑ۔ مصر کے بادشاہ کا لقب۔ (زمانہ قدیم میں) سرکش۔ جے۔۔۔  
 فردوس - فردوس اعلیٰ۔  
 فردوس - ظالم۔ سرکش۔  
 فردوس - ڈول کا بالائی حصہ جس سے پانی نکلتا ہے۔  
 فردوس - کسی کام کو پورا کر کے فرصت پانیر والا منٹ جانے والا۔  
 فردوس - رائے گاں۔ بے کار (یقال۔ ذہبہ دمنہ فردوسا۔  
 فردوس - غیر مستقل مزاج یہودہ بکواسی مقابلہ میں غالب۔ ایک درخت کا نام۔  
 فردوس کی ایک سواری۔  
 فردوس - بھیرٹوں کا ایک گڑ۔ شیر جو شکار کو چیر بھاڑ ڈالے۔ جے۔۔۔ فردوس۔  
 فردوس - شور و فریاد کرنا۔ بیان میں مبالغہ کرنا۔ کسی چیز کو توڑ دینا۔ کاشنا حرکت دینا۔ بے عزتی کرنا۔ اونٹ کا اپنے کو بھاڑنا اور دوڑنا۔ قدم پاس پاس رکھنا۔ ہلکا ہونا چست و چالاک ہونا۔ خوش ہونا۔  
 فردوس - ایک پرندہ۔ جوان لڑکا۔ فربر اونٹ اونٹ جو کھاتے اور جنگلی کرے۔  
 فردوس - ایک دوکان نام۔  
 فردوس - سرکی مانگ۔ ایسی۔ ایک پیمانہ آٹھ سیر کا جے۔۔۔ فردوس ایک پرندہ۔

فُرُق - سخت دشمنی۔ میاں بیوی کی دشمنی  
فُرُق - وہ چیز جسے رگڑ کر اُس کا پھلکا دور  
کر دیا جائے۔

فُرُق - (ن) بیوی کا شوہر کے  
ساتھ یا شوہر کا بیوی کے ساتھ دشمنی کرنا  
فُرُق - (س) کان کی جڑ کا سست اور  
ٹھکا ہوا ہونا۔

فُرُق - (ن) کسی چیز کو ہاتھ سے لینا  
فُرُق - مٹی کا تورا۔ چوٹھا۔ جہ۔ آخران  
فُرُق - روٹی جو فرن پر پکائی جائے۔  
فُرُق - کچتا۔ توڑنا۔ ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔  
فُرُق - گاؤں کا چودھری۔ موٹی گردن کا شیر  
بہادر دلیہ۔ جہ۔ قوا لیستہ

فُرُق - جہ۔ جہ۔ قرا نوب  
فُرُق - نافرمان اور بدکار عورت۔  
فُرُق - ایک دوا۔ بستانی لوگ۔  
فُرُق - سختی کے بعد نرم ہونا۔ بھاگنے کے بعد  
آرام لینا۔

فُرُق - تلوار کا جوہر۔ جوہر دار تلوار۔ تلوار کے  
نقش۔ جہ۔ قرا نوب۔

فُرُق - ہنڈی کا مصالحہ۔ جہ۔ قرا نوب۔  
فُرُق - پوستیں۔ جہ۔ قرا نوب۔  
فُرُق - (ن) بدکاری کرنا۔ زنا کرنا۔  
فُرُق - پوستیں۔ سر کی کھال مع بالوں کے  
زمین بے آب و گیاہ۔ ٹھیلی۔ بھکاری  
کی جھولی۔ ٹوپی۔ عورتوں کا دوپٹہ۔  
دولت مند۔

فُرُق - (ک) (العام) پانی کا شیریں ہونا۔  
فُرُق - کمان جس کے گوشہ کشادہ ہوں۔

فُرُق - (ن) جدا کرنا۔ بچاڑ دینا۔  
چیرنا۔ فہمدا کرنا۔

فُرُق - بکریوں وغیرہ کا گدہ۔ بچوں کا گروہ  
مکڑا۔ پہاڑ۔ پشتہ۔ موج۔

فُرُق - قرآن مجید۔ وہ چیز جس کے ذریعہ حق  
اور باطل میں تیر کی جائے۔ جہ۔

فُرُق - تڑپ کا۔ خوف گھرا ہٹ جہ۔ آفتاق  
آفوق۔ (س) ڈرنا۔ دریا کی لہر  
میں اگر ڈوب جانا۔ فرق نامی پیمانہ  
سے پانی پینا۔

فُرُق - خوفزدہ۔ تبتت فِرُق پھوٹی  
پھوٹی گھاس۔

فُرُق - ڈرپوک۔  
فُرُق - بکری جس کے تھنوں کے سر سے دور  
دور ہوں۔

فُرُق - قرآن مجید جس کے ذریعہ حق اور باطل  
میں تیر کی جائے۔

فُرُق (ارضی) فِرُق - زمین جس میں گھاس دور  
دور ہو۔

فُرُق - جدائی۔  
فُرُق - آدمیوں کا گروہ۔ مکڑا۔ جتھا۔ جہ۔

فُرُق - آفتاق۔ جہ۔ آفتاق۔  
فُرُق - بچھڑا۔ قطب کے پاس ایک ستارہ

اور دوسرا اس کے قریب اور ہے  
دونوں کو فُرُق اَن کہتے ہیں۔

فُرُق - مقعد۔ کون۔ دبر۔  
فُرُق - بہت دوڑنا۔ کسی کی گردن مروڑنا

انگلیاں چٹکانا۔ ریح شکم کا خارج  
کرنا۔

قرد و قردو - لڑکوں کا کرتے پھیسے سے کھلا ہوا کوٹ  
 مرغی کا بچہ - م - قرد و قردو - ج -  
 قرد و قردو - خوارے بچہ -  
 قرد و قردو - اترانے والا خوش و خرم -  
 قرد و قردو - روشن ستارے -  
 قرد و قردو - ایک - اکیلا - ناقہ قردو -  
 اکیلی چرتے والی اونٹنی  
 قرد و قردو (سبب) قرد و قردو - بے نظیر جوہر دار تلوار -  
 قرد و قردو - بھاگنے والا - بگری وغیرہ کا بچہ -  
 پری - مرد سے نفرت کرنے والی  
 عورت -  
 قرد و قردو - پری - بھاگنے والی عورت -  
 قرد و قردو - مرنا - ہلاک ہونا -  
 قرد و قردو - شہر -  
 قرد و قردو - قرد و قردو - گھوڑے کی سواری  
 گھوڑے کی شناخت میں (ک)  
 شہ سوار ہونا گھوڑے کی سواری  
 میں ماہر ہونا -  
 قرد و قردو - قرد و قردو - (ک - حق) بڑی عمر کا ہونا  
 قرد و قردو - (ن) پیش قدمی کرنا - پہلے داخل ہونا -  
 قرد و قردو - قرد و قردو - (ن) [من] فارغ ہونا -  
 خالی ہونا فرصت پانا (ل والی)  
 کہیں کا قصد کرنا -  
 قرد و قردو - ستارہ جواز -  
 قرد و قردو - ڈرپوک  
 قرد و قردو - (ن) ددار ہر کا سامنے آجانا - پرندہ  
 کا بیٹ کرنا - درد زہ کی وجہ سے تڑپنا  
 قرد و قردو - گردہ کی چربی - گڑھی کا گٹھا چارہ -  
 بست ڈرپوک (مذکر مؤنث)

قرد و قردو - خاوند سے بغض رکھنے والی عورت -  
 قرد و قردو - بھول مندی - زیرکی - ہوشیاری -  
 قرد و قردو - پوستین (د)  
 قرد و قردو - ناز سے چلنے والا - اترانے والا -  
 قرد و قردو - (س) ناز سے چلنا - اترانا -  
 قرد و قردو - پر گوشت بخور بصورت لڑکا - شیر کا  
 بچہ - گول بدن کا گٹھیل آدمی - ج -  
 قرد و قردو -  
 قرد و قردو - بھاڑی کیریوں کا ریوڑ - ج -  
 قرد و قردو -  
 قرد و قردو (کٹیبتہ) قرد و قردو شکست خوردہ اور بھاگا ہوا  
 لشکر -  
 قرد و قردو - (س) متحیر و بے خود ہو جانا - اپنے کام  
 پر تعجب کرنا -  
 قرد و قردو - بھوٹ گھڑا ہوا بڑا کشادہ ڈول  
 تازہ دودھ عجیب و غریب کام -  
 قرد و قردو - (حق) چیرتا گھڑانا - موندے وغیرہ کو  
 درست کرنے کے لئے تراشنا اور درست  
 کرنا - مسافت طے کرنا - چلنا -  
 قرد و قردو (آفس) قرد و قردو نیا اور نوکھا کام -  
 قرد و قردو - ہنگامہ -  
 قرد و قردو - بھوٹ - تمست - ج - قرد و قردو  
 قرد و قردو - کمان جس کا چتر دور ہو - اونٹنی جو پہلی  
 مرتبہ حامل ہو -  
 قرد و قردو - اکیلا - ایک - نفیس - موتی - پرے  
 ہونے موتی جن کے ساتھ دوسری چیز  
 لگی ہوئی نہ ہو - الگ ہوں - پیٹھ کی  
 ایک ٹڈی سیفت قرد و قردو  
 بے مثل بیخ جوہر دار - ج - قرد و قردو



فَرِيْدَة - نفیس موتی دُر تیتیم (د) کا غذا دستہ  
 ج: - فَرَايِدَة -

فَرِيْدِيَر - بکری وغیرہ کا بچہ - منہ گھوڑے کی  
 ایال پر سوار کے ہاتھ رکھنے کی جگہ -

ج: - فَرَايَس - مقبول - جہ: - فَرَايَسِي -

فَرِيْدِيَسْتَة - شکار - جہ: - فَرَايَسِي -

فَرِيْدِيَسْتَة - فَرَايَس - (ن) کچل دینا - شکار کی گردن  
 کی ہڈی توڑ دینا -

فَرِيْدِيَش - وہ چوپایہ جس کا نوزائیدہ بچہ سات  
 روز کا ہو جہ: - فَرَايَشِي - جماع کی  
 ہوئی جوان لڑکی جہ: - فَرَايَشِي -

فَرَايِيَس - پانی کا شریک -

فَرَايِيَصْتَة - چوپایہ کے کندھے کا گوشت ہر جگہ کا  
 گوشت جو پھوٹتا ہے، گلے کی رگ

مقعد - جہ: - فَرَايِيَسِي -

فَرَايِيَسِي - پڑانا - قدیم - علم فرائض کا جاننے والا

فَرَايِيَصْتَة - خدا تعالیٰ کا حکم - بڑی عمر کی عورت  
 مقررہ حصہ جہ: - فَرَايِيَسِي - میراث  
 تقسیم کرنے کا علم -

فَرَايِيَخ - ہوا زمین جو راستے کے مشابہ ہو -  
 عمدہ اور کشادہ قدم رکھنے والا گھوڑا

جہ: - فَرَايِيَخ -

فَرَايِيَقَة - توشہ دان جس میں بہت پانی آگے  
 جہ: - فَرَايِيَخ -

فَرَايِيَقِي - گمشدہ بکریاں - آدمیوں کا گروہ -  
 جہ: - اَفْرِيْقَة - فَرَايِيَقِي -

فَرَايِيَقَة - بکریاں جو رات کے وقت اپنے گلے  
 سے علمی ہو گئی ہوں - زچہ کا ایک کھانا -

جہ: - فَرَايِيَقِي -

فَرَايِيَك - ملا جو اذانہ - ایک کھانے کا نام -

فَرَايِيَلْتَان - زبان کی جڑ میں دو بڑیاں -

فَرَايِيِيْن - مٹی کا توراہ جو گھاسٹی کا -

ف - س

فَرَايِيَسْتَة - چست آدمی بچھڑا جہ: - اَفْرَايِيَسْتَة -

(ن) ڈورتا [عن] پھر جانا - سوگروانی  
 کرتا - جدا ہونا (ض) [عن] بے چین  
 بے قرار کرنا -

فَرَايِيَرَة - تیندروے کی مادہ - غطفان کے ایک  
 قبیلہ کا باپ -

فَرَايِيَرَة - فَرَايِيَرَة (ض) غصہ کرنا اور پھر کھٹنا  
 فَرَايِيَرَة - لوگوں کو بہت خوفزدہ کرنے والا -

فَرَايِيَس - (ن) چیرنا - پھاٹا کسی کی پیٹھ پر مارتا  
 کبڑا ہوتا -

فَرَايِيَر - اصل - بکریوں کا گلہ - ریوڑ -

فَرَايِيَرَاء - بڑے گوشت اور گداز جسم کی عورت -

فَرَايِيَرَة - رسولی - فراخ راستہ - جہ: - فَرَايِيَر  
 فَرَايِيَر - طر - جہ: - اَفْرَايِيَرَة - مص (س) ڈرنا -

(الی) مدد کرنا - فسر یاد رکھی کرنا -

(ب) پناہ تلاش کرنا (من) بیدار  
 ہونا -

فَرَايِيَرَع - خوفزدہ -  
 فَرَايِيَرَعَة - جس سے لوگ خوف کھائیں -

فَرَايِيَرَعَة - جو لوگوں سے خوف کھائے -  
 فَرَايِيَرَعَة - دور کرتا - دفع کرتا -

فَرَايِيَرِيَز - (ض) زخم کا ہمہ نکلنا اور تر  
 ہونا -

ف - س

فَس - ترکی ٹوپی (د)  
 فَسَاء - جس کی ریح بہت خارج ہو۔  
 فَسَاء - (فت) (پکڑے کو) پھاڑنا۔ پیٹھ پر لاسٹی مارنا (عن) روکنا  
 فَسَاء - (ن) بغیر آواز کے ریح خارج کرنا۔  
 فَسَاح - فراخ اور کشادہ۔  
 فَسَاد - تباہی و خرابی۔ خشک سال۔  
 فَسَاد - فسود۔ (ن) (ض) تباہ و برباد کرنا  
 ظلم و ستم کر کے کسی کا مال چھین لینا۔  
 فَسَاق - (بکس قات) بدکار عورت۔ نافرمان عورت (عورت کے لئے ایک شام)

(س)

فَسَالَة - برادہ۔

فَسَالَة - فسوالتہ۔ (ک) (س) کہینہ اور بیخ ہو جانا۔

فَسَاتَات - خیمہ۔ بڑا خیمہ۔ جہ۔ فساتیت۔

فَسْتَق - پستہ۔ پستہ کا درخت (د)

فَسْح - مسافر کا پروانہ و راہداری جو حکومت

کی طرف سے اس کو ملتا ہے (ف) لیے لیے قدم رکھنا (ل) کسی کے لئے جگہ فراخ کر دینا کسی کے لئے پروانہ راہداری تجویز کرنا۔

(س) (ج) فسحہ جس کا سینہ چوڑا ہو۔

فَسْح - فراخ جگہ۔

فَسْحَة - فراخی (د) یوم تعطیل۔ جہ۔ فسحہ

فَسْحَة - مال کرہ (د)۔

فَسْحَم - چوڑے سینہ والا۔ ذکر کا سر فراخ و وسیع

فَسَخ - (س) تباہ و برباد ہونا۔  
 فَسَخ - کم عقل۔ تاکامیاب جس کی ضرورت  
 انکی رہے اور وہ گھر سے باہر نہ نکلے۔  
 مہل کسی کے ہاتھ وغیرہ کو اس کی جگہ سے  
 اٹھا دینا کہ وہ بوجھاتا۔ پڑانا  
 اور بوسیدہ ہو جانا۔ نہ جانتا۔ توڑنا  
 جدا جدا کرنا۔ ارادہ عمل میں نہ  
 لانا۔ ویران کرنا۔

فَسْر - (حق) جدا کرنا۔ مخفی چیز کو ظاہر کرنا۔

کلام کا مطلب بیان کرنا۔ طہیب  
 کا تشخص کے لئے قارورہ دیکھنا۔  
 فَسْطَاط - فسطاطہ۔ خیمہ۔ بڑا خیمہ۔ ایک شہر۔

فَسْفَاس - نہایت بے وقوف۔ کند تلوار۔

ایک بد بردار گھاس جہ۔ فسافیس۔

فَسْفُوس - فسفوس۔

فسفورس (د)

فَسْق - زنا کاری مہل (ن) (ض) خدا تعالیٰ  
 کے حکم کو چھوڑ دینا۔ زنا کرنا ظلم کرنا  
 راہ راست چھوڑ دینا (عن) نافرمانی  
 کرنا حکم سے نکلنا۔

فَسْق - راستی سے روگردانی کرنے والا۔

تافرمان۔

فَسْق - نافرمان و بد کردار۔ فاسق۔

فَسْقِيَة - حوض۔ گھر میں ہاتھ متہ دھونے کی جگہ  
 جہ۔ فساقی۔

فَسْكِل - گھوڑ دوڑ کے اندر پھسڈی اور سبے والا  
 گھوڑا سست و کابل اور ذلیل آدمی

جہ۔ فساکل۔

فَسْكَلَة - توقف کرنا پیچھے رہنا۔ مطیع ہونا

مطیع کرنا۔

فَشَاء - اڈنوں کی کثرت - اور ان کی کثرت  
چلنا -

فَشَاء - (فت) ناز کرنا -

فَشَاح - کھڑکڑکانام -

فَشَاس - یہودہ گوئی (کلمہ عامیہ ہے)

فَشَاس - بدکاروں اور نافرمان عورت -

فَشَاغ - (مقاعلہ) عقد شفا کرنا یعنی ایک

شخص دوسرے کا اس شرط پر نکاح

کرائے کہ وہ اس کا بغیر مہر کے نکاح

کرا دے - کاپلی کرنا -

فَشَاغ - چڑے کا ٹکڑا - اکاس بیل ایک گھاس

جو درخت پر لیٹ کر اس کو خراب

کر دیتی ہے -

فَشَج - (حق) ایسی لمبی ڈنگ رکھ کر چلنا -

فَشَنَج - (فت) طما پھیر مارنا ظلم کرنا -

فَشَنَع - (فت) اوپر سے اگر کسی کو کھیر لینا -

کسی کو کوڑے کے نیچے لانا -

فَشَقَشَقَ - عقل میں کمی آجانا - حد سے زیادہ

جھوٹ بولنا -

فَشَق - (حق) توڑنا - کسی قوم کا مال و دولت

کی کثرت کی وجہ سے کم ہو لینا -

فَشَق - خوشی خوشی دلی - لاپیچ - دونوں سینگوں

کے درمیان کا فاصلہ (مص) (س)

دوڑنا - بھاگنا -

فَشَكه - کار تو س جہ - فَشَك (د)

فَشَل - ڈر پوک اور بڑول آدمی - سست

آدمی جہ - فَشَل - آفَشال -

فُسُوْل - گھوڑا جو گھوڑ دوڑ میں پیسٹی رہے

جہ - فُسَاكِين -

فُسَل - انکوڑ کی شاخ جو گانے کے لئے ہو -

کینہ اور بے مروت آدمی - جہ -

آفُسَل - فِسَال - فُسُوْل

فُسَل - نادان و احمق -

فُسُو - فُسَاء - (ن) بغیر آواز کے ریح خارج کرنا

جس کی ریح بہت خارج ہو - بغیر آواز

کے ریح خارج کرنے والا -

نافرمانی - زنا کاری - (ن - حق - ن - ک)

خدا تعالیٰ کا حکم چھوڑ دینا - راستی سے

روگردانی کرنا -

فَسِيح - فسارخ و وسیع -

فَسِيح - جو کامیابی حاصل نہ کر سکے اور کام

نہ بنا سکے - کمزور و کم عقل -

فَسِيْد - تباہ و برباد -

فَسِيْس - سست عقل اور سست جسم والا -

جہ - فُسَس -

فُسُفَسَاء - بیچی کاری -

فَسِيْق - نافرمانی اور بیکرداری جہ کا شیوہ ہو

(فَسِيْل) فَسِيْكَة - کھجور کا پھوٹا سا درخت -

جہ - فَسَلْثَل - فَسِيْل - فُسَلَان

فَسِيُو لُوْجِيَا - فزیا لوجی - علم وظائف الاعضا (د)

## ف - ش

فَش - چغل خوری - سخن چینی، بے وقوف -

پانی کے جمع ہونے کی جگہ - موٹاکیل

مص (ن) (مشک میں سے) جو انکانا

ڈکار لینا (تھوڑی سی) چوری کے لئے

ہو جانا اور روشنی کا پھیل جانا۔  
 فَصَحَ رِقَصَاحَةً (ك) صحیح تلفظ کے ساتھ  
 صاف صاف بات کر سنا خوش بیان  
 اور زبان کا ماہر ہونا۔  
 فَصَحَ - (ف) ہاتھ کے گٹے کا اتار دینا خرید  
 فروخت میں دھوکا کھانا (اس معنی  
 میں مجہولاً مستعمل ہے) (عن)  
 غفلت برتنا۔  
 فَصَدَ - (ن) رگ میں نشتر چھو کر  
 خون نکالنا۔ قصد کھولنا۔  
 فَصَدَّ - پسے ہوئے اور خون میں لٹے ہوئے  
 پھوارے۔  
 فَصَحَ - (ف) پچھڑنا۔ انگلی سے گل کر سی چیز  
 کو نرم کرنا۔

فَصَّعَاءٌ - چوہا۔

فَصَّعَانٌ - جو گرمی کی وجہ سے ہمیشہ برہنہ سر رہے  
 فَصَّعِيلٌ - بچھو۔ کمینہ آدمی۔ جہ و کھال  
 فَصَّصَةَ - جلدی جلدی ہونا۔ صحیح خبر لانا۔  
 فَصَّلَ - دو چیزوں کو الگ الگ کرنے والی  
 شے۔ بدن کے ہر جوڑے کی حکیم صحیح اود  
 یعنی بات۔ سال کے چار حصوں میں  
 سے ہر ایک حصہ۔ جہ۔ فَصَّوْلٌ حکم  
 جو حق اود باطل کو الگ الگ کر دے  
 مص (رض) روکنا۔ کاٹنا۔ پارہ پارہ  
 کرنا۔ جدا کرنا فیصلہ کرنا۔

فَصَّلُ - وہ کلام جو حق اور باطل کو الگ الگ  
 الخُطَابُ دے۔

رَبُّوْهُمَا لِفَصْلِ - قیامت کا دن۔

فَصْلَةٌ - بھجور کا پودا جس کو دوسری جگہ

فِئَل - ہودے کا پردہ اور اس کا نشتر  
 جہ۔ فَئُولٌ۔

فِئَلٌ - (س) سست و کاہل ہونا۔ بزدل  
 ہونا۔

فِئَلٌ - سست و کاہل آدمی۔  
 فَئُولٌ فَئُولٌ - (ن) کسی بات کا پھیل جانا۔  
 آشکارا ہونا مشہور ہونا۔

فِئُولٌ - ایک خاردار درخت (جس کو خرزوب  
 بھی کہتے ہیں)۔ باریک تاروں کا سخت  
 کپل۔ نسری عورت۔ عورت  
 جس کی فرج سے جماع کے وقت آواز  
 نکلے۔ وہ مرد جس کو باطل پر فخر  
 ناز ہو۔

## ف - ص

فَصٌ - بگ۔ نگینہ۔ دو بڈیوں کا جوڑ۔  
 آنکھ کی تیلی۔ بسن کا جوا۔ جہ۔ فَصُوفٌ  
 فصاص - آفص۔

فَصَادَةٌ - نکیر (د)  
 فَصَائِفٌ - بہت تیز و چالاک۔  
 فَصَائِقَةٌ - شیر۔

فِصَالٌ - دودھ سے بچہ کی علیحدگی مص (مفاعلہ)  
 ایک دوسرے سے جدا ہونا۔  
 فِصَالٌ - صلہ پانے کی امید پر لوگوں کی تعریف  
 کرنے والا۔

فِصْحٌ - عیساٹیوں کی عید۔

فِئُولٌ (بوم) فِئُولٌ - وہ دن جس میں بادل ہونے سردی۔

فِصْحٌ - خوش بیان۔ جہ۔ فَصَّاحٌ -

مص (ف) صحیح کا خوب روشن

فَصَا - ایک - اکیلا - تنہا -  
 فَصَاء - کشادگی اور فراخی - فراخ زمین ہے -  
 آفِصِيَّة - مدینے کے قریب ایک فراخ  
 مقام کا نام -  
 فَصَاة - فراخ ہونا - خالی ہونا - دروپا  
 کو تھیل میں نہ بھرنے -  
 فُصَاض - ٹوٹا ہوا - ریزہ جو کسی چیز کے ٹوٹنے  
 سے گرے -  
 فِصَاةُ اِحْبَالٍ - پرانہ پتھر جو کسی جگہ اُدپر  
 تلے پڑے ہوئے ہوں -  
 فِصَال - بہت دینے والا - اور زیادہ کرنے والا  
 فِصَال - شرابِ مص (مفاعلہ) آپس میں افزونی  
 اور زیادتی تلاش کرنا - افزونی میں  
 مبالغہ کرنا -  
 فِصَالَةٌ - کسی چیز میں سے جو بچ رہے -  
 فِصَالِي - زیادہ دینے والے - بہت افزونی  
 کرنے والے -  
 فِصَّة - چاندی - تھمری علی موٹی بلند زمین -  
 جہ - فِصْيُض (د) ایک سکھ جو قرش  
 کا چالیسواں حصہ ہوتا ہے -  
 فِصْح - (ف) رسوا کرنا - صبح کا نمودار ہونا -  
 صبح کی روشنی کا پھیل جانا -  
 فِصْح - جس چیز پر مرمی ہو مص (س) کسی  
 قدر سفید ہونا -  
 فِصْحَةٌ - سفیدی جو ہلکی ہو -  
 فِصْح - (ف) کھوکھلی چیز - کو توڑنا (سر) توڑنا  
 (آنکھ) پھوٹنا - (پانی کا) دھو بہہ کر آنا  
 فِصْض - ریزہ شکستہ - پانی کی چھٹیٹیں بھری  
 ہوئی چیز -

لے جائیں -  
 قَصْم - (ض) کسی چیز کو بغیر علیحدہ کئے ہوئے  
 توڑنا کاٹنا (مجمولاً) دیران ہونا -  
 موصول - (ض) من نکلتا - خارج ہونا -  
 قِصِي - منقہ کا دانہ - دو - قِصَاة  
 قِصِيَّة - رہائی مص (ض) من کسی کو کسی  
 چیز سے رہائی بخشنا اور جدا کرنا -  
 قِصِيَّة (يَوْم) قِصِيَّة (لَيْلَة) قِصِيَّة - وہ دن  
 یا رات جو گرم ہو نہ سرد -  
 قِصِيْبِيَّة - خوش بیان جس کو زبان پر پوری طرح  
 قابو ہو - جہ - قِصْحَاء - قِصْح  
 قِصْح (م) قِصِيْحَة جہ - قِصْح  
 قِصَاة زہان تیر - دو دھجس کے  
 بھاگ اُتار لئے گئے ہوں -  
 قِصِيْبِيَّة - قِصِيْحَة بھڑی عقل کا -  
 قِصِيْدَا - وہ شخص جس کی فصلی گئی ہو -  
 قِصِيْص - (ض) (زخم کا) تڑا اور جاری ہونا -  
 (بچکا) آہستہ آہستہ رونا [من] کسی  
 کو کسی چیز سے نکالنا -  
 قِصِيْل - حصار کے اندر کی چھوٹی دیوار - اونٹ  
 کا بچہ - جو ماں سے علیحدہ ہو چکا ہو جہ -  
 قِصْلَان - فِصَال  
 قِصِيْلَةٌ - اونٹ کا مادہ بچہ - بھیری - گروہ - آدمی  
 کے رشتہ دار جس کا ایک نکلا  
 جہ - قِصَائِل -

ف - ص

فَصْن - متفرق اور پرانہ جماعت (ن)  
 توڑنا غلطی مہر توڑنا -

فَصْح - (ف) پاخانہ کرنا۔ ریح خارج کرنا۔  
فَصْح - (ف) لکڑی وغیرہ کو توڑنا۔

فَصْفَانِي - دھیلا ڈھالا کپڑا۔ زندگی - زرہ۔  
فَصْفَاةٌ - فراخ و وسیع زرہ۔ دراز قامت و  
فربر لکی۔

فَصْفَصَةٌ - کپڑے اور زرہ کی فراخی۔ آسودگی۔  
فُصْل - کام کاج کے وقت پہننے کا لباس کام  
کے وقت کا لباس پہننے والا۔  
(مذکورہ مؤنث)

فُصْل - فردنی اور زیادتی سچی ہوئی چیز۔ جہ۔  
فُصُولُ مِص (ن - س) زیادہ ہو جانا۔

فُصْلٌ - فُصْلَةٌ - (ن - س) بیچ رہتا۔ برٹھ جانا  
فُصْلَةٌ - بید سچی ہوئی چیز۔ کم قیمت لباس کام  
کاج یا سونے کے وقت پہننے کا۔  
شراب جہ۔ فُصْلَاتٌ - فُصَالٌ

فُصُوٌ - فُصَاءٌ - (ن) فراخ ہونا۔ وسیع ہونا۔  
فُصُوْحٌ - بدنام - رسوا۔  
فُصُوْحٌ - فُصُوْحَةٌ - فُصَاْحٌ - فُصَاْحَةٌ -  
رسوائی - بدنامی۔

فُصُوْحٌ - شراب جو بے خود و مدہوش کر دے۔  
فُصُولٌ - غنیمت میں سے جو تقسیم سے بچ رہے۔  
(حَلْفٌ) الفُصُولُ - ایک قسم جو بعثت نبوی  
سے پہلے چند سرکردہ اشخاص نے ظالم  
کا ظلم دفع کرنے اور مظلوم کی داد  
رہی اور اس کا حق دلانے کے لئے  
کھائی تھی۔ آنحضرت بھی اس میں شریک  
تھے۔ اس قسم پرینی عہد نامہ۔

فُصُوْقِيٌّ - جو بے فائدہ کام کرے اور بے کار اور  
بغیر چیز کے درپے ہو۔ درزی۔

فُصِيْحٌ - سینہ۔

فُصِيْحٌ - رسوا و بدنام۔

فُصِيْحَةٌ - رسوائی و بدنامی۔ جہ۔ فُصَاْحٌ  
دودھ جس میں بہت پانی ملا ہوا ہو۔  
ایک قسم کی شراب۔ انگوڑا کا عرق۔

فُصِيْضٌ - ریزہ۔ پانی کی پھینٹیں جو طہارت کے  
وقت منتشر ہوں۔ اچھا اور چالی پانی  
بکھرا ہوا۔

فُصِيْلَةٌ - افزودنی۔ برٹھوتری۔ زیادتی۔ رتبہ۔  
فُصْلُ کے اندر برٹھ اور جہ۔ فُصَالٌ

فُصِيْلَةٌ (الْمُسْتَاذ) علماء کا تعظیفی لقب (د)

## ف - ط

فَطَاةٌ - (س) پشت کا اندر کو گھس جانا۔ اور  
سینہ کا باہر کو نکل آنا۔ فراخ ناک  
والا ہونا۔

فَطَاةٌ - (ف) پیٹھ پر مارتا۔ جماع کرنا۔ بوجھ  
کی زیادتی سے اونٹ کی پیٹھ دب جانا  
(ب) بچھاڑنا۔ ریح خارج کرنا۔

فَطَاَسٌ - تلوار جس کی دھار چھٹ گئی ہو اور  
کاٹ نہ کرتی ہو۔

فَطَاَرِيٌّ - بے خبر و بے شر آدمی۔

فَطَاطِيٌّ - حلوائی۔ (د)

فَطَاْقِيٌّ - ڈانٹنے کی آوازیں۔ جماع کے وقت  
کی آوازیں۔

فَطَاهٌ - دودھ سے علیحدگی مص (حق) دودھ  
سے چھڑانا۔ کسی کو اس کی عادت  
سے روکنا۔

فَطَاحٌ - (س) ناک یا سر کا چوڑا ہونا۔ بھور کے

دوخت کا زنگوڈ کو قبول کرنا  
 قَطَح (ت) کسی چیز کو چوڑا کرنا۔ تراشا (ب)  
 لاطھی وغیرہ سے مارنا۔ ڈال دینا۔  
 قَطَحْل۔ لمبا ترنگا اور موٹا آدمی۔ قر یہ اوٹ  
 (د) ہیرو۔  
 قَطِر۔ انگور جب ذرا سا بن کر نودار ہو روزہ  
 کھولنے والا (واحد و جمع)  
 قَطِي قَطِي۔ تازہ دودھ کے جھاگ جو دوہنے سے  
 ہو جاتے ہیں۔ سانپ کی پھتری۔  
 قَطْر۔ شگاف۔ دراڑ۔ درز۔ جم۔ قَطْوَس  
 نری مہ (ن) حق (چیرتا) اوٹنی کا  
 دودھ دوہتا۔ خدا تعالیٰ کا مخلوق کو  
 پیدا کرنا کسی کام کو شروع کرنا۔ روزہ  
 کھولنا۔ روزہ کھلوانا۔  
 قَطِرَة۔ صدقہ قطر۔ سرشت اور طبیعت۔  
 پیدائشی وصف۔ دین۔  
 قَطْرِي۔ خمیری روٹی کی تند۔ یعنی جس آگے کا  
 خمیر نہ ہوا ہو اس کی روٹی۔  
 قَطْر۔ (ن) مرنا۔  
 قَطَس۔ حب الاس۔ دہ۔ قَطَسَة مہ (ن)  
 کسی کے منہ پر بات کہنا۔ لوہے کو  
 چوڑا کرنا۔  
 قَطَس۔ (س) چوڑی اور پھلی ہوئی ناک والا  
 ہونا۔ بچکی ہوئی ناک والا ہونا۔  
 قَطَسَاء۔ عورت جس کی ناک بچکی ہوئی اور پھلی ہوئی  
 ہو (قَطَس کا مؤنث) جم۔ قَطَس  
 قَطَسَة۔ مرد جانور کی کھال۔  
 قَطَسَة۔ ناک کا پچکا ہوا اور پھیلا ہوا ہونا۔  
 قَطَقَطَة۔ ایسی بات کہنا جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے

گو بکر کرنا۔  
 قَطَم۔ (ن) کاٹنا۔  
 قَطَن۔ ذہین۔ عقل مند۔ ہوشیار۔ تیز فہم۔ جم۔  
 قَطْن۔  
 قَطِين۔ ذہین۔ تیز فہم۔ جم۔ قَطِين  
 قَطِن۔ قَطِن قَطِنَة (س) ناک (ب) ہوشیار  
 دھل مند ہوننا۔  
 قَطِنَة۔ دانائی۔ ذہانت۔ فہم کار سا ہونا اور  
 اس کی تیزی مہ (ن) جاننا۔  
 قَطِنَة۔ ذہین اور ہوشیار عورت۔ تیز فہم اور  
 ہر کام میں ماہر عورت۔  
 قَطْو۔ (ن) تیز جاننا۔  
 قَطْوَح۔ بڑے پیٹ والی اوٹنی۔ جم۔ قَطْح  
 قَطْوَس۔ قَطْوَسِي۔ افطاری جس سے روزہ  
 افطار کریں (د) ناشتہ۔ حاضر می۔  
 قَطْوَرَة۔ بکری جسے عید الفطر کے دن ذبح کیا  
 جائے جم۔ قَطَا سِر۔  
 قَطْوَس۔ (ن) امرجانا۔  
 قَطْوَطِي۔ کیرٹا آدمی۔  
 قَطْوُون۔ ذہین۔ تیز فہم۔ ہوشیار۔ ہر کام میں ماہر  
 (س) پشت کا کشادہ ہونا۔  
 قَطِيْر۔ خمیر کے برخلاف وہ آٹا جس کا خمیر نہ  
 اٹھا ہو روٹی جو خمیر ہی نہ ہو۔  
 قَطِيْرَة۔ بکری جسے عید فطر کے روز ذبح کیا جاوے  
 سمو۔ پراٹھا۔ جم۔ قَطَا سِر۔  
 قَطِيْم۔ جس بچہ کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو۔ جم۔  
 قَطْم۔  
 قَطِيْمَة۔ دودھ سے علیحدہ کیا ہوا اونٹ کا بچہ  
 جم۔ قَطَا سِر۔

فَطِين - ذہین تیز فہم بہوشیار بہر کام میں ماہر۔

ف - ط

فَط - بدخلق - بد مزاج اور سنگ دل آدمی۔  
 ج: حفاظ اور دھک کا پانی جسے بے آب کیہ  
 بیابان میں اونٹ کا پیٹ چاک کر کے  
 سرسبز پھوڑ کر پیتیں۔ ایک قسم کا درباری  
 درندہ جو بہت بد صورت ہوتا ہے  
 ج: - فطاط - فطوط مص اوہر  
 کا پانی سرگین میں سے پھوڑنا  
 فطاطة - فطاط - فطظ (س) بد مزاج اور  
 بدخلق ہوجانا۔

فطاطة - ترکی تھوڑی سی مٹی۔ ہر چیز کا ٹکڑا۔  
 فطاعة - (ک) رسوائی میں حد سے تجاوز کرنا  
 بہت رسوا ہونا۔

فَطَعُ - (س) کسی کام کو اپنی طاقت سے زیادہ  
 سمجھ کر اس کے موٹنے کا یقین نہ کرنا۔  
 برتن کا بھرننا۔ کسی کام کی انجام دہی  
 میں بہت ہرجانا۔

فَطَى - رحم مادر۔ بچہ دانی۔  
 فَطِيظ - مٹی۔ یا غورت کی مٹی۔  
 فَطِيح - سخت اور مشکل کام۔ کوئی بڑا لیکن  
 حد سے زیادہ بدترس اور بھونڈا کام۔  
 نپھرا ہوا خالص اور میٹھا پانی۔

ف - ع

فَعَاع - چست و چالاک آدمی۔ چرواہا۔

فَعَال - کلباڑی کا دستہ ج:۔ فَعَل - بھلائی

سخاوت۔

فَعَالٍ - (بکسر ام) کر رام ہے)  
 فَعَامَةٌ - فَعَوْمَةٌ - (لش) پڑھنا پڑگوشٹ ہونا  
 سڈول جسم اور گداز پڑگوشٹ اور  
 پنڈلیوں والا ہونا۔

فَعَفَعَ - بگری کا بچہ چست اور ہلکا آدمی۔  
 فَعَفَعِي - فَعَفَاع - بزدل۔ قصاب۔ چرواہا  
 فِعْل - کام۔ آدمی کی حرکت اور اس کا کردار۔  
 عورت اور ہر ماہہ جانور کی فرج۔  
 ج:۔ فِعَال - أَفْعَال

فَعَل - (ف) کام کرنا۔  
 فَعْلَةٌ - کام کرنے والا۔ مزدور لوگ۔ واہ۔  
 فَاعِلٌ - (اکثر اس کا اطلاق کھدائی میوہ  
 کے مزدوروں پر ہوتا ہے)۔

فَعَلَةٌ - عادت۔  
 فَعَمَ - بھرا ہوا۔ ایک درخت مص (ف)  
 برتن بھرناس۔ ف۔ کسی کے دماغ کو  
 خوشبو سے بھر دینا۔

فَعَمَةٌ - سڈول اور گداز جسم کی عورت۔  
 جس کی پنڈلیاں بھری ہوئی ہوں۔  
 فَعَمَلٌ - بھرا ہوا اور پڑگوشٹ بازو۔ بھرا ہوا  
 برتن۔

ف - ع

فَعَعٌ - (ن) خوشبو مکننا۔  
 فَعَسَا - ذم جو آ رہا ہو جائے۔  
 فَعَسَ - خوشبو کی مکن۔  
 فَعَسُو - کھلا ہوا پھول۔ مص (ف) (منہ)  
 کھولنا (منہ کا) کھلنا۔



فقّارۃ - پھاڑی میدان میں داخل ہونے کا راستہ - ج - فعد -  
 فقّام - (ا) (ب) کسی پر فریفتہ ہونا - بقیم ہونا - لاپچی -  
 فقّام - فقّوم - (ن) بوسر لینا - پھول کھنا -  
 فقّام - فقّوم - منہ - دارھی سمت ٹھوڑی -  
 فقّامۃ - بڑ -  
 فقّو - مہندی کی گلی - ج - فقّاء (ن) کھیتی کا خشک ہوجانا -  
 فقّاق - (ا) کھولنا -  
 فقّاء - فقّاءۃ - رحم کی ایک قبیل جو بچے کے ساتھ نکلتی ہے - سخت زمین میں پانی جمع ہونے کا گڑھا - ایک مقام کا نام -  
 مص (ف) کسی کے غصہ کو دبانانا اذھا کرنا - توڑنا -  
 فقّاح - پھول خوب صورت عورت - ایک بوٹی کا نام -  
 فقّاحۃ - ہاتھ کا پنچہ -  
 فقّارۃ - پیٹھ کی بڑی - ج - فقّار -  
 فقّاع - سسرخ -  
 فقّاع - نہایت پلید -  
 فقّاع - کچی شراب جو بخر وغیرہ سے تیار ہوتی ہے ایک بوٹی کا نام -  
 فقّاعی - نہایت زرد رنگ کا -  
 فقّاق - بے وقوف آدمی -  
 فقّامۃ - (ک) کام کا مشکل ہوجانا -

## ف - ق

فقّاہۃ - (ک) عالم و دانش مند ہونا - فقّیہ ہوجانا (ب) جاننا سمجھنا -  
 فقّاح - سفوف بنانا - پھول اچھانا -  
 فقّاحۃ - گھاس کی کھلی حلقہ دوہر - ج - فقّاح ہاتھ کا پنچہ -  
 فقّاحل - جلد غصہ میں آنے والا -  
 فقّاحلۃ - جلد بے جا غصہ کرنا -  
 فقّاح - فقّاح - (ف) سر پر مارنا - خول یعنی غیر ٹھوس چیز پر مارنا -  
 فقّاد - ایک بوٹی کا نام - خشک انگوروں کی تیار کی ہوئی شراب - شہد کی شراب -  
 فقّاد - فقّادان - فقّود - کم کرنا -  
 فقّار - درویشی مفلسی - رنج و غم - ج - فقّوس مص (ن) کھودنا - موتی وغیرہ میں سوراخ کرنا پیٹھ توڑ دینا (ک) محتاج ہو جانا  
 فقّارۃ - ایک گھاس ج - فقّارۃ - پہلو اور جانب - ج - فقّارۃ - وہ شخص جس کی پشت کی بڑی ٹوٹی ہوئی ہو  
 فقّارۃ - پیٹھ کی بڑی ج - فقّارۃ - فقّارۃ ان فقرات نشان قصیدہ کے تین شعر قصیدہ کا سب سے اچھا کیفیت کی زمین میں سب سے بہتر زمین ج - فقّارۃ - کھو دا ہوا اگر بیان - نزدیک قریب  
 فقّارۃ - (ض) مڑنا -  
 فقّاش - (ن) اڈے کو توڑنا - ہاتھ سے توڑنا (د) آتشیں مادہ کا پھوٹنا - تڑا کا ہونا -  
 فقّاصۃ - ٹوٹا ہوا انڈا - کچلا ہوا سر -  
 فقّح - (ن) چڑانا - گورہ مارنا (د) تڑا کا ہونا

فَقَّحُوس - (ص) مرنا پرندہ کا انڈے کا کھٹکنا اور بچہ نکالنا۔ پرندہ کو مار ڈالنا اور اس کے انڈے توڑ دینا (عن) کسی کام سے روکنا۔

فَقَّحُوس - علم و دانش۔ دین کی واقفیت اور معلومات۔ ذہانت و ہوشیاری (س) کسی چیز کو سمجھنا کسی چیز کو جاننا (ن) علم فقہ میں غالب آنا۔

فَقَّحُوس - عقل مند۔ ہوشیار۔ عالم دین (س) ذہین اور عالم دین عورت۔

فَقَّحُوس - گم شدہ۔ ناپید۔ غریب۔ درویش۔ فقہاء جس کی پیٹھ کی بڑی ٹوٹ گئی ہو۔ گڑھا جس میں پروا جمائیں۔ جہ۔ فقہ۔

فَقَّحُوس - ٹوٹا اور کھٹکا ہوا انڈا جہ۔ فقہائیں۔ سُرُخ چیز۔ سُرُخ آدمی۔ ناپاک۔ سفید۔ سفید۔

فَقَّحُوس (آبِیض) سفید۔ بہت سفید۔ عالم۔ جاننے والا۔ دریافت کرنے والا۔ علم دین کا جاننے والا جہ۔ فقہاء۔

## ف - ک

فَقَّحُوس - جبراً مص (ن) جبراً کرنا بہت بڑھا ہوا جاننا۔ غلام کو آزاد کر دینا۔ مٹھی کو کھول دینا۔ بچہ کے منہ میں دو ڈالنا۔ فِقْکُوس - (ن) گردی رکھی ہوئی چیز کو پھڑکانا۔

فَقَّحُوس - (ن) قیدی کو رہا کرنا۔ فِقْکُوس - (ن) قیدی کو رہا کرنا۔

فَقَّحُوس - آتشیں مادہ کا پھوٹنا۔ فِقْکُوس - ایک قسم کی ساپ کی پھتری جہ۔ فِقْکُوس - (س) نہایت سرخ ہو جانا۔

فَقَّحُوس - (ف) نہایت زرد ہونا۔ تخلص زرد ہونا۔ فرسودہ اور پرانا ہونا (بچہ کا) بڑھنا اور حرکت کرنا۔ گرمی کی وجہ سے مر جانا۔

فَقَّحُوس - پانی کے ٹپکنے اور بہنے کی آواز بہت غریب اور ذلیل و خوار ہو جانا۔ کتے کا خوف زدہ ہو کر چلانا۔ کلام کی تہ کو پہنچ جانا۔

فَقَّحُوس - عقل۔ دانش سمجھ۔ ذہن۔ ہوشیاری۔ افزونی۔ زیادتی۔ آبادی۔ زمین کی پیداوار یعنی غلہ مص (ن) گیہوں بھرائیں اڑ کر صاف کرنا۔ پھاڑے صاف کرنا۔

فَقَّحُوس - ایک انگلی کی برابر زہریلی مچھلی۔ فِقْکُوس - ٹھوڑی۔ ٹھوڑی کی ایک جانب کتے کی ناک کی نوک جہ۔ آفَقَّہ

فَقَّحُوس - (س) اوپر کے یا نیچے کے دانوں کا باہر کو نکلا ہوا ہونا۔ اترانا۔ ٹک ٹک کر چلنا۔ غرور کرنا۔ کم ہونا۔ زیادہ ہونا۔

فَقَّحُوس (ن) لغات اصداد میں سے ہے بھر جانا۔ فِقْکُوس - عقل مند آدمی جو اپنے دشمن پر غالب ہو۔ فِقْکُوس - (س) کام کا کٹھن اور مشکل ہونا اتنا کھا لینا کہ بدبھمی ہو جائے۔

فَقَّحُوس - جس عورت کے دانت باہر کو نکلے ہوئے ہوں (آفَقَّح - کاموٹ) جہ۔ فِقْکُوس - تیر کا سونار

فکاکہ

ف - ل

فَلَّ - تلوار کی دہار کی کنڈی اور اس کا دندانہ  
جہ :- فُلُول - شکست خوردہ آدمی(واحد و جمع) جہ :- فُلُول -  
آفَلَال - فِلَال - گروہ - مص (ن)  
دندانے ڈالنا - توڑنا شکست دینا -  
بے عقلی کے بعد عقل آجانا -فَلَّ - بھڑی ہوئی چیز - بے آب و گناہ  
زمین - جہ :- آفَلَال - فُلَّ -فَلَّ - زمین بے گیاہ - تری تھوڑے سے ہال  
فَلَّاء - (ف) تباہ کر دینا -فَلَّاء - بے آب و گیاہ جنگل - بیابان - وسیع  
دفرخ صحرا جہ :- فَلَآ - فَلَوات  
جہ :- آفَلَا -

فَلَّات - اچانک ، پہنچ -

فَلَّاح - سوی کا کھانا - پھولکارا - فتح مندی -  
زندگی اور خیر کا لقا -فَلَّاح - کسان کھیتی کرنے والا - کاشتکار -  
کشتیان - لڑو اور سواری کے جانور  
کو کرایہ پر دینے والا -فَلَّاحَة - کاشتکاری ، بیچنے میں دھوکا اور  
زبان درازی -

فَلَّاس - پیسے بیچنے والا -

فَلَّاط - اچانک - ناگاہ - یکایک -  
دفاعاً (اچانک لے لینا -

فَلَّاق - دودھ کا چھٹ جانا -

فَلَّاق (دَلَبَن) - جھاہوا اور گارڑھا دودھ

شے پھوڑائی جائے -

فکاکہ - خوش طبعی ہنسی مذاق - دل لگی -

فکاکہ - سمک راج کے پیچھے کے ستارے -  
حماقت بستہ منہ (س) بے عقل

ہو جانا - بست ہو جانا -

فکاکہ - ریڑگاری - خردہ - (د)

فکاکہ - سوچ - ضرورت و حاجت جہ :-  
آفکاکہ -

فکاکہ - (ن) سوچنا - غور کرنا -

فکاکہ - فکاکہ - سوچ - اندیشہ خیال - غور  
(د) رائے - آئیڈیا -

فکاکہ - (ف) صحیح کرنا -

فکاکہ - فکاکہ - (س) رنج و غم یا غصہ سے سر  
بھکانا -فکاکہ - جہڑے کی شکستگی - کندھے کے جوڑ کی  
کشادگی جو سستی کی وجہ سے ہوتی ہےمص (س) کمزوری اور سستی کی وجہ  
سے کندھے کا جوڑ کشادہ ہونا -فکاکہ - (ن) [فی] جھوٹ پر اصرار کرنا -  
اور اس عادت کو چھوڑنا -فکاکہ - گزشتہ چیز - پریشانی و ندامت  
فکاکہ - میوہ کھانے والا خوش مزاج اورظریف آدمی - دوستوں سے ہنس کر  
بات کہنے والا - اترانے والا - ناز کرنا والا

غیبت کو پسند کرنے والا

فکاکہ - (س) خوش مزاج اور ظریف  
ہونا (من) تعجب کرنا -

فکاکہ - بہت سوچ - بچار کرنے والا -

فکاکہ - خوش مزاجی - خوش طبعی - جہ :-

ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے۔

فَلَاقَةٌ مُکْرَدًا - جر :- فَلَاقٌ -

فَلَاقٌ - آدمی کے نام کی طرف اشارہ۔

فَلَائِيْلًا - بنیان - فلایین (د)

فَلَائِيَّةٌ - سر میں جوڑوں کی تلاش۔

(فہاس) فَلَائَتْ - تیرہ رقتا رگھوڑا۔

فَلَائَتْ - رہائی - چھٹکارا - خلاصی۔

فَلَائَتْ - (ص) رہا کرنا - چھوڑنا - چھوٹنا - رہا ہونا

فَلَائَاتُ الْمَجْلِسِ - مجلس میں لغزشیں جو لوگوں سے

سرزد ہوتی ہیں۔

فَلَائَاتٌ - خوش و خرم - سخت اور دلیر فَلَائِسٌ

فَلَائَاتٌ تیرہ رقتا رگھوڑا۔

فَلَائَةٌ - بے سوچے اور اچانک کام - ہر

مہینہ کی آخری رات مہینے کا آخری دن

کہ اس کے بعد مہینہ حرام ہو۔ جر :-

فَلَائَاتٌ

فَلَاجٌ - چھوٹی ندی - جر :- أَفْلَاجٌ دونوں قدموں

کے درمیان کی کشادگی - اگلے دانوں

کا درمیان (مصر) کشادہ قدم والا

ہونا - کشادہ دانوں والا ہونا - کشادہ

ہاتھوں والا ہونا (مجبوراً) فالج زدہ ہونا۔

فَلَاجٌ - نقصان و گزندہ - آدھا جر :- فَلَاجٌ

چھوٹی ندی (مصر) (ن) فتح مندی امد

رہائی حاصل کرنا تقسیم کرنا۔ دو حصے برابر

برابر کرنا۔ زراعت کے لئے زمین کھودنا۔

فَلَاجٌ - آدھا - نصف - ایک پیمانہ جر :- فَلَاجٌ

فَلَاجٌ - فَلَاجَةٌ - فتح یابی - نجات و رستگاری۔

فَلَاجَاءُ الْإِنْسَانِ - عورت جس کے دانت الگ

الگ ہوں (أَخْلَجَ کاموٹ) جر :-

فَلَاجٌ

فَلَاحٌ - (ف) چرنا - کاشا - دھوکا دینا - خرید و فروخت

میں دوسرے کا حق مار لینا۔

فَلَاحٌ - کامیابی - تجویزی نیچے کے ہونٹ کی جھین

فَلَاحَةٌ - زمین - قابل کاشت - اوپر کے ہونٹ کی

جھین۔

فَلَاحِاسٌ - بد صورت و بد اخلاق آدمی - جر :-

فَلَاحِيْسٌ -

فَلَاحِسٌ - لالچی آدمی - کتا - بوڑھا رکھ جو دوسروں

کے کھانے کے وقت کا منتظر رہے جو

فَلَاحِيسٌ -

فَلَاحِيسَةٌ - دُپے اور ہلکے سُرُن کی بد صورت عورت

فَلَاحٌ - کسی کے سر کو توڑنا - ظاہر کرنا۔

فَلَاحٌ - بلا وعدہ کئے اور بغیر لگائے بخشش

مص (ن) (فَلَاحٌ قَيْنَ الْمَالِ) مال

میں سے کسی کے لئے سخت علمبرہ کرنا۔

فَلَاحٌ اونٹ کا جگر - جر :- أَفْلَاحٌ

فَلَاحٌ - جگر گوشت ، مال ، چاندی اور سونے

کا ٹکڑا - جر :- أَفْلَاحٌ - فَلَاحٌ

فَلَاحٌ - فَلَاحٌ - فَلَاحٌ - ہر معدنی چیز جو آگ میں پانے

سے گل جائے - دھات - ٹھیل آدمی -

موٹا تازہ آدمی جس چیز پر راکر تلوار

کو آزندائیں۔

فَلَاحٌ - پیسہ - جر :- أَفْلَاحٌ - فَلَاحٌ

فَلَاحٌ - ناکامی (اِفْلَاحٌ کا اسم)

فَلَاحِطٌ - فلسطین کا (فَلَاحِطٌ کی طرف منسوب)

فَلَاحِطَةٌ - مہادی اور علل اولیہ کے ساتھ اشیاء

کا علم - علم معقول - بحسب طاقت بشری

موجودات خارجیہ کے احوال و اقیعہ کا علم۔

قَلَطَ - یکایک - اچانک - ناگاہ -

قَلَطَ - (ن) [عن] کسی چیز سے متحیر ہونا -

قَلَطَعَتَ - چوڑا کرنا -

فُلُوعَ - پاؤں وغیرہ کی پٹھن جہ - فُلُوعَ -

(ف) چیرنا - کاٹنا -

فَلَعَةَ - کوبان کا ایک حصہ - جہ - فَلَاعَ

فَلَاعَ - (ف) سر توڑنا -

فَلْفَل - فُلْفُل - کالی مرچ - واہ - فُلْفَلَةَ -

فَلْفُل - ہر شیار و عقل مند خادم -

قَلْفَلَةَ - ناز سے چلنا - مسواک کرنا - کھانے وغیرہ

میں مرچ ڈالنا (د) مجلس میں سے مجمع

کا پھٹ جانا -

فَلَقَ - منہ کا دانہ - مصیبت - سختی (ن) (ن)

چیرنا - کھال سڑا کر بال علیحدہ کرنا -

فَلَقَ الْمَرْقَى - بیچ - سر کی ہانگ -

فَلَقَ - مصیبت - سختی - منہ کا دانہ - امر عجیب -

بیچ میں سے چیری ہوئی شاخ - کمان کے

لئے - کمان جو بیچ میں سے شاخ چیر کر

ادھی شاخ سے بنائی گئی ہو -

فَلَقَ - (غیر منفرد) مصیبت - سختی -

فَلَقَ - فخر کی پہلی روشنی جو آفت پر سیاہی کے

پردہ سے نمودار ہو - تمام مخلوق دوزخ

دوزخ کا ایک کنواں - دو بلند یوں کے

درمیان ایک پست زمین - میدان -

قیادی کی بیڑی - شکاف جہ - فُلُوقَ -

شَاةٌ، قَلَقَاةٌ الصَّرَاةُ - بکری جس کے تھن فراخ

ہوں -

فُلْفَلَان - کھلا ہوا جھوٹ -

قَلَقَتَهُ - ایک داغ جو اونٹ کے کان کے نیچے

لگاتے ہیں -

فَلَقَتَهُ - ٹکڑا - مصیبت - سختی - آدھا پیالہ -

جہ - فَلَاقَ -

فَلَقَتَهُ - کھانا - پینا -

فَلَقَطَهُ - (فی) جلدی کرنا - سرعت کرنا -

فَلَقَمَ - فراخ و وسیع -

فَلَقَى - بلا - سختی - مصیبت -

فَلَكٌ - کشتی (اندر مؤنث واحد جمع)

فَلَعَصَ - آسمان جہ - آفَلَاکَ فَلَکٌ سمندر

کی متحرک موج - ہوا کی وجہ سے متحرک

پانی -

فَلَدٌ - گھٹیلے جسم کا آدمی - وہ شخص جس کے گھٹیلے

میں درد ہو - گول گول سر نیوں والا

فَلَدٌ - (ن) (قندہای الجاریسہ) لڑکی کے

پستانوں کا گول ہونا (انجاریسہ)

لڑکی کا گول پستانوں والی ہونا)

فَلَدٌ کُلُّ شَیْءٍ - ہر چیز کی گولائی -

فَلَدَحَةٌ - سوت کی گولٹی - گول اور بلند زمین -

گول ٹیلہ - جہ - فَلَاحٌ - فَلَاحٌ

فَلَاحٌ - منجم - ماہر علم الاقلاک (د)

فَلَنْدَجٌ - موٹا اور سخت آدمی -

فَلِوٌ - گدھے کا بچہ - گھوڑے کا سال بھر کا

بچہ - جہ - آفَلَاءَ (م) فَلَوةٌ

فَلِوٌ - گھوڑے اور گدھے کا ایک سال بچہ -

جہ - فَلَادِی (م) فَلَوةٌ -

فَلَوٌ - (ن) بچہ کا دودھ چھڑانا - سفر کرنا - بے

عقل کے بعد عقل آجانا - بے تلوار

وغیرہ سے مارنا -

(کیسائے) فَلَوتٌ - چھوٹا کبیل جس کے دونوں



فَتْحًا - غالب ہونا۔ ذلیل و خوار کرنا۔ کوڑنا  
فَتْحًا - قوی ہو کر۔ بزرگ بننا۔ (م) فَتْحًا  
ج۔: فَتْحًا -

فَتْحًا - ناک کے تھنوں میں ہوا بھرنا۔  
فَتْحًا - بہت ناز کرنے والا۔ بہت اترانے اور  
فخر کرنے والا۔

فَتْحًا - بڑا بہاؤ۔ درخت کی شاخ کسی قوم کا  
مجمع۔ زمین جس پر بیڑہ نہ بربسا ہو ج۔:۔  
فَتْحًا - اَفْتَاد۔

فَتْحًا الشَّمْح - موم بتی (د)  
فَتْحًا - بھوٹ بھڑ۔ تا شکر۔ بڑھاپے یا  
بیماری کے سبب عقل کا فتور۔

فَتْحًا - کھاتر۔ حساب (د)  
فَتْحًا - فِتْرَةٌ - کھجور کا بڑا ڈھیر۔ پہاڑ کی چوٹی  
یا جوڑے نکلا ہوا پتھر۔ ج۔: فَتْحًا  
فَتْحًا - چلوغزہ۔ مہمان سرائے (د)۔ بوٹل۔

فَتْحًا - جو افروزی۔ مروت۔ افروزی۔ اچھی شہرت  
میں (س) بہت مالدار ہونا۔

فَتْحًا (بِجَارِيَةٍ) - فِتْقٌ - لاڈ کی بی بی ہوتی۔ نازک اندام لڑکی  
ناتاق فِتْقٌ جوان اور فرہ ادھیمی۔

فَتْحًا - دروازہ۔ دم کی جڑ۔ مہن (ن) تعجب  
کرنا۔ ظلم کرنا۔ اصرار کرنا۔ غالب ہونا  
بھوٹ بولنا۔

فَتْحًا - ایک جانور جس کی کھال کی پرستین نہایت  
قیمتی اور بہتر بن ہوتی ہے۔

فَتْحًا - شاخ۔ ج۔: اَفْتَانٌ - ج۔: اَفَانِيْن  
فَتْحًا - جن عورت کے بال لمبے اور کھیرے ہوئے  
ہوں۔ شجرۃ فَتْحًا ہست

شاخوں والا وسیع و فراخ درخت۔

فَتْحًا - نرم و مست۔  
فَتْحًا - اصیل اوٹ۔ ساند جسے عمرہ نسل ہونے  
کی وجہ سے سواری وغیرہ کے کام میں نہ  
لائیں۔ ج۔: اَفْتَانٌ - اَفْتَانٌ

فَتْحًا - دونوں جبرطوں کی جائے اتصال۔ کینڈی  
کی بڈی جہاں سر کے بال ختم ہوتے  
ہیں۔

## ف - و

مَوْتُ الْفَوَات - مرگ ناگہانی  
مَوَاتِحُ الْقُرْآن - قرآن مجید کی سورتوں کے اوّل  
کلمات جیسے اَلَمْ حَسْبُ - وغیرہ

فَوَاد - دل بقول بعض ہر وہ عضو جس کا تعلق  
نخرے سے ہو، جیسے بگڑ۔ پھیپھڑا۔ دل  
ج۔: اَفْسَادَةٌ

فَوَاد - دل۔  
فَوَاسٍ - ہانڈی کا اُبال۔  
فَوَاسٍ - فَوَاسَان (ن) دشمنی اور غصّہ کا جوش  
مارنا۔ مشک وغیرہ کی خوشبو پھیلانا۔

فَوَارَةٌ - ہانڈی کا اُبال۔  
فَوَارَةٌ - پانی کا چشمہ۔

فَوَاقٍ - راحت۔ آرام۔ دنیا کی طرف رجوع۔  
فَوَاقٍ - بچکی۔ موت کی بچکی۔ وقفہ جو دودھ  
دوہنے کے بعد دوبارہ دوہنے تک  
ہو۔ ج۔: اَفْوَقَةٌ - آرام۔ آنا۔ مہن

(ن) بچکی آنا۔

قَوَاكِبُ - میسے قسم قسم کے۔ وار۔ قَاكِبَةٌ  
 قَوْتُ - دُؤَالِکِبُوں کے درمیان کا شکاف۔  
 جہ۔ آقَوَات۔  
 قَوْتُ رَفِیْحٌ - وہ اس کو دیکھ رہے مگر اس  
 تک پہنچ نہیں پاتا۔  
 (جَعَلَ اللّٰهُ رِزْقًا) قَوْتُ قِمْلٍ - (دعا بعد)  
 روزی اسے ملے مگر مستحک نہ پہنچے۔  
 قَوْتُ - قَوَات - (ن) جاتا رہتا۔ گذر جاتا۔  
 قَوَّةٌ - ایک درخت کی جڑ۔ ایک دوا۔  
 قَوْتُ بَیْرٍ - (پودہ کا معرب) ایک بوٹی جیسے نصاریٰ  
 متبرک سمجھتے ہیں۔  
 قَوْتُوَعِیْسَ اَن - قَوْتُوَعِیْسَ اَن - (تصویر (د)  
 قَوُّوج - گروہ۔ جہ۔ آقَوَاجِ جہ۔ آقَوَاجِ  
 قَوُّوج - قِیْلَمٌ - قَوُّوج - قَوْحَانَ یَحْمَدَان (ن) (ن)  
 مشک وغیرہ کی خوشبو کا بھڑکانا۔ ہانڈی  
 وغیرہ کا جوش مارنا۔ زخم کا خون لے آنا  
 (لوٹ مار) کا بازار گرم ہونا۔  
 قَوُّوج - قَوْحَانَ - (ن) ص) ریح شکم کا حَاجِ  
 ہونا۔ بُو کا پھیلنا۔  
 قَوُّود - سر کی دو جہانوں میں سے سر جہاں بوبہ  
 کا لٹھا۔ بورہ۔ گروہ۔ جہ۔ آقَوَاد  
 مع (ن) طانا۔ مال کا جاتا رہنا۔ حَر  
 جانا۔ مال کا قائم رہنا۔  
 قَوُّوسٌ - قَوُّوسٌ - قَوُّوسَان - (ن) ہانڈی و  
 چشمہ وغیرہ کا جوش مارنا۔ جوش میں لانا  
 قَوُّوسٌ - جوش۔ بجلت۔ روش۔  
 قَوُّوسٌ - ہرن کے بچے۔ ہرن لے۔  
 قَوُّوسَان - (ن) ارگ کا پھولکانا۔  
 قَوُّوسَانُ الْجَبَلِ - پہاڑ کی پشت۔ پہاڑ کا سامنے  
 دیکھنا۔  
 قَوَاكِبُ الْحَصَى - گرمی کی سختی اور اس کا شباب  
 قَوَاكِبُ الْعِشَاءِ عِشَاءٌ تَمَازُکَ بَعْدَ وَقْتِ  
 قَوَاكِبُ الْأَمْسَانِ - ٹوٹھ برش (د)  
 قَوَاكِبُ فِی کَثْرَتِیْہِ - کارخانہ۔ فیکٹری (د)  
 قَوَسٌ - ہلاک ہو جانا۔ مرجانا (لغات اضراد  
 سے ہے) (ب) کسی چیز کو لے جانا  
 کامیاب ہونا (من) رانی پانا۔  
 چھوٹنا۔  
 قَوَّصِیْ - برابر کے لوگ جن کے درمیان کوئی بڑا  
 اور سردار نہ ہو۔ غیر منظم گروہ۔  
 قَوَّصِیَّةٌ - انار کی۔ سوشلزم۔  
 قَوَّطَ - کپڑا جو سندھ کی طرف سے لاتے ہیں  
 منقش چادر۔ داری دار چادر (د)  
 تولیہ۔ جہ۔ قَوَط  
 قَوَّطَ الشَّمَقِیَّةَ - میز پوش (کھانا کھانے کی میز کا)  
 قَوَّظ - موت۔ ہلاکت۔  
 قَوَّظ - قَوَّظ - (ن) مرجانا۔  
 قَوَّعَ - خوشبو۔ زہری گرمی اور سوزش صبح  
 شام۔  
 قَوَّغ - (س) منہ کا بڑا ہونا خوشبو کا ممکن۔  
 قَوَّغَ - خوشبو کی مہک۔  
 قَوَّوْف - سفیدی جو نوجوانوں کے ناخن پر پیدا  
 ہو جاتی ہے۔ ایک طرح کی مینی چادر  
 تھوڑی چیز۔ جہ۔ آقَوَات  
 قَوَّوْفَل - پھالیہ۔  
 قَوَّوْق - اوپر۔  
 قَوَّوْق - قَوَّوْقَان - (ن) اوپر تر ہونا۔  
 ہچک آنا۔

قَوَاكِبُ - میسے قسم قسم کے۔ وار۔ قَاكِبَةٌ  
 قَوْتُ - دُؤَالِکِبُوں کے درمیان کا شکاف۔  
 جہ۔ آقَوَات۔  
 قَوْتُ رَفِیْحٌ - وہ اس کو دیکھ رہے مگر اس  
 تک پہنچ نہیں پاتا۔  
 (جَعَلَ اللّٰهُ رِزْقًا) قَوْتُ قِمْلٍ - (دعا بعد)  
 روزی اسے ملے مگر مستحک نہ پہنچے۔  
 قَوْتُ - قَوَات - (ن) جاتا رہتا۔ گذر جاتا۔  
 قَوَّةٌ - ایک درخت کی جڑ۔ ایک دوا۔  
 قَوْتُ بَیْرٍ - (پودہ کا معرب) ایک بوٹی جیسے نصاریٰ  
 متبرک سمجھتے ہیں۔  
 قَوْتُوَعِیْسَ اَن - قَوْتُوَعِیْسَ اَن - (تصویر (د)  
 قَوُّوج - گروہ۔ جہ۔ آقَوَاجِ جہ۔ آقَوَاجِ  
 قَوُّوج - قِیْلَمٌ - قَوُّوج - قَوْحَانَ یَحْمَدَان (ن) (ن)  
 مشک وغیرہ کی خوشبو کا بھڑکانا۔ ہانڈی  
 وغیرہ کا جوش مارنا۔ زخم کا خون لے آنا  
 (لوٹ مار) کا بازار گرم ہونا۔  
 قَوُّوج - قَوْحَانَ - (ن) ص) ریح شکم کا حَاجِ  
 ہونا۔ بُو کا پھیلنا۔  
 قَوُّود - سر کی دو جہانوں میں سے سر جہاں بوبہ  
 کا لٹھا۔ بورہ۔ گروہ۔ جہ۔ آقَوَاد  
 مع (ن) طانا۔ مال کا جاتا رہنا۔ حَر  
 جانا۔ مال کا قائم رہنا۔  
 قَوُّوسٌ - قَوُّوسٌ - قَوُّوسَان - (ن) ہانڈی و  
 چشمہ وغیرہ کا جوش مارنا۔ جوش میں لانا  
 قَوُّوسٌ - جوش۔ بجلت۔ روش۔  
 قَوُّوسٌ - ہرن کے بچے۔ ہرن لے۔  
 قَوُّوسَان - (ن) ارگ کا پھولکانا۔  
 قَوُّوسَانُ الْجَبَلِ - پہاڑ کی پشت۔ پہاڑ کا سامنے



وہ شخص جو اپنی رائے اور علم میں جیتتا ہو

(مذکر مؤنث)

فُوقِیْقَہ - چوہا -

فہد - (س) اپنے فہم منصبی اور مزدوری کام سے غافل ہو کر سو جانا۔ چیتے کی طرح

لمبی اور عقلیت کی نیند سونا۔

فہد - جیتا - (م) فہدۃ - جہ - آفہدۃ

فہود بالان کے بیچ میں ایک بیخ۔

مص (ف) کسی کی غیر جانبری میں کام

کو خوبی کے ساتھ انجام دینا۔

فہدس - تندرست و پر گوشت جوان آدمی۔

جہ - فہادس

فہس - یہودیوں کا مدرسہ جہاں عید کے دن

جمع ہوتے ہیں اُن کے جشن منانے کا

دن۔

فہس (ف) ایک عورت کے ساتھ بغیر انزال

کے جماع کرنا۔ پھر دوسری سے جماع کرنا

اور انزال کرنا۔

فہس - پتھر جس سے پتھیلی بھر جائے پتھر جس سے

خرد ٹوڑتے ہیں جہ - آفہس - فہوس

قریش کے قبیلہ کا باپ فہرن مالک بن نصر

بن کنانہ۔

فہس - فہس کا معرب - انڈکس -

فہسۃ - کتاب کی فہرست لکھنا۔

فہس - (ن) سر توڑ ڈالنا۔

فہسۃ - اونٹوں کی خوب دیکھ بھال کرنے والا۔

فہس - (ف) گردن کی جلا پر مارتا۔

فہس - (س) فہس کا لبریز ہونا لبر

بھرا ہوا ہونا۔

فُوق - راستہ کا ابتدائی حصہ۔ ذکر کی جڑ لیے

تقد کا اینٹا اینٹا آدمی۔ تیر کا سوار

جہ - آفواق - فُوق - کلام کا انداز

عورت کی فرج۔ جانب۔ زبان کا سرا

منہ کا دانہ۔

فُوقۃ - تیر کا سوار لکھنے کا بلند قامت آدمی

فُوق - بالکل چنا۔ واہ - فُوقۃ -

فُوق - لہسن کیوں چنا۔ روٹی۔ ہر قسم کا

غذہ جس کی روٹی پک سکے۔ لہسن اور پیاز

کی گٹھی۔

فُوق - ٹکڑے۔ ٹکڑے۔

فُوقۃ - خوشہ جو چوہو دو انگلیوں سے اٹھائی جا

سکے۔ جہ - فُوق -

فُوقۃ - فونوگراف (د)

فُوقۃ - فاقۃ - فہدۃ - فہدۃ - منہ کا دانہ جہ -

آفواہ - آفہاہ - دانہ - انڈی کا

مصالحہ جو شہود اور دو یہ جن سے خوشبو

بنائی جائے۔ پھول کا رنگ۔ ہر چیز

کی قسم جہ - آفواہ - آفویہ -

فُوقۃ - دہن کی فراخی مص (س) فراخ دہن

ہونا۔ دانوں کا نکلنا یا دراز ہونا۔

فُوقۃ - فُوقۃ - (ن) بات کہنا۔

فُوقۃ - فُوقۃ - بڑے منہ کا توں۔

فُوقۃ - آدمیوں کا شور و غوغا۔ ہر چیز کا اڑیں

حصہ۔

فُوقۃ - گلی۔ راستہ۔ ندی نالہ وغیرہ کا دانہ

شور و غل۔

فُوقۃ - فریہ اندام کمال الخفقت لڑکا۔ جہ -

فُوقۃ - مہ - فُوقۃ -

ارزانی میں (رض م) فراخ ہونا ارزا  
ہونا۔ سستا ہونا۔

قیحآء۔ چوڑی۔ فراخ وسیع۔ حد: آخیحہ جہ،  
قیحیحہ۔

(ارض) قیحیحق۔ فراخ زمین

قیحیحخ (رض) بلند ہونا منتشر ہونا پرگندہ ہونا  
قیحید۔ (رض) اناز سے چلنا۔ مرجانا۔ ہلاک ہوجانا  
مال کا تلف ہونا۔

قیحیکروا۔ وائسرائے (د)

قیحیش۔ قیحیشہ۔ عضو تناسل کا سر سپاری۔

قیحیض۔ (رض) دور چلا جانا۔ بیان کرنا۔

قیحیصل۔ حاکم حکم فیصل۔ دو لوگ فیصلہ حکم ہوتے  
اور ناحق کو الگ الگ کر دے۔

قیحیصلی۔ حاکم۔

قیحیض۔ موت۔ تیز رفتار گھوڑا جہ:۔ آقیحاض  
قیحیوض۔

قیحیض۔ قیحیوض۔ قیحیضان۔ (رض) پانی وغیرہ کا  
کثرت سے ہونا۔ اتنا کہ بہنے لگے۔ ندی

موجود وغیرہ کا بھر کر چلنا۔ بھید ظاہر کرنا۔  
قیحیض۔ قیحیوض۔ (رض) مرجانا پھیل جانا کسی  
چیز کا کثرت سے ہونا۔

قیحیضۃ الدامح۔ آنسوؤں کی روانی۔

قیحیظ۔ موت۔

قیحیظ۔ قیحیظ۔ قیحیظان۔ مرجانا جان نکل جانا ہلاک ہونا  
قیحیظ الامم۔ قیحیظ الامم۔ کام کا آغاز کام کی ابتداء۔

قیحیظ۔ ہموار جگہ۔ جہ:۔ آقیحیظ

قیحیظآء۔ فراخ بیابان جہ:۔ قیحیظآ۔

قیحیظق۔ مری کی آواز میں (رض) مرجانا۔ جان  
دے دینا۔

قیحیظقہ۔ گردن کی جڑ کی بڑی  
فہلقل۔ (غیر منفرد) باطل۔ قلع۔

فہم۔ فہم۔ فہامۃ (س) جانا۔ دل سے  
کسی چیز کو سمجھنا۔

فہم۔ سمجھنا۔ بات کو جلد سمجھنے والا زمین  
قیحیظقہ۔ ایک قسم کا کھانا جو دودھ اور آٹے سے  
بتلا ہے۔

فہد۔ وہ شخص جو کلام کے اندر عاجز ہو۔

## ف - ی

ف۔ حرف جر سے ظرف زمان اور ظرف مکان  
کے لئے آتا ہے، میں۔ پنج۔ اندر (اس  
کے علاوہ اور معنی بھی) اوپر۔ ساتھ۔ تک

فیثی۔ زوال۔ آفتاب کے بعد کاسیہ غنیمت  
محصول میں جہ:۔ آقیثاء قیوۃ میں

(رض) لوٹنا۔ پھرنا۔

فیثاء۔ واپسی۔ وقت۔ ایک پرندہ۔

(پھر) قیثاح۔ فراخ اور وسیع دریا۔

(ناقۃ) قیثا حۃ۔ بڑے تھنوں اور بہت دودھ  
والی اونٹنی۔

قیثاد۔ نر اونٹ۔ اتر کر چلنے والا آدمی۔

قیثاش۔ ڈینگ مارنے والا۔ نیک آدمی بڑا دلہند  
اور صاحب فضل سردار۔

قیثاش۔ مفالینشہ۔ ایک دوسرے کے ساتھ فخر کرنا  
قیثاض۔ جو امر و بہت جیننے والا۔ مہم قیثاض  
ندی پانی سے بھری ہوئی۔

قیثال ہاتھی والا۔ فیلیان۔

قیثیح۔ قیثیحان۔ (رض) حرارت کا تیز ہونا۔

قیثیح۔ قیووح۔ زمین کی پیداوار کی کثرت فراخی

فِیقَة - دودھ دوسنے کے دوران میں جو دودھ پینا  
 پستانوں میں جمع ہو جائے۔ جہ زفیقۃ فیقۃ  
 فِیقَة الضحیٰ - دن کا چڑھنا۔

فِیْکِی - بہت غور و فکر کرنے والا۔  
 فِیْل - ہاتھی جہ۔ آفِیَال - فِیُول - فِیلَة (م)

فِیْلَة - کمینہ آدمی۔  
 فِیْل الرّای - کم عقل آدمی جہ۔ آفِیَال الرّای  
 فِیْل الرّای - کم عقل آدمی سبے وقت۔ اجتن۔

فِیْل اللّٰہ - بہت مڑنا۔  
 فِیْلَة - فِیْلُوْلَة (صن) رائے میں غلطی کرنا اور فیصلہ

کرنے کی قوت کا کمزور اور ضعیف ہو جانا۔  
 فِیْلَسُوْف - (یونانی) حکمت کو دوست رکھنے والا۔

(جَبَلًا) دوست رکھنے والا سُوْفَا حکمت  
 فِیْلَق - مصیبت اور سختی۔ شکر پانچ ہزار کی پلین۔  
 جسیم آدمی جہ۔ فِیَالِیْق

فِیْلَم - فلم۔ سینما کی تصویر (د)  
 فِیْلُوْجِیَا - علم اللسان۔ (د)

فِیْم - سخت و مضبوط آدمی جہ۔ فِیْمُوْج  
 فِیْمَان - (مغرب) عمدہ پیمان۔

فِیْمَانِیْن - خوبصورت عورت لمبے بالوں والی۔  
 فِیْمَنَة - گھنٹہ راعی جہ۔ فِیْمَانَات

فِیْمِیْقِیْتَة - فینشا۔ ایک قدیم تجارتی ملک جو بحر اربعین  
 کے ساحل پر آباد تھا۔

فِیْمَہِج - شراب۔ شراب کا پیمانہ جہ۔ فِیْمَہِج  
 (أرض ذات) فِیْمُوْص - زمین جس میں چشمے وغیرہ

کثرت سے جاری ہوں۔  
 ق - ق

قَاب - آنے والے سال کے بعد کا سال۔

قَاب - قبضہ کمان سے گردش کمان تک (ایک  
 کمان میں دو قاب ہوتے ہیں) مقدار  
 اندازہ۔

قَاب - قَاب - قَاب (س) شکم سیر ہو کر پینا۔  
 قَاب - (ف) کھانا پینا۔

قَابَة - رعد۔ کڑک۔ بارش کا قطرہ۔  
 قَابِیْس - آگ کا خواہاں۔ جہ۔ آقَبَاس

قَابِیْصَة - جماعت۔ گروہ۔ ٹولی جہ۔ قَوَابِیْص  
 قَابِیْص - پنجہ سے پکڑنے والا۔ تیز رفتار۔ تیزی  
 سے چلانے والا۔

قَابِیْصُ الْأَدْوَامِ - عزرائیل۔ ملک الموت۔  
 قَابِیْح - ہاپنا ہوا۔

قَابِیْل - آنے والا سال۔ قبول کرنے والا۔  
 قَابِیْلَة - آنے والی رات۔ دانی جنائی۔ جہ۔  
 قَوَابِیْل

قَابِیْلَة - وہ حالت جس میں کوئی چیز تاثر اور  
 افعال کو متاثر ہونے کے قابل ہو جائے۔

قَابُودَان - جہاز کا کپتان (د)  
 قَابُوْص - خوش رنگ اور خوبصورت آدمی۔

قَابَس - فارس کے ایک بادشاہ کا نام (کا دوس  
 کا مغرب)

قَابِیْر - بیوی بچوں کے خرچ میں تنگی کرنے والا  
 پالان اور ترین۔ اچھی ساخت کی جو

جانور کی پیٹھ کو زخمی نہ کرے۔  
 قَابِل - جان سے مار ڈالنے والا۔ جہ۔  
 قَاتِلَة - قَاتِل

قَاتِم - سیاہ۔ جہ۔ قَوَاتِم  
 قَاتِن - سیاہ فام۔ سیاہ رنگ کا۔

قَاتِق - راستہ کا ابتدائی حصہ۔ ذکر کی جڑ۔

رکھا جاتا ہے ایک برتن جس سے  
حوضوں کا پانی نکالا جاتا ہے۔ ج۔۔  
قَوَّادِیْس -

قَازِيَّة - تھوڑی جماعت۔ بیابان سے قَطْرہ زدہ  
ہو کر آنے والا گردہ۔ ج۔۔ قَوَّادِی  
قَازِف - پتھر پھینکنے والا۔ تیز رفتار اور تپتی ہوئی  
اور ٹوں کے آگے ڈال دے اور آگے آگے  
چلے۔

قَازِوْس - بدرجہ آدمی جو کسی سے ملاقات نہ کرے  
قَازِوْرَة - بدرجہ آدمی غیرت مند آدمی چیرہ کو ناپسند  
کر کے نہ کھانے والا۔ زنا۔

قَازِيَّة - وہ گردہ جو سب سے پہلے کسی کے پاس  
آئے۔ ج۔۔ قَوَّادِی -

قَاس - ایک قسم کا روغن جو رمال سے بنتا ہے۔  
اور کشتیوں پر لگا یا جاتا ہے۔

قَاسِم - ٹھنڈا۔ سرد۔ م۔۔ قَازِرَة -  
قَازِرَة - برا نظم۔ ج۔۔ قَاسَمَات

قَازِب - ڈونگی جو بڑی کشتی کے پہلو میں رکھی جاتی  
ہے۔ ج۔۔ قَوَّادِیْب رات میں پانی کا  
متلاشی۔ تلوار وغیرہ کے لئے میان بنانے  
والا۔

قَازِرَة - پتھر کی چٹان۔ کالا پتھر۔ ج۔۔ قَازِرَات  
قَازِرَة قَوَّاس -

قَازِرَان - دیکھ کی ادھ۔ عرب کے ایک تیر انداز  
قبیلہ کا نام۔ عرب کے ایک چھوٹے  
سے پہاڑ کا نام۔

قَازِرِس - سخت جاڑا۔ پرانی پیڑ  
قَازِرِص - ترش دودھ جس میں اور دودھ ملانے

ج۔۔ قَازِرَة  
سَعَالُ قَاجِب - سخت کھانسی  
قَاحَة - مکان کی فساد خیز اور گنجائش۔  
قَاحِرَات - سختیاں۔ مصائب۔ بلائیں۔

قَاحِرَان (زمان) قَاحِرَة سخت زمانہ بصیرت کا وقت۔  
ج۔۔ قَوَّاحِط

قَاحِص - کھانے والا۔ پیالہ میں سے چیرہ کو باہر نکالنے  
والا۔ ج۔۔ قَاحِص - زور کی بارش لپکانک  
اچھانے والی بارش۔

قَاحِل - خشک۔ سوکھا۔  
قَاحِر - کلاوی کا شگاف۔ دانت کی نیلا ہٹاؤ۔

قَاحِرَة - دانت کا کھڑا۔ کلاوی کھانے والا کھڑا۔  
ج۔۔ قَوَّاحِر

قَاحِی - قوی۔ توانا۔ ہانڈی کا پکا ہوا۔  
قَاحِیَة قَاحِیَة - وراثت جس کا سفر آسان اور

بے مشقت ہو۔  
قَاحِی - بروی کشتی ج۔۔ قَوَّاحِیْس اندلس کا ایک  
جزیرہ۔ ہرات کا ایک قصبہ۔

قَاحِیَّة - کوزہ کے قریب ایک بستی۔  
قَاحِی - سفر سے آنے والا۔ ج۔۔ قَاحِی۔ قَاحِی

قَاحِی - انسان آدمی کا سر۔ ج۔۔ قَوَّاحِیْم  
قَاحِیْم الرِّجُل۔ پالان کا اگلا حصہ۔

قَاحِیْمَة - مرغ کے بازو کے لمبے پر۔ پالان کا اگلا  
حصہ۔ ج۔۔ قَوَّاحِیْم - قَاحِی

قَاحِیْمَة الجیش - فوج کا وہ حصہ جو لشکر کے آگے  
آگے چلتا رہتا ہے۔ مقدمہ الجیش۔

قَاحِیْمَان - قَاحِیْمَان جو ہائے کے اگلے دو پستان  
قَاحِیْمَان - وہ برتن جس کے اندر پینے کے وقت غلہ

قاسی - سخت و غلیظ جہ: قَسَاة م:۔  
قاسیت جہ: قَوَاسِي۔

رَکِبَة (قاسیتہ) - بہت اندھیری رات۔  
رَکِبَة (قاسیتہ) - بجز زمین جس میں کھنڈے نہ آئے۔  
قاسیرۃ - پہلی چوٹ جو کھال کو چیر دے۔ عورت  
جو صاف کرنے کے لئے چہرہ کی کھال  
رگڑے۔ زور کی بارش جو زمین کو صاف  
کردے جہ: قَوَاسِر۔

قاسورۃ - خشک سال جو سختی کی وجہ سے گویا ہر چیز  
کی کھال اُتار دیتا ہے۔ نامبارک۔

قاسی - بیکار پھلکا جہ: قَسَاة۔

قاص - افسانہ گو۔ حالات بیان کرنے والا۔  
جہ: قَصَاص۔

قاصب - بانسری بجانے والا۔ بانسری بنانے والا  
قسلی - بجلی جس کے ساتھ کروک ہو۔  
جہ: قَصَاب۔

قاصد (سفن) - قاصد - سہل و آسان سفر۔  
قاصد (طریق) - قاصد - سیدھا راستہ جہ: قَوَاصِد۔  
قاصد (منازل) - قاصد - ٹھنڈا پانی۔

قاصرة الطرف - عورت جو اپنے شوہر کے سوا  
کسی پر نگاہ نہ ڈالے۔

قاصعوا - جنگل چوہے کا بل۔ جہ: قَوَاصِع۔  
قاصف - زور سے کڑکنے والی بجلی۔ رنج قاصف  
وقاصفة آندھی۔ جہ: قَوَاصِف۔

قاصیل - تیز تلوار۔

قاصی - دور ہونے والا۔ بعید۔ جہ: اَقْصَا۔  
(م) قاصیتہ جہ: قَوَاصِي۔

قاصیتہ - کنارہ جہان۔ بڑی عمر کی بکری۔ بیڑ  
سے علیحدہ ہو جانے والی بکری۔ جہ:۔

سے اس کی ترشی زائل کر دی جائے۔  
قارِعہ - قیامت۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم  
کے ایک لشکر کا نام۔ زمانہ کی سختی۔ جہ:۔  
قوانع۔

قارِعَةُ الدَّهْلِ - گھر کا صحن  
قارِعَةُ الطَّرِيقِ - راستہ کا وہ حصہ جو عام گزرگاہ  
ہو۔

قارورۃ - شیشی۔ بوتل۔

قارون - ایک نحو شبودار ہوئی جو دوا میں کام  
آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ  
کا ایک دولت مند نبیل آدمی جو زمین میں  
دھنسا دیا گیا تھا۔

قاری - پڑھنے والا۔ عبادت گزار۔ پڑھنے کا  
آدمی۔ جہ: قَرِيء۔ قَارِيُونَ قَوْمٌ  
آبادی میں رہنے والا۔ بستی میں اُترنے والا  
قاریۃ - نیزہ کی نوک۔ تلوار وغیرہ کی دھار۔ شہر

بستی۔ ایک مبارک فال پرندہ۔ جہ:۔  
قواری۔

قاریط - اہلی کایج۔ تنم ترہندی۔

قاریب - بہت حریفیں۔ سوداگر جو تری اور کھلی  
دونوں ذریعہ سے تجارت کرے۔

قاریح - بلند اور اونچی نکلی ہوئی چیز۔ موٹا اور  
سخت مردانہ عضو مخصوص۔

(سبح) قاریح - گراں نرخ۔

قارورۃ - پانی کا کوزہ۔ گلاس۔ شست (د)  
بوتل۔ جہ: قَوَازِيْن۔

قاروب (قاروب) - قاروب - موٹا اور سخت کپڑا

قاروب (قاروب) - قاروب - سخت و مضبوط نیزہ۔

قارسط - ظالم و جاہل۔ جہ: قَسَاط۔

قَوَّاصِي - قَوَّاصِي  
 قَاعِف (سَم) قَاضِي - زہر قاتل -  
 قَاضِب - بہت کاٹنے والی تلوار - جہ - قَوَّاضِب  
 قَضِب  
 قَاضِي - حاکم شرعی - جہ - قَضَاة  
 قَاضِيَّة - موت ختم کرنے والی کام تمام کر دینے  
 والی - اونٹ جس سے خون بہا ادا کیا  
 جاسکے - جہ - قَوَّاضِي -  
 قَاط - قَاطِط - گراں نرخ - مہنگا بھاؤ -  
 قَاطِب - جو تہ بگاڑے رہے - شیر - ترشروادی  
 قَاطِبَة - سب کے سب (یہ لفظ ہمیشہ حال واقع  
 ہوتا ہے) -  
 قَاطِر - ٹپکنے والا -  
 قَاطِرَة - ٹپکنے والی (د) ریل گاڑی - جہ -  
 قَوَّاطِرِي -  
 قَاطِح - کاٹنے والا - کبھی قَاطِح کھٹا دودھ  
 اٹھا کر تہ کو جھیللا دے -  
 قَاطِطَة - کاٹنے والی - فیصلہ کرنے والی - جہ -  
 قَوَّاطِح -  
 قَاطِن - خادم - باشندہ - جہ - قَاطِن - قَاطِنَة  
 حَتَاع - پست اور ہمارا نرم زمین - جہ - قَاطِن  
 قَبِيحَة - قَبِيحَان - آقَوَاع - آقَوَاع -  
 قَاعِب - بھیرا یا جو چلا رہا ہو -  
 قَاعَة الدَّار - گھر کا صحن - (د) کرہ - ہل -  
 قَاعِد - بیٹھنے والا - جہ - قَعُوْد - عورت جس  
 کو تہ حیض آ رہا ہو - تہ اولاد ہو رہی ہو -  
 اُن لوگوں کا گردہ جو جنگ پر نہ جائیں -  
 جہ - قَوَّاعِد -  
 قَاعِدَة المَلِك - قَاعِدَة المَلِك - پایہ تخت -

دار السلطنت -  
 قَاعِف - زور کی بارش - مولانا دھار مینہ  
 قَاعِلَة - لمبا اور بلند پہاڑ - جہ - قَوَّاعِل -  
 قَاع - حررت بھیجی میں سے ایک حررت - ایک  
 پہاڑ کا نام -  
 قَاعِل - سفر سے لوٹنے والا - سوکھی ہوئی کھال  
 یا سوکھے ہوئے مٹھ والا - جہ - قَعَال  
 قَاعِلَة - سفر سے واپس آیا ہوا گروہ - گروہ سفر  
 کو جانے والا (تفاوتاً اس کو بھی قاعظ  
 کہتے ہیں) -  
 قَاعُوس - کھجور کے پھول کا غلاف -  
 قَاعِيَّة - گردن کا پھیلا حصہ - شعر کا آخری حرف  
 جو خود ساکن ہو اور اس سے پہلے ایک  
 یا ایک سے زائد متحرک ہوں - پھر اس سے  
 پہلے ایک ساکن اور پھر ایک یا ایک  
 سے زائد متحرک ہوں - جہ - قَوَّاعِي  
 قَاع - بے وقوف اور بیکے جی کا آدمی -  
 قَاعِلَة - الاچھی (خواہ چھوٹی ہو یا بڑی)  
 قَاعُورَة - قَاعُورَة - آب خوردہ -  
 قَال - بولنے والا - کہنے والا - گلی ڈنڈا - جہ -  
 قَيْلَان  
 قَالٌ ذَقِيل - گفت گو - بات چیت -  
 قَالِب - قالب - بدن - جسم -  
 (ماء) قالب - بلند اور اٹھا ہوا پانی -  
 (ظلم) قَالِيص - کم سایہ -  
 (سفاقة) قَالِيصَة - ہونٹھ سکوٹا ہوا -  
 قَالِيص - عورت بے شوہر - مرد بے عورت -  
 جہ - قَالِيصَة  
 قَالِي - بیزار ہونے والا - بغض رکھنے والا -

قَامَة - انسان کا قدر کمزوری کی چرخی چرس برت سمیت - ج ۱ - قَائِمَة -

قَائِمَة - قرآن پر دار - عاجزی کرنے والا - قَامُوس - سمندر - (د) لغت کی کتاب - کوشری

قَائِمَة - نامیہ - مایوس -

قَائِمَة - جو اپنے نفس پر راضی ہو بخادم - مزدور - ج ۱ - قَائِمَة -

قَائِمَة - شکاری - ج ۱ - قَائِمَة -

قَائِمَة - پرندہ کی انتہائی اور پیٹ کے اندر کی چیز - ج ۱ - قَائِمَة -

قَائِمَة - ہر چیز کی اصل - قاعدہ - متابہ - ج ۱ - قَائِمَة -

قَائِمَة - تعزیرات - نہیں کوڈ

قَائِمَة - قانون فوجداری - کیمیل لارڈ

قَائِمَة - بہر سٹوڈ - (د)

قَائِمَة - نہایت شرح -

قَائِمَة - غالب - زور آور - ج ۱ - قَائِمَة -

قَائِمَة - مہر کا مشہور شہر - سینہ - غالب عورت - ج ۱ - قَائِمَة -

قَائِمَة - خوش عیش - فارغ البال اور ذہین آدمی

ج ۱ - قَائِمَة -

قَائِمَة - خوراک بقدر ضرورت - شیر

قَائِمَة - چرپایہ وغیرہ کو کھینچنے والا - امیر لشکر -

سید سالار - لہا پہاڑ - ج ۱ - قَائِمَة -

قَائِمَة - قَادَة -

القَائِمَة الْأُولَى - القَائِمَة الْعَاہ كَانْدَر

انجیف - (د)

قَائِمَة - کھینچنے والی لمبا تودہ زمین پر پھیلا ہوا

ج ۱ - قَائِمَة -

قَائِمَةُ الْعَرَبِيَّةِ - گاڑی بان - (د)

قَائِمَةُ لِيَوَاءِ - برکیڈر جنرل (د)

قَائِمَة - دوپہر کو سونے والا - ج ۱ - قَائِمَة -

قَائِمَة - دوپہر -

قَائِمَة - سرائخ رساں - کھوج گانے والا - ج

قَائِمَة -

قَائِمَة - (داوی) کہنے والا - ج ۱ - قَائِمَة -

قَائِمَة - قَائِمَة بَدَائِي (دوپہر کو سونے

والا - ج ۱ - قَائِمَة -

قَائِمَة - کھروا ہوا مرد - ج ۱ - قَائِمَة -

قَائِمَة السَّيْفِ - تلوار کا قبضہ

قَائِمَة - کھڑی ہونے والی اللہ آہ - چرپایہ کی

لہنگ (الکتاب) کتاب کا ایک ورق

رجسٹر - نمرت (السيف) تلوار کا

قبضہ (عين) قَائِمَة آنکھ جس کی

روکشی جاتی رہی ہو اور ڈھیلا بدستور ہو

قَائِمَة مَقَاهِرُ لَعْنِيْنَة كَرْمَل - ڈپٹی کمشنر (د)

قَائِمَة - (د) [ل] کسی کی بات ماننا اور

اس کا مطیع ہو جانا -

## ق - ب

قَب - سردار - بادشاہ مص (مندان)

خشک ہو جانا - کاٹ دینا -

قَبَاءُ - (د) کھانا کھانا پیٹ بھر کر پانی پینا

قَبَاءُ - مدینہ منورہ کے پاس ایک مقام -

قَبَا - ایک بوٹی کا نام مص (د) کسی چیز کو

کھولنا اور پھیلا دینا -

قَبَاءُ - اچکن شیر دانی - ج ۱ - آقَبِيَّة

قَبَابَة - ہوا کے ٹیکل - ج ۱ - قَبَائِب -

قباض - پنجرے پکڑنے والا۔ جلد ہانکنے والا۔  
 قباض - چوڑا آئینہ۔ خار پشت (سیٹی) بیوقوف  
 آدمی۔ ایک قسم کا پیمانہ۔  
 قباض - خنزیر۔ سور۔ بزدل۔ نامرد۔  
 قباضی - بڑے سرواں آدمی۔  
 قبائل النعل - چپل کے آگے کا تسمہ جو انگلیوں  
 کے اندر رہتا ہے۔  
 قبالة - قبولیت (تقبیل) کا حاصل مصدر  
 مع (ن) مع (س) مقبول ہونا۔  
 قبالة - دانی پنا مع (ن) زات آجاتا  
 قبالة - (ن) مع (س) دانی کا پیشہ کرنا  
 قبالة - روپرو۔ آئے سامنے۔  
 قبائ - ایک پلڑے کی ترازو۔ امانت دار۔  
 قبیب - کمر کا پتلا پن مع (س) پتلی کمر والا  
 ہونا۔ لاغر شکم ہونا۔  
 قبیلہ - کار (د)  
 قبیلہ - گول عمارت۔ گنبد (د) مینار۔ جبہ۔  
 قبیب - قبیب  
 قبیلہ - بکری کا ادھر اور مدھ جبہ۔ قبیلت  
 قبیلت - (مع) کسی چیز کو پنجرے سے پکڑنا۔  
 قبیلیم - چکور (بزرگ موزن) (بک) کا معرب  
 واہ۔ قبیلہ۔  
 قبیلہ - قبیلہ۔ قبیلہ (ک) بد شکل اور بھونڈا  
 ہونا۔  
 قبیلہ - بد صورتی۔  
 قبیلہ - گور۔ قیر۔ جبہ۔ قبیلہ  
 قبیلہ - قبیلہ۔ چنڈول۔ چکاوک۔ جبہ۔ قبیلہ  
 قبیلہ - بہت اچھا تانیا۔ جزیرہ۔ ساتیس  
 قبیلہ - چیز کی اصل۔

قبض - شعلہ۔ آگ کی چمکاری۔ انگارہ۔  
 قبض - قباضت۔ (س) لٹ۔ نرکاتیر جھتی والا ہونا  
 قبض - جلد حاصل کرنے والا سائڈ۔  
 قبض - (مع) آگ لینا۔ فائدہ حاصل کرنا۔  
 فائدہ پہنچانا۔  
 قبض - (مع) پوروں سے پکڑنا خوش کرنا  
 سیر ہونے سے پہلے کسی کو پینے سے  
 روکنا۔  
 قبض - بڑے سرواں۔ پیٹ کا درد۔ درد جگر  
 مع (س) بڑے سرواں ہونا۔ کھجور  
 کھانے سے درد جگر میں مبتلا ہونا۔  
 قبض - (مع) پنجرے سے پکڑنا۔ سمیٹ دینا۔ پرندہ  
 کا اڑھانا (علی) کسی چیز کو تھامنا۔  
 (مع) بازر مینا۔ دست کش ہونا  
 (محولاً) امر جانا۔  
 قبض - پنجرے سے پکڑنا ہوا۔  
 قبضتہ - مٹھی بھر چیز۔ مٹھی مٹی ہوتی چیز۔ ٹک  
 قبضتہ - جلد پکڑنے والا۔ خوب خبر رکھنے والا۔  
 قبضتہ - سرفصتہ پکڑ کر جلد چھوڑ دینے والا۔  
 قبضتہ - انگریزی ٹوپی (د)  
 قبضتہ - اہل مصر کا ایک گردہ۔ واہ۔ قبضتہ۔  
 قبضتہ - ہاتھ سے جمع کرنا اور سمیٹنا۔  
 قبضتہ - چڑیل سے چھوٹا ایک جانور جو ہمیشہ چرے  
 کے بل کے پاس رہتا ہے۔  
 قبضتہ - بڑے ٹیل ڈول کا آدمی۔  
 قبضتہ - بڑے تن و قوش کا اونٹ۔ سخت جسم کا  
 اور بڑے ٹیل ڈول کا آدمی۔ ایک  
 دریائی جانور۔  
 قبضتہ - بہت چھوٹا۔ عورت کی فرج۔ کھڑاؤں



قَبْلَة - اونٹ کے دانٹوں کی آواز۔ گھوڑے اور شیر کے پیٹ کی آواز میں بے وقت ہوتا۔ اونٹ کا بلبلانا۔

قَبْل - پہلے (بعد کی تفسیر)۔  
قَبْل - قَبُول - (ن) باد صبا کا چلنا۔

قَبْل - (ت) جوتی کا تسمہ بنانا۔ جوتے پر تسمہ باندھنا۔

قَبْل - قصد - طرف۔

قَبْل - عورت کی فرج۔ مرد کا عضو مخصوص موسم کا شروع۔

قَبْل - (ن) آنکھ کی پتلی کا ناک کی طرف اچھانا۔ بھینکا ہوجانا۔ بغیر سوچے بات کرنا۔ سب سے پہلے دیکھنا۔

قَبْل - نزدیک۔ پاس۔ ظاہر و نمایاں۔  
قَبْل - ٹیڑھی آنکھ والی عورت (آقَبْل) کا موٹا، بکری جس کے سینگ جھک آتے ہوں۔ ج۔: قَبْل۔

قَبْلَة - ایک قسم کا مہرہ جس کو عورتیں مردوں کے بند کرنے کے لئے بلبورا نسون کے استعمال کرتی ہیں۔

قَبْلَة - وہ سمت کہ جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ جنت۔ کعبہ شریف جس چیز کو دربرو کر لیا جائے۔ آٹے سانے۔

قَبْلَة - پوسہ۔ مقبولیت۔

قَبْلَة - تکلہ کا دمڑا۔ کھانسی۔ ریت کا گول تودہ۔ ج۔: قَبْل۔

قَبْو - (ن) انگلیوں سے چیز کو جمع کرنا۔ چننا۔  
قَبْوَب - (رض) گوشت وغیرہ کا خشک ہونا۔

جھکڑے کے وقت آواز بلند کرنا۔

قَبْوَدَان - جہاز کا کپستان (د)  
قَبْوَس - نرم زمین جو پہاڑی نہ ہو بلکہ پست ہو  
قَبْوَع - (ت) (القنص) خاریشت (سیٹی) کا اپنی کھال میں سرد داخل کر کے چھپ جانا (فی) چلنا۔ جانا۔

قَبْوَعَة - اُدنی لُپنی ج۔: قَبَا بِنِج (د)  
قَبْوَل - دانی۔ باد صبا۔ وہ ہوا جو کعبہ شریف کے دروازہ کے سامنے چلتی ہے حسن و جمال۔ ہنیاٹ۔ لباس۔ قبولیت مص (س) ڈول کو ساقی سے لینا۔

قَبْوَل - قبول۔ (س) ڈول کو ساقی سے لینا سامنے آنا۔ قبول کرنا۔ لینا۔ لے جانا۔  
[علی] کسی چیز کو لازم پکڑنا۔ شروع کرنا

قَبْوَن - (ض) زمین میں چلنا۔  
قَبْوِم - بد شکل۔ بھونڈا۔ بُرا۔ ج۔: قَبَام۔ قَبَائِح  
قَبْوَحَة - بری بھونڈی۔ ج۔: قَبَائِح۔ قَبَام۔  
قَبْوَيْمَة - کنکریوں کا تودہ۔ جمع شدہ خاک۔ ج۔: قَبَامِص۔

قَبْوَيْمَة - تلوار۔ چمڑی وغیرہ کے قبضہ پر لگا ہوا لوہا۔ چاندی وغیرہ۔  
قَبْوَيْمَة - سُور کی ناک کا تھننا۔

قَبْوَيْل - دالی۔ بچ جانے والی۔ شوہر۔ سردار  
قَبْوَيْلَة - ایک باپ کی اولاد کا گروہ۔ لگام کا تسمہ۔ ج۔: قَبَائِل۔

ق - ت

قَت - (ن) کم کرنا۔ آمادہ و تیار کرنا۔ تھوڑا تھوڑا جمع کرنا۔ کسی کے پیچھے چلنا۔ چیل خوری کرنا۔ جھوٹ بولنا (فی) چھپ کر

کسی کے پیچھے اس کا ارادہ معلوم کرنے کے لئے جانا۔

قَتَات - چغل خور۔  
قَتَاد - ایک خاردار سخت قسم کا درخت۔ واہ۔

قَتَادَہ جہ۔ آفتاد  
قَتَار - اگر کی خوشبو۔ مصالحو کی خوشبو جلی ہوئی

بڑی کی بو۔  
قِتَال - مَقَاتِلہ۔ آپس میں کشت و خون

اور جنگ کرنا۔  
قَتَام - قَتَمَہ۔ کالا بخار۔ رطالی کا بخار۔ اندھیرا

تاریکی۔  
قَتَب - پالان۔ جہ۔ آفتاب

قَتَبَہ آنت۔  
قَتَد - پالان کی لکڑی۔ جہ۔ آفتاد۔ قَتُوْد

قَتَرَاہ - گرد و بخار۔ جہ۔ قَتَر  
قَتَل - قَتَلہ۔ (ن) مار ڈالنا۔ بدن پر مارنا۔

شراب کا پانی میں ملانا۔  
قَتِل فُلَان - اس پر لعنت ہو (مخاورہ)

قِتَل - جنگ کرنے والا دشمن۔ وہ جنگ کو اس پر مارنے سے آدمی مر جائے۔ جہ۔ آفتال

دوست مثل و مانند۔ چچا کا بیٹا۔ دلیر  
قَتَلہ یَقِيْنًا - اُسے خوب اچھی طرح جان لینا

قَتَلہ - مارنے کا انداز۔ دہشت۔  
قَتَلِي - مقتول اور مار ڈالے ہوئے۔ واہ۔

قَتِيْل -  
قَتَمَہ - ایک قسم کا خاکستری رنگ جس میں

کچھ سرخی بھی ہوتی ہے۔  
قَتُوْقَتَاء - (ن) خدمت کرنا۔

قَتُوَّة - چغل۔

قَتَوَس - اہل و عیال پر تنگی کرنے والا کمینہ آدمی  
نہایت بخیل۔

قَتَوَس - قَتَر ان جن کسی چیز کو آپس میں بلا  
کر رکھنا کسی چیز کو چھٹ جانا (علیٰ لہجہ)

بہوی بچوں کو پوری طرح کھانے پینے کو  
نزدینا۔

قَتَوَل - بہت کشت و خون بہت کشت و خون  
کرنے والا جہ۔ قَتَل۔ قَتَل مار

ڈالنے والی عورت۔  
قَتُوْم - بخار کا بلند ہونا۔

قَتُوْن - (ن) مشک کا خشک ہونا۔  
قَتِيْل - مقتول (مذکر و مؤنث) جہ۔ قَتَلِي

قَتِيْن - جوش دیا ہوا ریشم۔ خوبصورت عورت  
خوار و ذلیل آدمی۔

## ق - ت

قَت - (ن) کھینچنا۔ اُکھاڑنا۔ دفع کرنا۔ مانگنا  
قَتَاء - لکڑی کھیرے والا۔

قَتَاء - لکڑی کھیرا (جنس) واہ۔ قَتَاوَقَاہ  
قَتَا - (س) کرکڑ کھانا۔ ایسی چیز کھانا کہ چبانے

کے وقت اس کی آواز ہو۔  
قَتَاث - ساز و سامان۔ اسباب۔

قَتَاث - چغل خور۔ عیب گیری کرنے والا۔  
قَتَشِد - (ن) کھیرا کھانا۔

قَتَرَد - گھر کا اسباب۔ بہت بکریوں والا  
آدمی۔ بہت اسباب والا آدمی۔ جہ۔

قَتَارِد -  
قَتَقَتَاہ - پیمانہ کو پوری طرح بھرنا۔ اُکھاڑنے

کے لئے مِیْح کو بلانا۔

تَحَدَّ - کوہان کی جڑ۔ کوہان۔ جہ۔ تَحَدَّ - تَحَدَّ  
تَحَدَّ - پیر فرقت بہت بڑھا۔ شیخ فانی۔ پرانا  
ادب جہ۔ اَفَحَدَّ -

تَحَدَّ - خشک سال۔ سخت چوٹ۔ کال۔  
تَحَدَّ - تَحَدَّ - (ف۔ ص) بارش کا رنگ رہنا۔  
تَحَدَّ - خشک سال ہونا۔

تَحَدَّ - (س) قحط زدہ ہوجانا۔

تَحَدَّ - سخت سال۔ سخت چوٹ۔

تَحَدَّ - (ف) کودنا۔ بے چین ہونا۔ مارنا (ب)  
پچھاڑنا۔

تَحَدَّ - لاٹھی جہ۔ تَحَدَّ - (ص) مارنا زمین پر  
ڈال دینا۔

تَحَدَّ - زمین پر ڈالنا۔ اوپر سے مارنا۔

تَحَدَّ - (ف) کھوپڑی توڑنا۔ کھوپڑی پر مارنا  
چوٹ لگنا۔ پیالہ کی چیز کو کھانا۔ برتن میں  
جو چیز ہو اس کو باہر نکالنا۔ گیسوں وغیرہ  
کو برساتا۔ کوئی چیز لے جانا۔

تَحَدَّ - سر کی کھوپڑی کھوپڑی کا ٹکڑا جبکہ سر  
سے جدا ہوجائے جہ۔ اَفَحَدَّ -

تَحَدَّ - تَحَدَّ - پیالہ مص (ف)  
خوب پینا۔

تَحَدَّ - زوردار گولا۔ جو ہر چیز کو لڑا  
لے جائے۔

تَحَدَّ - تَحَدَّ - سوکھے ہوئے جسم کا بڑھا۔ وہ بڑھا  
جس کی کھال ہڈیوں پر سوکھ گئی ہو۔

تَحَدَّ - (ف) طے کرنا (انی) کسی کے قریب ہونا  
تَحَدَّ - راستہ کی سختیاں

تَحَدَّ - (شیخ) تَحَدَّ - پیر فرقت۔ م۔ تَحَدَّ  
تَحَدَّ - جلنے ہلاکت۔ تنگ سال۔ سخت کام

تَحَدَّ - (ض) کسی کو ابھی قسم کا اور نیا مال ایک  
ہی دفعہ میں دے دینا۔ بہت سا  
مال جمع کرنا۔

تَحَدَّ - بہت انعام و اکرام کرنے والا بہت  
فیاض۔ بھلائی جمع کرنے والا۔ ایک  
میچائی کا نام۔

تَحَدَّ - (س۔ ک) پلیدی سے آلودہ ہونا  
تَحَدَّ - عاجز و دست اور لکھے ہوئے گوشت  
والا آدمی۔ پاہنج۔ گوشت یا بڈی کا  
بڑا ٹکڑا۔

تَحَدَّ - نیکی کا جمع کرنے والا۔ عیال جمع کرنے والا  
بہت فیاض۔

تَحَدَّ - اجتماع۔

تَحَدَّ - (ض) مال وغیرہ کا جمع کرنا۔ گودی کھانا۔

## ق - ح

قَحَّ - خالص سادہ۔ بے میل۔ جہ۔ اَفَحَّ -

قَحَّ - گھوڑے ادب اور آدمی کی کھانسی۔  
قَحَّ - سیلاب جو سب چیزوں کو بہا کر لے جاتے

قَحَّ - جس چیز کو لے کر چلے جائیں۔  
قَحَّ - بکریوں کی ایک بیماری جس سے اُن کی  
کھال سوکھ جاتی ہے۔

قَحَّ - بہت بڑھا پانا۔  
قَحَّ - (ض) کھانسی کا مریض ہوجانا

قَحَّ - دمہ ہوجانا۔ بات کرنا۔

قَحَّ - کھانسی۔ نہایت بوڑھی۔ کھانسی کی  
ماری۔ زنا کار۔ بدکار۔

قَحَّ - شریرو شروع ہونا۔ بے شرم ہونا۔

قحو - (فت) سب سے لینا۔

قحوان - پاپونہ۔

قحوخة - قحاحة (فت) خالص ہونا پُر مغز ہونا۔

قحومن - (فت) آدمی کا مڑھ کی طرح گر پڑنا۔

قحول - بڑی پر کسی کی کھال کا سوکھ جانا۔

قحوم - (فت) خود کو بلا تردد کسی کام میں ڈال دینا

قحیط - سخت و خشک سال سخت ضرب بڑی

مار۔

## ق - د

قند - (حرف) تحقیق، البتہ، بیشک۔ امید ہے

کہ بہت بہت کم (اسم فعل) کافی ہے۔

(اسم) کافی۔

قند - ایک چمڑے کا برتن۔ کوڑا بغیر دباغت دیے

ہوئے چمڑے کا تسمہ۔ جہ۔ آقند

قند - قامت چیر کی لمبائی۔ کوڑا جہ۔ آقند

قند و دمص (فت) کسی چیز کو لمبائی میں

جوڑے کا ٹنکا کسی چیز۔ کو طول میں چیرنا۔

مسافت طے کرنا۔ بات کا ٹنکا۔

قنداقہ - ہانڈی کی خوشبو۔

قنداح - پیالے بنانے والا چھماق کالا۔

قنداختہ - پیالے بنانے کا پیشہ۔

قنداختہ - لکڑی وغیرہ جس میں سے آگ نکلے۔

قنداد - جنگلی چوہا۔ سیسی۔ خالہ پست۔

قنداد - پیٹ کا درد۔

قنداس - باد چھی۔ ہانڈی پکانے والا۔ برطاسا

اس شخص کا نام جس نے صالح علیہ السلام

کی اوستی کی کوئیں کائی تھیں۔

قنداس - چھرو پانی کے ہماؤ پر نصب کیا جاتا ہے

قنداساۃ - (فت) وقت متعین کرنا۔ آمادہ کرنا۔

قنداستہ - پاکیزگی۔ طہارت۔

قنداف - بڑا پیالہ۔ مٹی کا گھڑا۔

قندامہ - پرانا۔ دیرینہ۔

قندامہ - آگے۔ سامنے۔ سردار۔ سانڈ۔ ادب

قندامۃ - قندار۔ (فت) پرانا ہوجانا۔

قندامی الجیش - وہ گروہ جو لشکر کے آگے آگے ہیں

ہے۔ مقدمہ الجیش۔

قنداقہ - (فت) آگ کا روشن ہونا۔

قنداقہ - چمڑے کا تسمہ کسی چیز کا گھڑا۔ فرقہ۔ جماعت

جہ۔ قنداقہ۔ آقنداقہ

قنداح - پیالہ۔ بڑا پیالہ جس سے دو آدمی شکم سیر

ہو جائیں۔ جہ۔ آقنداح

قنداح - بغیر پیر اور پیکان لگا ہوا تیر۔ جوڑے کا تیر۔

جہ۔ آقنداح۔ قنداح۔

قنداح - (شوہر کو چھپے) اٹھانا۔ چشمہ اور آنکھ کا

پانی سوکھ جانا (فت) کسی کے اندر عیب

لگانا۔ جہ۔ قنداح سے آگ نکالنا۔

قنداختہ - ایک دفعہ پتھر پر چھماق مارنا۔

قنداختہ - چھپو بھرشوریا وغیرہ۔

قنداختہ - کسی کام کے لئے سفور و فکر چھماق کے ذریعہ

آگ پیدا کرنا (اسم ہے)

قنداقہ (قنداقہ) - مختلف خواہشوں والے فرقے۔

واہ۔ قنداقہ۔

قنداس - اندازہ۔ زین اور پالان کا درمیانی حصہ۔

طاقت۔ مالدار۔ فراتی۔

قندار - قنداس۔ (فت) خدا تعالیٰ کا اندازہ کرنا

خدا تعالیٰ کا حکم دینا۔ اندازہ کرنا (گوشٹ)

کو پکانا۔ تنگ و عاز کرنا۔ کسی چیز کو دوسری

قَدَاعَة - شرمیل اور کم سخن عورت۔

قَدَف - اس سمجھو کہ درخت کی جڑ جس کی شاخوں

کے اطراف کاٹ لئے گئے ہیں، وہی (ن)

پانی کا گرانا حوض میں سے پانی چلے جاتا

قَدَم - ایک سُرُخ پیرا (معنی ن) سے بہت بڑھنا

قَدَم - پرانا پین۔ زمانہ گزشتہ۔

قَدَم - دلیر۔ بہادر۔ شجاع۔

قَدَم - کام میں سبقت اور جرات وہ آدمی جس

کا خمر رسانی میں پہلا نمبر ہو (مؤنث) قَدَمَة

پاؤں کا اگلا حصہ۔ ج۔ آقدا آہ نشان

اثر۔ دلیر (واحد جمع مذکر مؤنث)

قَدَمٌ صِدْق - سابقہ فضیلت

قَدَم - قَدَمٌ - (ن) سامنے آنا پیش آنا۔

قَدَم - آگے آگے چلنا۔

قَدَم - بہت بہادر و دلیر۔ لڑائی میں سامنے آنے

والا۔ بہت سخت سنسٹان۔

قَدَم - کام میں سبقت پڑنا (پن) (حدث کی) ضد

قَدَمَة - کام میں سبقت و جرات۔ اثر خرام ناز۔

قَدَمُوس - پُرانی چیز۔ بڑا ہادشاہ۔ بڑا اونٹ ج۔

قَدَا مَلِيس -

قَدَو - جڑ جس سے شاخیں نکلیں۔ ج۔ آقدا آہ

قَدَو - کھانے کا خوشبودار اور باہرہ ہونا۔

نزدیک ہونا۔ سفر سے آنا۔

قَدَوَة - (مثنیٰ) پیشوا۔ وہ شخص جس کی پیروی کی

جائے۔ نمونہ عمل۔

قَدَمُوس - سامنے آنے والا۔ پیش قدمی کرنے والا۔

قَدَمُوس - پاک و مہارک۔ اللہ تعالیٰ کا نام۔

قَدَمُوس - آقدا ح۔ کھتی۔

قَدَوَع - شرمیلی اور کم سخن عورت۔ ذلیل و خوار

چیز پر قیاس کرنا۔ بڑا اور بزرگ جاننا۔

تعلیم کرنا۔

قَدَس - (ص) انجام دیکھنا۔ نتیجہ ابدی مال پر غور کرنا۔

قَدَس - قَدَسَة - قَدَسُوس - (ص) کسی کام

کو کر سکن۔ طاقت رکھنا۔ قادر ہونا۔

قَدَس - (مؤنث) بانڈی (کبھی مذکر بھی مستعمل ہوتا

ہے)۔ قَدَسُوس

قَدَس - حکم۔ فرمان۔ اندازہ۔ خدا تعالیٰ کا جا بجا

ہوا حکم۔

قَدَارَة - چھوٹی شیشی

قَدَارِيَة - ایک فرقہ باطلہ۔ تقدیر کے منکر جو بندگان

خدا کو یا نکل خود مختار سمجھتے ہیں۔

قَدَس - پاکی۔ بیت المقدس۔ نجد کا ایک بڑا پہاڑ

حضرت جبرئیل علیہ السلام کا نام مص

(ن) پاک ہونا۔

قَدَسُوسُ الْاَسْوَد - قَدَسُوسُ الْاَبْيَض - دو پہاڑوں

کے نام۔

سُرُوحُ الْقَدَس - حضرت جبرئیل علیہ السلام کا نام۔

قَدَس - دستہ دار طشت یعنی کشتی۔

قَدَس - قَدَس - ایک قسم کا چھوٹا پیالہ۔

قَدَع - (ص) روک دینا۔ گھوڑے کی نگام کھینچنا

گھوڑے کے باگ مارنا۔ تھوڑا تھوڑا اپنا

قَدَع - بہت رونے والا۔

قَدَع (مأثراً) قَدَع - پانی جو کھاری ہونے کی وجہ سے نہ

پیا جاسکے۔

قَدَع - (ص) آنکھی کی روشنی کا کم ہونا۔ عورت کا

کم سخن اور شرمیلا ہونا۔ گھوڑے کی آنکھوں

کا ڈر اوتارنا اور خوفناک ہونا۔

قَدَعَة - چھوٹا سینہ بند۔

قَدَّادَات - کبوتروں وغیرہ کے بچوں کو کہنے کے بعد گر جائیں۔ وا۔ قَدَّادَاتَ  
 قَدَّاف - سونے اور چاندی وغیرہ کا تراشہ جو چیز اٹھا کر چھینکی جائے۔ رفتار کی تیزی۔ جہ۔ قَدَّافِیَتْ  
 قَدَّاف - (جنس) ترازو۔ سواری۔ گوچھن دا۔ قَدَّاقَاتَ  
 قَدَّال - گدے۔ جہ۔ اَقْدَالُہ - قَدَّال  
 قَدَّاقَات - تیر کا پیر۔ جہ۔ قَدَّاقَات - عورت کی فرج کا کنارہ آدمی کا کان۔ گھوڑے کا کان۔  
 قَدَّاس - قَدَّان - ناپاک - پلید - نجس۔  
 قَدَّاس - قَدَّاس - (ن) کسی کو پلید سمجھنا۔ نفرت کرنا۔  
 قَدَّاس - ناپاکی - پلیدی (خلاف نظافت)  
 قَدَّار - قَدَّاسَات - (س) ناپاک ہونا۔ نجس ہونا پلید ہونا۔  
 قَدَّارَات - پاک - سرزنش اور ملامت سے دُور  
 قَدَّارُوف - عیب - جہ۔ قَدَّارُوفِیَتْ  
 قَدَّاع - فحش کلامی - بجااست - پلیدی۔  
 قَدَّاع - رت آگلی دینار ب [چھڑی سے مارتا  
 قَدَّاعِل - کینڈ اور ذیل وغیرہ آدمی - جہ۔  
 قَدَّاعِل -  
 قَدَّاعِل - موٹا تازہ اور اچھے جسم کا اونٹ۔  
 قَدَّاف - ندی وغیرہ کا کنارہ۔ جہ۔ قَدَّافَات  
 (ن) پاک دامن عورت کو زنانہ کی تہمت لگانا۔ اس کو فحش گالی دینا۔  
 قَدَّاف - گدے پر تازہ پھینکنا۔  
 قَدَّاف - دُور - کنارہ - دُور کرنے والا۔

آدمی۔  
 قَدَّوْم - (مذکر) بہت دلیر و بہادر سا مذاکرے والا (مذکر مؤنث) بسولہ جہ۔ قَدَّائِم - قَدَّوْم  
 قَدَّوْم - قَدَّامَان - (س) لوٹ آنا۔ واپس آنا  
 قَدَّوْم - استقامت - پائیداری۔  
 قَدَّوْم - لذیذ و خوشبودار۔  
 قَدَّوْم - لذیذ و خوشبودار کھانا۔  
 قَدَّوْم - اندازہ و مقدار۔  
 قَدَّوْم - (حق) قحط زدہ قوم کا جنگل میں سے آنا۔ گوشت وغیرہ کا لذیذ اور خوشبودار ہونا  
 قَدَّوْم - قَدَّاوَات - (س) گوشت وغیرہ کا خوشبودار اور لذیذ ہونا۔  
 قَدَّایَان - (حق) دوڑنا۔  
 قَدَّایِم - شور باجوانڈی کی تلی میں باقی رہ جائے اور وقت سے نکالا جائے۔  
 قَدَّایِد - سوکھے ہوئے گوشت کا پارچہ چرانا کپڑا  
 قَدَّایِد - دہاری دار چھوٹا کبیل - جہاز کا ایک چمچہ ایک دادی کا نام۔  
 قَدَّایِدِیُون - پلیدہ ور۔ وہ لوگ جو لشکر کی خدمت کے لئے ہوتے ہیں جیسے نائی وغیرہ۔  
 قَدَّایِر - طاقتور۔ توانا۔ قابو رکھنے والا۔ ہانڈی کا پیکا ہوا۔  
 قَدَّایِس - سینٹ۔ عیسائی۔ ولی جہ۔ قَدَّایِسُون (د)  
 قَدَّایِم - پرانا۔ جہ۔ قَدَّامَاء - قَدَّامِی -  
 قَدَّایِم - بادشاہ۔ سردار۔ بہت شریف آدمی  
 ق - ذ  
 قَدَّ - پتھر وغیرہ چھینکنا۔ تیر کو پھیل کر دست کرنا۔ گدی پر مارتا۔ تیر پر پڑ لگانا۔

اذا ن) بھیج دیا گیا۔ کان میں بات ڈال دینا۔ (یَوْمِ، قَرَّةً) سرودن۔

قَدْلُ (یَوْمِ) الْقَرَّةِ - ذی الحجہ کی گیارہ تاریخ (اس لئے کہ اس دن حاجی منیٰ میں ٹھہرتے ہیں) قَسْرٌ - سروی - جائے قسار۔

قَسْرٌ - حیض - حیض سے پالی طہر دو حیضوں کا درمیان (لغات اضداد میں سے ہے) حیض کا وقت حیض کا اختتام - پالی کا زمانہ - وقت - شعر کا قافیہ ج: اَقْصَى اَوْ قَسْرٌ

قَسْرٌ - قَرَّةٌ اَوْ قَرَّةٌ (ن - ق) قرآن مجید کی تلاوت کرنا کسی کو سلام پہنچانا - جمع کرنا - حاملہ ہونا - بچہ ہونا۔

قَسْرٌ اَوْ - قرآن مجید اچھا پڑھنے والا جہہ قَرَّةً اَوْ قَرَّةً اَوْ - مقدس آسمانی کتاب جو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔

قَسْرَةٌ - دبا - قَسْرَابٌ - دانائی - دریافت جس کا مرتبہ دوسرے کے قریب ہو۔

قَسْرَابٌ - تلوار کی نیام - وہ غلاف جس میں تلوار نیام سمیت رہے - قریب المرتبہ - ہم مرتبہ ج: قَسْرَابٌ - اَقْرَبِيَّةٌ -

قَرَابَةٌ - رشتہ دار - قریب - طبیعت کی رسائی اور دریافت - ہم مرتبہ - قَرَابَةٌ - اتنا پانی کہ برتن کو بھر دے مصلیٰ رات کو اس لئے سفر کرنا کہ صبح ہوتے ہی پانی پر پہنچ جائیں۔

قَرَابَةٌ - رشتہ داری - نزدیکی ج: قَرَابَاتٌ مصلیٰ (ل) نزدیک ہونا۔

پھسلوان جگہ۔

قَدْلٌ - کنگرہ - کنارہ - جانب - ج: قَدْلٌ - (ن) گدی پر مارنا - لوٹ جانا بظلم کرنا - کسی کے پیچھے جانا - عیب لگانا (ق) کو شش کرنا۔

قَدْرٌ - (ن) [لہ] ایک مرتبہ ہی دسے ڈالنا۔ قَدْرٌ - قَدْرٌ مَتَةٌ - (س) پینا۔

قَدْرٌ - عورت جو مردوں سے کنارہ کش رہے۔ وہ شخص جو اپنی بد مزاجی کے سبب لوگوں سے غلط ملط نہ رکھے - ادنیٰ جو آدمیوں سے علمدار سونے۔

قَدْرٌ - بہت پانی والا کڑواں - ج: قَدْرٌ - قَدْحِيٌّ - کوڑا کرکٹ - آنکھ کا تنکا - تنکا جو شراب یا پانی وغیرہ میں گر جائے ج: اَقْدَاءٌ قَدْحِيٌّ - قَدْحِيٌّ (ض) آنکھ وغیرہ میں تنکا پڑ جانا۔

قَدْحِيٌّ اَلْعَيْنِ - جس کی آنکھ میں تنکا پڑ گیا ہو۔ قَدْحِيٌّ - قَدْحِيٌّ (س) آنکھ کے تنکے وغیرہ کو مٹا کر دینا۔

قَدْحِيَّةٌ - قَدْحِيَّةٌ - تنکا پڑی ہوئی آنکھ۔ قَدْحِيَّةٌ - جو بادل پیش نظر ہو۔ دور بعید۔ قَدْحِيَّةٌ - ڈالا ہوا - پھینکا ہوا - وہ بات جس کی تہمت لگائی جائے۔

## ق - س

قَرَّةٌ - ہودہ - مرنی کا بچہ - ٹھنڈا مصلیٰ (ن) ادیک (میں) سرو پانی ڈال دینا - تاکہ جوش دب جائے - [مجمولاً] سروی کا مارا ہوا ہونا (ض) کسی پر ٹھنڈا پانی ڈال دینا (ق)

ساتھ ادا کرتا۔ دو کھجوریں ایک دفعہ  
کھاتا۔ دو ستاروں کا ایک برج میں  
جمع ہوا جاتا۔ آپس میں رفیق اور دوست  
ہو جاتا۔

قَسْرَاتِی - نزدیک۔

قَسْرَاب - صبح ہوتے پانی پر پہنچ جانے کے خاطر  
رات کا سفر۔ کنواں تھیں کا پانی  
نزدیک ہو۔ رات میں پانی کی تلاش۔ جہ۔

قَسْرَاب - کوکھ۔ جہ۔ اَقْدَاب - نزدیک (مغلاں  
بعد)

قَسْرَاب - قَسْرَبَان - رک - س - نزدیک ہونا۔  
رکس (کوکھ میں درد ہونا)

قَسْرَاب - رن (تلوار کو نیام میں کرنا۔ تلوار کے لئے  
نیام تیار کرنا۔

قَسْرَبَان - برتن جو بھرنے کے قریب ہو رم (قَدْبِی  
جہ۔ قَسْرَاب -

قَسْرَبَان - جس چیز سے خدا تعالیٰ کا قرب حاصل ہو  
بادشاہ کا خاص مصاحب جہ۔

قَسْرَابِیْن

قَسْرَبَان بَبْرَام - عید الاضحیٰ (ترکی)

قَسْرَبَان - جماع - نزدیکی۔

قَسْرَبَات - مشک - جہ قَسْرَاب - قَسْرَبَات

قَسْرَبَات - رشتہ داری۔ نزدیکی جہ۔ قَسْرَبَات

قَسْرَبَات - پانی وغیرہ جس سے برتن بھر جائے۔

قَسْرَبَات - کو ہر زین (زین کا آگے پیچھے کا وہ حصہ  
جو بلند ہوتا ہے)۔

قَسْرَبِی - نزدیکی - رشتہ داری۔

قَسْرَبَات - مینڈک قَسْرَبَاتِ الْعَيْنِ جس چیز سے آنکھیں

قَسْرَاتِی - نزدیک نزدیک - پاس پاس -

قَسْرَابِیْنَة - بندوق۔

قَسْرَام - خالص - آب شیریں - زمین جس میں پانی  
ہو نہ گھاس۔

قَسْرَاد - پستان کی بھٹی ہو چھڑی جہ۔ قَسْرَادَان

قَسْرَاد - ندر پانے والا۔

قَسْرَار - قَسْرُوس - (رض - س) ثابت و برقرار ہونا

قَسْرَار - آرام گاہ - ہموار نیچی زمین یعنی جو پہاڑی

نہ ہو - بھیرٹ - چھوٹی ٹوکی بکری میں کا  
ایک قبیلہ (۵) رزولیشن - تجزیہ۔

قَسْرَار - قَسْرُوس - قَسْرَات - (رض - س) ٹھہرنا۔

قَسْرَارَة - آرام گاہ - ہموار اور نیچی زمین جو پہاڑی

نہیں ہے۔

قَسْرَارِیْط - اعلیٰ کا بیج۔

قَسْرَاھن - مَقَاسِصَة - دوسرے کے مال سے  
شرکت پر تجارت کرنا۔ بدلہ دینا۔

قَسْرَاھَة - سونے چاندی کے ریزے جو زیور بنانے  
کے وقت گرجائیں۔

قَسْرَاھ - چراغ چراغ کا شعلہ۔

قَسْرَاھ - آپس میں مل جانا۔ غلط ملط ہونا۔ عورت

سے ہمسری کرنا۔ گناہ کا مرتکب ہونا۔

قَسْرَاھَة - درخت کی چھال۔

قَسْرَاھُول - سنتری تھانہ۔

قَسْرَاھ - اونٹ کی ناک میں وہ جگہ جہاں نیل ڈالی  
جاتی ہے۔ سرخ پردہ - ہارک کپڑا۔

قَسْرَاھَة - جلی ہوئی روٹی کا وہ حصہ جو تیز میں لگا رہ  
جائے۔ عیب۔

قَسْرَاھَة - ایک فرقہ باطلہ۔ وہ۔ قَسْرَاھِطِی۔

قَسْرَادَان - (مقابلہ) حج اور عمرہ کو ایک احرام کے





قِرَاع - مشورہ قبول کرنے والا۔ بیدار رہنے والا  
 ناخن جو خراب ہو گیا ہو۔  
 قِرَاعَاء - چراگاہ جس کی گھاس کو چرواؤں کے پتے  
 لیا ہو یعنی برصیبت گھرا کا صحن راستہ  
 کی اوپر کی جانب۔  
 قِرَاعَتَہ - جس چیز کو قرعہ اندازی کے لئے استعمال  
 کریں۔  
 الْقِرَاعُ الْقِرَاعَتَہ - قرعہ اندازی۔  
 قِرَاعَتَہ - قرعہ اندازی کر کے فال لینا۔  
 قِرَاعَتَہ - گنجپاں۔ سرکا وہ حصہ جہاں بال نہ ہوں۔  
 قِرَاعَت - نہایت مریخ۔ لائق و سزاوار۔ ایک تخت  
 جو :- قِرَاعِ مَص (حق) ظلم و ستم کرنا  
 حد سے گزر جانا۔ بغاوت و سرکشی اختیار  
 کرنا۔ عیب کرنا۔ تہمت لگانا۔  
 کماٹی کرنا۔ ملنا۔ جھوٹ بولنا۔  
 قِرَاعَت - پھال۔ روٹی جو حل کر تومیں لگی رہ جائے  
 ناک کے چوہے واہ۔ قِرَاعَتَہ جو :- قِرَاعِ وَف  
 قِرَاعَت - طاوٹ۔ و باروہ مقام جہاں بخار پھیلا  
 رہے۔ لائق و سزاوار مص (س)  
 بیمار ہونے کے قریب ہو جانا۔ بیماری کا  
 لوٹ آنا۔  
 قِرَاعَت - سزاوار و لائق۔  
 قِرَاعَتَہ - ناک کا چوہا۔ بدنام۔ انار کے چھلکے پھال  
 کا ٹکڑا۔ ایک قسم کی داسیجینی۔ تہمت مینہ  
 پن۔ ورزش۔  
 قِرَاعِصَی - قِرَاعِصَی ایک قسم کی نشست جسے  
 اکڑوں بیٹھنا کہتے ہیں۔ نیز اس طرح  
 جھک کر بیٹھنا کہ پیٹ زانو سے لگ  
 جائے اور ہاتھ بغل میں لریں۔

قِرَاعِط - قِرَاعِط -  
 قِرَاعِطِجَہ - کاربیج قوم۔  
 قِرَاعِطِاس - کاغذ۔ کشیدہ قاسمات اور گوری روتی  
 جوان ادوٹھی۔ جہ۔ قِرَاعِطِیَس  
 قِرَاعِطِیَہ - خالص سفید۔  
 قِرَاعِطِاط - اونٹ کی بھول جس کے نیچے پالان رکھا  
 جاتا ہے۔ جہ۔ قِرَاعِطِط۔  
 قِرَاعِطَال - گدھے کی بوجھ کی تنگ واہ۔ قِرَاعِطَالَتَہ -  
 قِرَاعِطِہَاک - بے غیرت مرد جو اپنی بیوی کی بے حیائی  
 گوارا کرے۔ بھڑوا۔  
 قِرَاعِطِہَہ - کسی کو گردن کے بل گرا دینا۔ بہت تیز  
 دوڑنا۔ غصہ کرنا۔  
 قِرَاعِطِہَب - بادل۔ تھوڑی سی چیز۔  
 قِرَاعِطِہَق - کریمہ معرب۔  
 قِرَاعِطِہَقَہ - کرتہ پہنانا۔  
 قِرَاعِط - ایک درخت کے پتے جن سے چڑے کی  
 دباغت کرتے ہیں۔  
 قِرَاع - کدو۔ واہ۔ قِرَاعَتَہ مص (ن) قرعہ اندازی  
 کرنے میں غالب ہو جانا (ف) دروازہ  
 کھٹکھٹانا [ب] لٹھی وغیرہ سے مارنا۔  
 قِرَاع - قِرَاعِاع - (ف) (ن) کما دہر چڑھنا (السم)  
 نام ہو کر دانت پینا۔  
 قِرَاع - وڈ میں جیت۔ وہ چیز جو وڈ میں بطور  
 حد کے ہو۔ لوجھال جھولی۔ تھیلا سفید دلتے  
 جو اونٹ کے بچوں کے نکل آتے ہیں۔  
 قِرَاع - قِرَاعِاع - (س) تیرا اندازی میں ہار جانا۔ بیماری  
 کی وجہ سے سر کے بال اڑ جانا۔ مشورہ  
 قبول کرنا۔ دربار کا خدمتوں سے خالی  
 ہونا لوگوں پر سے حج کے دنوں کا گزر جانا۔



مص (س) بھوؤں کا طاہر ہونا۔  
قرنۂ - سورت جو نماز کی ہر رکعت میں پڑھی  
جائے۔

قرنکان - دیوت آدمی جس نے دوسرے کو اپنی  
بیوی میں شریک کر لیا ہو۔

قرناب - جنگلی چروا - جہ - قرناب -  
قرناب - کوکھ۔

قرنۂ - تلوار کی دھار پیکان والا تیرا - اونچی  
طرف کسی چیز کا ابھرا ہوا حصہ - گرمٹا۔

قرنصۂ - مرغ کاروانی سے بھاگ جانا۔  
قرنفل - قرنفل - لوگ۔

قرنوص - موزے کے نیچے کی درز موزے کی نوک  
جہ - قرنوص -

قرن و - حوض - بڑی اور طویل ندی - زمین جو  
یکساں حالت کے ساتھ دو تک چلی

گئی ہو جہ - قرن و - لکڑی کا پیالہ -  
طشت جہ - قرن آء روش مص (ن) قصد

کرنا - تلاش کرنا - پیروی کرنا - نیزہ مارنا  
خصیوں کی تھیلی کا بڑھ جانا آنت وغیرہ

کی وجہ سے۔  
قرنۂ - عادت و خصیلت ایسے کو مان اور سخت  
پٹھ والی اونٹنی۔

قرنواح - کھجور کا لمبا درخت جہ - قرن اویخ  
کشادہ میدان - زمین قابل زراعت

قرنۂ - بن بلائے مہان بن جانے والا بڑے  
سرکا - جہ - قرن اویخ -

قرنۂ - پیٹھ -  
قرنۂ - جس کے خصیوں کی تھیلی بڑھ گئی ہو۔

قرنۂ - (ن - س) خون کا جرم خشک ہو جانا

چوٹ کے اثر سے نیل پڑ جانا - زخم میں  
خون کا مڑھ ہو جانا۔

قرنۂ - فوطوں کا بڑھ جانا (پانی وغیرہ کے اثر  
آنے سے)۔

قرنۂ - سرکی جناب۔  
قرنۂ - (س - ن) ٹھوڑے کا پورے

دانتوں والا ہو جانا - یعنی پانچ سال کا  
ہو جانا۔

قرنۂ - (ن - ف) اونٹنی وغیرہ کا حمل ظاہر ہونا  
قرنۂ - ٹھنڈا پانی۔

قرنۂ - ذیل و خوار آدمی۔  
قرنۂ - کروڑ جہاز (د)

قرنۂ - وہ کنواں جس میں پانی کم ہو۔  
قرنۂ - جو دو کھجوریں ایک ساتھ کھائے نفس

جو سواری کا جانور حملہ پسینہ میں ترتر  
ہو جائے۔

قرنۂ - دانتوں کا میل اور زردی مص (س) میلا  
کچیل ہو جانا چوٹ کے اثر سے کھال اتر جانا

قرنۂ - مصیبت جو باوجود کامل احتیاط کے  
نازل ہو جائے۔

قرنۂ - پیٹھ - کدو۔  
قرنۂ - سن رسیدہ گائے - سردار - بوڑھا۔

جہ - قرن اہب -  
قرنۂ - نرم و نازک اور خوش نما جسم کا - ناز پروردہ

آدمی جہ - قرن اہب  
قرنۂ - پانی کی نمالی - بلندی سے نشیب کی طرف

جہ - قرنۂ - آتش آء دہی۔  
قرنۂ - حوض میں جمع شدہ پانی - ضیافت -

دعوت -

قَسَائِي

قَسَائِيَح - سردار

قَسَائِيَجَة - پسندیدہ اور منتخب مال گھر کی چھت

گھر میں سب سے بہتر جگہ ہے۔ قَسَائِيَح

قَسَائِيِين - ہم عمر ہمسر۔ دوست۔ وہ جانور جس کو

دوسرے کے ساتھ ملا کر باندھ دیا جائے

نزدیک ہنشین ساتھی۔ دمساز۔ جہ۔

قَسَائِيَاء

قَسَائِيِيَاء

قَسَائِيِيِيَاء - بیوی۔ نفس۔ ولالت کرنے والی چیز۔

جہ۔ قَسَائِيِاشن۔

## ق - ق

قَسَائِيِآز - بڑا سانپ۔

قَسَائِيِآذ - ریشم کے کپڑے کے تنے ہوئے ریشم کا کپڑا

اصلی ریشم مصل (ن) کو دونا سکڑنا۔ مٹنا

انکار کرنا۔

قَسَائِيِآذ - صاف ستھرا آدمی۔ مہ۔ قَسَائِيِآذ

قَسَائِيِاح - بکریوں کی ایک بیماری۔

قَسَائِيِاح - پیاز وغیرہ بیچنے والا۔ مصالحہ بیچنے والا

قَسَائِيِآمن - ریشم بیچنے والا۔

قَسَائِيِآمن - وہ آدمی جو گناہوں کی گندگی سے پاک ہو

قَسَائِيِاع - چیتھڑا۔

قَسَائِيِآمد - غالب چہرہ دست آدمی۔ جلد ہلاک کر

دینے والی موت۔

قَسَائِيِاب - سختی مصل (ن) سخت ہو جاتا۔

قَسَائِيِاب (ن) بہت جماع کرنا۔

قَسَائِيِاح - کتے کا پیشاب (ن) انا نڈی میں مصالحہ

ڈالنا (درخت کی جڑ میں) پیشاب کرنا۔

قَسَائِيِ قَسَائِي - (ن) (ن) (ن) میں پانی جمع کرنا (اونٹ

کا کتے میں جگالی کرنا) جمع کرنا۔

قَسَائِيِ قَسَائِي - (ن) (ن) (ن) کرنا۔ دعوت کرنا گھومنا

پھرنا۔ پڑھنا۔

قَسَائِيِب - (واحد جمع مذکر مؤنث) نزدیک بقبار

مسافت کے (مذکور) رشتہ دار۔ مہ۔

قَسَائِيِيِيِيَاء جن سے رشتہ باپ کی وجہ سے ہو

جہ۔ آتش باء نمک چھڑکی ہوئی چھلی جس

میں نرمی موجود ہو۔

قَسَائِيِيِيَاء - بستی۔ گاؤں۔ شہر جہ۔ قَسَائِيِيِيَاء

قَسَائِيِيِيَان - کم و طائف۔

قَسَائِيِيِيِيَاء - قَسَائِيِيِيِيَاء - بستی کا رہنے والا۔

قَسَائِيِيِيِيَاء الأَنْصَار - مدینہ منورہ۔

قَسَائِيِيِيِيَاء - ہاتھ کی چھڑی۔ بادبان کی کلڑی جو اس

کے اوپر غرض میں ہوتی ہے جہ۔ قَسَائِيِيِيِيَاء -

قَسَائِيِيِيِيَاء - ایک قسم کی چھلی۔

قَسَائِيِيِيِيَاء - قَسَائِيِيِيِيَاء - ایک قسم کی خوش مزہ اور تیرتی

چھوڑ۔

قَسَائِيِيِيِيَاء - زخمی جہ۔ قَسَائِيِيِيِيَاء خالص چیز جس میں

مادہ نہ ہو۔ پہلا بادل۔

قَسَائِيِيِيِيَاء - پانی جو کنوئیں میں سے نکلے بہت جڑ کا ابتدائی

حصہ۔ آدمی کی طبیعت جہ۔ قَسَائِيِيِيِيَاء -

قَسَائِيِيِيِيَاء العَيْنِین - جس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ

مسرور ہو۔

قَسَائِيِيِيِيَاء - ایک ممتاز و مشہور قبیلہ کا نام۔

قَسَائِيِيِيِيَاء - کشتی اور جہاز کا ننگ۔

قَسَائِيِيِيِيَاء - اونٹ (وغیرہ) جو چیز جگالی میں اگل کر

منہ میں لاتا ہے۔ شعر۔

قَسَائِيِيِيِيَاء - سردار۔ حریف۔ برعقب۔ اونٹ کا بچہ۔ جہ۔

قَصْر - عمل - جہ: قصور، چھوٹا پن۔ فرزنداشت  
سستی دکوتا ہی۔

قَصَس - چھان - بھوسی۔ درخت کی جڑ۔ آدمی  
کی گردن۔ سستی معنی (س) خشک گردن

والا ہوتا۔ گردن کی جڑ میں۔ درد ہوجانا  
قَصَرَ - قَصَا سَتَا - کوتاہی معنی (س) کوتاہ  
ہوتا۔ چھوٹا ہونا۔

قَصِر - خشک گردن والا۔

قَصْرَة - فرزنداشت۔ کوتاہی۔

قَصْرَة - ہتھوڑا۔ کمری کا کھڑا۔ گردن کی جڑ کا  
درد۔

قَصْرَى - چھان۔ بھوسی۔

قَصْرَى - نپل کی سب سے چھوٹی ہڈی۔

(سُورَةُ الْمَيْمَةِ) أَلْقَصْرَى - سورہ طلاق۔

قَصْبَى - ناولسٹ۔ افسانہ نگار (د)

قَصْبَاس - ترازو۔

قَصَح (یا) پانی کا گھونٹ گئے سے اُمتارنا پیاس  
بجھانا۔ زخم کا خون سے پُر ہونا۔

جوں کو دُنا خنوں کے درمیان رکھ کر مار  
ڈالنا۔ ذلیل و خوار سمجھنا۔

قَصِح - چھوٹا لڑکا۔ م۔ قَصِيعَة -

قَصِيعَة - پیار جہ: قَصِيعَات - قَصِح - قَصِيعَات

قَصَعْل - کینہ آدمی بچھو یا بچھو کا بچہ۔ جہ:۔

قَصَاعِل -

قَصِيف - نپچ میں سے ٹوٹا ہوا جلد توڑنے والا۔

قَصِف - (ض) توڑ ڈالنا۔ کھیل کرنا۔ کھیل میں

ٹھرتا (د) کھیل کود۔ عیش۔

قَصَف (س) کڑی اور درخت کا نرم اور جلد  
ٹوٹنے والا ہونا کھیتی وغیرہ کا تباہ ہونا کہ

قَصَالَه - گیہوں کا خراب دانہ جسے صاف کرتے  
وقت دُور کر دیا جاتا ہے۔

قَصَب - آنت۔ پیٹھ۔ جہ:۔ أَقْصَاب

قَصَب - قلم۔ زمین سے اُگنے والی ہر وہ چیز جس  
کے تنہ میں پوریاں ہوں اور گرہ دار ہو۔

پانسری اُنکلی کی ہڈی۔ وہ تمام ہڈیاں جو  
گولابی اور اندر سے خالی ہیں۔

قَصَبُ الْمَشْكُر - گتا۔ پزند (د)

قَصَب - (ض) پانس کا ٹٹا۔ بکری کے اعضاء  
الگ الگ کرنا۔

قَصْب - قَصُوب - (ض) امیراب ہونے سے پہلے  
پانی سے روک دینا عیب بیان کرنا۔

گالی دینا۔

قَصْبَة - نیا کھدا ہوا کنواں۔ محل۔ خرم دار بالوں کی  
لٹ۔ ہڈی جس میں مغز ہو۔ شہر۔

قَصْبَة الْأَرْف - بانسا۔

قَصْبَة - وہ زمین جہاں تے جس کے قلم ہوتے ہیں  
کثرت سے ہو جہاں پانس کثرت سے

ہوں۔

قَصَّة - چونا جہ: قَصَاص حال خیر کام۔ ہات  
جو چیز لکھی جائے۔ افسانہ جہ: قَصَص

قَصَّة - پیشانی کے بال جہ: قَصَص - قَصَاص  
(س) قَصِد - ٹوٹا ہوا نیزہ۔

قَصِد - وہ آدمی جو نہ موٹا ہو نہ ڈبلا بلکہ درمیانی  
جسم کا ہو معنی (ض) اعتدال کرنا۔ ارادہ

کرنا۔ کڑی وغیرہ توڑنا۔ نیکی کرنا زنی  
المستثنیٰ [ درمیانی چال چلنا۔

قَصِد - بھوک۔ درخت۔ عوج کہ ایک خاردار  
درخت ہے۔

نامبارک مغوس -  
 قَشَح - پُرانی - پستین - بے وقوف چمڑے کا  
 نیمہ جہ - قَشُوع مص (رت) منتر کرنا -  
 قَشَعَة - بادل کا ٹکڑا - جو بادل کھل جانے کے  
 بعد آسمان پر رہ گیا ہو -  
 قَشَعُورَة - بھڑھری - کپ کپی -  
 قَشَعَم - بڑی لڑکائی یا لگد - شیر جہ - قَشَاعِم  
 راقہ - قَشَعَم - موت - بلا مصیبت - جنگ -  
 سختی - کڑھ بگڑ -  
 قَشَف - بد حالی - آلودگی مص (س) - مفسل ہوتا  
 دھوپ کی وجہ سے مُتہ کا مجلس جانا مفسلی  
 کی وجہ سے چہرہ کا بے رونق ہوجانا -  
 قَشِيف - جس کا چہرہ دھوپ کی وجہ سے کھلس گیا ہو  
 جس کا چہرہ مفسلی کی وجہ سے بے رونق  
 ہو گیا ہو -  
 قَشَلَاق - اسپتال - بارک (د)  
 قَشَم - نالہ - (رض) کھانا بہت کھانا چیرنا -  
 پھاڑنا - مرجانا -  
 قَشَم - انسان کی طبیعت و مرثت - نالہ - بدن  
 گوشت جو کبک کر مرخ ہو گیا ہو چربی -  
 پیکر - جہ :- قَشُوْر -  
 قَشُو - (ن) سانپ کا کچلی اُمارنا - درخت وغیرہ  
 کی پھال اُتارنا - ماتھ پھیرنا -  
 قَشُوْش - (ن) لاغری کے بعد قرہ ہو جانا - اونٹنی  
 کو جلد دوہنا -  
 قَصَا - بیان کرنا موت کا (قریب آجانا -  
 [علی الموت] کسی کو قریب مرگ کر دینا  
 قَصَا - دوری - کنارہ - دور گھر کے سامنے کشادہ  
 زمین - جہ :- آقَصَاء -  
 قَصَاب - بانسری بجائے والا - ذبح کرنے والا -  
 گوشت کے ٹکڑے کرنے والا -  
 قِصَاب - مکان کے پشتے پانی سے بچاؤ کے لئے -  
 بہت سے گھر - وہ :- قِصَابَة  
 قِصَابِيَة - بالوں کی لٹ - بانسری بانس کی جڑ -  
 جہ :- قِصَاب -  
 قِصَابِيَة - بانسری بجانا (اہم ہے)  
 قِصَابِيَة - بانس یا نزل کے دو گروہوں کا درمیانی  
 حصہ - آدمیوں کا عیب ڈھونڈنے والا  
 (د) نکلی - بہا -  
 قِصَاس - دھوبی -  
 قِصَاد - بالوں کی بریدگی اور کوتاہی - دھوبی پن  
 دھوبی کا پیشہ -  
 قِصَارَة - محل - جو قلعہ کے اندر ہو - بھوسی وغیرہ  
 جو پھانسنے کے بعد پھینکی میں رہ جائے -  
 قِصَارِي - انتہا - غایت -  
 قِصَاص - قِصَاص - قِصَاص - سر کے آگے اور  
 پیچھے وہ جگہ جہاں بال ختم ہوتے ہیں -  
 پیشانی کے بال -  
 قِصَاصَة - تراشہ - اخبارات کی کٹنگ - (د)  
 قِصَاص - (مقابلہ) قاتل کو مار ڈالنا - زخم کے بدلے  
 زخم لگانا - کسی چیز کے بدلے میں کوئی  
 چیز لینا -  
 قِصَاعَة - (ک) سی - بچ کا ٹھکانا رہ جانا -  
 قِصَال - شیر - تیزی سے کاٹنے والی تلوار -

قَص - قِصَص - (ن) قدموں کے نشانوں پر  
 کسی کے پھپھے جانا [علی] کسی سے قصہ

## ق - ص

قَسَطَان - قوس قزح - دھنک - بھار۔

قَسَطَل - گردو بھار (د) قرارہ جہ: قَسَاطِل

قَسَطَلَانِيَّة - شفق کی سرخی - دھنک - بھار کپڑا۔

شہر قسطک کا بنا یا ہوا۔

قَسَطَلَة - انیس کا ایک شہر۔

قَسَطَلِيَّة - قَسَطَلِيَّة مشہور شہر استنبول

اس کے بانی کا نام قسطنطین تھا اسی کی

طرف منسوب ہے۔

قَسَقاس - رہبر - رہنما - بھوک کی سختی - بھارے کی

سختی - شیر۔

قَسَم - سوگند - حلف - قسم۔

قَسَم - بخشش - داد و پیشہ - راسے - ٹھک۔

ترود - بارش - پانی - اندازہ - عادت - مع

(ض) ہانتا - حصہ حصہ کرتا - اندازہ کرتا

(بہن) بیرونیوں میں نوبت کا لحاظ کرتا۔

قَسَم - حصہ (د) سیکشن جہ: آقساہ - جج

اَقْسَام۔

قَسَمَة - ہانت - حصہ - نصیب۔

قَسَمَة - حسن و جمال - چہرہ - عطر دان۔

قَسُو - قَسُوَة - قَسَاوَة - قَسَاء (ن) دل کا سخت

ہوجانا - درہم وغیرہ کا کھوٹا ہونا۔

قَسُوَة - سختی۔

قَسُوِي - شیر - شکاری۔

قَسُوِيَة - شیر - غالب - مبارک - عزت دار - آدمی

رات کا وقت جوان قوی لڑکا بہت

سے تیر انداز شکاری۔

قَسُوِيَس - آدمی جو ایسی چیزے بدخواہی۔

قَسُوَسَة - قَسِيَسَة نصاریٰ کا سردار ہونا۔

پادری ہونا۔

دِرْهَم، قَسِي - کھوٹا درہم - جہ: قَسِيَان

قَسِيَة - قَسِيَات -

(عام) قَسِي - شدت کی گرمی - یا سردی وغیرہ کا

سال۔

قَسِيَة - ایک قسم کا مری کپڑا۔

قَسِيَب - پانی کی روانی جس میں آواز ہو۔

قَسِيَس - پادری - نصاریٰ کا سردار جہ: قَسِيَسُون

قَسِيَم - حصہ تقسیم کرنے والا - جہ: آقَسَاء - قَسَاء

آدھا - نصف تجزیہ آور آدمی - جہ: قَسَم

قَسِيَمَة - تجزیہ آور عطر فروش کی صندوقچی (د)

رسید کا مٹنی - جہ: قَسَام۔

## ق - نش

قَسَامَة - دسترخوان پر سجھا ہوا کھانا۔

قَسَب - (ض) تکلیف دینا - ایک چیز میں دوسری

چیز کا لجاتا نہ ہونا۔ رنج پہنچانا جھوٹ

عروضہ بنا - تباہ و غلبہ کر دینا۔ آلودہ ہونا۔ غلامت

کنا - زائل کرنا۔ تلوار کو رنگ سے صاف کرنا۔

قَسَب - زہر - نفس جہ: آقَسَاب

قَسَبَة - مکے کی مچھٹ - بالائی۔

قَسَبَر - (ن) نقصان پہنچانا - پوست

اُتارنا - جھلکا اُتارنا۔

قَسَبَر - جھلکا - اوپر کا نخل پرودہ - پوسٹین جہ: قَسَبَرُون

(حکایت) قَسَبَرَاء - بیانیہ جس نے کبھی اُتار دی ہو

(تجھ) قَسَبَرَاء درخت جس کی پھال اُتر

گئی ہو۔

قَسَبَرَاء - درخت کی پھال - ایک قسم کا گیہوں جو

پھوٹا اور گول ہوتا ہے۔

قَسَبَاء - بارش جو زمین کو صاف کر دے۔



او ٹول کا نگران جو ان کے ساتھ رہے اور  
خبر گیری کرے۔ مضاری کا سردار اور ان  
کا مالچ ہے۔ قسوس میں دن اُڑا کہہ کر  
کسی کو رنجیدہ کرنا۔ اونٹوں کو اچھی طرح  
چراننا۔ چغلی کھانا۔ جس جو کرنا۔

قَسَّاح - خشک سخت۔  
قَسَّاحَة - قسوح۔ (ف) سخت ہو جانا۔ ذک کی تریز  
کا بہت زیادہ ہونا (رتی) بیٹا۔

قَسَّار - خوبصورتی۔ گرمی کی تیزی۔ دن چڑھے  
سے دوپہر تک کا وقت

قَسَّامَة - فریقین کی آپس میں صلح ہے۔ قَسَّامَات  
جو اشخاص قسم کھا کر کسی چیز کو حاصل کریں  
میں (ک) خوبصورت ہونا۔

قَسَّامَة - خیرات و صدقہ یا نشتے والا جو چیز اپنے  
لئے الگ رکھے۔

قَسَّب - ہر دن اور سخت چیز (حق) (پانی کا)  
جاری ہوتا۔ سورج کا قریب پہنچنا  
قَسَّس (دن) کسی کو زبردستی کسی کام کی ذمہ داری  
سونپنا۔ مقلوب کرنا۔

قَسَّط - قسوط۔ (س) ظلم کرنا۔ حق سے متنبھیرنا۔  
کسی چیز کو بھیرنا۔

قَسَّط - قسوط۔ (س) چمپایہ کی پنڈلی کی بڑیوں  
کا سیدھا ہونا (یہ عیب ہے)۔

قَسَّط - انصاف۔ عدل (واحد و جمع) حصہ۔  
آدھے صاع کا ایک پیمانہ مقدار رزق  
ترازو۔ کوزہ۔

قَسَّط - ایک دو کا نام۔ جو دو قسم کی ہوتی ہے  
شیریں و تلخ۔ اگر۔

قَسَّطاس - ترازو۔ صحیح وزن و سینے والی ترازو

بند ہو جانا۔

قَسَّاح - قَسَّاحَان - (ف) س) ہانڈی کے جھاگ  
جو منہ پر آگئے ہوں صاف کرنا۔

قَسَّاح - ہانڈی کا مصالحہ تخم پیاز۔ ساق کی بیٹ  
قَسَّاح - قَسَّاحَة - (ف) س) کتے کا پیشاپ کرنا  
قَسَّاحَة - رنگ بزمگ کی دھاریاں۔

قَسَّاح - بادل کے چھوٹے چھوٹے ٹھوسے بچھے  
ہوئے وا۔ قَسَّاحَة

قَسَّاحَة - زنا سے پیدا ہونے والا بھائی چھیڑا  
قَسَّاح - لنگڑا پن میں (س) تازے ٹنگ ٹنگ  
کر چلنا کٹے ہوئے پاؤں والے کی طرح  
چلنا۔

قَسَّاح - (رض) کو دنا۔ ننگڑا کر چلنا۔  
قَسَّاح - (واحد و جمع مذکر مؤنث) ذلیل طبیعت  
رکھنے والا کمینہ۔ بونام۔ قَسَّاحَة  
جہ۔ آقَسَّاح میں (س) ذلیل طبیعت  
رکھنا۔ بد مزاج ہونا۔

قَسَّاح - قَسَّاح - (س) ذلیل طبیعت والا بیخ ذات  
م۔ قَسَّاحَة - حقیر جسم کا ذلیل طبیعت کا  
جاہل آدمی۔ جہ۔ قَسَّاح - آقَسَّاح

قَسَّاح - (ن) عیب لگانا۔  
قَسَّاح - (س) ذلیل ہونا۔ بد خلق ہونا۔

قَسَّاح - (ن) آلو کوگی سے دور رہنا۔ گناہ سے  
پاک اور محتاط رہنا۔ زمین کر دینا۔

قَسَّاح - (ف) ہرن کا دوڑنا چھٹ و چالاک  
ہونا۔ جلدی کرنا۔ دیر کرنا۔

قَسَّاح - (ن) عیب لگانا۔  
قَسَّاح - (س) ذلیل ہونا۔ بد خلق ہونا۔

قَسَّاح - (ن) آلو کوگی سے دور رہنا۔ گناہ سے  
پاک اور محتاط رہنا۔ زمین کر دینا۔

قَسَّاح - (ف) ہرن کا دوڑنا چھٹ و چالاک  
ہونا۔ جلدی کرنا۔ دیر کرنا۔

## ق - س

قَسَّاح - پالاجو جاڑے کے موسم میں گرتا ہے۔

قصوف - (ص) اکھانے پینے کی فراخی اور آسودگی میں ہونا۔

قصوی - قصیبا - بہت دور - میدان کا آخری کنارہ  
قصی - کنارہ - گوشہ جہ - آقصاء -

قصی - قصاء - (ص) دور ہو جانا - کنارہ پر ہو جانا۔  
قصی - دور ہونے والا بچید - دور جہ - آقصاء  
قصی - حضور کے سلسلہ نسب میں ایک شخص کا لقب

جس کا اصل نام زید بن کلاب ہے۔

قصیب - (مذکر مؤنث) اذنت یا اذنی جو پانی پوری  
طرح نہ پئے اور رک جائے۔

قصینۃ - گندھے ہوئے بالوں کی ٹٹ - ٹٹے ہوئے  
بالوں کا مٹھا - نزل کے دو گروہوں کے درمیان

حقتہ - جہ - قصایب -

(سُحْر) قصید - ٹوٹا ہوا نیزہ (لحم) قصید  
خشک گوشت (شعب) قصید عمدہ

اور نفیس شعر۔

قصیدۃ - وہ نظم جس میں مطلع ہو اور اس کے اشعار  
کی تعداد سولہ سے اوپر ہو جہ - قصاید

قصید - کوتاہ چھوٹا جہ - قصراء - قصائد  
قصیر النسب - جس کا باپ مشہور ہو کہ اس کے

ذکر کے بعد دادا کے ذکر کی ضرورت نہ پڑے  
مہ - قصیرۃ النسب

قصیرۃ النسب - جس کے اعضاء پیدائشی طور پر  
چھوٹے پھیلے ہوں۔

قصیدۃ - پست قامت عورت - ٹھکنی جس عورت کو  
گھر سے باہر نہ جانے دیں جہ - قصار

قصارۃ -

قصیمتہ - وہ اونٹ جس پر خانہ داری اور کھانے پینے  
کا سامان ہو جہ - قصائص ایک

• درازی کے سبب خمیدہ ہو جائے۔ آدھا  
دانت ٹوٹ جائے۔

تصفۃ - سیرطی کا ڈنڈا جہ - قصف - قصفان  
قصل - (ص) کاٹ ڈالنا - گردن پر مارنا - غرمن

گندم کو پامال کرنا۔

قصل - کینہ نیرج - ذیل - جہ - آقصال  
قصل - جھوسا وغیرہ جو گیموں کو صاف کرنے کے

وقت دور کیا جائے۔

قضم - غلوہ کیا ہوا اور ٹوٹا ہوا ٹیکڑا چرکا گاہ۔  
جہ - آقظام میں (ص) توڑ ڈالنا - جڈا گنا

واپس لوٹ آنا۔

قضم - اگلے دانتوں کی خشکی - مدھی کا انڈا۔  
میں (ص) کسی کے اگلے دانتوں کا ٹوٹ جانا

قضم - جلد توڑ دینے والا۔

قضم - وہ کہ جو چیز اس کو نظر پڑے تو ٹوڑالے  
قضاء - ٹوٹے ہوئے سیگ کی بھیڑ یا بکری جہ -

قضم -

قصبۃ - سیرطی کا ڈنڈا۔

قصبۃ - (مغش) جڈا کیا ہوا اور ٹوٹا ہوا ٹیکڑا۔  
قصو - قصو - (ن) غالب ہونا۔ اذنی وغیرہ کا

کان تھوڑا سا کاٹ دینا [عن] دور ہونا  
قضاؤ - اذنی یا بکری جس کا کان کٹا ہوا ہو۔ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی اذنی کا نام مگر اس  
کا کان کٹا ہوا نہ تھا۔

قصبوب - جس بکری کے بال کاٹے جائیں۔  
قضوس - (ن) کسی کام سے روک رہنا اور اس کو

نہ کر سکتا۔ درد کا یا عفتہ کا ڈب جانا۔

قصولۃ - وہ کوٹھی یا کرہ جو لوٹھن کے لئے آراستہ  
کیا جائے۔ پردہ نشین عورت۔

گھاس کا نام جو۔ قَصَبِیْن

قَصَبِیْن

وہ لڑکا جو دیر میں جوان ہو۔

قَصِیْف - درخت سے گری ہوئی چیز پتے وغیرہ۔

ادب کی آواز۔ نینچ سے ٹوٹا ہوا۔

قَصِیْل - سبز چارہ وغیرہ جو کھیت میں سے کاٹا

جائے۔ گروہ۔ ٹولی۔

قَضِیْلَة - آدمی یا ادب جو ٹھکننا اور چڑا چکلا

اور پر گوشت ہو۔

## ق - ص

قَصَص - کنکر یا مقام چھوٹی کنکری (ص)، (موتی

میں) سوراخ کرنا۔ اور دو شیرہ کی بکارت

ذائل کرنا۔ کوٹنا۔ کاٹنا۔ علی کسی پر گھوڑا

دوڑانا (ص) کھانے وغیرہ میں کنکریاں

کثرت سے ہونا۔

قَصَصٌ - (ص) کھانا خراب اور بدبودار ہونا۔

بوسیدہ اور بڑانا ہونا۔

قَصَصَاء - سخت قسم کی تڑہ جس میں مینیں لگی ہوئی

ہوں۔ اذخوں کا گلہ تیس سے چالیس تک

پوڑھا آدمی۔

قَصَصَاء - حکم۔ فرمان۔ کسی چیز کا اندازہ (د) پھیل

سب ڈویژن - ج - : آقَضِیْلَة -

قَضَابَة - قَصَصٌ - (ص) کسی کے حسب کا خراب ہونا

اس کے اندر ذاتی خوبیاں معدوم ہونا۔

قَصَا - (ص) کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ بنانا

پورا کرنا۔ ادا کرنا۔ نافذ کرنا (علی) مار

ڈالتا (مجبوراً) (علی) مرجانا۔

قَصَاب - بہت کاٹنے والی تلوار۔

قَضَابَة - معاملات کو خوب فیصل کرنے والا۔

شمشیر مڑنا

قَضَابَة - وہ ٹکڑا جو کسی چیز میں سے کاٹا جائے

نکڑی کے ٹکڑے اور ریزے جو نکڑی

کاٹنے کے وقت گریں۔

قَضَابَة - عیب۔ ننگ۔ وعار۔ تباہی وغیرہ۔

قَضَا - فیصلہ کرنے والے وا۔ قاضی

ایک بھائی جو ولادت کے وقت بچے کے

مذہ پر تہنی ہوتی ہے۔

قَضَاع - باریک گرد و غبار۔ پیٹ کا درد اور

مڑوڑ۔

قَضَاعَة - تیندوا۔ پانی کا کتا۔ باریک گرد و غبار

بین کے ایک قبیلہ کا پاپ جس کی طرف

وہ قبیلہ منسوب ہے۔ اور تہنی قضاہ

کہلاتا ہے۔

قَصَب - ادبچا اور پھیلا ہوا درخت۔ شاخ جو

کمان کے لئے کافی لگی ہو (ص) کاٹنا

کوڑے مارتا۔ اونٹنی پر اس کے تالیوں

ہونے سے پہلے سوار ہو جاتا۔

قَصَبَة - ایک گھاس جو :- قَصَبٌ -

قَصَبَة - کڑا پن مہ کنزار پن دور کرنا۔

قَصَص - کنکری جو دانت کے نیچے ٹوٹ کر ریزہ

ریزہ ہو جائے۔ چھوٹی کنکری۔ خاک جو

فرش پر جم جائے۔

(مکان) قَصِیْن - کنکری زمین طعام قَصِیْن

کھانا جس میں کنکریاں ہوں۔

قَصَص - پیٹ کا درد اور مڑوڑ (ص) ظلم کرنا

مغلوب کرنا۔

قَصَصَم - سن رسیدہ اور بڑھا آدمی - ج -

قَضَاعِم -

قَصَفَ - قَصَفَ - قَصَافَةٌ - باریکی - دلہایا پتلے پتلے پتھر -

قَصَمَ - دانتوں کی پھین اور ان کے کناروں کی شکستگی - دانتوں کی کمی اور ان کا پھوٹنا - تلوار (س) دانتوں کا پھٹ جانا - یا ان کا سیاہ ہو جانا -

قَصِمَ - تلوار جس کی دھار ٹوٹ گئی ہو -

قَصَمَ - (س) چنے وغیرہ چبانا - خشک چیز کو کرام کرنا چبانے سے چارہ کو کھانا -

قَصَمَاہُ - وہ عورت جس کے دانت تیز نہ ہوں -

قَصَمَتَہُ - وہ چیز جو چبا کر کرام کھائی جائے چینی -

قَصِيٌّ - مروت - جو قرض بھلا دے جو انصاف اور حکومت کے معاملہ میں خوب ہوشیار ہو -

قَصِيٌّ - قَصَاءٌ - قَصِيَّةٌ - (حق) حکم دینا جانا کسی کا کام نکال دینا - نصیحت کرنا - روکنا

قرض ادا کرنا - واجب کرنا - قوت بیانہ کا کسی میں ہونا - بیان کرنا - بنانا - نہ فرصت پانا - گزرتا (الحی) آگاہ کرنا (علی) [

مار ڈالنا - خلاف فیصلہ کرنا (ل) حق میں فیصلہ کرنا -

قَصِيْبٌ - کٹی ہوئی شاخ جہ - قَصْبَانٌ ذکر - گدھے کا ذکر کوڑا - اونٹنی جو اجمالی قابو میں نہ آتی ہو تیز تلوار (د) ریل کی پٹری جہ - قَصْبٌ -

قَصِيَّةٌ حکم - جہ - قَصَايَا قَصِيْفٌ - بڑی کنکری - اونٹ کے تنگ کے ٹوٹنے کی آواز (مصح) اونٹ کے تنگ کا اس طرح آواز کرنا کہ گویا ٹوٹنے والا ہے -

ستوں میں کوئی خشک چیز - شکر وغیرہ طابا -

قَصِيفٌ - باریک اور پتلا - دُ بِلَا جہ - قَصْفَانٌ قَصِيْفَاتٌ -

قَصِيْمٌ - لکھنے کے لئے سفید چمڑا - جہ - قَصَمَ جس کے دانت جھج گئے ہوں - پرائی تلوار جس کی دھار گئی ہو چمڑے کی پھیلی -

چمڑے کا فرش چاندی - جانور کا چارہ اور اس کا دانہ -

قَصِيْمَةٌ - چمڑے کا فرش جہ - قَصَائِمٌ -

## ق - ط

قَطٌ - قَطٌ - (ظرف زمان) کبھی (یہ پیشہ نئی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے) -

قَطٌ - (اسم فعل) بس (اس صورت میں طابا کے ساتھ آتا ہے اس پر اکثر فاروقی لکھی جاتی ہے) -

قَطٌ - گھونگریا لے بال خمیدہ بالوں والا - مص (ن) کاٹنا چمڑائی میں کاٹنا -

حصہ تک - قبائل - حساب کا چیز جہ - قَطُوْطٌ بِلَا جہ - قَطَاطٌ - قَطَطٌ رات کی ایک ساعت -

قَطَاةٌ - سرین - بھٹ تیز جہ - قَطَا قَطَوَاتٌ - قَطِيَّاتٌ -

قَطَاَسٌ - اونٹوں کی ایک لین (د) ریل - ٹرین - جہ - قَطِيٌّ - قَطِيَّاتٌ -

قَطَارُ الْقِيَّاتِ - مال گاڑی (د) قَطَاَسُ الرِّكَابِ - مسافر گاڑی (د) قَطَاَسٌ - بڑی بڑی بوندوں کی بارش -

قَطَّارَة - جو چیز ٹیک ٹیک کر گرے چوٹی ہوئی  
قِطَاط - بالوں کا بہت گھونگر یا لاپن۔ غار پہاڑ  
اور تھکر کا کنارہ ج:۔ آ قِطَّة -

قَطَّاط - ڈبیاں بنانے والا۔

قِطَاع قِطِيعِي - دم۔ انگوروں وغیرہ کے پکنے  
کا اور ان کے کاٹنے کا وقت۔  
قِطَاعَة - ٹکڑا جو کسی چیز سے کاٹ کر علیحدہ کیا جائے  
کٹن۔ کترن۔ نقر۔

قِطَاعَة - بات نہ کر سکتا۔ کم سخن ہونا۔

قِطَاف - انگور کاٹنے کا وقت چھوٹا قدم۔

قِطَاف - قِطُوف (ن۔ ص) چوپایہ کا سست  
رفتار ہو جانا۔ پھوٹے پھوٹے قدم رکھنا  
خراش لگانا۔

قِطَاف (بروزن قِطَام) لوندی۔

قِطَاقَة - انگور وغیرہ جو خوشے میں سے توڑنے  
کے وقت گر جائے۔

قِطَاه - قِطَامِي - شکر ایساں کا گوشت۔

قِطَان - دروازہ کی پٹی کی ٹکڑی۔ شکنجہ۔ ہودہ  
کی ٹکڑی ج:۔ قِطُن

قِطْب - قِطْب - جانب شمال ایک ساکن ستارہ

ہے جس سے قبل کی تیسین کی جاتی ہے۔ قوم

کا سردار جس پر معاملات کا دار و مدار

ہو پیر و مرشد۔ وہ چیز جس پر کسی چیز کا

دار و مدار ہو ج:۔ ا قِطَاف - قِطُوف

قِطْبَة - چکی کی کیلی۔ آسان کی کیلی (ص) کاٹنا

جمع کرتا۔ ضربت ملانا۔ غصہ دلانا۔ برتن

بھرننا۔

قِطْب - قِطُوب - (ص) چیں برجیں ہونا۔

ترش رو ہونا اور پیشانی پر پیل ڈالنا

چکی کی کیلی۔ ستون وغیرہ جس پر  
نشا نہ رکھا جائے۔ ج:۔

قِطْب

قِطْس - ہارش۔ پکی ہوئی چیز۔ قِطْرَة ایک

بوند ج:۔ قِطَار -

قِطْر - قِطُوس - قِطْرَان (ن) پیکنا۔ پیکنا نا۔ ذبوں

کو ایک قطار میں کرنا۔ پیکڑ رکھنا۔

قِطْس - تانا۔ پگھلا ہوا تانا۔ مال۔

قِطْس - کنارہ۔ طرف (د) ملک ج:۔ آ قِطَار

اگر جس کا دھواں خوشبودار ہوتا ہے۔

قِطَر - ایک شہر کا نام مہی کچھ مال تول سے

خریدنا۔ اور باقی اسی حساب سے

بغیر تولے اٹکل سے لینا۔

قِطْرَان - ایک مثال مادہ ہے جو بعض درختوں

سے نکالا جاتا ہے۔

قِطْرِب - چور چوہا بغیر بالوں کا بھیڑ یا۔ دیو

بیابانی۔ بے وقوف آدمی۔ بزدل و ذلیل

ایک کیرا جو ہر وقت ادھر ادھر ناچتا

ہی رہتا ہے۔

قِطْرَة - قِطْرَان - قِطْرَان - قِطْرَان

قِطْرَان - قِطْرَان - قِطْرَان - قِطْرَان

قِطْرَان - قِطْرَان - قِطْرَان - قِطْرَان

قِطْرَان - قِطْرَان - قِطْرَان - قِطْرَان

قِطْرَان - قِطْرَان - قِطْرَان - قِطْرَان

قِطْرَان - قِطْرَان - قِطْرَان - قِطْرَان

قِطْرَان - قِطْرَان - قِطْرَان - قِطْرَان

قِطْرَان - قِطْرَان - قِطْرَان - قِطْرَان

قِطْرَان - قِطْرَان - قِطْرَان - قِطْرَان

قِطْرَان - قِطْرَان - قِطْرَان - قِطْرَان

قِطْرَان - قِطْرَان - قِطْرَان - قِطْرَان

قَطْمِير - قَطْمَس - کھجور کی گٹھلی کا ٹکٹا کھجور  
کی گٹھلی کا پھلکا - کھجور کی پشت پر ذرا  
سی مدد گہرائی - جہاں سے وہ بھجوتی  
ہے -

قَطْن - رزئی -

قَطْن - (ن) کسی جگہ پہ پڑنا اور اس جگہ کو ٹپ  
بنالینا - خدمت کرنا -

قَطْنَة - روئی کا پھایا -

قَطْنَة - قَطْنَة - جو چین بہت والی ہو -

قَطْنِيَّة - گیوں جو انگور اور کھجور کے علاوہ  
ہرغلہ اور گھاس -

قَطْو - (ن) سست رفتار ہونا خوشی میں  
قدم پاس پاس رکھ کر چلنا -

قَطْوَان - جو قدم چھوٹے چھوٹے رکھ کر چلے -

قَطْوِب - ترش و ادھی جیں جیں - شیر -

قَطْوُس - ابر جو پٹاپ بے جلا جائے -

قَطْوُس - (ن) ڈوڑر جانا - بھتی کے ساتھ پھیلا  
دینا - ٹپک دینا - کپڑا سینا - اونٹ پر  
روغن قطان ملنا - پتلی چیر کا بہنا -

قَطْوَع - قَطَاع - (ن) کتیر کی پانی ختم ہو جانا  
پرندوں کا سرد مقام سے گرم مقام میں  
منتقل ہونا یا اس کے برعکس -

قَطْوَع - ادبلی جس کا دودھ جلد سوکھ جائے -

قَطْوَع - چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر آہستہ آہستہ  
چلنے والا چوپایہ -

قَطْوَن - (ن) کہیں مقیم ہو جانا اور رہ پڑنا  
خدمت کرنا -

قَطْبِيح - بکریوں وغیرہ کا ریوڑ جو - آقَطَاع  
کوڑا تازیا - جو - قَطْعَاء شاخ جبر کا

کر کے زبان بند کر دینا -

قَطْح - قَطْبِيحَة - (ن) رشتہ داری توڑ دینا - کسی  
سے گلا گھونٹ دینا - پھانسی دے لینا -

آدھا حوض بھر کے پھوڑ دینا کسی وجہ سے  
قافلہ سے زہ جانا (مجبوراً آخری معنی میں)

قَطْح - قَطْعَة قَطْح - مص ہاتھ کٹ جانا -

قَطْح - درخت کا کٹ ہوا ٹکڑا - تیر کا ایک قسم کا  
چوڑا اور پھیلا پھل جو - آقَطْح - آقَطَاع

قَطَاع

قَطْح - رات کا ایک حصہ -

قَطْح - دم - چارہ کی خشک شدگی -

قَطْح - رشتہ داروں کو ستانے والا -

قَطْعَاء - ہاتھ کٹی ہوئی عورت -

قَطْعَة - کسی چیز کا ٹکڑا - جو - قَطْح  
قَطْعَة - کٹنے کے بعد باقی ہاتھ جو - قَطْح ٹکڑا

سینف گیوں اور اس کی جھوسا - جو -

قَطْح کا ٹٹے کی جگہ مص کتیر کی  
خسک ہو جانا -

قَطْعَة - کاٹنے کی جگہ -

قَطْف - خواش جو - قَطْوَف معلوق، انگور  
وغیرہ کے خوشے توڑنا -

قَطْف - انگور کا خوشہ جو - قَطْوَف -

قَطْف - اثر - نشان -

قَطْل - (ن) کاٹنا - گردن پر مارنا -

قَطْم - خواہش رکھنے والا -

قَطْم - (ن) دانت سے کاٹنا - دانتوں سے  
پکڑنا اور چکھنا -

قَطْم - خواہش (ن) زاونٹ کا مادہ کی  
خواہش کرنا -

تیر بنے ج:- قَطْعَانِ وَاَقِطَعَةٍ  
قَطِيعُ الْقِيَامِ - جو ضعف یا موٹاپے کے سبب

بیٹھنے کی جگہ۔  
قَعْدَةٌ - اونٹ جو مردھے کے کام میں ہو۔ گدھا  
ج:- قَعْدَاتُ زَبْنٍ - پالان۔

اُمٹھنے کے۔  
رَأْفَةٌ (قَطِيعُ الْكَلَامِ) کم سخن عورت

قَعْدَةٌ - بہت بیٹھنے والا لکھنؤ۔  
قَعْدَةٌ - ہودہ - عورتوں کی ایک مخصوص سواری  
فرش۔

قَطِيعَاءُ - ایک قسم کا کھجور۔ آپس کا تفرقہ۔  
قَطِيعَةٌ - جدائی تفرقہ۔ جائداد یا جاگیر ج:- قَطَائِعُ

قَعْدَةٌ - ایک بار بیٹھنا  
قَعْدَةٌ - ذلیل و حقیر اور گنہگار

قَطِيفَةٌ - روئیں دار کپڑا ج:- قَطَائِفُ - قُطْفُ -  
قَطِيشٌ - کٹ ہوا کھجور کا درخت)

قَعْدِيٌّ - قَعْدِيَّةٌ - بہت بیٹھنے والا عمدی نکل۔  
قَعْدٌ - گہرائی ملی ج:- قَعْدُوسٌ بڑا پیالہ گڑھا

قَطِيئَةٌ - کبیل وغیرہ کا ٹکڑا جو بدن سکھانے کے کا  
آئے - تولیہ۔

قَعْدَةٌ - ہموار زمین میں شہر (قَعْدِیُّنِ) کی تھاہ  
میں پہنچ جاتا۔ کنوئیں کو بہت گہرا کرنا۔

قَطِئِينَ - (واحد و جمع) خدمت گار۔ لونڈیاں۔  
نور کچا کر۔ گھروالے ج:- قَطْنٌ -

قَعْدٌ - گہرائی ملی ج:- قَعْدُوسٌ بڑا پیالہ گڑھا  
قَعْدٌ - عقل و دانش۔

قَطِئَةً - گھروالے۔

ق - ع

قَعَادٌ - ایک مرض جس سے آدمی یا جانور اُمٹھ  
نہیں سکتا۔

قَعْدَانٌ - گہرا برتن۔ برتن جس کے پینڈے میں  
تھوڑی سی چیز باقی ہو۔

قَعَادَةٌ - پتنگ (د)  
قَعَائِسٌ - بہت گہرا ہوجانا۔

قَعْرَةٌ - جو چیز برتن کے تلے میں رہ گئی ہو۔  
قَعْرَةٌ - برتن جس کے تلے میں صرف اتنی چیز ہو  
جس سے اس کا تھلا چھپا ہوا ہو۔ وہ عورت

قَعَائِصُ - بکریوں کی ایک منسلک بیماری۔  
(ماء) قَعَاعٌ - بہت کاڑھا پانی۔

قَعْرٌ - جس کی شہوت فرج کی گہرائی میں ہو۔  
قَعْرَايٌ - پیالہ جس میں کوئی چیز اتنی ہو کہ اس کا  
پینڈا اٹھنی ہو۔

قَعَاعٌ - تیز رو (سیل) جو ہر چیز کو ہلے جائے۔  
قَعْبٌ - گہرا اور بڑا پیالہ۔ ج:- اَقْعَبٌ - قَعَابٌ

قَعْبٌ - شہوت وغیرہ سے برتن بھرا سب چڑھا  
جاتا۔ اور گلاس خالی کر دینا۔

قَعْبَةٌ - قَعْبَةٌ بات کی گہرائی اور اس کی تر۔  
قَعْبَةٌ - عورتوں کا خوشبو وغیرہ رکھنے کا ڈبیتو  
رکھنے کا ایک ڈھکن والا برتن۔

قَعْبٌ - شہوت وغیرہ سے برتن بھرا سب چڑھا  
جاتا۔ اور گلاس خالی کر دینا۔

قَعْبَةٌ - پہاڑ کی کھدہ اور اس کا شگاف۔  
قَعْدَةٌ - (مذکورہ و مؤنث) واحد و جمع (آخری اولاد  
ایک قسم کی نشست۔ ایک آدمی کے

قَعْبٌ - جس کا پینڈا باہر نکل آتا۔ اور پیٹھ اندر  
گھس جاتا۔

قَعْبٌ - جس کا پینڈا باہر نکل آتا۔ اور پیٹھ اندر  
گھس جاتا۔

قَعْبٌ - جس کا پینڈا باہر نکل آتا۔ اور پیٹھ اندر  
گھس جاتا۔

قَعَط - بہت سی بکریاں مصرت (مقروض پر سخت تقاضا کرنا۔ ذلیل و خوار ہونا۔

قَعْف - (فت) کھودنا جڑ سے اکھاڑنا۔

قَفْقَاع - جس کے پاؤں کے جوڑ چلنے میں چٹخیں۔

قَهْوَارَا - جھاڑ، تھن راستہ چند بھائی

قَهْوَارَا - جھاڑ، تھن راستہ چند بھائی

قَحْفَح - ایک پرندہ جس کی چوہرخ اور پاؤں لمبے ہوتے ہیں۔

قَفْقَعَة - پھیپھاروں کی جھکا کر جانے میں کڑم کڑم کی آواز۔ بول کی گرج کڑک مص سیر کرنا

چلنا۔

قَعْم - ناک کا ٹیڑھا پن (مص رس) بیمار ہونا

قَعُو - (ن) اونٹنی پر ساند کا چڑھنا۔

قَعُو - (ن) اونٹنی پر ساند کا چڑھنا۔

قَعُو - (ن) اونٹنی پر ساند کا چڑھنا۔

قَعُو - (ن) اونٹنی پر ساند کا چڑھنا۔

قَعُو - (ن) اونٹنی پر ساند کا چڑھنا۔

قَعُو - (ن) اونٹنی پر ساند کا چڑھنا۔

قَعُو - (ن) اونٹنی پر ساند کا چڑھنا۔

قَعُو - (ن) اونٹنی پر ساند کا چڑھنا۔

قَعُو - (ن) اونٹنی پر ساند کا چڑھنا۔

قَعُو - (ن) اونٹنی پر ساند کا چڑھنا۔

قَعُو - (ن) اونٹنی پر ساند کا چڑھنا۔

قَعُو - (ن) اونٹنی پر ساند کا چڑھنا۔

قَعُو - (ن) اونٹنی پر ساند کا چڑھنا۔

قَعُو - (ن) اونٹنی پر ساند کا چڑھنا۔

قَعُو - (ن) اونٹنی پر ساند کا چڑھنا۔

قَعُو - (ن) اونٹنی پر ساند کا چڑھنا۔

قَعُو - (ن) اونٹنی پر ساند کا چڑھنا۔

قَعُو - (ن) اونٹنی پر ساند کا چڑھنا۔

قَعِيد - بہت گہرا۔

قَعِيل - زرخوش۔

## ق - ف

قَف - خشک سبزی (ن) سوکھ کر سکر جانا۔

قَف - خشک سبزی (ن) سوکھ کر سکر جانا۔

قَف - خشک سبزی (ن) سوکھ کر سکر جانا۔

قَف - خشک سبزی (ن) سوکھ کر سکر جانا۔

قَف - خشک سبزی (ن) سوکھ کر سکر جانا۔

قَف - خشک سبزی (ن) سوکھ کر سکر جانا۔

قَف - خشک سبزی (ن) سوکھ کر سکر جانا۔

قَف - خشک سبزی (ن) سوکھ کر سکر جانا۔

قَف - خشک سبزی (ن) سوکھ کر سکر جانا۔

قَف - خشک سبزی (ن) سوکھ کر سکر جانا۔

قَف - خشک سبزی (ن) سوکھ کر سکر جانا۔

قَف - خشک سبزی (ن) سوکھ کر سکر جانا۔

قَف - خشک سبزی (ن) سوکھ کر سکر جانا۔

قَف - خشک سبزی (ن) سوکھ کر سکر جانا۔

قَف - خشک سبزی (ن) سوکھ کر سکر جانا۔

قَف - خشک سبزی (ن) سوکھ کر سکر جانا۔

قَف - خشک سبزی (ن) سوکھ کر سکر جانا۔

قَف - خشک سبزی (ن) سوکھ کر سکر جانا۔

قَف - خشک سبزی (ن) سوکھ کر سکر جانا۔

قَف - خشک سبزی (ن) سوکھ کر سکر جانا۔

قَف - خشک سبزی (ن) سوکھ کر سکر جانا۔

قَف - خشک سبزی (ن) سوکھ کر سکر جانا۔

قَف - خشک سبزی (ن) سوکھ کر سکر جانا۔

قَف - خشک سبزی (ن) سوکھ کر سکر جانا۔

قَف - خشک سبزی (ن) سوکھ کر سکر جانا۔

قَف - خشک سبزی (ن) سوکھ کر سکر جانا۔

قَف - خشک سبزی (ن) سوکھ کر سکر جانا۔

قَف - خشک سبزی (ن) سوکھ کر سکر جانا۔

قَف - خشک سبزی (ن) سوکھ کر سکر جانا۔

قَف - خشک سبزی (ن) سوکھ کر سکر جانا۔

قَف - خشک سبزی (ن) سوکھ کر سکر جانا۔

قَف - خشک سبزی (ن) سوکھ کر سکر جانا۔

قَف - خشک سبزی (ن) سوکھ کر سکر جانا۔

قَف - خشک سبزی (ن) سوکھ کر سکر جانا۔

قَف - خشک سبزی (ن) سوکھ کر سکر جانا۔

قَف - خشک سبزی (ن) سوکھ کر سکر جانا۔

قَف - خشک سبزی (ن) سوکھ کر سکر جانا۔

قَف - خشک سبزی (ن) سوکھ کر سکر جانا۔

قَف - خشک سبزی (ن) سوکھ کر سکر جانا۔

قَف - خشک سبزی (ن) سوکھ کر سکر جانا۔

قَف - خشک سبزی (ن) سوکھ کر سکر جانا۔

قَف - خشک سبزی (ن) سوکھ کر سکر جانا۔

قَف - خشک سبزی (ن) سوکھ کر سکر جانا۔

قَف - خشک سبزی (ن) سوکھ کر سکر جانا۔

قَف - خشک سبزی (ن) سوکھ کر سکر جانا۔

قَف - خشک سبزی (ن) سوکھ کر سکر جانا۔

قَف - خشک سبزی (ن) سوکھ کر سکر جانا۔

قَف - خشک سبزی (ن) سوکھ کر سکر جانا۔



کرتے ہیں۔ مص (س) ہاتھ پاؤں کے  
 اعصاب کا کھینچ جانا۔ تشنج ہونا۔  
 قَفْعَةٌ - لڑکی کی طرح کا ایک نرت۔ تیل نکالنے  
 کا کوھوج۔ ج۔ قَقَاع  
 قَفْقَاز - کوہ قاف۔ کاکیشا۔  
 قَفْقَعَةٌ - جاڑے کے سبب کانپنا۔  
 قَفَل - تالا۔ ج۔ قَفُول۔ اَقْفَال  
 قَفَل - سوکھا ہوا درخت۔  
 قَفْلَةٌ - گردن کا پھیلا۔ خشک درخت۔ کسی چیز  
 کا ایک بار بھنٹنا۔  
 قَفْلَةٌ - جو شخص ایسا ہو کہ جو بات سُن لے اسے  
 یاد رہے۔  
 قَفْن - (ن) بکری وغیرہ کو گدی کی طرف سے ذبح  
 کرنا۔ لوطنا۔  
 قَفْوٌ - قَفْوٌ - (ن) پیروی کرنا۔ پیچھے جانا۔ پیچھے  
 چلنا۔ کسی برے فعل میں کسی کو مبتلا کر دینا  
 گدی پر مارنا۔ زنا کی تہمت لگانا۔ محش  
 گال دینا۔  
 قَفْوَةٌ - گناہ۔ بدی۔ بدکاری۔ تہمت۔ الزام  
 افتراء۔ گالی۔  
 قَفْوَفٌ - (ر) خشک ہونا۔ سوکھ جانا۔  
 قَفْوَلٌ - سفر سے لوٹ آنا۔ چرہ کا اندازہ کرنا کہ  
 کتنی ہے۔ گرائی کے وقت فروخت کے لئے  
 گیہوں جمع کر کے لکھ چھوڑنا (س)۔  
 درخت کا سوکھ جانا۔  
 قَفْوَنٌ - (ر) مرجانا۔  
 قَفْنِيٌّ - کسی کی گردن کے پیچھے مارنا۔ بکری کو  
 گدی کی طرف سے ذبح کرنا۔ ذبح کرنا۔  
 قَفْيِيَّةٌ - قَفَاوَةٌ - جس چیز سے مہمان کی خاطر دلدارا

اور پھوٹی جھوٹی انگلیاں ہونا بغیر شملہ  
 چھوڑے پکڑی باندھنا۔  
 قَفْدَانَةٌ - خوشبو وغیرہ رکھنے کا چڑاہ کا تھیلہ۔  
 قَفْرٌ - چٹیل میدان۔ ج۔ قَفَار۔ قَفْوَدٌ - روھی  
 روٹی (ن) کسی کے پیچھے چلنا۔ مال کم کرنا  
 روھی روٹی ہونا۔  
 قَفْرٌ اَلِيَهُوْ د - ترہ تیزک۔  
 قَفِيْنٌ - کم بالوں والا۔ بیابانی بھیرٹ یا۔  
 قَفِيْنٌ - قَفْرَانٌ - قَفْوَدٌ - (ر) کودنا۔ مرجانا  
 قَفْرِيٌّ - اچھل کود۔ کود پھاندا۔  
 قَفْسٌ - (س) ناک کی ٹوک کا بڑا اور موٹا ہونا  
 قَفْسٌ - قَفْوَسٌ - (ر) مرجانا پکڑ کر غصے  
 گھسیٹنا۔ بال پکڑ کر گھسیٹنا۔  
 قَفْسَاءٌ - پیٹ۔ کیتی عورت۔  
 قَفْسٌ - کفش کا معرب جوتی مص (ن) بہت  
 سختی سے کھانا۔ بہت جماع کرنا۔ تلوار  
 وغیرہ سے مارتا۔ خوشی متانی۔  
 قَفْسٌ - ڈاکو۔ خوفناک چور۔  
 قَفْسِيْلٌ - (ک) کفر گیر کا معرب (ک) کفر گیر۔  
 قَفْصٌ - پنجرہ۔ ٹوڑی کے مشابہ ایک طرف چپتی  
 خوشی مص (س) سردی کی وجہ سے بھر گیا  
 پڑ جانا اور اکڑ جانا۔  
 قَفِصٌ - نسٹا ہوا اور کھڑا ہوا گھوڑا جو چپنا نہ چاہے  
 قَفْصٌ - (ر) مرن کی ٹانگوں کو اکٹھا کر کے باندھ  
 دینا۔ اکٹھا کرنا۔ بندہ کو پنجرہ میں بند کرنا  
 تکلیف دینا۔ ہٹنا اور بچنا ہونا۔  
 قَفْطٌ - (ر) جھتی کرنا۔ جماع کرنا۔  
 قَفْعٌ - لکڑی کی ایک بڑی ڈھال کہ جنگ کے  
 وقت اس کی آڑ میں ہو کر قلعہ پر چڑھائی

قَلَاع - جعل خورد جھوٹا - کفن چور سپاہی -  
 قَلَاعَة - کشتی کا بادبان -  
 قَلَاعَة - زمین سے اُکھڑا ہوا پتھر گوہن میں لکھ کر  
 مارنے کے لائق -  
 قَلَال - قَلَال - تھوڑا -  
 قَلَال - جو کڑی انگریزی کٹی کے لئے استاد کو پانے  
 قَلَامَة - قلم اور ناخن وغیرہ کا تراشہ  
 قَلَامِی الشَّعْشَع - جمہا شعار اپنی عمر کی وجہ سے  
 زندگان دستبرد سے محفوظ رہیں -  
 قَلَائِيَة - خانقاہ عیسائیوں کی جہ، قَلَائِي (د)  
 قَلْب - دل - عقل سمجھ بوجھ - ہر خالص چیز - بشکر  
 وسط - وہ آدمی جس کا نسب خالص ہو  
 چہ، قَلُوبٌ مَعْدِنٌ (ص) کسی کے دل  
 پر مارنا - اُلٹ دینا - پلٹ دینا پیھیر  
 دینا قَل کر دینا -  
 قَلْب - (س) ہزٹ کا الٹ جانا -  
 قَلْب - عورتوں کے ہاتھ کا ٹنگن - جہ - اَخْلَاب  
 قَلُوبٌ - قَلْبَة -  
 قَلْب - معاملات کے لوٹ پوٹ کرنے میں بڑا مہر  
 دجالاک -  
 قَلْبَة الثُّوب - کپڑے کی تہ (د)  
 قَلْبَة - بیماری -  
 قَلْب - ہلاکت مصی (س) ہلاک ہونا -  
 قَلْبَة - پہاڑ کی چوٹی - آدمی کے سر کی کھوپڑی  
 ہر چیز کا بلند ترین حصہ - شُکاکہ -  
 قَلَل - قَلَال -  
 قَلَّة - بیماری سے منطی سے رہائی پانا -  
 قَلَّة - کمی - کپکپی - رزد مصی کم بھانا کسی  
 چیز کو ادبھی اٹھانا -

کریں - نائب - فضیلت - گدی کی طرف  
 سے فزع کی ہوئی بگری -  
 قَفِيْز - ایک پیمانہ ہے پندرہ من انگریزی کے برابر  
 ایک سو چالیس گز زمین جہ - اَقْفِيْزَة  
 قَفِيْزَات -  
 قَفِيْف - سوکھی ہوئی گھاس وغیرہ -  
 قَفِيْل - سوکھا ہوا درخت - کوڑا - پہاڑ کا تنگ  
 راستہ جس میں دوڑ نہ سکیں -

ق - ل

قَل - نیچی دیوار -  
 قَل - کمی - کسی چیز میں سے بہت تھوڑا سا -  
 غیر معروف اور بے کس کس میں آدی -  
 کہ کوئی اس کھانے نہ اس کے ماں باپ کو  
 قَلَاء - قَلَاء (ص) کسی سے دشمنی رکھنا اور  
 نفرت کر کے اُسے چھوڑ دینا -  
 قَلَاء - قلیہ پکانے والا - قلیہ پکانے والے کی  
 کڑھائی یا دیکھی -  
 قَلَاءَة - کڑھائی اور پسیلی بنانے کی جگہ -  
 قَلَاب - دل کی بیماری  
 قَلَادَة - گردن کا زیور بگھونید - کتے وغیرہ کا پٹا  
 تلوار وغیرہ کا پرتلا - جہ - قَلَائِيَة  
 قَلَس - ٹوپیاں بنانے والا - دریا جس میں پانی  
 کثرت سے ہو - اور روانی کی شدت سے  
 جھاگ اُڑیں -  
 قَلَش - ہونا - ٹھگنا - پست قد -  
 قَلَص - ہڈی پر چڑھنے والا -  
 قَلَع - منہ کی ایک بیماری - یعنی منہ آنا - مٹی  
 کی پھڑی -

قَدَّ - (حق) پانی وغیرہ کسی ظرف میں جمع کرنا۔  
 کسی چیز کو دوسری چیز پر پھینکا۔ زنی ٹینا  
 ہر روز بخار آنا حکمت کو پانی دینا۔  
 قَدَّ م - مہر اور جواز کے درمیان ایک شہر ہے۔  
 بحر قزوم اس کی طرف اس لئے منسوب  
 ہے کہ یہ دریا اس شہر کے کنارے شمال کی  
 جانب ہے۔  
 قَدَّن - (ن) حق اہارنا تیر پھینکا خوشی منانا۔  
 پھلانگ مارنا۔ سنگڑانا پھڑی سننے میں  
 کر دینا۔  
 قَدَس - باد پانی جہاز کا موٹا رتہ معدہ سے اڑھل  
 کر جو چیز مزہ میں پہلی بار آئے مص (حق)  
 راگ کے ساتھ ناچنا۔ قتل ہونا۔  
 قَدْسَاة - ٹوٹی اڑھانا۔  
 قَدْسَتِین - پتلیوں پر لپٹنے کی پٹی (د)  
 قَدْطَان - بے غیرت مرد جو پوی سے بیکاری کر لے  
 اور اُس کی کمائی کھائے۔  
 قَدْطِی - بہت چھوٹی تلی۔ یا کتا یا آدمی۔ پلیدو  
 سرکش آدمی۔  
 قَدَّع - چرواہے کا تو شہ دان ج۔۔ قَدْوَع۔  
 آقَدَّع - قیلان مہار کی بسولی۔ بخار  
 کے اتر جانے کا دن مص (حق) کسی  
 چیز کو جڑ سے اٹھا ڈالنا۔ کسی کو اس  
 کے عمدہ سے معزول کر دینا۔ معزول ہو  
 جانا (مجبوراً)  
 قَدَّع - جو زمین پر جم کر نہ بیٹھ سکے۔ کندہ بن جو  
 بات نہ سمجھے۔ جہاز کا بادبان ج۔۔  
 قَدَّع  
 قَدَّع - جو چلنے میں قدم قوت سے رکھے گویا

بندی سے اتر رہا ہے۔  
 قَدَّع - بخار کے اترنے کا وقت۔  
 قَدَّم - خامرہ کلب۔ قلم (د) رسم الخط حکم  
 ج۔۔ آقَدَّام  
 قَدَّم اس دوا۔ سیٹ کی پینسل (د)  
 قَدَّم الْحَجَّص - سیٹ کی پینسل (د)  
 قَدَّم السَّحَاص - پینسل (د)  
 قَدَّیَل - تھوڑا ج۔۔ آقَدَّلاء۔ قَدَّیَل  
 قَدَّیَلَة - تھوڑی ج۔۔ قَدَّیَل  
 قَدَّیَس - بزاز (د)  
 قَدَّیَس - ترکی کپڑا (د)  
 قَدَّیَس - گون۔ بڑا جہ۔ (د)  
 قَدَّیَلَة - بم۔ گولہ (د)  
 قَدَّیَس - چاند۔ ج۔۔ آقَدَّیَس -  
 قَدَّیَسَة - گین۔ جہاز کا کمرہ (د)  
 قَدَّیَس - بہت سخت۔ بہت کڑا۔  
 قَدَّیَس یعنی وہ آلہ جسے بول وغیرہ کے  
 منہ پر رکھ کر قریق چیز بھرتے ہیں ج۔۔  
 آقَدَّیَس -  
 قَدَّیَس - بیکوں کی جڑوں میں ایک قسم کا درم اور  
 زفر۔ آنسو بہتے بہتے بینائی کی کمی مص (س)  
 (دوا کا) سفوف بنانا رانگھیں اتکا وغیرہ  
 پر پڑ جانا۔  
 (طرف) قَدَّیَس - وہ آنکھ میں پھنسیاں پیدا ہونے پر  
 قَدَّیَس - اونٹ کے کوٹان کا سرا۔  
 قَدَّیَس - سردار۔ اعظم۔ دریا کثیر تعداد چھوٹی  
 چیز چڑھی۔ ایک قسم کی جوں وہ۔  
 قَدَّیَسَة -  
 قَدَّیَس - گھڑا ج۔۔ قَدَّیَس -

ق - ن

قن - (ن) کسی کے پیچھے جا کر حال معلوم کرنا۔  
گم شدہ چیز کو دیکھنا بھالنا۔ لاٹھی سے مارنا۔

قن - بھڑٹا پہاڑ۔ آستین۔

قن - غلام جس کے ماں باپ بھی غلام ہوں  
ادوحد و جمع مذکر مؤنث (جہ)۔ آقنان  
آقنتہ

قن - خوشہ گچھا۔ جہ۔ آقنا

قنا الحائضہ - دیوار کا وہ رخ جس پر سایہ پھیرے

قنا - (س) مرجانا۔ بدن کی جلد کا خراب ہوجانا

قنا - نیزہ بنانے والا۔ نیزہ والا۔

قنا - خوشہ کے پتے۔

قنا - نیزہ۔ لاٹھی۔ نمر۔ جہ۔ قنات۔ قنا

قنات -

قنا - بری باتیں۔

قناع - پردہ۔ دل کا پردہ۔ پردہ جھپڑہ

قناع - پردہ ہٹا ہے جہ۔ قناع

قناع - بڑی ناک والا آدمی۔

قنال - نسر (د)

قنان - بغل کی بو۔ آستین۔

قنا - غلامی۔ ملکیت۔

قناب - قناب (ن) قناب یعنی کوہستان میں

داخل ہوتا اور گور کی بیل کی ایک شاخیں

کاٹ دینا اور غلاف میں سے پھول کا ابرو بدلتا

قناب - گھوڑے وغیرہ کا غلاف ذکر۔ عورت کی

فرج کے درمیان کا زائد گوشت کشتی کا

بڑا ابادان۔ کمان کا چمڑے کا چنگل۔

قنمہ - ایک قسم کا برتن۔

قنم - جوں و ذمہ۔ قنمہ

قنم - چھوٹی چھوٹی بیڑی پر کی مڈی۔ واہ۔ قنمہ

قنم - (س) سرکار جوڑوں سے بھر جانا۔ قوم کا بہت

ہوجانا۔ لاٹھی کے بعد موٹا ہوجانا۔ پیٹ

بڑھ جانا۔

قنمہ - قنمہ - بہت بھڑٹے قدر کی عورت۔ بونی

قنمہ - بونما بہت ٹھنکا۔ ذلیل و حقیر جھکل کا

آدمی جو شہر میں رہنے لگے۔

قنم - لائق۔ سرا دار۔ مستحق (اس کا شہرہ و جمع

اور مؤنث نہیں ہوتا)۔

قنمہ - بدبو۔

قنمہ - قنمہ۔ قنمہ (ن) چوپایہ

کا فریہ ہونا۔

قنمہ - وہ کنواں جس میں پانی خوب ہو کر ڈول

ڈوب جائے۔

قنمہ - سواری کا جانور جو سوار کو جنبش دے

اور ملتا ہوا لے چلے۔ شیر۔ جو جنبش ایک

جگہ قرار نہ پکڑے۔ نجیب کی ایک پہاڑی

قنمہ - بھوک کی کمی کھانے کی رغبت نہ ہونا۔

قنمہ - ذلیل و خوار۔ جہ۔ قنمہ۔ قنمہ

قنمہ - جوارش۔ ستروغیرہ۔ جہ۔ قنمہ

قنمہ - کنواری۔ دو شیرہ جوارش جہ۔ قنمہ

قنمہ - دریا۔ جہ۔ قنمہ

قنمہ - کرتا۔ وہ پھلی جس میں پھر چمکے اندر رہتا

ہے۔ دل کا غلاف جہ۔ قنمہ

قنمہ - قنمہ۔ قنمہ۔

قنمہ - خشک ساگ۔

قَلْب - ایک قسم کی المی  
 قَنْبَرَة - مرغی وغیرہ کی کھٹی  
 قَنْبِص - ٹھکانا آدمی ج۔ قَنْبِص  
 قَنْبِج - ٹھکانا مرد م۔ قَنْبِجَة ایک رومال  
 جو عورتیں سر پر اڑھتی ہیں۔  
 قَنْبِجَة - پھول کا کلی کے غلات کے اندر ہونا۔  
 گھر میں چھپ رہنا۔ غصہ سے پھول جانا  
 قَنْبِجَة - شکر ذکا غلات  
 قَنْبِل - آدمیوں کا گروہ گھوڑوں کا گروہ ۲۰ سے  
 ۴۰ تک ج۔ قَنْبِل  
 قَنْبِل - ایک درخت کا نام۔ سخت آدمی خوش مزاج  
 اور پھر تیرا لڑکا۔  
 قَنْبِلَة - گولہ بوب (د)  
 قَنْبَة - پھوپھا پاٹ۔ پہاڑ کی چوٹی ج۔ قَنْب  
 قَنْبَان  
 قَنْب - (ت) موڑنا۔ گھمانا۔ خم دینا۔  
 قَنْب - کنڈا معرب یعنی شکر۔ گڑ ج۔ قَنْو د  
 قَنْدَاق - بندوق کا نڈہ (د)  
 قَنْدَیْد - شکر۔ گڑ۔ مشک۔ عنبر کا فور۔ ایک  
 مرکب خوشبو۔ آدمی کا حال ج۔ قَنْدَیْد  
 قَنْدَیْل - چراغ وغیرہ جس کے ذریعہ روشنی کی جاتی  
 ہے ج۔ قَنْدَیْل -  
 قَنْدَع - دیوت بھڑوا۔  
 قَنْس - اصل۔ بڑی۔  
 قَنْسَر - قَنْسَر قَنْسَر - بہت بڑی عمر کا بوڑھا  
 پرانا۔  
 قَنْص - (ص) شکار کرنا۔  
 قَنْص - شکار۔  
 قَنْصَل - کونسل۔ سفیر (د)

قَنْصِیْلَة - سفارت خانہ (د)  
 قَنْط - بچے کی چھنومص (ت) (ص) روکنا  
 مانوس ہونا۔  
 قَنْط - قَنْطَة (ن) س۔ لک) ناما مید ہونا۔  
 قَنْط - نا امید۔  
 قَنْطَاس - سونے یا چاندی کی کثیر مقدار سونے اور  
 چاندی کا ڈھیر (د) سو پونڈ کا وزن  
 ج۔ قَنْطَیْد -  
 قَنْطِص - سختی بمصیبت۔ ناخستہ کے مشابہ ایک  
 پرندہ۔  
 قَنْطَرَة - بڑا ایل۔ بلذعات مع جنگل چھوڑ کر شہر  
 میں مقیم ہو جانا جماع کرنا [علی] دیر  
 تک ٹھہرنا کسی جگہ رہ پڑنا۔  
 قَنْطُورَاء - حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لونڈی  
 جس کی نسل سے ترک ہیں۔ اس لئے  
 ان کو تر قَنْطُوراء کہتے ہیں۔  
 قَنْح - قَنْعَة۔ قَنْعَان (س) اپنی قسمت پر  
 خوش رہنا اور زیادہ کی ہوس نہ کرنا۔  
 قَنْح - قانع آدمی جو اپنے حصہ اور اپنی قسمت  
 پر راضی ہو۔  
 قَنْح - ہتھیار ج۔ اَنْعَان قَنْعَان کھجور کے  
 تپوں کی ڈلیہ۔  
 قَنْعَات - وہ شخص جس کے چہرہ اور بدن پر بہت  
 سے بال ہوں۔  
 قَنْعَة - مٹی کے دو ٹیلوں کے درمیان ہموار  
 جگہ ج۔ قَنْح -  
 قَنْعَة - سوال۔ حاجت  
 قَنْعَة المَجَل - پہاڑ کی چوٹی۔  
 قَنْعَسَة - سختی۔ گردن کی کوتاہی۔ گردن کا بہت

قَفَّوۃ - (س) مٹی کا پھٹ جانا۔ کان کا پھڑپھڑانا ہونا۔  
 قَفَّوۃ - سیبی (خارپوشت) چربا ہے۔ قَفَّوۃ قَفَّوۃ  
 مہ۔ قَفَّوۃ قَفَّوۃ۔  
 قَفَّوۃ سب - بڑا ہا اور سن رسیدہ آدمی۔  
 قَفَّوۃ - (س) بدبودار ہونا۔ خراب ہوجانا گھوڑ  
 وغیرہ کے جسم پر میل جم جانا۔  
 قَفَّوۃ - ہاتھ جس میں تیل کی بدبودار ہو۔  
 قَفَّوۃ - تیل وغیرہ کی بدبودار۔  
 قَفَّوۃ - راستہ۔ روش۔  
 قَفَّوۃ - خوشبو۔ دوہنے کی بکری جہ۔ آقَفَّوۃ  
 قَفَّوۃ قَفَّوۃ - (ن) جمع کرنا۔ بکری وغیرہ  
 کو دوہنے کے لئے بچھڑانا۔ خدا تعالیٰ کا  
 کسی شے کو پیدا کرنا۔  
 قَفَّوۃ - بہت سرخ ہونا (دودھ کو پانی میں)  
 ملانا۔ قتل کرنا۔ مار ڈالنا۔ تیل پڑھانا  
 دباغت کرنا۔ داڑھی میں خضاب کرنا۔  
 قَفَّوۃ - اونچی ناک والی عورت۔  
 قَفَّوۃ - کمرے کی آستین۔  
 قَفَّوۃ - کلیاں۔ پھولوں کے خلات۔  
 قَفَّوۃ - (ن) فرمانبرداری کرنا۔ خاموش رہنا۔  
 نمازیں کھڑا ہونا۔  
 قَفَّوۃ - بڑے سرد والا۔ بد مزاج۔ اکھڑ کرش  
 قَفَّوۃ - (ن س) ناپائید ہونا۔ مایوس ہونا  
 قَفَّوۃ - ناپائید۔ مایوس۔  
 قَفَّوۃ - قانع جو اپنی قسمت پر صابر و قانع  
 (رامنی) ہو۔ نیچے جبکہ۔ بلند جبکہ۔

قَفَّوۃ - (س) قافیہ پر چڑھنا۔ ہانگن نصیب پر  
 راتنی رہنا۔  
 قَفَّوۃ - کھجور کا خوشہ۔ کمانی ہوئی اور حاصل  
 کی ہوئی چیز۔ جہ۔ آقَفَّوۃ۔ قَفَّوۃ  
 قَفَّوۃ  
 قَفَّوۃ - رضامندی مص (س) خوش اور راضی  
 ہونا۔ بے پردہ ہونا۔  
 قَفَّوۃ - قَفَّوۃ (حق) کمانا۔ خوش کرنا۔  
 قَفَّوۃ - مص (حق) لازم کچھ کرنا۔ پردہ  
 نشین کر دینا۔  
 قَفَّوۃ - بادل آدمیوں کا گردہ۔  
 قَفَّوۃ - کم خوراک عورت۔ بہت پانی والی  
 مشک۔  
 قَفَّوۃ - پونجی۔ اندوختہ جہ۔ قَفَّوۃ۔  
 قَفَّوۃ - شکار کیا ہوا جانور۔ جانور جس کا شکار  
 کیا جائے۔  
 قَفَّوۃ - قناعت پسند جو اپنی قسمت پر صابر  
 و شاکر ہو۔

## ق - و

قَوَّۃ اِلَیۡم - اد ایل کار  
 قَوَّۃ اد - ناک۔ بیوی کی بھاڑ کھانے والا۔  
 قَوَّۃ اس - بندوق کی گولی۔ (د)  
 قَوَّۃ اَرۡدۡۃ - گول تراشا ہوا کپڑے وغیرہ کا ٹکڑا  
 کتزن۔  
 قَوَّۃ اَلۡقَمَّۃ - قرآن مجید کی چند محفوس  
 آیات جو دفع آسیب کے لئے پڑھی  
 جاتی ہیں۔

قَوْتُ - قِيَاةٌ - (ن) خوراک دینا اور قوت بخشنا۔

قَوُّقِي - بکس (د)

قَوُّوح - (ن) زخم میں پیپ پڑھانا صاف کرنا چھاڑ دینا۔

قَوُّوِد - گھوڑے جن کو کھینچ کر لے جائیں اور اس وقت ان پر سوار نہ ہوں مصل (ن)

قَوُّوِد - قاتل کا قتل - قصاص - بیٹھکی لہائی گردن کی لہائی (س) گھوڑے کا دراز گردن ہونا۔

قَوُّوسِ خَانَه - اسلمہ خانہ (د)

قَوُّوس - کمان (تصغیر) قَوُّوسِي - قَوُّوسِيَّةٌ - جہ - قَبِيَّتِي - قَبِيَّتِي - آقواس تاپنے کا گرز۔

آسمان کا ایک بُرُج۔

قَوُّوس - (ن) ایک چیز پر اس کی مشابہت پر ہلکا لگانا۔ آگے بڑھ جانا۔ گھڑ دوڑ کے گھوڑوں کا ایک لائن میں کھڑا کرنا۔

قَوُّوسِ شَرَح - دھنک - آسمان کی کمان۔

قَوُّوس - کیرواپن (س) کیرواپنا۔

قَوُّوس - راہبوں کا عبادت خانہ - شکاری کا گھر قَوُّوص - عوفن مصل (ن) عمارت وغیرہ کو دیران کرنا۔

قَوُّوْطَةٌ - آلو (د)

قَوُّوْطٌ - گرمی کے موسم کی گرمی۔

قَوُّوَع - جہاں غلہ وغیرہ سکھایا جاتا ہو۔ جہ۔

قَوُّوَعِ - (ن) [اشد] کسی کے پیچھے چلنا پیردی کرنا قَوُّوَقِي - (ن) مرغی کا بولنا۔

قَوَائِم - شیخے - بوتلیں - داہ - قَاوِدَةٌ قَوَائِم - پرندے جو سرد مقام سے گرم مقام میں یا گرم سے سرد میں چلے جاتے ہیں۔

قَوَائِم - گھر میں بیٹھے والیاں - داہ - قَائِلَةٌ قَوَائِمُ الْبَيْتِ - مکان کی بنیادیں۔

قَوَائِم - میزک (جمع)

قَوَائِم - جو گھوڑے بٹلے پتلے ہو گئے ہوں۔

قَوَائِم - قَوَائِمَةٌ - جس کو بولنا خوب آتا ہو۔

قَوَائِم - سیدھاپن بجی اور نم نہ ہونا۔ آدمی کا قد - اتنی غذا جس سے آدمی زندہ رہ سکے۔

قَوَائِم - نان و نفقہ برداشت کرنے والا سرپرست - روزی - مرد۔

قَوَائِمُ الْأَمْسِ - جس پر کسی چیز کا دار و مدار ہوا اور اسی کی وجہ سے اس میں خوبی و خوشنمائی ہو۔

قَوَائِم - خوش قامت مرد - ذمہ دار - حاکم۔

قَوَائِم - چوپایہ کے پاؤں کی ایک بیماری۔

قَوَائِم - مصیبتیں - بلائیں - داہ - قَائِمَةٌ قَوَائِم - چھوٹے ستون پرندہ کی انتڑیاں۔

قَوَائِم - داہ - قَائِمَةٌ قَوَائِم - چوزہ - جہ۔ آقَوَائِم - (ن) بھاگ جانا - نزدیک - آنا - زین کھڑنا۔

قَوَائِم - پرندہ کا اندھے کا پھلکا اُتارنا۔

قَوَائِم - داد - جس عورت کے بال منڈے ہوئے ہوں (تصغیر) قَوَائِمَةٌ - جس عورت کے بال منڈے ہوئے ہوں جس عورت کی کھال اُچھڑی ہوئی ہو۔

قَوَائِم - زور - طاقت - جہ۔ قَوَائِمٌ قَوَائِم - اتنی خوراک جس سے زندگی قائم رہ سکے۔

قَوَائِم - قَوَائِم - دن کی ایک ساعت -

## ق - ۵

قَتَّة - عیش و مسرت میں رفت (زور سے منہسا  
ٹھٹھا مارتا -

قَهَاب - قَهَاب - سفید -

قَهَّاس - صفات باری تعالیٰ میں سے ایک صفت  
غالب زبردست -

قَهَب - (میں) سفید نیک کسی قدر دھندلے اور  
میلے رنگ والا ہونا -

قَهْب - سفید دھندلا - م - قَهْبَة بڑا  
پہاڑ - پڑانا اور ٹ -

قَهْبَاء - آقَهْب - کامونٹ سے - سفید دھندلے  
رنگ والی - ج - قَهْب -

قَهْبَة - سفیدی - دھندلا ہٹ لئے ہوئے -

قَهْس - غلیہ (ت) کسی پر غالب ہونا (مجبوراً)  
آگ کا گوشت وغیرہ کو کچھ لینا اور اس  
میں سے پانی جاری ہونا -

قَهْسَة - لاچاری و مجبوری -

قَهْسَة - بڑی سوئی - سوا -

قَهْسَن - کودنا -

قَهْقَهْر - بہت ساکھانا برتنوں میں ترتیب سے  
رکھا ہوا - بہت سیاہ کتا جس سے کسی  
چیز کو گھسیں -

قَهْقَهْرَة - گیموں جو سبزی کے بعد سیاہ مچھائے  
میں اٹا چلنا -

قَهْقَهْرِي - بہت ساکھانا ترتیب سے برتنوں میں  
رکھا ہوا میں اٹا چلنا -

قَهْقَهْرَة - ٹھٹھا مارتا زور سے منہسا اور اس میں

قَوَائِم - قَوَائِم - کوہ قاف (د)

قَوْل - جرات منہ سے نکلے پوری ہو یا نام تمام -  
جہ: اقوال حج - اقوال -

قَوْل - قَوْل - قولہ - (ن) کہنا - غالب ہونا -  
[ب] مار ڈالنا -

قَوْلَة - خوش بیان خوب بولنے والا -  
قَوْلَج - آنت کی ایک بیماری کہ اس میں سدنہ پڑ  
جاتا ہے - اور شدت کا درد ہوتا ہے -

قَوْلِيَّة - شور و غل جیج و پکار -  
قَوْم - (بزرگوں کا) انسانوں کا گروہ - ج -

اقوام حج اقوام - اقوام -  
(تصغیر) قَوْم -

قَوْم - قَوْمَة - قَامَة - قِيَام - (ن) اٹھنا -  
کھڑا ہونا - کام کا ٹھیک ٹھیک ہونا - کسی  
کی ضروریات کا ذمہ دار ہونا - اور اس  
کی خبر گیری کرنا - ٹک جانا (بازار) گرم  
ہونا یا بارونق ہونا -

قَوْمَانِيَّة - کمپنی (د)

قَوْمَة - ایک ہار اٹھنا - رکوع اور سجدے کے  
درمیان سیدھا کھڑا ہونا -

قَوْمَة - الْاِنْسَان - قَوْمِيَّة الْاِنْسَان - آدمی  
کا قد -

قَوْمَتَان - کمانڈر - سپہ سالار - (د)

قَوْمِيَّة - کمشنر (د)

قَوْمِيَّة - کونسل - سفیر - وکیل سلطنت (د)

قَوِي - طاقتور مضبوط جہ - آقویاء -

قَوِي - بھوکا - خالی خشک جھکل -

قَوِيْم - مرد خوش قامت - راست و درست  
جہ - قوام -



قید - مقدار ج: - آقباد - قیود  
قید - مقدار و اندازہ۔

قیاد - برہمنی چیز ج: - قیاد قید  
قیاد و ام الشی - قیاد ام الشی چیز کا آگے  
کا حصہ قیادوم - قیاد اہ آگے۔  
قیاد ابن اسماعیل - حضرت اسماعیل کے بیٹے  
کا نام جس کی نسل سے عرب ہیں۔

قیار - ایک سیاہ تیل - تارکول۔  
قیراط - ایک منقر وزن - کسی چیز کا چوبیسواں  
حصہ - ج: - قیراط - قیراط۔

قیدوان - مغرب میں ایک شہر کا نام۔ کارواں کا  
معرب۔

قیروٹی - ایک قسم کا مرہم۔  
قیس - سختی - بھوک - متعدد صحابہ کرام کا نام  
میں (رض) نازدادا کے ساتھ چلنا۔

قیس - اندازہ۔

قیساریہ - مارکیٹ - گول بازار (د)  
قیسری - جسم آدمی - بڑی عمر کا - ج: - قیاسیہ  
قیص - بیلانے والا اذٹ ج: - قیاص - قیص  
میں (رض) ادانت کا جڑے اکھڑ جانا۔

قیص کا ہلنا۔

قیصر - شاہ ردم کا لقب ج: - قیاصیہ  
قیصوم - ایک بوٹی۔

قیص - انڈے کا پھلکا - چوزہ - پانی جو انڈے  
میں سے نکلے بدل کا مانند میں (رض) مبادلہ  
کرنا - کسی چیز کا مانند مثل لانا - چیزنا۔  
کنو میں کا دھنس جانا۔

قیطون - بڑے گھر میں چھوٹا گھر - خزانہ رکھنے کا محفوظ  
مکان ج: - قیاطین۔

قہر کی آواز نکالنا۔

قہول - (ق) بڑیوں پر کھال کا خشک  
ہو کر چھٹ جانا۔

قہول - (س) جسم کو میلا کچلا رکھنا - سخاوت میں  
کمی کرنا (ق) احسان نہ ماننا برائی  
کے ساتھ یاد کرنا۔

قہم - (س) کم بھوک والا ہونا۔

قہوۃ - خالص دودھ - شراب - کافی ترشید  
بدبو - مضبوط شاخ - ج: - قہوات

قہوجی - قہوہ والا (د)

قہی - (س) (من) کسی چیز کو پسند نہ کرنا اور  
اس کی رغبت نہ کرنا۔

قیاء - خے - نے آورد۔

قیاد - میل - ہمار - لگام۔

قیادۃ - قیاد و دۃ (ن) چوپایہ وغیرہ کو آگے  
سے کھینچنا (د) فروج کی کمان کرنا۔

قیاس - قیہ (تارکول) - بیچنے والا۔

قیاس - ایک چیز کو دوسری چیز کے مقابل کر کے  
اندازہ اور برابری کرنا (د) قاعدہ -  
قانون۔

قیاس - دوڑنے والا گھوڑا۔

قیاس - تھامنے والا - یعنی قیوم

قیامہ الامم - جس کی وجہ سے کوئی چیز قائم ہو  
اور اس کی وجہ سے اس کی راستگی اور  
درستگی ہو۔

قیامۃ - روز حشر۔

قیام - خالص پیپ جس میں خون ملا ہوا نہ ہو  
میں (رض) زخم میں پیپ پڑ جانا۔

قیاد - بڑی جو قیدی کے پاؤں میں ڈالی جاتی

قَيْوَلَةٌ - اونٹنی جس کو دوپہر کو دودھ دہنے کے لئے چراگاہ نہ بھیجیں۔

قَيْوَدُورْ - بے مثل، تھامنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے ایک نام۔

قَيْءْ - (رض) جو چیزِ مددہ میں جا چکی ہو اس کو اگلتا۔ قئے کرنا۔

## ک - ل

کَاکَمَاءُ - سستی۔ بزدلی۔  
کَاکَبْ - کَاکَبَةٌ - کَاکَبَةٌ - علمِ بَشَسْتِکِ - علم کے سبب بد حالی (ص) انگلیں ہونا۔ علم کے سبب بد حال ہونا۔

کَاکَمْبَاءُ - رنج و غم۔  
کَاکَبِيدُ - کسی چیز کے لئے رنج و مشقت اٹھانا۔  
کَاکَبِيرُ - بزرگ۔ بڑا۔  
کَاکَبِيسُ - دوڑنے والا۔

کَاکَبُونِسُ - ایک مرض کہ سونے کی حالت میں مرعین کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی چیز نے اس کو آکر دبا لیا۔ جماع کرنے کا ایک طرز۔ (د) پستول۔

کَاکَبِي - بلند جو منہ کے بل گرا ہوا ہو۔ بھرنے والا۔  
کَاکَبَاةُ - کتباۃ۔

کَاکَبِتَبْ - ککھنے والا۔ (د) مضمون نگار۔ نامہ نگار۔  
کَاکَبِرِي - کتبی۔ کتاب۔ کتباۃ۔  
کَاکَبِتَبُ الْاَسْتِرْاَسَا - سکریٹری۔

کَاکَبِتَفْ - ناپسند رکھنے والا۔  
کَاکَبِتِسْمُ - درز سینے والا۔ درزی چھپا ہوا (بھید) چھپانے والا۔

کَاکَبُوَلِيکْ - ایک عیسائی فرقہ۔ رومن کیتھولک (د)

قَيْنَطُ - گرمی کے موسم کی گرمی جو۔ اَقِيَاظُ قَيْوَلَطُ - (رض) دن کا سخت گرم ہونا۔

قَيْنَطِي - گرمی کے موسم میں کہیں مقیم ہونا۔  
قَيْنَطِي - جو بچہ موسم گرما میں پیدا ہوا ہو۔

قَيْنَحُ - (رض) شور کا آواز کرنا۔  
قَيْنَقَالُ - ہاتھ کی ایک رگ۔

قَيْسُ - دوپہر کو سونے والا مردار۔ اونٹنی جیسے دوپہر کو دبا جائے۔ ج۔ اَقِيَاظُ

قَيْلُ - قَائِلَةٌ - قَيْوَلَةٌ (رض) دوپہر کو سونا۔ دوپہر کو شراب پینا۔ بیخ کا معطر توڑ دینا۔

قَيْلُ - جواب۔ بات۔  
قَيْمَةٌ - پر چیز کا مول۔ قد و قامت ج۔ قَيْدُ

قَيْمَتَةُ الْاِسْتِرَاکْ - چمڑہ خریداری۔ رسالہ و اخبار۔

قَيْمُ - سیدھا۔ درست۔ درست کرنے والا۔ قائم کرنے والا۔

قَيْمَةٌ - سیدھی اور درست رقییم کا مؤنث)۔  
قَيْنُ - غلام۔ ج۔ قَيْانُ - لوہار کا پیشہ۔ لوہار

ج۔ اَقِيَاظُ - قَيْوَلَطُ - لوہار کا ہتھیار۔  
کو درست کرنا۔ کسی چیز کو جمع کرنا اور

ٹھیک کرنا۔ برتن وغیرہ کی درز درست کرنا۔ پیدا کرنا۔

قَيْنَةٌ - گانے والی لونڈی۔ لونڈی۔ مقعد۔  
قَيْنُ (نَو) قَيْنَاعُ - یہودیوں کا ایک قبیلہ جو مدینہ میں باو تھا

قَيْوُ - بہت قے کرنے والا۔ قے آور دوا۔  
قَيْوُ - قے لانے والی دوا بہت قے کرنے والا۔

قَيْوُدُ - گھوڑا جو فوراً کچھا چلا جائے۔  
قَيْوُومُ - گنم۔ مجبول النسب۔

قَيْوُولُ - دودھ جو دوپہر کو پیا جائے۔ کہنے والا۔

کاسرہ - ہر اسبچھنے والا۔ کاسرہ - گھیسوں (۵)	کات - کھیتی کاٹتے وقت کے گرے ہوئے دانے جھولگ آئیں۔
کاس - (مؤنٹ) شراب پینے کا پیالہ۔ شراب سے بھرا ہوا جام۔ پیالہ جہ:۔ آگوش گوشوں - کاڈسٹات۔ کیٹاس	کاشیر - بہت۔ کجھوت۔ کاح - کچھ۔ پہاڑ کی جڑ۔ پہاڑ کا سامنے کا حصہ جہ:۔ آکسیا ح۔ گئیو ح۔
کاسیدا - کھوٹی۔ بازار جہاں خرید و فروخت بہت کم ہوتی ہو۔ جہ:۔ کاسیدا -	کاجیٹہ - بند شعلہ کی آگ۔ بہت۔ کاجیص - بیٹے والا نشان۔ اپنے پاؤں پر مارنے والا۔ جہ:۔ کاجیصہ جہ:۔ گو آجیص۔
کاسیر - توڑنے والا جہ:۔ کاسیر۔ عقاب جہ: کاسیرہ جہ:۔ گو اسیر۔ کاسیر۔	کاجیٹ - خشک سال جس میں بارش نہ ہو۔ کاجیٹہ - ایک الماری نما میز جہ:۔ گو آجی
کاسیف (رہوم) اکاسیف - بہت بڑا اور خوفناک دن۔ کاسیف الحال - بد حال۔	کاجیٹہ - (ف) غم گین ہو جانا۔ غم کے سبب ٹکسٹول اور بد حال ہونا۔
کاسیف الوجہ - ترش رو کاسوس - کینچرا۔ سبزی فروخت کرنے والا۔	کاجح - کوشش کرنے والا۔ کاذب - جھوٹ بولنے والا۔ جہ:۔ کاذب اذنی جس سے جھپٹی کی جائے مگر وہ حاضر نہ ہو۔
کاشیح - درپردہ دشمنی رکھنے والا۔ جو دوستی سے دور ہو۔	جہ:۔ کواذب۔ کاذبہ - جھوٹ بولنے والی۔ جہ:۔ کواذب جھوٹ۔ دروغ۔
کاشیف - کھولنے والا اور ظاہر کرنے والا۔ کاشیقہ - فضیحت۔ رسوائی کھولنے والی۔ جہ: کواشیف مہی (حق) کھولنا۔ ظاہر کرنا۔	کاذتہ - رازوں سے متصل فرج کا گوشت۔ کاذی - کاذی - کیوڑہ۔
کاطیم - خاموش غصہ ضبط کرنے والا۔ جہ: کاطیم	کاس - گیسوں کی بھری ہوئی کشتیاں جو پانی میں پڑی ہوں۔ وا:۔ کازتہ۔
کاطیقہ - ایک مقام کا نام۔ کاع - آگوش کی طرف سے کلائی کی ہڈی کا کنارہ جہ:۔ آخواع۔	کاسرہ - کپڑوں کا گٹھ (د) گاڑی۔ چھکڑا۔ جہ: کاسرات۔
کاعیب - انار پستان روکی جس لڑکی کے پستان ابھرائے ہوں۔ جہ:۔ کواعیب	کاریٹ - کسٹینٹ۔ جو معاملہ غم داندہ میں مبتلا کردے۔
کاعیب (شدائی) کاعیب - اونچے ابھرے ہوئے پستان۔ کاعینا - کانڈ جو کھینے کے کام آتا ہے۔	کاسیرح - کاسیرحہ۔ آدمی کا خلق۔ عادت کاسیرح - پانی میں داخل ہونے والا۔
کافی - کافی۔ کار گزار (واحد و جمع)	کاسرات - پانی کے کنارے کھجور کے درخت

کافّۃ - سب کے سب (یہ لفظ بطور حال مستعمل ہوتا ہے)۔  
 کافیر - انکار کرنے والا۔ خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا۔ جو ایمان نہ رکھتا ہو۔ ج۔  
 کفّار - کفّۃ - کفّاس - اندھیری رات۔ دریا۔ بڑا نالہ۔ بڑی نہر۔ گھٹا۔ زرہ کا شتکار۔ تاربی۔ ہتھیار بند۔ م۔  
 کافیرۃ جب۔ کواقر۔  
 کافران - دونوں سرین۔ راتوں کے اوپر کا گوشت کافیل - قبول کرنے والا۔ خبرگیری اور نگرانی کا ذمہ دار جو متواتر درزہ رکھے۔ ضامن۔ جب۔ کفّل - کفّال - کفلاء۔  
 کافوس - ایک خوشبودار بوٹی جس کا پھول گل ریون کی مثل ہوتا ہے۔ ایک درخت کا خوشبودار گوئد۔  
 کافہ - سردار لشکر۔  
 کاکبج - ایک درخت کا گوئد ہے جو ہرات کے پہاڑوں میں پایا جاتا ہے۔  
 کالاب - نمکوں کی ٹولی۔ کتے والا۔  
 کالاح - ترش رو آدمی۔ ترش روئی میں دانتوں کو نکال دینے والا۔  
 (دھڑ) کالاح - سخت زمانہ۔  
 کامخ - ایک قسم کا سالن جسے فارسی میں ایکامہ کہتے ہیں۔  
 کامیل - تمام۔ پورا۔ ج۔ کملکۃ - عروص کی ایک بھرکا نام۔ م۔ کاملکۃ ج۔ کواہل۔  
 کاسنہ - خود رائے اور مرگشتہ آدمی۔  
 کائون - بھٹی۔ آتش دان۔ واہ۔ کائونۃ ج۔  
 کواہین -

کائون الراقی - رومی مہینہ۔ مطابق دسمبر (د)  
 کائون الشافی - رومی مہینہ مطابق جنوری (د)  
 کاکیا - استری (د)  
 کاکھل - ادھیڑ عمر کا آدمی۔ کتہے کا آخری اور محمد ارجمتہ کندھا۔ دونوں کندھوں کا ماہی۔ گردن کی جڑ جو پشت سے متصل ہے۔ ج۔ کواہل سردار قوم کاہن - فال تینے والا۔ کوشش کرنے والا۔ جو دوسرے کی ضروریات و حاجات کو پورا کرنے کا ذمہ دار ہو۔ ج۔ کھفۃ  
 کائین - کتا۔ کتاہی (کاف تشبیہ اور آئی سے مرکب ہے)۔  
 کاکت - گویا کہ (حرف مشبہ بفعل ہے)۔  
 کائینۃ - نئی پیدا ہونے والی چیز جو پھینک دی گئی ہو۔ ج۔ کائینات

ک - ب

کب - (ن) کسی کو منہ کے بل ڈال دینا۔ اوندھا کر دینا۔ لٹ دینا۔ بھاری ہونا۔ دھاگہ کا گول بنانا۔  
 کبۃ - کورا کرٹ ج۔ آبکاء۔ کیون  
 کبۃ - بھرا ہوا اور اونچا اٹھا ہوا۔  
 کباب - کٹا اور بھنا ہوا گوشت جسے مکسوس کہتے ہیں۔  
 کباب - اونٹوں یا بکریوں کا بڑا ٹکڑا جسے میں نمی ہو۔  
 کبابۃ - گھاس (د)  
 کبابۃ - ایک مشہور دوا ہے چین میں پیدا ہوتی ہے  
 کبابۃ - پلو کے درخت کا خوب پکا ہوا پھل۔  
 کباد - در درجہ۔  
 کباد - مکا پدۃ - کسی کام میں تکلیف اور محنت سنا۔

کَبْرَةُ الْقَوْمِ - کَبْرَةُ الْقَوْمِ - کَبْرَةُ الْقَوْمِ - کَبْرَةُ الْقَوْمِ - کَبْرَةُ الْقَوْمِ  
 الْقَوْمِ - قوم میں سب سے بڑا جو نسب  
 میں جبراً اعلیٰ سے نزدیک تر ہو۔

کَبْرَةُ الْوَالِدِ الْوَالِدِيَّةُ - (واحد و جمع مذکر و مؤنث)  
 اولاد میں سب سے بڑا۔

کَبْرَةُ - بڑا آگاہ - بھر میں زیادتی۔

کَبْرَتَةٌ - گندھک کی مالش کرنا۔

کَبْرِي - اکبر کا مؤنث - بڑی - جہ - کَبْرِي

کَبْرِي - بیل (د)

کَبْرِيَاءُ - بڑائی - غفلت - بزرگی۔

کَبْرِيَّةٌ - گندھک (د) دیا سلائی۔

کَبْرَسٌ - (حق) کنہیں وغیرہ کو مٹی سے پھیرنا۔ سر

تھکانا - کپڑے میں سر ڈھکانا - اچانک

گھر میں آجانا - کام میں احتیاط کرنا۔

چھپ جانا۔

کَبْرَشٌ - بجزا جہ - آکبش - کَبْرَشٌ - آکبش

کَبْرَكَةٌ - منہ کے بل گرا دینا۔

کَبْرُلٌ - قید و بند میں (حق) قید کرنا بند کرنا۔

کَبْرُنٌ - (حق) دوڑنے میں مسیح کرنا - روکنا - بھوکنا

کَبْرُنٌ - کَبْرُنَةٌ - بہت بڑا کبوترس آدمی۔

کَبْرُو - کَبْرُو - منہ کے بل گر جانا - جھپٹنا وغیرہ

کا آگ نہ دینا - چنگاری اڑنا - دوڑنے

کے سبب گھوڑے وغیرہ کا ہانپنا - ہرجائی

وغیرہ کا اوندھانا - جھاڑو دینا (گھاس کا)

مر جھانا (بخار کا) بلند ہونا۔

کَبْرُوْسٌ - (زین پوش (د)

کَبْرِيُو - بڑا - جہ - کَبْرِيُو - کَبْرِيُو - کَبْرِيُو

کَبْرِيُو - کَبْرِيُو - جہ - کَبْرِيُو - کَبْرِيُو

سَتَّةٌ - کَبْرِيُو - وہ سال جس میں ایک دن کم ہو گیا

کَبْرٌ - کَبْرٌ - بڑا بزرگ - رفیع الشان۔

کَبْرٌ - کَبْرٌ - کسی کی بڑائی بیان کرنا - اشد اکبر کرنا

بڑا کھینا۔

کَبْرَسَةٌ - کھجور کا گٹھا۔

کَبْرَانٌ - اذیتوں کی ایک بیماری - ایک قسم کا کھانا۔

کَبْرِيَتٌ - (حق) زمین پر پھیلنا - دنیا - منہ کے بل گرا دینا۔

توڑنا - پھیر دینا - رسوا کرنا۔

کَبْرَةٌ - آدمیوں کا گردنا - گھوڑوں کا گردنا جہ -

کَبْرٌ -

کَبْرَةٌ - جنگ میں دشمن پر سخت حملہ سختی - سردی

کی سختی - گھوڑے کی سر پیٹ دوڑ۔

کَبْرِيَجٌ - (د) گھوڑے وغیرہ کا لگام کھینچ کر روک

لینا - پھیر دینا۔

کَبْرُدٌ - جگہ - آکبَادٌ - کَبْرُوْدٌ - آسمان کا درط

یعنی سر کے اوپر مہص (حق) من اگھر پڑانا

ارادہ کرنا (مجمولاً) جگہ کے دریا میں

میتلا ہونا۔

کَبْرُدٌ - پیٹ کی کلائی - دشواری اور دقت۔

آسمان اور زمین کا درمیان - آسمان کا

بیج مہص (س) جگہ کے دریا اور تکلیف

میں مبتلا ہو جانا۔

کَبْرُدٌ - جگہ - آکبَادٌ - کَبْرُوْدٌ - پیٹ پیٹ

کے اندر کی تمام چیزیں - چیز کا وسط اور

اس کا بسیم - بڑا حصہ - سپلو۔

کَبْرِدَاءٌ - دستی چکی - آسمان کا وسط - جہ - کَبْرِدٌ

کَبْرٌ - چیز کا وہ حصہ جہاں وہ موٹی اور بڑی ہو

بڑائی - بڑا آگاہ - درجہ اور شرافت میں

بلندی - تکبر۔

کَبْرٌ - بڑھاپا سن رسیدگی (س) بڑی عمر کا ہونا

ہو (یہ قری حساب سے ہر چار سال میں ہوتا ہے)۔

## ک ت

کَت - (ن) ذیل و خوار کرنا۔ رنجیدہ کرنا۔ لٹری وغیرہ کا جویش مارنا۔ شمار کرنا۔  
کِتَاب - لکھا ہوا۔ خط۔ جہ۔ کِتِب - کتب جس میں لکھیں۔ ودوات۔ توریت وغیرہ ولفیہ حکم و اندازہ۔ تقدیر۔

کِتَابٌ مَدَنیّ - درسی کتاب (د)

کِتَابِیۃ - کتاب۔ کِتَب - (ن) لکھنا۔ مشک سینا ڈوری سے مشک کا مہ بند کرنا یا باندھنا

کِتَابِیۃ - جادو۔ منتر۔ تحویذ (د)

کِتَابِجی - کتب فروش (د)

کِتَاف - ری جس سے قیدیوں کے ہاتھ کڑھوں پر باندھے جائیں۔ جہ۔ کَتَف

کِتَان - اسی کا درخت۔

کِتَبۃ - سٹل چوڑے کی ڈوری۔

کِتَبۃ - اس کتاب کو لکھنے کا شوق جو کبھی جاری ہے، کِتَبِی - کتاب فروش (د)

کِتَح - (ف) قسم کھانا۔ دوڑنا (ب) لے جانا کام میں بھلت اور بھدی کرنا۔

کِتَعَاء - سب کل۔ جمعا کا تابع ہے تاکید کے لئے آتا ہے، اس کے بغیر اور اس سے مقدم نہیں آتا (مؤنث)

کِتَعۃ - ٹکڑا۔ پرزہ۔ جہ۔ کِتَاع

کِتِف - کَتَف - کِتَف - کِتَفۃ

کِتَاف -

کَتَف - شانہ کے درد کی وجہ سے چہ پایہ کا ٹکڑا

کَتَف - (ض) کام میں نرمی اور آہستگی کرنی۔ کندھے ہلاتے ہوئے چلنا۔

کِتَف - کِتَفَان - (ض) بازو سمیٹ کر پرندہ کا اڑنا۔

کِتَلۃ - گوشت کا ٹکڑا، گارے وغیرہ کا ایک ٹڈا۔ (د) انجن جہ۔ کِتَل

کِتَلُوج - کِتَلِیگ - فہرست۔ اشیا و تجارت۔

کِتَم - کِتَمَان - ایک گھاس جس کو دوسرے کہتے ہیں۔ خضاب میں کام آتی ہے۔

کِتَمۃ - بات کلمہ۔

کِتَمۃ - کسی چیز کا بہت زیادہ چھپانا (م مہد) کِتَمۃ - بھید کا چھپانے والا۔ پورے طور پر

نگرانی کرنے والا۔

کِتَوَہ - بھید کی پورے طور پر نگہداشت کرنا (ب) جہ۔ کِتَم

کِتِیَب - سا ہوا۔ مشک جس کا دلہتا ہوا دھندھا گیا ہو کِتِیَبۃ - لشکر گھوڑوں کا گروہ۔ جہ۔ کِتِیَب

کِتِیَف - چوڑی تلوار، لوہے کا چوڑا ٹکڑا جہ: کِتَف کِتِیَفۃ - کینہ، دشمن، گروہ، سناٹا جس سے گرم

لوہا وغیرہ پکڑتے ہیں۔ لوہے کی پتی جس سے دروازہ بند کریں جہ۔ کِتِیَف

کِتِیَنۃ - گھڑی کی زنجیر (د)

## ک ت

کِت - گنجان کچھ بچ گھنا۔ جہ۔ کِتَات مہر (ن) چھینکنا۔

کِتَاء - (ف) دودھ وغیرہ کا اوپر آنا اور اس میں طے ہوئے پانی کا نیچے بیٹھ جانا (د) کِتِی

کَثِیْر - بہت - م: کَثِیْرَة -  
کَثِیْف - دلدار - کھیز - ابر - پانی -

## ک - ح

کِحَال - سرمر کا پتھر - سرمرہ -  
کِحْت - (ف) (ل) کسی کے دینے کو آپ بھڑنا -  
کِحْل - آسمان - قحط - قحط کی سختی مع (ف) (ن)  
سرمر لگانا (ف) سال کا قحط والا ہونا -  
کِحْل - بہت سال - سرمر کا پتھر - سرمر آنکھ  
میں لگانے کی دوا -  
کِحْل - (س) آنکھ کا قدرتی طور پر رگیں ہونا پلکیں  
اُگنے کی جگہ کا قدرتی طور پر سیاہ ہونا -  
کِحِل - سرمر لگی ہوئی آنکھ -  
کِحْلَاء - سرمر لگی آنکھ جس کی سیاہی پوری طرح  
سیاہ ہو - سرمر لگی آنکھ والی عورت - کِحْل  
کِحُول - اسپرٹ - رُوح - شراب الکحل (د)  
کِحِیْل - رال یا قطران جو خارش اور نموں پر پڑتے

ہیں -  
کِحِیْل - سرمر لگی آنکھ - کِحِیْل  
کِحِیْلَاء - گاؤں زبان -

## ک - ح

کِحْج - ایک کلمہ ہے - بچہ کو کسی چیز کو کچھڑنے سے  
روکنے کے لئے بولا جاتا ہے -  
کِحْم - (ف) کسی کو اس کی جگہ سے دور کرنا -  
بٹانا -  
کِحِیْح - سونے میں غلطے لینا - خرخر کرنا -

## ک - د

کَد - کنگھی - تکلیف - کوشش - محنت - کام

گنجان ہونا -

کَشَاء - گنجان - ڈاڑھی والا -  
کَشَاثَة - کثوڑے - کثت (ن) ڈاڑھی کا گنجان  
بل کھائے ہوئے اور چھوٹا سا ہونا -  
کَشَا س - کٹاس - بہت - بکثرت - کثیر - مجمع -  
کَشَا قَة - (ک) دلدار ہونا - بہت ہونا - لپٹنا -  
کَتَب - (ن) ترکش کو اُلٹ دینا - جمع کرنا - جمع  
ہونا - بہانا (ف) داخل ہونا (علی) حملہ  
کرنا -

کُشِبَة - تھوڑی سی پینے کھانے کی کو چیز - دادی

نشیب - جڑ - کُتَب -

کُشَة - گنجان ڈاڑھی -

کُشْح - (ف) جمع کرنا - پرانہ کرنا - رن اکھول

دینا (علی) کسی پر کوئی چیز ڈالنا -

کُشْر - بہتایت - کثرت -

کُتْر - بہت مع (ن) کثرت میں دوسرے

پر غالب آنا -

کُتْرَ اللّٰہِ تَخْذِکَ - تھینکیو - شکر یہ (د)

کُتْرَة - بہتایت - کثرت -

کُتْرَة - (ن) بہت ہونا -

کُتْعَب - موٹی اور بڑی فرج والی عورت -

بڑی اور موٹی فرج - کُتْعَب -

کُتْعَم - موٹی فرج والی عورت - چیتا - تیندوا -

کُتْل - گیوں کا ڈھیر -

کُتْم - (س) قریب ہونا -

کُتْم - (ن) کسی چیز کو مٹانے کے کر توڑنا - جمع  
کرنا - اونہا کر دینا (عن) نشان قدم چھلنا

کُکِب - ریت کا ٹیلہ - جڑ - کُکِبَات

کُکِبِیْت - گنجان اور دبیز -

کدو شئی - (من) چھینا - نوچنا - تلوار یا نیزہ مارنا -  
زخمی کرنا - دور کرنا کاٹنا - بیوی بچوں  
کے لئے کمائی کرنا -

کدو خ - (د) بانجھا - دھکیانا - نکالنا -

کدو ع - ذیل خوار - بے عزت اور بے آبرو آدمی  
کدو کدو - تھوڑے کی آواز میں (د) قفقہ  
مارنا - سینے میں حد سے گزر جانا آہستہ  
چینا - سختی کے ساتھ بانجھا -

کدو م - (ض) اگلے دانوں سے کاٹنا - لوسیے  
کاٹنا یا زخمی کرنا - لوہے سے نشان کرنا  
ڈھونڈنا -

کدو مہ - (ن) نشان - علامت -

کدو ن - (ن) کپڑے کا ٹکڑا بنانا اور اس کو باندھنا -  
کدو ن - پالان - وہ کپڑا جو عمل (بودہ) میں عورت  
اپنے نیچے بچھاتی ہے -

کدو ن - بڑے کوٹان کا اونٹ مڑا تازہ اونٹ

کدو ن - (ن) چرنی گوشت - آدمی کی قوم -

کدو ڈ - (د) گھاس کا دیر میں اگنا -

کدو ڈ - اندھیرا - تاریکی میں (د) اندھیرا ہونا

کدو ڈ - پتھر وغیرہ سے لگی ہوئی سخت چوٹ ج -

کدو ڈ - (د) وھوٹ - توڑنا - سرکے بالوں

میں کنگھی سے مانگ نکالنا -

کدو ہی - (س) بڑی کا گلیے ہی اٹکنا - بد معنی

کی وجہ سے اونٹ کے بچہ کا معدہ

خراب ہو جاتا - اُن گلیوں کے ناشخوں

کا زہن کھودنے سے کدو جانا -

کدو ہی - کتے کے بچہ کی ایک خاص بیماری -

کدو ٹی - (ض) مچل کرنا - کسی کو روکنا اور

کام یا باتوں میں لگانا - بویا ہوا

کی سختی - اوکھلی میں (د) رنج پہنچانا -

تکلیف دینا - مشکل میں پھنسانا - اپنے

دعوے پر پھٹ دھرمی اور ضد کرنا اور

راؤنگلی سے (س) اشارہ کرنا -

کدو ڈ - (د) گھاس کا پالا پڑنے

کی وجہ سے مڑ جانا - یا پانی نہ ملنے

کے سبب سوکھ جانا -

کدو اء - روکنا - کاٹنا - بند کرنا -

کدو اء - تیل کی تلچھٹ (گاد) کھانے کا بچا ہوا تھو

جو دیگسک پینڈی میں رہ جائے -

کدو آء - کدو آء - کدو آء - کدو آء

(س) لٹ - (ن) گدلا ہونا - میلا ہونا - لگیجا

ہونا - ڈھنڈلا ہونا -

کدو آء - وہ چیز جو تہ بہ تہ جمع کی گئی ہو -

کدو آء - کدو آء - جو چیرہ کھانے سے بچ رہے -

کدو ب - کدو ب - (د) سفیدی جو جوان

آدمی کے ناخنوں پر پیدا ہوجاتی ہے -

کدو ج - (س) بقدر کفایت (تھوڑی سی) شراب

پینا -

کدو ح - خراش - کھڑو پینج جہ - کدو ح میں

(د) خاص اپنے لئے کرکٹ ش کرنا -

بیوی بچوں کے لئے کمائی کرنا - تکلیف اٹھانا

سرکے بالوں میں کنگھی کرنا - چہرہ نوچنا -

کدو آء - کالی حوض کی پیوٹ - بلکا ابر - ڈھیلے کا بڑا

ٹھوڑا جہ - کدو آء -

کدو ج - کھیاں جہ - آکدو آء

کدو س - کدو آء - کدو س (ض)

چھینا - پچھاڑنا - بوجھ اٹھا کر تیر چھینا

کرنا -



کڑ - ناچ کا پیمانہ جہ :- اکڑ آس - پھگدھوں کا پوچھ - چادر -  
 کڑ - موٹی سی نکی پالان کی رسی - جہ :-  
 آکس آس یاد بان کی رسی - جہ :- کڑوس  
 کڑ - کڑوس کڑوس (ن) (علی) حملہ کرنا - مہربانی کرنا -  
 توہم کرنا (عن) پھر جانا - لوٹ جانا -

کڑاء - مزدوری کی مزدوری مہی چرپا یہ وغیرہ کر مزدوری پر دینا -  
 کڑاب - زمین کو بونے کے لئے جوتنا - گا - بنا -  
 کڑا آس - حملہ کرنے والا پھرنے والا - لوٹ لوٹ کر حملہ کرنے والا -

کڑاسۃ - کتاب کا ایک جزو کلام اللہ کا ایک پارہ (د) کاپی پر رون پخت - جہ :-  
 کڑاس - کڑا ر نہیں -  
 کڑاخی - سائڈ - سائڈ کا نطقہ (مسی کا پانی) جو مادہ رحم سے گارے - کمان کا وہ حصہ جہاں چتر چڑھایا جاتا ہے مہی اوٹنی کا وقت سے پہلے جتنا -

کڑاع - گائے اور بکری کی پنڈلی کا پتلا حصہ - انسان کی پنڈلی جہ :- آکا راع  
 کڑاع - بیج اور کمینہ لوگوں سے دوستی رکھنے والا کو اول - تھانہ - (د)  
 کڑاہ - معزز و باوقار لوگ - واہ - کڑاہیم  
 سختی جو انہر - لحاظ اور موت والا آدمی جہ :- کڑاہون -

کڑامۃ - بزرگی برائی سرداری - ٹکے کا سر پوش - کڑامۃ - کڑم - کس - تہہ (ن) جو انہر - سختی اور مردت اور محبت والا ہونا - اہر کا بہت

خراب ہوجانا -  
 کذبیۃ - سخت زمین - زمانہ کی سختی - چکدار اور سخت پتھر - بڑا - جہ :- کڑی -  
 کذبتش - لادو ٹھو (د)

ک - ذ

کذ - (حق) سخت ہوجانا -  
 کذ - ایسا - اتنا - کیفیت - حالت اور عدد بیان کرنے کے لئے -  
 کذاب - کذاب - بڑا اھیوٹا - بہت جھوٹ بولنے والا -  
 کذاب - جھوٹ -

کذاب - خوب انکار کرنا - کسی کو بھڑکانا - ارادہ سے نکل رہنا - اوٹنی کا دودھ کم ہوجانا - وحشی جانور کا دوت دم چلنا - ٹھہرنا اور مر کر پیچھے دیکھنا - تاکہ کوئی بچوٹ نہ لے -

کذالک - اسی طرح -  
 کذالکم - اسی طرح - ایسے ہی -  
 کذاب - کذاب - کذبتہ - کذاب - کذاب (حق) جھوٹ بولنا - آنکھ کا ٹھیک کام نہ کرنا - غلط گمان کرنا - تیزی سے نہ چلنا (علی) واجب ہونا کذاب  
 عَلَيكَ الْغُلَسُ قِمْرٌ بِغَسَلٍ وَاجِبٌ هُوَ كَيْفَا -  
 کذبان - کذبان - کذاب بہت جھوٹ بولنے والا -

کذج - گھر اور رہنے کی جگہ -  
 کذح - (ن) ہوا کا کسی پر خاک اور کنکری ڈالنا -

<p>کَرَب - میز و الو ہونا۔  کَرَب - غم۔ رنج۔ تکلیف۔ جہ۔ کَرَوَد۔  کَرَب - نزدیک۔ قریب۔  کَرَباس - سوئی کپڑا۔ جہ۔ کَرَابِئیں۔  کَرَبال - دھننے کی کمان چھلتی۔ جہ۔ کَسِ اَبیل۔  کَرَبیۃ - بہت بڑا غم۔  کَرَبلا - عراق میں وہ مقام جہاں سیدنا حضرت  امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔  کَرَبلیۃ - پاؤں کی سستی مٹی میں چینا۔ پانی  میں گھسنا۔ گیہوں کو ہر اس اُرُو کر چھو  صاف کرنا۔  کَرَبون - کاربون (کوئلہ) ایک کیمیائی عنصر (د)  کَرَبۃ - ایک بار۔ ایک حملہ۔ ایک لاکھ۔ جہ۔  کَرَبات -  کَرَبۃ - گیند۔ گولہ۔ جہ۔ کَرَبات۔ کَرَبین  کَرَبی - کَرَبی۔  کَرَبۃ الصَّدَامِ فُت ہال (د)  کَرَبۃ - قرظیہ میں رہنا (د)  کَرَبون - وصلی۔ نقشہ (د)  کَرَبت - (ن جن) کسی پر غم کا دشوار ہونا۔  کَرَبتی - ادبچا ابر۔ اندھے کا چھلکا۔ جہ۔ کَرَبتی  کَرَبجہ - گرجستانی قوم۔ (د)  کَرَبخانۃ - چیکہ (د)  کَرَبد - گردن کی جڑ میں (ن) ہانکنا ٹون کر  دور کرنا۔ قطع کرنا۔  کَرَبد - ایک قوم ترکستان میں جہ۔ آکَرَباد  کَرَبدار - درخت و سمارت وغیرہ خاک سے اٹا  ہوا مکان۔  کَرَبدم - پستہ قد۔ بہادر۔ جہ۔ کَرَبدم</p>	<p>کَرَد - گڈریے کا تھیلہ۔ جہ۔ کَرَدۃ  کَرَد - کینہ۔ ہار و مویشیاں روہ آدمی جو صحیح طبع  پر کلام نہ کر سکتا ہو۔ جہ۔ کَرَدۃ  کَرَدم - کھٹاڑی۔ چھوٹی ناک والا آدمی۔ بہت  کھانے والا۔  کَرَس - ایک جگہ سے چلے مکانات کسی چیز کی اصل  رکھ وغیرہ۔ طاہر اچوتا۔ جہ۔  کَرَس - آگاریں  کَرَسف - روٹی۔ دوات کا صوف۔ چیتھڑا۔  کَرَسبی - تحت۔ علم۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت (د)  پایۃ تخت - جہ۔ کَرَسبی۔  کَرَسۃ - خاموش ہو جانا۔ آنکھ بند کر لینا۔ سر  چھکا لینا۔  کَرَش - جھگالی کرنے والے جانوروں کا معرہ  چھوٹے چھوٹے بچے کہنے۔ ادبھی زمین کا  ظہر اچرا گاہ کی ایک کدو ہاس۔ جہ۔  کَرَش -  کَرَش - (س) کھال کا سکر جانا۔ تنہا رہنے کے  بعد گردہ بند ہو جانا۔  کَرَشۃ - بڑے پیٹ والی عورت۔ پر گوشت  پاؤں گدھیا جس کے سر میں اور کوک  بڑے بڑے ہوں۔ جہ۔ کَرَش  کَرَشوم - بد صورت۔  کَرَشۃ - رطائی کے میدان کی طرف جانا دشمن  پر حملہ کرنا۔  کَرَط - (حق) (حق) کسی کی عزت پر حملہ کرنا  کَرَع - ہارس کا ٹہرا ہوا پانی کینہہ طبیعت کا  انسان۔  کَرَع - (فت) (تیر کا) پنڈلی میں جا لگنا (س)</p>
--	---

کسینتہ قرظیہ (د) کسوع (د) - (ن) زمین کھودنا۔ ایک ہی کام کئی بار کرنا چھو پائے کا ایک خاص طریقہ پر چلنا عورت کا (اٹھلا کر) ناز و انداز کے ساتھ چلنا۔

کسوع (د) - کوئی چیز کرائے پر دینا (اسم) کسوعاء - بتلی پنڈلی والی عورت۔ جب: کسوع کسوعان - کیک - کلنگ (ایک پرندہ) جب: کس اوین - کسوعان کسوعوب (ن) نزدیک ہونا (سورج کا غروب ہونے کے قریب ہونا۔ اونٹنی وغیرہ پر بوجھ لادھنا۔

کسوعۃ - مزدوری کرائے پر دینا (اسم) کسوعۃ - (ص) [رف] داخل ہونا۔ پوشیدہ ہونا [الی] کسی کی طرف پناہ پکڑنا۔ میلان کرنا۔

کسوعۃ - گاڑی۔ بگی (د) کسوعۃ - زیرہ رومی۔ کسوعۃ - ناپسند چیز جس کو طبیعت نہ چاہتی ہو) سختی و مشقت - سخت سروا لا اونٹ - سختی و مشقت۔

کسوعۃ - کسوعۃ - کسی چیز کو پسند نہ کرنا بڑا جانا۔

کسوعۃ - تیزدوڑنا (ص) سوتا۔ آرام کرنا۔ کسوعۃ - سوتے والا (آدمی) دوڑنے والا۔ کسوعۃ پر دینے والا۔ کرائے پر لینے والا ہر وہ چیز جو مقدار میں زیادہ ہو۔

کسوعۃ - نکلین آدمی۔ ناتباہی کی مکاری جس پر

پنڈلی کا دو کرنا۔ آدمی کا کین ہو جانا۔ ابر کبر سنا جو شبہ لگانا پتھر ٹی زمین میں داخل ہونا۔

کسوع کسوع (د) [رف] الماء منہ ڈال کر پانی پینا۔

کسوع (ن) حق) گدھے کا اپنی مادہ کے پیشاب کو سونگھنا۔

کسوعۃ - بالوں کا زیادہ ہونا۔ ہانڈی کا جوش مارنا اور جھاگ نکالنا۔

کسوعۃ - اجوائن۔

کسوعۃ - اونچے تہ بتر جیسے موٹے ابر کا ٹکڑا۔ ایک درخت جس کا پھل جینتی کے سر کی طرح ہوتا ہے

کسوعۃ - پوستین۔ سمور (د)

کسوعۃ - سفید سوئی کپڑا (د)

کسوعۃ - گینڈا۔ بھینس کی شکل کا ایک جانور جس کی ناک پر سینگ ہوتا ہے۔

کسوعۃ - منہسی کا قہقہہ مص دانہ کوٹنا۔ توڑنا۔ شکست کھانا۔ ہوا کا ابر کو حرکت دینا

مرفعی کا آواز دینا۔ جھج کرنا۔ بھیرنا۔ کسوعۃ - زعفران۔ مصطلکی۔

کسوعۃ - سارس بگلہ جب: کسوعۃ - کسوعۃ - پھواروں کا بڑا ڈھیر۔

کسوعۃ - انگور کی بیل۔ سوتا۔ مار۔ پاکیزہ زمین انگور۔ جب: کسوعۃ

کسوعۃ - سخاوت۔ شرافت۔ جو انفرادی یعنی شریف انسان۔

کسوعۃ - ہر دار لٹھی کپڑا (د)

کسوعۃ - کھجور کی کٹی ہوئی شاخوں کی جڑ۔ جب: کسوعۃ - کسوعۃ - کسوعۃ

روٹی گول کی جاتی ہے۔ زمین جس میں ہل چلایا گیا ہو۔  
 کسیبے۔ مصیبت۔ سختی۔ حر۔ کد آئیب۔  
 کسیبے۔ ڈرپوک آدمی۔ رجیدہ کرنے والی بات  
 کسیبے۔ جزیرہ۔ کریٹ۔  
 کسیبے۔ مٹھے ہوئے گلے کی آواز۔ آواز کا بھارا  
 پن۔ گلے کا بیٹھ جانا۔  
 کسیبے۔ شہتیر۔ دھنی (د)  
 کسیبے۔ ترشی ملا ہوا پیئر۔ خالص پیئر۔ خشک  
 پیئر۔ پیئر تیار کرنے کی جگہ میں دھنی پیئر  
 میں پھوڑے ملا کر کوٹنا۔  
 کسیبے۔ نر سے مٹ ڈال کر یا چلو میں لے کر پانی  
 پینے والا۔

کسیبے۔ بامروت سختی۔ شریف انسان معاف  
 کرنے والا۔ حر۔ کد ماء۔ کسیبے  
 کسیبے۔ حج اور جہاد۔

کسیبے۔ بامروت عورت۔ سختی عورت۔ شاہزادی  
 کوئی قیمتی چیز۔ ہاتھ۔ تاک کان وغیرہ۔  
 کوئی شریف انسانی عضو (د) حصی  
 حر۔ کد آئیب۔

کسیبے۔ دونوں آنکھیں۔  
 کسیبے۔ کسیبے۔ تاپسند۔ برا۔ بد شکل۔  
 کسیبے۔ مصیبت۔ بلا۔ سخت لڑائی۔ لڑائی  
 کی سختی۔ حر۔ کد آئیب۔

## ک۔ س

کد۔ جھونڈا چہرہ۔ غصہ کی وجہ سے چڑھا ہوا  
 چہرہ۔ حر۔ کد آئیب۔  
 قدم پاس پاس رکھ کر چپٹا (مبولاً) بیماری

کد آئیب۔ کد آئیب۔ کد آئیب۔

کد آئیب۔ کد آئیب۔ کد آئیب۔  
 کد آئیب۔ کد آئیب۔ کد آئیب۔  
 کد آئیب۔ کد آئیب۔ کد آئیب۔

کد آئیب۔ کد آئیب۔ کد آئیب۔  
 کد آئیب۔ کد آئیب۔ کد آئیب۔  
 کد آئیب۔ کد آئیب۔ کد آئیب۔

کد آئیب۔ کد آئیب۔ کد آئیب۔  
 کد آئیب۔ کد آئیب۔ کد آئیب۔  
 کد آئیب۔ کد آئیب۔ کد آئیب۔

## ک۔ س

کد آئیب۔ کد آئیب۔ کد آئیب۔  
 کد آئیب۔ کد آئیب۔ کد آئیب۔  
 کد آئیب۔ کد آئیب۔ کد آئیب۔  
 کد آئیب۔ کد آئیب۔ کد آئیب۔  
 کد آئیب۔ کد آئیب۔ کد آئیب۔

کد آئیب۔ کد آئیب۔ کد آئیب۔  
 کد آئیب۔ کد آئیب۔ کد آئیب۔  
 کد آئیب۔ کد آئیب۔ کد آئیب۔

کد آئیب۔ کد آئیب۔ کد آئیب۔  
 کد آئیب۔ کد آئیب۔ کد آئیب۔  
 کد آئیب۔ کد آئیب۔ کد آئیب۔

کد آئیب۔ کد آئیب۔ کد آئیب۔

کرنا۔ روزگار پر لگا دینا۔  
**کُتَبَان**۔ انگشت نم (د)  
**کُتَج**۔ عاجزی۔ کمزوری معنی (ن) بھار ڈرنا  
 بھاڑنا۔ صاف کرنا۔  
**کُتِج**۔ وہ آدمی کہ جس سے مدد چاہی جائے اور  
 وہ مدد نہ کرے۔  
**کُتَحَان**۔ وہ آدمی جس سے ہلنا جائے۔ اپنی جگہ  
 پر پڑا رہنے والا۔ ج۔۔ **کُتَحَان**  
**کُتِر**۔ (علم حساب میں) وہ ٹکڑا جو پورے حصے  
 کو دیکھنے پر فن حساب کا ایک قاعدہ  
**کُتِی**۔ (رض) توڑنا۔ شکست دینا۔ خلاف کرنا  
 (الطائر) پرندے کا نیچے آنے کے وقت  
 پروں کو کھولنا (الوسادة) (تکیہ کو)  
 دوہرا کر کے اس پر سہارا لگانا۔  
**کُتِرَة**۔ ٹوٹا ہوا ٹھوس اجز۔۔ **کُتِر**  
**کُتِرِی**۔ فارس کے بادشاہوں کا لقب (خسرو  
 کا معرب ہے شہنشاہ کے معنی میں) ج۔۔  
**کُتِیْرَة**۔ آکا سیرتہ۔ کُتِیْر۔  
**کُتِیْرِی**۔ کسری کی طرف منسوب۔  
**کُتِطَال**۔ کُتِطَل۔ بچار۔  
**کُتِج**۔ (فت) ہانکنا۔ ادٹنی یا ہرنی کا اپنی ڈوم  
 کو دونوں ٹانگوں میں دبانا ادٹنی وغیرہ  
 کے تھنوں پر پانی چھڑکانا کہ دودھ اتر  
 آئے۔ کوئی بات کہہ کر کسی کو بخندہ کرنا  
**کُتَعَة**۔ گدھوں کے بچے۔ گائے اور گدھے  
 خدمت گزار غلام۔ بخشش و انعام۔  
 دودھ کا جانور جو انعام میں دیا جاتا ج۔۔ **کُتِج**  
**کُتِف**۔ (رض) قطع کرنا۔ ٹکڑے کرنا۔ اصطلاح  
 عربوں میں آخری حرف متحرک کا گرا دینا۔

(خدا کا اچھا دنیا سُورج کو کہہ رہی کر دینا۔  
**کُتِفَة**۔ بدلی۔ روٹی کا پھیلا۔ ٹکڑا ج۔۔ **کُتِف**  
**کُتِفِیْت**۔ دیاسلمائی (د)  
**کُتِئَل**۔ (س) است ہونا۔ بغیر اتزال کے جماع  
 کرنا۔  
**کُتِئَل**۔ ڈھکنے کی کمان کا پتلہ جو کمان سے علیحدہ کر  
 لیا جاوے۔  
**کُتِئَل**۔ **کُتِئَلَان**۔ **کُتِئَل**۔ کاہل ج۔۔  
**کُتِئَلِی**۔ **کُتِئَلِی**۔ **کُتِئَلِی**۔  
**کُتِئَم**۔ (رض) کسب کرنا۔ اپنی دیکھال کے لئے  
 رٹائی کو برپا کرنا۔ ہاتھ سے توڑنا خشک  
 بنناست کو پاک دھوا کرنا۔  
**کُتِئَو**۔ (ن) کپڑا پہنانا۔ خلعت دینا۔  
**کُتِئَوَة**۔ **کُتِئَوَة**۔ پوشاک۔ لباس پہننے کے  
 لائق کپڑا ج۔۔ **کُتِئَو**۔ **کُتِئَو**۔  
**کُتِئَوِی**۔ ناز و نعمت میں پللی ہوئی رٹائی جو اپنے  
 مقام سے باہر نہ جائے بہت عورت  
**کُتِئَوِر**۔ تجربہ کار۔ چالاک آدمی۔  
**کُتِئِیْم**۔ اپنی جگہ پڑا رہنے والا کہ ہل بھی نہ سکے  
 سنگڑا۔ عاجز۔  
**کُتِئِیس**۔ چھوڑوں کی بیڈ نہ شک گوشت کا قیہ  
 جو سفر کے لئے تیار کیا جائے۔ ٹوٹی ہوئی  
 روٹی۔

## ك - ش

**کُتِئَاو**۔ (فت) اگلے دانوں سے کھانا گوشت  
 وغیرہ کا اتنا چھوٹا کہ خشک ہو جائے  
 جماع کرنا کھال اتارنا (ب) تلوار  
 وغیرہ سے مارنا۔

کِشَم - نسل اور حسب میں خرابی مص (س)  
کسی کی نسل میں خرابی اور نقصان  
ہونا۔

کِشْمِید - کشمیر (اوتی پرٹا)

کِشَوْت - اکاس بیل - ایک گھاس جو سموت کی  
ڈور کی طرح درخت پر لیتی ہے۔

کِشَوْد - وہ اوتلی جس کے تھنوں کے سوراخ  
تنگ ہوں - بیوی بچوں کے لئے کمائی  
کرنے والا اجر۔ - کِشْتَد

کِشَوْت - ہر سال ساحلہ ہونے والی اوتلی۔

کِشْتِش - اونٹ کی پہلی آواز۔ خراب کے جوش

ماننے کی آواز۔ گنگانے کے وقت

چتھاق کی آواز مص (حق)، اونٹ کا

کِشْتِش آواز سے بولنا۔ سانپ کی گھنٹی

کا آواز دینا جب کہ وہ اسے اتار رہا ہو۔

## کِش

کِشَم - باریک وزم آواز مص (حق) باریک

آواز نکالنا۔ جمع ہونا۔

کِشَوْم - (ن) منڑ لیتا۔ پیٹھ پھیر لینا پہلی جگہ

لوٹ جاتا نظم اور سختی کے ساتھ وقوع کرنا

کِشِی - (حق) عزت اور برتری کے بعد کمینہ اور

ذلیل ہو جانا۔

کِشِیص - نرم اور باریک آواز۔ کِسِی - غون و

دہشت۔ ڈر مص (حق) حرکت کرنا

بے چین ہونا (الماء بالناس)

لوگوں کا پانی پر جھگڑا کرنا۔

کِشِیصَة - ہرن کے پھندے کی دھما۔ گردہ۔ ٹولی

جہ۔ - کِشِیص -

کِشَاح - پہلو کا داغ۔

کِشَاف - اونٹنی کا ہر سال کا پچھتا رہا وقت

بروایا جاتا ہے۔

کِشَاقَة - اسکا ڈنگ۔

کِشَح - کوکھ کی بیماری۔ پہلو کا درد (جسے عربی

میں ذات الجنب کہتے ہیں)۔

کِشَح - کوکھ۔ پہلو۔ جہ۔ - کِشَوْم مص (حق)

نکال باہر کرنا۔ پراگندہ اور تتر بتر کر دینا

دور ہونا۔ جھاڑو دینا (مجموعاً ذات الجنب

میں مبتلا ہونا۔ ذات الجنب کے باعث

پہلو میں داغ لگایا جاتا۔

کِشَحَلَن - وہ آدمی جو اپنی بیوی کے حق میں بے

غیرت ہو۔ جھاڑو۔

کِشَر - (حق) خیر یا اونٹ کا دانت نکالنا۔

آدمی کا مسکرانا۔

کِشَر - خشک روٹی۔ انگوڑا خوشہ (گھاہیں

میں سے انگوڑا لٹے گئے ہوں مص

(س) بھاگ جانا۔

کِشَح - رنج و افسوس کے باعث بے قراری

اور بے چینی۔

کِشَف - (ن) کھولنا۔ ظاہر کرنا۔ نکال کرنا۔ بدی

اور ضرر کو دور کرنا (عین الساق)

کسی چیز کی سختی کا انتہا کو پہنچ جانا۔

(د) بل۔ معاہدہ۔ تحقیق۔

کِشَف - (س) شکست کھانا۔

کِشَف - بچو کا پانی۔

کِشَش - کپڑے کا حاشیہ جھار جہ۔ - کِشَش (د)

کِشَم - چیتے کی شکل کا ایک جانور مص (حق)

جو طے سے ناک کا ٹڈان۔

## ک - ض

کَظَل - (ن) دور ڈالنا - پھینک دینا -

## ک - ظ

کَظ - وہ آدمی جو کسی کام میں رنج و تکلیف اٹھا چکا ہو مہنہ (ن) ابھرے ہوئے پریٹ کا تکلیف دینا ماورا اتنا پیٹ بھر کر کھانا کرسائس لینے کی گنجائش نہ رہے۔  
کَظَاظ - کَظَاظَة - (ن) علم، تکلیف اور مصیبت میں ڈالنا - رنجیدہ کرنا -

کَظَمَة - نالہ کا دہانہ عورت کی پیشاب گاہ کا سوراخ - وہ کنواں جس کے برابر میں دوسرا کنواں ہو - امدان دونوں کے پانی کا راستہ (سوت) ایک ہو - ترا دو کی ڈنڈی - اونٹ کی نیکیل ج - کَظَامِمْ  
کَظَم - عورت کی شرمگاہ کا کنارہ - گردہ کی چربی وہ جگہ جو گردہ نکالنے کے بعد خالی رہ جاتی -

کَظَم - کلا - منہ - سانس نکالنے کی جگہ ج - اَکْظَام  
کَظُوب - (ن) خوب موٹا ہونا -  
کَظُود - (ض) جگالی نہ کرنا (مجبوراً) خاموش ہونا -

کَظِيظ - وہ آدمی جو کسی کام میں رنج و تکلیف اٹھا چکا ہو -

کَظِيْم - علم گین آدمی - غصہ پی جانے والا -  
کَظِيْمَة - تھراس (د)

ۛ ۛ ۛ

## ک - ع

کَعَاب - وہ لڑکی جس کے پستان ظاہر ہو گئے ہوں -  
کَعَام - قسم یا تہ جو اونٹ کے منہ کے گرد باندھا جاتا ہے - ج - کَعَم -

کَعَب - پستان -  
کَعَب - بڑی کا ہر جوڑ - ٹھٹھا پاؤں کی پٹی کی وہ بڑی جہاں جو تہ کا قسم باندھا جاتا ہے  
ج - اَکَعَب - کَعُوب - کَعَاب -  
کَعَبُ الْحِذَاء - جو تہ کی اڑتی -

کَعْبَة - بیت الحرام زاد اللہ تشریفاً و تعظیماً  
بالا خانہ - ہر وہ مکان جس میں چار گوشے ہوں  
کَعْبَة - لڑکی کا کنواں - دو شیر کی بکارت -  
کَعْبُوكَا - گا تھ - سخت گردہ دار - غلہ کا کڑا کرکٹ  
ج - کَعَامِسو -

کَعْبَشَة - کچھونا - باندھنا - کودنے کے لئے پاؤں کو ملانا - قیدیوں کی طرح اُپست چلنا -  
کَعْتَرَة - مستوں کی طرح بل کھاتے ہوئے چلنا -  
زور سے دوڑنا -

کَعْدَاب - کمینہ - بیخ - بے مروت ج - کَعَادِب  
کَعْدَابَة - پانی کا بلبلا -

کَعْد - (س) بچہ کا پیٹ بھرا ہونا - اونٹ کے کوٹان میں چربی کی گرہ بندھ جانا -

کَعَز - کسی چیز کو انگلیوں سے سمیٹنا - جمع کرنا  
کَعَس - ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کی بڑی - انگلی کے تین جوڑوں میں سے بیخ کا جوڑ ج -  
کَعَامِس -

کَعَسَم - گورخر - ج - کَعَامِسِم -

کَعَسُوم - گدھا - ج - کَعَامِسِم -

کَفَّص - (ف) کھانا۔  
 کَفَّطَل - انگریزی لینے والا۔ شیریں جہ کَفَّطَل  
 کَفَّط - خشک آنے کی بغیر دودھ بھی کے پکی ہوئی  
 روٹی۔ (د)  
 کَفَّعَة - کسی کو بند کرنا (عن) ارادہ سے روکنا  
 کَعَل - پہاڑ۔ جانور کا گوبر۔ کمینہ آدمی۔ کنجوس  
 مال دار۔  
 کَعَم - (ف) اونٹ کے منہ پر بندھن باندھنا۔  
 برتن کے سر کو باندھنا۔  
 کَعَم - الماری۔ صندوق وغیرہ۔ ہر وہ چیز جس میں  
 سامان رکھا جائے جہ۔ کَعَم۔  
 کَعَم کَعَم - (ف) عورت کا بوسہ لینا یا اس کے ہونٹوں  
 کو بوسہ لیتے وقت اپنے منہ میں دبانا  
 کَعَو - (ن) بڑا دل ہونا۔  
 کَعُوْب - کَعُوْبَة - کَعَابَة (ن) حق روٹی کے  
 پستان نکل آنا۔ روٹی کا انار پستان ہونا۔  
 کَعِيْت - ہزار داستان (بیل) جہ۔ کَعِيْتَان

**ک - ف**

کَفَّ - بیچہ۔ تھیل (د) دستہ جہ۔ آکَفَّ - کَفُوْف  
 کَفَّت - مص (ن) دو کپڑوں کو ملا کر سینا  
 برتن کو بہت زیادہ بھرنے۔ روکنا۔ بھیر  
 دینا۔ عروض کی اصطلاح میں ساتویں  
 ساکن حرف کو گردینا [البصر] (مبولاد  
 معروفا) انڈھا ہو جانا۔  
 کَفَّاء - (مثلثہ) مانند۔ مثل۔ برابر۔ جہ۔  
 کَفَّاء - آکَفَّاء  
 کَفَّاء - (ف) بھرنے کا شکست پانا چھوڑ دینا  
 برتن میں رکھی ہوئی چیز گرانے کے لئے برتن

کو اوندھا یا طرہا کرنا (ف) داخل ہونا  
 (ع) باز رہنا۔  
 کَفَّاء - مانند۔ برابر۔ خیمہ کے کھیلے حصہ کا پردہ  
 جو زمین تک لٹکا ہوا ہوتا ہے جہ۔  
 آکَفَّاء - (مفاعلہ) سزا دینا کسی کے  
 مشکل ہونا۔ گھبانی کرنا۔  
 کَفَّاء - پاداش۔ بدلہ۔ برابری۔ مماثلت۔  
 کَفَّاء - کسی چیز کے جمع کرنے کی جگہ (مفاعلہ)  
 اچانک مرجانا۔  
 کَفَّاء - چھوٹی کاشمیر۔  
 کَفَّاح - بہت چیر۔ (مفاعلہ) بوسہ لینا۔ کسی کے  
 سامنے آنا۔ جنگ کرنا۔ برے کاموں  
 کا مرتکب ہونا۔  
 کَفَّاس - بڑا ناشکارا۔ بد اعتقاد۔ کسان  
 کَفَّاس - ناشکرے۔ ناسپاس۔ منکرین۔  
 کاشکار۔ داہ۔ کافس  
 کَفَّاء - گناہ کا بدل (صدقہ) روزہ وغیرہ)  
 کَفَّاس - دشمن یعنی وہ کپڑا جو اوپر پہنا جائے۔  
 کَفَّاء - اندازہ۔ مانند۔ ایک دن گزارنے کے  
 لائق۔ روزی جس سے مانگنے کی ضرورت  
 نہ رہے۔ اتنا مال۔  
 کَفَّاء (الشئی) گناہ۔ بہترین حصہ السیف  
 تلوار کی دھار جہ۔ آکَفَّاء۔  
 کَفَّاء (دستی) کَفَّاء - میں تجھ سے الگ رہ رہا ہوں۔  
 اور تو مجھ سے الگ رہ رہا ہوں (معاورہ)  
 کَفَّاء - (حق) کسی چیز کا کافی ہونا۔ کسی کا کام  
 ٹکانا۔ بیع کی ایک قسم (ایک چیز کو خریدنا  
 اور اس کی قیمت کو دوسرے پر حوالہ کرنا)  
 کَفَّاء - کَفَّاء - کَفَّاء - کَفَّاء (حق) پرند



کاتیز اڑانا۔ اڑنے میں سمٹنا۔

کفت :- پھرتیلا آدمی۔ چھوٹی ہانڈی۔ موت۔  
روکھی روٹی (حق کسی کو اس کے  
مُرخ سے پھیر دینا۔ حفاظت کرنا۔ مار  
ڈالنا۔

کفت - مضبوط ہجولی۔

کفتہ - ترازو کا پلہ۔ شکاری کا جال۔ دن  
کی کڑی۔ گول چیز۔ پانی کا گڑھا ج۔

کفت - کفت

کفتہ - کسی چیز کا حاشیہ۔ کنارہ۔ گروہ۔ ٹولی  
ج۔

کفتہ - کوفتہ۔ (د)

کفتج - (ت) اچانک بوسلینا۔ لگام کھینچنا۔  
لگام چوپایہ کے منہ پر مارنا۔ جنگا کرنا۔

کفتج - (س) طمذہ ہونا۔ بزدلی ہونا۔  
کفت - کفت آن - کفتوس - انگار - ناشکی موص

(ن) بد عقیدہ ہونا۔ کافر ہونا۔ ناشکی کرنا  
کفتس - عقاب۔ اونچا پہاڑ۔ کھجور کے خوشک کا ٹٹا  
کفتس - زمین جو دودھ۔ قبر خاک۔ گاؤں،  
رات کی سیاہی۔ تاریکی (د) پردہ۔  
موص (حق کسی چیز کو چھپانا) علی اچھا  
جانا۔ گھیر لینا۔

کفتسہ - تاریکی۔ اندھیرا۔  
کفتسہ - کافر۔ منکرین۔ ناشکے وا۔ کافرا

کفتف - نقش کے دائرے، ہاتھ پھیلا کر مانگنا۔  
استکان کا اسم ہے۔ ایک نئی روزی۔

کفتف - نقش کے دائرے جو دھس کے ہاتھ پر  
جائے جاتے ہیں۔ گڑھے جس میں چشمے ہوں

کفتل - (ن) کسی کی ضمانت کرنا۔ برابر روزہ

بروزہ رکھنا۔

کفل - کفتول۔ کفالتہ (ن حق کسی کسی  
کا ضامن ہو جانا۔

کفل - کسی چیز کا ایک گنا۔ بیل کی گردن کا پھرا  
جو جوڑنے کے نیچے رکھا جائے۔ حقیقت  
تیجھے سوار ہونے والا بیل۔ مانند۔  
ج۔

کفقال -

ذوالکفل - ایک پیغمبر علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام  
کا لقب جو کنعان میں مبعوث ہوئے۔

کفتن - مردہ کا پورا ج۔ آکفتان بے نمک کھانا  
کفتن - (حق) کاتنا۔ مردہ کو کفن پہنانا۔

کفتوس - ہمتا۔ مانند (د) لائق۔ قابل۔ ج۔  
آکفتاء -

کفتوس - ناشکر۔ کافر۔ اعتقاد نہ رکھنے والا ج۔ کفتو  
کفتیل - ضامن۔ ذمہ دار ج۔ کفتلاء -

## ک

کتل - ایجنٹ۔ سختی۔ بوجھ، رنج و افسوس۔ تہیم  
وہ کہ جس کا باپ ہو نہ بیٹا ج۔ کتول موص  
(حق) پھری کا کتہ ہونا۔ آنکھ کی بینائی کا  
جاتا رہنا (ن) تنک جانا۔ بے فرزند  
اور بے باپ ہو جانا۔

کتلی - کتلا۔ کتلا۔ کتلا۔ (ن) تلوار یا چوڑی  
کا کتہ ہو جانا۔ بینائی جاتی رہنا۔

کتل - تمام۔ سب کا سب۔ ہر ایک۔

کتلاء - گھاس ج۔ آکتلاء -

کتلا - ہرگز نہیں (حرف روع ہے)

کتلا - دونوں (اشنان کی تاکید کے لئے آتا ہے)  
کتلاؤۃ - (ف) میں گنہگار کرنا کسی کی عمر کا قسم ہو

جانا۔ قرض کی ادائیگی میں دیر ہو جانا۔  
 کلاب - (جھولنا) دیوانگی کے سبب نقل جانا رہنا۔  
 کلاب - سوار کے چوتے کی کیل جو کانٹے کے وقت  
 جانور کے چھوٹا ہے ہمیشہ۔ جہ۔ گلاب  
 کلاب - (منصرف) گلاب (یعنی) قحط۔ کال  
 کلابی - تہ خاثر (د)  
 کلابیہ - چرنے کی جھٹی (د)  
 کلال - کلابۃ - (ص) تھک جانا۔ بے فرزند  
 پر ہونا۔  
 کلابۃ وہ آدمی کہ جس کا نہ باپ ہو نہ بیٹا نہ نسب  
 جیسے چچا کا بیٹا۔ یا ماں کا شریک بھائی۔  
 کلاب - بات۔ وہ گفتگو جس سے سننے والے کو  
 کوئی خبر یا طلب معلوم ہو مفید بات۔  
 کلابہ - تکلیف۔ کسی سے بات چیت کرنا۔  
 کلب - کتا۔ جہ کاٹنے والا جانور جہ۔ کلب  
 آکلب - کلابات  
 کلب - آدمی کی دیر انگی جرتے کے کاٹنے کی وجہ  
 سے ہوتی ہے۔ کتے کی دیر انگی جو آدمی  
 کا گوشت کھانے کی وجہ سے پیدا ہوتی  
 ہے۔ پیاس، جاڑے کی سختی۔ حرص۔  
 بدی اور تکلیف (ص) (س) دیوانہ ہو  
 جانا۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے درخت کے  
 پتوں کا سڑکھ جانا۔ جاڑے کا سخت  
 ہونا۔ بغیر پیٹ بھرے بہت کھا جانا  
 (علیٰ) (رہیں) ہونا۔ امرار کرنا۔  
 کلبۃ - دیوانہ کتا۔ وہ شخص جو کتے کے کاٹنے  
 کی وجہ سے دیوانہ ہو گیا ہو۔ جہ۔ کلبی  
 کلبۃ - کتیا۔ ایک کانٹے وار درخت کا نسا۔ جو  
 جھٹنی سے ترڑ لیا گیا ہو۔

کلبۃ - شراب پیینے والے کی دکان۔ کتے یا آبی  
 کے منہ کے دونوں کناروں کے لمبے بال  
 قحط۔ سختی۔  
 کلبۃ - کلبۃ  
 (ص) (س) قلت) کلبۃ - تیز دوڑنے والا گھوڑا  
 کلبۃ - (ص) ڈان۔ گرانا۔ دوڑانا۔  
 کلبۃ - تاخیر۔ دیر۔  
 کلبۃ - پھر دانی۔ باریک پردہ جہ۔ کلال  
 کلبۃ - دو عورتیں۔  
 کلبۃ م (گوشت سے) بھرے ہوئے ہیرہ کا خوبصورت  
 آدمی، بڑے ڈیل ڈول کا ہاتھی۔ جہ۔  
 کلابۃ شیم۔  
 کلبج - شریف بہادر آدمی۔  
 کلبج - بہادر لوگ۔  
 کلب - (ن) تہ جمع کرنا۔ ایک دوسرے پر کھنا  
 کلبۃ - سخت زمین۔  
 کلبۃ - (ن) جمع کرنا۔  
 کلبۃ - چونہ  
 کلبۃ - مٹیالا۔ سیاہی مائل رنگ۔  
 کلبۃ - بجز آب۔ موزہ (د)  
 کلبۃ - پانچامہ (د)  
 کلبج - پاؤں کا میلا کھیل پون مص (س)  
 پاؤں کا میلا ہونا۔  
 کلبج - سخت بدن کا آدمی۔ بد صورت کینہ  
 آدمی۔ مال وغیرہ کا اچھا ستھام اور  
 دیکھ بھال کرنے والا جہ۔ کلبۃ  
 کلبج - (ف) پاؤں کا پیپ والا ہونا۔ جسم  
 پر میل کا خشک ہونا۔  
 کلبج - کلاب۔ (س) اڑت کے ہم کا پھینا ہوا ہونا

کَلِيم - زخمی بچہ کلام ہے۔ کَلِمَاء حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کا لقب۔  
کَلِيم - درش - نما پچھ - کل (د)

## ک - ہ

کَم - کتنا - کتنے - بہت سے استفہام میں شمار کے لئے آتا ہے جیسے کَم رَجُلًا عندک انتھارے پاس کتنے آدمی ہیں اور خیر میں کثیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے مثلاً۔ کَم دَرِهَم انْفَقَت میں نے بہت سے درہم خرچ کئے۔

کَم - (ان) کسی چیز کو چھپانا جمع ہونا اکٹھا ہونا  
کَم - وہ غلاف جو عملی چھل یا گودے پر چڑھا ہوتا ہے جہاں کَم کَم کَم آگے جہاں آگے جہاں  
کَم - آستین - جہاں آستین - کَم - کَم  
کَم - چھین چھتر - سانپ کی چھتری - جہاں - کَم - آگے جہاں - آگے جہاں

کَمَاء (س) جوتی کے باوجود پاؤں پیٹ جانا۔  
کَمَاء (س) کسی چیز سے ناواقف ہونا۔ جاہل ہونا  
کَمَاء - تکر - غرور - کَم - کَم

کَمَاء - پیٹ کا درد - میلا کپڑا جو گرم کرنے کے بعد درو یا چوٹ کی وجہ سے عضو پرانہ ہوتا ہے  
کَمَاء - (س) درو یا چوٹ والے عضو پر گرم کپڑے سے سینکنا۔

کَمَال - کَمُول (ن - ک - س) انجام پانا۔  
کَمَال - تمام ہونا۔ پورا ہونا۔ کامل ہونا۔

کَمَام - کَمَامَة - اونٹ کے منہ کی جالی دہلیز  
کَمَام - بند گھوڑے وغیرہ کا توبرہ ہے۔ آگے  
کَمَام - (س) چھپانا۔ زہ اور خود سے چھپانا

کَلَف مَاشِق - مَاشِق - سیرخ سیاہی مائل رنگ، چہرے کی چھایا  
کَلَف - مَص (س) (پ) حرص کرنا۔ ذلیفہ اور عاشق ہونا۔

کَلَفَاء - سیرخ سیاہی مائل - شراب مَدَا  
کَلَف جہاں - کَلَف  
کَلَفَة - خرچ - لاگت - جہاں - کَلَف (د)  
کَلَفَة - بڑا - جہاں - کَلَفَات - (د)  
کَلَف - کَلَف کال - سینہ چھاتی گھوڑے کے تنگ باندھنے کی جگہ۔

کَلَم - زخم جہاں - کَلَم - کَلَم مَص (س) زخمی کرنا۔

کَلَمَاء - جس بار جس مرتبہ جب بھی۔  
کَلَمَات - بہت بات کرنے والا - فصیح زبان والا۔  
کَلِمَة - بول - بات - پورا قصیدہ (د) مضمون شذرہ ہے۔ کَلِم - کَلِمَات

کَلِمَة اللہ - حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام  
کَلِمَة العین - وہ آدمی جو زیادہ جاننے کی طاقت رکھتا ہو۔

کَلَوْب - آرہ - مہمیز (ایڑھی کی کیل جو سوار گھوڑا دوڑانے کے لئے گھوڑے کی کوکھ پر مارتا ہے)۔

کَلُوْح - کَلَاْح - (ف) ترش روئی کرنا۔ بولوں کو اس قدر مینٹنا کہ دانت ظاہر ہو جائیں۔

کَلُوْف - دشوار کام۔  
کَلَن - (س) کسی کے گردہ پر مارنا۔

کَلِيَة - گروہ ہے۔ کَلِيَات - کَلِي  
کَلِيَة الوادی - جنگل کا کنارہ۔  
کَلِيَة - کالج - یونیورسٹی (د)

کنتہ - دروازہ کا پردہ یا سائبان۔ چنان چہ۔  
کنتات

کنت - (ح) زنی الخلق قوی اور مضبوط ہو  
جانا۔

کنتد - ناشکرا۔ لالچی۔ عیلم۔ تنہا کھانے والا۔

کنتد - (ا) قطع کرنا۔ کاٹنا۔

کنتد - مضبوط اور بڑے ڈیل ڈول کا گدھا

درخت کا پتھر اہر اوق۔ ٹھکنا آدمی۔

کنتد - سخت زمین۔ نجوزین۔ رہنے کی جگہ۔

کنتد - بوٹ (د)

کنز - سونا۔ چاندی۔ خزانہ۔ کنوز۔

(ح) خزانہ جمع کرنا۔ نیزہ زمین میں گاڑنا۔

کنز - کنز - (ح) کھجوریں توڑنا اور جازوں

کے لئے ذخیرہ بنا کر رکھنا۔

کنس - (ن) گھر میں جھاڑ دینا۔ مکان کو صف

کرنا۔ جھاڑنا۔

کنس (الجوار) الکنس - سيارے یعنی گھومتے گردش

کرنے والا۔ متارے۔ فرشتے۔ جنگلی گائیں

ہرنیاں۔

کنشیدو - چاند (د)

کنظ - (ن) ح) رنجیدہ کرنا۔ بھرتا۔ بڑ کرنا

کنع - (س) اکھینا۔ خشک ہو جانا۔ کسی کام کو

لازم کر لینا اور ہمیشہ کرنا۔

کنع - رات کا پھلانا۔ تھانی حصہ۔

کنعان - ایک بستی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام

حضرت نوح کے پرنے کا نام جو سام بن نوح کا بیٹا

تھا۔

کنعورہ - کانگریس (د)

کچی - شجاع ہتھیار چلانے والا چہ۔ کساکہ  
کمیٹ - سیاہی مائل سرخ رنگ کی گھوڑا

جس کی گردن کے بال سرخ ہوں اور دم  
سیاہ ہو۔ گہرے رنگ کی شراب چہ۔ کمیٹ

کمیٹہ - مقدار۔

کمیٹہ - کسی چیز کی اصل۔ جزو۔ بنیاد

کمیٹہ - غمگین آدمی۔ چہ۔ کمیٹہ

کمیٹہ - ساتھ سونے والا۔

کمیٹہ - جنگ میں دشمن سے پرشیدہ جماعت

## ک - ن

کن - کنوں - (ن) ڈھانکنا۔ چھپانا۔ حفاظت  
کرنا۔

کن - گھر۔ پردہ۔ چہ۔ آستان

کناد - حکم نہانے والا۔ شکر نہ کرنے والا

کناس - بید۔

کنارہ - باجہ۔ دف۔ طبلہ۔ چہ۔ کنارات۔ کنایہ

کناس - ہرن کا نشین۔ چہ۔ کنس۔ کنس۔

کناسہ - کوڑا کرکٹ۔

کنافہ - کیک - (د)

کنال - نسر - (د)

کنتان - پوشش۔ ہر چیز کا پردہ۔ چہ۔ آکنتہ

کنتہ - چڑھے یا مکڑی کی ترش چہ۔ کنتان

کنتیہ - (ن) ح) (ب) عن [ کوئی لفظ بول کر

ظاہری معنی کے علاوہ معنی مراد لینا۔

کنتب - ایک گھاس مع (ح) کسی چیز کو اپنی

جھولی میں جمع کرنا۔

کنتب - کام کرنے کی وجہ سے ہاتھ کی سختی۔

کنتہ - بیٹے کی بیوی۔ بہو۔ جواد۔ چہ۔ کنتان

ھینکل کہا جاتا ہے خوبصورت عورت  
ج: کتاس۔

کَنِیْج - کنجا آدمی - زور کی بھوک۔

کَنِیْف - تخانہ - پاجانہ (بیت الخلاء) لباس  
پردہ - ڈھال - ہاتھ منہ ڈھونے کی جگہ  
ادیش کا بازو - ص (ن) کسی کے لئے  
کنیف بنانا - ج: کتف - کتف

## ک - و

کِوَاَح - ابھی طرح حفاظت کرنے والا۔

کُوَاَدَةُ الْعُثْل - موم ملا ہوا شدید - شدید کا برتن  
جوڑے کی طرح ہو شدید کی نگہی کا گھر  
ج: کواوات - کواشر۔

کُوَاَسِیْب - شکاری درندے اور پرندے۔

کُوَاَعِب - انارستان عورتیں وا: کا عیب۔

کُوَاَفِی - بے ایمان اور کافر عورتیں وا: کا حیرت  
کُوَاب - گلاس ج: اَحْوَاب (د)

کُوَاب - (ن) گلاس سے پانی پینا۔

کُوَابِی - یل - آمینی یل (د)

کُوَابِیۃ - تیج - افسوس - حسرت۔

کُوَاۃ - کُوَاۃ - دیوار کا روزن - روشندان۔

ج: کواۃ - کوی۔

کُوَاث - جو تار صندل - ج: اَحْوَاث

کُوَاَشْر - بہت زیادہ چیر - تہہ تہہ چھا ہوا بخار

اسلام - نبوت - خیر و احسان بہت زیادہ

سچی آدمی - سردار - بہشت کی نر۔

کُوَاَح - (ن) پانی یا خاک میں کسی کو ڈال دینا

جنگ میں کسی پر غالب آنا۔

کُوَاَخ - بھونپڑا ج: آکواخ (د)

کَفُّف - (ن) کسی چیز کا احاطہ کر لینا - حفاظت کرنا  
مدد کرنا (ن) حق اور ظلم کے رہنے کے  
لئے بارہ بنانا (عن) لوٹنا - پھرنا۔

کَفُّف - تھیلہ - بھولی۔

کَفُّف - سایہ - کنارہ پرندہ کا بازو - گود۔

ج: آکفَات

کَفْفۃ - گوشہ - کنارہ - طرف۔

کَفْفَانۃ - بھاگ جانا - سستی کرنا گھر میں بیٹھ رہنا

کَفُوَب - (ن) سخت دل ہو جانا - فقیری کے بعد

مالدار ہو جانا۔

کَفُوَد - ناشکر - احسان نہ ماننے والا - کافر

نا فرمان - ایلا کھانے والا - نجیل - نجیر

زمین۔

کَفُوَد - (ن) ناشکری کرنا - حکم نہ ماننا۔

کَفُوَع - (ن) نزدیک ہونا جمع ہونا (النجم)

ستارہ کا چھینے کے قریب ہونا (الطائر)

پرندہ کا اوپر سے بیچے اترنے کے لئے پڑ

سمیٹنا (عن) [بزدل ہونا بھگانا] (ن)

فروتنی اور نرمی کرنا [ب] قسم کھانا۔

کَفُّہ - اہل ذات - مقدار حقیقت - وقت موقع

کَنِیْبۃ - خشک درخت۔

کَنِیْبۃ - کَنِیْبۃ - کَفُوۃ - وہ نام جس میں باپ یا

یا بیٹے کی طرف نسبت کر کے پکارا جائے

ج: کفی۔

کَنِیْت - بہت بڑی مشک

کَنِیْسۃ - گرجا یہودیوں کی عبادت گاہ عیسائیوں کا

عبادت خانہ (آج کل یہودیوں کے معبد کو

کَنِیْس عیسائیوں کے گرجے کو کَنِیْسۃ

ادبیت پرستوں کے عبادت خانہ کو

**کُود** - (ن) روک دینا کسی کام کے قریب ہونا (عام ہے) اس سے کہ وہ کام نافع ہو جائے یا نہ ہو پس اگر یہ فعل بغیر حرف نفی کے ہو مثلاً **کَاوَدَ یفعل کذّآ** تو یہ مطلب ہو گا کہ فلاں شخص ایسا کرنے کے قریب تھا مگر اس نے کیا نہیں - اور اگر حرف نفی داخل کر دیا جائے مثلاً **کَاوَدَ یفعل کذّآ** تو پہلی صورت کا عکس ہو گا - یعنی فلاں شخص یہ کام کرنے کے قریب نہ تھا - مگر اس نے کر لیا -

**کُودَن** - ٹوٹا ہوا - بوجھ کا جانور - ہیرو قوف آدمی

**کُوس** - اونٹوں کا گلہ - گایوں کا گلہ - پگڑی کا پیچ جہاں آکو - اس میں (ن) زیادہ ہونا پگڑی کا پھینسا - کپڑوں کی گھڑی اٹھانا جلدی کرنا -

**کُوس** - جھٹی - مٹی کی مٹی ہوئی پالان اور اس کا سامان جہاں کیڑاؤں آکُود

**کُویَّاة** - شہر کنارہ - جانب (د) پرگنہ جہاں کُود کُورَیْنِیْنِہ قرنیینہ -

**کُوس** - (ن) پیالہ سے پانی پینا - اکٹھا کرنا

**کُوس** - پیالہ - کوزہ جہاں آکُودآذ - کُوزَاة کیڑاؤں

**کُوس** - (ن) اسانپ کا اپنے جسم کو حلقہ بنانا - جو پایہ کا تین پاؤں پر چلنا - سر نہیچا کرنا - دام کم کر دینا -

**کُوس** - ڈھول - نقرہ - ایک پیانہ (مثلث نما) جہاں کُوساۃت

**کُوسا** - کھیرا - گڑھی - لہکی (د)

**کُوسِیج** - وہ آدمی جس کی ڈاڑھی وقت گزرنے کے بعد نکلے - وہ شخص جس کی ڈاڑھی صرف ٹھوڑی پر ہو - رخساروں پر نہ ہو - جہاں -

**کُویّیج**

**کُودع** - کنسی - ہتھکا پہنچا جہاں آکُودع

**کُودقان** - ریت کا ٹودہ - عورت - سرداری - بلندی - رنج و سختی -

**کُودقاة** - عراق کا بڑا شہر - ریت کا ٹودہ عجیب

**کُودھر نوں** جنوں - گو رنر جنرل (د)

**کُودکب** - بڑا ستارہ - آنکھ کے اندر کا سفید دارغ - قوم کا سردار - تنواری قید خانہ پر بزرگ گھاس پر پر ڈی ہوئی شبنم نوہ کی چمک لہی گھاس جہاں - کُوداکیب

**کُودکبّة** - بڑا ستارہ آدمیوں کا گروہ - زہرہ

**کُودر** - (ن) صحبت کرنا - جہتی کرنا -

**کُود** - (س) اونٹنی کا بڑے کولن والا ہونا

**کُودم** - اونٹوں کا گلہ - جہاں آکُودام ٹیپے کی طرح بلند مقام - جہاں - کیپیمان

**کُودمَام** - بڑے کولن کی اونٹنی - مڈا آکُودم جہاں - کُودم

**کُوند** - نئی پیدا ہوئی چیز - وجود پتی - دنیا حرکت سکون جہاں - آکُودان مع (ن) ہونا - (علی) کسی چیز کا ضامن ہونا - کا تا -

**ک - ہ**

**کھَاة** - بڑے ٹیل ڈول کی اونٹنی -

**کھَا م** - کند تنواری آہستہ چلنے والا (گھوڑا) (زبان) جو جلدی نصف تنگ نہ کر سکتی ہو - بڑھا آدمی -

**کھَا تہ** - (ن) صف - ناپٹیں گوتی کرنا - کشت الہام حوجی کے علاوہ کسی اور طریق پر فال نکالنا -

مگر کرنا۔ مگر سکھانا چیتا ق سے آگ نکالنا  
تے کرتا۔ عورت کا حیض لے آنا۔ قصد  
کرنا۔ کام کا قریب ہونا۔ سنجی کرنا۔

کیس - (۱) ناقص [ لڑنا۔ جان دے دینا۔  
عقل مند ہوشیار۔ جہ۔ کینسی۔ آکیاس  
م۔ کینستہ۔ جہ۔ کیاس۔

کیس - عقل۔ بہادری۔ ہوشیاری (مہر) (حق)  
عقل مند ہونا۔ جماع کرنا۔

کیس - سونے چاندی کی تھیل۔ جہ۔ آکیاس  
کینستہ۔

کینسوہم - خشک چارہ۔ ترقازہ۔ باغ۔ جہ۔ آکاسم  
کیس - گیوہی۔ کینھان (حق) بزدل اور سست  
ہونا۔ اکیلے کھانا (من الطعام) بہت کھانا

کیف - کس طرح کی حالت و ریاست کرنے  
کے لئے استعمال ہوتا ہے (کبھی شرط و جزا  
کے لئے آتا ہے اور اس صورت میں یہ  
دو فعلوں پر داخل ہوتا ہے جو لفظ اور  
معنی کے اعتبار سے یکساں ہوتے ہیں  
کیف تصنع اصنع میں طرح تو کرے گا  
میں بھی کروں گا مہی (حق) کاٹنا۔ قطع  
کرنا۔

کیس - پیمانہ چیتا ق کی چنگاری جہ۔ آکیال  
مہی (حق) (ناج وغیرہ کو ناپنا) (حقان کا)  
آگ دینا کسی چیز کے ساتھ کسی چیز کا انداز  
کرنا۔

کینجہ - غلے وغیرہ کا پیمانہ۔ جہ۔ کیسہ لجر۔  
کینڈو مینڈو۔ کیلو میٹر (مساوی ۰.۸۲ گز)  
کین - عورت کی شرم گاہ کے اندر گوشت کا  
ٹکڑا مہی (حق) عاجزی کرنا۔

کھبّہ - سُرُخ۔ سیاہی مائل رنگ  
کھنڈ - کھنڈان۔ (د) گدھے کا دوڑنا۔ دوڑانا  
تھک جانا۔ جھکڑے کا قصد کرنا۔

کھس - (د) ہنستا۔ غاب ہونا۔ بیخ ہارنا۔ دن  
چڑھنا۔ دھوپ کا سخت ہونا۔ آپس میں  
ایک دوسرے کا داماد اور خسر ہونا۔  
کھبّہ بایثہ۔ توت برقی۔ (مگر اسیٹی (د)  
کھبّہ مان۔ کھبّہ (د)

کھف - پہاڑ کی کھوہ۔ غار۔ جہ۔ کھووف  
کھلم - بیشکن۔ پڑھا۔ ڈرپوک آدمی۔ جہ۔ کھلم  
کھشل - ادھیر ط عمر کا آدمی۔ درمیانی عمر کا جس کی تیس  
چونتیس برس سے زیادہ عمر ہو۔ جہ۔  
کھوول۔ کھال۔ کھلان۔

کھم - (د) کسی شخص کو ایک کام سے باز رکھنا  
بزدل بنا دینا۔  
کھول - مڑوی۔

## ک-ی

کی - (حق) لوہے وغیرہ سے داغ لگانا (بالعیب)  
کسی کی طرف تیز نگاہوں سے دیکھنا۔ کچھ  
وغیرہ کا کاٹ لینا۔

کی - سنا کہ (حق) تعیل (کس طرح) (کیف کا مخفف)  
کیاس - (حق) (ن) گھوڑے کا دم اٹھا کر دوڑنا  
کیاستہ - (حق) عقلمند ہونا۔ ہوشیار ہونا۔

کیان - (ن) (علی) ضامن ہونا۔  
کیست - عقل مند۔ ہوشیار۔ جہ۔ آکیات۔  
کیٹ و کیٹ۔ کیٹ دکیٹ۔ ایسا اور ایسا۔  
کیٹو لٹ - کیتھو لک۔ ایک عیسائی فرقہ۔

کیشد - حیلہ۔ مکر۔ جنگ۔ جہ۔ کیٹ۔ د۔ مہی (حق)

کیستہ - ذلت کی سختی - بد حالی -  
 کیستیا - تانبے وغیرہ سے سونا بنانے کی اکیر فن  
 کیسٹری جس میں تحلیل و ترکیب اجزا و جسم  
 سے بحث کی جاتی ہے -  
 کینوٹہ - (ن) وجود میں آنا - ہونا -  
 کیستہ - وہ آدمی جس کا مکر لوگوں کو معلوم ہو گیا ہو  
 اور لوگ اس کے دھوکے میں نہ آئیں -  
 کیٹول - بزدل - جنگ میں پھیلی قطار - بلند زمین  
 پر بہتر چیز -

ل - ۳ - ل

لا - ۲ - نہیں (حرف نفی ہے)  
 لا ایش - ور کر کے والا - ٹھہرنے والا -  
 لا ایتہ - پستان (پھاتی) اجڑ - کو آسین  
 لا ات - ایک بت کا نام جو بنی ثقیف کا معبود تھا  
 لا ایتہ - چھٹے والا - اپنی جگہ قائم رہنے والا -  
 لا احوس - نامبارک - منحوس آدمی -  
 لا دہ - کپڑے کا بیوند لگانے والا لٹھا پڑانے  
 والا - ج - لساہ -  
 لا زب - لازم - چکنے والا -  
 لا زوق - لذوق - ایک مرہم ہے جو زخم کے اچھا  
 ہونے تک زخم پر چلا رہتا ہے -  
 لا سیکٹی - دائر لیس - بے تار برقی (د)  
 لا صیف - سر مر کا پتھر -  
 لا حیط - (ف) ایک کام کا حکم کرنا اور اس میں ہمارا  
 کرنا - توجہ کرنا - جانتے ہوئے آدمی کو  
 صاحب نظر دیکھتے رہنا -  
 لاع - بے ہر آدمی - بیاد و محبت - بعض عشق  
 ج - انواع -

لاعیب - کھیلنے والا بے سود کام کرنے والا -  
 لاعیہ - عشق ہاز عورت - وہ عورت جو آدمی کو  
 اپنے اوپر قابو نہ پاتے دے چلاک  
 اور ہوشیار عورت -  
 لا عیج - جلتے والا - تکلیف دینے والا -  
 لا عین - لعنت کرنے والا -  
 لا عینہ - لا عینہ - لغو اور بے فائدہ بات بہرودہ یا  
 لا عیج - روائی - حمل والی اونٹنی - ج - کو آقح  
 لا عیس - لوگوں کے عیب نکالنے والا - ہرا -  
 لا عیظ - مذکور کرنے والا - آنا و کیا ہر انعام چھیننے والا  
 لا عین - لیکن - مگر ان کی تشدید کے ساتھ حرف  
 استراک ہے - اور سکون کے ساتھ حرف  
 لا عی - ملنے والا - ملاقات کرنے والا  
 لا عی - آدمیوں کا عیب ڈھونڈھنے والا - ج  
 لعا -  
 لا عیہ - روشن ہونا - حقیقی کا خواہش مند ہونا -  
 (بالعین) تیر نظر سے دیکھنا -  
 لا عیہ - زہ ج - لا عیہ کووم  
 لا عیہ - برائی - فساد (عین لا عیہ نظر بد -  
 لا عیج - چکنے والا -  
 لا عیہ کینیت - فیدریشن (د)  
 لا عیہ - بچے کے سر کا تار چکنے والی ج - کو آعج  
 لا عیق - آنکھ ملنے والا - ج - لعیق -  
 لا واء - سختی -  
 لا ونداء - لونڈر (د)  
 لا عی - سختی - منت معارف - ٹھہر جانا  
 لا عی - وصال جنگی بیل یا گاؤں - ج -  
 لا عیہ -  
 لا عیہ - سانپ -



لَبَان - ایک قسم کا گوند - صنوبر۔  
 لَبَنَة - سیدہ کا وہ حصہ جہاں ہار پہنا جائے  
 پاک دامن عورت - شوم کہ دوست  
 رکھنے والی (د) نکلیں۔  
 لَبَنَت - لَبَان - لَبَانَة - (س) دیر کرنا  
 لَبَنَج - دن آگیاں دینا - دھوکہ دینا - مارنا  
 قتل کرنا۔

لَبَد - تندرہ دھاٹ، زین کا فوی گیر ح۔

أَلْبَاد - لَبُود -

لَبَد - گھر میں پڑا رہنے والا - نکھوٹ۔

(صا) لَبَد - بہت سال۔

(صا) لَبَد - بہت سال۔

لَبَدَة - مذہ کی ٹوپی (د)

لَبُون - (ص) خوب کھانا - نکل جانا - اونٹ  
 کالات مارنا - بڑا عقب دینا۔

لَبُون - (ص) زخم پر لپک کرنا۔

لَبَس - (ص) کسی کو سب سے ڈال دینا - ملع کرنا  
 حقیقت کو چھپانا۔

لَبَس - (س) پہنا - ایک زمانہ تک فائدہ  
 حاصل کرنا۔

لَبَس - جو کچھ پہنا جائے - پوشاک - پردہ۔

لَبَسَة - شک و شبہ۔

لَبَط - (ص) (س) کسی کو زمین پر پٹخا (مجبوراً)  
 دکام ہونا۔

لَبَطَة - دکام۔

لَبَق - ماہر - ہوشیار آدمی - زیادہ کہنے والا۔  
 کپڑا جو بدن پر چٹ جائے۔

لَبَق - (س) (س) عقلمند ہونا - کپڑے کا ہم  
 پر چھید - اور درست آنا - اس طرح کہ

لَا هِيَّة - غافل - کھینچنے والی

لَا يَب - پیاسا جہ - لَبَب - لَوَائِب -

لَا يَحْت - پروگرام - اسکیم - فرسٹ (د)

لَا يَشِم - طامت کرنے والا جہ - لَوَاہ - لَوَم

لَيْتَم -

لَا يَمَة - طامت - طامت کرنے والی جہ - لَوَائِم

## ل - ب

لَب - ایک جگہ رہنے والا - کسی کام کو لازم پکڑنے

والا (ص) (س) آنا - سینہ پر مارنا۔

چوپایہ پر پالان باندھنا (ب) قیام

کرنا۔

لَب - زہر عقل - چربی - برخالص چیز - بیگ

جہ - أَلْيَاب - أَلْب - أَلْبَب -

بادام - اخروٹ وغیرہ کی بیگ - جہ -

لَبُوب -

لَبَا - نئے جننے والے جانور کا پہلا دودھ۔

لَبَاب - برخالص چیز کسی چیز کا خلاصہ۔

لَبَانَة - شیرنی - جہ - لَبَوَات - لَبَانَة

لَبَانَد - مذہ بنانے والا۔

لَبَانَدَة - طاٹ کی برساتی

لَبَاس - پہننے کا کپڑا - پوشاک - لَبَاسُ الرَّجُل

مرد کی بیوی - لَبَاسُ الْمَرْءَةِ عورت

کا شوہر لَبَاسُ التَّقْوَى شرم دھیا -

ایمان۔

لَبَس - دھوکہ دینے والا - مکر و حیلہ کو بھی طرح

چھپانے والا - بہت پہننے والا۔

لَبَان - سینہ یا سینے کا درمیانی حصہ۔

لَبَان - دودھ دینا۔

لَبَنَسِيس - گھا ہوا پرانا کپڑا۔ مثل۔ مانند۔

## ل - ت

لَت - (ن) اکوٹنا۔ ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ گھوٹنا۔

لَتَبْ - ہاندھنا۔ چپکانا۔ چھٹانا۔ قریب کرنا۔

لَتَبْ - لَتَوْب - (ن) پہننا۔ (ب) مضبوط رہنا۔  
(ق) اپنی جگہ چھوڑنا۔ (ق) نیزہ مارنا۔  
(ع) گھوڑے پر پھول کتنا۔

لَتَح - (ن) ڈھیلا پھینک کر جسم کو متاثر کر دینا۔  
کسی کا سب کچھ پھین لینا۔

لَتَح - (س) سھوکا ہونا۔

لَتَد - (ق) زیالید۔ مٹکا مارنا۔

لَتَد - (ن) حق سینہ پر لات مارنا۔ گھونسا مارنا۔  
دور کرنا۔

لَتَغ - (ف) مزے سے کاٹ کھانا (بالید)۔  
گھونسا مارنا۔

لَتَم - (ن) حق) ناک کا سوراخ پر مارنا۔ تیر۔  
پھینکنا۔ مارنا۔

لَتَم - زخم۔ گھاؤ۔

## ل - ت

لَتَف - (ت) برتن وغیرہ سے کئے گئے پانی پینا۔  
لَتَف - (ن) انتر کی جڑ مسوڑھا ج۔ لیشات۔  
لیٹی۔

لَتَط - (ق) آہستہ آہستہ ہاتھ پانچ مارنا۔ مزے میں بڑبڑانا۔  
چپکے چپکے بڑا بھلا کتنا۔

لَتَفَت - زبان کا صاف نہ ہونا اور لفظوں کا صحیح  
ادانہ کرنا۔ سین کی جگہ ت ہونا (مصحف)۔

لَتَفَة - مزہ۔

جسم سے چپک جائے۔

لَبَنَك - (ن) گڈ گڈ کرنا۔ ملانا۔ بستوں کرشمہ۔

دیگرہ میں ملانا (س) مل جانا۔ گڈ گڈ ہونا۔

لَبَنَكَة - شریک کا ٹکڑا۔ شریک ایک قسم کا کھانا ہے جو  
چھوار سے گھی اور پیرو وغیرہ سے تیار کیا جاتا  
ہے۔

لَبَن - دودھ جو۔ اَلْبَان معنی دس ہیکر لگانے کے  
سب گردن کا درد کرنا۔ بکری وغیرہ کا دودھ  
والا ہونا۔

لَبَن لَبِين - لَبِين - کچی اینٹ وا۔ لَبِنَة

لَبَن - (ق) سینہ پر لٹھی مارنا۔ دودھ پلانا (ن)  
بہت کھانا۔ اینٹ تھاپنا۔

لَبِنَة - بڑا لوالہ۔

لَبِنَة - زیادہ دودھ کی ادھنی لگنے کی کھی

لَبِنِي - ایک درخت جس کا دودھ شہد کی طرح  
ہوتا ہے۔

لَبِنِيَّة - کھیر (د)

لَبِنَة - لَبِنَة - لَبِنَة - شیرنی۔

لَبِنَة - چھپڑی۔

لَبِنَة - لَبِنَة - (ن) (س) ایک جگہ کا لازم  
پکڑنا (ب) چھٹنا۔

لَبِنَس - لباس۔ پوشش۔ زرہ۔

لَبِنُون - کپوتہ۔ دودھ والی جیس کے بتانوں ہیں  
دودھ اتر آیا ہو۔ ج۔ لَبِنُون - لَبِنُون - لَبِنُون  
لَبَانُون۔

(ابن) لَبِنُون - اونٹ کا بچہ جو دو سال کا ہو کر تیرہ بیٹے لگے  
لَبِنُون - عقل مند۔ عوام ہاندھنے والا۔ ایک کام  
کو برابر کرنے والا ج۔ لَبِنُون - لَبِنُون - لَبِنُون

لَبِنُون - چارہ کی ٹوکری تھیل۔ تربوہ۔



اس طریق پر کہ صرف وہ ہی سمجھے زانی کسی کی طرف توجہ کرنا (رفی) اعراب و قرآن میں غلطی کرنا۔

لَحْزَة - اعراب اور پڑھنے میں بہت غلطی کرنے والا

لَحْن - رفت (س) سمجھ لینا۔ چالاک ہونا

لَحْو - دن (گالی بکنا)۔ درخت کی چھال اتارنا لَحْوَس - لالچی۔

لَحْوَق - (س) سبکی کر دینا ہونا کسی کے ذمہ دینا ہونا

لَحْج - ڈارھی نکلنے کی جگہ (جہڑ) ج: بالیج لَحْج

مصص (رف) درخت کی چھال اتارنا۔

بد عادتینا۔

لَحِيَّة - ڈارھی ج:۔ لَحْي لَحْي

لَحْيَاتِي - لمبی ڈارھی والا آدمی۔

لَحِيم - موٹا آدمی گوشت والا شیل قتل کیا ہوا

## ل - خ

لَح - (ن) آنکھ کا آنسو والا ہونا طہا پتھر مارنا۔

خبر کا تحقیق کرنا (بالطیب) خوشبو ملنا

پھاڑ پھڑھٹا۔ پھیلی کتنا۔

لِحَاء - تررونی مصص (مفاعلا) دوستی کرنا بیڑگانا

کلام کچھوٹ سے سنوارنا (ب) چٹھوڑی کرنا

لِحَاء - ہڈیاں۔

لَحْزَن - تیز بھری۔

لَحْص - (س) آنکھ کے پپڑوں کا سوچ جانا۔

لَحْصَع (لَحْص) - موٹا شخص جس کا دودھ شکل سے نکلے۔

لَحْخ - جسم کا ڈھیلا پن۔

لَحْف - پکلا مسک مصص (ن) زور سے مارنا نشان

کو بڑا کرنا۔

میلان کرنا۔ آنکھ کے کنارے سے دیکھنا

(رفی دین اللہ) خرائے قدوس کے

دین سے پھر جانا۔

لَحْر - لَحْر - کینوس بری عادت والا۔

لَحْس - (ف) کیرے کا کیرے کو کھانا۔ بڑی کاکھیتی

کو کھانا (س) زبان سے چائنا۔

لَحْص - (ف) تھوڑا تھوڑا نظر کرنا (رفی الامہ)

کسی کام میں پھنس جانا۔

لَحْط - (ف) پانی پھر کنا چھیننا۔ دفع کرنا دور کرنا

لَحْط - لَحْطَان (ف) آنکھ کے کنارہ سے دیکھنا

کنکھیوں سے دیکھنا۔

لَحْف - (ف) لحاف اور ڈھانا۔ زبان سے چائنا

لَحْفَة - (ف) (مجموعاً) کسی کے مال میں سے تھوڑا

ساک ہونا۔

لَحْق - لَحَاق - (س) جا ملنا۔ لاحق ہونا۔

لَحْث - (ف) مزہم دو اڈالنا۔ آپس میں چٹینا۔

کسی چیز کو کسی چیز میں داخل کرنا۔

لَحَث - (س) اچھٹنا۔

لَحْكَة - انگلی کی برابر ایک جانور جو ریت میں چبنا

اور اسی میں غائب ہو جاتا ہے۔

لَحْم - گوشت (س) دن گوشت کو ہڈی سے

علیحدہ کرنا اور کھانا۔ سنسار کا چاندی کو

صاف کرنا (ف) گوشت کھلانا (س) (ب) قیام کرنا۔

لَحْم - (س) پر گوشت ہونا۔ گوشت کا شوقین

ہونا ج:۔ لَحْم - لَحْمَان

لَحْمَة - رشتہ داری۔ بارگاشکا کردہ۔

لَحْن - ابھی اور مناسب آواز ج:۔ لَحْنَان

لَحُون مہورت (زل) کسی سے گفتگو کرنا۔

لَدَغ - (ف) اسانپ يا بچپو کا کاٹنا (بالکلام)  
 کسی پر طعن کرنا۔  
 لَدُم - زمین پر گرتے وقت پتھر کی آواز (معدی)  
 منہ پٹینا۔ کپڑے میں پیوند لگانا۔  
 لَدَم - اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کی  
 عزت و حرمت۔  
 لَدُون - لَدُون - لَدُون - لَدُون پاس۔ قریب  
 زمان اور مکان دونوں کے لئے استعمال  
 ہوتا ہے۔  
 لَدِيد - سخت دشمن دو اوجوز کے ایک کفار  
 میں ڈالی جائے جو۔ آئینہ۔  
 لَدِيدَان - دو کنارے جنگل کے دو کنارے  
 کاڑوں کے پچھے گردن کے دو حصے۔  
 لَدِي - ساتھ۔ پاس۔ نزدیک (ظرف مکان)  
 لَدِيدَة - عمرہ جین۔  
 لَدِيغ - سانپ کا کاٹا ہوا۔ جو۔ لَدِيغِي

## ل - ذ

لَدَّ - لَدُو - (ن) کسی کے منہ کے کنارے میں وا  
 ڈالنا۔ دشمنی کرنا۔  
 لَدَّ - (ن) سخت دشمنی کرنا (رعن) روک دینا  
 لَدَّ - ہتھیار کرنے والے ہتھیاروں کو کہہ لَدَّ  
 لَدَاع - کاٹنا۔ کلنے کی نوک  
 لَدَاعَة - ستانے اور تکلیف دینے والا آدمی  
 لَدَانَة - لَدُونَة (ف) نرم ہونا۔  
 لَدَا - ہم عمر۔ بھولی جو۔ لَدَات۔ لَدُون  
 لَدَد - (س) بہت زیادہ لڑنے ہتھیارنے والا۔  
 ہوجاتا  
 لَدَس - (ن) پھینکنا۔ زبان سے چاٹنا۔ مارنا۔

## ل - د

لُغَايَاتُ - تو لاپن۔  
 لُغَايَاتُ - ایک خوشبو۔  
 لُحْم - مین کا ایک قبیلہ (س) کاٹنا طہیائے  
 مارنا۔  
 لُغْم - ایک قسم کی مچھلی جسے کوسج کہتے ہیں۔  
 لُحْمَة لُحْمَة - آسروہ دل۔ کندہن اور کینہ آدمی۔  
 لُحْس - ران کی جڑ کی گندگی۔ عورت کی شرمگاہ کی  
 گندگی (س) مشک وغیرہ کا بدبودار  
 ہوجانا۔ گندہ بغل ہونا۔ فحش کینا۔  
 لُحُو - (ن) انکبوت دو ڈالنا کسی کو اپنا مال لینا  
 لُحُوَاء - بہت بہبودہ کینے والی عورت۔  
 لُحِي - (س) کسی کو اپنا مال دے دینا۔ ناک یا منہ  
 میں دو اٹپکاتا۔  
 لُحِي - ناک یا کان میں دو ڈالنے کی پچکاری (س)  
 (س) بیکار اور بیفائدہ گفتگو کرنا۔ بیہوش کرنا  
 لُحِيْفَة - پانی کی آواز۔ جو۔ لُحِيْفَة

## ل - ن

لَزْ - (ن) مجتمع ہونا (ب) کسی چیز سے باندھنا۔  
بندھنا (ج) بالرحم (نیزہ سے مارنا۔

لَزْو - (ت) بھڑنا پگڑنا۔ ادب وغیرہ کو خوب چراتا  
عطا کرنا۔

لِزَان - دروازہ کا پشتیبان۔ سریش بہت چکنے  
والی چیز۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  
کے گھوڑے کا نام۔

لِزَاق - جماع۔ وہ چیز جو چپکانے کے کام میں لائی  
جائے۔

لِزَام - موت گنتی کسی چیز کو لازم کرنے والا عاظم  
مص (مفائل) کسی چیز کے ساتھ لگا رہنا  
کسی چیز کو لازم قرار دے لینا۔

لِزَاب - (س) لَزْوِب (ت) چپٹ کر سخت  
ہوجانا۔ بعض کا بعض میں داخل ہونا۔

لِزَاب (ن) بھجود وغیرہ کا کاٹ کھانا۔

لِزَابِيَّة - سطحی۔ تخط۔ جہ۔ لِزَاب۔ لِزَابَات  
لِزَابِج - (س) لیسدار ہونا (ب) چھینا۔ لاپچی ہونا

لِزَابِيَّة - پلاسٹر (د)  
لِزَاب - (س) جدا کرنا۔ مٹا کرنا۔

لِزَاب - فیصلہ کرنے والا حکم۔

لِزَام - لَزْوَم۔ لَزَامَتہ۔ لَزَامَتہ (س) کسی کے ساتھ  
ہمیشہ رہنا۔ اور اس کو لازم ہوجانا۔  
کسی چیز کو نہ چھوڑنا۔

لِزُون - (ن) لَزْن - (س) جمع ہونا ٹیکھٹ  
کرنا۔

لِزَان (مکان) لَزْن - گھاٹ یا ہر وہ جگہ جہاں آدمی جمع ہوں  
(عیش) لَزْن - تنگ حالی (ماتئ) لَزْن پانی

جو مشقت سے حاصل ہو  
لَزْنَتہ - زندگی کی محنت۔ سخت سال۔ سردی کی

لَات جہ۔ لِزَان  
لَزْوِب - (ن) مٹی کا جسم پر خشک ہونا۔ تخط پڑنا

لِزَابِيَّة - چپک۔  
لِزَابِيَّة - (س) (ب) چھینا۔

لِزَابِيَّة - (س) (ب) چھینا۔

لِزَابِيَّة - سینہ کی ہڈی۔ جہ۔ لِنَ اَيْز -

## ل - س

لِزَابِيَّة - (ن) کھانا۔ چاٹنا۔ چوپایہ کا منہ کے کنارے  
سے گھاس توڑنا۔

لِزَابِيَّة - تھوڑی چیز۔  
لِزَابِيَّة - زبان۔ بولی۔ ذکر۔ ایک زبان کا دوسری

زبان میں ترجمہ کرنے والا۔ آگ کی تیز آواز  
کی چوٹی۔ جہ۔ اَللِّسَانَةُ - لِسَان - اَللِّسَانُ

لِسَانُ التَّوْر - گاؤ زبان۔  
لِسَانُ حَال - ترجمان۔ آرگن (د)

لِسَانُ الصِّدْق - اچھا ذکر  
لِسَانُ الْحَمَل - لِسَانُ الْكَلْب - لِسَانُ الشَّيْخ

لِسَانُ الْاِبْلِ - مختلف بنات  
کے نام ہیں۔

لِسَاب - (حق) سانپ وغیرہ کا ڈس لینا (س)  
لِزَاب (ب) چھینا۔

لِسَابِيَّة - لاسٹک۔ ربر۔ ربر کا جوتا (د)  
لِسَاب - (رض) س) بچہ کا ماں کے تمام دودھ کو  
پنی جانا۔ زبان سے چاٹنا۔

لَسْع - (ف) سانپ یا بچھو وغیرہ کا ڈسنا۔ ڈنگ مارنا۔ کاٹ کھانا (یا لَسْتَا) (ن) زبان سے کسی کو تکلیف دینا۔

لَسَّق - (س) پیاس کی وجہ سے کوکھر پر پھوپھوٹے کا چھٹ جانا۔

لَسَم - (س) برتنے کی طاقت نہ رکھنے کی وجہ سے چپ رہنا (ن) چکھنا۔

لَسَن - فصاحت قدرت بیان۔

لَسَن - (ن) زبان چوستنا۔ کوئی چیز زبان سے لینا۔ گالیاں دینا۔ کسی چیز کی نوک نکالنا۔

لَسُو - (ن) بہت کھانا۔ آہستہ کھانا۔

لَسُوْع - مرد سے بغض رکھنے والی بیوی۔

لَسُوْق - (س) [ب] چھٹنا۔

ل - ش

لَشِي - (ن) امانگنا۔

لَشُو - (ن) عزت و آبرو کے بعد ذلیل ہوجانا

ل - ص

لَصَن - (ن) اچرانا۔ بند کرنا۔

لَصَاء - تنگ پیشانی۔ بکری جس کا ایک سینگ آگے کو اور ایک پیچھے کو ہو جو۔ لَص - آگے کو اور ایک پیچھے کو ہو جو۔ لَص - آگے کو اور ایک پیچھے کو ہو جو۔ لَص - آگے کو اور ایک پیچھے کو ہو جو۔

لِصَب - نالے یا پہاڑ میں تنگ جگہ جو۔ لِصَاب - لَصُوب -

لَصَب - (ص) تلوار کا میان میں پھینس کر آنا۔ دُبے پن ک وجہ سے کھال کا بڑوں سے جا لگنا۔ انگوٹھی کا انگلی میں پھینس کر آنا۔

لَصَص - لَصَا ص - لَصُوصَة - لَصُوصِيَّة

(س) چور بن جانا۔

لَصْف - (ن) ص) ایتھروں کو اوپر تلے رکھنا لَصْف - لَصُوف - لَصِيْف - (ن) چکنا لَصْلَصَة - حرکت دینا۔ ہلانا۔

لَصُو - (ن) کسی پر تہمت لگانا۔ شہ پر کرنا لَصُوق - (س) [ب] چھٹنا۔

لَصِيْف - چمک۔ درخشندگی۔

لَصِيْق - پہلو میں بیٹھنے والا۔ برابر بیٹھنے والا

ل - ض

لَضَضَة - راہ بنانے والے کا دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چلنا۔

لَضُو - (ن) رہنمائی کی وجہ سے ہوشیار ہوجانا

ل - ط

لَط - اندرائن کے زنگے ہوئے دانوں کا لار۔

ج لَطَا ط - مص (ض) دور وازہ) بند کرنا

(رہو) لَطَا ط [عن] انکا کرنا (مکلی عن) کسی سے کوئی بات چھپانا [ب] چھٹنا۔

لازم ہونا۔

لَطَاءٌ - لَطُوْعُو (ق) (لاٹھی سے مارنا چھڑا رہنا

لَطَاة - جگہ زمین۔ ماتھے کا بیج۔

لَطَاع - کھانا کھاتے وقت انگلیوں کو چاٹنے والا

لَطَاه - مَلَاظِمَة - ایک دوسرے کے منہ پر لٹا پھیر مارنا۔

لَطَط - بتا ہی۔ بربادی مص (ن) کسی پر بوجھ کا بھاری ہونا۔ کوٹنا۔ جمع کرنا۔ پتھر، پھینکنا

لَطَح - (ف) کسی کی پیٹھ پر ہلکے ہلکے ہتھیلی مارنا

لَطَخ - تھوڑا مص (ف) سانا۔ تھیرنا۔ الزام لگانا۔

لَطِیْم - سفید چہرہ کا گھوڑا / مشک تیسیم۔  
جز:۔ نظم۔

لَطِیْمَة - مشک - مشک کا ٹوپہ یا عطاردوں کا  
بازار۔ چوپایہ جس پر عطر اور بڑا زنی کا  
سامان لدا ہوا ہو۔ جز:۔ تکا تیسیم

## ل - ظ

لَطَّ - کھڑقل سخت مزاج میں (ن) اصرار  
کرنا۔ صند کرنا۔ دور کرنا (ب) لازم ہونا  
تَلَطَّطَة - غصہ کی شدت کے باعث سانپ کا  
بچھن کو بلانا۔

لَطْوً - آگ۔ آگ کی لپٹ۔ دوزخ میں (س)  
آگ کا بھڑکانا۔

## ل - ع

لُعَاب - تھوک۔ رال  
لُعَابُ النَّحْلِ - شہد۔  
لُعَاع - زرم گھاس۔ وا:۔ لُعَاعَة -  
لُعَاعَة - تکلف کے ساتھ گانے والا جو گانا  
جاتا ہو۔

لُعَاعَة - زرم گھاس۔ کاسنی (نیا شراب کا ایک  
گھونٹ۔ تھوڑی کچی کھی چیز۔

لُعَان - لعنت میں (مقابلہ) میاں بیوی کا ایک  
دوسرے پر لعنت کرنا۔ فیصلہ کرنا۔

لُعْب - کھیل میں (س) کھیلنا۔ تفریح کرنا  
غزق کرنا۔ بیکار کام کرنا۔

لُعْبُ الْبُؤْسِ صَدَة - سٹہ بازی (د)

لُعْب - (س) رفت (س) منسے رال ہٹنا۔

لُعِيب - کھیل کود کھیل کود کرنے والا۔

لُطَخَة - بے وقوف۔ سادہ لوح۔ جز:۔ لُطَخَات  
لَطَس - (ن) کوٹنا۔ پھینکنا۔ کسی چوڑی چیز سے  
مارنا۔ تھکر کو تھکر پر مارنا۔

لَطَط - دانت گر کر جڑوں کا باقی رہ جانا کسی کے  
حق کا انکار میں (ص) دانتوں کا گر جانا  
لَطَع - مز کا تالو۔ آدمی کے جبرے کا پھل حیفہ  
جز:۔ اَلطَّاع مع (ت) تیر کا نشانہ پر

لگانا۔ طمانچہ مارنا۔ کنویں کا خشک ہر جانا  
(کسی کے نام کو) مٹانا سچی سے مارنا۔  
چاٹنا۔

لَطَعٌ - ہونٹوں کے اندر کی سپیدی، جو اکثر  
حبشیوں میں پائی جاتی ہے، میں (س)  
دانتوں کا جھڑ جانا اور جڑوں کا باقی رہ  
جانا۔

لَطَعَاء - وہ عورت جس کی شرم گاہ پر گوشت کم  
ہو یا وہ خشک یا پھولی ہو عورت جس  
کے دانت گر کر جڑیں باقی رہ گئی ہوں  
مذ:۔ اَلطَّع جز:۔ لَطَع

لَطَفٌ - نرمی۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی۔ رحمت و  
عظمت میں (ن) نرمی کرنا قریب  
ہونا (ل) کسی کی مراد کو پورا کر دینا۔

لَطَفَات - بھلائی اور نیکی کرنے والا۔

لَطْفَة - تحفہ۔ ہدیہ۔ سوغات۔

لَطُو - (ن) غار میں پناہ لینا۔

لَطِيفٌ - بے وقوف۔ احمق۔

لَطِيفٌ - مہربان۔ باریک چھوٹا۔ رقیق۔ گری

بات جو غور کرنے کے بعد سمجھیں آئے۔ جز

لِطَافٌ - لَطَفَاء اللہ تعالیٰ کے ناموں

میں سے ایک نام۔



لَعْبُ - کینے بے مروت جڑیں۔ تیز شہوت والا  
 م: لَعْوَةٌ ج: - لَعَاءُ  
 لَعْوَبٌ - ناز اور ادا والی عورت یا مرد  
 لَعْوَةٌ - حرص والی کتیا۔ بھٹی کے ارد گرد کی  
 سیاہی۔ بھوک کی تیزی۔  
 لَعْوَسٌ - بھڑپا۔ بہت کھانے والا آدمی۔  
 لاجبی۔  
 لَعْوَصٌ - گیدڑ۔  
 لَعْوُوقٌ - چلنی چاٹنے کی چیز۔  
 لَعْوُوقٌ - کم کھانے والا۔  
 لَعِينٌ - مردود۔ دھتکا راہوا۔ نکال لاہوا۔  
 بھڑپا۔ کرشن۔ دبو کھینی یا درخت پر آدمی  
 کی شکل کا ڈھانچہ۔

## ل - ع

لَعَاً - (س) جب بہت زیادہ چاٹنا خواہش  
 کرنا (بالماء) بہت زیادہ پانی پینے  
 کے باوجود سیر نہ ہوتا (بالصوت) آواز نکالنا۔  
 لَعَابٌ - خراب۔ تیر۔ پرندے کے پچ کے چھوٹے  
 چھوٹے زرد پیر۔  
 لَعَائِبٌ - لَعْوِيَّةٌ بے وقوفی۔ سستی۔  
 لَعَامٌ - اونٹ کے منہ کے جھاگ۔  
 لَعَابٌ - گردن کے بال۔  
 لَعْبٌ - لَعْوَبٌ - (ف) س۔ نہ بہت ٹھکانا  
 لَعْبٌ - اگلے دو دانتوں کے بیچ پتلا گوشت کا  
 ٹکڑا۔ سست آدمی۔ خراب گفتگو۔  
 مص (د) بھڑپا خیر لانا (علی) پھوٹ  
 ڈالنا (رق) کتے کا برتن میں منڈالنا۔

لَعِبٌ - لَعِيَّةٌ کھیل دکھانے والا۔ بازیگر۔  
 لَعِيَّةٌ - مورتی۔ گڑ یا کٹ پتلی بے وقوفی ہے  
 لوگ اُتو بنائیں۔ بازیگر۔  
 لَعَّةٌ - خوبصورت اور نیک عورت۔  
 لَعْنَمَةٌ - توقف کرنا۔ دیکھ بھال کرنا۔ غور کرنا۔  
 لَعَجٌ - (ف) کسی بات کا دل میں کھٹنا خطرہ  
 کرنا۔ محبت کی آگ (دل میں) بھڑکنا۔  
 لَعَسٌ - دانت سے کاٹنا۔  
 لَعَسٌ - ہونٹوں کی گہری سیاہی مال مرنے میں  
 (س) ہونٹوں کا سیاہی مال گد مرنے ہونا۔  
 لَعَطٌ - ایک خط (کیر) جو جیشی اپنے چہرہ پر کھینچ  
 لیتے ہیں ج: - لَعَاطٌ مص (ف) گردن پر  
 داغ کرنا (ب) اپنا حق پورا مانگنا۔  
 تیرا ننا۔  
 لَعَطَةٌ - بکری کی گردن کی سیاہی۔ سیاہ یا زرد  
 کیر جسے عورتیں رخسار پر کھینچتی ہیں۔  
 لَعَقٌ - لَعْفَةٌ - (ف) چاٹنا۔  
 لَعْفَةٌ - تھوڑی چیز جسے چاہا جائے۔  
 لَعَلٌ - شاید۔ کاش (امید اور شک کے معنی  
 ادا کرتا ہے)۔  
 لَعْلَعٌ - سراب ایک پہاڑ۔ بھڑپا۔  
 لَعْلَعَةٌ - بڑی کو توڑنا۔ سراب کا چمکانا۔ بھوک سے  
 تڑپنا۔  
 لَعْمَقَةٌ - دانتوں سے بڑی کے اوپر کا گوشت  
 علیہ کرنا۔  
 لَعْنٌ - (ف) رحمت اور مہربانی سے دور کرنا  
 گالی دینا۔ رسوا کرنا۔  
 لَعْنَةٌ - جس پر بڑی لعنت کی جائے۔  
 لَعْنَةٌ - رحمت سے دوری۔ بچھڑکا ج: - لَعْنًا لَعْنًا

لَعْنَةٌ - لَعْنًا - لَعْنِيَّةٌ - (ن ن س) فضول کننا۔  
 بولنے میں غلطی کرنا۔ چوک جانا۔  
 لَعْنُوْبَةٌ - بے قدرتی۔ سستی۔ حماقت۔  
 لَعْنُوْسٌ - ہلکی اور نرم گھاس اور پروا جو ہواسے  
 لہلہائے۔ بھیرٹیا۔ پھرتیلا۔ لالچی بہت  
 دھوکہ دینے والا چور۔

لَعْنُوِيٌّ - بیکار چیز۔ بہبودہ کلام۔ خطا۔  
 لَعْنِيْثٌ - زہری ہونی چیز جو گدھ کے تنکا رکرنے  
 کے لئے پھیلا دی جائے جو بٹے ہوئے کیوں  
 لَعْنِيْفٌ - چوروں کا ساتھی جو چوری میں شریک نہ ہو  
 آدمی کی خاصیت اور حمید ہے۔ لَعْنَاءٌ

## ل - ف

لَعْفٌ - (ن ل بیٹنا۔ سمیٹنا۔ لگانے میں بند کرنا  
 (درخت کا) گنجان ہونا (دو لشکروں کو)  
 جنگ کے لئے آپس میں بھڑا دینا۔ (ج)  
 کسی چیز کو کسی چیز میں ملانا۔ (ق) الاکل [

لَعْفٌ - آدھیوں کا گردہ جو جگہ جگہ سے آکر جمع ہو  
 ہوں۔ گھٹنا باغ۔ جہ۔ لَعْفُوْفٌ - انفاق

لَعْفٌ - لَعْفًا - (د) چڑھ اٹھاننا۔ چھلکا اُتارنا  
 تنکا کرنا۔ بڑی سے کرشت الگ کرنا۔ ہوا  
 کا آسمان سے ابر کو صاف کر دینا۔ غیبت  
 کرنا۔

لَعْفًا - خاک۔ تھوڑی چیز۔ کم قیمت چیز۔  
 لَعْفًا - مٹی اور گردشت سے بھری ہوئی عورت  
 گنجان باغ۔ جہ۔ لَعْفٌ -

لَعْفَاتٌ - احمق۔ بری عادت والا۔  
 لَعْفَاظَةٌ - پان کی پیک۔ اگلی ہوئی چیز۔ بچا کھچا۔

لَعْنَةٌ - بولی۔ زبان۔ کلام جس سے کوئی قوم اپنا  
 مافی الضمیر ادا کرے۔ جہ۔ لَعْنَاتٌ  
 لَعْنُوْنٌ - لَعْنِيٌّ -

لَعْنُوْنٌ - ناک کا اندرونی حصہ۔ ناک کی جڑ۔ جہ۔  
 لَعْنَاتِيْنٌ

لَعْنُدٌ - گردن کے کنارے کا گوشت ہے۔ اَلْعَادُ  
 لَعْنُدٌ - (ن) پھرنا۔ عن کسی کو کسی چیز سے روکنا  
 لَعْنَزٌ - پہیلی۔ گول مول بات جو بے کاسورخ  
 (گدہ) کا سورخ۔ جہ۔ اَلْعَاذُ

لَعْنَطٌ - (ن) شور کرنا۔ چیخنا۔ چلانا۔  
 لَعْنَطٌ - ملی جلی آواز جو ہمیں نہ آئے غل۔ غیاڑہ  
 شور وغوغا۔ دروازہ کے سامنے کا صحن

(میدان) جہ۔ اَلْعَاطُ

لَعْفَةٌ - (س) لقمہ تینا۔ نکلنا۔ چاٹنا۔  
 لَعْفَةٌ - لقمہ۔

لَعْنَمٌ - تھوڑی خوشبو۔ بے قراری۔ بے آرامی  
 زبان کی گیس (د) بارودی سرنگ۔

لَعْنَمٌ - (ن) جو پائے کی جگہ کی گنا جس چیز کا یقین  
 نہ ہو اس کی خبر دینا (د) سرنگ میں بارود  
 بھر کر عمارتوں کو اڑانا۔

لَعْنٌ - خوشی۔ جرات کی تازگی اور آرام۔  
 لَعْنٌ - کان کے پاس کی چینی بڑی۔ کان کے اور  
 گردن کے کنارے کا گوشت۔ جھوٹ۔

لَعْنُوْنٌ - گردن کے کنارے کا گوشت۔ ناک کا  
 اندرونی حصہ۔ ناک کی جڑ ہے۔ لَعْنَانِيْنٌ

لَعْنُوٌ - فضول کھواس۔ برودہ چیز جو شمار میں نہ لائی  
 جائے (ن) فضول کہنا۔ بولنے میں غلطی کرنا

چوک جانا۔ تا امید ہو جانا۔ ناکا میاب ہونا  
 کتے کا بھونکنا۔

بے وقوف آدمی۔  
**لَقِیْظ** - پھینکا ہوا۔  
**لَقِیْف** - گھنے درخت مختلف جگہ کے آدمیوں کا  
 گروہ۔ لپٹا ہوا کسی دوسری چیز کے ساتھ  
 ملا ہوا۔  
**لَقِیْم** - سگار (د)

## ل - ق

**لَق** - بلند زمین۔ زمین کی پھٹن حص (ن)  
 آنکھ پر پنجہ مارنا۔  
**لِقَاء** - (مفاعلہ) (س) کسی سے ملاقات کرنا کسی  
 کی زیارت کرنا لِقَاء۔ لِقِیَان۔  
**لِقَاح** - باغی آدمیوں کا گروہ۔ وہ چیز جس سے  
 کھجور کی تلیق (حقیقی) کی جائے۔  
**لِقَاطَة** - ہر گری ہوئی چیز رائیگاں چٹا ہوا خوشہ  
 زمین سے اُٹھائی ہوئی چیز۔ ج: اَلْقَاط  
**لِقَاع** - موٹا کبیل۔  
**لِقَاع** - لِقَاع۔ سب کبھی جو کاٹ کھاتی ہے۔ وا۔  
**لِقَاعَة** - لِقَاعَة۔ لِقَاعَة۔  
**لِقَاعَة** - حاضر جواب۔ سخرا۔ یا توئی۔ ہوشیار آدمی  
 احمق۔

**لَقَب** - اصلی نام کے علاوہ وہ نام جس میں کچھ برائی  
 یا تعریف کا پہلو نکلے ج: اَلْقَاب  
**لَقِث** - (س) اُچکنا۔ گھیر لینا۔ ملانا۔  
**لَقِج** - لِقَاح۔ (س) حائل ہونا۔  
**لِقِحَة** - کوڑا باز۔ دو دوہ پلانے والی عورت  
 ج: لِقْوَح۔ لِقْوَح۔  
**لَقِز** - (ن) سیتہ پر ٹھوسا مارا تلامات مارنا  
**لَقْس** - کھجلی حص (ن) کسی کا عیب ظاہر کرنا

مزن سے نکلی ہوئی بات ج:۔ لِقَاعَات  
**لِقَاع** - چادر کبیل۔ دوپٹہ۔ غلاف۔ برقع۔ پردہ  
 ہر وہ کپڑا جو عورت اور ڈھکتی ہو چڑھے  
 کافرش۔ اونٹنی کا اگلا ٹھن۔  
**لِقَاعَة** - قمیص پر اضافہ شدہ کپڑے کا کڑا۔  
**لِقَاقَة** - کپڑا جس میں مردہ کو لپیٹا جاتا ہے کاغذ  
 کی تھیلی۔ دل کے اوپر کی پرلی جس میں  
 کچھ رکھ کر بند کیا جائے (د) سگار۔ ج: لِقَاع  
**لِقَام** - چہرے کے اوپر کے حصے کا نقاب جو ناک  
 پر پڑا رہے۔  
**لِقْت** - شغف۔ آدھا حسد۔ کنارہ۔ یار۔ دوست  
 گائے۔  
**لِقْت** - (ن) لپیٹنا۔ پھیرنا۔ چوپایہ کو اندھا دھند  
 مارنا (د) توجہ مبذول کرانا۔  
**لِقَّة** - گھنا باغ۔ کبلی پتل طبع عورت۔  
**لِقَّة** - چھوٹا ستارہ۔ ایک دھجی جسے علماء مصر  
 لاپی پر لپیٹتے ہیں۔ ج:۔ لِقَات (د)  
**لِقَات**۔ بھیر جس کے دونوں سینگ ٹیڑھے ہوں  
 بھینکی عورت (احمق عورت۔ مد:۔  
**اَلِقَات** ج:۔ لِقَات  
**لِقَح** - (ف) آگ یا گرمی یا نو کا چہرہ کو ٹھس دینا  
**لِقَط** - بول۔ بات ج:۔ اَلْقَاط (ص) (ن)  
 پھینکنا [پ] بات کہنا۔  
**لِقَطَة** - ایک بات۔ ایک بول ج:۔ لِقَطَات  
**لِقِش** - (ن) کپڑے کے دونوں پرتوں یا دو سروں  
 کو ملا کر سینا۔ کوئی چیز طلب کرنا اور نہ  
 پانا۔  
**لِقُوت** - خچل خورد عورت۔ اونٹنی جو دوہ دوتے  
 کے وقت مضغ نہیں ہوجائے۔ بڑی عادت کا

لَقَم - دن راستہ کا بند کرنا (س) جلدی کوئی چیز نکل جانا۔ ہرٹپ کر جانا۔  
 لَقَمَان - ایک مشہور حکیم یا پیغمبر۔  
 لَقِيمَة - نوالہ۔ ج۔ لَقَم۔  
 لَقْن - لَقْنَة - لَقَانَة - لَقَائِمَة - عقل اور سمجھ کی تیزی۔  
 لَقَن - (س) حفظ کر لینا۔ بات کو سمجھ لینا ذہین ہو جانا۔  
 لَقْن - عقل مند لڑکا۔ کنارہ۔ ستون۔  
 لَقِن - ذہین۔ جلد یاد کر لینے والا۔  
 لَقْوَة - (ن) (مجبوراً) لَقْوہ زدہ ہو جانا۔  
 لَقْوَة - لَقْوہ - ایک مرض جس میں منہ پیڑھا ہو جاتا ہے۔ جلد محل قبول کرنے والی عورت ڈالنے والا۔ چھینکا ہوا۔ ج۔ لَقَاء۔  
 لَقِيْط - زمین پر پڑی ہوئی چیز جو اٹھائی جائے نیا بننا ہوا۔ بچہ جو زمین پر پڑا ہو اور اسے اٹھایا جائے۔ پرانا کنواں جو چاکنگ کر پڑے۔  
 لَقِيْم - نکلانہ نوالہ۔

## ل - ل

لَق - گوشت ملاوٹ۔ لاکھ۔ ایک قسم کا رنگ جس سے بکری کی کھال رنگتے ہیں۔ ایک لاکھ یعنی سو ہزار۔ ج۔ لَقَاث۔  
 لَقُوْد (معدن) کوٹنا۔ گھونسا مارنا۔  
 لَقِيْمَان - بڑی پر سے گوشت جدا کرنا۔  
 لَقَاء - (ف) مارنا۔ کسی کو اس کا پورا پورا حق دینا۔ بچھاڑنا۔  
 لَقَاث - ایک چمکدار چمکنا پتھر۔ اونٹوں کا ایک

لَقِيس (اسی) (انی) (مال ہونا) (من) بد دل ہونا  
 لَقِيس - لوگوں کے لقب رکھنے والا سخن چریں غیر مستقل مزاج۔  
 لَقِيس - باقوی۔ فسادی۔  
 لَقِيس - (س) تنگ ہونا۔ بد دل ہونا (ف) بجلا ڈالنا۔  
 لَقِط - اٹھایا ہوا۔ چٹا ہوا۔ سونے کے ٹکڑے جو کان میں پائے جاویں۔ ایک قسم کا ساگ۔  
 لَقِطَة - (ن) بلا مشقت کوئی چیز زمین سے اٹھا لینا۔ کپڑے میں پیوند لگانا۔ رفو کرنا۔  
 لَقِطَة - زمین میں پڑی ہوئی چیز جو اٹھائی جائے یا چھٹی جائے۔  
 لَقِح - (ف) دیکھنا چُپ گانا۔ مکھی کا ناک کے سر سے کچھ اٹھانا (العين) نظر لگانا  
 لَقَعَان - (ف) تیز گد جانا۔  
 لَقَعَت - حوض اور کنوئیں کے کنارے ج۔ لَقَاء۔  
 لَقَعَت - (س) حوض کی بنیاد کا پھٹ جانا۔ دیوار کا گر پڑنا۔  
 لَقِيعَت - ہلکا۔ پھرتیلا۔ ہوشیار آدمی۔ حوض جو نیچے سے کٹ گیا ہو۔ کنواں جس کی بنیاد مضبوط نہ ہو۔  
 لَقِيْت - لَقِيْمَان - (س) تیزی سے لے لینا۔  
 لَقِيْت - زبان۔ سارس (ایک پانی کا پرندہ) ج۔ لَقَائِق۔  
 لَقْلَقَة - سخت آواز۔ لَقْن کی آواز بھرائی ہوئی آواز (س) اس نپ کا چھنکا رہانا اور زبان نکالنا۔  
 لَقَم - لَقَم۔ راستہ کا پیچ۔

لَكَم - (۱۱) مٹکا مارنا۔ سینہ پر لٹا مارنا۔ لکمن  
سیلاب کا پہاڑ کو کاٹ دینا۔

لَعِنَ - لیکن۔ یہ حرف استدراک ہے یعنی  
اپنے مابعد کے لئے ماقبل کے حکم کے

خلاف ثابت کرتا ہے اسی لئے اس کے  
مابعد کا ماقبل کی ضد ہونا ضروری ہے

یا مخالفت ہونا۔ جیسے مَا هَذَا اِيْسَاكِيْنَ  
لَعِنْتَهُ مُتَحَيَّرَاتٌ -

لَعْنٌ - طشت۔ لگن۔  
لَعْنٌ - لَكْنَةٌ لَكْنَوْنَةٌ (۱۳) اچھی طرح بات  
نہ کر سکتا۔ تو تلا ہونا۔ بھلا ہونا۔

لَعْوَعٌ - کمینہ۔  
لَعِيٌّ - (۱۳) زب (۱) لالچی ہونا۔

لَعِيْجٌ - کمینہ۔  
لَعِيْثٌ - گوشت سے بھرا ہوا گوشت۔ ج۔

لِيَاكٌ -

## ل - م

لَمَ - حرف نفی ہے مضارع کو ماضی منفی کے  
معنی میں کر دیتا ہے۔

لِيَحَ - کس لئے۔ کس واسطے (حرف استفہام)  
ہے اس کی اصل لِيَا ہے الف کو دُور  
کر دیا گیا ہے۔

لَمَ - (۱۱) جمع کرنا۔ درست کرنا۔ اصلاح  
کرنا، نیچے آنا لَمَا (۱) حرف نفی یعنی  
نہیں۔ مسنارے پر داخل ہو کر اُسے

ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے اور اُسے  
جزم بھی دیتا ہے (۲) ظرف یعنی "جب"

ماضی پر داخل ہوتا ہے (۳) حرف استنثار

مرض جس سے اُن کے منہ میں چھنسیاں ہو  
جاتی ہیں۔

لَكَاعٌ - کمینہ عودت۔ لوٹدی (اس لفظ کا استعمال  
نہا کے ساتھ آتا ہے)۔

لِكَافٌ - موٹا کپڑا جو پالان کے نیچے گدھے کی پیٹھ  
پر ڈال دیا جاتا ہے۔

لِيَاكٌ - موٹی تازی اونٹنی جہ۔ لِيَاكٌ - لِيَاكٌ  
(حُفَا) کنگار۔ اونٹ کا سم جو ایسا سخت ہو کہ پتھر  
بھی توڑ دے۔

لِكُثٌ - مارنا۔ تھکنا۔ تھکا دینا۔ طاقت سے  
زیادہ بوجھ لادنا۔

لِكُثٌ - اونٹ کی ایک بیماری جس سے اس کے  
منہ میں چھنسیاں نکل آتی ہیں (ص) (۱۳)

اونٹ کو مکث کی بیماری ہو جانا۔ میل  
کھیل کا چرٹ جانا۔

لِكِدٌ - کنبوس۔ بخیل۔  
لِكِدٌ - (۱۳) میل کھیل کا چرٹ جانا۔

لِكِرٌ - کنبوس۔ بخیل۔  
لَعْنٌ - (۱۱) سینہ پر لٹا مارنا۔ گردن پر گھونسنہ  
مارنا، گلے پر پھری وغیرہ مارنا۔

لِيَصُحٌ - ٹھنکنے، ذرا۔  
لَعُجٌ - (۱۱) سانپ یا بھینس کا کاٹنا۔ کبری کے بچہ کا  
وودھ پیتے وقت تھنوں میں سر مارنا۔

لَعُجٌ - کھانا۔ پینا۔  
لُعُجٌ - ذیل۔ کمینہ آدمی۔ بے ذرّت غلام گھوڑا  
گھوڑے یا گدھے کا بچہ۔ جھونالوہ کا۔

میل کھیل۔  
لُكِعٌ - ککاعیہ۔ (۱۳) کمینہ ہو جانا۔ احمق ہونا۔

لُكِعٌ - (۱۳) میل کھیل کا جسم پر چرٹ جانا۔

کَمَا - (ن) - ض، آنکھ سے اشارہ کرنا۔ بڑھانے کے اشارہ کا ظاہر ہونا۔ دھکیلنا۔ چھبونا۔ کَمَا - (ن) - کسی چیز پر ہاتھ پھیرنا۔ صحبت کرنا۔  
 کَمَش - (ن) - کھیل کود کرنا۔ بے فائدہ کام کرنا۔ کَمَط - (ن) - گروہ معی (ن) پریشان ہونا۔ کَمَط - (ن) - کھانے کے بعد منہ میں زبان پھیر کر چیخارے لینا۔ حق ادا کرنا۔  
 کَمَطَّة - (ن) - ہونٹوں کی سفیدی۔ سفید دھبہ۔ دل کا کالا نقطہ۔ جہ۔ کَمَط۔  
 کَمَح - (ن) - چمکانا۔ روشن ہونا۔ (ب) لیجانا۔ بیدار (ا) اشارہ کرنا۔  
 کَمَعَة - (ن) - تر گھاس کے بیچ میں سوکھی ہوئی گھاس خشک پودہ۔ جسم کا وہ حصہ جو نسل یا وضع میں خراب ہو جائے۔ تھوڑی سی چیز جو کم چمکتا ہو۔ حصہ۔ آدمیوں کا گروہ۔ جہ۔ لیماغ۔  
 کَمَق - (ن) - لکھنا۔ مٹانا۔ آنکھیں ملنا۔ دیکھنا۔ بڑی فوج۔ بڑا گروہ۔ جہ۔ کَمَا لِم۔  
 کَمَلَّة - (ن) - اکٹھا کرنا۔ گول کرنا۔  
 کَمَم - (ن) - ایک قسم کا پاگل پن۔ چھوٹا گناہ۔ گناہ سے نزدیک۔  
 کَمُوح - (ن) - چمکنے والا۔  
 کَمُوس - (ن) - اونٹنی جس کی فرہ میں شک ہو۔ مزہ بولا بیٹا۔ وہ آدمی جس کے نسب میں خرابی ہو۔ جہ۔ کَمُوس۔  
 کَمُوس - (ن) - بہت جھوٹ بولنے والا۔ مکار۔

یعنی مگر جلد اسید پر داخل ہوتا ہے۔  
 کَمَا - (ن) - کھل کھلا اور پوشیدہ ہاتھ مارنا۔ سب کی سب چیز لے لینا۔ دیکھنا۔  
 کَمَاح - (ن) - چمکنے والا۔  
 کَمَاح - (ن) - شکاری پرندے۔  
 کَمَاخ - (ن) - (مقابلہ) ایک دوسرے کے ٹھانڈا مارنا۔  
 کَمَاس - (ن) - درو کی جگہ۔  
 کَمَاسَة - (ن) - ضرورت۔ حاجت۔  
 کَمَاطَة - (ن) - کھانے کا وہ حصہ جو دانتوں میں لگا رہ جائے۔  
 کَمَاعَة - (ن) - چمکتے ہوئے ریت کا جگہ۔ بچہ کا نرم تالو۔  
 کَمَاق - (ن) - عقاب۔  
 کَمَاق - (ن) - کھانے پینے کی تھوڑی چیز۔  
 کَمَاک - (ن) - کَمَاک - سرمہ۔  
 کَمَا - (ن) - کَمَا - لیمپ (د)۔  
 کَمَا - (ن) - پرانڈہ بال۔ وہ بال جو کان کی نوک کے نیچے تک لٹکے ہوئے ہوں۔ جہ۔ لیمپ۔ لیمپ۔  
 کَمَا - (ن) - دیوانگی۔ تھوڑی چیز۔ زمانہ کی سختی۔  
 کَمَا - (ن) - فریق سفر۔ نمونہ (واحد و جمع)۔  
 کَمَا - (ن) - یار۔ دوست۔ مانند۔ پیشوا۔  
 کَمَح - (ن) - (ن) منہ کے کناروں سے کھانا۔ عورت سے صحبت کرنا۔  
 کَمَا - (ن) - تھوڑا سا کھانا جو صبح سویرے کھایا جاوے۔  
 کَمَح - (ن) - (ن) (الائی) کسی کو اس طرح دیکھنا کہ اسے معلوم نہ ہو۔ دزدیدہ نظر سے دیکھنا۔  
 کَمَح - (ن) - کَمَحَان (ن) - چمکانا۔  
 کَمَا - (ن) - دزدیدہ نگاہی۔ چمک دمک چہرے کی خوبصورتی۔ جہ۔ مَلَا وِج۔  
 کَمَا - (ن) - (ن) ازلت کے ساتھ عاجزی کرنا۔ ٹھانڈا مارنا۔

مظننہ کے بعد ہے اور یا یہ وہ نفس مظننہ ہے کہ ٹرود بھی فضائل کے ساتھ متصف ہو۔ اور دوسروں کو بھی برائیوں سے روکے یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو اس معنی کے لحاظ سے نفس مظننہ سے افضل ہوگا۔

کُوب - کُوب - کُوب - کُوب - کُوب - کُوب - کُوب - کُوب - کُوب - کُوب  
معنا ان اپانی کے آس پاس چکر کاٹنا مگر اس تک نہ پہنچنا۔

کُوب - شہد کی مکھی - پیلسے اونٹ -

کُوبِیَاء - لوبیا - لوبیا کی پھل -

کُوبِیَّة - جھلستی ہوئی پتھری زمین -

کُوبَاة - ایک لکڑی جس کی دھوئی دیتے ہیں۔

کُوبَات - (ن) بغیر دریافت کی ہوئی خبر بتلانا۔

خبر کو چھپانا۔

کُوبَاتِیَّة - لاٹری (د)

کُوبَات - طاقت - قوت - زخم برائی - شک مع

(ن) باندھنا - پینا - تعمیر کرنا - چبانا۔

چھپنا - بیٹھنا (ن) دیکر تاراج جمع ہونا

کُوبَات - سستی -

کُوبَاتَة - سستی - آہستگی - تاخیر - مہلت - بیوقوفی

جنون رنگ -

کُوبَج - نشست ج - آلو آج - (د)

کُوبَح - پیاسا ہونا - جھگڑنا - جھگڑنا [دیکھنا

کُوبَح - غمگین - تختہ - تھم - لڑی - کوئی چوڑی چیز

جو لکھنے کے کام آئے، زمین و آسمان کا

بیچ - لوح محفوظ - آسمان میں ایک قدرتی تختی

ہے اور جس کے نزدیک لوح محفوظ سے راز محفوظ

الہی ہے۔ ج - آلو آج - ج - آلو آج

کُوبِی - ہونٹوں کا گندمی رنگ - ہلکی سی سیاہی  
نکینی لئے ہوتے مہس (د) گندمی  
یاسیاء ہوں والا ہونا۔

کُوبِیَج - بہت کھانے والا - بہت جماع کرنے والا

کُوبِیَش - نرم و نازک عورت -

کُوبِیَک - سرمہ لگا ہوا آدمی۔

## ل - ن

لَن - برگزینیں (صرف نفی ہے مضارع پر آکر

مستقبل منفی موکد کے معنی پیدا کرتا ہے۔

لَن یَفِیْزُ فِیْہِیْ وہ بھڑک رہے نہیں مارے گا۔

لُنْدَا - لندن - دارالسلطنت برطانیہ (د)

## ل - و

لَو - کاش اگر (صرف شرط و تمنی)

لِوَا - فوج بریگیڈ (د)

لِوَاء - سانپ کی کندلی - فوج کا جھنڈا جو سردار

کے ہاتھ میں ہوتا ہے (د) ضلع - ج -

آلِوِیَّة -

لِوَاث - سوکھا آٹا جو گیلے آٹے کے نیچے بچھا دیا جاتا ہے

کُوَاثَة - مجلس دینے والی -

لِوَاذ - (ن) آڑ لینا - پناہ لینا (مفاعلہ) باہم

کشتی لڑنا - دھوکا دینا -

لِوَاق - چھیننے کے لائق تھوڑی سی چیز -

لِوَاقِع - جو ایسی جوہر خوں کو بار بار اور بادلوں

کو پُر آب کر دیتی ہیں -

کُوَاہ - بہت ملامت کرنے والا - م - کُوَاَمَة

(النفس) اللّٰوَاَمَة - وہ نفس جو انسان کو راز کا

معاصر پر ملامت کرتا ہے اس کا درجہ نفس

لُؤد - (س) سرکش و نافرمان ہونا۔  
لُؤذ - پہاڑ کا کنارہ۔ وادی کا سرحد (ن) (ب) [

پناہ پکڑنا۔  
لُؤذع - لُؤذع - نقل مند بہر شیا تیرنگفار صبیح

لُؤماد - لارڈ (د)  
لُؤنم - یادام - واز - لُؤذع - مص (ن) (م) (م)

پھٹکارا پانا (انی) پناہ پکڑنا۔  
لُؤس - (ن) چکھنا، مٹھائی تلاش کر کے کھانا۔

لُؤص - کان کا درد پسلی کا درد میں (ن) دروازہ  
یا سوراخ وغیرہ میں سے جھانکنا۔ لوٹ جانا

لُؤصۃ - پیٹھ کا درد۔  
لُؤط - ایک پیغمبر کا نام مبارک جو حضرت ابراہیم

علیہا السلام کے بھتیجے تھے۔  
لُوط - چادر۔ تجزیہ کار۔ چالاک آدمی۔ چٹنے والی

چیز۔ سود۔  
لُوطۃ - (ن) لڑکوں سے بد فعلی کرنا۔ کسی

بات کا دل میں کھب جانا (تیر) پھینکنا۔  
نظر بدنگن - نظر بدنگن کسی کو کسی کے ساتھ ملانا

لُوعۃ - (ن) عشق کا دل کو جلانا۔ بیمار کرنا۔  
لُوعۃ - لُوعۃ - (ن) ڈرپوک ہونا۔ بھیس دینا۔

لاہجی اور بری عادت والا ہوجانا۔  
لُوف - ناپسند کھانا یا چارہ مص (ن) کھلنے

کو چبانا۔ اونٹ کا خشک گھاس کو کھانا۔  
لُوفر - پستول۔ ریوا لود (د)

لُوق - (ن) (الطعام) کھانے کو گھی سے نرم کرنا  
(الدوا) روشنائی اور دروات درست کرنا

لُوق - (س) (الحق) اور بے وقوف ہوجانا۔  
لُوقۃ - ساخت۔ بناوٹ۔

لُوقۃ - مسکے ہوئے ترہوارے۔

لُوک - (ن) آہستہ آہستہ چبانا۔ گھوڑے کا لگام  
کو چبانا۔ دوسروں کی عیب جوئی کرنا۔

لُوکندۃ - ہنول برائے (د)  
لُولاء - سختی۔ نقصان۔

لُولب - جیکر دار زینہ۔ لُونٹی۔ کمانی۔ نیچ (د)  
لُولوف - موتی۔ جہر۔ لالی۔

لُوم - خوف۔ ڈر۔ ملامت۔  
لُوم - ملامت کی زیادتی۔

لُوم - ملامت۔ ملامت۔ (ن) ملامت کرنا۔  
لُوم - کینیرین کینجوسی۔

لُوم - (ن) کینجوس ہونا کینیر ہونا۔  
لُوماء - لُومفی - ملامت۔

لُومۃ - خالص شہدہ کا م جس پر ملامت کی جاتے  
لُومۃ - ملامت کیا ہوا آدمی۔ مہلت۔ انتظار۔

لُومۃ - بہت ملامت کرنے والا آدمی۔  
لُومی - لُوماء - ملامت۔

لُون - رنگ۔ قسم۔ مہنیات۔ شکل۔ جہر۔  
لُوہ - لُوہان - (ن) چکنا (سراب) کا)

لُوی - پیش۔ پیٹ کا درد۔ کجی۔  
لُوی - بیکار اور باطل چیزیں۔

لُوی - سوکھی یا مٹھائی ہوئی ٹھاس۔  
لُویۃ - وہ کھانا جو احتیاط کے ساتھ اٹھا کر دوسرے

کے واسطے رکھ دیا جائے۔ جہر۔  
لُویا -

لہ - (ن) نازک کر دینا۔ شعر اور کلام کو سلیس  
اور سادہ کرنا۔

لہاب - پیاس۔

## ل - ہ



لہوات - گلے کا کڑا جہ، لہوات۔ لہیات  
 لہفات - پیاس کی شدت، موت کی سختی۔  
 لہفات - پیاسا ہونا۔  
 لہفاد - تپکی۔  
 لہفاس - لہفاسۃ۔ کھانے کی تھوڑی مقدار۔  
 لہفاعۃ - بھول چوک، بے خبری، غفلت۔  
 لہفاق - لہفاق - بہت زیادہ سفید۔  
 لہفام - بڑا لشکر۔ بڑی فوج۔  
 لہفب - آگ کی لپٹ جس میں دھواں نہ ہو۔  
 لہفبان - لہفبان۔ لہفاب۔ (ف) آگ کا بغیر  
 دھوئیں کے لپٹ دینا۔  
 لہفب - گھائی۔ درہ۔ جہ۔ آلفاب۔ لہوب  
 لہفاب۔ لہفابۃ۔  
 لہفب - آگ کی لہبا انگارہ۔ اچھی چڑھی ہوئی گرد  
 مہ (س) پیاسا ہونا۔  
 لہفبان - پیاسا جہ۔ لہفاب۔  
 لہفبان - گرمی کی تیزی۔ آگ کا شعلہ گرم دن پیاس  
 لہفبۃ - پیاس۔ خالص سفیدی۔  
 لہفت - پیاسا ہونا۔  
 لہفت - (ف) کتے یا کسی جھکے ہوئے جانور کا پیاس  
 اور تنکھن کے سبب زبان باہر نکال دینا بے  
 دم ہو جانا۔ سانس بھرانا۔  
 لہفتان - پیاسا آدمی۔  
 لہفتان - پیاسا ہونا۔  
 لہفتۃ - نکان۔ پیا۔  
 لہفج - (س) زب (ح) حرض کرنا کسی بات پر جرم جانا  
 لہفجۃ - زبان۔ بولی۔ آواز۔ ادائیگی کا طرز۔  
 لہفد - جال۔ کمینہ۔ کندو پن۔ غیبی عملین۔  
 آسیب کے اثر سے سینہ کی پھین اور درد

معرف، جانور پر حد سے زیادہ بوجھ لانا  
 کھانا یا چائنا۔ ذلت سے دھکے دینا۔  
 لہزن - (ف) مل جانا۔ چھوٹا۔ گردن پر گھولنے لانا  
 لہزنۃ - وہ بڑی جوکان کے نیچے جڑے میں ہوتی ہے  
 لہنس - (ف) چائنا۔ بچہ کا بغیر دودھ پینے کے  
 چھاتی کو چوسنا۔  
 لہنسۃ - تھوڑی سی چیز۔  
 لہنط - (ف) طما پھو مارنا (کپڑے کو سینا بچہ)  
 جینا۔  
 لہع - محبت کرنے والا۔ بے ادب۔  
 لہع - (س) ہر کسی سے انس و محبت کرنے لگنا  
 بے ادب ہو جانا۔ بات کرتے ہوئے  
 ہونٹ مروڑنا۔  
 لہف - افسوس ایک کلمہ جس سے گذری ہوئی  
 بات پر افسوس ظاہر کرتے ہیں، رنج،  
 غمگین۔  
 لہفان - پریشان حال والا۔ ستا ہوا۔ رنج اور  
 تکلیف پہنچا ہوا۔ افسوس کرنے والا۔  
 لہق - سفیدیل یا سفید چیرو۔ جہ۔ لہفاق  
 لہفات  
 لہق - (س) بہت سفید ہونا۔  
 لہقۃ - کپڑے کو گھوس اور ٹھکا ہوا بننا۔  
 لہم - سخی۔ بہت خیرات کرنے والا۔  
 لہم - ہر ایک پرانی چیز جہ۔ لہوم  
 لہم - (س) ایک رنگی نکل جانا۔  
 لہمتہ - سوغات جو مسافر سفر سے لٹتے وقت  
 ساتھ لائے۔  
 لہو - (ن) کھینٹا کو دنا۔  
 لہو - غفلت کرنے والا۔ توجہ نہ کرنے والا۔

لہوۃ - ایک مٹھی دانہ جو پک میں ڈالا جاتا ہے۔  
جرہ - لکھی۔

لہوۃ - کسی کام کا ادھورا۔ نا تمام اور کچا چھوڑنا  
لہوۃ - ایسی خرمیوں پر فخر کرنے والا جو اس کے اندر

نہ ہوں۔ بناوٹی آدمی یعنی مارنے والا  
لہوۃ - ظاہر کرنا۔ کسی ایسی صفت کو کہ اس میں وہ  
نمبر۔ بناوٹ کرنا۔

لہوۃ - بہت کھانے والا۔

لہوۃ - (س) [ب] دوست رکھنا (مع) بھول  
جانا۔ تسلی پانا۔

لہوۃ - عطیہ بڑا انعام۔

لہوۃ - تھکا ہوا۔

لہوۃ - بے خبری۔ بھول چوک، بے خبری اور خریدنے  
میں اس قدر کا بلی اور سستی کہ گھٹانا اور  
نقصان اٹھاتا پڑے۔

لہوۃ - پریشان۔ بے وسیلہ، تکلیف اٹھانے  
والا۔ افسوس کرنے والا۔ لانا بے قد کا آدمی

لہوۃ - سختی۔ بلا۔ موت۔ بڑی دیگ۔

## ل - ی

لی - (مع) دی بننا۔ دسی کو دھرا کرنا  
سال کی عمر کا ہوجانا۔

لی - (مع) مورٹا۔ گھمانا کسی کے مقابلہ  
میں دوسرے کو بڑا بنانا اور چن لینا۔

لی - (مع) [ب] قرص کے ادا کرنے  
میں دیر لگانا کسی کے حق کا انکار کرنا۔

لیٹا - وہ زمین جہاں سے پانی دور ہو۔  
لیٹا - ایک سفید رات ہے چنے کی طرح صبح کا  
وقت۔ جنگل بیل۔ ہر سفید چیز۔

لیاٹ - گج۔ چونہ۔ گوبر۔

لیاٹ - آندھی، تیز و تند ہوا۔

لیاٹ - آگ کا شعلہ، لوہا۔

لیاٹ - (مفاعلہ) آپس میں نرمی کرنا۔

لیاٹ - کاش (یہ حرمت متا ہے کسی چیز کی تمنا  
کے ظاہر کرنے اور اکثر نا ممکن چیزوں  
کی آرزو کرنے کے لئے آتا ہے)۔

لیاٹ - گردن کی ایک جانب۔ کنپٹی۔

لیاٹ - شیر۔ ایک قسم کی کڑی، خوب بولنے اور  
تقریر کرنے والا۔ جرہ۔ لیاٹ  
لیاٹ - سیاہ سفیر ڈ (ڑھی) (چھڑی ڈ (ڑھی))

لیاٹ - ترکی پونڈ (د)

لیاٹ - نہیں ہے (یہ کلمہ نفی ہے اور فعل ماضی ہے  
اس کی اصل یا تو لیاٹ تھی ی کو ساکن  
کر دیا گیا تاکہ پڑھنا آسان ہو جائے  
اور یا لآ لیاٹ تھی آ لیاٹ کے معنی  
موجود کے ہیں ہمہ کو گر کر لام کو  
میں لادیا لیاٹ۔ بہو گیا۔

لیاٹ - (س) ہمدردی (مع) [بے خبری۔  
بھول چوک۔

لیاٹ - (مع) لیرٹھا ہوتا۔ لیرٹھا کرنا بھونٹی  
وغیرہ کو اکھاڑنے کے لئے پلانا۔

لیاٹ - کسی چیز کا رنگ (مع) (مع) میں کسی چیز  
کا بیٹھ جانا۔ لعنت کرنا (یا العین)  
نظر لگانا۔

لیاٹ - عادت۔ طور۔ طریقہ۔ جرہ۔ آلیاٹ  
لیاٹ - کمان۔ نیرہ۔ جرہ۔ لیاٹ۔ آلیاٹ  
لیاٹ - (مع) رنج و تکلیف سے رونا۔ لیرٹھنا  
تلملانا۔

لَيْح - انتہائی بے وقوفی -  
 لَيْح - (رض) مانگن - طلب کرنا -  
 لَيْف - کھجور کے درخت کی چھال (ریشہ) -  
 كَيْف - (رض) کھا تاکھانا -  
 كَيْق - كَيْفَة - (رض) دوات میں صوف ڈالتا  
 دوات کی سیاہی - درست کرنا - سیاہی  
 کا صوف میں چھٹ جانا - کپڑے کا جسم  
 پر پشت آنا - لائق ہونا -  
 لَيْقَة - دوات کا صوف - گارے کی کچھڑ یا  
 چکنے والی مٹی کا لوند -  
 لَيْل - رات واہ - لَيْلَة - جہ - كَيْلِي - لَيْائِل  
 كَيْلَات -  
 كَيْل - لَائِل - كَيْل - كَيْل - بہت اچھری رات  
 لَيْلَة الْوَصْل - مہینہ کی پچھلی رات -  
 كَيْلَة الْقَدَر - وہ رات جو فصل امور کے لئے  
 اللہ تعالیٰ نے معین کر لی ہے -  
 كَيْلَة السَّوَاء - مہینہ کی تیرھویں یا چودھویں رات  
 كَيْلِي - ایک عورت کا نام -  
 كَيْلِي الْخَمْر - شراب کی مستی - نشے کی تزنگ -  
 كَيْسِي - بورڈر - طالب علم جو دارالافتاء میں مقیم  
 ہو (ورد) -  
 لَيْشِم - صلح - مشابہت -  
 لَيْسَان - بندرگاہ (رد) -  
 لَيْمُون - مشہور پھل (لیمو) -  
 كَيْن - زرم و نازک - پیلپلا - جہ - كَيْتُون  
 كَيْتَان -  
 لَيْن - كَيْن (رض) نرم ہونا -  
 كَيْن - زرم و نازک -  
 كَيْتَة - کمزوری - نرمی - کمر کے راستہ میں صحت

سلیمان کا کھووا ہوا ایک کنواں کھجور کا  
 نرم درخت -  
 لَيْوُنِيَان - لفلیٹ (رد) -  
 لَيْبَة - (رض) ادبچا ہونا - چھپنا -  
 كَيْشِيم - کبجوز - سخیل - جہ - لَيْشَام - لَوَيْمَاء  
 قَد - ل  
 مَاء - نہیں (حرف نفی) کیا (حرف استفہام) وہ  
 چیز (ام موصوف) ہونے جس کو (ام موصول)  
 مَاءَة - ستور (ام عدد) جہ - مَيْتُون - مَيْات  
 (فی المآء فی صدی)  
 مَاءَب - لوٹ کر آنے کی جگہ - ٹھکانا - جہ - مَاءَاب  
 مَاءَبُوت - تیز مزاج آدمی غصہ ور -  
 مَاءَبَة - عزت قربت - جہ - مَوَات  
 مَاتِح - پانی کھینچنے والا -  
 مَاتِح - ہر اچھی چیز - مضبوطی - لمبی چیز -  
 مَاتِح - کسی کی موت پر رنج اور افسوس رونا -  
 پیشا - اصل لغت میں عام ہے - شادی یا  
 غم میں مردوں یا عورتوں کا مجمع (جمع ہونے  
 کی جگہ - جہ - مَاتِحِم  
 مَاتِي - آنے والا - ام مفعول یعنی فاعل -  
 مَاتِيْرُ الْعَرَاب - عرب کے سردار - بڑے آدمی -  
 (عرب کے)  
 مَاءَشْرَة - بخاندانی بزرگی جو لوگوں میں مشہور ہو - جہ -  
 مَاتِيُو -  
 مَاتِيَل - مٹا ہوا نشان - قدم -  
 مَاتِيَلَة - لڑوٹ (جس پر چراغ رکھتے ہیں) - جہ -  
 مَوَاتِيَل -  
 مَاءَقَم - گناہ مص (ص) گناہ کرنا (رض) گناہ کا

بہو گیا ہو۔ نازداد اور آرام میں پلا ہوا  
 آدمی مصرف، ہنسی کا ہجو منا۔  
 مادبہ - مہانی شادی بیاہ کا کھانا۔ جہ، مادب  
 مادبہ - نازک عورت، آرام و راحت میں ملی ہوئی  
 مادبہ - جس کے بائیں قوطر میں آنتیں اتر آئی  
 ہوں۔ جہ۔ مادبہ۔  
 مادبہ - وہ چیز جس سے دوسری چیزیں بنائی  
 جلیں۔ ہر چیز کی اصل۔ ہولاد (قانون  
 کی دفعہ۔ بیڑیاں (مادبہ کا مؤنث)  
 جہ۔ مادبہ۔ مادبہات۔  
 مادبہ - تعریف کرنے والا۔ جہ۔ مادبہ  
 مادبہ - سفید شہد۔ لوبے کا ہتھیار۔  
 مادبہات - کاریزین، خرد و خیزہ کے کناروں پر  
 اگ آنے والی گھاس۔  
 مادبہ - آسانی سے حلق سے نیچے اتر جانے والی  
 شراب۔  
 ماس - رفت، بھرنار (دین، دشمنی اور چھوٹ  
 ڈرنا۔ دشمنی کرنا۔  
 ماس - (س) زخم کا سر جاننا (معلیٰ) کسی سے  
 دشمنی کا قصد کرنا۔  
 مادبہ - ضرورت غرض حاجت جہ، مادبہ  
 مادبہ وقت المتاد - بغیر دھوئیں کے آگ۔ انگارا۔  
 مادبہ - حد سے گزر جانے والا۔ سرکش۔ جہ۔  
 مادبہ۔  
 مادبہ - مارچ کا مہینہ۔ کھیت۔  
 مادبستان - ہسپتال - شفا خانہ (د)  
 مادب - بیمار۔  
 مادبہ - خاندانوں کا گروہ۔ دین سے خارج  
 ہونے والی جماعت۔

بدل دینا۔  
 ماتوہ - منقول۔ روایت کیا ہوا۔  
 ماتوہ - مائتہ چغول خوری۔  
 ماتوہ - کردوا کھاری پانی۔ لڑائی بے حینی  
 ماتوہ - بوڑھا آدمی جس کی رال بڑھاپے کی وجہ  
 سے ٹپکتی رہتی ہے۔  
 ماتوہ - بزرگ آدمی عزت والا۔ سخی۔ ابھی  
 عادت والا۔  
 ماتوہ - بے شرم و بے حیا عورت۔  
 ماتوہ - مؤجل تالاب۔ جہ۔ ماتوہ۔  
 ماتوہ - مسخرہ۔ گستاخ۔ منہ چھوٹ بے شرم  
 جہ۔ ماتوہ۔  
 ماتوہ - ایک فساد اور سرکش قوم۔  
 ماتوہ - میجر۔ (د)  
 ماتوہ - انڈے کی سفیدی۔  
 ماتوہ - کھاؤ جس کی زیادہ کھانے کی وجہ سے  
 تو تندرک آئے۔ چلانے والا۔  
 ماتوہ - لڑاکو دشمن۔ متغیر رنگ والا۔ ارض  
 ماتوہ - وہ سر زمین جس میں قحط پڑا ہو  
 دیوم، ماتوہ - گرم دن۔  
 ماتوہ - مٹانے والا۔ جہ۔ ماتوہ - آنحضرت  
 صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ  
 نے ان کے سبب سے کفر کو مٹا دیا  
 کر دیا۔ مگر مغفہ کا نام۔  
 ماتوہ - اسٹیپر۔ جہ۔ ماتوہ (د)  
 ماتوہ - جس کو چبنے کا درد ہو۔ جہ۔ ماتوہ  
 ماتوہ -  
 ماتوہ - بدکاروں کی مجلس۔ بدکاری کا گھر۔ جہ۔  
 ماتوہ - ہرزہ و ملائم چیز۔ رسا ہوا پانی جو اٹھا

مہارکہ - تجارتی نشان - ٹریڈ مارک (د)  
 مہارن - ناک یا ناک کا انگلازم حصہ -  
 مہارڈت - ایک فرشتہ کا نام -  
 مہاری - سینٹ عیسیٰ ولی (د)  
 مہاریبہ - گرے رنگ کی عورت - آنحضرت صلی اللہ  
 علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ رضی اللہ  
 عنہا کا نام -  
 مہارقبہ - پرندوں کی بیٹ - جہ - موارقب -  
 مہارم - تنگ جگہ - لرطانی کا میدان - تنگی - جہ -  
 مہارم -  
 مہاس - اونٹنی کے تھنوں میں دودھ کا جمع ہو  
 جانا - گھاؤ کا رطھ جانا (علی) کسی پر  
 غمگن کرنا (میں) لرطانی جھگڑ کرنا -  
 مہاس (سجل) مہاس - وہ آدمی جو لوگوں کی نصیحت  
 و نصیحت کی پروا نہ کرتا ہو -  
 مہاسا - ٹریجیڈی - افسانہ نم (د)  
 مہاسح - بہت زیادہ قتال کرنے والا - بہت  
 جھوٹ بولنے والا -  
 مہاسیحی - کمان بنانے والا -  
 مہاسوس - قیدی جس کا پیشاب ٹک گیا ہو -  
 مہاسورۃ - نالی - پائپ (د)  
 مہاش - رفت (دور کرنا - مینہ کا زمین کو صاف  
 کر دینا اور کوڑے کرکٹ کو بہانے جانا -  
 مہاشیہ - چوپایہ - اونٹ بکری وغیرہ - زیادہ  
 بال بچوں والی عورت جہ - مہاشی  
 مہاصۃ - چھوٹے بچوں کی ایک بیماری -  
 مہاصو - قید خانہ جیل - جہ - مہاصو -  
 مہاصو - کم اور بد رنگ دودھ کی اونٹنی - دو  
 چیزوں کے بیچ کا پردہ (روک) جہ -

مہاصار -  
 مہاصح - کھاری اور گدلا پانی - صاف پانی چکنے  
 والی چیز -  
 مہاصحہ - کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرنے والا  
 مہاصغۃ - بے وقوف - احمق -  
 مہاصی - گزرنے والا - کٹنے والا - شیخ تلمبار  
 ہوشیار آدمی - گذرا ہوا زمانہ جہ -  
 مہاصاۃ  
 مہاصط - مہاصط بارش کا دن -  
 مہاصاد (مہاصط) تیز دوڑنے والا گدھا -  
 مہاصین - ایک بکرا - جہ - مہاصم - مہاصیۃ  
 جہ - مہاصیظہ -  
 مہاصون - برتنے کی چھوٹی موٹی چیز (جہ) پس میں ایک  
 دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لئے دیدی  
 جاتی ہے، جھلانی، احسان - مینہ - پانی (د)  
 کا غذا کارم -  
 مہاصی - ملائم اور نرم کھانا -  
 مہاصون - کسی چیز سے روکا ہوا - بے عقل کم سمجھ  
 مہاصق - مہاصقہ - (س) روتے روتے بچہ کی  
 ہچکی بندھ جانا - مہاصقہ - رونے کی ہچکی -  
 مہاصقہ - کسکری پھینک کر فال لینے والا - ڈبلا  
 اونٹ، آزاد گئے ہوئے (غلام) کا آزاد  
 کیا ہوا (غلام) لرطانی کے میدان کی تنگ  
 جگہ - ڈول کی سی - جہ - مہاصقہ  
 مہاصکث - ٹھہرنے والا - حیر کرنے والا -  
 مہاصحہ - دھوکہ دینے والا - اونٹوں کا وہ قافلہ  
 جو ایک جگہ سے دوسری جگہ قافلے جاتا ہو  
 تدبیر کرنے والا -  
 مہاصکل - کھانے کی چیز - کمانی - جہ - مہاصکی -

مآکد - مآکدہ - چوڑکے اوپر کے حصہ پر ایک  
 گوشت کا ٹکڑا۔ جہ - مآکدہ -  
 مآکدہ - مآکدہ - مشین گن (د)  
 مآکول - رعیت - کھایا ہوا۔  
 مآل - سامان روپیہ، دولت وغیرہ جو کسی کی  
 ملک میں ہو۔ جہ - آموال  
 مآل - (د) [رائی] کسی کی طرف رجوع کرنا۔  
 (ع) کسی سے اعراض کرنا۔ کم ہوجانا۔  
 پھوٹنا۔  
 مآلی - بھرنے والا۔ پُر کرنے والا۔  
 مآلہ - مرغزار چکی۔ جہ - مآل۔  
 مآلہ - مالدار (مذکورہ مومن) جہ - مآلک  
 مآلیطہ - مالک۔  
 مآلق - پیلہ جس سے کھیت کی مٹی یا ریک اور  
 ہموار کی جاتی ہے۔  
 مآلک - آقا - پادشاہ جہ - مآلک - مآلک  
 دوزخ کے داروغہ کا نام۔  
 مآلکۃ - مآلک پیغام۔  
 مآل مآدی - مآدی - میکس (د)  
 مآلؤلۃ - مآلک آیا ہوا آدمی۔  
 مآلی - مہاجن (د)  
 مآلیتہ - صیغہ مال - فنانس (د)  
 مآ مآۃ - کبری یا ہرن کا میں میں کرنا۔  
 رآجل (مآ مآوت - معین و مقرر وقت۔  
 مآ من - امن کی جگہ۔  
 مآ مومس - محکوم مقرر (د) سرکاری عہدہ دار۔  
 مآ مومس - آگ - آگ کی جھٹی۔ تندر۔  
 مآ موم - جس کے داغ پھر پڑ آئی ہو۔ وہ اونٹ  
 جس کی پیٹھ کے بال چوڑے یا زخم یا پالان کی

وجہ سے گر گئے ہوں۔  
 مآ موم - امانت دار۔  
 مآ ن - ہل - کدالی - وغیرہ زمین کا ہٹنے کا اوزار  
 جہ - مآ موم (د) پر واہ کرنا۔  
 ڈرنا - پچنا جہاں نہ کسی کا بوجھ اٹھانا۔  
 کوئی چیز ڈھونڈنا اور اس کے لئے دیر  
 تک تکلیف اٹھانا۔  
 مآ مآتہ - ناک کوکھ جہ - مآ نآت مآ موم  
 مآ یح - روکنے والا جہ - مآ مآتہ مآ مآتہ  
 جہ - مآ مآیح۔  
 مآ مآستہ - آگ۔  
 مآ مآوس - انس پکڑا ہوا۔  
 مآ مآ دہ - مکان کا اگلا حصہ (د)  
 مآ مآوی - مآ مآواہ - پناہ پکڑنے کی جگہ منزل بھگتا  
 مآ مآویۃ - آئینہ جہ - مآ مآوی۔  
 مآ مآہ - شکر کا قصبہ۔  
 مآ مآہتہ - چپک - بہت پانی والا کنواں۔  
 مآ مآہج - تیلی چرئی - پتلا دودھ۔  
 مآ مآہد - بچھانے والا۔  
 مآ مآہس - کسی مہزیارن کا خوب جاننے والا۔  
 ہر شیہار عقلمند خوب تیرنے والا۔  
 جہ - مآ مآہتہ۔  
 مآ مآہین - خدمتگار - غلام۔  
 مآ مآہیتہ - تنخواہ - مشاہرہ (د)۔  
 مآ مآسی - کسی کام میں زیادتی کرنا۔ تنہا کو پہنچانا  
 غور سے دیکھنا۔ درخت میں کلیاں آجاتا  
 کو نہیں نکل آتا۔ مکان (زمین) خاد کرنا  
 مآ مآکۃ - کھانے سے چاہا ہوا دسترخوان۔ زمین کا  
 ایک دائرہ جہ - مآ مآس۔

مَآئِد - ایک شہر سے دوسرے شہر میں زناج لانے والا۔ جہ۔ مَآئِدَة - دھمکاد مَآئِعہ - بننے والی چیز۔ ایک قسم کا گوند یا خشک دوار عطر گھوڑے کی پیشانی کے بال جہ۔ مَوَائِع -

مَآئِدَة - مشورہ کرنا۔ رائے لینا۔ مَآئِعَة - آپس میں سمجھی بننا۔ ایک دوسرے کے پاس اٹھنا۔ بیٹھنا۔

مَآئِعَة - زنا کرنا۔ مَآئِعَة - نرم آواز کے ساتھ بات چیت کرنا۔ مَآئِعَة - صبح کے وقت آنا۔

مَآئِعَة - پروا کرنا۔ ڈرنا خوف رکھنا۔ توجہ کرنا مَآئِعَة - پھری یا تلوار سے ایک دوسرے کو مارنا مَآئِعَة - عیب نکالنا۔ لڑائی کے لئے میدان میں اُترنا۔

مَآئِعَة - انتہا کو پہنچانا۔ کوشش میں کمی نہ کرنا۔ مَآئِعَة - فخر کرنا خوبی اور اچھائی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا۔

مَآئِعَة - خوبی اور نیکی میں مقابلہ کرنا۔ ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ مَآئِعَة - کسی امر متنازعہ میں فریقین کا یہ کہنا کہ ہم سے جو غلطی ہو وہ اس پر خدا کی مار اور لعنت ہو۔

مَآئِعَة - آپس میں خریدنا بیچنا کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنا۔

مَآئِعَة - کسی چیز کا شروع (جنوزیوں کی اصطلاح میں جملہ اسمیہ کا مسند الیہ)۔

مَآئِعَة - برستی۔ دین میں نئی بات نکالنے والا۔ مَآئِعَة - پھٹے پرانے کپڑے سیننے والا۔ کاٹنے والی تیز تلوار۔

مَآئِد - ایک شہر سے دوسرے شہر میں زناج لانے والا۔ جہ۔ مَآئِدَة - دھمکاد مَآئِعہ - بننے والی چیز۔ ایک قسم کا گوند یا خشک دوار عطر گھوڑے کی پیشانی کے بال جہ۔ مَوَائِع -

مَآئِق - احمق۔ جہ۔ مَوَائِق - مآثر۔ پھر جانے والا غم کھانیا والا جہ۔ مآثر مَآئِق -

مَآئِقَات - وہ عورتیں جو ناز و داد کیساتھ بھیڑتی ہوئی چلیں۔ یا وہ عورتیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑے ہوئے ہوں مَآئِد - مٹی کا مہینہ (د)

## ہ - ب

مَآئِعَة - لڑائی کرنا۔ جنگ کرنا۔ مَآئِع - جائز۔ روا۔

مَآئِعَة - سادہ پانی پینا۔ سچی اور خالص دہن کرنا مَآئِعَة - آپس میں بحث کرنا۔ اختلافی گفتگو کرنا۔ مَآئِدَة - آگے بڑھ جانا۔ کسی کی طرف دوڑنا۔ مَآئِدَة - آپس میں اولاد بلا کرنا۔

مَآئِدَة - آپس میں کامل کلوچ کرنا۔ مَآئِدَة - فضول خرچی کرنا۔ مَآئِدَة - برابری کرنا۔ ایک دوسرے سے جدا ہونا (د) بیچ۔

مَآئِعَة - لڑائی کے لئے نصف میں سے باہر آنا۔ مَآئِع - برکت والا۔ مقدس۔ م۔ مَآئِعَة - مَآئِسَة - لڑائی یا ہم حملہ کرنا۔

مَآئِعَة - عورت سے صحبت کرنا۔ عورت مرد کا آپس میں ننگے بدن لپٹنا۔ یا ایک کپڑے میں بونا

مبتل آزمانے والا۔

مبتوتہ - طلاق بائن دی ہوئی عورت

مبتوتہ - پراگندہ، منتشر - م - مبتوتہ

مبتوتہ - بہت مالدار جس پر جس کی جاتا ہو۔

مبتحت - بحث - بحث کرنے کی جگہ - مبتحت

مبتدع - مبتدعہ - مبتدع - شروع

اول - ابتداء -

مبتدع - موجد - نیا - پیدا کرنے والا (خدا تعالیٰ

کی صفت) نئے طرز نئے طریقے پر

شعر کہنے والا۔

مبتدل - بدل دینے والا - تبدیل کرنے والا۔

مبتدع - اچانک آجانے والا۔

مبتدعی - نیا اور انوکھا کام کرنے والا - خدائے تعالیٰ

کے ناموں میں سے ایک نام۔

مبتدع - فضول خرچ - سرف

مبتدل - مبتدعہ - پشاپرانا کپڑا - وہ کپڑا جو

رد مزہ پہنا جائے - مبتدع

مبتدع - ڈرایا ہوا - ڈرنے والا۔

مبتدع - قلم تراش (د)

مبتدع - بری - ہزار - پاک

مبتدع - ماں باپ کی اطاعت - فرمانبرداری

مبتدع - رستی (لوہا گھسنے کا اوزار)

مبتدع - پاختہ کی میگہ - مبتدعہ

مبتدعہ - برش (د)

مبتدع - اونٹنی جو دم اٹھائے اور اپنے آپ کو

حاملہ ظاہر کرے - حالانکہ حاملہ نہ ہو۔

مبتدعہ - اونٹوں کے سونے اور ریت کی جگہ -

مبتدعہ - مدینہ منورہ میں وہ جگہ جہاں

بعد ہجرت پہلی بار آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم کی اونٹنی بیٹھی۔

مبتدعہ - رستی بیٹھے کا کھلا جہ - مبتدعہ

مبتدعہ - بے مزہ بات کہنے والا - لالچی - لالچی

بنانے والا - رستی بیٹھے والا - مضبوط

کرنے والا۔

مبتدعہ - دُہرا بنا ہوا کپڑا - دہری ٹی ہوئی رسی

مبتدعہ - پسند کیا ہوا -

(بیع) مبتدعہ - وہ خرید و فروخت جس میں جھوٹ

اور دھوکہ نہ ہو۔

(حج) مبتدعہ - مقبول حج -

مبتدعہ - وہ سچی آدمی جو اپنا سارا مال خرچ کر

ڈالنے کی وجہ سے محتاج ہو گیا ہو۔

مبتدعہ - اگال دان - جہ - مبتدعہ

مبتدعہ - نشتر - جہ - مبتدعہ

مبتدعہ - تیل - چاشنی وغیرہ تارنے کا اوزار

جس میں بہت سے سوراخ ہوتے ہیں -

(پالوئہ) ستقاہ - لوٹے وغیرہ کی ٹوتھی -

جہ - مبتدعہ

مبتدعہ - وانت - جہ - مبتدعہ

مبتدعہ - بہت مسکرانے والا -

مبتدعہ - ہوا لیں جن کا چلنا مینہ رستنہ کی علامت سمجھا

جائے -

مبتدعہ - کشادہ - پھیلا ہوا - مبتدعہ

مبتدعہ - خوشخبری دینے والا - آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کا لقب (د) مبلغ - مشنری

مبتدعہ - خوشخبریوں دینے والیاں - وہ ہوائیں

جو اپنے ساتھ بارش لائیں -

مبتدعہ - شیر جو در سے شکار کی بو پا کر اس کا

قصد کرے ہنہ - بولنے چلنے پھرنے میں



مِئَنَاءَ - پردہ - کپڑے رکھنے کی پٹاری وغیرہ  
مِئَنَی - بنا کیا ہوا - وہ کلمہ جس کے آخری حرف  
کا اعراب عاملوں کے اختلاف سے

بڑے لے -

مِئَوَاءَ - ٹھکانا - ٹھکانا دینا - ٹھکانا دیا ہوا -

مِئَهْلَةً - بے نیل ادنیٰ -

مِئَهْوَت - حیران پریشان - ہکا بکا -

مِئَهْوَس - جس کی سانس چھوٹی ہو -

مِئَبْت - (حق) بات گزارنا -

مِئَبِیْح - (اسم مفرد) بیچا ہوا خرید ہوا -

(مصدر می) (حق) بیچنا - خریدنا -

مِئِیْن - جدا کرنے والا - ظاہر کرنے والا - واضح

در روشن -

مِئَبِّیَات - بیان کرنے والیاں تفصیل کرنے والیاں

واضح در روشن دلائل -

مِئَبِّیَّة - بڑی - سخت -

## ہ - ت

مِئَاب - گناہ سے رک جانا - گناہ چھوڑ دینا -

رجوع کرنا (مصدر می) (ضرب) لوٹنے

کی جگہ - مرجع (طرف)

مِئَابِع - مضبوط - پایدار -

مِئَابِعَة - کسی کام میں دوسرے کے پیچھے

چلنا - کسی کے عمل کی پیروی کرنا (ج)

(مال کا) مطالعہ کرنا -

مِئَابِجَة - آپس میں تجارت و سوداگری کرنا -

مِئَابِجَل - دیر کرنے والا - مہلت چاہنے والا -

مِئَابِح - لمبا - دراز -

مِئَابِحَة - زمین کی حدود کا متصل ہونا -

درمیانی حالت پر رہنے والا آدمی -  
دیکھنے والا - دکھانے والا - م :-  
مِئَبْرَة -

مِئَبَّان - بہت کھانے والا - بڑے پیٹ والا -

مِئَبَّطَة - نشتر - آری - کھانڈی وغیرہ (چیرنے کا

کوئی آلہ) -

مِئَبَّطَحَة - خربوزہ کا کھیت - فالیز - ج :- مِئَابِطَح

مِئَبَّطِل - خراب کرنے والا - نیست و نابود کر دینے

والا - بے حقیقت بات کہنے والا -

مِئَبَّطَن - تلکے پیٹ والا - وہ گھوڑا جس کی پیٹھ

اور پیٹ سفید ہو -

مِئَبَّطُون - پیٹ کا دکھیا -

مِئَبَّعَد - دور کیا ہوا - ملعون -

مِئَبَّعَد - دور تک سفر کرنے والا -

مِئَبَّعَس - انتڑی کی چرنی - میٹگنیوں کی جگہ - ج :-

مِئَابِعَا -

مِئَبَّعُوث - بھیجا ہوا - زندہ کیا ہوا - اٹھایا ہوا (د)

میر پارلیمنٹ - ڈیلیٹ -

مِئَبَّعَلَة - ساگ کا کھیت - ج :- مِئَابِیْل -

مِئَبَّیْد - پرانا حوض -

مِئَابِیْس - نا امید -

مِئَابِیْط - محتاج سے مال

مِئَابِیْط - بکے فرش کا مکان

مِئَابِیْج - خلق - ج :- مِئَابِیْج -

مِئَابِیْج - بہت کھانے والا - بہت کھانے والا -

مِئَابِیْج - کنواں جس میں اترنے کے لئے سیرٹھی

نی ہوں - ہادری -

مِئَابِیْخ - مِئَابِیْخ - پہنچانے والا -

مِئَابِیْخ - پہنچا - پہنچنے کی جگہ - مقدار -

مَتَابِلَه - ہم عمر ہونا - ہم عمروں کی صحبت میں رہنا  
 مَتَارَكَة - ایک دوسرے پر حوالہ کرنا - ایک دوسرے  
 پر ٹھکانا -  
 مَتَا سَا - رنج پہنچانا - ذلیل کرنا -  
 مَتَا صَو - پڑوسی - ہمسایہ -  
 مَتَاع - گھر کا سامان - پوسجی - نفع - آرام (د)  
 سامان سفر - جہز - اَمْتَعَة -  
 مَتَاعَة - (ک) عقل مند ہوجانا - ظریف ہوجانا  
 مَتَاتِن - عیب گیری کرنے والا - زبردستی -  
 عقل مند بننے والا - نئی نئی عادتیں اختیار  
 کرنے والا -  
 مَتَاتِي - قسم کھانے والا  
 مَتَا م - دہ عورت جو ہمیشہ جرّواں بچے بنتی ہو  
 مَتَا ء - دہرے تانے سے کپڑے کو بننا -  
 گھوڑے کا دودھ دینے جینا - بچہ کا  
 جرّواں پیدا ہونا -  
 مَتَا تَة - (ک) سخت اعداؤں پہنچا ہونا - مضبوط  
 ہونا -  
 مَتَبَدَل - ذلیل و خوار - حقیر -  
 مَتَبَدَل - ہلک کیا ہوا -  
 مَتَبَرَجَا - عود نمانی کرنے والیاں - آرائش ظاہر  
 کرنے والیاں - واہ - مَتَبَرَجَه  
 مَتَبَرَج - ثواب کی نیت سے کوئی کام کرنے والا -  
 مَتَبَرَك - برکت والا -  
 مَتَبَح - پیروی کیا ہوا جس کی پیروی کی جائے  
 مَتَبَسَم - مسکرانے والا -  
 مَتَبَصِل - تہ بہ تہ -  
 مَتَبِيْل - بہادر - دلیر -  
 مَتَبِيْتَة - گھر بار اور خاندان والی عورت -  
 مَتَابِلَه - ہانڈی میں گرم مصالحہ ڈالنا -  
 مَتَابِيح - بے درپے - لگاتار - پیہم -  
 مَتَابَلَح - انشطار کرنے والا -  
 مَتَابَلِي - کوئی لمبی چیر - جس میں چوڑائی نہ ہو  
 مَتَابَلِي - تقاضا کرنے والا -  
 مَتَابَلِف - مائل اور راغب ہونے والا -  
 مَتَابَلَاث - پاس پاس ہونے والیاں - واہ -  
 مَتَابَلَاثَة  
 مَتَابَلَاث - (ف) ایسے خارج کرنا - پاخانہ پھرنا -  
 دن چروھتا - پانی کھینچنا -  
 مَتَابَلَاث - کن رہ کش ہونے والا -  
 مَتَابَلَف - عجائب خانہ (د)  
 مَتَابَلَف - کسی رکھانے کی چیر کا بیچا تہ چھوڑ کر  
 جب تک اسے نہ کھالے -  
 مَتَابَلَف - جگہ کی طرف لوٹنے والا -  
 مَتَابَلَف (ف) ہانڈی کا انڈا دینے کے لئے  
 اپنی دم زمین میں گاڑنا - اونچا چروھنا  
 کا ٹٹا - اکھاڑنا - پاخانہ کرنا -  
 مَتَابَلَب - لیا - بے وقوف - جلد باز -  
 مَتَابَلَب - اختیار کرنے والا - پکڑنے والا - م -  
 مَتَابَلَبَة -  
 مَتَابَلَب - سنا یافتہ - تعلیم یافتہ (د)  
 مَتَابَلَب - تر - بتر - فوج بکھرا ہوا - شکر -  
 مَتَابَلَب - بہت زیادہ - بڑا زبردست - غلبہ  
 پانے والا -  
 مَتَابَلَب - تخاف کی ایک قسم - شرعی ایک بچہ کا نام  
 مَتَابَلَب - بری عادت کا آدمی -  
 مَتَابَلَب - آرام طلب -  
 مَتَابَلَب - میلا چملا - بری عادت والا -

مَتَابِلَه - ہم عمر ہونا - ہم عمروں کی صحبت میں رہنا  
 مَتَارَكَة - ایک دوسرے پر حوالہ کرنا - ایک دوسرے  
 پر ٹھکانا -  
 مَتَا سَا - رنج پہنچانا - ذلیل کرنا -  
 مَتَا صَو - پڑوسی - ہمسایہ -  
 مَتَاع - گھر کا سامان - پوسجی - نفع - آرام (د)  
 سامان سفر - جہز - اَمْتَعَة -  
 مَتَاعَة - (ک) عقل مند ہوجانا - ظریف ہوجانا  
 مَتَاتِن - عیب گیری کرنے والا - زبردستی -  
 عقل مند بننے والا - نئی نئی عادتیں اختیار  
 کرنے والا -  
 مَتَاتِي - قسم کھانے والا  
 مَتَا م - دہ عورت جو ہمیشہ جرّواں بچے بنتی ہو  
 مَتَا ء - دہرے تانے سے کپڑے کو بننا -  
 گھوڑے کا دودھ دینے جینا - بچہ کا  
 جرّواں پیدا ہونا -  
 مَتَا تَة - (ک) سخت اعداؤں پہنچا ہونا - مضبوط  
 ہونا -  
 مَتَبَدَل - ذلیل و خوار - حقیر -  
 مَتَبَدَل - ہلک کیا ہوا -  
 مَتَبَرَجَا - عود نمانی کرنے والیاں - آرائش ظاہر  
 کرنے والیاں - واہ - مَتَبَرَجَه  
 مَتَبَرَج - ثواب کی نیت سے کوئی کام کرنے والا -  
 مَتَبَرَك - برکت والا -  
 مَتَبَح - پیروی کیا ہوا جس کی پیروی کی جائے  
 مَتَبَسَم - مسکرانے والا -  
 مَتَبَصِل - تہ بہ تہ -  
 مَتَبِيْل - بہادر - دلیر -  
 مَتَبِيْتَة - گھر بار اور خاندان والی عورت -

مَشْتَش - سفید نقطہ یا سفیدی جو ناخن پر ہو جاتی ہے۔ آنکھ کی بیماری میں (دخ) کوئی چیز انگلی سے الگ کرنا۔ اونٹنی کو آہستہ آہستہ دوسنا۔

مَشْتَشَايَه - مشکل کام۔ مشایہ۔ ہم شکل۔  
مَشْتَشَاتِهَات - وہ آئینے میں کا مطلب واضح نہ ہو۔  
واہ۔ مَشْتَشَايَهَات -

مَشْتَشَايَم - جو اپنے آپ کو شاعر گمان کرے یا لوگوں کے سامنے اپنا شاعر ہونا بیان کرے اور شاعر نہ ہو۔

مَشْتَشَاكِس - بری عادت والا۔ مخالفت اور دشمنی کرنے والا۔ ج۔ مَشْتَشَاكِسُون

اپنے آپ کو بیٹ بھرا ظاہر کرنے والا۔  
مَشْتَشَبَح - اپنے آپ کو اپنی طاقت سے زیادہ سنوارنے والا۔

مَشْتَشَاد - بھیل۔ کنبوس۔

مَشْتَشَايَق - آدمیوں سے سنسی مذاق کرنے والا  
مَشْتَشَايَهَات - دانتوں کی جڑ کا کوشش جو دانتوں سے چپکا ہوا ہوتا ہے۔

مَشْتَشَايَمَس - برطانیہ کنبوس۔ دھوپ میں کھڑا ہونے والا  
قوی آدمی۔

مَشْتَشَايَمَس - پھٹ جانے والا۔ پارہ پارہ ہوجانے والا  
مَشْتَشَايَمَسَات - صدقہ کرنے والا۔ م۔ مَشْتَشَايَمَسَات  
مَشْتَشَايَمَسَات - کسفر۔ (د)

مَشْتَشَايَمَسَات - پیڑھے منہ کا آدمی۔ مخالفت۔

مَشْتَشَايَمَسَات - مخالفت۔

مَشْتَشَايَمَسَات - دوپہر کے وقت آنے والا۔ دوپہر کو کھانے والا۔

مَشْتَشَايَمَسَات - سیاہ۔ سیاہ بادل۔ موٹی نظر والا۔

مَشْتَشَايَمَسَات - دینار نیک آدمی۔  
مَشْتَشَايَمَسَات - میلے کچیلے کپڑے پہننے والا۔ جہر اپنا کام خود کرتا ہو۔

مَشْتَشَايَمَسَات - (د) کھینچنا۔ کاٹنا۔ پھینکنا۔ بریٹ کرنا  
مَشْتَشَايَمَسَات - آلہ پیمائش مساوی ۳۹ پانچ (د)  
مَشْتَشَايَمَسَات - لفظ جس کے معنی میں کوئی دوسرا

لفظ شریک ہو۔ ایک قافیہ میں دو ساکن جمع ہو جائیں۔

مَشْتَشَايَمَسَات - ایک دوسرے پر سوار ہونے والا  
مَشْتَشَايَمَسَات - (س) محتاج ہونا۔ خاک آلودہ ہونا۔

مَشْتَشَايَمَسَات - مفلس۔ بہت مالدار (صد)  
مَشْتَشَايَمَسَات - فقیری۔ محتاجی۔ مفلسی۔

مَشْتَشَايَمَسَات - انتظار کرنے والا۔

مَشْتَشَايَمَسَات - اپنے سے گر کر ہلاک ہونے والا۔

چھو پائیے۔  
مَشْتَشَايَمَسَات - ایک موٹی لکڑی جس سے کیڑاڑوں کو بند کرتے ہیں۔ ج۔ مَشْتَشَايَمَسَات

مَشْتَشَايَمَسَات - ڈھال کی طرح آگے رکھی جانے والی چیز  
مَشْتَشَايَمَسَات - ٹپکنے والا۔

(میزان) مَشْتَشَايَمَسَات - درست و صحیح تر ازو۔

مَشْتَشَايَمَسَات - امید رکھنے والا۔

مَشْتَشَايَمَسَات - وہ آدمی جسے اس کے حال پر پھوڑ دیا جائے کہ جو چاہے کرتا رہے۔ آرام و راحت میں پلا ہوا۔ ظلم کرنے والا۔

مَشْتَشَايَمَسَات - (د) پاخانہ پھرتا۔ دست کرنا۔

مَشْتَشَايَمَسَات - برابر۔

مَشْتَشَايَمَسَات - ٹکڑے ٹکڑے

مَشْتَشَايَمَسَات - خراب بنا ہوا کپڑا

مَشْتَشَايَمَسَات - حاکم شہر۔ سٹی۔ مجسٹریٹ (د)

جسے کم نظر آتا ہو۔  
 مُتَطَهَّرٌ - پاک و صاف۔ نیک و صالح۔  
 مُتَّحٍ - (رف) ادن چڑھنا جیسی سے جھوٹ بولنا۔  
 فائدہ اٹھانا۔ وزن ہی بھاری ہونا۔  
 مُتَّحٌ - (رف) کسی سے جھوٹ کہنا۔  
 مُتَّعَلٌّ - بلند و باعزت۔ باری تعالیٰ کا اسم صفت  
 مُتَّعَةٌ - لطف۔ فائدہ۔ ڈول۔ مشک۔ ایک  
 دن کے لائق کھانا۔ نفع۔ جہ۔ مُتَّعٌ  
 حج کے ساتھ عمرہ کی ادائیگی۔  
 مُتَّعَةُ الْبِنَاكِحِ - چند روز فائدہ اٹھانے کے لئے  
 کسی عورت سے نکاح کرنا (پہلے جائز  
 تھا بعد میں اس قسم کے نکاح کی ممانعت  
 کر دی گئی)۔  
 مُتَّعَةُ الطَّلَاقِ - کچھ ۱۰ - نفقہ وغیرہ جو طلاق کے  
 بعد عورت کو دیا جاتا ہے۔  
 مُتَّعِبٌ - جو عربوں میں داخل ہو گیا ہو۔ عربوں  
 جیسی وضع قطع رنگ و ڈھنگ بنانے  
 والا۔ عربی غیر خالص۔  
 مُتَّعِلٌ - علاقہ رکھنے والا۔ لٹکنے والا۔  
 مُتَّعِلٌ - قیمتی اونٹ۔ قیمتی چیز۔  
 مُتَّعِيْدٌ - قصد کرنے والا۔ بالقصد کوئی کام  
 کرنے والا  
 مُتَّعِيْتٌ - کسی کی ذلت و رعبے عزت چاہنے والا  
 مُتَّعِيْدٌ - ظالم۔ غصہ کرنے والا۔ جھوٹی تہمت  
 لگانے والا۔  
 (سَقَاةٌ) مُتَّعِيْتٌ - وہ مشک جو سکتی ہو۔ نئی مشک  
 مُتَّعِيْدٌ - بہت کھانے والا کہ جو چیز بھی اٹھ سکے  
 سب چٹ کر جائے۔

مُتَفَحِّحَہ سبب کا باغ۔  
 مُتَّفَحِّصٌ تلاش کرنے والا۔ کھوج لگانے والا۔  
 مُتَّفَحِّلٌ جس درخت پر پھیل نہ سکے  
 مُتَّفَحِّقٌ - جدا۔ علیحدہ۔ منتشر۔ م۔ مُتَّفَحِّقَةٌ  
 مُتَّفَحِّضٌ - جس زمین میں جگہ جگہ گڑھے یا کنیریں  
 ہوں۔  
 مُتَّفَلِّقٌ - پھٹا ہوا دودھ۔  
 مُتَّفَلِّكٌ - بے وقوف عورت  
 مُتَّفَتِّنٌ - طرح طرح کے ہنر یا فن جاننے والا  
 فریبی۔ بچالاک۔  
 مُتَّفَابِلٌ - ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونے والا  
 (فرض) مُتَّفَاذِفٌ - تیز۔ دوڑنے والا گھوڑا۔  
 مُتَّفَارِبٌ - عروص کی جموں میں سے ایک بجز کا نام  
 مُتَّفَاعِدٌ - ریٹائرڈ۔ پنشن۔  
 مُتَّفَاعِيسٌ - وہ آدمی جن کی پیٹھا نذر کوا اور سیدنا  
 باہر کو نکل آیا ہو۔  
 مُتَّفَحِّلٌ - سوکھے ہوئے جسم کا آدمی۔ غریب آدمی  
 مُتَّفَعِيْدِيٌّ - شیر۔ ناز کے ساتھ چلنے والا۔ مشک کر  
 چلنے والا۔  
 مُتَّفَعِيْدٌ - خون کی کمی کی وجہ سے پیلا پڑا ہوا میلے  
 پکیلے جسم کا آدمی۔  
 مُتَّفَعِيْبِيٌّ - عبادت کرنے والا۔ نیک۔ پرہیزگار  
 مُتَّفَعِيْفٌ - قوتِ لاموت پر خوش رہنے والا۔  
 تنگی کے ساتھ زندگی گزارنے والا۔ گندگی  
 اور بلیدی کی پروا نہ کرنے والا۔  
 مُتَّفَعِيْطُ السَّرَاسِ - بہت مڑے ہوئے بالوں والا  
 (سحر) مُتَّفَعِيْمٌ - کبوتر کے لاندھا گواہ اور درخت  
 مُتَّقَلِبٌ - جائے بازگشت۔ لوٹنا۔ پھرنا۔  
 مُتَّقَلِبٌ - لوٹنے پھرنے والا۔

مُتَقَرَّبٌ - شکاری شکار ڈھونڈنے والا۔

مُتَقَوَّبٌ - کینچلی سے باہر نکلا ہوا سانپ۔

مُتَقَوِّسٌ - وہ آدمی جس کے بدن کی کھال کھجلی کی دھبے سے جگہ جگہ سے خراب ہوگئی ہو۔ وہ آدمی

جس کے پاس کمان ہو جس آدمی کی بھویں

کمان کی طرح ہوں۔

مُتَقَهْقِيٌّ - پربیز گار۔ نیک۔ گناہوں سے بچنے والا

مُتَشَفٌّ - مٹھی کی ناک۔ ناک کا سُوا۔ لیموں میں

(ن) اکٹھا۔

مُتَكَاءٌ - میچ گاہ۔ محل۔

مُتَكَاءٌ - وہ عورت جس کے دونوں رُبرخ ایک ہو

گئے ہوں۔ عورت جو پیشاب کو روک نہ

سکے۔ ج۔ مُتَشَفٌّ۔

مُتَكَارِبٌ - نفرت کرنے والا۔ پسند نہ کرنے والا۔

مُتَكَبِّرٌ - خدائے قدوس کے ناموں میں سے ایک

نام (یعنی وہ خدا جو ان کاموں سے پاک

ہے جو اس کے لائق اور مناسب نہیں)۔

گھنٹہ کرنے والا۔

مُتَكَسِّرٌ - بار بار لایا ہوا۔ ہرا یا ہوا۔

مُتَلَقٌّ - ہتھیار باندھنے والا۔

مُتَكَاسِسٌ - تیز دوڑنے والا۔

مُتَكَلِّفٌ - غیر ضروری کام کی طرف متوجہ ہونے والا

ربا کاری سے کوئی عمدہ کام کرنے والا۔

مُتَكَلِّمٌ - بات کرنے والا۔ کلام کرنے والا۔

مُتَكَلِّمٌ - دوسرے کے مشورہ کو نہ ماننے والا۔

خود رائے۔

مُتَكَلِّعٌ - بھر دس کرنے والا۔ تیکہ لگانے والا۔

مُتَلٌ - (ن) حرکت دینا۔ ہلانا۔

(شجر) مُتَلَاَحِيزٌ - گھنے درخت۔ آپس میں

ملے جلے۔

مُتَلَاَحِثٌ - ٹھوس چیز (جس کے اجراء آپس میں

ملے ہوئے ہوں)۔

(موج) مُتَلَاَطِسٌ - برابر تھپڑ مارنے والی

موج۔

مُتَلَاَتٌ - بہت ضائع کرنے والا۔

مُتَلَدٌ - پرانے مال کا مالک۔

مُتَلَدٌ - پرانا۔ قديم۔

مُتَلِحٌ - خوبصورت عورت (دوسرا دھرت بہت

دیکھنے بھالنے والی)۔

مُتَلَجِجَةٌ - جوانی کے جوش میں بھری ہوئی۔ بہت

زیادہ شہوت والی عورت۔

مُتَلَفِدٌ - بہت غفہ والا۔

مُتَلَفٌ - تباہ ہونے کی جگہ۔

مُتَلَقٌّ - گھبرنے والا۔ پیش آنے والا۔

مُتَلَمِّسَةٌ - درد کی جگہ۔

مُتَلَمِّطٌ - چہرے کا وہ حصہ جس پر مسکراہٹ

ظاہر ہوتی ہے۔

مُتَلَوٌّ - موٹی تازی مضبوط جسم کی گائے بڑ

کے بل بچھاڑا ہوا

مُتَلَوِّنٌ - کسی ایک عادت۔ ایک طور طریقہ پر نہ

بسنے والا۔

مُتَلَوٌّ - بیخود و سرگشتہ۔

مُتَلَبِّتٌ - بچہ والی اونٹنی کہ جس کے پھپھے پھپھتا

ہوں۔ ج۔ ۱۔ متالی۔

مُتَلَاَحِلٌ - لمبا آدمی۔ یا اونٹ۔ وہ گھر جو ارد گردوں

سے دور علیحدہ بنا ہوا ہو بے درہلہ۔

جنگل۔

مُتَمَادِحٌ - بزرگ۔ عمدہ جلد یا زبھٹ پٹ کام کرنا والا

مَتَنَبِی - نبوت کا ہوتا دعویٰ کرنے والا۔ احمد بن حسین مشہور شاعر کا لقب جس نے نبیؐ ہی کیا تھا۔	مَتَبَادِی - کسی چیز پر اڑ جانے اور سد کرنے والا۔ مَتَبَادِی - منہ موڑنے والا۔ ددر ہونے والا۔ مَتَبَاوَت - بیا کے لئے خدا کی عبادت کرنے والا۔ مَتَمَاتُ الْوَدُوْدِ غرض دوست (جو بھی دوستی نہ کرتا ہو)۔
مَتَبَدِّح - بد داخل ہونے والا۔ وہ آدمی جس کے سر میں جوئیں دیکھی جائیں۔	مَتَبَدِّع - کسی کام یا ضرورت کے لئے رشتہ داری کا وسیلہ ڈھونڈنا۔ قرابت کو وسیلہ بنانا۔
مَتَبَدِّجِم - بخوبی ستارہ پہچاننے والا۔	مَتَبَدِّحَا - جھگڑنے والا۔
مَتَبَدِّزَا - باغ۔ پارک۔ (د)	مَتَبَدِّد - سرکش۔ بغاوت کرنے والا حکم نہ ماننے والا۔ پہل کرنے والا۔
مَتَبَدِّوَس - روشن خیال (د)	مَتَبَدِّوَا (مَتَبَدِّوَا) - ایک دوسرے سے آگے نکل جانے والے گھوڑے۔
مَتَبَدِّوَا - (ن) لمبا کھینچنا۔ زنی [دور چلا جانا دور تک سیر کرنا۔	مَتَبَدِّوَا - چھوٹے قد اور گول جسم والی عورت۔
مَتَوَابِر - برابر۔ بے درپے۔ وہ قافیہ جس کے دو حروف ساکن کے درمیان کوئی متحرک حرف ہو۔	مَتَبَدِّوَا - جس کا آخر اعراب قبول کرے۔
مَتَوَاوِزِی - آپس میں برابر ہونے والا۔	مَتَبَدِّوَا - پورا کرنے والا۔ جس کا داؤں جوئے میں اکثر ٹھیک پڑے۔
مَتَوَاوِزِی - بہت۔ کثیر۔	مَتَبَدِّوَا - سخت چھو آرا۔
مَتَوَاوِزِم - مناسب۔ لائق۔ موافق۔	مَتَبَدِّوَا - اونچی اور سخت زمیں۔ کم کا ایک کنارہ یا اس کے نیچے کا حصہ۔ سڑک یا راستہ کا بیچ حصہ۔ کتاب کی اصل عبارت۔
مَتَوَاوِج - کنویں وغیرہ میں سے پانی کھینچنے والا۔	مَتَبَدِّوَا - جہاں۔ جہاں۔ مَتَبَدِّوَا - مَتَبَدِّوَا (ن) بوک کو خستی کرنا۔ سخت کرنا مضبوط کرنا۔ قہر کھانا۔ کھینچنا۔ چلنا پھرنا۔
مَتَوَاوِجِدَا - یکتا۔ تنہا۔ اکیلا۔	مَتَبَدِّوَا - نرم۔ ناکرک۔ ملائم۔
مَتَوَاوِزِم - واضح وار۔	مَتَبَدِّوَا - رغبت کرنے والا۔
مَتَوَاوِزِم - کھلی ہوئی جگہ میں چلنے والا۔	مَتَبَدِّوَا - سخت اور اونچی زمین۔
مَتَوَاوِج - (فت) دن کا بہت بڑھ چھانا۔	مَتَبَدِّوَا - خردوار۔ آگاہ۔
مَتَوَاوِزِم - کروٹیں بدل کر رات گزارنے والا۔	
مَتَوَاوِج - لوگوں کے کلام کو جمع کرنے والا کتابت منظر۔	
مَتَوَاوِج - پورا پورا لینے والا۔ وفات دینا والا۔	
مَتَوَاوِج - بہت ہی آرزو کرنے والا۔	
مَتَوَاوِج - کھڑا ہوا۔ جم کر کام کرنے والا۔	
مَتَوَاوِج - بھر دوسرے کرنے والا۔	
مَتَوَاوِج - ہار پھرایا ہوا۔	

شکاری کا جال (ایک خاص قسم کا)  
 مُتَابَتَةٌ اچھی طرح پہچاننا۔ کسی کو اس کی اپنی  
 جگہ پر رہنے دینا۔  
 مُتَابِرَةٌ - ہمیشہ کسی کام میں لگے رہنا۔  
 مُتَابِعَةٌ - عورت کا بوسہ لینا۔  
 مُتَابِقَةٌ - زانو سے زانو ملا کر بیٹھنا۔ مدد کرنا۔  
 مُتَابِقٌ - کسی سے ہوشیاری اور استاذی میں  
 مقابلہ کرنا۔

مُتَابِقٌ - بہت سے متقال۔ وا:۔ مُتَقَالٌ  
 مِثَالٌ مانند۔ مثل۔ اندازہ۔ ڈھانچہ۔ گناہ کا  
 بدلہ۔ ج:۔ اَمْتَلَةٌ - مُثَلٌ -  
 مَثَالَةٌ - رک: عورت اور بزرگی میں زیادہ ہوتا  
 بزرگ ہونا۔ فضیلت۔

مُثَامَنَةٌ - قیمت لگانا۔  
 مَثَانَةٌ - وہ عضو جہاں پیشاب جمع رہتا ہے  
 رحم (بچہ دانی)

مَثَابِيٌّ - قرآن پاک۔ قرآن پاک کی وہ آیتیں جو  
 مکر رہیں یعنی کئی جگہ ہیں۔ وہ آیتیں  
 جن میں مقابلہ کے طور پر دو دو  
 چیزوں کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے  
 مثلاً ایمان و کفر۔ مومن و مشرک۔ جنت  
 دوزخ۔ وعدہ اور عذاب وغیرہ  
 السَّبْعُ الْمَثَابِيٌّ - الحمد شریف کہ اس کا نزول دو  
 مرتبہ ہوا ہے۔

مَثَاوِيٌّ - رہنے کی جگہیں۔ ٹھکانے۔ وا:۔ مَثْوَايُ  
 مَثَاهَاتٌ - بات چیت کرنا۔ قول و اقرار کرنا  
 مُثَبِّتٌ - بہت بھاری جو زمین سے اُٹھ نہ سکے  
 مُثَبِّتٌ - سخت بیماری کہ مرہض کو پلٹے مکتوبے  
 مُثَبِّجَةٌ - اُتو۔ عقاب۔

مَتَّه - پھپھا ہوا بھید۔ گمراہی۔  
 مَتَّه - (ت) کنویں میں سے ڈول سے پانی کھینچنا  
 مَتَّهَتَّكْ بے پردا جسے بے عورتی اور رسوائی کا  
 خیال نہ ہو۔

مَتَّهَرِّمٌ - گرج اور بجلی کی چمک والا ہادل  
 مَتَّهَشَّهَشَةٌ - اپنے خاندان سے محبت کرنے والی  
 عورت۔

مَتَّهَلِّمٌ - مغرور۔ گھمنڈی۔  
 مَتَّهَوِّكٌ - حیران پریشان کسی کام میں بے دھڑ  
 قدم رکھنے والا۔ گرہے میں گرنے والا  
 مَتَّهَيِّجٌ - ظلم اور سختی کرنے والا۔ برائیوں کی طرف  
 لپکنے والا۔

مَتَّيٌّ - کب لطف آجیب جس وقت (حرف  
 شرط)۔

مَتَّيِّمٌ - وہ آدمی جو نامناسب اور سچا کام کرتا ہو  
 اپنے آپ کو ہلاکت اور بلا میں ڈالنے والا۔  
 گھوڑا جو خوشی میں ٹٹکتا ہوا چلے۔

مَتَّيِّبَةٌ - قیمتی۔  
 مَتَّيِّخَةٌ - ہاتھ کی چھڑی۔ کھجور کی ٹہنی۔  
 مَتَّيِّعٌ - قے کرنے والا۔

مَتَّيِّمٌ - تا بعد از حکم ماننے والا۔ ذلیل۔ خوار  
 مَتَّيِّينٌ - ٹھوس۔ مضبوط۔ سخت۔

## م - ت

مَتَّ - (ت) مٹنا۔ کاٹ لینا۔ ہاتھ کا منہ ہاتھ  
 کو در مال سے پونچھنا۔ مونچھوں پر  
 تیل لگانا۔ زخم کی پیپ صاف کرنا۔  
 مَتَّابٌ - لوٹنے اور واپس آنے کی جگہ۔  
 مَتَّابَةٌ - منزل۔ کنویں کا بیچ۔ کنویں کی من۔

مَشِيد - مذبح - عورت یا اونٹنی کے بچھیننے کی جگہ  
جہ :- مَشَائِد -

مَثْبَنَة - عورتوں کے سامان سنگار کی تحصیل سنگھا  
دان - جہ :- مَثَائِن

مَثْبُومَة - قیدی - کمینہ - مارا ہوا - ہلاک شدہ -  
مَثَج - رن - کتوں کا پانی یا کیچڑ باہر نکالنا -  
ملا تانا - کھلانا -

مَثَج - خوب بولنے والا - اچھی تقریر کرنے والا -  
مُتَخَنَكَة - مونی عورت -

مَثَل - (ن) پھینا اور پھپ کر دشمن کو دکھانا -  
پہرہ دار بنانا -

مِثْرَاد - پتھر یا بٹری یا خراب اور کند دھار کا لوہا  
جس سے ذبح کریں - جہ :- مِثْرَائِد -

مُثْرِب - کم سخاوت کرنے والا -  
مِثْرَد - خرید (ایک قسم کا کھانا) بنانے کا برتن -  
جہ :- مِثْرَارِد -

(ارض) مَثْرُودَة - وہ زمین جس پر تھوڑی سی بارش  
ہوتی ہو -

مَثَط - (ن) کوئی چیز زمین میں گاڑنا -  
(وہ) مَثْعَل - گھاٹ جس پر بہت بھیڑ رہتی ہو

مَثْعُومَة - دانت بھرنا ہوا -  
مُثَقَاة - وہ عورت جس کے تین یا تین سے زیادہ  
شوہر رکھے ہوں -

مُثْفُون - پاس بیٹھنے والا -  
مِثْفِيَة - وہ مرد جس کی تین یا زیادہ بیویاں  
چکی ہوں -

مُثَقَال - بین قراط کا وزن (ایک قراط پانچ توکا  
ہوتا ہے) - جہ :- مَثَقَائِل -

مُثَقَال السِّي - کسی چیز کا ہم وزن -  
مُثَقَب - تہذیب یافتہ - (د)

مُثَقَب - تہذیب یافتہ - (د)  
مُثَقَلَة - پتھر کا فرش کھر بچا - بھاری عورت  
مُثَقَلَة - لدی ہوئی - گمگنا نفس :- مُثَقَل

مُثْكَال - عورت جس کا بچہ مر گیا ہو - جہ :- مَثَاكِل  
مِثْل - برابر - مانند - جہ :- اَمْثَال

مِثْل - قصہ بیان - دلیل - مانند - مثل - جہ :-  
اَمْثَال -

مِثْل - (ن) تشبیہ دینا خدمت میں  
کھڑے رہنا - زمین پر چھینا - اپنی جگہ سے  
گر پڑنا (ب) مشابہ ہونا -

مُثْبَلَة - ناک کان کا ٹٹا -  
مَثَلَة - سزا - عذاب کہ جس سے دوسرے لوگ  
عبرت پکڑیں - جہ :- مَثَلَات

مُثَلَّث - مکوڑہ - شراب جو پک کر ایک تہائی رہ گئی  
ہو - تین نقطوں یا تین حرکتوں والا -  
(حرف) تین ضلعوں والا -

مُثَلَّجَة - برف خانہ (د) - جہ :- مَثَالِج  
مُثَلَّوْت - مال جس میں سے تہائی لے یا گیا ہو تین  
بٹ کی رسی -

مُثَلَّوْتَة - وہ زمین جس میں تین یا ریل چلایا گیا ہو  
مُثَلَّوْج القَوَاد - کند ذہن - غبی -

(ارض) مَثَلَّوْجَة - جس زمین پر برف پڑا ہو  
مُثَلِّي - زیادہ عمدہ -

مُثَمَّنَة - جی کو تیل میں ترکرنا - پانی میں غوطہ دینا  
مُثَمِّج - کپڑوں پر طرح طرح کے نقش کرنے والا  
جہ :- مَثَمِّجَة

مُثَمِّم - پھل دار -



## م-ج

مَج - زرد معن (ن) تھوکنی - کلی کرنا۔  
 مَجاشاۃ - کسی کے گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹھنا۔  
 مَجاج - پیرھنا درخت جس کی شاخیں کٹی ہوئی ہوں  
 مَجاج - تھوک - کلی۔  
 مَجاج المخل - شہد۔  
 مَجاج العنق - شراب۔  
 مَجاج المذون - بارش۔  
 مَجاج - غرور کرنے والا بھند کرنے والا۔  
 مَجاحفۃ - برائی کرنا جمع ہونا کسی کو تکلیف دینا  
 ڈول کا کنویں کی دیوار سے ٹکرا کر پانی  
 کا جھلک جانا۔  
 مَجاداة - مانگنا - بخشش چاہنا۔  
 مَجاداة - کسی کام کی تحقیق اور چھان بین کرنا  
 مَجادعة - آپس میں کالم گلوچ کرنا - جھگڑانا۔  
 مَجادلة - باہم جھگڑنا۔  
 مَجادبة - لڑانا جھگڑانا کسی کو اس کی جگہ سے  
 ہٹانا - پھیر دینا۔  
 مَجاسا - اوٹ کا پاؤں باندھنے کی رسی۔  
 ج - مجد۔  
 مَجاراة - اکٹھے ہو کر چلنا - بحث مباحثہ کرنا  
 مَجاراة - آپس میں ایسا ہنسی مذاق کرنا جو کالم  
 گلوچ کے مشابہ ہو۔ یہودہ مذاق کرنا  
 مَجاسا - راستہ حقیقت کی ضد معن (ن)  
 جگہ سے گذر جانا۔  
 مَجازاة - بدلہ دینا۔  
 مَجازقة - شجیتہ اور انکل سے لیسنہ۔  
 مَجاساة - دشمنی کرنا۔

مَثَل - پناہ کی جگہ۔  
 مَثَل - ہلاک کرنے والا نذر۔  
 مَثَلہ - پانی ٹھہرنے کی جگہ۔  
 مَسَمَن - آٹھ سپلوؤں والا۔ زہر دیا ہو۔ بخار چڑھا  
 ہوا۔  
 مَسَمَنہ - توبرہ - جہ۔ مَسَامِن  
 مَسَمُوْد - گھاٹ وغیرہ کا پانی جو استعمال کی وجہ  
 سے کم ہو گیا ہو۔ وہ آدمی جو غیرات  
 کرتے کرتے خود غریب ہو گیا ہو۔  
 مَسَمُوْع - سست۔ لٹکا ہوا۔ ڈھملا۔  
 مَسَن - (س) قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی بیماری  
 میں مبتلا ہونا۔  
 مَسَن - (حق) کسی کے مشا پر مارنا۔  
 مَسَن - وہ آدمی جس کے مشا نہیں درد ہو۔  
 مَسَناء - وہ عورت جس کا پیشاب قطرہ قطرہ  
 ٹپکے - مذہب - آمتن جہ۔ مَسَن۔  
 مَسَناء - رسی - بالوں کی لٹ - جہ۔ مَسَنی  
 مَسَنی - دوہرا کپڑا عقل سے بندھا ہوا نوٹ  
 م - مَسَنیۃ۔  
 مَسَنی - دو - دو۔  
 مَسَنویۃ - لوشا - رجوع۔  
 مَسَنویۃ - مَسَنویۃ - بدلہ - پاداش۔  
 مَسَنول - (ن) خدمت میں کھڑا ہونا۔ زمین پونہ  
 مَسَنوی - ٹھکانا۔ - بچے کی جگہ - آنے کی  
 جگہ - جہ۔ مَسَنی  
 مَسَنوی - ٹھہرانے والا - آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم  
 کے نیزہ مبارک کا نام۔  
 مَسَنیل - برابر - مانند - بزرگ آدمی - فاضل  
 آدمی۔

مُجْتَبِ - گھوڑا جس کی ٹانگیں نیچے تک سفید ہوں  
مُجْتَبِوس - اپنے زمانہ کا معزز آدمی جس کا سب  
حکم مانتے ہوں۔

مُجْتَبِعِل - بیکرنے والا لینے والا۔

مُجْتَبِعِم - اکٹھا ہونے والا۔ بہت قوت والا

مُجْتَبِعِم - انجمن۔ سوسائٹی (د)

مُجْتَبِعِم الْعِلْمِ الْاَكْبَرِ - علمی انجمن (د)

مُجْتَبِعِد - کوشش کرنے والا۔ مسائل شرعیہ

کی علت میں غور کرتے کے بعد جرنی مسأله

کا حکم نکالنے والا۔

مُجْتَبِعَةٌ - پھاڑا۔

مُجْتَبِعِل - سیدھا کھڑا ہونے والا۔

مُجْتَبِعِ (س) خوش ہونا۔

مُجْتَبِعِي - جائے پناہ۔ چھپنے کی جگہ۔ ج۔ بجاؤ

مُجْتَبِعِد - بزرگی۔ بہادری۔ عزت۔ ارجمندی۔

مُجْتَبِعِد - موجود۔ (د) اونٹوں کا کسی عمدہ چراگاہ میں

داخل ہونا۔ اونٹوں کو بیٹ بھر کر کھلانا

مُجْتَبِعِد - فحاشی۔ (د) لک (بزرگ اور عزت

دار ہونا۔

مُجْتَبِعِد آف - کشتی کا چپو۔ پرندہ کا بازو۔ ج۔ بجاؤ

مُجْتَبِعِد - ستر گھونے کا چھو۔ چاندکی ایک منزل

داخل جو اونٹ کی ران پر لگا یا جاتا ہے

ج۔ بجاؤ

مُجْتَبِعِدَل - لوگوں کی جماعت۔ ج۔ بجاؤ

مُجْتَبِعِدَل - عمل۔ بہت جھگڑا آدمی۔ ج۔ بجاؤ

مُجْتَبِعِدَل -

مُجْتَبِعِدَل - عورت۔ مضبوط ذرہ۔

مُجْتَبِعِدَام - دوستی چھوڑنے والا۔ بہت کاٹنے والا

مُجْتَبِعِدَام - بچہ والی۔

مَجَاع - آٹے کا پتلا حریرہ۔

مَجَاعَةٌ - جفوع۔ (د) بھوکا ہونا۔

مَجَاعَةٌ - (لک) نڈر ہونا۔

مَجَاعَةٌ - ٹکڑا دینا۔

مَجَاعَةٌ - ایک جگہ سے کوئی چیز اٹھا کر اور دُور

رکھ دینا۔

مَجَال - جو لنگاہ۔ میدان۔ طاقت۔ قدرت

مَجَالٌ - آپس میں دشمنی کرتا۔ دشمنی ظاہر کرنا۔ بزرگی

مَجَالٌ - میں مقابلہ کرتا۔ آٹے سامنے ہو کر لڑنا

مَجَالَةٌ - ایک دوسرے کو تلوار سے مارتا۔ آپس

میں تلوار چلانا۔

مَجَالِس - ہمنشیں پاس بیٹھنے والا۔

مَجَالِس - مجلسیں۔ وا۔ مجلس

مَجَالِسَةٌ - پاس اٹھنا بیٹھنا۔

مَجَامِد - ہمسایہ جس کی دیوار تمھاری دیوار سے

ملی ہوئی ہو۔

مَجَامِعَةٌ - عورت سے صحبت کرنا۔ مل کر کوئی کام کرنا

مَجَامِعَةٌ - آپس میں اچھا بڑا کرنا۔

مَجَان - بے قیمت۔ مفت۔ جہیز پر بھی زیادہ ہو

مَجَانِس - مشابہ۔ ہم جنس۔

مَجَادَاة - اونٹوں کو پانی کی طرف بلانا۔

مَجَاوِرَةٌ - کسی کے پڑوس میں رہنا کسی کی پناہ

مَجَاوِرَةٌ - میں آنا۔ مسجد میں اعتکاف کے لئے بیٹھنا۔

مَجَاوِرَةٌ - کسی جگہ سے گزر جانا۔ گناہ معاف کر دینا

مَجَاهِد - جہاد کرنے والا۔

مَجَاهِدَةٌ - اللہ کے راستہ میں اللہ کے دشمنوں

سے لڑنا۔

مَجَاهِدَةٌ - آواز سے پڑھنا۔ گالی دینا۔ دشمنی کرنا

مَجَاهِدَةٌ - مقال اور سامنے ہو کر لڑنا۔

مَجْدَار - چھوٹے قدار مضبوط ہاتھ پاؤں کا آدمی  
 وہ اونٹ جس کی ہڈیوں اور جوڑوں پر  
 خوب گوشت ہو۔  
 مَجْدَاوَد - کاٹا ہوا۔  
 مَجْدَاوَف - پاؤں کا ہوا۔  
 مَجْدَاوَر - جذام کا بیمار۔ کورھی۔  
 مَجْجَس - بڑی فوج۔ اونٹ یا بکری کے پیٹ کا  
 بچہ عقل۔ بیاج (ص) اونٹ یا  
 بکری کے پیٹ کا بچہ خریدنا۔ شرط لگا کر  
 کھیلنا لگے کھیت کو بیچنا۔ درخت پر  
 لگے ہوئے پھواروں کو خشک پھواروں  
 کے بدلے میں تخمیز سے بیچنا۔  
 مَجْدَر - (س) پیٹ کا پانی سے بھر جانا۔ بچہ کا  
 بکری کے پیٹ میں بڑا ہونا۔  
 مَجْرَب - تجربہ کار آدمی۔ شیر۔  
 مَجْرَبَة - ستاروں کی ڈبیر (ککشیاں کا راستہ)  
 مَجْرَد - تجربہ کار آدمی۔  
 مَجْرَد - ٹوٹے برس۔ دانت کا برس (د)  
 مَجْرَتَف - جس کا تمام مال زمانہ کی سختی سے برباد  
 ہو گیا ہو۔  
 مَجْرَفَة - پیچو۔ بھاڑا۔  
 مَجْجَم - گنہگار۔ خطا کار۔  
 مَجْرَن - اناج جمع کرنے کی جگہ۔ کھلیان۔ جہ۔  
 مَجْرَان -  
 مَجْرَمِي - (مصدیقی) ہانکن۔ ہماری کرتا۔  
 مَجْرَمِي - راستہ اصطلاح عروض میں رومی کی  
 حرکت کو مَجْرَمِي کہتے ہیں۔ جہ۔ مَجْرَمِي  
 مَجْرَمِي - درانتی۔ بال کاٹنے کی مینچی۔  
 مَجْرَمَع - بڑا بے صبرا۔

مَجْرَب - نیک خصلت اور نیک چلن آدمی۔  
 مَجْرَقَة - مچھلی کا جال۔  
 مَجْرَسَة - سہجے کے قریب نبض دیکھنے کی جگہ۔  
 مَجْرَسَد - تنگ اور چست کپڑا۔  
 مَجْرَسَد - سرخ۔ لال۔ جہ۔ مَجْرَسِيد -  
 مَجْرَسِيمَة - اسپنجو۔ مجسمہ (د)  
 مَجْرَسِي - چھوٹی کھل جو ہاتھ سے پھمائی جاتی ہے۔  
 مَجْرَسَب - بڑے ڈل ڈول کا اور سہادر آدمی۔  
 مَجْرَسُوَر - اونٹ جسے خشک کھانسی ہو گئی ہو۔  
 مَجْرَسُوْرَة - بہت کام کرنے والی اور خوش و خرم عورت  
 مَجْرَح - (ک) بے وقوف ہونا (ف) پھوارے  
 دودھ کے ساتھ کھانا۔  
 مَجْرَح - بے وقوف آدمی کو جو بیٹھ کر اٹھانا چاہے  
 مَجْرَحَة - بے وقوف اور جاہل عورت  
 مَجْرَحَة - مَجْرَحَة - بے شرم عورت  
 مَجْرَحِي - چوڑی کمر کا کھوڑا۔ م۔ مَجْرَحِي کا  
 مَجْل - آبل۔  
 مَجْل - مَجْلُول - (ن) زیادہ کام کرنے کی وجہ  
 ہاتھوں میں گھٹھے (ٹھینٹ) پر پڑ جانا  
 مَجْلَبَه - کسی چیز کے ٹھینچنے کا سبب۔ جہ۔  
 مَجْلَب -  
 مَجْلَبَه - چنے چلانے اور بیودہ کینے والی عورت  
 مَجْلَبَة - چھوٹا سا آبل۔ جہ۔ مَجْلَال -  
 مَجْلَه - رسالہ۔ میگزین۔ جہ۔ مَجْلَلَات -  
 مَجْلِد - جلد باندھنے والا۔  
 مَجْلِس - بیٹھنے کی جگہ (د) عدالت۔ بکری مشورہ  
 گاہ۔ کیٹی۔ جہ۔ مَجْلِس -  
 مَجْلِسُ الْعِمْيَانِ اوس آف لارڈز، دارالامرا (د)  
 مَجْلِسُ التَّوْبِيحِي - مجلس واضح قوانین (د)

مَجُون - دیوانہ - پاگل - جہ - مجانبین -  
 مَجُونَة - مجور کا میا درخت -  
 مَجَوَاد - عمدہ شاعر - اچھے شعر کہنے والا - جہ -  
 مجا وید -  
 مَجَوَب - ڈھال - پھری - قینچی -  
 مَجَوْبَة - جواب -  
 مَجْوُوح - ہر چیز کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے اور خراب کرنے والا -  
 مَجْوُود - پیاسا - ہلاکت کے قریب -  
 مَجْوُوس - جائزہ و رد رکھنے والا -  
 مَجْجُوسِی - آتش پرست - جہ - مَجْجُوس  
 مَجْجُوف - کھوکھلا - وہ چوہ پایہ جو پیٹھ تک  
 حیت کھرا ہو - بے عقل آدمی -  
 مَجْجُول - انجھا - ڈھال - پازیب -  
 مَجْجُون - مَجَانَة - مَجْن - (ن) استخار اور  
 بے شرم ہونا -  
 مَجْجَسَاس - آلہ بجا الصوت - لاؤڈ اسپیکر (د)  
 مَجْجَسَاس - خوردبین (د)  
 رَاذِن (مَجْجَهَل - پھیل میدان میں راہ یابی کے  
 نشانات کھینچنا ہوں -  
 مَجْجَهَلَة - وہ چیز جو جہالت پر آمادہ کرے  
 مَجْجُهُود - طاقت - استطاعت -  
 مَجْجَتِیَاء - کمزور آدمی جو قبل صحبت منزل  
 ہو جائے -  
 مَجْجِیْب - جواب دینے والا - قبول کرنے والا -  
 مَجْجِیْد - شریف - بزرگ - بڑے مرتبہ والا -  
 بہادر - جوان -  
 مَجْجِیْدِی - ایک ترکی نقری سکہ مسادی  
 مَجْجِیْدِیَہ - ترکی پونڈ مسادی

مَجْلِسُ الشُّورَى - پریوی کونسل (د)  
 مَجْلِسُ الْعُیُوم - دارالعلوم (د)  
 مَجْلِسُ النُّظَار - مجلس و نرسار (د)  
 مَجْلِیْل - ابرجوساری زمین کو گھیرے -  
 مَجْلُودُ السَّیْرَى - بکی عقل والا آدمی، ہوشیار  
 مَجْلُوف - کھال اتارا ہوا -  
 مَجْلُوم - سرمنڈا ہوا -  
 مَجْلُودَة - بے پردہ گھر -  
 مَجْلَى - جس کے سر کے اگلے حصہ کے بال گر گئے  
 ہوں - جہ - مَجْلَى -  
 مَجْلِیْن - ہنستے وقت جس کے دانت کھل جائیں -  
 مَجْمَم سینه -  
 مَجْمَعَة - خبر کو صاف صاف بیان نہ کرنا - کتاب کو  
 بے نقطوں اور بے اعراب لکھنا - ایک  
 حال سے دوسرے حال کی طرف پھیرنا -  
 مَجْمَعَة - مَجْمَعَة - انگیٹھی -  
 مَجْمَس - عود سلگانے والا -  
 مَجْمِن - تیز رو اونٹنی کا سوار -  
 مَجْمَع - اکٹھے ہونے کی جگہ - جہ - مَجْمُوح -  
 رَاذِن (مَجْمَعَة - وہ زمین جہاں پر قوم جمع ہو -  
 مَجْمُوع - اکٹھا کیا ہوا (د) فائل اخبارات کا -  
 مَجْمُوع - پرتلہ - ڈھال - جہ - مَجْمُوع -  
 مَجْمُوب - پردہ - ڈھال - پہلو - عجم (فارس) کی زمین  
 کا کنارہ جو عرب کی زمین سے ملا ہوا ہو -  
 مَجْمُوب - وہ اونٹ جو سواری کے پہلو پہ پہلو لٹکایا  
 جائے -  
 مَجْمُوبَة - فرج کے دستہ کا اقل حصہ - مقدمہ لکھیں  
 مَجْمُوف - حق بات سے طبعاً پھرنے والا -  
 مَجْمُوب - پسلی کے درد کا بیمار -

مَحَادَرَة - آپس میں بیہودہ سنبھلی مذاق کرنا۔  
 مَحَادَف - بد قسمت۔  
 مَحَارِب - محرابیں۔ واہ۔ و مَحَابِ  
 مَحَادَرَة - زخم میں سناٹی ڈال کر گمراہی معلوم کرنا  
 برائی کے ساتھ بدلہ دینا۔  
 مَحَارِم - اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوتی چیزیں۔  
 ممنوعات۔

مَحَارِمُ اللَّيْلِ - رات کے ڈر اور دوسرے، جو  
 ڈر پوک آدمی کو چیلنے سے روکتی ہیں۔  
 مَحَاسِب - کنٹرولر۔ اکاؤنٹنٹ۔ (د)  
 مَحَاسِبَة - حساب کرنا۔ جا پرخ پر طال کرنا۔  
 مَحَاسِن - خوبیاں نیکیاں۔ واہ۔ حَسَن  
 بدن میں اچھی جگہیں۔ وہ۔ حَسَن  
 مَحَاش - گھر کا سامان۔ پونجی۔  
 مَحَاص - بجلی۔ سراب۔ وہ جھلجھل جس میں راستہ  
 مشکل سے طے ہو۔

مَحَاصَة - آپس میں حصّہ حصّہ کر لینا۔ بانٹ لینا۔  
 مَحَاصِرَة - کسی کو لڑائی میں کھیر لینا۔  
 مَحَاصِرَة - ایک دوسرے کو بھوکا کرنا۔  
 مَحَاصِر - لکچرار۔ مقرر (د)  
 مَحَاصِرَة - آپس میں سوال و جواب کرنا۔ مدعا علیہ  
 کو ساتھ لے کر حاکم کے پاس جانا۔ نزدیکی  
 کسی کا حق چھین لینا (د) لکچر۔

مَحَافِظ - گورنر حاکم (د)  
 مَحَافِظَة - کوئی کام پابندی کے ساتھ کرنا جتنا  
 کرنا۔ بری چیزوں سے روکنا۔  
 مَحَافِقَة - کسی سے بھگڑنا اور اپنے حق کا دعو  
 کرنا۔  
 مَحَاقِل - کسان کھیتی کرنے والا۔

مَجِيْد - اچھے شعر کہنے والا۔ تیز گھوڑے کا مالک  
 حاضر۔  
 مَجِيْز - ولی۔ سرپرست۔ تیمم کی نگرانی کرنے والا۔  
 غلام جسے تجارت کرنے کی اجازت  
 ہو۔  
 مَجْذُوْف - بھوکا۔ ڈرنے والا۔

م - ح

مَح - پرانا کپڑا  
 مَح - مَحَح - مَحُوْح - (ن) کپڑے کا پرانا ہونا۔  
 مَحَابِرَة - مدد کرنا۔ بے بدلہ اور بغیر احسان کے  
 کچھ دینا۔ کسی کی طرف ذاری کرنا۔ معاف کرنا  
 مَحَابِرَة - بند کرنا۔  
 مَحَابِرَة - ایک دوسرے سے پہیلی پوچھنا۔  
 مَحَاج - مَحَابِرَة - قرع کو دیر تک ادا نہ کرنا۔  
 مَحَابِرَة - دلیل لانا اور بھگڑا کرنا۔  
 مَحَابِرَة - مقابلہ کرنا۔ دشمن کو دد کرنا اور اپنی حق  
 کرنا۔

مَحَاح - بھوک۔  
 مَحَاح - خوب بھوٹ بولنے والا۔ ہاتھ بنا کر دل  
 خوش کرنے والا۔  
 مَحَادَرَة - بات چیت کرنا۔ تلوار کو چمکانا۔ تلوار  
 پر آب رکھنا۔

مَحَادَلَة - کشتی لڑنا۔  
 مَحَادَاَة - سامنے آنا۔ مقابل ہونا۔  
 مَحَادَرَة - ایک دوسرے کو ڈراتا۔ دھمکانا۔  
 مَحَارَة - لوٹ کر آنے کی جگہ۔ سیپ۔ سیپ کی  
 طرح سفید بڑی۔ خط۔ کنارہ چھپانے  
 کا قدم۔ جر۔ مَحَادَات

مَحَاوِلَة - برائی پر کھینچی کرنا۔ کچھ کھیت کو بیج ڈالنا۔	مَحَاوِلَة - ایک طرف ہونا۔ یکسو ہونا۔
مَحَاوِلَة - مثل ہونا۔ مانند ہونا۔ کسی کے قول یا فعل کی حکایت کرنا۔	مَحَاوِلَة - ربط حرف ثنائی کے (د)
مَحَاوِلَة - برابری کرنا۔ ایک دوسرے کے پہلو میں گھسنا۔	مَحَاوِلَة - محبت کرنے والا یا کرنے والی (مذکر و مؤنث) تنگکا ہوا اونٹ۔
مَحَاوِلَة - کسی کے پاس جانا اور اس پر بھر دوسہ کرنا۔	مَحَاوِلَة - مدینہ منورہ۔
مَحَاوِلَة - کنویں کی بڑی چرخ۔ ایک قسم کا زیور۔	مَحَاوِلَة - دوستی۔
مَحَاوِلَة - ناممکن۔	مَحَاوِلَة - دوات۔ جہ۔ مَحَاوِلَة
مَحَاوِلَة - باہم زور کرنا۔ باہم دشمنی کرنا	مَحَاوِلَة - قید خانہ۔ جہ۔ مَحَاوِلَة
باہم ملکر کرنا۔ فریب سے کسی چیز کی جستجو کرنا۔ تدبیر کرنا۔	مَحَاوِلَة - غلاف۔ پتنگ پوش خوبصورت پردہ
مَحَاوِلَة - کنویں کی بڑی چرخ۔ بڑے ڈول کی گھرنی۔ جہ۔ مَحَاوِلَة	مَحَاوِلَة - شعور بہت گھونگر یا بے باول والی۔
مَحَاوِلَة - کسی کے ساتھ اترنا۔ ایک ہی پڑاؤ پر ٹھہرنا۔	مَحَاوِلَة - خوب مضبوط بنی ہوئی چادر۔
مَحَاوِلَة - کسی کے ساتھ عہد کرنا۔ کسی سے جہانہ ہونا۔	مَحَاوِلَة - رحم۔ سجدہ دان۔ رحم کا منہ۔ جہ۔ مَحَاوِلَة
مَحَاوِلَة - ممان کی اچھی طرح خاطر کرنا۔ دیکھنا	مَحَاوِلَة - مضبوط بدن کا گھوڑا۔ اچھا بنا ہوا کپڑا۔ جہ۔ مَحَاوِلَة
مَحَاوِلَة - کسی کی تکلیف دور کرنا۔	مَحَاوِلَة - ہر سخت چیز۔ گرم دن۔ ہر شیا روچھانا
مَحَاوِلَة - کسی کو دوسروں سے بے وقوف بنوانا	مَحَاوِلَة - آدمی۔ جہ۔ مَحَاوِلَة
مَحَاوِلَة - وکیل۔ ہر سطر (د)	مَحَاوِلَة - جال میں پھنسا ہوا شکار۔
مَحَاوِلَة - گناہ کی جگہیں۔ واہ۔ مَحَاوِلَة	مَحَاوِلَة - پھینے والا۔ پرشیدہ۔
مَحَاوِلَة - دھوکہ دینا۔	مَحَاوِلَة - کوئی پیشہ کرنے والا۔
مَحَاوِلَة - ایک دوسرے کا جواب دینا۔ بات چیت کرنا۔	مَحَاوِلَة - پنجسیدہ۔ نمکین۔
مَحَاوِلَة - چوری چھپے دیکھنا۔ نکھیلوں سے دیکھنا	مَحَاوِلَة - ایسا کہ اسلامی کا نگران عمر دار
مَحَاوِلَة - ارادہ کرنا۔ تیز نگاہوں سے دیکھنا	مَحَاوِلَة - عودت والا آدمی۔ محترم۔
مَحَاوِلَة - بہت سے حاجت مند۔ واہ۔	مَحَاوِلَة - وہ آدمی جو ہرنے کے قریب ہو۔ پاگل حاضر ہونے کی جگہ۔
	مَحَاوِلَة - شہر میں آنے والا۔
	مَحَاوِلَة - گود۔ آغوش۔
	مَحَاوِلَة - باڈنگلنے والا۔ احاطہ بنانے والا۔

مَحْتَبُوف - دور کیا ہوا۔ شراب کا برتن عروص کی اصطلاح میں وہ کلمہ جس میں سے سبب خفیف گرا دیا گیا ہو۔

مَحْتَبُوفُ الدَّائِبِ - دم کن۔

مَحْتَبُوفٌ اب - بالآخر مجلس یا بیٹھک میں سب سے اچھی جگہ مسعد میں امام کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ پادشاہوں کے بیٹھنے کی جگہ۔ رطاکا اور بہادر آدمی۔ ج۔ :-

مَحْتَبُوفٌ اب -

رَبِیْعَةٌ (مَحْتَبُوفٌ اب - بہت سردرات۔

مَحْتَبُوفٌ اب - زخم میں ڈالنے کی سلائی جس سے گہرائی معلوم ہو جائے۔

مَحْتَبُوفٌ اب - شہد۔

مَحْتَبُوفٌ اب - شہینہ۔

مَحْتَبُوفٌ اب - مضمون نگار۔ (ادبیٹر۔ (د)

مَحْتَبُوفٌ اب - آزاد کیا ہوا۔

مَحْتَبُوفٌ اب - قید اور تکلیف میں رہا ہوا۔

مَحْتَبُوفٌ اب - محبت اور غم میں گھلا ہوا۔ زمین پر پڑا ہوا چھوٹا ٹھنڈے۔

مَحْتَبُوفٌ اب - (ماء) مَحْتَبُوفٌ اب - گرم پانی۔ آگ پر پکایا ہوا پانی۔

مَحْتَبُوفٌ اب - ریتی جو لوہا ٹھنڈے کے کام آتی ہے۔

مَحْتَبُوفٌ اب - گردن کی جڑ۔ ج۔ :- مَحْتَبُوفٌ اب -

مَحْتَبُوفٌ اب - نامناسب۔ حرام۔ ج۔ :- مَحْتَبُوفٌ اب -

مَحْتَبُوفٌ اب - صلح کرنے والا جو اپنے گھر کے قریب ہی رہے۔ احوام باندھنے والا۔

مَحْتَبُوفٌ اب - حرمت والا۔ عربی مہینوں میں سے پہلا مہینہ۔ کعبہ اور مکہ کا ارد گرد۔

مَحْتَبُوفٌ اب - حرام کی ہوئی۔

مَحْتَبُوفٌ اب - کی عقل والا۔ تجربہ کار آدمی۔

مَحْتَبُوفٌ اب - ٹھوٹا ہونا۔ ذہنی ہلنا۔ صحبت کرنا۔

مَحْتَبُوفٌ اب - زخم کی سلائی۔

مَحْتَبُوفٌ اب - بیچ راستہ۔

مَحْتَبُوفٌ اب - باغ۔ آٹھ کا پتوا۔ ج۔ :- مَحْتَبُوفٌ اب -

مَحْتَبُوفٌ اب - قرظینہ خانہ (د)

مَحْتَبُوفٌ اب - وہ گھوڑا جس کے چاروں ہاتھ پاؤں سفید ہوں۔

مَحْتَبُوفٌ اب - حجامت کا شیشہ۔ سینگی نشتر۔

مَحْتَبُوفٌ اب - وہ جگہ جہاں سنگی لگائی جاتی ہے

مَحْتَبُوفٌ اب - ج۔ :- مَحْتَبُوفٌ اب -

مَحْتَبُوفٌ اب - پیر بھی لکڑی۔ ہر لکڑی جس کا سر ٹھٹھا ہو جو گان۔ اسٹک وغیرہ۔ ج۔ :-

مَحْتَبُوفٌ اب - مَحْتَبُوفٌ اب -

مَحْتَبُوفٌ اب - نابینا۔ اندھا۔ روکا ہوا۔ محروم۔

مَحْتَبُوفٌ اب - روکا ہوا۔ ممنوع۔

مَحْتَبُوفٌ اب - وہ آدمی جس نے سنگی لگوائی ہو۔

مَحْتَبُوفٌ اب - تدبیر۔ چارہ۔

مَحْتَبُوفٌ اب - وہ آدمی جس کا گمان سچا ہو۔

مَحْتَبُوفٌ اب - نئی اور انوکھی چیز۔

مَحْتَبُوفٌ اب - نئی اور انوکھی چیز۔ بدعت۔ ج۔ :-

مَحْتَبُوفٌ اب - پکنا۔ بنا ہوا۔ کوڑا۔

مَحْتَبُوفٌ اب - رولر۔ (د)

مَحْتَبُوفٌ اب - گھوڑے۔ گدھے۔ بکری وغیرہ کا ٹم۔

مَحْتَبُوفٌ اب - بھرا ہوا برتن۔

مَحْتَبُوفٌ اب - وہ چیز جس سے بچا جائے۔

مَحْتَبُوفٌ اب - ڈر۔ خوف۔ ہلا۔ ہر وہ چیز جس سے بچا جائے۔

مَحْتَبُوفٌ اب -

مَحْتَبُوفٌ اب -

مَحْتَبُوفٌ اب -

مَحْتَبُوفٌ اب -

مَحْتَبُوفٌ اب -

مَحْسُوس - دریا فت کیا ہوا جو چہرہ جان لی گئی ہو۔  
مَحْسُوس - بے کار چیز۔

مَحِش - لوہا - لوہے کا اوزار جس سے آگ کریا  
جائے ہو ٹاکمبل - وہ زمین جس میں

کثرت سے گھاس ہو - کوڑی بھر پیا۔  
مَحِش - جلن حص (فت) آگ کا کھال کو چھلانا

صحبت کرنا - بہت کھانا - چھکا  
اتارنا - گوشت سے کھال علیحدہ کرنا

زخمی کرنا۔  
مَحِش - پیٹ میں کھانا کھانے کی جگہ (معدہ)

انزوی وغیرہ - جہ - مَحِش

مَحِش - لوہے کی کپڑی۔  
مَحِش - جمع ہونے کی جگہ - قیامت کا دن - جہ -

مَحِش - وہ آدمی جس کا لوگ حکم مانیں اور اس کی  
خدمت میں دوڑ کر آئیں۔

مَحِش - اکھٹی کی ہوئی۔  
مَحِش - چھوٹا نیکہ جسے عورتیں چھاتیوں یا چوڑ

پر ہاندھ لیتی ہیں تاکہ بھاری معلوم  
ہوں - جہ - مَحِش

مَحِص - مضبوط اور قوی بدن کا گھوڑا۔  
(فت) سونے کو گلا کر صاف کرنا - ہرن

کا دوڑنا - ذبح کئے ہوئے کا زمین پر  
ہاتھ پائوں مارنا - ریت یا بجلی کا چمکانا -

چلتے ہیں کوشش کرنا - بھاگ  
جانا۔

مَحِص - درانتی - جہ - مَحِص -  
مَحِص - سکی ہوئی تیار خشک کھیتی جو ابھی کاٹی

نہ گئی ہو - مضبوط بٹی ہوئی رسی۔

مَحَارِم - وہ عورتیں جن سے نکاح جائز نہیں یا  
ہیں وغیرہ - وا - مَحَام

مَحَام - جس چیز کا توڑنا درست نہیں حرمت  
ہے - مَحَامات - مَحَام

مَحَان - ڈھسنے کی گمان - جہ - مَحَان  
مَحَان - جو غصے میں گرم ہو گیا ہو۔

مَحَان - حفاظت کیا ہوا۔  
مَحَان - جس کا کوہ اتر گیا ہو - کباب کی سیرج -

مَحَان - تیز تلوار۔  
مَحَان - بھلائی سے روکا ہوا جس کا مال نہ بڑھے

بے نصیب جو کمائی نہ کر سکے۔  
مَحَان - مَحَان (ن) جماع کرنا - سینہ پر گھونسا مارنا

مَحَان - سخت اور کڑی گفتگو کرنے والا۔  
مَحَان - وہ چیز جس سے کچھ باندھا جائے

جہ - مَحَان -  
مَحَان - رنجیدہ - ٹمگین۔

مَحَان - (فت) کھال کو ہاتھ سے مل کر چمکانا۔  
صاف کرنا - میل وغیرہ دور کرنا۔

مَحَان - بہت نیکی کرنے والا - بھلائی اور احسان  
کرنے والا۔

مَحَان - (جہ) جاننا - خیال کرنا - گمان کرنا۔  
انگل کرنا۔

مَحَان - چھوٹا نیکہ - جہ - مَحَان -  
مَحَان - جھاڑو - جہ - مَحَان -

مَحَان - خوبصورت - اچھا عمدہ۔  
مَحَان - نیکی کرنے والا - احسان کرنے والا۔

وا - مَحَان -  
مَحَان - چنھی انکھوں والا - ٹھکا ہوا پھپھانے

والا۔



رَقَسَ (رقس) مَحْصَفَ - مَحْصَافَ - تیز دوڑنے والا  
 گھوڑا جو کنگریوں کو سم سے اڑاتا ہو چلے  
 مَحْصِلَةٌ - عورت جو سونے کی تلاش میں "کان" کی  
 خاک جدا کرے -  
 مَحْصَمَةٌ - لوہاروں کا ہتھوڑا - جم: - مَحْصَمٌ -  
 مَحْصُولٌ - پیداوار - (د)  
 مَحْصَنٌ - قفل - جھولی - جم: - مَحَاصِنٌ -  
 مَحْصَنَةٌ - شوہر والی عورت -  
 مَحْصَنَةٌ - مضبوط بگھری ہوئی -  
 مَحْصُودٌ - کٹی ہوئی کھیتی -  
 مَحْضَنٌ - خالص دودھ - بہر خالص چیز جس میں  
 کسی قسم کی آمیزش نہ ہو - جم: - مَحْضَنٌ  
 مص (د) کسی کو خالص دودھ پلانا -  
 سچی - بے غرض اور خالص دوستی کرنا -  
 مَحْضَانِجٌ - دھویوں کا پڑا جس پر دھوتے وقت  
 کپڑوں کو پیٹتے ہیں - جم: - مَحْضَانِجٌ  
 مَحْضَرٌ - حاضر کیا ہوا - سامنے لایا ہوا -  
 مَحْضَرٌ - نزدیکی - دربار - حضور حاضر ہونے کی  
 جگہ - پانی کلکٹاٹ - دستاویز - وہ لوگ  
 جو موجود ہوں - جم: - مَحْضَرٌ -  
 (شاعر) مَحْضُومٌ - وہ شاعر جس نے جاہلیت کا  
 زمانہ اور اسلام کا زمانہ دونوں پائے ہیں  
 مَحْضٌ - ناک کا پانی - (ریشٹ)  
 مَحْضٌ - منزل - ٹھہرنے کی جگہ -  
 مَحْضَةٌ - ریلوے اسٹیشن (د)  
 مَحْضَةٌ إِلَّا ذَا آتَةٍ بَرَاؤُكَ اسْتِشْنٌ (د)  
 مَحْضٌ - روڈ - رپورٹ - کارروائی جلسہ  
 (د)  
 مَحْضٌ - حرام - وہ چیز جو ایک کے لئے تو ہو دوسرے

کے لئے نہ ہو -  
 مَحْضُوطٌ - مال دار - نصیبہ ور -  
 مَحْصَلَةٌ - عورتوں کی ایک قسم کی سواری جس میں قبر  
 نہیں ہوتا - ڈولہ - جم: - مَحْصَلَاتٌ  
 مَحْضِلٌ - آخوردہ برتن یا وہ جگہ جہاں چوپایہ کو  
 چارہ کھلا یا جاتا ہے - مکان و دیوار  
 وغیرہ کے بیل بوٹے - جم: - مَحْضِلٌ  
 مَحْضَلٌ - نوٹ یک - (د)  
 مَحْضِلٌ - لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ - جم: -  
 مَحْضِلٌ -  
 مَحْضُوطٌ - حفاظت کیا ہوا -  
 مَحْضٌ - (ف) مٹانا - صاف کرنا - گھٹانا کسی چیز  
 کی برکت دور کر دینا بھلس دینا -  
 مَحْضَانٌ - بروزن مفعال پیشاب کو روکنے والا  
 بہت پیشاب کرنے والا -  
 مَحْضِقٌ - پکی بات - وہ چیز جس میں کچھ شک و شبہ نہ  
 ہو - مضبوط کپڑا  
 مَحْضِلٌ - مَحْضَلَةٌ - کھیت - جم: - مَحْضِلٌ  
 مَحْضُوقٌ - لائق - مناسب - سزاوار -  
 مَحْضِفٌ - گھسنے کا آلہ کسوٹی جھکڑا لو -  
 مَحْضٌ - (ف) جھکڑا کرنا -  
 مَحْضِمٌ - تجربہ کار بوڑھا - فیصلہ اور انصاف  
 کرنے والا -  
 مَحْضِمٌ - وہ آدمی جسے بزرگ مشیر کفر اختیار کرنے  
 پر مجبور کیا جائے اور وہ اسلام کے لئے  
 قتل ہوتا قبول کرے -  
 (آیات) مَحْضَمَاتٌ - وہ آیتیں جن کے معنی اور  
 مراد صاف ظاہر ہیں - اور ان کی تاویل  
 کرنے کی ضرورت نہیں - واہ - مَحْضَمَةٌ

ج ۱۔ مَحَلِّب  
 مَحَلَّة - اوترنے کی جگہ اور وقت۔ رہنے کی جگہ  
 کسی شہر یا قصبے کے الگ الگ حصے  
 سرانے۔ ج ۱۔ مَحَلَّات  
 مَحَلِّق - استرہ۔ موٹا میل۔ ج ۱۔ مَحَلِّق  
 مَحَلِّق - سر منڈانے والا۔  
 مَحَلِّل - بائز عورت کو نکاح میں لاکر طلاق دینے  
 کے بعد پہلے شوہر کے لئے حلال کرنے  
 والا۔  
 مَحَلُّوج - بنوں سے صاف کی ہوئی کپاس یعنی  
 بدنی۔  
 مَحَلُّوف - مَحَلُّوفَة قِیمِ مِص (منق) قسم کھانا۔  
 مَحَلُّی - سجایا ہوا۔ زبور پہنایا ہوا۔  
 مَحْمَد - بہت تعریف کیا ہوا۔ رسولِ خدا صلی  
 اللہ علیہ وسلم کا نام نامی۔  
 مَحْمَد - حَمْد - مَحْمَد - مَحْمَدَاة (مَحْمَدَاة) میں  
 تعریف کرنا۔ شکر کرنا۔ حق ادا کرنا۔  
 راضی ہونا۔ خوش ہونا۔  
 مَحْمَدَاة - تعریف۔ ستائش۔ ج ۱۔ مَحْمَدَاة  
 مَحْمَس - بوجھ اٹھانے والا گھوڑا۔ لوہے کا کوئی  
 اوزار جس سے کھال یا بال اتارے  
 جائیں بچیل کیمینہ۔ ج ۱۔ مَحْمَس  
 مَحْمَقَات - وہ راتیں جن میں ساری رات چاند نکلا رہے  
 اور کبھی ابر کی وجہ سے یہ دھوکہ ہونے  
 لگے کہ برج ہو چکی۔ واہ۔ مَحْمَقَة  
 مَحْمِل - کجاوہ (جو اونٹوں پر رکھا جاتا ہے)۔  
 انگوروں کا تھیلا۔ ج ۱۔ مَحْمِل  
 مَحْمَل - تلوار کا پرتلہ۔ درخت کا چھلکا۔ ج ۱۔  
 مَحْمَل

مَحْمَلَة - پگھری۔ عدالت۔ ج ۱۔ مَحْمَلَة  
 مَحْمَلَة الْاِسْتِیْنَات - اپیل کورٹ (د)  
 مَحْمَلَة الْبِدَايَة - ابتدائی عدالت (د)  
 مَحْمَلَة الْاِحْضَاء - عدالت دیوانی (د)  
 مَحْمَلَة الْجِنَايَات - عدالت فوج داری (د)  
 مَحْمَلَة الْعَالِيَة - اہلی کورٹ (د)  
 مَحْمَلَة - وہ سورت جو منسوخ نہ ہوئی ہو۔  
 مَحْمَلَة - خوارج ایک قوم جس نے حضرت علی اور  
 حضرت معاویہ دونوں کی مخالفت کی۔  
 مَحْمَل - اوترنے کی جگہ۔ دوکان۔ تجارتی کوٹھی  
 ج ۱۔ مَحْمَل - مَحْمَلُ الدَّيْن - فرض  
 کی مہلت۔  
 مَحْمَلُ الْقِرَافَة - بنگ۔  
 مَحْمَلَة - مَحْمَل - قربانی کے ذبح کرنے کی جگہ یا زنا  
 ج ۱۔ مَحْمَل  
 مَحْمَل - حلال سمجھنے والا۔ حرام کی حرمت کو توڑنے  
 والا۔ اپنے وعدہ کا پاس لحاظ نہ کرنے  
 والا۔  
 مَحْمَل - مکر۔ برائی۔ دھوکہ۔ سختی۔ تنگی۔ قحط کا  
 سال۔ وہ زمین جہاں قحط بڑا ہر وہ آدمی  
 جس سے کوئی فائدہ نہ پہنچے۔ مِص  
 (ن) قحط سالی پہنچنا۔ قحط رسیدہ ہونا  
 مَحْمَل - مَحْمَل (رف) بیلغوری کرنا کسی کو بیلغوری  
 کر کے تکلیف پہنچانا۔  
 مَحْمَلَة - ہکا۔ تیر۔ دوڑنے والا گدھا۔ سین۔  
 ج ۱۔ مَحْمَلَة لَبِج  
 مَحْمَلِب - شہد۔  
 مَحْمَلِب - مددگار۔  
 مَحْمَلِب - وہ برتن جس میں ۱۰ دھ دو اجاتا ہے۔

مَحِيضَةٌ - وہ کپڑا جو عورتیں حیض آنے کے وقت باندھ لیتی ہیں۔ جہ - مَحِيضَةٌ - مَحِيضَةٌ - گھرنے والا - احاطہ کرنے والا۔ مہ - مَحِيضَةٌ -

م - خ

مَخْرَجٌ - بڈی کا گودا (مینک) دماغ سر کا بھیجا آنکھ کی چربی - سر خالص چیز - درمیان کی چیز - جہ - مَخْرَجٌ - مَخْرَجَةٌ - مَخْرَجَةٌ - کاشتکاری کرنا - بٹائی پر کھیتی کرنا۔ (د) خط و کتابت۔

مَخْتَلَةٌ - دھوکہ دینا - فریب دینا۔ مَخْتَلَةٌ - کسی کے ساتھ فریب کرنا۔ دھوکہ دینا مَخْتَلِمٌ - سخت زمین کے راستے - راتوں کے اول حصے - واہ - مَخْتَمٌ

مَخْتَرِيضٌ - وہ سانپ جنہوں نے کھلی اتار دی ہو وہ سانپ جنہیں ہر سال کھینچنی اتارنے کی عادت ہو۔ واہ - مَخْتَرِيضٌ -

مَخْتَزَمَةٌ - دو آدمیوں کا دو علیحدہ علیحدہ راستوں سے چلنا تاکہ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں

مَخْتَشَفَةٌ - عہد توڑنے میں جلدی کرنا۔ تمام رات اونٹوں کو بانجن - نشانہ پر لگنے کے وقت تیر کا آواز کرنا۔

مَخْتَصِرَةٌ - ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلنا۔ دو آدمیوں کا مختلف اور الگ الگ دو راستوں سے چلنا تاکہ ایک جگہ پر آکر مل جائیں۔

مَخْتَضٌ - درد نہ - دس مہینے کی حاملہ اونٹیاں وہ اونٹیاں جنہیں سانڈھ چھوڑ دیا گیا ہو۔

مَحْمُودٌ - تعریف کیا ہوا۔ سراہا ہوا۔

مَحْمِيَّةٌ - (مخ) انگاہ رکھنا - حفاظت کرنا (س) تنگ و عازر سمجھنا۔

مَحْنٌ - (ف) کسی کو مارنا - آزمانا۔ سخاوت کرنا صحبت کرنا۔ کھال اکھاڑنا۔

مَحْنٌ - کپڑا - پڑھا۔ مَحْنَةٌ - سختی - بلا مصیبت - آزمائش - جہ - مَحْنٌ

مَحْنَكٌ - دھاگہ یا کپڑا جس سے ڈاڑھی باندھی جاتے۔ جہ - مَحْنَكٌ -

مَحْنُوٌّ - چاند کا سیاہ دھتیرہ (مخ) مٹانا مَحْنُوٌّ - وہ کیلی جس پر چرمی گھومے حلقہ کہ جس میں تنگ کا سرا باندھتے ہیں۔ تین کے بیچوں بیچ ایک فرضی خط - وہ لوہا جس سے داغ دیا جاوے۔

مَحْنُوٌّ - جہ - مَحْنُوٌّ -

مَحْوَصَةٌ - (ك) خالص النسب ہونا۔ مَحْوَصَةٌ - مینہ جو خشک سالی اور محط کو دور کر دے پچھ پیا ترکی ہوا کا علم۔

مَحْوَقَةٌ - چھاڑو۔ مَحْوَقَةٌ - (ف) گھٹانا کم کرنا۔

مَحْحِيٌّ - (ف) (مخ) تحریر - نفس وغیرہ کو مٹانا صاف کرنا۔

مَحْحِيٌّ - زندہ کرنے والا۔ جلانے والا۔ مَحْحِيًّا - زندگی - جہ - مَحْحِيًّا -

مَحْحِيضٌ - جھاگنے کی جگہ - لوٹ جانے کی جگہ۔ جہ - مَحْحِيضٌ -

مَحْحِيضٌ - عورتوں کی شرم گاہ (مخ) عورتوں کا حائلہ ہونا۔

..... سستا ہوا چہرہ۔ درجہ اولیٰ  
 وہ آدمی جس کے نسب میں کچھ شک نہ ہو۔  
 مختلف - متفرق - اختلاف والا۔  
 مختم - وہ چوہا جس کی ٹانگوں پر تھوڑی سی سفیدی ہو۔  
 مختوم - مہر لگا ہوا۔  
 مختون - ختم کیا ہوا۔  
 مختبر - (۱) ڈول کو کنوئیں میں حرکت دینا تاکہ ڈوب کر بھر جائے۔ صحبت کرنا۔  
 مختار - پروردہ نشین عورت۔  
 مختدع - گھریں خزانہ رکھنے کی جگہ۔ کوٹھری۔ ج۔:۔ مختدع  
 مختدع - جو لڑائی کے داؤں بیچ سے واقف ہو کر تجربہ کار ہو گیا ہو۔  
 مختدم - مختار۔ اونٹوں کے رہنے کی جگہ پتلی کے نیچے کا حصہ جہاں گھونگر وغیرہ زبور پینے جاتے ہیں۔  
 مختدقہ - غیل۔ گدھیا۔ پاجانہ کا مقام۔ ج۔:۔ مختدقہ  
 مختدول - وہ شخص جس کی مدد نہ کی گئی ہو۔  
 مختور - (۱) کشتی کا چلنا یا کشتی کی روانگی کے وقت ہوا کا چلنے لگنا۔ پانی کو پھیرنا۔ اور اس کا آواز کرنا۔ زمین پر پانی بہانا تاکہ دھل کر صاف ہو جائے۔  
 مختراق - خوبصورت بدن کا آدمی۔ وہ شخص کہ جس کا کوئی گناہ نہ ہو۔ بخوبی انجام دے۔ سردار۔ بہادر جنگی بل۔ ج۔:۔ مختراق  
 مختراج - نکلنے کی جگہ (انٹرنل)۔ ج۔:۔ مختراج (مصدر می)

مہا (اس جہنم کے در میں مبتلا ہونا۔  
 معاصہ - پانی میں گھسنے کی جگہ۔ پانی نہ جس میں سے سوار اور پہیل آدمی گذر سکے۔ ج۔:۔  
 مخاض - مخاض و من۔  
 مخاضرة - ہرے اور کچھ پھل۔ درخت پر ہی بیجا۔  
 مخاضنة - عشق کرنا عشق اور محبت کی باتیں کرنا۔ آپس میں گالم گلوچ کرنا۔  
 مخاطب - ناک کا پانی (ریٹینٹ)  
 مخاطبة - آٹنے سے بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ باجیت کرنا۔  
 مخاطبة - اپنے آپ کو خطرہ میں ڈالنا۔ مال پر شرط لگانا۔  
 مخافة - ڈرنا۔ خوف۔  
 مخاطبة - کسی کے ساتھ مل جانا گڑبڑ ہونا۔  
 بھیرٹھے کی بکریوں میں جاگھستا صحبت کرنا۔  
 مخاطبة - مقیم ہو جانا۔ آزاد آدمی کو غلام بنا کر بیجا ایک دوسرے کے قریب ہونا۔ پوشیدہ ہونا۔  
 مخافة - (۱) دھوکا قریب کرنا۔  
 مخاوشة - پھونے سے اپنے پہلو کو دور رکھنا۔ یعنی رات کے آرام کو چھوڑنا۔  
 مختار - بہت پروردہ نشین عورت۔ عاجزی کرنے والا۔  
 مختار - پاگل بنا دینے والا۔ ایام۔ روزگار۔  
 مختار - قدرت والا پسند کرنا۔ پسند کیا ہوا۔ (اسم فاعل - اسم مفعول)  
 مختار - غرور کرنے والا۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا۔  
 مختار - پوشیدہ۔ کفن چور۔  
 مختار - بہت پیاسا۔ فقیر۔ محتاج۔ فاسد۔

محصّر ج - نکالا ہوا (مفعول) نکالنے کا وقت -  
 نکالنے کی جگہ (ظرف) نکالنا (مصدر می)  
 محصّر ج - نکالنے والا -  
 محصّر ذل - زمین پر بکھرا ہوا - ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا  
 گوشت -  
 محصّر سن - راہی - وہ اوزار جس سے چمڑہ پھیلا  
 جاتا ہے - ج - مخارصن -  
 محصّر ص - نیزہ - ج - مخارصن -  
 محصّات - چھوٹی چھوٹی جس میں کھجوریں وغیرہ توڑ  
 کر رکھی جاتی ہیں - ج - مخارصت  
 محصّرة - باغ یا کھجور کے درختوں کے درمیان  
 کا چوڑا راستہ - (روش)  
 محصّرق - حوض کے کنارہ کا پتھر جنگل یا باغ -  
 محصّم الجبیل - پہاڑ کی چوٹی -  
 محصّر السیل - پہاڑ کے راستے کا منہ - ج -  
 قحارصام -  
 محصّر لشم - دہلا رنگ بدلا ہوا - سکرٹا ہوا -  
 سوکھا ہوا - بزرگ منش آدمی -  
 محصّر ویت - جس کا ہونٹ یا ناک چھٹی ہوئی ہو -  
 محصّر وط - پھیلا ہوا - لمبا - لمبے چہرہ کا آدمی - وہ  
 شخص جس کی ڈاڑھی کم ہو -  
 محصّرن - حیرت - مال جمع کرنے کی جگہ - خزانہ  
 (د) فوجی میگزین (د) ج - محصّرن  
 حصارین -  
 محصّر وول - وہ شخص جس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو -  
 محصّسر - گھٹایا ہوا - ٹوٹے میں ڈالا ہوا -  
 محصّسر - کم کرنے والا -  
 محصّسول - حقیر - بے قیمت - ذلیل - بیکار -  
 محصّشف - داخل ہونے والا - دلیر - شیر - ہوشیار

رہنما -  
 محصّصر - باریک - پتلا - محصّصر القدامین  
 جس کا تلواریا ہونے کے سبب زمین  
 پر نہ لگے - محصّصر البطن باریک  
 پیٹ والا -  
 محصّرة - لائھی - کڑھی - چھڑی جس سے بادشاہ  
 بات کرتے وقت کسی کی طرف اشارہ  
 کرے - ج - محصّصر -  
 محصّی (ن) دو دھریں سے مسکے نکالنا - وہی  
 جمانا - کسی چیز کو حرکت دینا - ڈول  
 کو کنویں میں حرکت دینا تاکہ بھر جائے  
 مستی میں اونٹ کا بولنا -  
 محصّیب - رنگا ہوا - خضاب کردہ -  
 (راضن) محصّیۃ - سرسبز و شاداب زمین -  
 محصّصر کم - وہ آدمی جس کی ختنہ نہ ہوئی ہو - وہ  
 آدمی جس کی آدھی عمر اسلام میں اور  
 آدھی زمانہ جاہلیت میں گزری ہو -  
 وہ آدمی جو اچھے نسب کا دعویٰ کرے  
 اور ویسا نہ ہو جس کے باپ کو کوئی  
 نہ پہچانے - لونڈی - بچہ - وہ کھانا  
 جو دانتوں میں لگا رہ جائے - پانی جو  
 نہ لگا ہو نہ بھاری -  
 محصّصر مہ - اونٹنی جس کے کان کا ایک گوشہ کٹا ہوا  
 ہو - ختنہ کی ہوئی عورت -  
 محصّصل - تیز تلوار - شمشیر بران -  
 (سدس) محصّصو د - بیری جس کے کانٹے توڑ  
 دیے گئے ہوں -  
 محصّط - چھوٹا کپڑا - تیز دوڑ مہی (ف) (ن)  
 کمان کھینچنا - تیر کا نشانہ سے

مَحْتَسٌ - پانچ کونہ والا۔ پانچ گوشہ۔ بھاری  
چیزیں اٹھانے کا ایک آلہ۔  
مَحْتَصَمٌ - بھوک۔

مَحْتَمُوسٌ - مد ہوش۔ نشہ میں ڈوبا ہوا۔  
مَحْتَسَنٌ - لمبے قد کا آدمی۔ مص (ن)، جماع کرنا  
کنوئیں میں سے کھیر نیکانا۔ رونا۔ کھال  
اکھاڑنا۔ چھلکا اتارنا۔

مَحْتَسَتَةٌ - ٹیلے پر سے پانی گرنے کی آواز۔  
گنگن ہٹ۔ پانچ کا کھلا ہوا، اور  
کشادہ راستہ گھبراہٹ۔ مَحْتَسَاتٌ -  
عمدہ چراگاہ۔ جہاں۔ مَحْتَسَاتٌ -

مَحْتَسِقٌ - گلا گھونٹنے کی جگہ یعنی حلق (ظرف)  
گلا گھونٹا ہوا۔ (مفعول)

مَحْتَسِقَةٌ - گردن بند۔ مار۔ جہاں۔ مَحْتَسَاتِقٌ -

مَحْتَسِسٌ - قید خانہ۔ جیل۔ ایک قید خانہ کا نام  
جس کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ  
نے عراق میں بنایا تھا۔

مَحْتَسِطٌ - سوئی۔

مَحْتَسِطٌ - سیا ہوا۔

مَحْتَسِئِلٌ - وہ آدمی جس کے جسم پر تل بہت ہوں  
مَحْتَسِئِلَةٌ - تکبر گھنڈ۔ وہ ابر جس کو برسنے والا  
خیال کیا جاوے۔ مص (دس)

مَحْتَسِئِلٌ - گمان کرنا۔ خیال کرنا۔  
مَحْتَسِئِلٌ - کھیت کے کاٹے ہوئے گٹھے جمع  
کئے جانا۔

م - د

مَدٌ - سیل، رو۔ پانی کی زیادتی۔ جہاں۔  
مَدُدٌ -

گرد جانا تلوار کھینچنا۔ اونٹ کا تیز  
دوڑنا۔ سائڈ کا ناقہ سے زبردستی  
بھنتی کرنا۔ ناک صاف کرنا۔ جلدی  
چلنا۔ بیٹے کا باپ کے مشابہ ہونا۔  
مَحْتَصِلٌ - جانوروں کی چومچ۔ ناک کا اگلا حصہ  
آدمی کی ناک۔ چمپایوں کا منہ۔  
جہاں۔ مَحْتَصِلٌ -

مَحْتَفَاسٌ - شرمیلی عورت

مَحْتَفِصٌ - سپاہیوں کی چوکی۔ (د)

مَحْتَفُوقٌ - دیوانہ۔ پاگل۔

مَحْتَلِبٌ - درستی جس میں دندنے نہ ہوں۔ شکاری  
جانوروں کا بیچہ (دندنے ہوں یا  
پرندے)۔ جہاں۔ مَحْتَالِبٌ -

(ماء) مَحْتَلِبٌ - گدلا پانی۔

مَحْتَلِدٌ - ہمیشہ رہنے والا۔ ہمیشہ رکھنے والا  
بوڑھا آدمی جس کے بال جوان آدمی کی

طرح سیاہ ہوں۔

(دَلْدَلٌ) مَحْتَلِدٌ - وہ لڑکا جو کنگن یا بال  
پننے ہوئے ہو۔

مَحْتَلِصٌ - خالص کرنے والا۔

مَحْتَلِيفٌ - خلاف کرنے والا۔

مَحْتَلِيفٌ - پیچھے چھوڑا ہوا۔

مَحْتَلِکٌ - اچار (د)

مَحْتَلِفَةٌ - خلاف (ایک قسم کا بید) کی جگہ  
راستہ۔ منزل۔ مکان۔ جہاں۔

مَحْتَالِفٌ -

مَحْتَلِفَةٌ - پیدا کی ہوئی۔ بنائی ہوئی۔  
(رَبَّنْ) مَحْتَلُوعٌ - وہ بیٹا جس کو اس کے  
باپ نے نکال دیا ہو۔

پھیلی اور چھستان کہنا۔  
 مَدَّ اص۔ پانی پر اترنے کی جگہ (گھاٹ، مص  
 دن، پانی میں گھسنا۔ اچانک کسی چیز  
 پر آ کر اترنا۔

مَدَّ اغْتَشَتَ۔ بھیڑ لگانے کی جمع ہونا۔ بیاس کی  
 وجہ سے پانی کے ارد گرد گھومنا۔  
 تلاش کرنا۔ طمع کے ساتھ کوئی چیز چاہنا  
 روکنا۔ گھبر ہٹ میں جلدی پانی پینا۔  
 کم کھانا۔

مَدَّ افَعَتَ۔ کسی کے حلق کا ٹالم ٹول کرنا۔ ایک  
 دوسرے کو دھکیلنا۔ دور ہونا۔

مَدَّ اَلَكَ۔ وہ پتھر جس پر دوایا خوشبو گھسیں۔  
 مص (ن) گھسنا۔ ملنا۔

مَدَّ اَكَاتَ۔ بھیڑ کرنا۔ رنج دینا۔ صدمہ پہنچانا۔  
 مَدَّ اَلَسَتَ۔ فریب دینا۔ ظلم اور نا انصافی کرنا۔

مَدَّ اَد۔ ہمیشگی، ہلکی ہلکی بارش، انگوڑی شراب  
 مَدَّ اَمَه۔ میڈم۔ میم (د)

مَدَّ اَهْرَتَ۔ تمام رات تکلیف اٹھانا اور نہ سونا۔  
 مَدَّ اَهْلَتَ۔ کسی کے ساتھ لطف و مہربانی کرنا۔

مَدَّ اَدَدَتَ۔ کسی کے ساتھ گھومنا پھرنے۔ کسی  
 کام کے بارہ میں غور کرنا۔ کہہ کس  
 طرح کیا جائے۔

مَدَّ اَوَهتَ۔ کسی چیز پر جھارہنا۔ ایک کام پر ٹھہرنا  
 مَدَّ اَدَلتَ۔ دکلا، کسی بحث (د)

مَدَّ اَهْنَتَ۔ دل کی بات کے خلاف کہنا۔  
 خیانت کرنا۔ بٹ دینا۔ آسان کرنا  
 چھپا کر کوئی کام کرنا۔

مَدَّ اَيْن۔ بہت سے شہر۔ وا:۔ مَدَّ اَيْنَتَ۔  
 بغداد کے قریب کسری کا شہر۔

مص (ن) کھینچنا۔ دن چڑھنا۔ کسی  
 چیز کی طرف اونچے ہو کر دیکھنا۔ فراخ  
 کرنا۔ دوات میں سیاہی ڈالنا۔ دیر کرنا  
 رونق دینا۔ زمین میں کھاؤ ڈالنا۔

دوات میں سے سیاہی لینا۔  
 مَدَّ۔ عراق والوں کے نزدیک دُورِ طَل کا

ایک پیمانہ ہے۔ اور حجازیوں کے  
 نزدیک ایک رطل اور تہائی رطل کا اور

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مدّ صاع کی  
 چوتھائی ہے۔ آدمی کے دونوں ہاتھوں

کے بھر جانے کی مقدار ہے۔ آمداد  
 مَدَّ دَدَتَ۔ مَدَّ اَد۔

مَدَّ اَبْرَتَ۔ مرجانا۔ اپنے دوست کی ضرورت  
 سے غفلت برتنا۔ چوپایہ کی پیٹھ کا

زخمی ہو جانا۔ مالدار ہونا۔ کسی سے  
 دشمنی کرنا۔

مَدَّ اَحَاتَ۔ نرم برتاؤ کرنا۔  
 مَدَّ اَحَلَتَ۔ کسی کو کشتی میں پچھاڑ دینا۔ فریب دینا۔

ظلم کرنا۔ نقصان پہنچانا۔ جلتے  
 ہوئے ایک بات کو چھپانا۔

مَدَّ اَد۔ دوات کی سیاہی۔ گوبر۔ کھاؤ تیل  
 جس سے چراغ جلتے ہیں۔ زیادتی۔

مثل۔ روش۔ راستہ۔  
 مَدَّ اَرَاةَ۔ آپس میں نرمی اور اخلاق سے پیش

آنا۔ ایک دوسرے کو ہٹانا۔ اور  
 آپس میں مخالفت کرنا۔

مَدَّ اَرَسَتَ۔ سبق پڑھنا۔ آپس میں دہرانا۔  
 مَدَّ اِس۔ مَدَّ اَسَد۔ سلیم (د)

مَدَّ اَعَاةَ۔ دیوار کو ڈھاننا اور توڑنا۔ آپس میں

یا تو من کے سوراخوں کو ڈھیلوں سے  
بند کرنا۔

مَدَائِنَة - مَدَّرِیَّة - ایک تپلی کڑھی جس  
سے عورتیں سر کے بالوں کو سفوارتی  
ہیں۔ جہ۔ مَدَائِرِی -

مَدَائِر - بکھرنے والا۔ برسنے والا۔  
مَدَائِرَان - میلانچیللا۔ گرو میں اٹا ہوا۔ جہ۔  
مَدَائِرِیْن -

مَدَائِب - تجربہ کار آدمی۔ زمانہ کا سردگرم  
چکھے ہوئے۔ شیر سدھایا ہوا۔ سواری  
کا اونٹ۔

مَدَّس - ڈھیلا۔ وار۔ مَدَّارَة - مص (س)  
بڑے پیٹ والا ہونا۔

مَدَّارِجَة - گزرنے کی جگہ۔ راستہ۔ وہ زمین  
جس میں کثرت سے تیرتے ہوں۔ جہ۔  
مَدَّارِج -

مَدَّارِیس - کتاب۔

مَدَّارِیسَة اَبْتَدَائِیَّة - پرائمری اسکول (د)

مَدَّارِیسَة اَعْدَائِیَّة - ہائی اسکول (د)

مَدَّارِیسَة اَمِیْرِیَّة - گورنمنٹ اسکول (د)

مَدَّارِیسَة اَهْلِیَّة - پرائیویٹ اسکول (د)

مَدَّارِیسَة تَجْهَرِیَّة - ہائی اسکول (د)

مَدَّارِیسَة الْحَقُوق - لاکالج۔ مدرسہ قانون (د)

مَدَّارِیسَة حَرَبِیَّة - ملٹری اسکول جنگی  
تعلیم کا مدرسہ۔ (د)

مَدَّارِیسَة الْخَارِجِیَّة - مدرسہ جس میں بورڈنگ  
نہ ہو (د)

مَدَّارِیسَة الْدَاخِلِیَّة - مدرسہ جس میں بورڈنگ ہو۔

مَدَّارِک - محسوس۔ کپڑا ہوا۔ پایا ہوا۔ معلوم۔

اس شہر کا نام جمع کے وزن پر اس  
لیے رکھا گیا کہ یہ ملک میں سب  
شہروں سے بڑا تھا۔

مَدَّائِنَة - آپس میں ادھار لین دین کرنا۔

مُدَّیْب - پیٹھ موڑنے والا۔

مَدَّائِنَات - تدبیر کرنے والے فرشتے۔ کارکنان  
قضاء و قدر۔

مَدَّاء - (ن) کھینچنا۔ ایک بار کھینچنا۔

مَدَّاء - وہ پیپ جو زخم میں چب ہوگئی ہو۔

مَدَّاء - جگہ (مکان) یا زمانہ کی حد۔ انتہا۔

زمانہ کا ایک حصہ۔ سیاہی کا وہ  
حصہ جو قلم پر چمٹ کر رہ جاتا ہے۔

جہ۔ مَدَّاد -

مَدَّار - لحاف اوڑھنے والا۔

مَدَّح - مَدَّحَة - تعریف مص (ن)

سراہنا۔ تعریف کرنا۔

مَدَّحَض - باطل کیا ہوا۔

مَدَّحُوْر - دور کیا ہوا۔ ملعون۔

مَدَّخ - بزرگی مص (ن) پوری پوری مدد کرنا۔

مَدَّخَل - داخل ہونا (مصدر بھی) داخل ہونے  
کی جگہ (ظرف) داخل کیا ہوا۔ (مفعول)

مَدَّخَل - سرگھسانے کی جگہ۔

مَدَّخَنَة - دودکش (د)

مَدَّخُول - آمدنی (د)

مَدَّد - اعانت۔ نصرت۔ مدد۔

مَدَّس - ڈھیلا یا سخت مٹی جس میں ریت نہ ہو۔

گاؤں شہر۔ اہل المدا

گاؤں کے رہنے والے۔

مَدَّس - (ن) مکان مٹی سے لیپنا۔ چھت



مشہور نہ ہو۔ فقیر۔ مہمان۔

مُدَقِّعٌ - ندی میں پانی بھنے کی جگہ۔ پانی کے جمع

ہونے کی جگہ۔ جر۔ : - مَدَا فِع -

مِدَقِّعٌ - بہت ہانکنے والا۔ بہت دور کرنے والا۔

(د) توپ۔ جر۔ : - مَدَا فِع -

مَدَقُّقٌ - (ن) توڑنا۔ کوٹنا۔

مَدَقِّقٌ مَالِیٌّ - آڈیٹر۔ محاسب (د)

مَدَقِّقَةٌ - کوٹنے کا آلہ۔ موصل۔ جر۔ : - مَدَا قِ -

مَدَقِّعٌ - بھاگ جانے والا۔ تیزی اور جلدی کرنے

والا۔ فَعْلٌ مَدَقِّعٌ - بہت زیادہ

فقیری اور محتاجی جو انسان کو زمین

سے چپکا دے۔

مَدَقِّدٌ - نصیحت حاصل کرنے والا۔

(أَرْض) مَدَقُّوْکَةٌ - ہموار زمین جس میں اونچ نیچ نہ ہو

مَدَقُّوْلٌ - کینہ آدمی۔ جا ہوا دودھ۔

مَدَقِّجَةٌ - جنگلی جانور کا گھر۔ حوض کی تالی جس میں کلی

وغیرہ کی جائے۔ ڈول خالی کرنے کی

(حوض وغیرہ میں) جگہ۔

مَدَقِّدٌ - جس کی عقل عشق اور محبت کی وجہ سے

ٹھکانے نہ رہی ہو۔ بھول جانے والا۔

جیسے کوئی بات یاد نہ رہتی ہو۔

(لَیْلَةٌ) مَدَقِّهْتُمْ - نہایت کالی۔ ڈراؤنی رات

مَدَقِّمَاتٌ - مہار کی ڈوری جس سے دیوار سیدھی

کرتا ہے۔ بڑھئیوں کا ریل اور سیاہی

میں بھینکا ہوا دھاگہ جس سے تختہ یا

کلاوی وغیرہ پر لٹنے تراشے کے لیے لیکر

کر لیتے ہیں۔ جر۔ : - مَدَا فِع -

مَدَقِّدٌ - نہر۔ رسی۔ رسی کی گرہ۔

مَدَقِّمٌ - بیلن۔ جر۔ : - مَدَا فِع -

مُدْرِكَةٌ - کانہوں کے درمیان کی بلندی (گدھی)

خوب سمجھنے والا آدمی۔

مِدْرَاةٌ - قوم کا سردار۔ تیز زبان والا۔ لڑائی

میں ہوشیار آدمی۔ جر۔ : -

مَدَا رِءٌ

مِدْرَی - سیخ اور باریک ٹہنی جس سے عورتیں

اپنے بال سلھاتی ہیں۔ جر۔ : - مَدَا رِءٌ

مَدَا رِی -

مَدَسَعٌ - تنگ گلی سینہ کی ہڈیوں کے بیچ میں

(معدہ تک) کھانا پینے کا راستہ۔ جر۔ : -

مَدَا سِعٌ : مَدَش (ن) کم کھانا کم دینا

مَدَش - (س) آنکھ کی بینائی کا کم ہو جانا۔ بھوک

یا گرمی کے سبب آنکھوں کے نیچے

اندھیرا آ جانا۔ ہاتھ کا کم گوشت ہونا۔ ہاتھ

کا ہلکا اور پھرتیلا ہونا۔

مِدَا عَاسٌ - درمیانی نیزہ کہ دہرا نہ ہو۔ روندنا ہوا

راستہ یا سڑک جس کی مٹی راستہ چلنے

والوں کی کثرت سے پس کر باریک ریت

ہو گئی ہو۔ جر۔ : - مَدَا عَاسٌ -

مَدَا عَدَاغٌ - وہ آدمی جس کے حسب نسب میں

کسی قسم کا عیب ہو۔

(مَكَان) مَدَاغِلٌ - وہ جگہ جہاں بہت درخت

ہوں۔ پوشیدہ اور خوف کی جگہ۔

مَدَا عُوْرٌ - بچہ جس کا تالو انگلی سے اٹھایا گیا ہو۔

مِدَا فَانَ - پرانی مشک۔ بھاگا ہوا غلام۔ بھاگا ہوا

اونٹ۔ خاک مٹی وغیرہ سے اٹا ہوا

کنواں۔ جر۔ : - مَدَا فِیْنٌ -

مَدَقِّعٌ - عمدہ امیل اونٹ۔ خراب اونٹ

(لُغْتٌ اَضْدَادٌ) وہ آدمی جس کا نسب

مَدَّیْہ - چھری کٹاری۔ کمان کا قبضہ۔ کسی چیز کی حد۔ نہایت۔ ج ۱۔ مَدَّی  
مَدَّیَات

مَدَّیْبِح تعریف۔ اشعار قصیدہ وغیرہ جن میں تعریف ہو۔ ج ۱۔ مَدَّایْبِح -

مَدَّیْد - کھینچا ہوا۔ لمبا۔ گھاس۔ چارہ۔ عروص کی ایک بجز۔ پانی جس میں آٹا، سُکھی روٹی، تیل، کھل، جو وغیرہ ملا کر اونٹ کو کھلائیں (سانی) ج ۱۔ مَدَّد -

مَدَّیْر - حاکم صنوع۔ مینجر۔ مہتمم۔ (د)

مَدَّیْرُ الْعَامِ - پوسٹ ماسٹر جنرل (د)

مَدَّیْرُ الْبُؤْسَطِ - پوسٹ ماسٹر۔ (د)

مَدَّیْرُ الْعَمَالِ - کلکٹر (د)

مَدَّیْرُ الْمَدَارِسِ - پرنسپل۔ (د)

مَدَّیْرُ الْعَدَارِسِ - ڈائریکٹر۔ (د)

مَدَّیْح - مزاج کے گرم ہونے کی وجہ سے جس کی نکلیں چھوٹے۔

مَدَّیْن - قرض دار (جس پر قرض ہوا) بدلہ پایا ہوا غلام۔ بشیر۔

مَدَّیْن - حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی کا نام۔

مَدَّیْنَتہ - شہر۔ مدینہ منورہ جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لائے۔ لوٹنے کی جگہ۔

مَدَّیْنَتہ - قرض دار۔

## م-ذ

مَدَّآء - وہ آدمی جسکی مذی بہت زیادہ خارج ہوتی ہو عادت ہو۔

مَدَّوْغ - جس کا سر ٹوٹا ہو جس کے ہلکے پرچھٹ آئی ہو۔ مَدَّوْم - بہت موٹا۔ چربی دار اونٹ۔ سرخ رنگ کی چیز۔

مَدَّکَر - پتلا گھوڑا۔ وہ آدمی جس کے پاس بہت زیادہ دینار ہوں۔

مَدَّنَقْت - مَدَّنَقْت - سخت بیمار۔

مَدَّوْس - کوئی چیز جس سے رنگ صاف کیا جائے۔ ج ۱۔ مَدَّاْوْس -

مَدَّوْن (ن) ہمیشہ ایک جگہ رہنا۔ مدینہ (شہر) میں داخل ہونا۔

مَدَّهَائِمَتہ - بہت زیادہ سیاہ۔ سرسبز و شاداب (مذا) مَدَّهَائِمَتہ -

مَدَّهَمَّق - خوبصورت بنا ہوا پیالہ جس میں کسی قسم کی کچی نہ ہو۔ چرا ہوا (تیر) آدھ پکا کچا (کھانا) نرم۔ طامز چیلہ۔

مَدَّهِن - نرمی اور ملائمت برتنے والا۔ دین کے معاملہ میں سستی کرنے والا۔

مَدَّهِن - تیل کا برتن۔ پہاڑ کا گڑھا جس میں پانی جمع ہو۔

مَدَّهَوْش - بے ہوش۔ بے خود و حیران۔

مَدَّی - شامیوں اور بصریوں کا مد کے علاوہ ایک اور پیمانہ۔ ج ۱۔ اَمَدَاء

مَدَّی - کسی چیز کی حد کنارہ۔ ختم۔ مَدَّی الْبَصَرِ - نگاہ کی انتہا۔

مَدَّیْتی - حوض کی نالی میں سے گرنے والا نایاک اور استعمال کیا ہوا پانی۔ کنویں کے سوت۔ ج ۱۔ اَمَدَّیْتہ -

مَدَّیَان - جسے قرض لینے اور قرض دینے کی عادت ہو۔

مَدَارِعُ - شہر کے آس پاس کے گاؤں، جن میں کھیت اور باغ ہوں۔ چوپایہ کے ہاتھ پاؤں کھیتی اور جنگل کی زمین کے درمیانی گاؤں۔ وا۔ مَدَارِعُ مَدَارِعَةُ - آپس میں مل جانا۔ ناپ کر بیچنا۔ مَدَاعُ - جھوٹ بولنے والا۔ بے وفا آدمی جو لوگوں کے راز کھول دیتا ہے۔ ایک جگہ نہ رکھنے والا۔ ظِلُّ مَدَاعٍ - چلتی پھرتی چھاؤں۔ وہ آدمی جس کی منی یا پیشاب قبل از وقت خارج ہو جائے۔ مَدَاقُ - مَدَاقَةُ - (ن) چکھند۔ مَدَاقُ - لالچی دوست - خود غرض۔ مَدْعُومٌ - مذمت کیا ہوا۔ مردود۔ مَدَائِرُ - شوہر سے نفرت کرنے والی عورت۔ اودھنی جو اپنے بچے سے محبت نہ کرتی ہو۔ مَدَائِبُ - جلد باز۔ نذر کی پیاس جو پانی کی طرف آدمی کو دوڑائے۔ مَدَائِبَةُ - پوزی (جس سے کھیاں اڑائی جاتی ہیں)۔ ج۔ مَدَائِبُ - مَدَائِبُ - مَدَائِبُ - ذبح کرنے کا آلہ۔ ج۔ مَدَائِبُ - مَدَائِبُ - قربانی کرنے کی جگہ۔ ایک بالشت کے برابر زمین کا شگاف۔ محراب۔ چھتا نصاریٰ کا عبادت خانہ۔ مَدَائِبُ - جس کا دل کسی ایک بات پر نہ جتنا ہو۔ مَدَائِبُ - دیوانہ۔ پاگل۔ کبھی کا کاٹا ہوا اونٹ۔ مَدَائِبُ - ذبح کیا ہوا۔ مَدَائِبُ - جنگلی گل انار کا شہد مص (س) چلتے ہوئے دونوں رانوں کا آپس میں لگنا۔ مَدَائِبُ - (س) اٹھنے کا گندا ہو جانا۔ جی متلانا۔

معدہ کا خراب ہونا۔ خروٹ کا خراب ہو جانا (سَبَبُ) مَدَائِبُ - تیز دھار والی تلوار۔ زہر میں بھی ہوتی تلوار۔ (لکین) مَدَائِبُ - پانی ملا ہوا دودھ۔ (دَمْعُ) مَدَائِبُ - ہتتا ہوا آنسو۔ مَدَائِبُ - سچا۔ ج۔ مَدَائِبُ - مَدَائِبُ - (ف) قسم کھانا۔ پہاڑ پر چشمہ پھوٹنا۔ مَدَائِبُ - مَدَائِبَةُ - خبر کا کچھ حصہ بتلانا کچھ چھپا لینا۔ پیشاب کرنا۔ (موت) مَدَائِبُ - جھوٹ مار ڈالنے والی موت۔ مَدَائِبُ - یقین کرنے والا۔ باور کرنے والا۔ مَدَائِبُ - وہ عورت جس کے ہر دفعہ لڑکا ہی پیدا ہوتا ہو۔ فَلَاحٌ مَدَائِبُ - خوف اور درہشت والا جنگل۔ مَدَائِبُ - ہمیشہ لڑکا جننے والی عورت۔ سخت دن سخت مصیبت۔ بلا۔ خوفناک راستہ۔ مَدَائِبُ - نصیحت کرنے والا۔ یاد دلانے والا۔ مَدَائِبَةُ - بڑی مصیبت۔ سخت بلا۔ عورت یا اودھنی جو عادت اور خلقت کے اعتبار سے اونٹ کی طرح ہو۔ مَدَائِبَةُ - یادداشت یا میموریل (د) مَدَائِبَةُ (حَصَا سَا - سَمَن - د) مَدَائِبُ - ذکر کیا ہوا۔ مَدَائِبَةُ - وہ بادل جو بار بار برے۔ مَدَائِبُ - (س) عاجز آنا۔ بے آرام ہونا۔ مَدَائِبُ - ذلیل کرنا۔ باری تعالیٰ کا نام پاک۔ مَدَائِبُ - (ن) پاؤں کا سُن ہونا۔ کسی سے بھید کو بیان کر دینا۔ کسی کے راز کی حفاظت سے عاجز آنا۔

(رِجَال) مِذْلِي ہے آرام اور دل چلے لوگ۔  
مِذْمَد۔ مِذْمَد۔ وہ شخص جو الگ تنگ رہے  
مل جل نہ سکے۔

مِذْمَاة۔ تیر سے مارا ہوا شکار۔  
مِذْمَاة۔ حق۔ واجب۔ عزت۔ آبرو۔ کینجوسی۔  
ہربانی مص (ن) برائی کرنا۔  
مِذْمُوم۔ مذمت کیا ہوا۔ بُرا۔

مِذْنَب۔ گناہ گار۔  
مِذْنَب۔ کفگیر پانی کے بہنے کا راستہ۔ زمین یا  
نیچائی کی طرف۔ جہ۔ مِذْنَب۔  
مِذْوَد۔ زبان۔ چوپائے کے چارہ کی جگہ۔ گائے کا  
سینگ۔ جہ۔ مِذْوَد۔

مِذْهَب۔ وضو کی جگہ۔ طریقہ۔ راستہ۔ دین۔  
عقیدہ۔ اصل۔ جہ۔ مِذْهَب۔  
مصدومی (ف) جانا۔ گزرنے۔

مِذْهَب۔ کعبہ، تسمہ۔  
مِذْحِي۔ مِذْحِي۔ مِذْحِي۔ وہ پانی جو شدت  
شہوت کے وقت مٹی سے پہلے نکلتا ہے۔

مِذْيَاة۔ عورت۔ جہ۔ مِذْيَاة۔ مِذْيَاة۔  
مِذْيَاة۔ ریڈیو۔ (د)  
مِذْيَل۔ جو میلے کھیلے کپڑے پہن کر اپنا کام کئے  
لبے دامن کی چادر۔

مِذْيَل۔ بیقرار۔ بیمار جسے چین نہ آتا ہو۔ بھیدکا  
ظاہر کرنے والا۔ نرم لوہا۔

## م-س

مَسْر۔ رسی۔ کمال۔ پیلچہ پیلچہ کا دستہ۔  
مَسْر۔ مَسْر۔ (ن) گزرنے کا نام پر بھیگی کرنا۔  
مَسْر۔ کڑوا۔ ایک دھخت کا جما ہوا پانی جہ۔

## اَمْرَاء

مَرَّء۔ مَرَّء۔ مَرَّء۔ مَرَّء۔ (د)۔ ایک آدمی (اسکا تثنیہ  
مَرَّءَان آتا ہے)۔ مَرَّء۔ مَرَّء۔

مَرَّء۔ (ن) کھانا عورت سے صحبت کرنا۔  
مَرَّء۔ (مفاعلہ) شک کرنا۔ جھگڑ کرنا۔

مَرَّءَة۔ (ك) زمین کی آب دہوا کا عمدہ ہو جانا۔  
کھانے کا زود ہضم ہونا۔

مَرَّءَة۔ عقیدہ کے خلاف ظاہر کرنا۔ ریا کاری کرنا  
مَرَّءَة۔ زیارت۔ دیدار۔

مَرَّءَة۔ نرم برتاؤ کرنا۔

مَرَّءَة۔ کسی کو اس کے سامان پر نفع دینا۔  
خریدی ہوئی چیز کو کچھ نفع سے بچنا۔

مَرَّءَة۔ ربیع کے ربیع تنخواہ یا اجرت دینا۔  
وہ شخصوں کا کسی کے بوجھ کو اٹھوا کر اس  
کی پیٹھ یا سر پر رکھنا۔ یا گون کو ہاتھوں سے  
پکڑ کر اونٹ وغیرہ پر لادنا۔

مَرَّء۔ کاشتکار (د)

مَرَّء۔ آئینہ۔ جہ۔ مَرَّء۔ مَرَّء۔

مَرَّء۔ لٹھنے والا۔ واپس آنے والا۔ وہ عورت  
جو شوہر کے مرنے کے بعد اپنے ماں  
باپ کے گھر آجائے۔

مَرَّءَة۔ کسی کی بات کو پھیر دینا۔ ناقد کا ایک  
طرح کی چال کے بعد دوسری طرح کی  
چال چلنے لگنا۔ بیوی کو اپنے گھر میں لانا  
طلاق کے بعد رجعت کرنا۔

مَرَّءَة۔ لڑائی کے میدان میں اپنی تعریف اور  
بہادری بنیان کرنے میں مبالغہ کرنا۔ کسی  
چیز میں مقابلہ کرنا۔

مَرَّء۔ وہ مکان جس میں چوپائے رات کو باندھے

جائیں۔

مِرَاح - خوشی، عیش، آرام، ناز، اتراؤ، نازکی چال۔

مِرَاد - اونٹ کے آنے جانے کی جگہ۔ ہول کے گزرنے کی جگہ۔ گردن۔

مِرَاد - گردن، جہ، مِرَادِید۔

مِرَادَاة - طلب کرنا، تواضع کرنا، پتھر پھینکنا۔

مِرَادَسَة - ایک دوسرے پر پتھر پھینکنا۔

مِرَادَة - (س۔ ن) کرٹا اور جوجانا۔

مِرَاذَة - کشتی لڑنا، ایک دوسرے پر طعن کرنا۔

مِرَاذَمَة - ایک کھانے پر عیشگی نہ کرنا، نقد نکلنے کے ساتھ شکر اور حمد کرتے جانا، ملائم

اور سوسکی روٹی کھانا۔ دو چیزوں کو ملا

کر کھانا، گھر میں زیادہ دن ٹھہرنا۔

مِرَاس - سختی، شدت، تنگی، مص (مفاعله)

مصیبت میں پڑنا۔ خلوت اور

تنہائی کرنا۔

مِرَاسِل - وہ عورت جس کو اس کے شوہر نے

جدا کر دیا ہو۔ بڑی عمر کی عورت۔ رائڈ

عورت (د) اخبار کا نامہ نگار۔

مِرَاسِلَة - آپس میں خط و کتابت کرنا۔

مِرَاصَاة - ایک دوسرے سے خوش ہونا۔

آپس میں رضا مند ہونا۔

مِرَاضِع - دودھ پلانے والیاں، واء، مِرَضِيعَة۔

مِرَاضِعَة - بچہ کو دایہ کے حوالہ کرنا، حاملہ عورت

کا بچہ کو دودھ پلانا، بچہ کا دوسرے

بچہ کو دودھ دینا۔

مِرَاطَة - گرا ہوا، جھڑا ہوا بال

مِرَاعَاة - خوب خورد سے دیکھنا، انجام کو

سوچنا، مہربانی کرنا، کسی کے حق کی

حفاظت کرنا، آپس میں چسپنا، کسی

کی طرف کان لگانا۔

مِرَاعَة - (ک۔ س) کسی جگہ کا بہت گھاس

اور سبزہ والا ہونا۔

مِرَاع - مِرَاعَة - چوپایہ کے لوٹنے کی جگہ۔

مِرَاعَة - جانے کی جگہ بھانے کی جگہ۔ قلعہ

پریشان۔

مِرَاعَة - کھلم کھلا لڑنا، جھڑائی کرنا، دشمنی کرنا۔

آپس میں غصہ کرنا۔

مِرَافَاة - خاطر مدارت کرنا، نرم برتاؤ کرنا۔

مِرَافِضُ الْوَادِی - نالہ میں پانی کے بہنے کے

مقامات۔

مِرَافِعَة - کسی کو باقی رکھنا اور اس پر مہربانی کرنا۔

کسی کو تکلیف اور دھوکہ میں ٹھکانا۔

مدعی علیہ کو حاکم کے پاس لے جانا۔

مِرَاقِبَة - حفاظت کرنا، گردن جھکانا۔ ایک

دوسرے کی دیکھ بھال کرنا۔ انتظار کرنا۔

مِرَاقِبَة - کھال سے اکھاڑے ہوئے بال، چوپایہ کے

لیے تھوڑی سی اکھاڑی ہوتی گھاس۔

مِرَاصِد - نرم نازک، ہلکا ہوا، ناچیز بے کار،

کمزور۔

مِرَاقِب - وہ آدمی جو جس کے دل میں ہتھارے

تھوڑی تھوڑی سمجھتا ہے،

مِرَاقِبَة - کام کو اچھی طرح نہ کرنا، کھوکھلا دیکھنا،

دشمنی، بے وفائی۔

مِرَانَة - مہلت، پھلا پھولا ہوا درخت۔

پکڑا ہوا۔

مِرَوْن - (ن) نرم ہونا یا نرم ہوجانا۔

مَرَاتِب - کسی یہ کام بھی وہ کام کرنا کبھی اس  
 پاؤں پر کبھی اس پاؤں پر کھڑا ہونا -  
 مَرَاوَعَة - کسی کام میں ایک دوسرے کے ساتھ  
 نرمی برتنا۔ خاطر کرنا۔  
 مَرَاوَعَة - کشتی لڑنا۔  
 مَرَاهِق - لڑکا جو بالغ ہونے کے قریب ہو گیا ہو۔  
 مَرَاهِقَة - لڑکے کا بلوغ کے قریب پہنچنا۔ کمر میں  
 سچ کے آفریقہ پہنچنا۔  
 مَرَاي - خواب۔ دیدار۔ زیارت منظر۔  
 مَرَبِض - کمپوں کے رہنے کی جگہ۔ جہ۔  
 مَرَايِض - مَرَايِض -  
 مَرَبِط - چوپایہ کے باندھنے کی رسی۔ جہ۔  
 مَرَايِط -  
 مَرَبِح - بہار کے دنوں میں رہنے سے کی  
 جگہ۔ جہ۔ مَرَايِع -  
 مَرَوِيح - وہ اونٹنی جس نے بہار کے دنوں میں  
 بچھ جتنا ہو۔ بوجھ سے بھری ہوئی کشتی  
 کا کھینے والا۔ بہار کے موسم کی بارش۔  
 جہ۔ مَرَايِيح -  
 مَرَبِح - پوکھوٹی چیز۔  
 مَرَوَة - ایک بار جہ۔ مَرَات - مَرَات - مَرَس -  
 مَرَوَة - پتہ۔ سفر۔ بدن کی طاقت اور مضبوطی  
 عقل۔ عقل کی تیزی۔ رسی کا بل۔ جہ۔  
 مَرَس - آمرا۔  
 مَرَس - بغیر گھاس پارہ کا جنگل۔ وہ آدمی  
 جس کی ہونٹ پر بال نہ ہوں۔ جہ۔  
 آمَرَات - مَرَوَات - مص (ن)  
 نرم اور چمک دار کر دینا۔ ایک  
 طرف کر دینا۔

مَرَاتِب - شک کرنے والا۔ متردد۔  
 مَرَاتِب - تنگ راستہ کبھی۔ جہ۔ مَرَاتِبِج  
 مَرَاتِب - تنخواہ (د)۔ جہ۔ مَرَاتِبَات -  
 مَرَاتِبِج - رجز خوانی کرنے والا۔  
 مَرَاتِبِج - تیر جو نشانہ پر جا لگے اور اسے پھاڑ  
 ڈالے۔ پوری عمر کا اونٹ۔  
 مَرَاتِبِج - ثابت اور برقرار رہنے والا۔ اپنی کہنی  
 پر تکیہ لگانے والا۔  
 مَرَاتِبِج - منزل۔ سہارا لگانے کی چیز۔ (د)  
 بیت الخلاء۔  
 مَرَاتِبِج - انتظار کرنے والا۔  
 مَرَاتِبِج - نگہبان۔ محافظ۔ پوکھیدار۔ تیر پھینکنے  
 والا۔  
 مَرَاتِبَة - روغنی (روٹی) جہ۔ مَرَاتِبِج -  
 (قوس) مَرَاتِبِشہ - نرم۔ لچکدار۔ کان جس  
 کے سرے آپس میں کھینچنے سے مل جائیں  
 مَرَاتِبِج - گروی رکھی ہوئی چیز۔  
 مَرَاتِب - (س) ضبط سے کام لینا۔ برداشت کرنا  
 مَرَاتِب - مبروضہ کرنے والا آدمی (اسم فاعل)  
 مَرَاتِب - (ن۔ ص) چھوڑنے کو پانی وغیرہ میں  
 بھلونا کسی چیز کو پانی میں ملنا اور گھسنا  
 تاکہ گھل جائے۔ انگلیاں چباننا۔ مارنا۔  
 اونٹنی کا اپنے بچہ پر مہربان نہ ہونا۔  
 مَرَاتِبَة - مَرَاتِب - مردہ کی تعریف۔ جہ۔  
 مَرَاتِبِج - مردہ کی تعریف بیان کر کے رونا۔  
 مَرَاتِب - مَرَاتِب - ناک۔ جہ۔ مَرَاتِبِج -  
 (ارض) مَرَاتِبَة - مَرَاتِبَة - وہ زمین  
 جس پر برابرید نہ برسا ہو۔  
 مَرَاتِب - ناک ٹوٹا ہوا۔ خون میں لتھڑا ہوا۔

مَرَج - مَرَج - مَرَج - مَرَج - فرقہ کی طرف نسبت کیا ہوا  
مَرَج - ایک فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایمان کے  
ہوتے ہوئے گناہ کچھ نقصان نہیں دیتا۔  
جیسا کہ کفر کے ساتھ عبادت - اطاعت  
فرمانبرداری کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی -

مَرَج - خوش اور اترانے والا۔ ناز کے ساتھ چلنے  
والا۔ جہ - مَرَج - مَرَج - مَرَج -

مَرَج - (س) حریف اور لڑائی ہونا، خوب خوش ہونا  
اترانا۔ ناز کے ساتھ اٹھنا، کرایا کرنا، چلنا  
آنکھ کا خراب ہونا اور سوج جانا۔

مَرَج - مونگری کرا کر اٹھنے پھینکنے کی۔ ہاتھ نہ دھونے  
کی جگہ بیت الخلاء۔ جہ - مَرَج - مَرَج -  
مَرَج - خوشی، مسرتی، سختی، مص (س) آنکھ  
سے پانی بہنا۔

مَرَج - دتیرے لیے گھر فراخ ہو گیا  
اور تو اپنے گھر والوں میں آ گیا، مسافر  
سے سفر کی واپسی کے وقت بولا جاتا  
ہے - جیسے خوش آمدید

مَرَج - وہ آدمی جس کے پاس کثرت سے  
اونٹ ہوں -

مَرَج - اترنے کی جگہ۔ جہ - مَرَج -  
مَرَج - ہربانی - رحم -

مَرَج - ڈھلا ہوا کپڑا، وہ آدمی جسے پسینہ آ رہا ہو۔  
مَرَج - رحم کیا ہوا -

مَرَج - ایک قسم کا درخت جس سے آگ  
نکلتی ہے۔ مص (د) مسخر پن کرنا  
اپنے جسم پر تیل ملنا۔

مَرَج - نرم و نازک درخت۔ کثرت سے تیل  
ملنے والا آدمی۔

برٹنی ہوئی، خون میں پھٹی ہوئی چیز -  
مَرَج - پراگاہ۔ جہ - مَرَج - مص (ن) چھپایا  
کواجرت نکر کرنے کے لیے چھوڑنا۔

مَرَج - اونٹ بوجھنے کے لیے آزاد چھوڑ دیے  
گئے ہوں، تیاہی۔ بے آرا می مص (س)  
خراب ہونا۔ انکھی میں انگوٹھی کو ہلانا۔

حرکت کرنا۔ ہل جانے پریشان ہونا۔ اس  
لفظ کو جب ہرج کے ساتھ لاتے ہیں  
تو سہ آء کو ساکن کر دیتے ہیں اور ہمیں جہ  
مَرَج پڑھتے ہیں -

مَرَج - وہ پتھر جسے کنویں میں پھینکیں تاکہ اسکی  
گرائی یا پانی کا ہونا نہ ہونا معلوم ہو  
جائے۔ جہ - مَرَج -

مَرَج - ایک قسم کی سرخ پت۔ مونگا۔ چھوٹا  
موتی۔ بہار کے موسم کا ایک ساگ۔  
وا - مَرَج -

مَرَج - لوٹنے کی جگہ۔ جائے بازگشت۔  
جہ - مَرَج -

مَرَج - کاڈھے کا بیجا حصہ۔ جہ - مَرَج -  
مص (ن) الظاہر جانا۔

مَرَج - فساد پھیلانے والا۔ گڑ بڑ ڈالنے والا۔  
مَرَج - پیتل کی دیگی - پتھر کی ہانڈی - کت گمی -

یعنی چادر۔ جہ - مَرَج -  
مَرَج - قوی - سخت اور بہادر آدمی۔ وہ گھوڑا  
جو اپنے ستم اور ٹاپوں سے زمین کو

ادھیڑتا چلا جائے -  
مَرَج - امید رکھا ہوا -

مَرَج - سسگسا رکھا ہوا -  
مَرَج - خشک کدو جس کا گودا نکال لیا ہو -

مَرَد فُوش - مرزنگوش - ایک دوا (مردہ گوش کا معرب) زعفران - ایک خوشبو - نازبو - نلسی -

مَرَدَن - تنکلا - ج: - مَرَادِن -

مَرْدُون - تاریک - گندا و بدبودار پسینہ -

مَرَدُوْد - جس کے سفر کی مدت دراز ہوگئی ہو - پھیر دیا ہوا -

مَرَدُوْدَقَا - استرہ - طلاق دی ہوئی عورت جو اپنے ماں باپ کے یہاں لوٹ آئے -

مَرَدُوْع - جس کے جسم وغیرہ پر خوشبو کا اثر باقی ہو - جس کا بیماری نے رنگ و روپ بدل دیا ہو - زعفران سے رنگا ہوا کپڑا -

مَرْدِي - وہ لکڑی جس سے کشتی چلائی جاتی ہے -

مَرَسْمَا - عیب - بھونڈا پن مص (ن) انگلیوں سے آہستہ آہستہ ٹھکی لینا اس طرح کہ تکلیف نہ ہو - نوچ لینا -

مَرْدَاب - پرنالہ کشتی - ج: - مَرَادِيْب -

مَرْدِيَان - فارسیوں کا سردار - ج: - مَرَادِيْبَتہ -

مَرْدِيْبَتہ - ڈھیلے کوٹنے کی لکڑی - لوہاروں کا ہتھوڑا -

مَرَس - وہ آدمی جو کسی کام میں تکلیف اٹھا چکا ہو مص (ن) گھرنی کی رسی کا ایک طرف کو گھڑنا - بچہ کا اپنی انگلی کو چباننا - ہاتھ کو کپڑے سے صاف کرنا -

مَرَسَال - چھوٹا تیز نرم اور آہستہ چال والی اونٹنی - ج: - مَرَسِيْل -

مَرَسِب - سمجھ دار ضبط کرنے والا - مرد بار آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار مبارک کا نام - ان سات تلواروں میں سے ایک تلوار جنہیں بلقیس نے بطور ہدیہ رکھی -

مَرَحْمَتہ - مرغی جو بچہ نکالنے کے لیے انڈوں پر بٹھائی گئی ہو -

مَرَد - (مصدری) پھیر دینا - لوٹا دینا (ظرف) لوٹانے کی جگہ یا وقت -

مَرَد - درخت اراک کا تروتازہ اور پکا ہوا میوہ مص (ن) روٹی کو نرم کرنے کے لیے جھکونا - زور سے ہانکنا کشتی کو طاہوں کی لکڑی سے ہانکنا - کٹنا کسی کی عورت پر طعن کرنا - بچہ کا ماں کی چھاتی کو ہاتھ سے ملنا -

مَرِدہ - جماع کی خواہش کرنے والا آدمی - بہت موچیں مارنے والا دریا - غصیلا آدمی - وہ بکری جس کے تھن نکل آئے ہوں - اونٹ جو زیادہ پانی پینے سے بھاری ہو گیا ہو - ج: - مَرَاد -

مَرْدَا - چمکدار چکنے گالوں والی لڑکی - عورت کہ جس کے زانو اور شرمگاہ پر بال نہ ہوں - وہ درخت جس پر پتے نہ ہوں - ج: - مَرَاد -

مَرْدَا س - وہ پتھر جسے کنویں میں پھینک کر یہ معلوم کریں کہ پانی ہے یا نہیں - ج: - مَرَادِيْس -

مَرْدَد - غیر مستقل رائے کا آدمی - وہ آدمی جو کام کرنے کا ڈھنگ نہ جانتا ہو وہ شخص جو کسی جگہ سے بغیر مطلب پورا ہوئے واپس آئے - ٹھنکنا آدمی - وہ آدمی کہ جس کے جسم یا کپڑوں پر خوشبو کا اثر باقی ہو -

مَرْدُون - پیچھے سے آنے والا - لاحق -



مَرَض - جسم یا دل کی بیماری - شک - نفاق -  
 تباہی کی نقصان مص (س)، بیمار  
 ہونا - بے چین ہونا -  
 مَرَضَاة - خوشنودی - رضامندی -  
 مَرَضَعَة - دودھ پلائی - دائی - وہ عورت جو غیر بچے  
 کو دودھ پلائے - جہ - مَرَاضِع -  
 مَرَضُود - اوپر تے رکھا ہوا سامان  
 مَرَضِيّ - پسندیدہ - م - مَرَضِيَّة -  
 مَرَضُوف - جلتے ہوئے پتھر پر پھینا ہوا کباب - ہر وہ  
 کھانا جو گرم پتھر پر پکا یا جائے -  
 مَرَط - ادنیٰ پارٹیشی کبل - جہ - مَرُوط -  
 مَرَط - (ن) پتلا پختا خانہ (دست) پھڑنا - ہال  
 اکھاڑنا - جلدی کرنا - بچہ گرا دینا -  
 مَرَط - بے پرکاتیر - جہ - آمَرَط - مَرَط -  
 مَرَط - (س) ہلکے جسم کا ہونا - ہلکی بھول اور  
 ہلکی ڈالھی کا ہونا -  
 مَرَعّ - (ف) سر پر تیل کی مالش کرنا - بالوں  
 میں کنگھی کرنا -  
 مَرَعَة - ایک پرندہ - جہ - مَرَعّ - مَرَعَان -  
 مَرَعِيّ - چراگاہ - جہ - مَرَاغِيّ -  
 مَرَعّ - حلوک - رال وغیرہ جو کچھ بھی منہ سے  
 جاری ہو - بکریوں کی مینگٹیاں اکٹھا ہونے  
 کی جگہ - زیادہ گھاس والا جنگل -  
 مص (ن) گھاس میں لوٹنا - اونٹ  
 کا جھاگ پھینکنا -  
 مَرِغ - وہ ہال جن میں تیل بہت زیادہ جذب  
 ہوا اور جلد خشک ہو جائے -  
 مَرِغ - (س) کسی کی عزت اور آبرو پر بڑے لگنا -  
 مَرَعُوب - جس کی طرف رغبت اور خواہش کی گئی ہو - پسندیدہ

حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس  
 بھیجا تھا -  
 مَرَسَة - رسی - جہ - مَرَس - آمَرَس -  
 مَرَسَج - تقیض کا اسٹیج - (د)  
 مَرَسَل - بھیجا ہوا پیغمبر - رسول - فرستادہ - وہ  
 حدیث جسے تابعی بلا واسطہ صحابی آنحضرت  
 علیہ الصلوٰۃ والسلام سے روایت کئے  
 مَرَسِل - بھیجنے والا - روانہ کرنے والا -  
 مَرَسَلَات - ہوا میں فرشتے گھوڑے - بھیجی  
 ہوئیں - وا - مَرَسَلَة -  
 مَرَسَلَة - لمبا مار جو سینہ تک شکے - بھیجی ہوئی -  
 مَرَسَلَة - بھیجنے والی -  
 مَرَسِيّ - واقع ہونے اور موجود ہونے کا وقت  
 اور جگہ - ٹھہرنے اور قائم ہونے کا وقت  
 اور جگہ -  
 مَرَش - وہ زمین جو مینہ سے صاف شفاف اور  
 چکنی ہوگئی ہو یا وہ (سیل ہوئی اور نرم)  
 زمین جس میں تھوڑا سا پانی بھی بہ سکے -  
 جہ - آمَرَأَس - مص (ن) پھیلنا  
 انگلی کے سرے سے گھسنا - کوئی بات  
 کہہ کر کسی کو رنج پہنچانا -  
 مَرَشَح - بنیان - بندھی - جہ - مَرَأَشَح -  
 مَرَشِد - پیر - رہنما - راستہ دکھانے والا -  
 مَرَصَاد - راستہ - گھات کی جگہ جہاں دشمن کا  
 انتظار کریں - جہ - مَرَأَصِيد -  
 مَرَصِد - گھات کی جگہ - جہ - مَرَأَصِد -  
 مَرَصِص - قلعی کیا ہوا - سیسہ لگا ہوا -  
 مَرَصَع - وہ تاج یا ٹائلاں میں جو اہر بڑے ہوئے ہوں -  
 مَرُوض - مضبوط - سیسہ پگھلایا ہوا -

مَرَقَاء - کشتی یا جہاز کے کنارہ پر آنے کی جگہ۔  
بندر گاہ۔ جہ۔ مَرَاۓ۔

مَرَقَد - بڑا ایسا لہ گدی جسے عورتیں سرین یا  
چھاتیوں پر باندھ لیتی ہیں تاکہ بڑے  
معلوم ہوں۔ جہ۔ مَرَاۓ۔

مَرَقَق - کہنی نفع بخش کام۔ جہ۔ مَرَاۓ۔  
مَرَقُود - عطا کیا ہوا۔ دیا ہوا۔

مَرَقُوع - اونچا۔ بلند کیا ہوا۔ م۔ مَرَقُوعۃ۔  
مَرَق - شور یا مص۔ (س) گھوڑا کا پھل

کثرت کے سبب سے گر پڑنا۔ اٹلے  
کا گندا ہونا۔

مَرَق - ڈونوں اور لوٹلیوں کا گانا۔ بدبودار  
کھال۔ گوشت جو اتاری ہوئی کھال

میں لگا رہ گیا ہو۔ جہ۔ اَمْرَاق  
مص (ن) پھرتی کے ساتھ نیزہ چلانا

ہانڈی میں شور یا بڑھا دینا۔  
مَرَقَاۃ - سیڑھی کا ڈنڈا۔ جہ۔ مَرَاۓ۔

مَرَقَب - دور بین (د)  
مَرَقَبۃ - اونچائی پر چوکیدار کے بیٹھنے کی جگہ۔

مَرَقَد - سونے کی جگہ۔ قبر۔ خواب گاہ۔ جہ۔  
مَرَاۓ۔

مَرَقَم - قلم۔ جہ۔ مَرَاۓ۔  
مَرَقُوم - لکھا ہوا۔ مکتوب۔

مَرَقُومۃ - لکھی ہوئی۔ کم اگانے والی زمین۔  
دھاری دار۔ چوبایہ جس کے پاؤں پر

داغ کے خطوط ہوں۔  
مَرَقَب - سواری کا جانور کشتی۔ جہ۔ مَرَاۓ۔

مص (س) سوار ہونا۔  
مَرَقَبۃ - گاڑی (د)۔ جہ۔ مَرَاۓ۔

مَرَقَب الہوائی - ہوائی جہاز (د)  
مَرَقَس - دائرہ کا بیج۔ لوگوں کے رہنے کی جگہ۔

چھاؤنی جہ۔ مَرَاۓ۔ (د) بیڈ کوارٹر  
مَرَقَص - دھونکنی۔ پھونکنی۔

مَرَقَصۃ - کمان کا بازو۔ وہ گھوڑا جو اپنی ٹاپوں  
سے زمین لھوڑے۔

مَرَقَل - راستہ۔ چوبایہ کا پہلو۔ جہاں آنے سے پہلے  
ہانکا جاتا ہے۔ جہ۔ مَرَاۓ۔

(ارض) مَرَقَلۃ - گھوڑوں کے سموں سے  
روندی ہوئی زمین۔

مَرَقَن - لگن۔ بڑا آشت یا تغار جس میں دھوبی  
کپڑے دھوتے ہیں۔ جہ۔ مَرَاۓ۔

مَرَقُوم - تہ بہ تہ رکھا ہوا بیچ اور لٹکایا ہوا۔  
مَرَمَاۃ - چھوٹا تیر۔ چوبائے کا ہاتھ۔ وہ ٹم جو

بیچ میں سے پھٹا ہوا ہو۔  
مَرَمَات - بلائیں۔ مصیبتیں۔

مَرَمۃ - اس جانور کا ہونٹ جس کا ٹم پھٹا ہوا ہو۔  
مَرَمۃ - (ن) بڑی ہوئی چیز کو درست کرنا۔

مَرَمَد - گرم راکھ میں بیٹنا ہوا۔ راکھ میں بھرا ہوا۔  
آنکھ کا دکھیا آدمی۔

مَرَمَر - ایک قسم کا سفید پتھر وہ انار جس میں  
بہت سارے نکلے۔ عورتوں کی ایک

قسم کی چادر۔ ہرزوم اندنا رک چمکتی  
ہوئی چیز۔ جہ۔ مَرَاۓ۔

مَرَمَرۃ - زیادہ بارش۔ غصہ کرنا۔ پانی کو زمین  
پر بہانا۔

مَرَمَرۃ - بلا۔ سختی۔ ہر پھلوں اور چمکدار چیز  
لمبی گردن۔ بختر زمین جس میں پیداوار نہ ہو۔

مَرَمِعۃ - بیابان۔ جنگل۔

مَرَمَعَاتُ الْأَخْبَارِ - جمہولی اور غلط خبریں۔  
 مَرْمُورَةٌ - نرم اور نازک لڑکی، خوشی اور عیش و  
 آرام کی وجہ سے جمہولتی ہوئی۔  
 مَرْمُوحٌ - مقصد: ارادہ مطلب تیرھینکنے کی جگہ۔  
 مَرْمُوسٌ - گیتنڈا۔ ج:۔ مَرْمُوسٌ  
 مَرْمُونٌ - درخت کی شاخوں پر لکڑیاں باندھ کر  
 بنایا ہوا چان، مَرْمُونٌ حال۔ عادت۔ آواز  
 مَرْمُونٌ - لڑائی (ن) گھس جانے کے سبب  
 اونٹ کے سم کو چکنا کرنا۔ زمین پر بیٹھنا  
 دشمن کے مقابلہ سے بھاگ جانا۔  
 مَرْمُونَةٌ - کمان۔ آواز والی کمان۔  
 مَرْمُوتِحٌ - بے ہوش۔ بدحواس۔ سر پھرا ہو کسی کی  
 نہ سنتا ہو۔ بڈیوں کے کمزور ہونے کی  
 وجہ سے ہلتا ہوا اور لہر کر چلنے والا۔  
 (مَاءٌ) مَرْمُودٌ - سیراب کرنے والا پانی۔  
 مَرْمُودَةٌ - (ك) آدمی کا مروت والا ہونا۔  
 مَرْمُودَةٌ - مکہ معظمہ کی ایک پہاڑی کا نام۔  
 مَرْمُودٌ - رواج پایا ہوا۔  
 مَرْمُودٌ - مَرْمُودَةٌ - پنکھا۔ ج:۔ مَرْمُودٌ۔  
 مَرْمُوسٌ - خوش و خرم آدمی۔ صحیح نشانہ لگانے  
 والا۔ خوبصورت اور ابھی تیر چھوڑنے  
 والی کمان۔  
 مَرْمُودَةٌ - جنگل ہوا کے گندنی جگہ۔ ج:۔ مَرْمُودٌ  
 مَرْمُودٌ - مَرْمُودَةٌ - (ك) (ن) جھگڑا  
 سرکش اور بہادر ہونا اپنے ساتھیوں  
 سے آگے نکل جانا [علی] کسی چیز کا  
 عادی ہونا۔  
 مَرْمُودٌ - سرمہ کی سلانی۔ حلقہ۔ لگام کا گول  
 ٹوٹا۔ لہبے کے ڈول کی چرخہ۔ ج:۔

مَرْمُودٌ -  
 مَرْمُوسٌ - (ن) گزرنہ۔  
 مَرْمُودٌ - (ن) تیر کا خطا کرنا۔  
 مَرْمُونٌ - مَرْمَانَةٌ (ن) کچھ سخت اور نرم ہونا  
 [علی] کسی چیز کی عادت ڈالنا۔  
 مَرْمُوعٌ - (س) آنکھ کا سرمہ سے خالی ہونا سرمہ  
 نہ لگنے کی وجہ سے خراب ہونا۔ سرمہ  
 کا خط کھینچنے کی جگہ، یعنی آنکھ کے  
 گرداگرد سفیدی کا ہونا۔  
 مَرْمُوعٌ - تیز دڑنے والا گھوڑا۔ ج:۔ مَرْمُوعٌ  
 مَرْمُوعَةٌ - خالص سفیدی۔ وہ گڑھا جس میں  
 بارش کا پانی جمع ہو جائے۔  
 مَرْمُوعٌ - پتلی تلوار۔ باریک پیٹ کا گھوڑا۔  
 مَرْمُوعٌ - بتوالخ ہو گیا ہو۔  
 مَرْمُوعٌ - کم عقل اور جاہل۔ فاسد۔ کریم یعنی۔  
 مَرْمُوعٌ - وہ دوا کہ جوزخم کے اچھا ہونے کے  
 لیے لگاتے ہیں۔ ج:۔ مَرْمُوعٌ۔  
 مَرْمُوعَةٌ - زخم پر مرہم رکھنا۔  
 مَرْمُوعٌ - گردی رکھا ہوا۔  
 مَرْمُوعٌ - (ن) اونٹنی کی چھاتی کے ادھری حصہ کو  
 ملنا۔ نکالنا کسی کے حق کا انکار کرنا۔  
 کوڑے سے مارنا۔ گھوڑے کا پاؤں کی  
 پوٹ کی وجہ سے پاؤں گھسیٹتے ہوئے  
 چلنا۔ ہوا کا ابر سے پانی پھوڑنا۔  
 مَرْمُوعٌ - بہت دودھ والی اونٹنی۔ بغیر بچے  
 کی اونٹنی کہ ہاتھ سے مل کر اس کو  
 دوئیں۔ ج:۔ مَرْمُوعٌ۔  
 مَرْمُوعٌ - بچنے والا۔ ہضم ہونے والا۔ خوشگوار  
 مَرْمُوعٌ - اونٹنی جلد دودھ دینے والی یا جلد

اور گرم کم ہوگئی ہو۔ اَرْضٌ مَرِيْضَةٌ۔  
خراب حال زمین۔ عَيْنٌ مَرِيْضَةٌ  
نشہ اور خمار والی آنکھ۔

مَرِيْطَاءٌ۔ ناف اور زہار یا سینہ اور زہار کے  
درمیان کی ڈور گیس جو زور سے بولنے  
کے وقت پھول جاتی ہیں۔ ہونٹ کے  
نیچے خالی جگہ۔ بغل۔

مَرِيْحٌ۔ وہ جنکل جہاں گھاس۔ چارہ۔ پانی  
کثرت سے ہو۔ بڑی چراگاؤ۔ ج۱۔  
اَمْرَعٌ۔ اَمْرَاعٌ۔

مَرِيْهٌ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ  
ماجدہ کا نام۔ ہر پارسا پر سیر گزار عورت۔  
جو مردوں کی باتوں کو دوست نہ رکھے۔

مَرِيْعٌ۔ آدمی۔ بکری وغیرہ کے اوجھ اور معدہ  
کا سراجو حلق سے چسپاں ہوتا ہے۔  
ج۱۔ اَمْرِيْعَةٌ۔ مُرْوَةٌ۔ خوش ہضم  
کھانا۔ عمدہ گھاس۔

## م-م

مِرٌّ۔ اندازہ۔ زیادتی۔

مَرٌّ۔ (ن) چوسنا۔

مُرٌّ۔ خوش مزہ شراب۔ کھٹ مٹھی۔

شراب یا انار

مِرْاَجٌ۔ ملانے کی چیز۔

مِرْاَجِرَةٌ۔ اسکول میں دو پہر کی چھٹی۔ (د)

مِرْاَحَةٌ۔ بڑھ جانا۔ زیادہ ہو جانا۔ قریب ہونا

آپس میں جمع ہونا۔

مِرْاَدٌ۔ نیلام (د)

مِرْاَسٌ۔ مِرْاَسَةٌ۔ بزرگوں کی قبر۔ مزار۔

موٹی ہونے والی یا بغیر چرانے والے  
کے چراگاؤ میں جانے والی اور واپس  
آجانے والی۔

مَرِيْبٌ۔ تممت و شک والا۔ شک و شبہ  
میں ڈالنے والا۔

مَرِيْبٌ۔ تردد۔ شک۔ جھگڑا۔ دشمنی۔ بہت  
دودھ والی اونٹنی۔

مَرِيْبٌ۔ سینک کے اندر چھوٹی سی بڑی۔  
شہ میں ڈالنے والا کام بٹنیوں میں  
گھسی ہوئی ٹہنی۔ ج۱۔ اَمْرِيْبَةٌ۔

مَرِيْبٌ۔ خوش خوش۔ آترا کر ناز سے چلنے والا۔  
مَرِيْبٌ۔ مردار سنگ۔ بیوقوف اور سست  
آدمی لبا تیر چار پرکا۔ پانچویں آسمان کا

ستارہ (اسے بہرام بھی کہتے ہیں۔  
اور یہ منحوس مانا جاتا ہے) نرم  
اور نازک درخت۔

مَرِيْدٌ۔ حد سے گزر جانے والا سرکش چھوڑا  
دودھ یا پانی میں ترکیب ہوا۔ ج۱۔  
مَرْدَاٌ۔ مَرْدَاَةٌ۔

مَرِيْرٌ۔ قصد ارادہ مضبوطی ہوئی رسی۔  
پھاڑ قوی اور مضبوط پتہ والا آدمی۔

مَرِيْرَةٌ۔ ارادہ۔ قصد۔ سخت بٹی ہوئی رسی۔  
باریک رسی کا بٹ۔ نفس کی بزرگی۔

ج۱۔ مَرَاْرِيْدٌ۔

مَرِيْضٌ۔ بیمار۔ ج۱۔ مَرَاَضٌ۔ مَرَاَضِيٌّ  
مَرَاَضِيٌّ۔

مَرِيْضَةٌ۔ سست حال۔ رِيْحٌ مَرِيْضَةٌ۔  
آہستہ چلنے والی ہوا۔ شَمْسٌ مَرِيْضَةٌ۔  
سوچ کر ابر چھا جائیسی درجہ سے اسکی روشنی

ذائقہ اور مزہ کے لیے پینا۔ انگلی سے  
 نرم چٹکی لینا کسی پرغصہ کرنا۔ تھوڑا پینا۔  
 مَزْدَاب - پر نالہ۔ جہ:۔ کھنرا اریب۔  
 مَزْس - بے وقوف۔ عادت۔ طبیعت کسی چیز  
 کی اصل۔

مَزْدَد - وہ ڈورا جو اونٹ کے گلے میں اس  
 لیے باندھ دیا جاتا ہے کہ جگالی نہ کرے  
 جہ:۔ مَزْدَاد۔

مَزْرَعَة - کھیت۔ کھیتی۔ جہ:۔ مَزْرَاع -  
 مَزْرُوع - بویا ہوا کھیت۔

مَزْس - زمانہ۔ زیادتی۔ آہستگی مص (دس)  
 زیادہ ہونا۔ بڑھنا۔

مَزْرَع - مَزْرَعَة - گھوڑے کی دوڑ کا شروع  
 یا آخر۔ روٹی مص۔ (دفع) تیز جانا۔  
 آہستہ دوڑنا۔

مَزْرَعَة - تھوڑے سے پر۔ تھوڑی سی روٹی۔  
 جہ:۔ مَزْرَع۔

مَزْرَعَة - گوشت کا ٹکڑا۔ ایک گھونٹ پانی۔  
 کسی چیز کا کچھ حصہ۔

مَزْعِف - جھٹ پٹ ختم کر دینے والی موت۔ تلوار  
 بولنے رخمی کو زندہ نہ چھوڑے۔

مَزْعَق - کدال۔ پھاوڑا (زمین کھودنے کا  
 اوزار) جہ:۔ مَزْأَعَق - تیز مال

مَزْعُوق - ڈرنے والا۔ وہ کھانا جس میں نمک  
 زیادہ ہو۔

مَزْقَة - دُسن کا ڈولہ۔ فینس۔

مَزْق - کپڑے کے ٹکڑے۔ چیتھڑے۔  
 واہ:۔ مَزْقَة۔

مَزْق - (ن) کپڑے کے ٹکڑے کا کرنا۔

مَزَارَة - سخت دل ہو جانا۔

مَزَارَعَة - آپس میں کھیتی کرنا۔ بٹائی پر زمین دینا۔  
 مَزَاق - تیز چلنے والی اونٹنی۔

مَزَاكِنَة - آپس میں قریب ہونا۔ اٹکل اور گمان  
 سے ایک بات کہنا۔

مَزَالِف - مرتبے۔ واہ:۔ مَزَالَفَة۔

مَزَامَلَة - اونٹنی سوار کے پیچھے بیٹھنا۔

مَزَادَلَة - کوئی کام خوب کرنا اور اس میں پختہ  
 ہو جانا کسی کام کا ارادہ کرنا۔ رَجَج

اور تکلیف اٹھانا۔

مَزَاهَمَة - آپس میں دشمنی کرنا۔ جدا ہوا۔ دوستی کرنا  
 قریب ہونا (لغات اضداد میں ہے)

مَزْبُور - لکھا ہوا۔ پتھر کا بنا ہوا کتوں۔  
 مَزْرَة - ایک بار پوسنا۔ مزہ دار شراب۔

مَزْج - (ن) غلط ملط کرنا۔ ملانا۔ کتوں یا  
 آدمیوں کو ایک دوسرے پر بھڑکانا۔

مَزْجِي - تھوڑی سی چیز۔ م۔ مَزْجَاة -  
 مَزْجِي - وہ شخص جو کسی قوم یا گروہ میں رہنے

سنے لگا ہوا اور پہلے سے اس میں داخل نہ ہو۔  
 مَزْح - مَضْحَاة۔ مَضْحَاة۔ (دفع) مذاق کرنا

مَزْحُوح - دور کرنے والا۔ دفع کرنے والا۔  
 مَزْحِف - تھکا ہوا اونٹ نکلے ہوئے اونٹ والا۔

مَزْحَم - بھیڑ۔ جگمگھٹ۔ جہ:۔ مَزْأَحْم -  
 مَزْدَح - چالاک آدمی کسی کام کو جلد سمجھ لینے  
 والا۔

مَزْدَجَر - ڈانٹ ڈپٹ۔ ڈانٹا ہوا۔

مَزْس - اچھی عادت والا۔ ذہین اور ہوشیار۔  
 آدمی مص (ن) مشک کو اچھی طرح

بھرنے اور اس میں اونچائی شجائی نہ رہے۔

۱۰۱۔ مَزُونَة۔

مَزُون - عادت۔ طریقہ۔ طور۔ حال۔ حالت۔  
مَزُون - (ن) اپنے ارادہ پر باقی رہنا اور اسی  
کے مطابق عمل کرنا۔ چہرے کا چمکنا۔  
مشک کو بھڑنا۔ تعریف کرنا۔ فضیلت  
دینا۔

مَزُونَة - بینہ۔ سفیداب۔

مَزُونَة - بخیل۔ بری عادت والا۔ منہ بولا بیٹھا۔

کپڑا جس کا عرض کم ہو۔

مَزُونَة - ناکارہ۔ کم قیمت۔ اونٹ، وہ اونٹ جس  
کے کان کا کنارہ کاٹ کر لٹکا دیا گیا ہو۔ منہ  
بولا بیٹھا۔ وہ آدمی جو کسی قوم یا گروہ میں  
جاٹا ہو حالانکہ ان میں سے نہ ہو۔

مَزُونَة - مہوٹے نکلا ہوا کپڑا۔

مَزُونَة - توشہ دان۔ جر۔ مَزُونَة۔

مَزُونَة - اف۔ خوش طبعی اور ہنسی مذاق کرنا۔

مَزُونَة - ہنس مکھ آدمی۔ چالاک۔ ہوشیار

مَزُونَة - فضیلت۔ زیادتی۔ جر۔ مَزُونَة۔

مَزُونَة - زیادتی۔ زیادہ چیز۔ زیادہ کیا ہوا

مَزُونَة - دھاڑنے والا شیر۔

مَزُونَة - زینت دینے والا۔ سجانے والا۔ (د)

نائی۔

مَزُونَة - زینت دیا ہوا۔ سجایا ہوا۔

م-س

مَسَس - مَسَسِیْن - مَسَسِیْنِی (س-ن)

پھونڈا۔ مجموعاً۔ پاگل ہو جانا۔

مَسَس - پاگل پن۔ دیوانگی۔ مارش۔

مَسَس - مَسُوَع - (ف) ٹڈر ہو جانا۔ بیچ راستہ میں چلنا۔

سہارا ڈالنا کسی کی آبرورہلکہ کرنا۔ عیب  
لگانا۔ پرندے کا بیٹ کرنا۔

مَزَّاجِر - وہ تالا جو بیخوبی کے کھل جائے۔ کھلے اور  
دبے سرین کی عورت۔ جر۔ مَزَّالِیْم۔

مَزَّالَة - پھسلنے کی جگہ پھسلن۔ جر۔ مَزَّال -  
میں (ص) پاؤں کا پھسلنا۔

مَزَّالْفَة - ہر گاول جو جھگڑ اور کھیت کے درمیان  
میں ہو۔ جر۔ مَزَّالْف -

مَزَّالِق - مَزَّالْفَة - پھسلوان جگہ۔ کچھ اور پھسلنے  
کی جگہ۔ جر۔ مَزَّالِق -

مَزَّال - بہت خیر و احسان کرنے والا آدمی۔

مَزَّوْم - کھلے بدن کا چالاک آدمی۔ ہنس مکھ اور  
اچھی عادت کا آدمی۔ گول بدن کا مضبوط  
گھوٹا۔ اچھا ترشا ہوا تیز چھوٹے جسم  
کی پہاڑی بکری۔

مَزَّوْمَة - ہلکا ہلکا گندرنے والا۔ دوڑ وغیرہ میں  
آگے نکل جانے والا۔ سفر کرنے والا۔  
موجود اور قائم رہنے والا۔

مَزَّوْمَار - بانسری۔ جر۔ مَزَّوْمِیْر

مَزَّوْمِیْر - بہت سے دف راک گانے بلبے۔ اچھی  
آواز۔ ۱۰۱۔ مَزَّوْمَاس -

مَزَّوْمَة - حرکت دینا۔ ہلانا۔

مَزَّوْمِع - وہ آدمی جو کسی کام کا پکا ارادہ رکھتا ہو۔

مَزَّوْمِل - کپڑے میں لپٹنے والا۔

مَزَّوْمِیْل - سیدھا۔ پاؤں پر کھڑا ہونے والا۔

صاف پانی۔

مَزُون - دشمن سے بھاگ جانے کا دن۔ یوم

مَزُون بولتے ہیں۔

مَزُون - ابر سفیداب۔ پانی سے بھرا ہوا بادل۔

مَسَافَاة - گالیاں دینا۔ دوادارو کرنا۔  
 مَسَافِح - زنا کار۔ م۔ مَسَافِحَة۔  
 مَسَافِحَة - زنا کرنا۔ حرام کرنا۔  
 مَسَافِرَة - سفر کرنا۔ مرجانا۔  
 مَسَافِح - زنا کرنے والا۔ حملہ کرنے والا۔  
 ایک دوسرے کی گردن میں ہاتھ  
 ڈالنے والا۔ مضاربت کا لین دین  
 کرنے والا۔  
 مَسَافِهَة - گالیاں بکنا۔ شراب پینے میں فضول  
 خرچی کرنا۔ بیوقوفی کرنا۔  
 مَسَافِی - مَسُوق - (ن) بانگنا۔  
 مَسَاقِطَة - گھوڑے کا دوسرے گھوڑوں سے  
 گھوڑ دوڑ میں آگے نکل جانا۔ باری  
 باری بات کرنا۔  
 مَسَاك - کنبوسی۔ پانی کے ٹھرنے کی جگہ۔  
 مَسَاكَة - مَسَاك - کنبوسی۔  
 پانی ٹھرنے کی جگہ۔ گڑھا وغیرہ یا۔ نیچی  
 زمین۔  
 مَسَاكَة - مشک میں پانی کا بہت آنا۔  
 مَسَاكَة - چہرہ کی بیضاویت۔ چہرہ کی اس قدر  
 لمبائی جو بھلی معلوم ہو۔  
 مَسَامُ الْجَسَد - بالوں کی جڑوں کے سوراخ  
 مَسَامِحَة - کسی کے ساتھ آسانی برتنا۔ سستی کرنا  
 (د) بے تعصبی۔ چھٹی۔  
 مَسَامِرَة - باہم قصہ کہانی کرنا۔  
 مَسَاكَاة - کسی کو خوش کرنا اور اس کی خاطر کرنا۔  
 کوئی چیز ایک عرصہ تک ہر سال  
 دینا۔  
 مَسَانِدَة - مختلف الروفین شعر کہنا۔

کسی کے درمیان فساد کرنا۔ تباہی  
 ڈالنا۔ کسی چیز پر ہیشگی کرنا  
 مَسَاء - شام۔ ضد صبح۔  
 مَسَاكَة - آپس میں گالم گلوچ کرنا۔ بخش بکنا۔  
 مَسَابِغَة - جماع مہی (مفاعلہ) جماع کی کثرت پر  
 فخر کرنا۔ بخش بکنا۔  
 مَسَابِقَة - دوڑنے میں سبق لے جانا۔ بھاگنے  
 میں مقابلہ کرنا۔  
 مَسَاجَاة - چھوٹا کوشش کرنا۔ علاج کرنا۔  
 مَسَاجِد - ساتوں اعضاء جو سجدہ کی حالت میں  
 زمین پر ٹیکے جاتے ہیں۔ مسجدیں۔  
 ۱۰۔ مَسْجِد -  
 مَسَاجَلَة - شعر گوئی یا گھوڑ دوڑ میں آپس میں مقابلہ کرنا  
 مَسَايِن - زرد پتھر چاندی۔ پتلی پتھری جس پر  
 چاقو وغیرہ تیز کیا جائے۔  
 مَسَاخَنَة - طاقات۔ آپس کا اچھا برتاؤ۔ آپس میں  
 رہنے کا اچھا طریقہ۔ مص۔ (مفاعلہ)  
 کسی کی حالت کو غور و خوض سے دیکھنا  
 اور اچھا پانا۔  
 مَسَاخَفَة - ایک دوسرے کی بیوقوفی میں مدد کرنا۔  
 مَسَا د - مَسَا د - گھی یا شہد کی مشک۔  
 مَسَا سَرَة - کسی سے راز کی بات کرنا۔  
 مَسَاس - مالش۔ چھونا۔ (اسم)  
 مَسَاعَاة - لوٹ پھوٹ سے زنا کرنا۔ کوشش کرنے میں  
 کسی سے مقابلہ کرنا۔  
 مَسَاعِد - اسٹنٹ (د)  
 مَسَاعِدَة - مدد کرنا۔  
 مَسَاعِفَة - قدرت و طاقت دینا۔ مدد کرنا۔  
 قریب ہونا۔

جس کی استکھیں چڑھی ہوئی ہوں۔

مَسْبُوق - سبقت کیا ہوا۔ عاجز و در ماندہ۔

مَسْبُوب - وہ بوڑھا جو بڑھاپے کی وجہ سے سطح گیا ہو۔ تیز بولنے والا آدمی۔

مَسْتَاخِل - بیماری کی وجہ سے عاجزی کرنے والا۔

دروغ کی وجہ سے گردن جھکانے والا۔

مَسْتَاخِر - پیچھے ہٹنے والا۔

مَسْتَاوِل - بڑے اکھڑا ہوا۔

مَسْتَاوِل - ایک دوسرے کو تلوار سے مارنے والا۔

مَسْتَاوِل - انس پکڑنے والا۔

رَأْسُ مَسْتَاوِل - نیا کام جو پلے نہ کیا گیا ہو۔

مَسْتَبْشِرَة - خوش ہونے والی۔

مَسْتَبْصِر - بصیرت طلب کرنے والا۔

مَسْتَبْئِن - واضح۔ روشن۔

مَسْتَبْغَاة - عورت جس کو حیض و نفاس کے علاوہ

استحاضہ کا خون آ رہا ہو۔

مَسْتَحْبَب (مَحْبَب) - مضبوطی ہوئی رسمی۔

مَسْتَحْفَظ - محفوظ (د)

مَسْتَحْفَظُ الْقَطَار - ریلوے کارڈ۔ (د)

مَسْتَحْكَم - مضبوط۔ پائیدار۔

مَسْتَحْكَم - حمام بغسل خانہ۔ نہانے کی جگہ۔

مَسْتَحْبِل - بھرا ہوا۔ لبالب۔ وہ بات جس کا سر پیر

نہ ہو۔ بے نیاز۔ محال کام۔ دشوار۔

مَسْتَحْدَم - نوکر۔ چاکر۔ (د)

مَسْتَحْف - چھپنے والا۔ پوشیدہ۔

مَسْتَحْلِف - جانشین ہونے والا۔

مَسْتَدْحِي - اپنی ناک میں سے سر جھکانے ہوئے

خون نکالنے والا۔

مَسْتَدْرِب - اونٹوں وغیرہ کے پیچھے پیچھے چلنے والا

کسی کو قوت اور مدد پہنچانا [علیٰ]

کسی کام پر بدلہ دینا۔

مَسَادِدَة - کسی سے کمزور و کمزور کرنا۔ شہر کو بھگانا۔

کسی سے لڑائی کی بات کہنا۔

مَسَاوِدَة - کسی سے بڑائی میں مقابلہ کرنا یا تمکنا

دور کرنا۔

مَسْئُول - سوال کیا ہوا۔ جوابدہ۔

مَسَاهَلَة - کسی کے ساتھ آسانی اور نرمی کرنا۔

مَسَاهَمَة - آپس میں قرعہ ڈالنا۔

مَسَايِرَة - کسی کے ساتھ برابر چلنا۔ چلنے میں

کسی کے ساتھ مقابلہ کرنا۔

مَسَابِي - گھاٹی۔ پہاڑ کا راستہ۔ ج۔

مَسْبَار - زخم کی سلاخی (جس سے زخم کا گہرا او معلوم

کیا جاتا ہے)۔ ج۔

مَسَابِي - جولانی جگہ سے نہ پلے۔ ہفتہ کی سچری

کے دن میں داخل ہونے والا۔

مَسَابِي - بہت زیادہ موٹی چادر۔

مَسَابِي - تسبیح کرنے والا۔

مَسَابِيَة - شہادت کی انگلی جو انگلی کے قریب

ہوتی ہے۔ تسبیح کرنے والی۔

مَسَابِي - منہ بولا، پیشا حرامی، وہ کچھ جس نے

مال مر جانے کی وجہ سے غیر عورت کا

دوہہ پایا ہو۔ محل کے بعد ساتویں

مینہ میں پیدا ہونے والا بچہ۔

مَسَابِي - باغیچہ کو لٹکانے والا۔ غور اور

تفکر کی وجہ سے جوئے کا پانچواں یا

چھٹا تیر۔ ڈکرہ۔

مَسَابِي - لمبی موچھوں والا۔ بد صورت بڑھا۔

مَسْبُوس - مردہ۔ بیہوش۔ کر دھ پر لیا ہوا۔ بیمار



مُسْتَعَانَ - وہ شخص جس سے مدد چاہی جاوے۔

باری تعالیٰ کا اسم صفت۔

مُسْتَعَجِم - وہ شخص جو صاف بات نہ کر سکے  
گوئیگا۔

مُسْتَعْرِبَةٌ - غیر عرب لوگ جو عربوں میں شامل

ہو گئے ہوں۔ عربوں جیسی وضع

قطع بنانے والے۔ غیر خالص عربی

وا۔ - مُسْتَعْرِبٌ۔

مُسْتَعْمِرٌ - نو آبادی (د)

مُسْتَحْمَلٌ - پرانا۔ کام میں لایا ہوا۔

مُسْتَعْفِضٌ - مخفرت طلب کرنے والا۔ معافی

چاہنے والا۔

مُسْتَفِيضٌ - فائدہ چاہنے والا۔ فائدہ حاصل

کرنے والا۔

مُسْتَقْبَلٌ - آگے آنے والا۔ سامنے آنے والا۔

مُسْتَقْلَةٌ - لمبی آستین کا لباس۔ ایک آلہ جس

سے چنگ (ایک باجر) وغیرہ بجاتے

ہیں۔ جہ۔ - مَسَارِقٌ۔

مُسْتَقْدِمٌ - مقدم ہونے والا۔

مُسْتَقْتَسٌ - ٹھہرنے والا۔

مُسْتَقْتَسٌ - ٹھہرایا ہوا۔ ٹھہرنے کی جگہ۔ ٹھہرنا۔

مُسْتَقْلِمٌ - سیدھا۔ درمیان۔ متوسط۔

مُسْتَكْبِرٌ - بڑائی چاہنے والا۔ اپنے آپ کو

بڑا سمجھنے والا۔ مغرور۔

مُسْتَكْبِرٌ - ذلیل و خوار آدمی۔

مُسْتَكْبِبٌ - چھین کر لے جانے والا۔

مُسْتَمِدٌّ - جاری ہونے والا۔ گزرنے والا۔

سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ - سخت جادو۔

(یوم الخس) مُسْتَمِرٌّ - بہت ہی منحوس دن۔

مُسْتَرَاخٌ - پاجانہ (د)

مُسْتَرٌ - غلاف۔ پوشش۔ وہ کپڑا جو کسی چیز

پر ڈھانپا جائے جہ۔ - مَسَاتِرٌ۔

(د) مَسْرٌ۔

مُسْتَرِيحٌ - بہت والا اور صابر آدمی۔ بہادر جو

کسی کام کے لیے کرباندہ لے۔

(شعر) مُسْتَرِيحٌ - ٹکے ہوئے بال۔

مُسْتَرِقٌ - دہلا۔ تپلا۔ ضعیف۔ پیدائشی کمزور

چھپ کر کسی کی بات سننے والا۔

مُسْتَسْقَى - پانی طلب کرنے والا۔ استسقاء

(ایک بیماری جس میں پیٹ پھول

جاتا ہے) کا بیمار۔

مُسْتَسْلِمٌ - سونپنے والا۔ سلامت چاہنے والا۔

مُسْتَسْرِنٌ - رونا ہوا راستہ جس میں آدمی

کثرت سے چلتے ہوں۔

مُسْتَشَارٌ - مشیر سلطنت (د)

مُسْتَشْفَى - شفا خانہ (د) جہ۔ - مُسْتَشْفِيَاتٌ

مُسْتَشِيرٌ - سائڈ۔ اونٹ جو حاملہ اور غیر حاملہ

اونٹنی میں فرق کر سکے بشورہ طلب

کرنے والا۔

مُسْتَشِيْطٌ - خوب بننے والا۔ موٹا اونٹ۔

کبوتر جو اڑتا ہوا اچھا معلوم ہو۔

مُسْتَصْرِخٌ - چیخنے والا۔ فریاد کرنے والا۔

مُسْتَضْعَفٌ - کمزور سمجھا ہوا۔

مُسْتَضِيْفٌ - فریاد کرنے والا۔ انصاف چاہنے

والا۔ مہمانی چاہنے والا۔

مُسْتَطَلٌ - لکھا ہوا۔ درج کیا ہوا۔

مُسْتَطِيْرٌ - پھیل پڑنے والا۔

مُسْتَطِيْلٌ - لمبا طویل۔ پہلی فجر صبح کا ذب۔

مَسْمُوك - پکڑنے والا۔ چنگل مارنے والا۔

مَسْمَطِر - بارش کا طلب کرنے والا۔ خاموش۔

نیک اور خیر کا چاہنے والا۔

مَسْمُوح - کان لگا کر سننے والا۔

مَسْمُوكِيَت - بہادر۔ دلیر موت کو پیارا سمجھنے

والا۔ لڑائی اور جنگوں میں کود

پڑنے والا۔

مَسْمُوكِيَت - اندھے کے پوست میں باریک جھلی جو

سفیدی کے ساتھ ملی ہوتی ہے۔

مَسْمُوكِيَت - بدکنے والی۔ بھاگنے والی۔

مَسْمُوكِيَت - پانی جمع ہونے کی جگہ۔ تالاب میں

نہانے کی جگہ۔

مَسْمُوكِيَت - امن کی جگہ۔ امانت گاہ۔ جائے پناہ

مَسْمُوكِيَت - چھپایا ہوا۔ چھپانے والا۔ پہرہ نگار

آدمی۔

مَسْمُوكِيَت - مطب۔ (د)

مَسْمُوكِيَت - وہ عورت جس کے ہالوں میں دوسرے

بالوں کا جڑا لگایا جائے تاکہ بڑے

معلوم ہوں۔

مَسْمُوكِيَت - ہنسی کرنے والا۔ مذاق کرنے والا۔

مَسْمُوكِيَت - یقینی طور پر جاننے والا۔

مَسْمُوكِيَت - ماتھا۔ ہر وہ عضو جو سجدے کی حالت

میں زمین پر ٹیکھا جاتا ہے۔ نماز

جز۔ مَسْمُوكِيَت -

مَسْمُوكِيَت - مسلمانوں کے عبادت کرنے کی

جگہ۔ جز۔ مَسْمُوكِيَت -

مَسْمُوكِيَت - جامع مسجد۔

مَسْمُوكِيَت - رجب ٹری شدہ (د)

مَسْمُوكِيَت - دیا جس میں حد سے زیادہ پانی ہو۔

بھرا ہوا۔ ٹھہرا ہوا۔ تلگے میں پرویا ہوا

موتی۔ دودھ جس میں پانی کا حصہ

دودھ سے زیادہ ہو۔

مَسْمُوكِيَت - بتا ہوا آنسو۔ وہ اونٹنی جو دو بے

جانے کے وقت ٹانگوں کو پھیلائے

اور سر کو اونچا رکھے۔ جز۔

مَسْمُوكِيَت -

مَسْمُوكِيَت - قیدی۔ گرفتار۔

مَسْمُوكِيَت - (ف) تلوار سے کاٹنا۔ ملنا۔ ہاتھ

پھیرنا۔ مسخ کرنا۔ لنگھا کرنا۔ جھوٹ

بولنا۔ زمین کو ناپنا۔ اونٹ کا تمام

دن چلانا۔ اونٹ کی پیٹھ کو زخمی کرنا

جارح کرنا۔ مارنا۔

مَسْمُوكِيَت - ٹاٹ۔ راستہ۔ جز۔ مَسْمُوكِيَت

مَسْمُوكِيَت -

مَسْمُوكِيَت - ہوار زمین جو کنکریوں والی نہ ہو۔

دلے سرین اور چھوٹے پستان والی

عورت۔ کافی عورت۔ بہت سیر کرنے

والی عورت۔ بہت جھوٹی عورت

جز۔ مَسْمُوكِيَت -

مَسْمُوكِيَت - کھوکھلا۔ کھانے اور شراب وغیرہ کا

محتاج۔ دھوکہ دیا ہوا۔ جادو کیا ہوا

کام میں لگا ہوا۔

مَسْمُوكِيَت - زمین پر سانپ کا نشان۔

مَسْمُوكِيَت - کلہاڑی تیشہ۔ تیز زبان

علمہ تقریر کرنے والا۔ بہادر

آدمی کا، نیل آدمی۔ جلا د۔ پھلنی

قرآن پاک کو اچھی طرح سمجھنے بھانسنے

والا۔ سوئی کپڑا بڑا داند جس میں سے

پراعتراض کرنا۔ بھڑکانا۔

مَسْرَبَة - چھوٹے بالوں کی دھاری سینہ سے

ناف تک۔ ج:۔ مَسَارِب -

مَسْرَبَة - مَسْرُوس - مص (ن، خوش کرنا۔

مَسْرَبَة - ٹیلیفون۔ (د)

مَسْرَح - چراگاہ۔ ج:۔ مَسَارِح

مَسْرَد - مَسْرُود - زرہ۔

مَسْرَس - جزوبندی کی ہوئی اور شیہ ازہ بندھی

ہوئی کتاب۔

مَسْرَط - حلق میں کھانے کا راستہ۔ ج:۔ مَسَارِط

مَسْرَف - فضول خرچی کرنے والا۔

مَسْرُود - خوش کیا ہوا۔

مَسْرُوق - چرایا ہوا۔ ایک تابعی کا نام۔ ایک

محدث کا نام۔

مَسْرُول - وہ گھوڑا جس کے پاؤں کی سفیدی رانوں

سے اوپر چڑھ گئی ہو۔

مَسْرَط - (ن، اونٹنی کی فرج میں ہاتھ ڈال کر

زرکا لفظ بچہ دان میں سے نکالنا کسی

کو کوڑے سے ماننا۔

مَسْرَبَة - لوہار کا ہتھوڑا۔ اونچی بیٹھک۔ چہوترہ

ج:۔ مَسَارِب -

مَسْرَط - چھوڑے خشک کرنے کی جگہ۔ روٹی پھیلانے

کا یلین۔ گوگل کے بتوں سے بنی ہوئی

چٹائی (بوریا)۔ ج:۔ مَسَارِط -

مَسْرُود - لکھا ہوا۔ مکتوب۔

مَسْرَع - شمالی ہوا کا علم۔

مَسْرَعَة - بزرگی اور عزت کے کاموں میں آدمی

کی کوشش۔ ج:۔ مَسَارِط

مَسْعَاس - دھونکنی۔ لڑائی کو طے کرنا۔ ج:۔ مَسَارِط

پانی زور کے ساتھ بہے پکا ارادہ۔ گمراہی۔

بہت مینہ۔ ایک بٹ کی رسی۔ رخسار کا

کنارہ۔ ج:۔ مَسَارِح -

مَسْحَنَة - وہ پتھر جس پر شہنشاہیادوا گھستے ہیں پتھر توڑ

ڈالنے والا تیشہ۔ ج:۔ مَسَارِح -

مَسْحُور - جادو کیا ہوا۔ خراب کھانا جو بگڑ گیا ہو۔ ویران

اڑھی ہوئی جگہ۔ حق سے پھرا ہوا۔

مَسْحُول - پتھر ذلیل چھوٹا۔ ہموار اور کھلی ہوئی جگہ۔

مَسْح - بھونٹا مص (ص، صورت کو خراب

کر دینا۔ اونٹ کو دہلا کر دینا۔ اونٹ

کی پیٹھ کو زخمی کرنا۔

مَسْحَاة - چمٹا وغیرہ جو آگ کریدنے کے کام

آئے۔ ج:۔ مَسَارِط -

مَسْحَس - (س،) [ب من] گھٹھ بازی کرنا۔

مَسْحَس - فرنا ہوار۔ ج:۔ مَسْحَاة -

مَسْحَط - (س،) (علیٰ - الی) غصہ کرنا۔

ناخوش ہونا۔

مَسْحَن (ماء،) مَسْحَن - گرم پانی۔

مَسْحَنَة - پانی گرم کرنے کا تھڑا۔ ج:۔ مَسْحَن

مَسْحَد - سچ بولنے والا۔ معاملہ کا صاف۔

مَسْحَد - کھجور کے درخت کی چھال کی رسی۔

لوہے کی سلاح یا کیلی۔ ج:۔

آمَسَاد - مَسَاد -

مَسْد - مص (ن،) رسی پٹنا۔ رفتار کا چوپایہ کو

تھکا دینا اور کمزور کر دینا۔

مَسْدَس - پستول۔ (د)

مَسْر - (ص،) کھینچ لینا۔ . . . . .

. . . . . تنگی سے نکال لانا۔ لوگوں

کی برائیاں کرنا۔ اور ان کی باتوں

صِعْر - لبابی گردن والا۔ سخت گھوڑا ہو  
سیدھی چال نہ چلتا ہو۔ دھونکنی  
لڑائی کو بھڑکانے والا۔ جہ۔

مَسَاعِيْر -

مِسْعَط - مِسْعَط - ناک میں دوا ڈالنے کا  
آلہ پچکاری۔ جہ۔ مَسَاعِط -  
مِسْعَن - چڑے کا بڑا ڈول۔ چرٹ۔

مِسْعُوْس - کھانے کا حریص۔ حالانکہ پیٹ  
بھرا ہوا ہو۔ دیدانہ آدمی۔ گرمی کا  
مارا۔ پیاسا۔

مِسْعَب - جائزہ درست۔ باموقع۔

مِسْعَبَة - بھوک مہن (ن)، بھوکا ہونا۔  
مِسْفِرَة - روشن ہونے والی۔

مِسْفِيْف - بھلائی اور احسان کرنے والا۔  
بخیل آدمی۔

مِسْفِيْقَه - ہلکی ہوا جو نیچے ہی نیچے چلے اور باریک  
برت خاک وغیرہ کو اڑالے جائے۔

مِسْفُوْح - بکھرا ہوا۔ گرایا ہوا۔  
مِسْفُوْعُ الْعَيْن - وہ آدمی جس کی آنکھیں اندر  
کو گھسی ہوتی ہوں۔

مِسْقَاط - جس عورت کا گل ساقط ہو جاتا ہو  
مِسْقَط - جس عورت کا گل گر جائے۔

مِسْقَف - دو یا تین منزل کا مکان۔  
مِسْقُوِي - سینچا ہوا کھیت۔

مَسْك - کھوپڑے کی کھال مچھلی کی بڑی جس  
سے کنگھی وغیرہ بنائی جاتی ہے۔

دستانہ۔ نامتھی دانت وغیرہ کا زیور  
وا۔ مَسْكَنَة - مہن (رض) (ب) [

چنگل مارنا۔

مَسْك - بھڑکے بچہ کی کھال مَسْك  
کھال کا ٹکڑا۔ جہ۔ مَسُوْك

مَسْك - مشک مَسْكَة - مشک کا ایک  
حصہ۔ جہ۔ مَسْك -

مَسْكَة - غیر نیکی۔ اس قدر خوراک جو زندگی کو  
باقی رکھے، کسی چیز کا بچا ہوا حصہ۔

کامل عقل ورائے سخت مٹی کا کنواں  
جس کا گلابانے کی ضرورت نہ ہو

مَسْكَة الْقَلَم - ہولڈر (د)

مَسْكَن - ٹھکانا گھر۔ جہ۔ مَسَاكِن -

مَسْكَنَة - فقیری۔ محتاجی۔

مَسْكُوْب - بسایا ہوا۔

مَسْكُوْنَة - بسی ہوئی۔

مَسْكِيْن - محتاج۔ فقیر جس کے پاس کچھ نہ ہو  
یا ضرورت کے لائق نہ ہو۔ وہ شخص جس  
کو غریبی نے قوت و حرکت سے روک دیا

ہو۔ ذلیل و حقیر۔ جہ۔ مَسَاكِيْن

مَسْكِيْنَة - مدینہ منورہ کا نام نامی۔ فقیر عورت۔  
جہ۔ مَسْكِيْنَات

مَسْل - (ن) پانی وغیرہ کا رواں ہونا۔ بہنا  
برنالہ پانی کا راستہ۔ جہ۔ اَمْسِلَة

مَسْل - مَسْلَان -

مَسْلَاط - کنبی کا دندانہ۔ جہ۔ مَسَالِيْط

مَسْلَة - سوا بڑی سوئی۔ جہ۔ مَسَال -  
مَسْلَحَة - وہ جگہ جہاں خوف کی وجہ سے ہتھیار  
پہنے جائیں۔ مسلح فوج۔ چوکیدار کی  
جگہ۔ جہ۔ مَسَالِيْح -

مَسْلَسَل - دھاری دار کپڑا۔ چھپا ہوا کپڑا۔  
مَسْلِم - مطیع فرمانبردار مسلمان۔ چھوڑنیوالا۔

دہ آدمی جس کا بدن بلا ارادہ ہلتا ہو۔  
 مُسْنِفَة۔ آگے نکل جانے والا گھوڑا۔ وہ جگہ جہاں  
 قحط طر ا ہوا ہو۔ دہلی ادنیٰ۔ جوان ادنیٰ  
 جس کے محل کو دس مہینہ گزر گئے ہوں  
 اور تھن لٹک گئے ہوں۔

مُسْنُون۔ تیز کی ہوئی چھری۔ بنائی ہوئی صورت۔ چکڑا  
 کیا ہوا۔ بد بو اور کھڑ۔ سنت کیا ہوا۔  
 مُسَوِّد۔ بہت سیاہ۔ کالا بھگا۔ م۔ مُسَوِّدَة۔  
 مُسَوِّدَة۔ پہلی نقل۔ چھاپے کا پہلا چھپا ہوا۔ تاکہ  
 اس کا مقابلہ کیا جائے۔

مُسَوِّس۔ چمڑے کا تکیہ۔ ج۔ مَسَاوِس۔

مُسُوْس۔ پانی جو نہ میٹھا ہو نہ کھاری۔ وہ دوا  
 جو زہر کے اثر کو دور کر سکے۔

مُسُوْق۔ چھاپہ کے ہانکنے کی لٹری۔ ج۔  
 مَسَاوِق۔

مُسُوْم۔ نشان لگانے والا۔

مُسُوْم۔ نشان و علامت لگایا ہوا۔ م۔ مَسُوْمَة

مُسُوْمَة۔ علامت و نشان لگایا ہوا گھوڑا۔ وہ  
 گھوڑا جو چراتے کے لیے چھوڑ دیا ہو۔

مُسْتَلَة۔ وہ بات جو دریافت کی جائے مص  
 (ف) دریافت کرنا۔ مانگنا۔ چاہنا۔

مُسْتَوْلِيَة۔ ذمہ داری (د)

(المداہم) المَسْوُول۔ ذمہ دار یا پڑ پڑ۔ (د)

مُسْتَهْد۔ مُسْتَهْد۔ بے خواب جیسے نیند نہ آنے

مَسِي۔ (حق) ادنیٰ یا گھوڑی کے رحم میں ہانکے جانے  
 کر نطقہ کو نکالنا۔ کسی چیز کو پاک اور  
 صاف کرنا۔ کوئی چیز کھینچنا۔

مَسِيْع۔ بدکار۔ گنہگار۔

مَسِيْح۔ سونے یا چاندی کا گھسا ہوا انگڑا۔

م۔ مُسَلِمَة۔

مُسَلَّمَة۔ سونپی ہوئی۔ سپرد کی ہوئی۔

مَسْلُوْب۔ چھینا ہوا۔ بے عقل۔

مَسْلُوْس۔ بیہوش۔ دیوانہ۔

مَسْمَار۔ لہجے کی کیل (ریخ) لہجے کی بیڑی۔

ادنیوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنے

والا۔ ج۔ مَسَامِيْر۔

مَسْمَاك۔ دو شاخوں کی لٹری جو تھیمہ کو اونچا کرنے

کے لیے ستون کی طرح لگا دی جاتی

ہے۔ ج۔ مَسَامِيْك۔

مَسْمَط۔ وہ شعر جس کا ایک قافیہ قصیدہ کے بیتوں کے

قافیہ کے خلاف ہو۔ وہ حکم ہو لٹایا نہ جا

سکے بھیجا ہوا آدمی کہ واپس نہ آئے۔

مَسْمَح۔ کان۔ ج۔ مَسَا مَح۔ کان کا

سوراخ۔ ڈول کا دستہ جس میں رسی

باندھی جاتی ہے۔ ج۔ مَسَامِيْعَة۔

مَسْمَح۔ زنجیروں میں جکڑا ہوا قیدی۔

مُسْمَح۔ سنانے والا۔

مُسْمَح۔ سنایا ہوا۔

مُسْمِيْع۔ گانا سنانے والی۔

مَسْمُوْط۔ بھوننے کے لیے بکری یا بھیڑ کا بچہ جس کے

بال صاف کر دیے گئے ہوں۔

مَسْمِي۔ نام رکھا ہوا۔ معین۔ مقرر۔

مُسْتَد۔ زمانہ۔ منہ بولا بیٹا۔ حدیث جس کو

اس کے روایت کرنے والے کی طرف

پہنچا دیا ہو۔ ج۔ مَسَامِيْتِد۔

مَسَامِيْتِد۔

مُسْتَدَة۔ ٹیک لگائی ہوئی۔

مُسْتَطْل۔ ضرور۔ ناطق۔ سُست چلنے والا۔

چکناٹی صاف ہو جائے جھکرا کرنا۔ کسی کے مال کو تقوڑا تقوڑا لینا۔ اونٹنی کا تقوڑا سادو دھ دو ہونا۔

مشاء - بہت چلنے والا۔

مشاء بچھو - چغل خور۔

مشاء بر - گزری گزریں۔ یعنی وہ نشانات ہونا پنے کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ نیچی تہریں جن میں ہر طرف سے پانی آئے۔ ۱۰-۱۱۔

مشاء ہتہ - کسی کے مثل اور مانند ہونا۔

مشاء - بھولی۔ ٹوکرا۔ ٹوکری وغیرہ۔ ۱۰-۱۱۔

مشاء سی -

مشاء تمہ - آپس میں کالم گلہج کرنا۔

مشاء جتہ - اونٹ کو درخت کے پتے کھلانا۔

دشمنی کرنا۔

مشاء - بشوار۔ بشوار (ن) شہد کی مکھیوں کا

چھتہ توڑ کر شہد نکالنا۔

مشاء س - شہد کی مکھیوں کا چھتہ۔

مشاء آقا - خریدنا۔ بیچنا۔ خرید و فروخت کرنا۔

دشمنی کرنا،

مشاء رب - گھاٹ۔ ۱۰-۱۱۔ مشاء رب -

مشاء جات - ہم عمر لکیریاں۔ ۱۰-۱۱۔ مشاء جتہ -

مشاء سن - بری عادت والا۔

دھار دار سخت لوہا کہ جس چیز پر گرے

کاٹ ڈالے۔

مشاء رفہ - آپس میں شرافت، اور

بزرگی پر فخر کرنا۔ چسٹھنا۔ کسی

بات پر مطلع ہو جانا۔ کسی بات

سے خبردار ہو جانا۔ قریب ہونا۔

بہت زیادہ سفر کرنے والا۔ آدھے چہرے کا جس کے صرف ایک آنکھ اور ایک بھونٹ پیدا ہونے کے اعتبار سے برکت والا۔

(پیدائشی) منخوس۔ نام مبارک (حضرت

مسیح علیہ السلام کا۔ یہ نام آپ کی برکت کے

سبب ہوا۔ اور وہ حال کذاب کا یہ نام اس

کی شومی اور بدبختی کے سبب یا اس لیے

کہ اس کے صرف ایک آنکھ اور ایک بھونٹ

سہی بھوٹ لوٹنے والا۔ عرق و پسینہ۔

مسیحہ - زلف۔ کمان۔ گیسو۔ چاندی کا ٹکڑا۔

۱۰-۱۱۔ مساء ٹیچ -

مسیحہ - بد صورت جس کی صورت مسخ کر دی گئی

ہو۔ بے وقوف۔ بے مزہ۔ یا بے نمک

کھانا۔ میوہ۔

مسیحہ - مٹی۔ گلا۔ بدبودار پانی جو عرض پانا لالاب کی

تہریں رہ جائے۔ تقوڑی سی نمی۔ کیچڑ۔

مسیحہ - محافظ۔ گھبان۔ چوکیدار۔ داروغہ۔

مسیحہ - ایک کلڑی یا لوب جس سے زمین لپیٹے ہیں۔

مسیک - بہت زیادہ عقل۔ کھانا اور پانی جو زندگی

گزارنے کے لیے کافی ہو۔ کبجوس آدمی۔

بھلائی۔ پانی رکنے کی جگہ۔

مسیحہ - کھور کی ہری ٹہنی۔ سیب کی جگہ۔

۱۰-۱۱۔ مسیل - آسیتہ -

مسایل -

مسیو - موسیو (فراسیسی زبان کا تعظیمی لفظ) (د)

## مش

مش - دن، کسی چیز کو اتنا گھننا کہ نرم پڑ

جائے۔ ہاتھ کو کسی چیز سے رگڑنا۔ تاکہ

مُشَاهَرَةٌ - زم زمین نفس برشت اصل۔ عا و طبیعت  
چا کاں در پھر تہلا آدمی خوش مزاج آدمی۔  
گھر پر اور سفر میں خوب خدمت کرنے والا۔  
مُشَاقَّةٌ - بڑی کام مہم جسے چاسکین یا سترہ جس میں  
خاک اور زم لکھریاں ہوں وہ پہاڑ جس میں  
اپنے ہوئے چشمے ہوں۔ جز۔ مُشَاش۔

مُشَاهَرَةٌ - مہینہ کی تنخواہ مہم مہینہ کی تنخواہ مقرر کرنا۔  
مُشَاهَلَةٌ - باہم گالم گلوچ کرنا۔ ایک دوسرے کو بُرا کہنا۔  
مُشَايَحَةٌ - کسی کام میں کوشش کرنا۔ پرہیز کرنا۔ باہم  
جنگ کرنا۔

مُشَايَعةٌ - بچوں کی گاڑی۔ (د)

مُشَايَعةٌ - مہمان وغیرہ کو خدمت کر کے لیے پیچھے پیچھے  
چلنا۔ استقبال کی خدمت دہنی کرنا۔ چرواہے کا  
پیچھے سے بڑے بڑے بکریوں کے ریوڑ کو پکانا۔

مُشَاطَاةٌ - دوا دیوں کا ندی کے کنارہ کنارہ چلنا۔  
مُشَاطَاةٌ - وہ ہال جو لکھیا کرتے ہوئے ٹوٹ جائیں۔  
مُشَاطِرَةٌ - گھروں کو آپس میں قریب قریب بنانا کسی  
چیز کو ادھا ادھا بانٹنا۔

مُشَايِنٌ - بہت سے عیب بڑاٹیاں۔ وا۔ مَشَانٌ۔  
مُشْتَبِكٌ - جلیبی۔

مُشَاعِرَةٌ - آپس میں جمع ہو کر اپنے اپنے اشعار سُنانا  
شعروں میں مقابلہ کرنا۔

مُشْتَبِلٌ - بچہ والی شیرنی۔  
مُشْبُوِيَةٌ - بڑی ہونے لگے جس سے شکل بدلے ہوں۔  
مُشْتَبِهَةٌ - مثل۔ مانند۔ مشکل کا۔ مذہب۔ مُشْتَبِهٌ۔

مُشَاقَّهَةٌ - رُو در رُو بات کہنا۔ ہر نون کو ملانا۔  
کسی چیز کو قریب کرنا۔

مُشْتَبِكٌ - شریک ہونے والا۔  
مُشْتَبِيٌّ - خریدنے والا۔ ایک جانور مشہور ستارہ۔

مُشَاقَّةٌ - مخالفت اور دشمنی کرنا۔ تفسر قوڈ النہا۔  
آدمیوں کو تکلیف دینا۔ نقصان پہنچانا۔

مُشْتَبِعِلٌ - کاروباری آدمی۔ کاموں میں مشغول رہنے والا۔  
مُشْتَجِرٌ - ملا ہوا۔

مُشَاكِرَةٌ - کسی کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ شروع کرنا۔  
کسی کا شکر ادا کرنا۔ کسی کے اوصاف بیان کرنا۔

مُشْتَجِرٌ - ملا ہوا۔  
مُشْتَجِبٌ - کھڑکی پر کھڑے ٹانگے یا جاتے ہیں۔ جز۔

مُشَاكَلَةٌ - ایک ہی صورت کا ہونا۔ موافقت کرنا۔  
مُشَاكَهَةٌ - مثل اور مانند ہونا۔ آپس میں مشکل ہونا۔ قریب ہونا

مُشْتَجِرٌ - تپائی مینز اور ٹیچر کی وغیرہ کا وہ۔ جز۔ مُشَاكِرٌ  
مُشْتَجِرٌ - وہ کپڑا جس پر پھول تھیاں بنائی گئی ہوں۔

مُشَاكَلَةٌ - ایک ہی صورت کا ہونا۔ موافقت کرنا۔  
مُشَاكَهَةٌ - مثل اور مانند ہونا۔ آپس میں مشکل ہونا۔ قریب ہونا

مُشْتَجِبٌ - ایکٹ (د)

مُشَاكَلَةٌ - ایک ہی صورت کا ہونا۔ موافقت کرنا۔  
مُشَاكَهَةٌ - مثل اور مانند ہونا۔ آپس میں مشکل ہونا۔ قریب ہونا

مُشْتَجِبٌ - ایکٹ (د)

مُشَاكَلَةٌ - ایک ہی صورت کا ہونا۔ موافقت کرنا۔  
مُشَاكَهَةٌ - مثل اور مانند ہونا۔ آپس میں مشکل ہونا۔ قریب ہونا

مُشْتَجِبٌ - ایکٹ (د)

مُشَاكَلَةٌ - ایک ہی صورت کا ہونا۔ موافقت کرنا۔  
مُشَاكَهَةٌ - مثل اور مانند ہونا۔ آپس میں مشکل ہونا۔ قریب ہونا

مُشْتَجِبٌ - ایکٹ (د)

مُشَاكَلَةٌ - ایک ہی صورت کا ہونا۔ موافقت کرنا۔  
مُشَاكَهَةٌ - مثل اور مانند ہونا۔ آپس میں مشکل ہونا۔ قریب ہونا

مُشْتَجِبٌ - ایکٹ (د)

مُشَاكَلَةٌ - ایک ہی صورت کا ہونا۔ موافقت کرنا۔  
مُشَاكَهَةٌ - مثل اور مانند ہونا۔ آپس میں مشکل ہونا۔ قریب ہونا

مُشْتَجِبٌ - ایکٹ (د)

ندی کا گھاٹ - جہ۔ - مَشْرَابٌ -

مَشْرَبَةٌ - کٹورہ - پانی پینے کا پیالہ - جہ۔ - مَشْرَابٌ -

مَشْرَبَةٌ - شاخ سبز و تازہ جو نئی نئی نکلے کھڑا کھڑا لباس

ایک پرندہ - مَشْرَبٌ الْأَرْضِ - زمین

کی سطح اور اس کی روئیگی - مَشْرَطٌ

الْأَعْصَاءِ - بھرے ہوئے بدن کی عورت

مَشْرَطٌ - نشتر فصد کھولنے کا آلہ - جہ۔ - مَشَارِطٌ -

مَشْرَفٌ - اونچی جگہ زمین کی اونچائی - جہ۔ - مَشَارِيفٌ -

مَشْرُوفٌ - ابھرا ہوا - بلند

مُشْرِقٌ - نماز پڑھنے کی جگہ مسجد خلیفہ - سُرخ رنگ کا

کپڑا - قلعہ - قلعی پھری ہوئی -

مَشْرِقٌ - سورج کے نکلنے کی جگہ - جہ۔ - مَشَارِيقٌ -

المَشْرِقِ الادنیٰ - مشرق قریب - (د)

المَشْرِقِ الاقصیٰ - مشرق بعید - (د)

مُشْرِقٌ - چلنے والا - روشن - طلوع ہونے والا -

مُشْرِكٌ - کافر - خدا کی عبادت میں کسی دوسرے کو

شریک کرنے والا -

مَشْرُودٌ طِبَّیَّةٌ - پارلیمنٹی حکومت (د)

مَشْرُوعٌ - تجویز - بل - جہ۔ - مَشَارِعٌ -

مَشْرُوعَةٌ - کسی کی طرف سیدھا کیا ہوا نیزہ -

مَشْرِیقٌ - جاڑوں میں دھوپ میں بیٹھنے کی جگہ -

مُشْطٌ - کپڑا بننے کا آلہ جو کنگھی کے مشابہ ہوتا ہے -

پشت کی تیلی بڈیاں جو کچی ہوتی ہیں یا ڈنڈوں

کا داغ جو کنگھی کے مشابہ ہو - ایک قسم

کی کچھلی -

مُشْطٌ - مُشْطٌ - مُشْطٌ - مُشْطٌ - مُشْطٌ - مُشْطٌ -

کنگھی - جہ۔ - اَمْشَاطٌ - مَشَاطٌ -

مَشْطٌ - دن - جن - کنگھی کرنا - آمیزش کرنا - طانا -

مَشْطٌ - (دس) ہاتھ پیرنے کی دگر سے کاٹنے یا کٹری

کا ہاتھ میں پھینچ جانا -

مَشْطٌ - وہ کاٹا یا پھانس ہوا تھوڑا وغیرہ میں لگ جائے -

مَشْطَةٌ - پوشیدہ خبر جس کے متعلق یہ نہ معلوم ہو کہ

صحیح ہے یا نہیں -

مَشْحٌ - (د) - اچک لے جانا - آہستہ چلنا - روئی

اوٹنا - بکری دوہنا [ب] پھینکنا -

مُشْعِدٌ - شعبہ دکھلانے والا بازگیر - وہ آدمی جس پر

جادو کیا گیا ہو -

مُشْعَةٌ - فراسی روئی - روئی کا پھویا -

مَشْحَسٌ - نرم زمین کا سایہ دار درخت جس اور دراک

کی قوت - وہ جگہ جہاں ترپانی لگ جائے - المشعر

المحرم مزدلفہ - جہ۔ - مَشَا عِسا -

مَشْعَلٌ - مَشْعَلَةٌ - قندیل - چسراغ - شمع

موم بتی - جہ۔ - مَشَا عِیل -

مَشْعَلٌ - مَشْعَالٌ - صافی - وہ چیز جو پانی وغیرہ کو

صاف کرنے کے لیے تین کے منہ پر رکھتے

ہیں - جہ۔ - مَشَا عِیل - مَشَا عِیل -

مَشْعُونٌ - اُچھے ہوئے ہاں والا - پریشان حال - اس کا

استعمال لفظ مجنون کے ساتھ ہوتا ہے - کہتے

ہیں - مَشْعُونٌ مَشْعُونٌ -

مَشْعَلَةٌ - کوئی کام جو وقت خالی نہ رہنے دے -

جہ۔ - مَشَا عِیل -

مَشْحَسٌ - اونٹ کا ہونٹ - قوت - سختی - زمین کا

ٹکڑا - جہ۔ - مَشَا عِسا -

مَشْحَشَفٌ - کم عقل اور بُری عادت والا - وہ شخص جو

غیرت اور شرم کی وجہ سے کانپ رہا ہو -

مُشْفِقٌ - نصیحت کرنے والا - ڈرنے والا -

مَشْفُوعٌ - وہ شخص جسے آدمی گرا کر سوال کرتے ہوں کہنا

پانی وغیرہ جس پر لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہو -



مشق - گلاب کا بھول، بلکا بھلا کا آدمی۔

مشق - دن، لڑکے کا پتلے ہلکے اور لمبے جسم کا ہونا۔

جلدی سے نیوہا کو طرارنا، جامع کرنا، تیزی سے کھانا حرفوں کو کھینا، مشق کرنا، بالوں میں لنگھی کرنا، کمان کا چکر کھینچنا، کپڑا پھاڑنا کسی چیز کو کھینچنا تاکہ پتلی اور سخت ہو جائے۔ کم دو ہونا۔

مشق - وہ عورت جس کی دونوں زائیں ملی ہوئی ہوں۔

مشق - سختی، دشواری، جہد، مشق۔

مشق - چڑھے کی مشک، تانبے کا کٹورہ یا طشت۔

مشق - وہ بال جو لنگھی سے جھڑھائے، روئی کا پھویا، جہد، مشق۔

مشق - طاق جس میں چراغ وغیرہ رکھتے ہیں، یہ اصل میں مشکوۃ تھا۔

مشق - بااعراب (د)

مشق - پیچیدگی، پیچیدہ معاملہ، جہد، مشاکل (د)

مشق - کلا کیا ہوا، شکایت کیا ہوا۔

مشق - جس کا شکر کیا جائے، شکر کا بدلا دیا ہوا۔

مشق - دن، کم دو ہونا۔

مشق - مشدج، ڈریسنگ روم (د)

مشق - لحاف، کوئی روئی کا کپڑا جو لپیٹا جاوے۔

جہد، مشق میل۔

مشق - پگڑی، عامہ، جہد، مشامد۔

مشق - سحر، سحر کا آدمی، جالاک، ہوشیار۔

مشق - زرد آلہ، (نوبانی)

مشق - موم، پارسل، (د)

مشق - شمع، پختہ اور بنانے کی جگہ۔

مشق - خوش و خرم آدمی، تیز چال کی اونٹنی، پھرتیلا

اور چالاک آدمی، لمبے قد کا آدمی۔

کشا دودھ۔

مشمل - ایک قسم کی چادر، خنجر، چھوٹی تلوار، جہد،

مشمول - پانی ملی ہوئی شراب جس پر شمالی ہوا چل

ہو، اچھی عادت والا۔

مشمن - دهن، کوڑا مارنا، چھیننا، جامع کرنا، سخت

چیز پر ہاتھ رکھنا، اس طرح تلوار مارنا کہ

کھال اڑالے جائے۔

مشنتہ - پختے کیوہ سے کھال کا ادھر جانا (اس مصدر)

مشنقہ - پھانسی گھر (د)

مشو، مشو، مشی، مشاء - دست پلانے والی ہوا۔

مشوار - شہد توڑنے کا آلہ، کسی چیز کا اندر یا باہر کا

حصہ، جگال، نفاق کی کمان کا چلہ، جہد۔

مشا ویر۔

مشوال - بھاری پتھر جو طاقت آدینے یا ورزش

کرنے کے لیے اٹھایا جاوے۔

مشوذ - سر کی گڑھی، بادشاہ سردار جہد، مشاوذ۔

مشوش - ہاتھ منڑنا کرنے کا رومال، تولیہ۔

مشوف - مزین، جلا پایا ہوا، نظران، طاہر، ادب،

مشول - چھوٹی درانتی، جہد، مشاؤل۔

مشوم، مشوم - جس نے فال بدلی ہو۔

جہد، مشا عیلم۔

مشہد - لوگوں کے حاضر ہونے کی جگہ، دستاویز اور

کاغذات وغیرہ میں دعویٰ ثابت کرنے کی جگہ

جہاں گواہوں کے بیانات اور عدالت کی فہر

وغیرہ لگی ہوئی ہو، جہد، مشاہد۔

مشہد - وہ عورت جس کا شوہر اس کے پاس موجود

ہو، (مغیبہ کی ضد)

مشہد - وہ آدمی جسے بے قصور مار ڈالا گیا ہو۔

مشہود - جہد کا دن، قیامت کا روز، عرفہ کا دن۔

مُصَابِحَةٌ - آپس میں رفیق اور ساتھی اور دوست ہونا۔

مُصَاحِرٌ - اپنے مقابل سے دھوکہ فریب کیے بغیر کھلم کھلا میلان میں لڑنے والا۔

مَصَادٌ - اونچا پشتہ پہاڑ کا اوپری حصہ (چوٹی) پہاڑ کی بہت مضبوط جگہ۔ جہاں آ مَصَادَةٌ - مَصَدَانٌ۔

مَصَادِرَةٌ - کسی کے خون کو اس کے مال کے بدلہ نیچنا۔ (د) جسر مانہ کرنا۔

مَصَادِقَةٌ - (علی) کسی امر کو سرکاری طور سے منظور کرنا کسی معاہدہ پر دستخط کرنا۔ تجویز کو پاس کرنا۔ (د)

مَصَادِمَةٌ - ایک دوسرے کو کوٹنا۔ اوپر تلے مانا۔

مُصَابِحَةٌ - کھلم کھلا بات کہنا۔ دل کی بات بتلا دینا۔ اپنے عہد کو ظاہر کرنا۔

مُصَاصٌ - کسی چیز کا خاص اور عمدہ حصہ۔ ایک گھاس کا نام۔ خوب صورت اور قیمتی موتی۔

مُصَاقَةٌ - صف ہانڈہ کرکھڑا ہونا چہیزہ کے مقابل چہیزہ بنانا۔

مُصَافِحَةٌ - ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا۔ ہاتھ ملانا۔

مُصَافِقَةٌ - کرٹ بدلنا۔ اوٹنی کو جینے کا درد ہونا۔ دو کپڑوں کو برابر کرنا۔

مُصَالَتٌ - وہ پانی جو نیچے پانکڑ چھوڑنے کے بعد نکلتا ہے۔ ذہی چھاچھ۔ زخم گھاؤ سے نکلا ہوا پانی۔

مَصَانٌ - ذلیل اور کمینہ آدمی جو کمینہ کن کی وجہ سے بکری کا گھن سے دودھ چوسے (حرف ندا کے ساتھ) آیا مَصَانٌ گالی ہے۔

مُصَانٌ - گنا۔

مُصَاعَفَةٌ - رشوت دینا۔ نرمی کرنا گھوڑے کا پوری رفتار سے نہ چلنا۔

مَشَى - (ض) چلنا۔ بہت سے جانوروں کا مالک ہونا۔ راہ پانا۔

مَشِيْبٌ - بالوں کی سفیدی۔ بڑھاپا۔

مَشِيْحٌ - طویل مستقل اور پختہ ارادے والا۔ وہ آدمی جو کھاری طرف یا تمھارے

سامنے آ رہا ہو۔ غیرت مند۔ چوڑے اور نکلے ہوئے سینہ کا اونٹ۔

مَشِيْدٌ - مضبوط۔ بلند کیا ہوا۔ لمبا۔ م۔ مَشِيْدَةٌ۔

مَشِيْرٌ - فیڈ مارشل (د)

مَشِيْبَةٌ - لکھی ہوئی لکھنا مَشِيْبَةٌ یعنی لکھی کیے ہوئے بال۔

مَشِيْعَةٌ - خشک کدو جس کا بیج گودا وغیرہ نکال کر خالی کر لیا گیا ہو۔

مَشِيْمَةٌ - رحم کے اندر ایک جملی ہے جس میں بچہ رہتا ہے۔ جہاں مَشِيْمٌ۔ مَشَايِدٌ۔

مَشِيْعَةٌ - مَشَاوَةٌ - مَشَايِبَةٌ (دس) چاہنا ارادہ کرنا۔

## م-ص

مَصٌّ - دن، چوسنا۔

مُصَابَاةٌ - شعر کو دست نہ پھڑکانا۔ کلام کو عمدہ پر ایسی ادا نہ کرنا۔ دیوار وغیرہ کو سیدھا نہ بنانا

اونٹ کا اپنے ہونٹوں کو پانی پیتے وقت چلاتا۔ تلوار کو میان میں رکھنا۔ نیزے وغیرہ کو مارنے کے لیے ٹیڑھا کرنا۔

مُصَابَةٌ - مصیبت۔ آفت۔ بلا۔

مُصَاحِبٌ - صحبت میں بیٹھنے والا یا دوست۔ وہ شخص جو سرکشی اور نازمانی کے بعد تاجدار ہو گیا ہو۔

ہوشیار اور چالاک آدمی۔ اچھی تفسیر کرنے والا۔ ج۔:۔ مَصَادِق۔  
 مَصَدَقِی۔ تصدیق کرنے والا۔ سچا بتلانے والا۔  
 باور کرنے والا۔ (م)۔:۔ مَصَدِقَاتۃ۔  
 مَصَدُوْد۔ جس کے سینہ میں درد ہو۔  
 مَصْر۔ دو چیزوں کے درمیان پرودہ اور روک دو زمینوں کے درمیان حد۔ برتن۔ گلاب کا پھول۔ ج۔:۔ (معنی اول کے اعتبار سے) مَصْرُوس۔ ایک مشہور ملک کا علم۔ شہر۔ قصہ۔ ج۔:۔ اَمَصَاس۔  
 مَصْر۔ (ن) اونٹنی کو تین انگلیوں کے سروں سے دو ہنایا پہلی انگلی اور انگوٹھے سے دو ہننا۔  
 مَصْرَاۃ۔ دودھ کا وہ جانور جسے اس لیے نہ دوہیں کہ دودھ اس کے تھنوں میں جمع رہے۔ اور خریدنے والے کی نظر میں وہ زیادہ دودھ دینے والا معلوم ہو۔  
 مَصْرَاع۔ مَصْرَع۔ شعر کا آدھا حصہ۔ کوڑا۔ ج۔:۔ مَصَارِیْع۔  
 مَصْرِخ۔ فریادیں۔  
 مَصْرَع۔ بچھڑانے کی جگہ۔ ج۔:۔ مَصَارِع۔  
 مص (ف) بچھاڑنا۔  
 مَصْرَف۔ جانے باز گشت۔ پھرنے کی جگہ۔ ج۔:۔ مَصَارِف (د) بنک۔  
 مَصْرَم۔ محتاج آدمی۔ زیادہ بال بچوں والا۔ اونٹوں کے گلہ کا مالک۔  
 مَصْرُوف۔ پھیرا ہوا۔  
 مَصْرُوی۔ شہر کی طرف نسبت کیا گیا۔ ج۔:۔  
 مَصَار۔ مَصَارِی۔

مصباح۔ چراغ۔ چوڑی بھال کی برچی۔ بڑا پیالہ صبح کے وقت شراب پینے کا۔ وہ اونٹنی جو سورج چڑھنے کے بعد اپنی (خوابگاہ) سے چرنے کے لیے نکلے۔ ج۔:۔ مَصَابِیح (د) بلب مَصَبَعۃ۔ کارخانہ۔ رنگرزی۔ (د)  
 مَصْبِیح۔ صبح کرنے والا۔ صبح کا وقت پانے والا۔ مَصَّت۔ (ن) جماع کرنا۔ اونٹنی کی سچہ دانے سے منی کو باہر نکالنا۔  
 مَصْح۔ مَصْحُوح (ف) کپڑے کا پرانا ہونا۔ سایہ کا گھٹنا۔ بیمار کا اچھا ہونا۔ اونٹنی کے دودھ کا منقطع ہونا۔  
 مَصَح۔ صحت گاہ۔ (د)  
 مَصْحَاۃ۔ برتن۔ پانی پینے کا پیالہ۔ ج۔:۔ مَصَارِحی۔  
 مَصْحَف۔ آسمانی کتاب۔ خدا کا کلام۔ ج۔:۔ مَصَارِحَف۔  
 مَصْح۔ (ف) صورت بدلنا اور خراب کرنا۔ بکری کا ٹہنی جھکا کر کھانا۔ کسی چیز کو کھینچ کر لینا۔  
 مَصْحَدۃ۔ دوپہر۔ ج۔:۔ مَصَاخِد۔  
 مَصْحَفۃ۔ لہجے کا بیلچہ۔ کلالی۔ ج۔:۔ مَصَاخِف۔  
 مَصَد۔ اونچا پاشتب۔ جائے گرمی کی زیادتی، اور سختی مص (ن) دودھ دینا۔ جماع کرنا۔ چوستنا۔ کانپنا۔ رسوا کرنا۔  
 مَصَدَر۔ نکلنے کی جگہ۔ پھرنے کی جگہ۔ وہ اسم کہ جس سے افعال اور صفت وغیرہ کے صیغے بنتے ہیں۔ ج۔:۔ مَصَادِر۔  
 مَصَدَّار۔ بہت مضبوط سینہ والا آدمی۔ آگے نکلنے والا گھوڑا۔ قمار (جوا) کا پھلا تیز شیر۔ بھیڑیا۔  
 مَصَدَع۔ چوڑی اور لمبی پیکان۔ کاموں میں

ہوئی معلوم ہوں۔ چوڑی تلوار۔ جہ :-  
مُصَفَّحَات -

مُصَفَّر - نرد۔

مُصَفَّقَات - برابر بچھائی ہوئی۔ صفت بھٹ لگائی  
ہوئی۔

مُصَفَّق - صاف و پاکیزہ۔ عمدہ۔ جھاگ اتارا ہوا۔

مُصَل - (ن) ٹپکنا۔ پنیہ بنانا۔ زخم کا رسننا۔  
مال کو بر باد کرنا۔

(سیف) مُصَلَّت - سوتلی ہوئی تلوار۔

مُصَلِّح - اصلاح کرنے والا۔ درست کرنے والا۔

مُصَلِّحَات - نیکی (د) صیغہ محکمہ۔ جہ :- مَصَالِح -

مُصَلِّي - نماز پڑھنے والا۔ بچھلا گھوڑا جو اگلے

گھوڑے کے سرین سے لگا ہوا چلتا ہو۔

مُصَلِّي - نماز کی جگہ۔ عید گاہ۔

مُصَمَّمَات - زبان کے کناروں میں پانی پھرانا۔

(مضمضہ تمام منہ میں ہوتا ہے۔ اور یہ

صرف زبان کے کناروں میں)

مُصَمَّق - پریشان جو کچھ کھائے نہ پیے۔

مُصَنَّع - کارخانہ۔ (ن) (د)

مُصَنَّعَات - مینہ کا پانی جمع ہونے کی جگہ۔ تالاب۔

گاؤں۔ محل۔ قلعہ۔ ہر مضبوط عمارت۔

برادری کا کھانا۔ جہ :- مَصَانِع -

مُصَوِّء - دہلی ران اور دبلے سرین کی عورت۔

مُصَوِّح - مَصْحَر (ن) ختم ہونا۔ ٹپکنا۔ (ب) [

کسی چیز کو لے جانا۔

مُصَوِّس - تصویر بنانے والا۔

المُصَوِّسُ الشَّمْسِيُّ - فولو گرافر۔ (د)

مُصَوِّص - ایک کھانا جو مرغ اور کبوتر کے بچوں

کے گوشت سے تیار کرتے ہیں۔ وہ

مُصَرِّيَّة - مصری پیمہ (د)

مَصَّط - (ن) بچہ وان میں ہاتھ ڈال کر منی کو باہر نکالنا۔

مُصَّطَف - سرد مقام پر گرمی بسر کرنے والا۔ (د)

مُصَّطَبَة - چوڑے جہ :- مَصَّاطِب -

مُصَّطَبِيح - صبح کی شراب پینے والا۔ چراغ روشن

کرنے والا۔

مُصَّطَح - بغیر گھاس کا جنگل۔ وہ جگہ جسے اناج

کے گنے کے لیے ہموار کریں۔ جہ :-

مَصَّاطِح -

مُصَّطَف - چنا ہوا۔ برگزیدہ۔

مُصَّطَلِي - ایک قسم کا گوند ہے سفید کو روئی مصطکی اور

سیاہ کو مصطکی بنٹی کہتے ہیں۔

مَصَّح - تلوار مانے والا آدمی مضبوط جسم کا آدمی۔

مص (ن) دم کو بلانا اور مارنا۔ اونٹنی

کے پستان پر ٹٹٹا پانی چھسٹ کرنا۔

بجلی کا چکنا۔ پزندہ کا بیٹ کرانا۔ کوٹے

یا تلوار سے مارنا۔ عورت کا بچہ

کو گرا دینا۔ تیزی سے گذر جانا۔

دوڑنا۔

مُصَّوِّد - وہ رسی جس کی مدد سے کھجور کے درخت

پر چڑھتے ہیں۔ جہ :- مَصَّوِّدَات -

مُصَفَّح - ہر چوڑی پیر جس کے سر کی دونوں

طرفیں تہی اور ماتھا نکلا ہوا ہو۔ وہ دل

جس میں ایمان اور نفاق جمع ہوں چوڑی

تلوار۔ قمار کا تیر۔

مُصَفَّحَات - بکری جسے دو بانہ گیا ہو۔ تاکہ اس کی

چھاتیاں بڑی اور دودھ سے بھری

مال سے تجارت کرنا۔

مُصَاوَرَةٌ - ایک دوسرے کو تکلیف دینا۔ دویا  
تین بیویوں کو جمع کرنا۔

مُصَاوَرَةٌ - آپس میں مشابہ ہونا۔

مُصَاوَن - خالص اور بے ملاوٹ چیز کھاری  
اور کڑوا پانی جسے استعمال نہ کر سکیں۔

مُصَاعَفَةٌ - دو گنی کی ہوئی کوئی چیز۔ مص دو گنا  
کرنا۔

مُصَاغ - جو چیز کھپائی جائے جیسے گوند وغیرہ۔

مُصَاغَةٌ - چبایا ہوا چبائی ہوئی چیز کا وہ حصہ جو  
منہ میں باقی رہ جائے۔

مُصَاغَطَةٌ - آپس میں جمع ہونا۔ بھیر کرنا۔ ایک  
کا دوسرے کو بھینچنا۔

مُصَاف - لڑائی میں گھرجانے والا۔ کسی قوم یا  
گروہ میں جانے والا۔

مُصَاكِنَةٌ - مشابہ ہونا۔ مانسہ ہونا۔

مُصَايِبَةٌ - بڑی اور بھاری گھٹری۔ جو اٹھانے  
والے کو چھپالے۔

مُصَيِّبَةٌ - کھٹا دودھ۔ عورت جو تکلیف رسوا  
نہ کر سکے۔

مُصَضَّجٌ - جسم کا وہ حصہ جو کروٹ پر سونے کی  
حالت میں بستر سے لگے۔ سونے کی

جگہ۔ قبر لڑائی میں مارے جانے کی  
جگہ۔ جہ۔۔۔ مَصَّاجِعُ۔

مُصَضَّجٌ - احمق۔ کمزور رائے والا۔

مُصَحَّحٌ - (دفع) کسی کی عزت کو خراب کرنا۔ ہانکنا  
روکنا۔ اونٹوں کا تتر بتر ہونا۔ توشہ

دان کا ٹپکن۔ سورج کی کرنوں کا  
بکھرنا۔

عورت جو جماع کے وقت مرد سے شیفنگی

کرے اور چپٹ جائے۔ جہ۔۔۔ مَمَّائِيصُ۔

(جِنَطَةٌ) مُصَوَّلَةٌ - بھوسہ سے پاک صاف  
کیے ہوئے گیہوں۔

مُصَوَّن - محفوظ۔ بچایا ہوا۔

مُصَيَّبٌ - درست بات کہنے والا۔ پہنچنے والا۔

مُصَيَّبَةٌ - سختی۔ رنج و غم۔ بلا۔ جہ۔۔۔ مَمَّائِيبٌ۔

مُصَيَّدَةٌ - جال وغیرہ جس سے شکار کیا جائے  
جہ۔۔۔ مَمَّائِيذٌ۔

مُصَيِّرٌ - لوٹنے کی جگہ مص (ض) پہنچنا۔ بیان کرنا۔

مُصَيِّرٌ - برونن قعیصل۔ انتہائی۔ جہ۔۔۔

أَمَّيْرَةٌ - مُصَارَكُن - مَمَّارِيْنٌ۔

مُصَيِّطٌ - نگہبان۔ داروغہ۔

## م-رض

مَصٌّ - مُصَيَّبٌ - (دفع) کسی کو ایک چیز کا  
نگین کر دینا۔ سرکہ کا مزہ کو جلا ڈالنا

زور سے چوسنا۔

مَصٌّ - گرم۔ کھل مَصٌّ۔ آکھ جلانے والا سرکہ

دَجَلٌ مَعْنُ الضَّرْبِ - مرد جس نے

بہت زیادہ ہوٹ کھائی ہو۔ مص۔

(دفع) سرکہ آکھ کو جلا ڈالنا۔ زخم کا

تکلیف دینا۔

مَصَّاءٌ مُصَوِّدٌ - مص (دفع) کام میں لگا رہنا۔

مُصَّاءٌ - تلوار کا ٹٹا۔ بیس کو جانز رکھنا۔

مُصَّاسٌ - (اسم فاعل) ضرر پہنچانے والا۔ (اسم

مفعول) ضرر پہنچایا ہوا۔

مُصَاوَرَةٌ - آپس میں تلوار چلانا۔ مارنے میں ایک  
دوسرے کا مقابلہ کرنا۔ دوسرے کے

مَضَعٌ - (ف) بدن پر خوشبو ملنا۔  
 مَضَدٌ - (ن) سر پر لیسپ کرنا۔  
 مَضْرٌ - رائیگان، عرب والے بولتے ہیں ذَهَبٌ  
 دَمْدَمٌ مَضْرٌ یعنی اس کا خون  
 بیکار اور ضائع گیا کہ اس کا قصاص  
 نہیں لیا گیا۔

مَضِضٌ - کھٹا دودھ جو کہ زبان کاٹنے والا ہو۔  
 بہت زیادہ سفید دودھ۔ رائیگان۔  
 مَضْضٌ - مَضْضٌ (ن) مَسْ - (ک) دودھ  
 کا ترش اور زبان کو بھجلا دینے والا  
 ہونا۔ دودھ کا نہایت سفید ہونا۔

مَضْضٌ - قریب ہونے والا نقصان پہنچانے والا وہ  
 آدمی جس کے پاس مال زیادہ ہو۔ دو  
 بیویوں والا آدمی۔ سوتن والی عورت۔

مَضْرَابٌ - مَضْرِبٌ و مَضْرِبٌ یا ناقارہ بجانے کی  
 کلڑی بنانے کی کلڑی۔ جر۔ مَضْرَابٌ یَب  
 مَضْرَبَةٌ - تلوار۔ تلوار کی دھار۔

مَضْضٌ - کھٹا دودھ۔ مصیبت کی سوزش۔  
 اور جلن۔ زخم کا درد۔  
 مَضْضٌ - مَضْضٌ (ن) مَضْضَةٌ - (س)  
 مصیبت سے رنجیدہ ہونا۔

مَضْطَرٌّ - بے قرار۔ بے چین۔  
 مَضْطَرِبٌ - لمبا اور سیدھا نیزہ۔ بے چین اور  
 پریشان حال۔

مَضْطَرِبٌ السِّنْدُ - وہ حدیث جس کی سند  
 میں اضطراب ہو۔ اگر یہ اضطراب رفع  
 ہو جائے تو حدیث قابلِ حجت ہوتی ہے  
 ورنہ ضعیف سمجھی جاتی ہے۔

مَضْجَعٌ - دو گنا کرنے والا۔

مَضَعٌ - (ف) چبانا

مَضْعَةٌ - گوشت وغیرہ کا ٹکڑا۔ جر۔ مَضْعٌ۔

مُؤنلٌ - گراہ کرنے والا۔

مُضَلَّةٌ - وہ زمین جس میں راستہ بھول جائیں۔  
 جر۔ مَضَالٌ۔

مُضْلِعٌ - بھاری بوجھ۔ کزور پالیوں کا چوپایہ۔  
 مَضْمَارٌ - گھوڑے کو سدھانے اور دوڑانے  
 کی جگہ۔ گھوڑے کو ریاضت دینے کی  
 مدت۔ گھوڑے کے آگے نکل جانے  
 کی حد۔ جر۔ مَضْمَائِرٌ۔

مُضْمَسٌ - پوشیدہ رکھا ہوا۔ چھپایا ہوا۔  
 چھپانے کی جگہ۔  
 مَضْمَمَةٌ - مَضْمَانٌ - منہ میں پانی پھرانا  
 کھلی کرنا۔

مَضْمُونٌ - زکام کا بیمار۔  
 مَضْمُونٌ - ابن (ایک خوشبودار چیز) ایک قسم کا  
 پوڑو جو سرداڑھی، جسم پر ملتے ہیں۔

مُضَوِّعٌ - سبقت۔ پہل (اسم)۔  
 مَضْوِفَةٌ - شدت۔ سختی۔ غم۔ حاجت۔ ضرر۔ وہ  
 کام جس سے ڈر معلوم ہو۔

مَضْئَبٌ - جٹنا ہو گوشت۔ آدھ کچرا گوشت۔ قیمہ۔  
 مَضْئِبٌ - مَضْئِبٌ (ن) مَضْئِبٌ - جٹنا۔ چلنا۔  
 مَضْئِبَةٌ - کھٹے دودھ سے تیار کیا ہوا ایک قسم  
 کا کھانا۔

مَضْئِمٌ - ظلم کیا ہوا۔ جسے اس کا پورا حق نہ ملا ہو۔

## م-ط

مَطٌّ - (ن) کھینچنا۔ لمبا کرنا۔ ڈول کھینچنا۔ تکبر اور  
 غور میں بھولوں اور زخاروں کو کھینچنا۔

مَطْبَخٌ - پکانے کا ظرف (برتن) ہانڈی - جر۔

مَطْبَايَخٌ -

مَطْبَخٌ - مَطْبَخٌ باورچی خانہ۔ کھانا پکانے کی جگہ۔

مُطْبَخٌ - سوسمار (گڑھ) کا بچہ۔ مروتا ٹھیلے جسم کا

آدمی۔

مُطْبَعَةٌ - پریس (د)

مُطْبَعِيٌّ - چھاپنے والا۔ طبع کرنے والا۔ (د)

مُطْبِقَةٌ - وہ بخار جو رات دن چڑھا رہے۔ ذرا

دیر کے لیے بھی کم نہ ہو۔

مَطْبَخٌ - (ف) ہاتھ سے کسی کو مارنا۔ جماع کرنا۔

مُطْحَسٌ - نیر کو دور پھینکنے والی کمان۔ دور جانے

والا تیر۔ شیر۔ سخت لڑائی۔

مُطْحَنٌ - چکی - جر۔ - مَطْحَانٌ -

مُطْحَنَةٌ - آٹا پیسنے کی کل (د)

مُطْحُولٌ - بھرا ہوا برتن۔ وہ شخص جس کی تلی پر

چوٹ ماری گئی ہو۔

مُطْحِيَّةٌ - مَطْحُوَّةٌ - بڑا سا ٹھکانا۔ جر۔

مَطْرَجِيٌّ -

مَطْرَجٌ - (ف) ہاتھ سے کسی کو مارنا۔ جماع کرنا۔

بہت کھانا شہد چاٹنا۔ کسی کی عزت

اور آبرو کو بڑھانے کا۔ ڈول کھینچنا۔

مُطْرٌ - بے مویج اور نامناسب غصہ۔ ناز

کے ساتھ چلنے والا۔

مُطْرٌ - مَطْرَةٌ - عادت۔

مَطْرٌ - مینہ۔ بارش۔

(یوم) مَطْرٌ - بارش والی دن۔

مَطْرٌ - (ن) برسنا۔ برسانا۔ چلنا پھرنے۔ دوڑنا۔

اور تیز چلنا پھرنے پر بندہ کا، اترنے کے

وقت جلدی کرنا۔ خوب کا ایک محاورہ ہے۔

مَطَّاءٌ - (ف) صحبت کرنا۔

مَطَّاءٌ - انگریزی پیٹھ۔ نرم ٹہنی وغیرہ جسے

رسی کی طرح بنا کر گھسا باندھتے ہیں۔

جر۔ - اَمَطَّاءٌ -

مُطَابَقَةٌ - ایک کپڑے کو دوسرے پر پہننا۔

موافقت کرنا۔ برابر کرنا۔ چپکانا۔ پاؤں

میں بڑی سمیت چلنا۔ کسی کام کا

عادی ہونا۔

مَطَّاخٌ - غرور کرنے والا۔ اپنی تعریف آپ

کرنے والا۔ احمق۔

مَطَّارَةٌ - پھڑے منہ کا کنواں۔ وہ زمین جس میں

برندے بہت ہوں۔ جر۔ - مَطَّارِيٌّ -

مَطَّارِدَةٌ - ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔

مَطَّارِيْقٌ - پیادہ فوجیں۔ پیدل چلنے والے

گروہ۔ ایک دوسرے کے پیچھے چلنے

والے اونٹ۔

مُطَّاعٌ - اطاعت کیا ہوا۔

مُطَّاحِمَةٌ - نر کو تر کا اپنی چوڑی مادہ کی چوڑی سے

ملانا۔

مُطَّالِبَةٌ - کسی سے اپنا حق مانگنا۔ اپنے حق کی

تلاش کرنا۔

مُطَّابَعَةٌ - واقف ہونا۔ کسی کو کچھ کھنا تاکہ واقف

ہو جائے (ب) ظاہر کرنا۔

مَطَّارِيٌّ - وہ جگہ جہاں وحشی جانوروں کے بچے

چرتے پھرتے ہیں۔

مُطَّاءِلَةٌ - لمبائی میں مقابلہ کرنا۔ کام اور طاقت میں

مقابلہ کرنا۔ اور ڈالنا کسی کام میں دیر

اور مصلحت کرنا۔

مُطَّابِعَةٌ - آپس میں خوش نشی کرنا خوش مزاجی سے پیش آنا۔

مَطْوَعَة - کمان دچونکہ مالک کو شکار کھلاتی ہے،  
 حلق کا سرا اور اس کا اُتھار۔  
 مَطْعُون - طعنے دیا ہوا۔ نیزہ کا زخمی۔ طاعون کا بیمار۔  
 مَطْقِف - کم تولنے والا۔ کم ناپنے والا۔  
 مَطْوَل - بچہ والی مادہ۔ نئی سبزی ہوئی اونٹنی۔ جڑ۔  
 مَطَّافِل - مَطَّافِل۔  
 مَطْل - دن، قرص کو دیر تک ادا نہ کرنا۔ اور  
 طال مٹول کرنا۔ نوپے رسی وغیرہ کو  
 لمبا کھینچنا۔ نوپے کو گھٹا کر خود بنانا۔  
 مَطْلَاء - نرم اور سیلی ہوئی زمین جو ملائم گھاس  
 اگائے۔ جڑ۔ مَطَّالِي۔  
 مَطَّلَح - آفتاب وغیرہ کے نکلنے کی جگہ۔ جڑ۔  
 مَطَّالِح۔  
 مَطَّلَح - نکلنے کی جگہ۔ اونچے مکان پر سے اطلاع  
 پانے کی جگہ۔ قیامت۔  
 مَطَّالِح - جہاں نکلے والا۔ خبردار۔  
 مَطَّلَقَة - طلاق دی ہوئی عورت۔  
 مَطْلُوب - چاہا ہوا۔ طلب کیا ہوا۔  
 مَطْلُولَة - وہ زمین جس پر ہلکا مینہ پڑا ہو۔  
 مَطْلِي - ہمیشہ بیمار رہنے والا۔ قیدی جس کے  
 چھوٹنے کی کوئی امید نہ ہو۔  
 مَطْمَار - ڈورا جس سے معمار دیوار کے سیدھے  
 ہونے کا اندازہ کرتے ہیں۔ پٹے پرانے  
 کپڑوں والا آدمی۔ مثل مانند جڑ۔  
 مَطَّافِل۔  
 مَطَّاع - وہ عورت جو مرد کو امید دلائے۔ اور  
 اپنے اوپر قابو نہ پانے دے۔  
 مَطْمَعَة - زمین کے نیچے بنا ہوا گھر جس میں غلہ  
 بھرتے ہیں۔ ہندی میں کھتی یا کھتہ۔

مَا اَدَى مِنْ مَطَّابِہ میں نہیں  
 جانتا کہ اس کو کون لے گیا۔  
 مَطَّاق - ہتھوڑی۔ مَطَّاقُ الشَّيْءِ کسی چیز  
 کی مثل اور نظیر جڑ۔ مَطَّاقِیْنَ۔  
 مَطَّاب - مَطَّابَة - تنگ اور چھوٹا راستہ جو  
 کسی بڑے راستہ میں جا ملا ہو۔  
 پگڈنڈی۔ جڑ۔ مَطَّابِی۔  
 مَطَّوَح - دودھ دیکھنے والی آنکھ۔ لمبا نیزہ۔  
 مَطَّوَح - پہلو پر لیٹا ہوا۔ غصہ میں بھرا ہوا۔ اچھے  
 بھرے ہوئے جسم کا جوان۔  
 مَطَّوَد - چھوٹا نیزہ جو شکار کرنے کے کام آتا ہے۔  
 مَطَّوَدَة - راستہ کا بچ۔ ہانکنے اور دوہ کرنے کا سبب۔  
 گھلا پھینٹا جس سے ترسواں کرتے ہیں۔  
 مَطَّوَف - چوڑھی چادر۔ خزر کی بیل بوٹے بنی ہوئی  
 چادر۔ جڑ۔ مَطَّارِف۔  
 مَطَّوَف - کسی چیز کا شروع۔ گھوڑا جس کی دم اور  
 سر سفید یا سیاہ ہو۔ اور باقی جسم  
 دوسرے رنگ کا ہو۔  
 مَطَّوَد - ہانکا ہوا۔ دور کیا ہوا۔ پھینکا ہوا۔  
 مَطَّوَدَة - وہ عورت جو اپنے شوہر کے سوا دوسرے  
 مردوں کو تاکے جھانکے۔ آنکھ کہ جس میں  
 زخم ہوئے کسی وجہ سے پانی ہے۔ طریقہ۔  
 ایک قسم کی گھاس، بھری ہوئی زمین۔  
 مَطَّس - دھن، ایک دم یا خاند پھوٹتا۔ طماخہ مارنا۔  
 مَطَّوَع - مَطَّوَع (دھن، جانا۔ گم ہونا۔ اگلے  
 وانتل سے کوئی چیز جہانا۔  
 مَطَّعَام - بہت کھلانے والا۔ عمان نواز۔  
 مَطَّعَان - طعن کرنے والا۔ دھن پر خربزہ نیزہ چلانا والا۔  
 جڑ۔ مَطَّاعِيْنَ۔ مَطَّاعِيْنَ۔



مَطِيَّطَةٌ - عرض کی پیندی میں ٹھہرا ہوا گارھا  
اور گدلا پانی۔ جر۔ مَطَايِطٌ۔  
مَطِيَّنٌ - مٹی سے لپٹی ہوئی چھت یا دیوار۔

## م ر ظ

مَظٌ - جنگلی انار کا درخت مص (ن) کسی  
کو طامت کرنا۔

مُظَاءَبَةٌ - ایک دوسرے کا ساڑھو بننا۔ دُو  
آدمیوں کا دُو بہنوں کو نکاح میں لانا۔

مُظَاوَرَةٌ - بچہ کو دودھ پلانے کے لیے دایہ مقرر  
کرنا۔ ایک دوسرے کی دایہ بننا۔

مُظَاهَرَةٌ - پیٹھ سے پیٹھ ملانا، مدد کرنا۔ مرد کا اپنی  
بہوی سے ظہار کرنا۔ اَنْتَ عَلَيَّ كَظْفُوْرٍ

اُحْمٰی (تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے  
کنا) دُو کپڑے اوپر نیچے پہننا۔ (د)  
کسی امر کی مخالفت یا موافقت کے  
انظار کے لیے جلوس نکالنا۔ ایسی ٹیشن۔

مُظْفَرٌ - اپنی مراد کو پہنچا ہوا۔ کامیاب۔

مُظْفُوْرٌ - وہ آدمی جس کی آنکھ میں ٹھینٹ یا  
ناشنہ پڑ جائے۔

مِظْلَةٌ - چھتری۔ (د)

مُظْلِمٌ - تاریک۔ دشوار۔ شب میں ڈالنے  
والا کام جسے کرنے اور انجام دینے کا  
طریقہ نہ معلوم ہو سکے۔ بہت زیادہ  
سیاہ بال۔ تازہ اور بہری گھاس۔

مُظْلَمٌ - گدھ۔ کوا۔

مُظْلَمَةٌ - داغواہی۔ انصاف۔

مُظْلَمٌ - جس پر ظلم کیا گیا ہو۔

مُظْمَظَةٌ - لگتی ہوئی چیز کا حرکت کرنا اور لہلہانا

کے ہیں۔

مُطَيَّنِّتٌ - آرام و قرار سے رہنے والا م۔ مَطْمَئِنَّةٌ۔

مَطْنَبٌ - گردن کا ندھا۔ بازو۔ جر۔ مَطَانِبٌ۔

مَطْوٌ - کھجوروں کا گچھا۔ چھوٹی اور پتلی ٹہنی۔

کدھسے بیچ میں سے چیر کر کھجور کی کبھری

ہوئی ٹہنیوں کو باندھ دیتے ہیں۔ جر۔

مِطَاءٌ - آمطاء۔ مِطِيٌّ - مص (ن)

انگڑائی لینا۔ نازکے ساتھ چلنا۔ آنکھ

کھولنی۔ خوشہ میں سے تر چھوڑنے

کھانا۔ ساتھیوں کے ساتھ دیر تک

گھومنا۔ جماع کرنا۔

مِطْوٌ - مثل۔ مانند۔ سپینے کا گچھا۔ جر۔

مِطَاءٌ۔

مِطْوَاٌ - قلم بنانے کا چاقو (د)

مِطْوَاءٌ - انگڑائی۔

مِطْوَعٌ - اعمال صالحہ میں فرائض و واجبات سے

زائد فعلی امور انجام دینے والا۔

مِطْوَلٌ - رسی، عضو تناسل۔ جر۔ مِطْوَالٌ

مِطْوِيَّةٌ - پٹی ہوئی۔

مِطْهَرٌ - پاک کرنے والا۔

مِطْهَرَةٌ - مِطْهَرَةٌ - پانی حاصل کرنے کا برتن۔

لڑائی نسل خاندان۔ جر۔ مِطْهَرِيٌّ۔

مِطْهَرَةٌ - پاک کی ہوئی۔ مذ۔ مِطْهَرٌ۔

مِطْهَمٌ - خوب موٹا (گھوڑا وغیرہ) دہلا (گھوڑا

دغیرہ) تو لیسوت آدمی۔ تمام اور پوری چیز

سٹے ہوئے گوشت اور ابھرے ہوئے

رخسار کا چہرہ۔

مِطِيٌّ - مِطِيَّةٌ - سواری۔ جر۔ مِطَايَاٌ۔ آمطاء

مِطِيَّطَاءٌ - خرام ناز یا تہ پھینکنے ہوئے چلنا۔

مَطْنَةُ الشَّيْءِ - وہ جگہ جہاں کسی چیز کے ہونے کا گمان ہو۔

## م-ع

مَع - (د) پگھلنا۔

مَع سائے دیکھنا اسم ہے اس لیے کہ اس پر تینوں اور حرف ج داخل ہوتا ہے۔ کبھی عند کے اور جیسا کے معنی میں بھی آتا ہے۔ م-ع - ایم۔ اے (د) مَعَاب - عیب۔ برائی۔ عیب کی جگہ۔ ج۔۔

## مَعَائِبُ

مَعَائِد - عبادت کرنے کے مقامات۔ وا۔۔

## مَعْبُدٌ

مَعَابِد - دریا وغیرہ کے گھاٹ۔ وا۔۔ مَعْبَرٌ - مَعَابِدٌ - باہم غصہ کرنا۔ ملامت کرنا۔ آپس میں تخفا ہونا۔

مَعَابَاةٌ - ماں کا بچہ کو دودھ یا غذا دینے میں تاخیر کرنا۔

مَعَاجِز - عاجز کرنے والا۔ ہرانے والا۔

مَعَاجِلَةٌ - اپنا قرض فوراً لینا۔ جھٹ پٹ ہانقہ کے ہانقہ سزا دینا۔ سزا دینے میں جلدی کرنا۔

مَعَاجِیلٌ - چھوٹے اور قریبی راستے، جو منزل تک جلد پہنچا دیں۔

مَعَادٌ - بازگشت (لوٹنا) لوٹنے کی جگہ۔ دوسرا جہان۔ قیامت۔ حج مکہ معظمہ۔ جنت۔

مَعَادِلَةٌ - تم کھانا دو چیزوں کے درمیان اندازہ کرنا۔ برابر وزن کرنا۔ دیکر کرنا کسی کے ساتھ سوار ہونا۔ کسی کے برابر آنا۔

مَعَاذُ - پناہ۔ پناہ کھانے کی جگہ۔ معاذ اللہ یعنی

اعوذ باللہ (اللہ کی پناہ چاہتا ہوں)

مَعَاذِیْدٌ - بہانے۔ جیلے۔ وا۔۔ مَعَاذِ اس۔

مَعَاذَاةٌ - بے زین گھوڑے پر سوار ہونا۔

مَعَاذِجٌ - سیڑھیاں۔ درجے۔ مراتب۔ وا۔۔ مَعَاذِجٌ -

مَعَاذِدَةٌ - آپس میں جھگڑنا۔ خلاف کرنا۔

مَعَاذِصَةٌ - کسی سے دور دور اور ایک طرف

رہنا۔ پھر جانا۔ کتاب کا کتاب سے

مقابلہ کرنا۔ کنارے کنارے چلنا۔

جنازہ کے ساتھ ساتھ چلنا۔ دوسرے

کے کیے ہوئے کا بدلہ دینا۔ کسی کے

برابر چلنا۔ جفتی کے لیے اونٹنی کو

ساند کے آگے لانا۔ عورت کا حرامی

بچہ چلنا۔

مَعَارِدٌ - تعلیم۔ سررشتہ و تعلیم (د)

مَعَارِثٌ - بات چیت میں غلبہ پانے کی کوشش

کرنا اور بڑائی میں مقابلہ کرنا۔

مَعَاشٌ - زندگی۔

مَعَاشٌ - معاش تقاعد۔ پیشہ۔

مَعَاشِرَةٌ - مل جل کر رہنا۔ سہارا۔ مل کر زندگی گزارنا۔

مَعَاطَاةٌ - اپنے آدمیوں کے لیے کمانا۔ اور ہر ایک

کو اس کی مرضی کے موافق دینا۔ کسی

کی خدمت کرنا اور اس کے حق کا

خیال رکھنا۔

مَعَاطِشٌ - خشک اور بے پانی کی زمین۔ وا۔۔

مَعَطِشَةٌ -

مَعَاطِلُ الْمَدْعَةِ - عورتوں کے بدن میں

زیور پہننے کی جگہیں۔

مَعَارِجُ - اجڑی ہوئی اور ویران زمینیں۔  
وا: - مَعْلَى۔

مَعَانُ - اترنے کی جگہ، ایک مقام کا نام۔  
مَعَانِدَاتٌ - ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جانا۔  
مکافات و تلافی کرنا، ہمیشہ کسی کے  
ساتھ رہنا۔ جھگڑنا۔

مَعَانِقَةٌ - محبت میں گلے ملنا۔ ایک دوسرے کی  
گردن میں ہاتھ ڈالنا۔

مَعَاوَمَةٌ - کھجور کے درخت وغیرہ کا سال بھر کا  
ہو جانا۔

مَعَاوِنُ - اسسٹنٹ۔ (د)

مَعَايِرَةٌ - پیمانہ کا اندازہ کرنا۔ ڈوپرزوں کا اندازہ  
کرنا اور ان کی زیادتی کمی دیکھنا۔ ترازو

کو ٹیک اور درست کرنا۔  
مَعَايِنَةٌ - حقیقی بھائی ہونا۔ آنکھ سے دیکھنا۔

مَعَايِشُ - روزیاں۔ وا: - مَعِيْشَةٌ۔  
مَعْبَدٌ - ذلیل اور خوار۔ بے آبرو۔ بزرگ و

محترم۔ پامال راستہ۔ شہد جس میں پانی  
کا اثر ہوتا ہے داراؤنٹ۔

مَعْبَرٌ - کشتی بیل (جس کے ذریعہ دریا کو پار  
کرتے ہیں، ج: - مَعَابِرُ۔

مُعْتَدِلٌ - سیدھا اور برابر راستہ۔ مناسب  
درمیانی حالت۔

مُعْتَدِلُونَ - اعتدال پسند سیاسی گروہ۔  
مُعْتَدِلٌ - حد سے گزرنے والا۔

مُعْتَدِلٌ - مانگنے والا۔ سوال کرنے والا۔  
مُعْتَرِكٌ - لڑائی کا میدان۔

مُعْتَمِدٌ - ریڈیٹ۔ (د)  
مُعْتَجٌ - (ف) سلائی کو سرمدانی میں حرکت

مُعَاظِلَةٌ - محنت کی شدت اور جنگ کی سختی کا  
ظاہر ہونا۔ سختی کے ساتھ کالم کلوریج  
کرنا۔

مُعَاظَاةٌ - خدائے قدوس کا کسی کو سچ اور بیماری  
سے بچانا۔ عافیت دینا۔ خدائے  
قدوس کا لوگوں کو ایک دوسرے کے  
تکلیف پہنچانے سے بچانا۔

مُعَاظَسَةٌ - کسی کے سون پلمات مارنا۔ آپس  
میں محنت کرنا۔

مُعَاظِبَةٌ - سزا دینا۔ کسی کے پیچھے سے آنا۔ باری  
باری سواری پر سوار ہونا۔

مُعَاظِدٌ - قول و قرار اور وعدہ کرنے والا۔  
مُعَاظِمٌ - ریڑھ کی ہڈیاں۔ اعضاء کے جوڑ۔

وا: - مَعْقِدٌ۔  
مَعَاكٌ - ریلک۔ راستہ۔ پناہ کی جگہ۔ مصدر می

(دن) ہر باپیٹھ پہ لوجھ اٹھانا۔ بوجھ  
وغیرہ کو گردن پر رکھنا۔

مُعَاَلَاةٌ - کسی پر چسٹھ آنا۔ ادب چکرنا۔ موت  
کی خبر ظاہر کرنا۔ بوجھ لانا۔ علیحدہ ہو

جانا۔  
مُعَاَلِجَةٌ - بیمار کی خبر گیری اور علاج کرنا۔ بیمار

کے لیے محنت و تکلیف اٹھانا۔  
تلوار سے مارنا۔ علاج کرنے میں مقابلہ

کرنا۔  
مَعَالِيٌ - اسم یا ضمیر کی طرف اضافت کے

ساتھ یعنی آزیں۔ جیسے معالی۔  
وزیر المعارف۔ (د)

مَعَامِعٌ - لڑائیاں۔ بڑے بڑے کام۔ وا: -  
مَعَمَعٌ۔

دینا۔ جلدی جانا۔ جماع کرنا۔ بچہ کا مال  
کے تھن میں سر مارنا۔ جنگ کرنا۔ سہلے  
ہوئے چلنا۔  
مُعْجَس - عورتوں کی اور صنی۔ یمن کا ایک کپڑا  
جہ: - معًا جہ۔  
مُعْجَن - مَعْجَنَة - مَعْجَن (صن) (عن) [  
کمزور اور بے طاقت ہونا۔ ضروری  
کام کو ترک کرنا۔ کابلی کرنا۔  
مُعْجَز - عاجز کرنے والا۔ تھکانے والا۔  
مُعْجَزَة - پیغمبر کی سچائی ثابت کرنے کے لیے  
کوئی خرقی عادت (وہ کام جسے انسان  
کی عقل بحال سمجھتی ہو) فعل جو پیغمبر کے  
ہاتھ پر ظاہر ہو۔ اور مخالف کو عاجز کر  
دے۔ جہ: - مَعْجَزَات -  
مُعْجَم - ڈکشنری۔ جہ: - معًا جہ۔  
مُعْجُون - خمیر گندھا ہوا۔  
مَعْد - دلدار اور بھر ہوا۔ نرم نازک ساگ  
اچھا تازہ دودھ۔ تیز چال والا اونٹ۔  
مَعْدٌ لَعْدٌ دَلَا مَعْدٌ اس کے  
پاس نہ کم ہے نہ زیادہ۔ مص (صن)  
اچک لے جانا۔ معدہ پر مارنا۔ معدہ کا  
خراب ہو جانا۔ گوشت کو اگلے دانٹوں  
سے کاٹنا۔ تیزی سے کھینچنا۔ ملک میں  
چلنا پھرنا۔  
مَعْدَة - مَعْدَة - معدہ۔ انتڑیوں میں جانے  
سے پہلے کھانا رہنے کی جگہ۔ جہ: -  
مَعْد - مَعْد -  
مَعْدَلَة - الناصف (صن) انصاف کرنا۔  
مَعْدِلان - سونے چاندی، تانبے پیتل وغیرہ کی

کان۔ کسی چیز کا مرکز اور اصلی جگہ۔  
جہ: - مَعْدَان -  
مَعْدُوْد - گناہوں کا شمار کیا ہوا۔ ۱۴۔ مَعْدُوْدَة -  
(آئیام) مَعْدُوْدَات - گنتی کے چند روز۔  
تین دن ایام تشریق کے کہ یوم النحر  
کے بعد آتے ہیں، یعنی گیارہ بارہ۔ تیرہ  
ذی الحجہ۔  
مَعْدٌ يَكْرَب - ایک شخص کا نام جب اس کی  
طرف نسبت کرتے ہیں تو مَعْدُوْدِي  
اور مَعْدِي يَكْرَبِي - کہتے ہیں۔  
مَعْدَار - پردہ۔ حجت۔ بہانہ۔ دلیل۔ جہ: -  
مَعْدَا فِيْد -  
مَعْدَاب - عذاب دینے والا۔ نزا دینے والا۔  
مَعْدَاب - عذاب دیا ہوا۔ نزا یافتہ۔  
مَعْدَس - بہانہ ساز۔ حیلہ تراش۔  
مَعْدَلَة - عذر خواہی۔ جہ: - مَعْدَا س -  
مَعْر - (صن) ناخن کا رگڑنے کی دھڑ سے ٹوٹ  
جانا۔ سر وغیرہ کے بالوں کا گر پڑنا۔  
مَعْرَاج - سیڑھی۔ زینہ۔ راستہ۔ جہ: - مَعْرَاج -  
مَعْرَاض - جہ پر کاتیر جو بیچ میں سے موٹا۔ اور  
کناروں پر سے ہاریک ہو۔ کلام کا  
مضمون۔ جہ: - مَعْرَايِض -  
مَعْرَة - گناہ۔ ہدی۔ رنج۔ تاوان۔ خون بہا۔  
دھوکہ۔ کیکشاں ایک ستارہ۔ غصہ  
سے چہرے کے رنگ کا تغیر۔  
مَعْرَج - عَمْرُودَج - (صن) بلند ہونا۔ بڑھنا۔ پاؤں میں  
چوٹ لگ جانیکی وجہ سے ٹسکڑا ہونا۔  
مَعْرَس - آخری رات میں اترنے کی جگہ۔  
مَعْرِض - روگردانی کرنے والا۔

اور زور سے ملنا۔ صحبت کرنا۔ ذلیل  
 اور رسوا کرنا۔  
 مُعْيسَا - فقیر۔ تنگ دست۔ محتاج۔  
 مَعْش - (ف) نرم نرم ملنا۔  
 مَعْشَاَسَا - دسواں حصہ۔ وہ اونٹنی جس کا دودھ  
 کم ہو گیا ہو۔  
 مَعْشَسَا - آدمیوں کا گروہ۔ بیوی۔ بچے۔ آدمی کا  
 کتبہ۔ آدمی جن۔ جہ۔ مَعْشَاَشِر۔  
 مَعْص - چھٹا ہوا اونٹ مص (س) پاؤں  
 کے پٹھے کا لپٹ جانا اور مچھانا۔ زیادہ  
 چلنے یا گھڑا دوڑانے کی وجہ سے پاؤں کے  
 پٹھے یا جہم کا دکھنے لگنا۔ ناز سے چلنا۔  
 مُعْيسَا - جو لڑائی باغ ہونے کے قریب ہو۔ جہ۔  
 مَعْاِيسَا - مَعْاِصِر۔  
 مَعْوِرَات - بہت زیادہ پانی برسانے والے  
 بادل۔ وا۔ مَعْوِيسَا۔  
 مَعْصِل - تیر جو ہوا میں لپٹا ہوا جلتے۔ وہ چیز جو  
 پھینکنے کے وقت دُہری ہو جائے  
 مَعْصَم - ہاتھ میں کنگن پہننے کی جگہ۔ پہنچا۔  
 بند دست۔ جہ۔ مَعْاِصِم۔  
 مَعْصِيَّة - نافرمانی۔ گناہ۔ جہ۔ مَعْاِصِي۔  
 مَعْض - (س) [من] غصہ ہونا۔ کسی پر کام کا  
 مشکل ہونا۔  
 مَعْضِل - بلا دشواری سے چننے والی جہ۔ مَعْاِضِل  
 مَعْضَلَات - سختیاں۔ مشکل اور دشوار کام۔  
 وا۔ مَعْضَلَّة۔  
 مَعْط - (ف) عورت کے حمل کا ساقط ہونا۔  
 ریح خارج کرنا کسی کے حق کو دینے تک  
 ادا نہ کرنا۔ تلوار میان سے سونٹنا۔ بالوں

مُعْرَض - چوپایہ۔ آدھ پکا گوشت۔  
 مَعْضَن - نمائش گاہ۔ شوروم۔ (د)  
 مَعْرَف - عورت کا چہرہ اور اس کے جسم کا وہ  
 حصہ جو کھلا رہتا ہے۔ ہاتھ پاؤں چہرہ  
 جہ۔ مَعْاْرِف۔  
 مَعْرَفَة - گھوڑے کی گردن پر ایال کی جگہ۔  
 مرغے کے سر کی کلنی۔  
 مَعْرِفَة - پہچان۔ پہچانی ہوئی چیز۔  
 مَعْرَك - مَعْرَكَة - جنگ کا میدان۔ لڑائی کی  
 جگہ۔ جہ۔ مَعْاَرِك۔  
 مَعْرُوسَة - ٹٹی لگی ہوئی (انگوروں کی صفت  
 ہے،  
 مَعْرُوف - پہچانا ہوا۔ مشہور۔ بھلائی۔ سبھلی کے  
 زخم والا۔ خدائے تعالیٰ کی تابعداری۔  
 م۔ مَعْرُوفَة۔  
 مَعْرُوفُ الْعِظَام - دہلا پٹلا کم گوشت والا آدمی۔  
 مَعْرُوفِي - عورتوں کا وہ حصہ جو کھلا رہتا ہے جیسے  
 ہاتھ۔ پاؤں۔ چہرہ۔ وہ جگہ جہاں کچھ نہ  
 اکتا ہو۔ جہ۔ مَعْاَرِي۔  
 مَعْز - بکری۔ بکرا (اس جنس ہے) واحد جمع  
 مذکر مؤنث سب کو شامل ہے، مذکر  
 کو تیس اور مادہ کو غز کہتے ہیں۔ وا۔  
 مَاعِزٌ بَكْرًا - مَاعِزَة - بکری۔ جہ۔  
 مَوَاعِز۔  
 مَعْز - سختی۔ سخت زمین مص (س) سخت  
 ہونا۔ بہت کبریوں والا ہونا۔  
 مَعْزَل - کنارہ۔ جانب۔ جہ۔ مَعْاِزِل۔  
 مَعْزُول - برطرف کیا ہوا۔  
 مَعْس - دودھ مص۔ (ف) سختی کے ساتھ

مَعْل - گدھے کو خھی کرنا۔ خراب کرنا۔ جلدی کرنا۔ کاٹنا۔ تیزی کے ساتھ چلنا۔ لکڑی چیرنا [عن] روکنا [ب] عیب بیان کرنا۔  
 مَعْلَاق - کھوئی وغیرہ جس پر کوئی چیز لٹکائیں۔ زبان جھکڑا لوالی جہ۔ مَعَالِیْقِ -  
 مَعْلَف - چارہ کی جگہ چرواہے کی ناند۔ گھونٹے والے چھوٹے ستارے جہ۔ مَعَالِف -  
 مَعْلَق - لٹکایا ہوا۔ راستہ۔ کنویں کی گھرنی گھرنی کی سلاخ جس پر وہ گھومتی ہے۔ بڑا ڈول۔ ڈول کی رسی..... درخواست۔ دوستی۔  
 مَعْلَقَة - وہ عورت جس کا شوہر گم ہو گیا ہو۔ اور وہ نہ کسی کی زوجیت ہی میں ہے نہ مطلقہ ہے۔ بلکہ بیچ میں لٹکی ہوئی ہے۔  
 مَعْلَم - نشان جو راستوں پر بطور علامت مسافت بنا دیے جاتے ہیں۔ برابر اور ہموار زمین جس میں راستہ کی علامتوں کے سوا کچھ نہ ہو۔ جہ۔  
 مَعَالِم - سکھایا ہوا تعلیم دیا ہوا۔ سدھایا ہوا۔ مَعْلُوم - جانا ہوا۔ علم میں آیا ہوا۔ م۔ مَعْلُومَة - (د) بیشک فیس۔ جہ۔ مَعَالِم -  
 مَعْمَعَان - سخت گرمی والے دن۔ سخت گرمی سخت سردی۔  
 مَعْمَل - کارخانہ۔ بل۔ (د)  
 مَعْمَد - سن رسیدہ بڑی عمر کو پہنچا ہوا۔ مَعْمَعَة - لڑائی کے میدان میں بہادریوں کی

کا کھاڑنا۔ بدن کلبے بال ہونا۔ مِعْطَاء - بہت خیرات کرنے والا (مذکر مؤنث) جہ۔ مِعْطَاط - مِعْطَاطِ - مِعْطَاطِ - مِعْطَاطِ - چادر۔ تلوار۔ جہ۔ مِعْطَاطِ مِعْطَل - منکر خداوندی جہ۔ مِعْطَلُون ریشم مِعْطَلَة - کنواں جس کا پانی نہ کھینچا جاتا ہو۔ مِعْطَن - اونٹ اور بکریوں کے سونے رہنے کی جگہ۔ جہ۔ مِعْطِن - مِعْطَاج - دھویوں کا پٹلا۔ وہ لکڑی جس پر دھوی پڑا دھوتے وقت مارتے ہیں بدار آدمی۔ جہ۔ مِعْطَافِیج - مِعْطَق - گھاڑ جھگڑا کا کنارہ۔ تیز مشراب بے گھاس کی زمین۔ جہ۔ مِعْطَاق - دوری جمعہ کی خرابی۔ مص (ف) پانی کی روکاسب کو بہالے جانا۔ مِعْقَب - پیچھے آنے والا۔ مِعْقَبَات - رات اور دن کے فرشتوں کے گروہ جو ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں۔ صوف پر آگے پیچھے کھڑے ہوئے اونٹ کہ باری باری پانی پئیں۔ مِعْقَد - گرہ باندھنے کی جگہ۔ ایک قسم کی چادر جہ۔ مِعْقَد - مِعْقَد - خون ہا۔ تاوان۔ جہ۔ مِعْقَل - مِعْكَ - (ف) کوئی چیز خاک میں ملنا۔ لڑائی اور جنگ میں کسی کے جسم پر نشان اور علامت کرنا۔ قرص دیر تک ادا نہ کرنا۔ مِعْكَوْف - بند کیا ہوا۔ روکا ہوا۔ (شعر) مِعْكَوْف - گندھے ہوئے بال۔

مُعْوِقُ - نیند کا وجہ سے جھومنے والا۔ بھوکا۔  
مُعْوِقُ - روکنے والا۔

مِعْوَلُ - کدال، تیشہ وغیرہ۔ جر۔ مَعَاوِلُ۔  
مِعْوَنَةٌ - مدد۔ مددگاری۔

مِعْوَنَةٌ (دارہ۔ مدرسہ۔ د)

مِعْوُودٌ - وہ جگہ جہاں پہلا مینہ پڑا ہو۔ دیکھا اور  
پہچانا ہوا۔ عمد کیا ہوا۔

مَعْيُ - مہی - انٹری - نیچائی میں پانی ٹھہرنے  
کی جگہ۔ نیچے زمین کا نالہ جو دوسرے نالے  
کی طرف بہتا ہوا جائے۔

مَعْيِبٌ - عیب دار۔

مَعْيِشَةٌ - زندگی، گذران۔ جر۔ مَعَايشُ

مُعْيِلٌ - شیر بھیل یا بہت بال بچوں والا آدمی  
مدد معیشت۔

مَعْيُنٌ - جاری اور صاف پانی۔ نظر کیا ہوا۔  
دیکھا ہوا۔

مَعْيَنٌ - بیل جس کے ماتھے کا بیچ سیاہ ہو۔ بجا۔

## م-غ

مَغَابٌ - مَغْيِبٌ - (من) غائب ہونا۔ چھپ جانا  
مَغَابَصَةٌ - اچانک آدانا۔

مَغَاَسٌ - کم دودھ کی اونٹنی۔ کبوس۔ جر۔ مَغَاَزٌ۔  
مَغَارَاتٌ - گڑھے۔ غارہ۔ وا۔ مَغَاَرَةٌ۔

مَغَارِبٌ - سورج وغیرہ کے چھنے کے مقامات۔  
وا۔ مَغْرِبٌ۔

مَغَاَرَةٌ - ہر چیز کی کمی (مفاعیلہ) کم دودھ والا۔  
ہونا۔ قمری کا اپنی ماہہ کی چرخ سے  
چرخ ملانا۔ بازار کا بے رونق ہونا۔

مَغَاَرَةٌ - میگزین۔ گودام۔

آواز میں چیخ بکار مص دھوپ اور گرمی  
میں چلنا۔ پھڑنا۔ جلد کام کرنا۔ مینہ کا زمین  
کو صاف کر دینا۔

مَعْبُوعِيٌّ - چالاک اور مطلبی آدمی کہ جیسا موقع  
دیکھے ویسی بات کہے۔

مَعْمُودٌ - آباد کیا ہوا۔ بسایا ہوا۔

مَعْنٌ - لمبا۔ چھوٹا۔ تھوڑا بہت۔ سہل۔ آسان  
چمڑا۔ پانی۔ ہر لفع دینے والی چیز۔

مص (ف) ذلت اور رسوائی قبول  
کرنا۔ انکار کرنا۔ نعمت کا شکر نہ کرنا

پانی جاری کرنا۔

مَعْنَاتٌ - عمدہ گھوڑا۔ جر۔ مَعَانِيْقُ۔

مَعْنَقَةٌ - چھوٹا پہاڑ گردن بند۔ ناروغیہ  
جر۔ مَعَانِيْقُ۔

مَعْنَكٌ - دوداڑھ کی بنیاد۔ لکڑی کی چٹینی۔ جر۔  
مَعَانِكُ۔

مَعْلَمٌ - خضاب درنگ لگا ہوا۔

مَعْتِيٌّ - کوٹان پر ابرا اونٹ۔ مدت تک قید  
میں رہا ہوا۔

مَعُوٌ - بچے ہوئے تر جھوارے۔ وا۔ مَعْوَةٌ۔  
اونٹ کے ہونٹ کے نیچے کی چھلنی۔

مَعْوَذٌ - گھوڑے وغیرہ کا گلا۔ اونٹوں کی چراگاہ۔  
جو گھروں کے آس پاس ہو۔ اونٹنی جو

ایک جگہ رہے اور جگہ سے نہ ٹلے۔  
مَعْوَذَاتَانِ - قرآن مجید کی دو سورتیں۔ قُلْ

اعوذ برب العلق۔ قل اعوذ  
برب العاقس۔

مَعْوَسٌ - ہر وقت کے استعمال کا پہانا کپڑا۔  
جر۔ مَعَاوِزُ۔

مَعْد - نازک موٹا اونٹ۔ ہر موٹی اور لمبی چیز۔  
گھوڑے کے ماتھے پر سفیدی کی جگہ۔ بڑا  
ڈول۔ بیگن۔ ایک میوہ معص (دفع)  
عیش اور آرام میں پالنا۔ آرام کے ساتھ  
زندگی گزارنا۔ بدن کا گوشت سے بھرا ہوا  
ہونا۔ چومنا۔ گھاس کا لمبا ہونا۔

مَعْدَف - کشتی کا چپو۔ ملاح۔ جر۔ مَعْدَف  
مَعْرَب - (دفع) چلنا۔ دوڑنا۔

الْمَعْرَبُ الْأَقْصَى - ملک مراکش (د)  
مَعْرِفَةٌ - کنگیر (چمچ جس میں بہت سے سوراخ  
ہوتے ہیں)۔ جر۔ مَعْرِفٌ -

مُعْرَق - ڈوبا ہوا۔ غرق کیا ہوا۔

مُعْرَه - قرضدار۔ گرفتار محبت۔

مُعْرَه - تاوان۔ ڈنڈ۔ جر۔ مَعَارِه

مَعْرَل - (مصدر می) عورتوں سے محبت کی  
بات چیت کرنا۔

مَعْرَل - سوت کاتے کا آلہ۔ بھلا۔ جر۔ مَعَارِل  
مَعْرِزِي - مقصد غرض مراد۔

مَعْرَس - (دفع) نیزہ مارنا (جمہولاً) انتہائی ڈٹا  
ہوا ہو جانا۔

مَعْرَسَل - مردہ نسلانے کی جگہ۔ جر۔ مَعَارِسَل -  
مَعْرُوش - کھوٹا۔ غیر خالص۔

مَعْرِشِي - ڈھانپا ہوا۔

مَعْرِشِي عَكْبِي - بے ہوش۔

مَعْرَس - عمدہ نسل کے سفید اونٹ۔ جر۔  
آمَعْرَس

مَعْرُوب - غصہ کیا ہوا۔ غضب میں ڈوبا ہوا۔

مَعْرَط - (دفع) تیر چلانے والے کا کالہ کو  
زور سے کھینچنا۔

مُعَاذِلَةٌ - عورتوں کے ساتھ عشق و محبت کی بات  
چیت کرنا۔ چالنیس کے قریب ہونا۔

مُعَاذِي - اللہ کے راست میں لڑنے والوں کے اوصاف  
مُعَاذِيْب - غصہ میں بھرا ہوا۔ غضب ناک۔

مُعَاذِنَةٌ - آنکھ بند کرنا۔ آنکھ کے پونوں کی  
شکنیں اور جھریاں دکھلانا۔

مُعَاذِنَةٌ - اچانک پکڑنا بے خبری میں کسی کو ادا ہونا۔  
مُعَاذِلَةٌ - قیمت بڑھا دینا۔ منگا خریدنا۔ پھری

وقت سے تیر بھینٹنا۔

مُعَاذَةٌ - برائی۔ شر۔ کھوٹ۔ دھوکہ۔

مُعَاذِلَةٌ - ایک دوسرے کو غلطی میں ڈالنا۔  
قریب دینا۔

مُعَاوِر - نڈر بے خوف۔

مُعَاوِسَةٌ - ایک دوسرے کو پانی کی تہ میں  
گھسائے جانا۔ جنگ میں کود پڑنا اپنے

آپ کو ہلاکت میں ڈال دینا۔

مُعَاوِسَةٌ - لوٹ کے مال۔ اموال غنیمت۔  
وا۔ مَعْوَسَةٌ -

مُعَاوِسَةٌ - پیٹھ پر کسی کے متعلق بات چیت کرنا۔  
مَعْوِس - بغل۔ ران کی جڑ۔ جر۔ مَعْوِسِين -

مَعْوَبُون - مست عقل والا۔ تجارت میں نقصان  
اٹھانے والا۔ دھوکہ کھایا ہوا۔

مُعْتَسَل - غسل خانہ۔ غسل کا پانی۔ مردے کو  
نسلانے کی جگہ۔

مُعْتَسِر - مست۔ بہت پانی پینے والا۔ کھجور کا  
درخت۔ بال سمیت گیہوں۔

مَعْت - (دفع) کسی چیز کو پانی میں گھسنا۔ تاکہ  
گھل جائے۔ کسی کو ذلیل و رسوا کرنا۔

بیہودہ بکنا۔ آہستہ مارنا۔



تہ میں چھپا ہوا بال۔  
 مَغْصَىٰ عَلَيْهِ۔ بے ہوش۔  
 مَغْضَطِيسٌ۔ مَغْضِيَطِيسٌ۔ مَغْضَا طِيسٌ۔  
 لونا کھینچنے والا پتھر مقناطیس۔  
 مَغْضَىٰ۔ وہ جگہ یا مکان جہاں کے رہنے والے  
 بے پروا اور مالدار ہوں اور پھر وہاں  
 سے چلے گئے ہوں۔ تدبیر۔ چارہ۔  
 حیلہ۔ جر۔ مَغْضَا فِی۔

مَغْضِيٰ۔ مفید۔ بچانے والا۔  
 مَغْوٰ۔ (د) ہلی کامیادوں میاؤں کرنا۔  
 مَغْوَاةٌ۔ وہ جگہ جس میں راستہ بھول جائیں۔ کھڈا  
 ہوا گڑھا۔ جر۔ مَغْوَا یَات۔  
 مَغْوَلٌ۔ گپتی۔ جر۔ مَغْوَالٌ۔  
 مَغْضٰ۔ (ض) خوش کرنے یا مذاق بنانے کے  
 لیے کسی کی تعریف کسی وصف کے  
 ساتھ کرنا جو اس میں نہ ہو۔

مَغْضِیَالٌ۔ درخت جس کی ٹہنیاں آپس میں لپٹی  
 ہوئی، گھنی اور سایہ دار ہوں۔  
 مَغْضِیْبٌ۔ مینہ کی زیادتی کی وجہ سے زمین پر اونچی  
 پڑی ہوئی گھاس یا کھیتی۔

مَغْضِبٌ۔ بدل ڈالنے والا۔ م۔ مَغْضِبَةٌ۔  
 مَغْضِیْبَاتٌ۔ لوٹ ڈالنے والے گھوڑے۔  
 مَغْضِیْبٌ۔ رط۔ (د)  
 (أَسْرَضٌ) مَغْضِیْبَةٌ۔ سیراب کی ہوئی زمین۔

## م-ف

مَفْطِیْمٌ۔ موٹی اونٹنی۔ جر۔ مَفْطِیْمَاتٌ۔  
 کنجیاں۔ تالیاں۔ وا۔ مَفْطَا ح۔  
 مَفْجَاةٌ۔ اچانک آجانا۔ کپڑ لینا۔

مَغَطَسٌ۔ نہانے کا کٹہرہ۔ طب (د)  
 مِخْفَرٌ۔ خود کی زہر جسے لپٹی کے نیچے پنتے ہیں۔  
 زہر کا ٹکڑا جسے سپاہی لڑائی کے  
 وقت اپنے منہ پر ڈال لیتا ہے۔ جر۔  
 مَغَا فِی۔ مَغَا فِی۔

مَغْفِرَةٌ۔ معافی مصدق، گناہوں کو چھپا لینا  
 بخش دینا۔ معاف کر دینا۔  
 مَغْفِقٌ۔ لوٹنے کی جگہ۔ جر۔ مَغْفِیْقٌ۔  
 مَغْفَلٌ۔ کم سمجھ۔ نادان۔ کُنْذِبِنٌ۔  
 مَغْلٌ۔ مَغْلَةٌ۔ دف، جھوٹ گھڑنا۔ ہتھان  
 باندھنا کسی کی لگائی بھجائی کرنا۔  
 مَغْلٌ۔ (د) س، خواب گھاس کھانے کی  
 وجہ سے چوپایہ کے پیٹ میں درد ہونا۔  
 مَغْلٌ۔ حاملہ عورت کا دودھ۔ مص (س)  
 آٹھک میں سفید سفید میل ہو جانا۔

مَغْلَفٌ۔ لفافہ۔ (د)  
 مَغْلَفٌ، مَغْلُوقٌ۔ مَغْلُوقٌ۔ بند کیا ہوا دروازہ  
 مَغْلُوبٌ۔ عاجز۔ ہرایا ہوا۔  
 مَغْلُوتٌ۔ جو یا کوڑا کرکٹ لے ہوئے گیہوں۔  
 رید، مَغْلُوتٌ۔ ہاتھ جو عطا و بخشش سے بند ہو۔  
 مَغْمَغَةٌ۔ سست اور خواب کام مص بات  
 کو صاف نہ کہنا۔ گوشت کو آہستہ آہستہ  
 چجانا۔ برتن میں منڈال کر کتے کا پانی  
 پینا۔ کپڑا دھونا۔ کپڑے کو کناروں کی  
 طرف سے لپیٹنا۔

مَخْمُولٌ۔ جس پر کوئی بھاری کپڑا ڈال دیا گیا ہو۔  
 تاکہ پینہ آجائے۔ بے قدر اور حقیر۔  
 آدمی جسے لوگ جانتے نہ ہوں۔  
 مَخْمُومٌ۔ ریجیدہ۔ ٹنگین۔ زکام زدہ۔ ابر کی

اونٹ کی ران اور گردن پر کر دیتے ہیں  
 جہ۔ مَقَاتِح۔ مَقَاتِح۔ مَقَاتِح۔  
 (أَبْوَابُ) مَقَاتِحَ۔ چرٹ کھلے ہوئے دروازے  
 مَقَاتِحِ۔ جھوٹ گھڑنے والا۔ کذاب۔  
 مَقَاتِحِ۔ جھوٹ گھڑا ہوا۔  
 مَقَاتِحِ۔ انسپکٹر۔ ممتحن۔ (د)  
 مَقَاتِحِ الْقَمِيصِ۔ کرتہ میں شکاف کی جگہ۔  
 مَقَاتِحِ۔ کوٹا ہوا ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا۔ انگلیوں  
 سے توڑا ہوا۔  
 مَقَاتِحِ۔ آزمائش اور فتنہ میں پڑا ہوا۔ دیوانہ آگ  
 میں ڈالا ہوا۔ دینار۔ وہ آدمی جس کی  
 عقل اور مال ہاتھ رہا ہو۔ دیوانگی۔  
 مَقَاتِحِ۔ زیادتی۔ کثرت۔ افراط۔  
 مَقَاتِحِ۔ پانی رسنے کی جگہ۔ ہمارے زمین جس میں  
 نالے بہتے ہوں۔ جہ۔ مَقَاتِحِ۔  
 مَقَاتِحِ۔ وہ چیز جس پر ناز کیا جائے۔ فخر کرنے  
 کے قابل۔ بزرگی۔ جہ۔ مَقَاتِحِ۔  
 مَقَاتِحِ۔ شوخ اور گرسے رنگ کا کپڑا۔ مَرُخ  
 رنگ کا کپڑا جو زیادہ مَرُخ نہ ہو۔  
 مَقَاتِحِ۔ بھانگنے کی جگہ۔ گریز بھانگنا۔ جہ۔ مَقَاتِحِ۔  
 مَقَاتِحِ۔ حاجت مند وہ آدمی جس کا نسب  
 لوگوں کو معلوم نہ ہو۔ مقتول جو کہیں  
 دور جھنگل میں پایا جائے۔  
 مَقَاتِحِ۔ علم فقہ کا جلنے والا۔ گوشہ نشین  
 عامل شریعت۔ سوار جس کے ساتھ  
 اونٹ کے سوا کوئی اور نہ ہو۔  
 مَقَاتِحِ۔ لوہا اور سونا چاندی وغیرہ کا بننے کی  
 قینچی۔ جہ۔ مَقَاتِحِ۔  
 مَقَاتِحِ۔ چھینی جس سے لوہا کاٹتے ہیں۔

مَقَاد۔ سیخ جس پر کباب بنائے جاتے ہیں  
 دست پناہ وغیرہ جس سے آگ کریدی  
 جائے۔ جہ۔ مَقَادِة۔  
 مَقَادِة۔ بان خریدنا۔ کچھ روپیہ دے کسی کی جان  
 بچانا۔  
 مَقَادِة۔ پانی کو آپس میں باری باری مقرر کر لینا۔  
 مَقَادِة۔ جلا کرنا۔ ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا  
 مَقَادِة۔ کامیابی۔ فتح مندی۔ کامیابی کی جگہ۔  
 مَقَادِة۔ رہائی۔ پناہ پکڑنے کی جگہ۔ ہلاک ہونے کی  
 جگہ۔ جہ۔ مَقَادِة۔ بغیر پانی کا جنگل۔  
 مَقَادِة۔ ننگیوں کا ڈھیر جو جمع ہو گیا ہو۔ دو  
 پٹاؤں کے درمیان کا ریتھیلا اور  
 پتھر یا میدان۔ جسم کے بڑبڑبند۔  
 واء۔ مَقَادِة۔  
 مَقَادِة۔ لمبی چوڑی زرہ۔ بڑے پیٹ کی عورت۔  
 مَقَادِة۔ ایک دوسرے پر فضیلت اور بڑائی چاہنا  
 بڑائی اور بزرگی میں مقابلہ کرنا۔  
 مَقَادِة۔ جماع کرنا۔ عورت سے صحبت کرنا۔  
 کسی کے ساتھ دل لگی کرنا۔  
 مَقَادِة۔ آپس میں نرمی کرنا۔ صلح کرنا۔ آرام  
 پہنچانا۔  
 مَقَادِة۔ عیش و آرام و راحت کی زندگی۔  
 مَقَادِة۔ ہر چیز میں برابر کی شرکت۔ مص۔ کلام  
 وغیرہ میں مقابلہ کرنا۔  
 مَقَادِة۔ ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ لڑائی کے  
 میدان میں ڈونگیں مارنا۔ دھونس دینا  
 لات مارنا۔  
 مَقَادِة۔ کبھی۔ چاہی۔ ہر وہ شے جس سے کوئی  
 چیز کھولی جائے۔ داغ۔ نشان جو

مُفَصَّاتَة - وہ عورت جس کے پیشاب اور پاخانہ کے مقام کا راستہ ایک ہو گیا ہو۔  
 مِفْصَل - بہت فضل اور بزرگی والا آدمی عورت کا میللا پھیلا کپڑا جسے پن کر کام کاج کرتی ہے۔ جہ:۔ مَقَاضِل۔  
 مِفْطِل - افطار کرنے والا۔ روزہ کھولنے والا۔ جہ:۔ مَقَاطِلِیْن۔  
 مَفْطُومَة - دودھ سے چھڑائی ہوئی لڑکی۔ مذ:۔ مَفْطُوم۔  
 مِفْقَلَة - جھاج۔ جہ:۔ مَقَاقِل۔  
 مَفْقَرَة - ایجنڈا۔ (د)  
 مُفْلِح - کامیاب۔  
 مُفْکَل - گھونگریلے بال کٹی شراب۔ جوزبان بھجھنھلاوے۔ خوب سنواری ہوئی کھال۔ مصالحو دار گوشت۔  
 مَفْلُوج - فالج کا مارا ہوا۔  
 مَفْؤُود - بھنا ہوا گوشت۔ گرم راکھ پہنکی ہوئی روٹی۔ ڈرہوک۔ دل پر چوٹ کھایا ہوا۔  
 مَفْؤُوع - خوب بولنے والا۔ لالچی۔ زیادہ کھانے والا۔ خوشبو ملی ہوئی شراب۔ صاف اور سیدھی بات۔ فہ د ایک رنگ) سے رنگا ہوا کپڑا۔  
 مَفْؤُوعُ العِصْرَة - انچ راج کہ توالی۔ (سر پو لیس۔ (د)  
 مُفِیق - عجیب بات بیان کرنے والا۔ شاعر۔ اونٹنی دو دفعہ دوہنے کے درمیان میں

مُفْرِط - حد سے تجاوز کرنے والا۔  
 مَفْرَع - صلح پسند آدمی۔ جہ:۔ مَقَارِع۔  
 مَفْرَق - سر کی مانگ۔ وہ جگہ جہاں سے دو راستے بچھے ہوں۔ جہ:۔ مَقَارِق۔  
 مِفْرَاک - پیچ کس۔ (د)  
 مَفْرُوسَات - فرنیچر۔ (د)  
 مَفْرُوض - واجب اور فرض کیا ہوا۔ خدا کا فرمایا ہوا۔ وہ چیز جس میں رخنہ ڈالا گیا ہو۔  
 مَفْرَعَة - محفوظ ہونے اور پناہ لینے کی جگہ وہ چیز جس سے ڈرا جائے۔ جہ:۔ مَقَارِع۔  
 مُفْسِد - فساد ڈالنے والا۔ تباہ کرنے والا۔ بگاڑنے والا۔  
 مَفْسَدَة - خرابی۔ تباہی۔ بربادی۔ بدی۔ جہ:۔ مَقَاسِد۔  
 مِفْصَل - زبان دکھولنے اور بیان کرنے کا آلہ۔ جہ:۔ مَقَاصِل۔  
 مَفْؤُول - غصہ (حصہ جسم ہاتھ پاؤں وغیرہ) کا جوڑ۔ دو ٹہریوں کا جوڑ۔ جہ:۔ مَقَاصِل۔  
 مَفْصَلُ العُرْوان - سورہ حجرات سے آخر قرآن پاک تک مَفْصَل - موتوں کا برجس میں دونوں طرف بیچ میں پت پڑتی گئی ہو۔ خوب بیان کیا ہوا۔ واضح۔  
 ذِیَات، مَفْصَلَات - واضح و روشن نشانیاں۔

بڑن کو تول کہ باقی کو اسی پر تخمینہ اور  
اندازہ کر کے بغیر تولے لینا کسی کو  
آنے جانے کا کرایہ دینا۔

مَقَابَلَةٌ - مَوْبِرٌ - (د)

مَقَابَلَةٌ تَجَاوِزَةٌ - بائیکاٹ - (د)

مَقَابَلَةٌ - بیٹھکیں - آدمیوں کے بیٹھنے کی  
جگہیں - وا - مَقَابَلَةٌ -

مَقَالٌ - مَقَالَةٌ - بات - گفتگو۔

مَقَالٌ - مَقِيلٌ - (مصدر می) - دوپہر  
کو سونا - قبولہ کرنا۔

مَقَالَةٌ - آرٹیکل - (د)

مَقَالَةٌ اِقْتِصَاحِيَّةٌ - لیڈنگ آرٹیکل (د)

مَقَالِيْدٌ - کنجیاں - تالیاں - خزانے - وا -

مَقَالِدٌ -

مَقَامٌ - ٹھہرنے کی جگہ - مقام - کھڑا ہونے کی  
جگہ یا زمانہ - کھڑا ہونا - (مصدر می)

مَقَامَةٌ - موافقت کرنا۔

اَلْمَقَامَاتُ السِّيَاحِيَّةُ - سیاسی حلقے (د)

مَقَامَةٌ - بیٹھنے کی جگہ - آدمیوں کا ایک گروہ -

مَقَامَةٌ - ٹھہرنا - ایک جگہ آرام کرنا (مصدر می)

مَقَابَلَةٌ - دو شخصوں کا باہم ٹھہرا کھیلنا - شرط  
باندھ کر باہمیت کا کھیل کھیلنا۔

مَقَابَلَةٌ - غوطہ لگانے میں مقابلہ کرنا۔

مَقَامِعٌ - زرد کوپ کرنے اور ذلیل کرنے  
کے آلات - لوبے کے ٹوٹے۔

وا - مَقَابَلَةٌ -

مَقَابَلَةٌ - کسی چیز کو آپس میں ملانا - موافقت  
کرنا - ہمیشگی کرنا۔

مَقَابَلَةٌ - معاہدہ - ٹھیکہ۔

دو دھ جمع کرنے والی - جو -  
دوسرے معنی کے اعتبار سے)  
مَقَابِلَةٌ -

## مَقَابَلَةٌ

مَقَابَلَةٌ - دو کتابوں کو آپس میں صحیح اور درست  
کرنا - جوئی کا قسم بنانا - رو برو  
ہونا - سامنے آنا۔

مَقَابَلَةٌ - لڑائی - جنگ - مَقَابَلَةٌ - لڑنے  
والے - وا - مَقَابِلٌ -

مَقَابَلَةٌ - ایک پہاڑ کا نام - داہنی جانب -  
مَقَابَلَةٌ - کتاب کا درس لینا - باہم تکرار  
کرنا۔

مَقَابَلَةٌ - پاؤں پاس رکھنا - جماع کے لیے پاؤں  
اٹھانا - دھوکہ دینے کے لیے بیٹھی بیٹھی  
باتیں کرنا - کسی چیز کی طرف ارادہ کرنا -  
بیچ راستہ میں چلنا۔

مَقَابَلَةٌ - بدلہ دینا - غیر کے مال سے سجات  
میں شرکت کرنا۔

مَقَابَلَةٌ - جماع کرنا - آپس میں مل جانا - قریب  
ہونا - گناہ میں شریک ہونا۔

مَقَابَلَةٌ - ایک دوسرے کا مددگار اور ساتھی  
ہونا - دو چھوڑوں کو ملا کر کھانا - دو  
چھوڑوں کو ایک ساتھ لادنا۔

مَقَابَلَةٌ - کسی چیز کا رنج اٹھانا۔

مَقَابَلَةٌ - اپنا حصہ لینا - آپس میں کوئی چیز  
بٹھانا - کسی کے لیے قسم کھانا - کسی سے  
قسم لینا۔

مَقَابَلَةٌ - چھوڑوں کی ایک بوری، یا ایک

مُقْتَصِدٌ - درمیانی راہ چلنے والا - م :-  
 مُقْتَصِدَةٌ -  
 مِقْدَاسٌ - اندازہ - ج :- مِقْدَاسٌ -  
 مِقْدَامٌ - بڑا بہادر - بہت زیادہ آگے آنے  
 والا - کاموں میں آگے آگے رہنے  
 والا - ج :- مِقْدَاسٌ -  
 مِقْدَاحٌ - مِقْدَاحٌ - حقیقاً کا لوبا - ج :-  
 مِقْدَاسٌ -  
 مِقْدَاحٌ - حقیقاً کا لوبا - چمپہ - ج :-  
 مِقْدَاحٌ -  
 مِقْدَارَةٌ - مِقْدَارٌ - طاقت - قوت - قدرت -  
 مِقْدَاسٌ - پاک و منسزہ کیا ہوا - م :-  
 مِقْدَاسٌ -  
 (ارض) مِقْدَاسَةٌ - پاک زمین - یعنی  
 زمین شام -  
 مُقَدِّمُ الْعَيْنِ آنکھ کا کوہا ہونا ک کے  
 پاس ہے - مُقَدِّمٌ الْوَجْہِ -  
 چہرے کا اگلا حصہ - مُقَدِّمٌ  
 الْوَحْلِ - پالان کے آگے کی کڑھی  
 ج :- مِقْدَاسٌ -  
 مِقْدَامَةٌ الْجَبِشِ - ہراول - لشکر کا دوحصہ  
 جو فوج کے انتظام کے لیے آگے  
 آگے چلتا ہے -  
 مُقَدِّمَةٌ - ہر چیز کا اول - شروع کا حصہ -  
 ماقا - ماتھے کے بال - کنگھی کرنے  
 کا ایک طریقہ -  
 مِقْدُورٌ - اندازہ کیا ہوا -  
 مِقْرٌ - مار ڈالنے والا - زہر - ایلا - ایک  
 کڑوی چیز - مصل (د) گردن

مُقَاوِمَةٌ - مقابلہ کرنا کسی کے ساتھ کھڑا ہونا -  
 مُقَابَلَةٌ - عرض دینا - مال کے بدلہ مال دینا -  
 مِقْبَاسٌ - آگ کی چنگاری - ج :-  
 مِقْبَاسٌ -  
 مِقْبَرَةٌ - قبرستان - ج :- مِقْبَاسٌ -  
 مِقْبَضٌ - مِقْبَضٌ - مِقْبَضَةٌ - تلوار - چھری  
 وغیرہ کا دستہ - کمان وغیرہ کے پکڑنے  
 کی جگہ - ج :- مِقْبَاسٌ -  
 مِقْبِلٌ - آئندہ آنے والا - م :-  
 مِقْبِلٌ -  
 مِقْبُوحٌ - برائی کیا ہوا - برا -  
 مِقْبُوضٌ - پنجہ سے پکڑا ہوا - مٹھی میں دبایا ہوا  
 روح کھینچا ہوا - (مردہ) - م :-  
 مِقْبُوضَةٌ -  
 مِقْتٌ - مِقَاتَةٌ - (دن) کسی کو دشمن بنانا -  
 باپ کی بیوی کو نکاح میں لانا جیسا  
 کہ زمانہ جاہلیت میں تھا،  
 مِقْتٌ - بہت سخت بغض - ناراضگی -  
 مِقْتَحِمٌ - گھسنے والا - اچانک کسی پر ٹوٹ  
 پڑنے والا -  
 مِقْتَدِرٌ - دیگ پکانے والا - درمیانی چیز -  
 قدرت والا -  
 مِقْتَدِبٌ - پیروی کرنے والا -  
 مِقْتَرٌ - فقیر - محتاج - غریب -  
 مِقْتَرَفٌ - نیا خرید ہوا اونٹ -  
 مِقْتَرَفٌ - کمانے والا - کسب کرنے والا -  
 مِقْتَرُونَ - ملنے والا - جلو میں پرا باندھ کر  
 چلنے والا -  
 مِقْتَلِيمٌ - بٹ جانے والا - باہم قسم کھانے والا -

پر اتنے ڈٹے مارنا کہ ہڈی ٹوٹ  
جائے۔ مچھلی کی بو دور کرنے کے لیے  
سرکہ میں بھگوننا۔

مَقْرَءٌ - صدر مقام۔ (د)  
مَقْرَسٌ - (س) دودھ کا کھٹا اور خراب ہو  
جانا۔ کڑوا ہونا۔

مَقْرَبٌ - نزدیک کیا ہوا۔  
مَقْرَبَةٌ - رشتہ داری، قرابت۔ ناتا۔  
مَقْرَبٌ - وہ گھوڑا جو اچھی نسل کا نہ ہو جس کی ضرب  
مال عربی نسل کی ہو۔ وہ آدمی جس کا  
رنگ کچھ سُرخمی لیے ہو۔

مَقْرَمٌ - مَقْرَمٌ - قوم کا سردار۔ عمدہ اونٹ  
جس پر بوجھ وغیرہ نہ لادا جائے۔  
جہ: مَقْرَمٌ -

مَقْرَمَةٌ - باریک پردہ۔ فرش پر بیٹھنے کی جگہ۔  
جہ: مَقْرَمٌ -

مَقْرَنٌ - جوا تا نگریا بل کی لکڑی جو دو بیلوں کی  
گردن پر رکھی جاتی ہے۔

مَقْرَنٌ - جس کے ہاتھ پاؤں جکڑ دیے  
جائیں۔

مَقْرُونٌ - طاقت اور قوت دینے والا۔ مدد کرنے  
والا۔ اکیلا کسان۔ بل ہانکنے اور کھیتی  
وغیرہ کرنے میں جس کا کوئی مددگار نہ  
ہو۔ قابو میں کر لینے والا۔

مَقْرُوحٌ - زخمی آدمی جس کے جسم پر آبلے پڑ گئے  
ہوں۔ وہ ماسنہ جس میں لوگ کثرت  
سے چلتے ہوں۔ پامال اور روندنا ہوا  
راستہ۔

مَقْرُوعٌ - جنتی کے لیے چھاٹا ہوا اونٹ۔ قوم

کا سردار۔ نشان کیا ہوا اونٹ۔

مَقْرَءٌ - بہت زیادہ مہمانی کرنے والا۔ بہت بڑا  
پیالہ (اسم جنس) وا: مَقْرَءَةٌ -

مَقْرَءٌ - پانی کے صیح ہونے کی جگہ۔ جہ:  
مَقْرَءٌ -

مَقْرَعٌ - جلد پٹنے والا۔ بلکا پھرتیلا آدمی۔  
خوشخبری سنانے والا۔ وہ گھوڑا

جس کی پیشانی پر تھوڑے تھوڑے بال  
ہوں۔ وہ آدمی جس کے سر پر متفرق طور

پر تھوڑے سے بال ہوں۔ دَجَلٌ  
مَقْرَعٌ - وہ شخص جس کا مال ختم ہو

گیا ہو اور سوائے معمولی اونٹوں کے  
اور کچھ نہ رہا ہو۔

مَقْرَسٌ - (س) جی متلانا۔ متلی ہونا۔

مَقْرَسٌ - (ن) کوئی چیز پانی میں ڈوبنا۔ بھڑنا۔ توڑنا  
جاری ہونا۔ شہر کسنا۔ چلنا۔

مُقْبِطٌ - عادل۔ انصاف کرنے والا۔

مُقْسِمٌ - واپس روکس۔ (د)

مُقْسَمٌ - نکلین اور رنجیدہ آدمی۔ خوبصورت  
آدمی۔

مُقْسِمَاتٌ - تقسیم کرنے والیاں (مرا فرشتے ہیں)۔  
مُقْسُومٌ - بانٹا ہوا حصہ کیا ہوا۔

مُقْسِئَةٌ - جھاڑو۔ (د)

مُقْسِطٌ - چاقو۔ (د)

مُقْسِقِشَانٌ - سُورَةُ اخْلَاصِ اور سُورَةُ قُلُوبِ  
یا اتھما الکفران۔

مِقْصَنٌ - قینچی کا ایک پل۔ قینچی۔ جہ: مِقْصَانٌ -

مِقْصَرٌ - مِقْصَرَةٌ - شام کا وقت۔ شام کے وقت  
کا دھندلا شام کے وقت کا اخیر حصہ۔

مَقْصُورٌ - بالکتر وانے والا۔ کوتاہی کرنے والا۔  
 مَقْصَلٌ - تیز اور کاٹ ڈالنے والی تلوار تیز بولنے  
 والی زبان۔ ج:۔ مَقْاصِلٌ -  
 مَقْصُورَةٌ - کھلا ہوا اور بڑا مکان۔ مکان کے مالک  
 کا خاص کمرہ جس میں اس کے سوا کوئی نہ  
 آئے۔ وہ کمرہ جو لوگوں کے لیے سما گیا  
 ہو۔ وہ عورت جسے گھر سے نہ نکلنے دیا  
 جائے۔ مَقْصُورَةٌ المسجد - محراب  
 مسجد یعنی امام کے کھڑے ہونے کی  
 جگہ۔ ج:۔ مَقْاصِدٌ -  
 مَقْصُودَاتٌ - پردہ نشین عورتیں۔ مستورات۔  
 مَقْضَمٌ - چبانے کے لائق مخلوقی سی چیز۔  
 ج:۔ مَقْاضِصٌ -  
 مَقْضُوصٌ - پورا کیا ہوا۔ فیصلہ کیا ہوا۔  
 مَقْطٌ - سنخنی۔ مص (ن، دھن) توڑ ڈالنا۔  
 زمین پر دے مارنا (اب) [قسم] کھلانا۔  
 پھڑپی وغیرہ سے مارنا۔ گیند کو زمین  
 پر مار کر ہاتھ میں لینا۔ غصہ دلانا۔ رسی  
 سے باندھنا۔ سخت لپٹنا۔ پرندہ کا اپنی  
 مادہ سے جفتی کرنا۔  
 مَقْطٌ - جال۔ وہ دھکا جس سے پرندوں کا شکار  
 کیا جاتا ہے۔ ج:۔ اَمَقْطٌ -  
 مَقْطَاعٌ - جلد تعلق منقطع کرنے والا۔ وہ کنواں  
 جس کا پانی جلد جلد ٹوٹ جائے۔ ج:۔  
 مَقْطِيعٌ -  
 مَقْطَعٌ - اپنے گھر بار سے دور مسافر آدمی۔  
 سائبر جو جفتی کرتے کرتے تنگ گیا ہو۔  
 وہ آدمی جسے عورتوں کی خواہش نہ ہو  
 نہ رکھونے کی جگہ۔

مَقْطَعٌ - کاٹنے کی جگہ۔ کسی چیز کے آخر اور ختم  
 ہونے کی جگہ۔ ج:۔ مَقْاطِعٌ - مَقْطَعٌ  
 الرَّصَلٌ - جہاں ریت یا میدان ختم ہو گیا ہو۔  
 مَقْطَعُ الاَسْهَارِ - دنوں کے گزرنے  
 کی جگہ، مَقْطَعُ الْقُرْآنِ - قرآن  
 پاک میں وقف (دھرنے) کی جگہ۔  
 ج:۔ مَقْاطِعٌ -  
 مَقْطَعَاتٌ - کپڑوں کے عمدہ ٹکڑے۔ پھولے رنگین  
 پھولدار زنبور پھولے۔ مَقْطَعَاتٌ  
 الشَّعْرِ - سبک وراچھے وزن کے شعر۔  
 مَقْطَعَاتُ الاسْجَارِ - خشک۔ و:۔ مَقْطَعَةٌ -  
 مَقْطَنَةٌ - کپاس کا کھیت۔ ج:۔ مَقْاطِنٌ -  
 مَقْطُوعٌ - کاٹا ہوا۔ میزنا ہوا کپڑا۔ قافلہ سے  
 بچھڑا ہوا۔ دَمْرٌ کا بیمار۔  
 مَقْطُوعُ الْقِيَامِ - جو کزوری یا مٹاپے کے  
 سبب اٹھ نہ سکے۔  
 مَقْعٌ - (ن) شراب اور پانی کو بہت پینا۔  
 فحش گالیاں بکنا۔ تممت لگانا۔  
 مَقْعَدٌ - بیٹھک۔ بیٹھنے کی جگہ۔ ج:۔ مَقَاعِدٌ -  
 (د) بیچ۔ سیٹ۔  
 مَقْعَدٌ - اپنی جگہ پر بٹھ ہوا۔ لچھا لنگڑا۔ گدھ کا بچہ۔  
 مَقْعَطَةٌ - بڑی پگڑی۔ ج:۔ مَقَاعِطٌ -  
 مَقْعِعٌ - اکثر سر جھکاٹے رہنے والا۔ مَقْعِعٌ  
 المیدین - وہ آدمی جس کے ہاتھ میں  
 چھریاں بڑھ گئی ہوں۔  
 مَقْلٌ - ایک قسم کا کندر (ایک دست کا گوند)  
 مَقْلٌ - کنوس کی پتھار۔ مص۔ (ن) دیکھنا۔  
 پانی وغیرہ میں ڈبونا۔ پانی میں گھسنا۔  
 مارنا۔

کوزور سے چوستا۔ دانت کو صاف  
کرنا۔ تلوار یا آئینہ کو جھلا دینا۔  
حفاظت کرنا۔

مِقْوَد - کھینچنے کا آلہ۔ لگام۔ جہاز۔ رسی وغیرہ  
جہ: ۱۔ مِقْوَاد۔

مِقْوُط - (ن) (اونٹ) کا بہت زیادہ ڈبلا  
اور کمزور ہونا۔

مِقْوَل - زبان۔ پادشاہ۔ خوب بات کرنے والا۔  
تیز زبان۔ بہت بولنے والا (د)۔ گراموفون۔

مِقْوَى - مضبوط و قوی جانور (گھوڑا وغیرہ) وہ  
مسافر جس کا زور اور ختم ہو گیا ہو۔

مِقْهَى - قومہ خانہ۔ (د)

مِقْه - (س) آنکھ کا کچھ نیلا پن لیے ہوئے  
سفید ہونا۔ سُرمہ نہ لگنے کے سبب  
آنکھ کا خراب ہو جانا۔

مِقْيَاس - ریکارڈ۔ (د)

مِقْيَبِت - روزی رساں۔ نگہبان۔

مِقْيَبِت - مبغوض۔ دشمن رکھا ہوا۔

مِقْيِيل - آرام گاہ۔ دوپہر کے وقت آرام  
کرنے کی جگہ۔

مِقْيِيح - سکونت پذیر۔ سیدھا کرنے والا۔  
قائم کرنے والا۔

## م-ک

مَك - (ن) چوستا۔ ہلاک کرنا۔ کم کرنا۔

مَكَا - لومڑی اور خرگوش وغیرہ کا بیل۔  
جہ: ۱۔ آمَكَا۔

مَنَكَا - (س) کام کے سبب سے ہاتھ میں  
آبلہ پڑ جانا۔

مِقْلَاد - کنبی۔ نرنا کی جگہ۔ جہ: ۱۔ مِقْلَیْد۔

مِقْلَب - بل کا نو بوز زمین بھاڑتا چلا جاتا ہے۔  
جہ: ۱۔ مِقْلَیْب۔

مُقَلَّة - آنکھ کے اندر کی سیاہی اور سفیدی۔  
آنکھ کی پتلی۔ آنکھ کی چسپری۔ آنکھ۔

جہ: ۱۔ مُقَل۔

مِقْلَد - کنبی۔ چالی۔ برتن۔ توڑو۔ ہاتھ کا پیمانہ ہاتھ  
کی چھڑی جس کا اوپری حصہ مڑا ہوا اور  
ٹیڑھا ہوتا ہے۔ جہ: ۱۔ مِقْلَیْد۔

مِقْلَح - اونٹ کے ذکر کے اوپر کی کھال (غلاف)

مِقْلَمَة - قلم دان۔ جہ: ۱۔ مِقْلَیْم۔

مِقْمَنَة - بھاڑو۔ جہ: ۱۔ مِقْمَیْن۔

مُقْمَح - وہ اونٹ جس کا سر پیچھے کی طرف کو باندھ دیا  
جائے اور اس وجہ سے سر بلند رہے۔

مِقْمَعَة - لوہے کا آنکس جس سے ہاتھی کو ہانکتے ہیں  
لوہے کا ڈنڈا۔ جہ: ۱۔ مِقْمَیْع۔

مِقْمَآءَة - وہ جگہ جہاں سورج کی دھوپ نہ پہنچے۔

مِقْمَب - شیر کا چنگل۔ شکاری کا تھیلہ جس میں  
شکار ڈال لیتا ہے۔ گھوڑوں کا گلہ جو

تیس سے چالیس تک یا تین سو کی تعداد  
میں ہو۔ جہ: ۱۔ مِقْمَیْب۔

مِقْمَنَطَة - ڈھیر لگائی ہوئی۔ مکمل۔

مِقْمَح - سچا گواہ۔ جس کی گواہی کا اعتبار کر لیا جائے  
اور جس کا حکم کافی ہو۔

مِقْمَح - مِقْمَنَطَة - عورتوں کا دوپٹہ۔ اوڑھنی۔  
نقاب۔ جہ: ۱۔ مِقْمَیْح۔

مِقْمَح - وہ آدمی جو سر پر خود رکھے ہوئے ہو۔

مِقْمَح - سر اٹھانے والا۔

مَقْو - (ن) اونٹ کے بچے کا ماں کے دودھ



- مُکَّاءُ - ایک پرندہ کا نام - جہ - مُکَّاکِی -  
 مُکَّاءُ - (ن) منہ سے سیٹی بجانا - انگلیوں کو  
 لاکر ان میں پھونک مارنا تاکہ آواز نکلے  
 بريح خارج کرنا -  
 مُکَّابَلَّةٌ - دیر کرنا - روکنا - پڑوسی کا گھر خریدنے  
 میں دیر کرنا اور جب دوسرا خریدنے  
 لگے تو شفیعہ کا دعویٰ کرنا -  
 مُکَّاتِبٌ - نامہ نگار - (د)  
 مُکَّاتِبَةٌ - ایک دوسرے کو خط لکھنا - غلام کو  
 مکاتب بنانا -  
 مُکَّاتِکَةٌ - دخلائے تعالیٰ کا کسی کو کسی سے دور  
 کرنا اور لعنت کرنا -  
 مُکَّادَبَةٌ - ایک دوسرے کو جھوٹا خیال کرنا -  
 آپس میں جھوٹ بولنا -  
 مُکَّادَاةٌ - چوپایہ یا کسی اور چیز کو کرایہ پر دینا -  
 مُکَّادَسْرَاةٌ - (الی) کسی دکان کی طرف دوڑنا -  
 اور اس میں چھپ جانا (عن) کسی  
 سے بھاگنا -  
 مُکَّادِیٌ - کرایہ پر دینے والا -  
 مُکَّادِیْفَةٌ - دشمنی پیدا کرنا - کسی کے ساتھ کھلم کھلا  
 لڑائی کرنا - سنکا کرنا - کھولنا -  
 مُکَّاعَمَةٌ - بوسہ دینا - منہ کا بوسہ لینا - زبان  
 چوسنا - عورت مرد کا ایک کپڑے میں  
 ہم بستری کرنا -  
 مُکَّافَاةٌ - بدلہ دینا - کسی کے مثل اور برابر ہونا -  
 شفا ظلت کرنا - برابر کھٹا کرنا - کسی  
 کو دور کرنا - یا ہم لگانا - نیزے  
 ماننا -  
 مُکَّافِرَةٌ - ناشکری کرنا - احسان نہ ماننا -
- مُکَّائِلُ - پڑوسی - حلیف -  
 مُکَّاکَةٌ - مُکَّاکٌ - پڑی کا گودا وغیرہ جسے  
 پوسا جائے -  
 مُکَّامَعَةٌ - دو آدمیوں کا ایک جگہ اکٹھے سونا -  
 کسی کو اپنے ساتھ ایک کپڑے میں  
 سُلانا -  
 مَکَّانٌ - جگہ - جہ - اَمَکِّنَةٌ - جج - اَمَّاکِینُ  
 مَکَّانَةٌ - جگہ - موقع - مرتبہ - نیت - ارادہ -  
 نرمی - شاہی دربار میں رتیبہ اور عزت -  
 مص - (ن) پادشاہ کے دربار میں  
 رتیبہ پانا - قائم رہنا -  
 مُکَّائِفَةٌ - ایک دوسرے کی مدد کرنا -  
 مُکَّائِکَةٌ - ناپ تول کر لینا دینا - دوسرے کی  
 بات جیسی بات کہنا - دوسرے کے  
 کام کی طرح کام کرنا - غش بکنے میں حد  
 سے نکل جانا -  
 مُکَّیْبٌ - اوندھا ہونے والا - سرنگوں -  
 مُکَّیْبٌ - بڑھا پنا مص (ن) بوڑھا ہونا -  
 مُکَّکَتٌ - (ن) [ب] کسی جگہ رہنا -  
 مُکَّکَةٌ - اُمُّ الْقُرَیْ - بَلَدَةُ الشَّامِ - عرب کا  
 مشہور شہر جہاں خانہ کعبہ واقع ہے -  
 (یہ نام اس لیے ہے کہ وہ گناہوں کو  
 چوس لیتا ہے (مطادیتا ہے) -  
 مُکَّکَبٌ - (د) مدرسہ - دفتر - لکھنے کی میز - جہ -  
 مُکَّکَتِیْبٌ -  
 المَکَّکَتِبُ الْإِبْتِدَائِیُّ - پرائمری اسکول (د)  
 المَکَّکَتِبُ الْإِعْدَادِیُّ - ثانی اسکول (د)  
 المَکَّکَتِبُ التَّشْرِیْحِیُّ - ڈل اسکول - (د)  
 مُکَّکَتِبَةٌ - کتب خانہ - کتابوں کی دکان -

لکھنے پڑھنے کا کرم۔ (دو جز)۔ مکتبہ۔  
مکتب التذکر۔ مکتب گھر۔

مکتل۔ جھولی جس میں پندرہ صلح (ایک پیمانہ)  
وزن آتا ہے۔ ناپنے کی ایک ٹوکری

جہ۔ مکتیل۔  
مکتل۔ گول گٹھے ہوئے جسم اور چھوٹے قد کا

آدمی۔ جمع کیا ہوا۔  
مکتوب۔ لکھا ہوا۔ جمع کیا ہوا۔ خط۔ سیا ہوا۔

مکت۔ مکت۔ مکت (ن۔ ک) دیر کرنا۔  
انتظار کرنا۔

مکت۔ توقف۔ دیر۔  
مکتاس۔ مکتیر۔ بہت بولنے والا آدمی۔

مکتل۔ مکتال۔ سرور لگانے کی سلائی۔  
جہ۔ مکتیل۔

مکتلہ۔ سرور دانی۔ جہ۔ مکتیل۔  
مکتول۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد

کیے ہوئے ایک غلام۔ ایک تابعی  
جو فقیہ شام تھے۔

دعین، مکتوگتہ۔ سرور لگی ہوئی آنکھ۔  
مکتہ۔ مکتہ۔ کنگھی (دشانہ)

مکتد۔ مکتود (ن) مقیم ہونا۔ اڈٹنی کا بڑھاپے  
کی وجہ سے دودھ کم دینا۔

مکتب۔ جھٹلانے والا۔  
مکتوب۔ جھوٹ۔ کذب۔ دروغ۔

مکتوبتہ۔ جھوٹ بست اور کزور عورت۔  
مکتور۔ دھوکہ خفیہ تدبیر۔ دھوکہ کا بدلہ۔

پرنندوں کی آواز شیر کے خزانے کی  
آواز۔ جہ۔ مکتوس۔ مص (ن)  
دھوکہ دینا۔ خفیہ تدبیر کرنا۔ زمین

سینچنا۔ سرخ مٹی سے رنگنا۔  
مکتا۔ پہوان۔ پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا۔

لڑائی اور حملہ کا گھوڑا۔  
مکتا۔ دھندلے رنگ کی ایک گھاس موٹی اور

گوشت سے بھری ہوئی خوبصورت  
پنڈلی۔ جہ۔ مکتہ۔ مکتوس۔

مکتدح۔ ذیل۔ غوار۔ خود نمائی کرنے والا۔  
مکتوس۔ بار بار لایا ہوا۔

مکتوم۔ نوازنے والا۔ عزت کرنے والا۔  
مکتوم۔ مکتومتہ۔ بزرگی۔ کرم۔ کریم۔ پیداوار

کے لائق اچھی زمین۔ جہ۔ مکتامہ۔  
مکتوم۔ معزز۔ محترم۔ م۔ مکتومتہ

مکتوفہ۔ ناپسندیدہ۔  
مکتس۔ باج۔ عشر (دسواں حصہ) چنگی ٹیکس۔

مص (دھن) مال جمع کرنا۔ ٹیکس وصول  
کرنا۔ قیمت کو کم کرنا۔ ظلم کرنا۔

مکتال۔ ست (عورت) پردہ نشین۔  
نازنین لڑکی۔

مکتب۔ کمانے کی جگہ۔ کمانی۔ جہ۔ مکتیب۔  
مکتیسر۔ توڑنے کی جگہ۔ درخت کی بڑھ جہاں

سے شاخیں توڑی جاتیں۔ آزمائش۔  
مکتیب المکتیسر۔ جو آزمائش میں

پورا نکلے۔  
مکتسل۔ دھن کی کمان کا پتہ۔ (جب علیحدہ

کر لیا جائے) وہ خاندان جس میں  
باغزت بزرگ کم ہوں۔ جہ۔ مکتاسیل۔

مکتسو۔ پھنایا ہوا کپڑا۔ لباس۔  
مکتشاح۔ کلب لڑی۔ تلوار کی باڑھ۔ جہ۔  
مکتیشیحہ۔

مَكْظُومٌ - نکلین۔ رنجیدہ خاطر۔

مَكْتَبٌ - نقشین چھاپہ وغیرہ۔ اہری ہونے چھاتی  
ہر وہ چیز جس کی لمبائی چوڑائی اور  
اونچائی برابر ہو۔

مَكْتَبٌ - وہ لڑکی جس کی چھاتیاں اہری ہوتی ہوں۔  
اہری ہونے چھاتی۔

مَكْتَبٌ - ہتھیار بند۔ مسخ۔

مَكْفُورٌ - خاک کے نیچے دبی ہوئی راکھ۔

مَكْفُوفٌ - اندھا۔ جہ۔ مگلا۔

مَكْفُولٌ - جس کی ذمہ داری لی گئی ہو۔ (د)  
بیمہ شدہ۔

مَكَلًا - نہر کا کنارہ۔ ساحل دریا۔ بندر گاہ۔  
ہولے محفوظ اور پکی ہوئی جگہ۔

مَكَلِبٌ - کتے کو سدھانے والا۔

مَكَلَةٌ - محفوظ پانی جو برتن کی پینڈی یا کنویں  
کی تہ میں رہ گیا ہو۔

مَكَلِفٌ - کسی سخت کام کا حکم دینے والا۔

مَكَلَلٌ - کام میں کوشش اور محنت کرنے والا۔

مَكَلَلٌ - ابر جس میں بجلی چمک رہی ہو۔

مَكَلَّتْ - گدھے کا چھیکا دیکھنے والی جو اس  
کے منہ پر چڑھا دی جاتی ہے تاکہ  
کاٹ نہ سکے، بیچلچہ۔

مَكْنٌ - مکن۔ گہ اور ڈبی وغیرہ کا انڈا۔  
۱۱۔ مِکْنَةٌ - مکنۃ۔

مَكْنٌ - (س) سوسار وغیرہ کا انڈا دینا۔

مَكْنَةٌ - مِکْنَةٌ - قوت۔ قدرت۔ شدت۔

مِکْنَةٌ - پرندوں کا گھونسلہ۔ جہ۔ مکن۔  
مِکْنَاتٌ -

مِکْنَسَةٌ - جھاڑو۔ جہ۔ مکنس۔

مَكْنُونٌ - چھپایا ہوا (مؤنث)

مَكُوٌ - لومڑی۔ خرگوش وغیرہ کا بیل۔  
جہ۔ آمکاء۔

مِکْوَاةٌ - داغ دینے کا لوطا۔ (د) استری۔

مِکْوَسَةٌ - مِکْوَرَةٌ - پگڑی۔

مِکْبَالٌ - پیمانہ۔

مِکْبَنَفٌ - عزت دار آدمی۔ محترم آدمی۔

مِکْوُوثٌ - مِکْمَانٌ (ن۔ ک) - انتظار کرنا  
ظہرنا۔

مِکْبِدٌ - مگر کیا ہوا۔

مِکْبِیْلٌ - مگال کیل۔ (ض) ہنا پنا۔

مِکْبِیْنٌ - صاحب مرتبہ۔ محفوظ۔

مِکْبِیْنَةٌ - زمی، آہستگی۔ مرتبہ۔ وقار۔

## م-ل

مَلٌ - عاجز اور تنگ آیا ہوا انسان۔ مص

(ن) (فی) کسی چیز کو چنگاری پر رکھنا  
تیز جلتا (علی) سفر کا لمبا ہونا۔

مَلٌّ - مَلَأَةٌ - مَلَأَةٌ (ف) (بصلہ من)

وب و بیضی برتن وغیرہ کو کسی چیز  
سے بھر دینا (علی) مدد کرنا۔ مَلَائَاتٌ

منہ العین۔ وہ چیز آنکھ کو  
بھلی معلوم ہوتی۔

مَلًّا - جنگل۔ بیابان۔

مَلًّا - عادت۔ غلبہ اور اقتدار۔ شریف

آدمیوں کا گروہ۔ قوم میں سے ایک  
جماعت۔ مشہور گمان۔ جہ۔

آمَلَاءٌ -

مَلَاءَةٌ - زکام۔ ایک پاٹ کی چادر۔ جہ۔

مٹی بائیک اور ہموار کرتے ہیں۔  
 مِلَاط - دیوار کی مٹی۔ پہلو۔ کوبان کا کنارہ  
 اِبْن مِلَاط۔ ماہ نو۔  
 مَلَاطَفَةٌ - آپس میں جھلائی کرنا۔ نرمی کرنا۔  
 مَلَاعَنَةٌ - (میاں بیوی کا) ایک دوسرے پر  
 لعنت کرنا۔  
 مَلَاغَفَةٌ - دوستی کرنا۔ کسی کے پاس پہنچ جانا۔  
 بوسہ دینا۔  
 مَلَاقَاةٌ - آپس میں ملنا۔ ملاقات کرنا۔  
 مَلَاقِحٌ - وہ ہوائیں جو درختوں پر پھل پھول  
 لائیں۔ وا۔ مَلْحَقَةٌ۔  
 مَلَاقِيٌ - ملاقات کرنے والا۔  
 مَلَاكٌ - قدرت۔ طاقت۔ پونجی۔ سہارا۔  
 اصل۔ جوت۔ فرشتہ۔  
 مَلَاكٌ - پیغام۔ پیغام رساں۔ فرشتہ۔  
 مَلَالٌ - بخار کا پسینہ تلوار کے دستہ کی لکڑی  
 پیٹ کے دردی وجہ سے بے آرامی۔  
 مَلَامٌ - مَلَامَةٌ - سرزنش۔ ملامت۔ برا بھلا  
 کہنا۔ ڈانٹ ڈپٹ کرنا۔  
 مَلَامَسَةٌ - ایک دوسرے کو ہاتھ سے چھونا۔ جماع  
 کرنا۔ بیع مَلَامَسَةٌ - بیچنے کی ایک  
 قسم جو ناجائز ہے۔  
 مَلَانٌ - بھرا ہوا۔ زکام زدہ۔  
 مَلَاوَصَةٌ - درخت کو دیکھنا اس غرض سے کہ  
 کس طرح کاٹا جائے، دروازہ کے  
 سوراخ میں سے جھانکنا۔ (عن)  
 دھوکہ دینا۔  
 مَلَاہِيٌ - کھیل کود کی چیزیں۔ وا۔  
 مَلْہِيٌ۔

مَلَاةٌ۔  
 مَلَاةٌ - مَلَاةٌ برون قَعَالَتہ۔ قَعَالٌ۔  
 دک، امیر اور صاحب اقتدار ہو جانا۔  
 مَلَايَسَةٌ - کسی کام کی مزاولت کرنا۔ کسی سے  
 میل کر کے اس کے دل کی بات  
 معلوم کر لینا۔  
 مَلَاثٌ - مَلَاوِثٌ بڑے مرتبہ کا شریف آدمی۔  
 جہاں۔ مَلَاوِثٌ۔ مَلَاوِثٌ۔  
 مَلَاحٌ - نسیب اور خوبصورت۔  
 مَلَاحٌ - کشتی چلانے والا۔ تک بیچنے والا۔  
 نہر کا انجینئر۔  
 مِلَاحٌ - نیزے کی ٹوک کشتی چلانے والی ہوا۔  
 لباس۔ پردہ۔ معص (مفاعلہ) مینہ  
 برسنے سے زمین کا ٹھنڈا ہو جانا۔  
 بچہ کو دایہ کے حوالہ کرنا۔  
 مَلَاحَةٌ - ٹکستان۔ تک کی کان۔  
 مَلَاحِظٌ - افسر پولیس۔ انسپکٹر۔ (د)  
 مَلَاحِيٌ - ایک قسم کے سفید بے انگور۔ ایک قسم  
 کے انجیر۔ سرخ سفید اراک۔  
 مَلَاخَاةٌ - آپس میں دوستی کرنا۔ حلیف بننا۔  
 (علیٰ) بھڑکانا (ب) چغلی کھانا۔  
 مَلَاذٌ - جھوٹا۔ جو کہتا ہوا اور کرتا نہ ہو۔ خود  
 رائے۔ چالاک۔ بھرتیلا۔ بھیڑیا۔  
 مَلَادِيَا - بیریا۔ (د)  
 مَلَاَسَا - بھیڑیا۔  
 مَلَاَسَةٌ - مَلَاَسَةٌ (ف)۔ (ک) نرم و چمکدار  
 ہونا۔  
 مَلَاَسَةٌ - گھیری دایک موٹی اور بھاری  
 لکڑی جس میں بیل جوت کر کھیت کی

مَلْحَاء - رَاھَلْمَح کا مؤنث، سیاہی، سفیدی  
لے ہوئے رنگ کی بکری، پتے گرا  
ہوا درخت۔ بھاری شکر۔ پیٹھ  
کا گوشت۔

مَلْحَب - کثرت سے گالیاں بکنے والا۔ پھیلنے  
اور کاٹنے کا آلہ، جہ:۔ صَلَا حَب -  
مُلْحَتَة - خوف۔ برکت۔ عمدہ اور مکیں بات۔  
جہ:۔ مَلْحَج -

مَلْحَج - پناہ گاہ، جہ:۔ مَلَا حَج -

مَلْحُوْطَة - ٹوٹ۔ ریمارک۔ (د)

مَلْحَج - سخت چال مص (ف) سخت چلنا۔  
برے کاموں میں دوڑ دھوپ رکھنا۔  
ہاتھ اور دانٹوں سے پکڑ کر کھینچنا۔ دوہرا  
ہونا۔ ٹوٹ جانا۔ کھانے کا بد مزہ  
ہو جانا۔

مَلْد - نازک آدمی، نازک ٹہنی، مص (ن)  
کھینچنا۔

مَلْد - مَلْدَان - جوانی، تازگی، چہرہ کی  
چمک دمک، مص (س) دلہنی  
کا، ہلنا، لہلہانا۔

مَلْدُوْع - سانپ کا ٹلا ہوا، بھوکا ڈنک مارا ہوا۔

مَلْد - (ن) بھوٹ بولنا، نیزہ مارنا، ہاتھ پر  
مسح کرنا، گھوڑے کا تیز دوڑنا۔

مَلْدَان - وہ آدمی جو ظاہر تو خیر خواہی کرے لیکن  
دل میں دشمنی رکھے۔

مَلْر - (ن) (ب) اچک لینا، لے جانا۔  
(ع) دیر کرنا، پیچھے رہ جانا۔

مَلْرَق - کمزور چیز۔

مَلْس - (ن) باتیں بنا کر پھیلانا، تیز ہانکتا۔

مَلَائِيَّة - رات بھر کے لیے مزدور رکھنا۔

مَلْكِس - مُرَب - (د)

مَلْبَن - دو ہاؤنی اینٹ بنانے کا سانچہ۔

مَلْبِن - مَلْبِنَة - دودھ والی بکری۔

مَلْبِنَة - ڈیری فارم۔ (د)

مَلْت - (ع) حرکت دینا، کسی چیز کو زور  
سے ہلانا۔

مَلْتَة - مذہب، شریعت، خون بہا، جہ:۔ مَلْتَل -

مَلْتَة - سلنگا۔

مَلْتَة - گرم رکھ، گرم ریت چنگاری، بخار کا پسینہ۔

مَلْتَب - گوشہ نشین آدمی۔

مَلْتَجَة - بست زیادہ کالی آنکھ، سبز گھاس کی  
دھیرے سے بری بھری زمین۔

مَلْتَعْد - (ظرف) بھائے پناہ (مصد می) پناہ پکڑنا  
مَلْتَرَم - ٹھیکہ دار (د)

مَلْت - رات کا شروع کا اندھیرا مص۔ (ن)  
میٹھی میٹھی باتوں سے کسی کا دل خوش کرنا

کسی کام سے روکنا، جھوٹا وعدہ کرنا۔  
پکے پکے مارنا، آہستہ چلنا۔

مَلْبَجَاء - پناہ پکڑنے کی جگہ (د) محتاج خانہ  
جہ:۔ مَلَا حَج -

مَلْح - نمک، کھاری پانی، چربی، عقل مندی۔  
اچھائی، عزت، مکیبی، قسم، عمدہ۔

جہ:۔ مَلَا ح - آصَلَا ح - مَلْحَة -

مَلْح - (ف) ہانڈی میں نمک ڈالنا، چوہا پیر  
کو شورہ کھلانا، پیٹھ پیچھے برا کھنا۔

بھوننے کے لیے بکری کے بالوں  
کو صاف کرنا (ل)۔ بچہ کو دودھ

پلانا۔

دس، انکو غلطی کا نکل آنا بہت زیادہ خوشامد در آمد کرنا۔ ظاہر داری کی تعظیم و تکریم کرنا۔

مَلَقَ - دن، مٹانا۔ صاف کرنا۔ کپڑے دھونا۔ دودھ چوسنا [ب] [بھی وغیرہ سے مارنا۔

مَلَقَات - قلم جو چنار (بال اکھاڑنے کی چٹھی) لکڑی۔ ج:۔ مَلَقِيط -

مَلَقَات (طَبَقَات) مَلَقَات - تیز نگاہ والی آنکھ۔ مَلَقُوْتَة - گیا بھن۔ زر کی پیٹھ میں مادہ تولید ج:۔ مَلَقَاتِج -

مَلَقُوْت - زمین سے اٹھایا ہوا۔ نیا جنا ہوا۔ زمین پر پڑا ہوا۔ بچہ۔

مَلَقِي - ڈالنے والا۔ م:۔ مَلَقِيَّة - مَلَقِيَّاتُ الدَّوْكَر - دھی لانے والے فرشتے۔

مَلِك - جو چیز قبضہ اور اختیار میں ہو حکومت پاوشاہی۔ بزرگی۔ رعب۔ دبدبہ۔ تصور اِپانی۔ مجموعہ بلا۔

مَلِك - مَلِك - مَلِك - جس چیز کو آدمی اپنے قبضہ میں لے آئے۔ ج:۔ اَمَلَاك -

مَلُوْك - دھن، کسی چیز کو اپنی ملک بنانا۔ اپنے قبضہ اور اختیار میں لانا۔ عورت کو نکاح میں لانا۔

مَلِك - فرشتہ۔ ج:۔ مَلَايِك - مَلَايِكَة - مَلِك - پادشاہ۔ کسی جماعت یا ملک کا صاحبِ حکم و اختیار شخص۔

ج:۔ مَلُوْك - اَمَلَاك - مَلِكَة - بندگی۔ قبضہ۔ اختیار۔ نفس کی صفتِ راستہ۔

بڑے اکھاڑ دینا۔

مَلَصَ - دس، ہاتھ میں سے کسی چیز کا پھسل کر گر پڑنا۔

مُلَصَق - منبولا بیٹا۔ لے پاک۔

مَلَطَ - دن، بال موٹنا۔ [ب] دیوار کو مٹی سے لیپنا۔

مَلَطَ - نہایت نصیحت اور نالائق آدمی۔ وہ آدمی جس کا نسب معلوم نہ ہو۔ ج:۔ اَمَلَاط - مَلُوَط -

مَلَطَم - رُخسار۔ مَلَطَم - پٹا جو جامہ دان یا فرش کے نیچے بچھا دیتے ہیں تاکہ خراب نہ ہو۔ ج:۔ مَلَاطِم -

وَلَعَقَة - چچہ۔ وہ چیز کہ جس سے کچھ چائیں۔ ج:۔ مَلَاَعِق -

مَلِعَ - دن، بکری کی کھال گردن کی طرف سے کھینچنا۔ تیز چلنا۔

مَلَعَنَة - پامال راستہ۔ پلیدی۔ جاٹے ضرور لعنت کا سبب۔ ج:۔ مَلَاَعِن -

مَلَعُون - ہانکا ہوا۔ نکالا ہوا۔ نیکی اور رحمت سے دور کیا ہوا۔ ج:۔ مَلَاَعِيْن -

۱۴ مَلَعُونَة - احمق۔ بیوقوف۔ کینہ بخش اور گالیاں بکنے والا۔ ج:۔ اَمَلَاَع -

مَلَعَاة - دن، یہودہ بکنا۔ بکواس کرنا۔ کلام میں غلطی کرنا۔

مَلَعَفَة - چوروں کا گروہ۔ بے شرم لوگ۔ ج:۔ مَلَاَعِف -

مَلَقَ - ہوا زمین نرم اور طالع سبز۔ معد

میلی - ایک ہزار میٹر (د)۔  
 میلیدج - نمکین پانی، نمکین اور خوبصورت  
 آدمی، ج:۔، ملاح۔ آملاح۔  
 میلیدخ - کمزور، بے مزہ، خراب اور بد مزہ کھانا۔  
 مکیساء - سہیجا (وہ مٹھا جو دودھ میں جانے کے  
 لیے ڈالا جاتا ہے)، دوپہر، مغرب اور  
 عشاء کا درمیان، صفر کا مہینہ، سفر کا  
 بچا ہوا تھوڑا سا کھانا۔  
 میلیط - ناقص گرایا ہوا بچہ، اسقاط حمل کی  
 وجہ سے، جس کے بدن پر بال نہ  
 ہوں، بن پر تیر۔  
 میلیع - وہ جو جگہ جس میں پانی اور گھاس نہ ہو۔  
 تیز چال والی اونٹنی، ج:۔، مٹک۔  
 میلک -- پادشاہ، حاکم، ج:۔، مَلکاء۔ میلک  
 النحل شہد کی کھیلوں کا پادشاہ۔  
 میلیل - گوشت، روٹی جسے راکھ میں پکایا  
 جائے، پھال اور چوڑا راستہ۔  
 ملیم - ملامت کا مستحق۔

## م - م

مات - موت، ہلاکی۔  
 مماناة - جنگ و جدال کرنا۔  
 مماناة - سوچ کر کوئی کام کرنا۔  
 مماناة - ممان - زور آزمائی کرنا، دشمنی کرنا۔  
 دھوکہ دینا، ہلاک کرنا۔  
 مماناة - کسی کو بچھاڑنے کے لیے لپٹ جانا۔

میلکہ - شاہزادی۔  
 مملکوت - مملکت، بزرگی اور غلبہ، ملک عظیم۔  
 میلی - سویلین (د)۔  
 ممل - ممتہ، ملال، مملاکتہ (دس)، رنجیدہ  
 ہونا، بے چین ہونا، بغیر صلہ و بصلہ  
 (من) [دق ہو جانا، کسی چیز سے۔  
 مملس - چھوٹے کی جگہ، ہاتھ پھیرنے کی جگہ۔  
 کھال اور جسم، ج:۔، مملیس۔  
 مملتج - جانور جس کے جسم پر اصل رنگ سے  
 مختلف رنگ کے دھبے ہوں۔  
 مملکتہ - باقی کی سوئی، جمع شدہ لشکر۔  
 مملول - سرمہ کی سلائی، لوہے کا قلم جس  
 سے تختوں وغیرہ پر لکھتے ہیں، ج:۔  
 ملامیل -  
 مملو - (د)، دوڑنا، بھاگنا، تیز چلنا۔  
 ملوآح - لبا سبک بدن، جلد بلی ہو جانے  
 والی عورت، جلد پیاسا ہو جانے والا  
 بچہ پایہ۔

ملوآ - گین (سیال شہ کی پائنتش کا آلہ) (د)۔  
 ملوآحہ - ملاحہ (ک)، پانی کا کھاری اور  
 شور ہو جانا، نمکین اور خوبصورت  
 ہونا۔

ملوآخ - ملاحتہ (ک)، بمعنی ملاحہ۔  
 ملوآذہ - جائے پناہ۔  
 ملوآم - ملیم - ملامت کیا ہوا۔  
 ملوآف - مظلوم، پریشان، انصاف چاہنے  
 والا، حسرت زدہ۔

ملعی - تھیٹر، محفل سرود۔ (د)۔  
 میلی - کچھ مدت، کچھ عرصہ۔

مِمِدَّ - مدد کرنے والا۔  
 مَمْدَدَةٌ - لمبی۔ دراز۔  
 مَمْدُودٌ - کھینچا ہوا۔ لمبا۔ م۔ مَمْدُودَةٌ۔  
 مَمَّرٌ - گزرنے کی جگہ۔ ج۔ مَمَّاسٌ۔ گزرنے والا۔  
 (مصدر میمی)  
 مَمْرَاحٌ - جگہ گھاس اگانے والی زمین۔ بہت پانی والا چشمہ۔  
 مَمَّرَدٌ - نپکنی اور پختی عمارت۔  
 مَمْرَضَةٌ - نرس۔ (د)  
 مَمْرُوعٌ - زیادہ چارہ کی زمین۔  
 مَمْرَقٌ - رگ گانے والا۔ گیت گانے والا۔  
 مَمْرَقٌ - پارہ پارہ کیا ہوا۔ (اسم مفعول)  
 مَمْرُوعٌ - کھڑے کھڑے کرنا۔ کھڑا پھاڑنا  
 (مصدر میمی)  
 مَمْسَحٌ - بہت جھوٹ بولنے والا۔ جس سے کوئی چیز پوچھی جائے۔  
 مَمْسَحَةٌ - پانڈان۔ (د)  
 مَمْسِكٌ - روکنے والا۔ م۔ مَمْسِكَةٌ۔  
 مَمْسُوحٌ - رخسار (گال) سخت اور کھردری پگڑی۔ بہت جھوٹ بولنے والا۔  
 مَمْسُوسٌ - دیوانہ۔ پاگل۔  
 مَمْسِيٌّ - شام گزارنے یا ہونے کی جگہ۔ راہب کا صومعہ (مصدر میمی) شام کرنا۔  
 مَمْسُوقَةٌ - خوبصورت لڑکی کھنچے ہوئے قد کی۔  
 مَمْسِطٌ - برسٹلے والا۔ یوم مَمْسِطٌ۔  
 (بارش کا دن)  
 مَمْسِطٌ - برسائی۔ (د)  
 مَمْسُوسٌ - مینہ پڑی ہوئی جگہ۔ بہت مسواک کرنے والا آدمی۔

[علی] کھینچنا۔  
 مَمَارَاتٌ - مَرَانٌ - حاملہ نہ ہونے کے باوجود حاملہ معلوم ہونا۔ اونٹنی وغیرہ کا جفتی کھا جانا۔ اور حاملہ (کا بھین) نہ ہونا۔  
 مَمَّاسَةٌ - جماع کرنا۔  
 مَمَّاصَةٌ - تلوار وغیرہ سے جنگ کرنا۔ ایک دوسرے سے دشمنی کرنا۔  
 مَمَّاطَةٌ - وصال۔ قرض وغیرہ ادا کرنے میں دیر کرنا۔ طال مٹول کرنا۔  
 مَمَّالَةٌ - مدد کرنا۔ محبت کرنا۔ مائل ہونا۔ (بین الشیخین) [دو چیزوں میں سے ایک کو ترجیح دینا۔  
 مَمَّالَةٌ - ایک شاعر کا ایک مصرعہ کہنا، اور دوسرے کا دوسرا۔  
 مَمَّانَةٌ - بدلہ دینا۔ لازم کھڑنا۔ انتظار کرنا۔ خاطر معاملات کرنا۔ لمبا کھینچنا۔ باری باری سواری پر سوار ہونا۔  
 مَمَّاحَةٌ - بخشش کرنا۔ لگا تار لڑی کی طرح آنسوؤں کو بہانا۔  
 مَمَّابِعٌ - گلوبند۔ (د)  
 مَمَّابِدٌ - دینے والا۔ بخشش کو مانگنے والا۔  
 مَمَّابِيٌّ - شک کرنے والا۔  
 مَمَّابِلٌ - ایکڑ۔ (د)  
 مَمَّابِحَاتٌ - پھسا پھانا۔ چھیڑا جس سے کوئی چیز مٹائیں۔  
 مَمَّابِعٌ - مضبوط بدن کا گھوڑا۔  
 مَمَّابِعٌ - ملا کیا ہوا نیزہ۔ مضبوط بدن کا گھوڑا۔



بجائے۔

مَسَّن - ترخیجین، شبنم (اوس) وہ آدمی جس کی کوئی دعوت نہ کرتا ہو۔ ایک پیغامہ جہ۱۔ اَمَنَان - معص (ن) احسان رکھنا۔ قطع کرنا۔ قرآن شریف کی آیت پاک اَجْرُ الْعَمَلِ مَسْنُونٌ۔ میں مَسْنُون اسی معنی میں ہے یعنی ایسا اجر جو ختم نہ ہوگا۔ تھکا دینا۔ کم ہو جانا۔ (علیٰ) کسی کے ساتھ نیکی اور احسان کرنا۔

مَسَاة - ایک من۔ ایک بُت۔

مَسَاة - کسی کے ساتھ سرگوشی کرنا۔

مَسَاة - پھجوندیں۔ (وہ) لفظ سے، جُلْد۔ مَسَاة - قتل و خون کرنا۔ جنگ اور مقابلہ کرنا۔

مَسَاة - (ن) کسی کی موت پر بلند آواز سے ماتم کرنا۔ رونا پینا۔

مَسَاة - پکارنا۔ آواز دینا۔ آپس میں فخر کرنا۔

بھید کو ظاہر کرنا۔ راستہ کا پیدا ہو

جانا کوئی صورت نکل آنا، دیکھنا۔

جاننا، حل کر بھس میں بیٹھنا۔

مَسَاة - پاس اٹھنے بیٹھنے والا۔ ایک ساتھ

شراب پینے والا۔

مَسَاة - پکارنے والا۔

مَسَاة - وسیع۔ دراز زمینیں۔

مَسَاة - روشنی کی جگہ۔ نشان۔ وہ نشان جو

راستوں پر قائم کر دیے جاتے

ہیں۔ کھلا ہوا راستہ۔ دو چیزوں

کے درمیان کوئی روک۔ آڑ۔

مَعْمُور - غصہ کے سبب جس کی تیوری پر بل پڑے ہوئے ہوں۔ چڑھے ہوئے پھرے والا۔

مَعْمُور - دودھ۔ کم پانی کا کنواں۔ کھٹی چیز۔ کڑوی چیز۔

مَعْمُور - گیروی رنگا ہوا۔ شیرخون میں شکار کے لفظ اہوا۔

مَعْمُور - لپٹوں مضبوط بدن والی۔ بھرے ہوئے اور گٹھے ہوئے جسم کی عورت

مَعْمُور - نمک کی کان۔ نمک کی جھیل۔

مَعْمُور - نمک دان۔ نمک رکھنے کا برتن۔

جہ۱۔ مَسَاة -

مَعْمُور - (حرکات ثلاثہ لام پر) پادشاہ کے غلام۔ پادشاہی کا رعب اور بدبہ وہ مقامات جو زیر حکومت ہوں۔

جہ۱۔ مَسَاة -

مَعْمُور - وہ غلام جس کے ماں باپ غلام نہ ہوں۔

مَعْمُور - ملک اور قبضہ میں کیا ہوا غلام۔ جہ۱۔ مَسَاة -

مَعْمُور - روکی ہوئی۔ حفاظت کی ہوئی۔

مَعْمُور - احسان جتلا ہوا۔ قطع کیا ہوا۔

مَعْمُور - جس کا لڑکا مر گیا ہو، خواہ مرد ہو یا

عورت، مارنے والا، موت دینے والا۔

## م-ن

مَسَّن - ذکر استفہام، کون شخص (اسم موصول) وہ شخص، جو شخص، وہ کہ، جو کہ۔

مَسَّن - (حرف جر ہے، کا، کی، کے، واسطے

عشق و محبت کی باتیں کرنا۔ بچے سے دلچسپ باتیں کرنا۔

مُتَأَقَّدَةٌ - مدعی، مدعا علیہ کا حاکم کے پاس جانا۔ آپس میں جھگڑنا۔ لڑنا۔

مُتَأَقِّطَةٌ - ہانڈی کا جوش مارنا۔ اور جھاگ نکلانا۔

مُتَأَفِّحٌ - فائدے، واہ، مَتَفَحَّةٌ -

مُتَأَفِّقٌ - دورنگا آدمی۔ وہ شخص جو بظاہر مومن اور درحقیقت کافر ہو۔ م۔ مَتَأَفِّقَةٌ -

مُتَأَفِّقَةٌ - کفر کو چھپانا اور ایمان کو ظاہر کرنا۔ دورنگی اختیار کرنا۔

مُتَأَقِّشَةٌ - حساب کی چھان بین کرنا۔ باہم لڑنا۔ (د) کسی مسئلہ پر بحث کرنا۔

مُتَأَقِّلَةٌ - شراب کی محفل میں ایک دوسرے کے پاس شراب کا، پیالہ پہنچانا۔ بات چیت کرنا۔ گھوڑے کا جلد جلد پاؤں اٹھا کر چلنا۔

مَتَّامٌ - سونا، نیند، خواب، خوابگاہ۔

مَتَّامَةٌ - سونے کا کمرہ، بستر، سوتے وقت پہننے کے کپڑے۔ دکان۔

مَتَّانٌ - بڑی نعمت دینے والا۔ بڑا احسان کرنے والا۔ باری تعالیٰ عزت اسماء کے ناموں میں سے ایک نام۔

مُتَأَوِّدَةٌ - آپس میں دشمنی کرنا۔ فخر اور غرور کرنا۔

مُتَأَهَّدَةٌ - جنگ میں ایک دوسرے کی طرف بڑھنا۔ انگلیوں سے فال لینا۔

مَنْبِتٌ - گھاس وغیرہ کے اگلنے کی جگہ۔ ج۔ مَنَابِتٌ -

مَنْبِثَةٌ - پراگندہ، منتشر۔

دیوار وغیرہ۔ ایک قسم کی پھیلی ہوئی مٹاہ کی شکل کی ہوتی ہے اور کشتی کو توڑ ڈالتی ہے۔

مَتَّانَةٌ - رکشنی کرنے کی جگہ۔ لائٹ ہاؤس چراغ رکھنے کی جگہ۔ اذان کہنے کی جگہ۔ ج۔ مَتَّانِيٌّ - مَتَّانِيٌّ -

مَتَّانِعَةٌ - جھگڑا کرنا۔ خواہش کرنا۔ کسی کے ساتھ مل کر ڈول کھینچنا۔ برابر میں ہونا۔

مَتَّانِيْلٌ - منزلیں۔ اترنے کے مقامات۔ وا۔ مَتَّانِيْلٌ -

مَتَّانِسَةٌ - ایک سی صورت کا ہونا۔ باہم لگا ڈ ہونا۔ کسی کے ساتھ رشتہ داری اور دوستی رکھنا۔

مَتَّاصٌ - چھیننے کی جگہ چھینکار اور خلاصی پانے کی جگہ۔ بھانگنے کی جگہ (مصدیمی) حرکت کرنا۔ دیر کرنا۔ بھاگ جانا۔

مَتَّاصَةٌ - ایک دوسرے کی پیشانی کے بال پکڑنا۔ ایک جنگل کا دوسرے جنگل کے برابر اور متصل ہونا۔

مَتَّاصِفَةٌ - مال کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا۔

مَتَّاصِفَةٌ - ایک دوسرے پر پانی پھینکنا۔

مَتَّاطٌ - لٹکانے کی جگہ۔ ملا علیہ۔

مَتَّاطِقَةٌ - آپس میں بات چیت کرنا۔

مَتَّاعٌ - بہت روکنے والا۔

مَتَّاعَةٌ - (دک) دوست ہونا۔ عزیز ہونا۔ پیارا ہونا۔ جگہ کا سیدھا، اور مضبوط ہونا۔

مَتَّاعٌ - ملائم، نرم۔ نازک۔

مَتَّاعَةٌ - نزدیک ہو جانا۔ عورت کے ساتھ

مِنْدَاة - سربانہ - بالیں۔

مَنْتَبِر - وہ جگہ جہاں خطیب کھڑا ہوتا ہے۔

جہ: - مَنَائِد۔

مَنْبَض - ڈھنکے کی لکان - جہ: - مَنَائِض۔

مَنْبِض - طیب کے نبض دیکھنے کی جگہ۔

مَنْبُوذ - حرام کا جنا ہوا لڑکا۔ جسے راستہ

میں ڈال دیا گیا ہو۔ دور پھینکا ہوا۔

بیٹھ جس کا گوشت دبلے پن کے

سبب لوگ کھانا پسند نہ کریں (د)

اچھوت۔

مَنْبَق - مرتب اور مزین۔ چند درختوں کی راستہ

اور خوب صورت قطار۔

مَنْبَقَة - احسان - نیکی بھلائی۔ نعمت۔ مص

دن، نعمت دینا۔ احسان کرنا

احسان جتلاتا۔

مَنْتَاش - ناک و ذریعہ کے بال اکھاڑنے کی

چھٹیر۔ جہ: - مَنَائِش۔

مَنْتَجَب - چٹا ہوا۔ چھانٹا ہوا۔ وہ آدمی جس کی

عقل جاتی رہی ہو۔

مَنْتَدِي - آدمیوں کی مجلس۔ محفل۔

مَنْتَشِر - پر اگندہ۔ متفرق۔

مَنْتَزَا - سیرگاہ (د)

مَنْتَصِر - انتقام بدلہ لینے والا۔

مَنْتَظَر - انتظار کرنے والا۔

مَنْتَح - لوگوں کی عیب جوئی کرنے والا۔

مَنْتَقِرُ الْعَيْن - وہ شخص جس کی آنکھ گڑھے

میں گھس گئی ہو۔

مَنْتَقِم - انتقام لینے والا۔

مَنْتَهَشَة - وہ عورت جو مصیبت کے وقت

چہرے کو ٹوچ ڈالے۔

مَنْتَحِي - منہنی ہنسا۔ پہنچنا۔ (مصدمی ہے،

مَنْتَحِي - باز رہنے والا۔ حد کو پہنچنے والا۔

مَنْتَبِين - بدبودار اور دماغ کو مڑانے والی

چیز۔ جہ: - مَنَائِين۔

مَنْتَوَس - بکھرا ہوا۔ پر اگندہ۔

مَنْجَاب - سُست اور کمزور۔ آگ کریدنے کا

لوہا۔ وہ عورت جس کے نیک بخت

لڑکے کثرت سے پیدا ہوئے ہوں۔

جہ: - مَنَائِجِب۔

مَنْجِد - چھوٹی رسی جھولتا ہوا۔ بار جو موتی اور

سونے سے بڑا کیا ہو۔ جہ: - مَنَائِجِد۔

مَنْجِل - آزمایا ہوا۔ تجربہ کار۔

مَنْجِل - درانمی چوڑا اور بڑا زخم۔ نیزہ بہت زیادہ

گھنا۔ کھیت۔ بہت زیادہ اولاد

والا آدمی۔ جہ: - مَنَائِجِل۔

مَنْجَلِيْق - فلاخن (گوپھنا جس میں پتھر رکھ کر

اور گھا کر مارتے ہیں)

مَنْجَم - نجومی ستاروں کی رفتار پہچاننے والا۔

مَنْجَم - مخرج۔ کان۔ معدن۔ صاف اور

روشن راستہ۔

مَنْجَم - لہجے کی چٹھی جس میں ترازو کی زبان

رہتی ہے۔ جہ: - مَنَائِجَم۔

مَنْجِنِيْق - گوپھنا جس میں پتھر رکھ کر دشمن کی

طرف پھینکتے ہیں۔ جہ: - مَنَائِنِيْق۔

مَنْجِنِيْق - مَنَائِنِيْقَات۔

مَنْجِي - نجات دینے والا۔

مَنْجَاة - دور کی مسافت۔ پانی بننے کا ٹیڑھا

ٹیڑھا راستہ۔

مَنْعَا سَا - اوزوں کو بہت زیادہ فروغ کرنے والا۔  
مَنْحُوْصٌ - دہلا پتلا۔ موٹا تازہ۔ بھرے ہوئے  
گوشت کا۔

مَنْحُوْلٌ - کسی شاعر کا کلام جسے کوئی دوسرا اپنا  
بتائے۔

مَنْحَسَا - ہلک کا سوراخ۔ جہ۱۔ مَنَاحِیْرٌ۔ مَنَاجِیْرٌ  
مَنْحَلٌ - چھلنی (جو اسماء آلہ مَفْعَل کے وزن  
پر آتے ہیں ان ہی میں سے ایک یہ  
ہے)۔ جہ۱۔ مَنَاحِیْلٌ۔

مَنْحَنَقَةٌ - گلا گھٹنے کی وجہ سے مر جانے والی۔  
مَنْدَخٌ - وہ آدمی جسے طعنہ زنی کی عادت ہو۔  
مَنْدَفٌ - مَنَدَفَةٌ۔ دُھکنے کی کمان۔ جہ۱۔  
مَنْدِیْفٌ۔

مَنْدَلٌ - اچک لے جانے والا۔ کنوئیں سے  
ڈول کھینچنے والا۔ تولیہ۔

مَنْدَلٌ - خوشبودینے والی کولہی۔  
مَنْدَلْمٌ - مَنَدَلْمَةٌ۔ شرمندگی۔ افسوس۔ ندامت  
مَنْدَوْبٌ - نمائندہ۔ ڈیلی گیٹ (د)  
الْمَنْدَوْبُ السَّامِیُّ - ہائی کمانڈر (د)  
مَنْدَوْحَةٌ - وسعت۔ فراخی۔ وسیع زمین۔ موقع  
گریز۔

مَنْدِیْلٌ - رومال۔ تولیہ۔ جہ۱۔ مَنَدِیْلٌ۔  
مَنْدٌ - (حرف جر) سے جیسے مَا زَا اَیْمٌ

هٰنْدٌ یَوْمَئِیْنِ - (میں نے اس کو  
دو دن سے نہیں دیکھا)

مَنْدِیْسَا - ڈرانے والا۔

مَنْدِیْسٌ - ڈرایا ہوا۔

مَنْدِیْعٌ - بہت کھینچنے والا جیسے تیرکان میں  
رکھ کر کھینچا جائے۔

مَنْزَعٌ - اکھاڑی ہوئی گھاس۔

مَنْزَعَةٌ - ہمت۔ لوٹنے کی جگہ۔ انجام کار۔

مَنْزَعَةٌ - شہد توڑنے کی کولہی۔ جو کچھ کے مثل  
ہوتی ہے۔ جہ۱۔ مَنَزِیْعٌ۔

مَنْزِلٌ - اترنے کی جگہ۔ گھر۔ مرتبہ۔ جہ۱۔ مَنَزِیْلٌ  
مَنْزِلُ الْقَمَرِ - چاند کی اٹھائیس منزلیں۔

مَنْزِلٌ - اتارنے والا۔

مَنْزِلٌ - اتارا ہوا۔

مَنْزِلٌ - تقویٰ اتھوڑا کر کے اتارا ہوا۔

مَنْزِلَةٌ - اترنے کی جگہ۔ گھر۔ مرتبہ۔ جہ۱۔

مَنْزِیْلٌ - حرمت۔ عزت (اس کی  
جمع نہیں آتی)

مَنْزُوفٌ - مست۔ بیہوش جس کے جسم کا خون  
زیادہ مقدار میں نکل جانے کی وجہ سے  
کمزوری پیدا ہوگئی ہو۔ وہ شخص جس  
کی پیاس کے مارے زبان اور لگیں  
خشک ہو جائیں۔

مَنْسَأَةٌ - عصا۔ لالچی۔ جہ۱۔ مَنَسِیٌّ۔

مَنْسَتَةٌ - ہاتھ کی لالچی۔ ڈنڈا۔ قہمی وغیرہ۔ جہ۱۔  
مَنَسٌ۔

مَنْسَیْجٌ - وہ کولہی جس پر جھلا ہے کپڑا بنتے ہیں  
جہ۱۔ مَنَسِیْجٌ۔

مَنْسَسٌ - شکاری پرندہ کی چونچ۔ گھوڑوں کا  
گردہ۔ تیس سے ساٹھ تک۔ یا ستو  
سے دوسو تک فوج کا ایک ٹکڑا جو  
آگے آگے چلتا ہے (مقدمۃ الجیش)  
جہ۱۔ مَنَسِیْسٌ۔

مَنْسِیْکٌ - قربانی کی جگہ۔ دین کا راستہ۔ عبادت کا  
طریقہ اور جگہ۔ جہ۱۔ مَنَسِیْکٌ۔

مَنَسِم - اونٹ کا سُم شتر مرغ کا سُم۔ نشان۔  
 راستہ اور طریقہ۔ ج: ۱۔ مَنَسِم۔  
 مَنَسُوب - نسبت کیا ہوا۔ شعر کہ جس میں عشق  
 اور محبت کا بیان ہو۔ ج: ۱۔  
 مَنَسِیب۔

مَنَسُوك - چکنا بے بالوں والا گھوڑا۔  
 مَنَسُوكَة - کھا ڈالی ہوئی زمین۔  
 مَنَسِی - بھولا ہوا۔ فراموش شدہ۔  
 (أَجْوَارِی) الْمَنَسَات - بلند بادلوں والی  
 کشتیاں۔

مَنَسِر - اٹھایا ہوا۔ زندہ کیا ہوا۔  
 مَنَسِرَة - پھیلائی ہوئی۔ متفرق و پراگندہ۔  
 مَنَشَع - مَنَشَعَة - ناک وغیرہ میں دودھ  
 پکانے کا آلہ۔ ج: ۱۔ مَنَیْشَع۔

مَنَشَعَة - تالیہ۔ (د)  
 مَنَشُود - فرمان۔ سرکلہ۔ (د)  
 مَنَشِی - اڈیٹر۔ (د)  
 مَنَصَب - اردلی۔ (د)

مَنَصَح - مَنَصَحَة - سوئی۔ ج: ۱۔ مَنَاصِح۔  
 مَنَصَح - بیت الخلاء۔ ج: ۱۔ مَنَاصِح۔  
 مَنَصَف - راستہ کا آدھا۔ خادم۔

مَنَصَف - نکرہ خادم۔ م۔ مَنَصَفَة۔ ج: ۱۔ مَنَاصِف۔  
 مَنَصَلت - تیز تلوار۔ چالاک اور ہوشیار۔  
 مَنَصُور - مدد کیا ہوا۔

مَنَصَدَة - سامان رکھنے کی میز۔ (د)  
 مَنَصُود - مرتب۔ تہ بہ تہ لگا ہوا۔  
 مَنَطِیق - بات۔ گفت گو۔ بول چال۔ بولی۔ زبانی  
 علم معقول۔

مَنَطَقَة - مَنَطِق - وہ چیز کہ جس سے مکر کو

باندھیں۔ ج: ۱۔ مَنَاطِیق

مَنَطِیق - بہت زیادہ بولنے والا۔ عورت جو  
 اپنے سرین پر باندھ لے تاکہ بھاری  
 معلوم ہوں۔

مَنَظَر - مہلت دیا ہوا۔  
 مَنَظَر - دیکھنے کی جگہ (بہلی معلوم ہو یا بری)  
 سین۔ ج: ۱۔ مَنَاطِر۔

مَنَظَرَة - مَنَظَار - دورین۔ عینک۔ (د)  
 مَنَظَر - مَنَظَرَة - غور سے دیکھنا۔

مَنَظُوم - ٹڈی دل۔ جواز کے تین ستارے۔ چاند  
 کی منزلوں میں سے ایک منزل۔

مَنَقَاد - پرندہ کی چونچ۔ سونے اور چاندی کو  
 پرکھنے کی کسوٹی۔ ج: ۱۔ مَنَاقِید۔

مَنَقَاد - پرندہ کی چونچ۔ تیر کے مثل ایک لوبہ  
 مَنَقَارَا لِنَجَاس - نہانی۔ ج: ۱۔

مَنَاقِیر۔  
 مَنَع - کیکڑا۔ ج: ۱۔ مَنُوع۔ مص (ف)

کسی کو کسی کام سے روکنا۔ نہ دینا۔  
 مَنَعِی - موت کی خبر۔ ج: ۱۔ مَنَاعِی۔

مَنَفَاخ - لوہاروں وغیرہ کی دھونکنی۔ ج: ۱۔  
 مَنَافِیخ۔

مَنَفَرَات - عورت جس کا حمل کی وجہ سے جی  
 مٹتا ہو۔

مَنَفِطَر - پھٹ جانے والا۔ جو جانے والا۔  
 مَنَفِیق - تخریب کرنے والا۔

مَنَفُوس - جنا ہوا۔ بچہ۔ عمدہ اور قیمتی چیز۔  
 مَنَقَات - پرندے کی چونچ دریا کے ایک چھوٹے  
 چالور کی ٹہی۔ ج: ۱۔ مَنَاقِیْف۔

مَنَقِبَة - پاڑھی راستہ۔ بزرگی اور فخر کی بات۔

آدمی کی نبی۔ دو گھنوں کے بیچ میں تنگ راستہ۔ دیوار۔ جہ: مَنَاقِب۔  
 مَنْقَر - لہجے کی کلال جس سے پتھر توڑتے ہیں۔ تنگ مزہ کا کنواں، بہت پانی والا کنواں جہ: مَنَاقِب۔  
 مَنَقَم - مٹکا۔ پتھر کا پیالہ۔ خالص دودھ جو ٹھنڈا کرنے کے بعد پیا جائے۔  
 مَنَقَع - بڑے سے اکھڑ جانے والا۔  
 مَنَقَل - پہاڑی راستہ۔ پیوند لگا ہوا ہوتا، یا موزہ۔ جہ: مَنَاقِل۔  
 مَنَقِل - جوتے اور موزہ میں پیوند لگانے والا۔ (موچی)  
 مَنَقَلَب - پلٹے اور بھرنے کی جگہ۔  
 مَنَقَلِب - پھرنے والا۔  
 مَنَقَلَّة - منزل اترنے کی جگہ۔ جہ: مَنَاقِل۔  
 مَنَقَلَّة - سر کی چوٹ کہ جس سے بڑی ٹوٹ گئی ہو۔  
 مَنَقُوص - گھٹایا ہوا۔ کم کیا ہوا۔  
 مَنَقُوف - دبلا پتلا آدمی جس کا چہرہ (خون کی کمی کی وجہ سے) پیلا پڑا ہوا ہو۔ دیکھ لگا ہوا درخت کا تنہ۔  
 (عَيْنَان) مَنَقُوقَاتَان - دوسرخ آنکھیں۔  
 مَنَقِيب - بازو۔ کندھا۔ کسی چیز کا کنارہ اور طرف۔ قوم کا مددگار اور نقیب۔  
 اونچی زمین۔ جہ: مَنَاقِب۔  
 مَنَكِر - انکار کرنے والا۔  
 مَنَكِر - ہوشیار۔ عقلمند نہ پہچانا ہوا۔ بُرا۔  
 تعجب خیز۔ جہ: مَنَاقِب۔  
 مَنَكِرٌ وَ كَوَكِبِرٌ - قبر میں سوال کرنے والے دو

فرشتے۔  
 مَنْكَرَاتُ الْمَوْتِ - موت کی سختیاں اور محکفیں۔  
 مَنْكَرَةٌ - انکار کرنے والی۔  
 مَنْكَوَسٌ - وہ آدمی جو سر جھکائے ہو۔ وہ بچہ جو پاؤں کی طرف سے پیلا ہو۔  
 مَمْمُولٌ - زبان، وہ کھانا جس پر چھوٹی ٹیاں چڑھ گئی ہوں۔  
 مَمْنُوٌ - دن (رب آدمانا۔ تجربہ کرنا۔ اندازہ کرنا)  
 مَمْنَوَالٌ - جولاہے کی نکلڑی۔ جس پر پینے ہوئے کپڑے کو لپیٹا جاتا ہے۔ طور۔ طریقہ بولا ہوا۔ لائق۔ مناسب۔  
 مَمْنُوعٌ - بہت منع کرنے والا۔ بڑا۔ بخیل۔  
 مَمْنُونٌ - زمانہ۔ بہت احسان اور بھلائی کرنے والا۔ موت۔  
 مَمْنَهَاجٌ - راستہ۔ جہ: مَمْنَاهِيْجٌ۔  
 مَمْنَهَالٌ - بہت غصہ میں لانے والا آدمی۔ ڈھلاؤ کا اونچا ٹیلہ۔ بہت سختی۔  
 مَمْنَهَاتِكٌ - ذلیل آدمی۔ جسے اپنی رسوائی اور ذلت کا کچھ خیال نہ ہو۔  
 مَمْنَهَلٌ - گھاٹ۔ پانی پینے کی جگہ۔ منزل۔ جہ: مَمْنَاهِلٌ۔  
 مَمْنَهِيْسٌ - موسلا دھار۔ برسنے والا۔  
 مَمْنِيٌ - (دھن، آزمانا۔ مٹی نکالنا۔ کسی چیز کی توفیق دیا جانا،  
 مَمْنِيٌ - موت۔ اندازہ۔ تقدیر۔ قصد۔  
 مَمْنِيٌ - عورت مرد کا پانی (نطفہ)۔ جہ: مَمْنِيٌ۔  
 مَمْنِيْبٌ - برسات کے موسم کی بڑے بڑے قطروں کی بارش۔ شروع کرنے اور

مَوَازِين - ترازوئیں۔ وا۔ - مِيزَان -  
مَوَاسَاة - اپنے مال سے کسی کی مدد کرنا۔ کسی کے  
غم میں شریک ہونا۔

مَوَاشِيَق - کبھی کے دنانے۔ وا۔ - مِيشَاق  
مَوَاصَلَة - خالص دوستی کرنا۔ ملاومت کرنا۔  
میل ملاپ کرنا (د) ذرائع آمدورفت۔  
مَوَاصَفَة - پانی کھینچنے اور دوڑنے میں مقابلہ  
کرنا۔

مَوَاطَبَة - کسی کام میں ہمیشہ لگا رہنا۔ پابندی  
کے ساتھ کوئی کام کرنا۔

مَوَاعِدَة - وعدہ اور عہد کرنا۔ آپس میں کسی چیز  
کی میعاد اور وقت مقرر کرنا۔

مَوَاعِيِد - طائم ٹیسبل۔ (د)

مَوَاقَاة - پہنچنا۔ کسی قوم یا جماعت کے پاس  
آنا۔

مَوَاقِفَة - موافقت کرنا۔ منظوری دینا۔

مَوَاقَاة - مَوْق - مَوْقُ - (د) - احمق اور

بیوقوف ہونا۔ ہلاک ہونا۔

مَوَاقِع - ایک دوسرے پر گرنے والا۔

مَوَاقِعَة - ایک دوسرے سے لڑنا۔ ایک دوسرے

پر گزنا۔ عورت سے صحبت کرنا۔

مَوَاقِيْت - اوقات۔ وا۔ - مِيقَات -

مَوَاقِل - عاجز اور مجبور۔ بے وقوف۔ بزدل۔

مَوَاكَلَة - ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا۔ چوپایہ

کا آہستہ آہستہ چلنا۔

مَوَالَاة - دو کاموں کو آگے پیچھے کرنا۔ آپس میں

میل جول کرنا۔ بعض بھٹیروں کو بعض

سے علیحدہ کرنا۔

مَوَالِسَة - دھوکہ بازی کرنا۔ کوئی بات اشاروں

تائیب ہونے والا۔

مُنِيَّة - آرزو۔ امید۔ جر۔ - مُنِي -

مُنِيَّة - موت۔ جر۔ - مَتَايَا -

مُنِيَّر - روشن چمکنے والا۔

مُنِيْحَة - چوپایہ جس کا دودھ، اون بچہ وغیرہ انعام

میں دیا جائے۔ جر۔ - مَنَاحِر -

مَنِيْن - ہلکا گردوغبار۔ کمزور سی۔ کمزور

آدمی۔ طاقتور آدمی۔

## م - و

مَوَات - بے جان چیز۔ مردہ۔ - بنجر یا دیران

زمین۔

مَوَاتِرَة - ڈوڈو دن درمیان میں چھوڑ کر روزہ رکھنا

اونٹنی کا پہلے ایک پھر دوسرے گھٹنے

کو زمین پر رکھنا۔ بیچ میں وقفہ چھوڑ کر

کوئی کام کرنا۔

مَوَاتِنَة - چمٹنا۔ زیادہ ٹھہرنا۔ کسی کام پر جا رہنا۔

مَوَاحَاة - آپس میں بھائی چارہ کرنا۔ کسی کا بھائی

اور دوست بننا۔

مَوَاحِدَة - گناہ کی وجہ سے پکڑنا۔ جرم کی سزا دینا۔

مَوَاحِر - پانی پھاڑنے والی کشتیاں۔ وا۔

مَاحِيْرَة -

مَوَارَاة - ایک چوپایہ کو دوسرے چوپایہ کے

ساتھ ملانا۔ چھپانا۔

مَوَارَعَة - باہم گفتگو کرنا۔ غور و مشورہ کرنا۔

مَوَاسِر - کیلے پیچنے والا۔

مَوَازِنَة - تقویت دینا۔ مدد کرنا۔ وزیر بنانا۔

مَوَازِنَة - ایک چیز کا دوسری چیز سے مقابلہ

کرنا۔ سامنا کرنا۔





اس کی جگہ رکھنے والا۔

مَوْخِرُ الْعَيْنِ - مَوْخِرَةُ الْعَيْنِ - آنکھ کا  
دنبال یعنی کپٹی کی طرف کا کونا۔

مَوْخِفٌ - بے وقوف۔ مٹی ملا ہوا پانی۔ موٹا  
پتھر کو رکبیل۔

مَوَدَّةٌ - کتاب۔

مَوَدَّةٌ - مَوَدَّةٌ - مَوَدَّةٌ (س) دوست  
رکھنا۔ محبت کرنا۔

مَوَدَّةٌ - ہلاک ہونے کی جگہ۔ جنگل۔

مَوَدُّعٌ - آرام۔ اطمینان۔ وقار۔ آرام طلب  
گھوڑا۔

مَوْدُونٌ - کمزور اور دبلا پتلا بچہ۔ چھوٹے ہاتھ  
اور چھوٹی گردن کا آدمی۔

مَوْدُونٌ - اذالی دینے والا۔ پیکارنے والا۔  
اعلان کرنے والا۔

مَوْسٌ - لہر یا مال کیا ہوا راستہ۔ ہرزم چیز  
مص (ن) دریا کا ٹھاٹھیں مارنا۔ خون

کازین پر ہا ہا پھینا۔ جھکنا۔ حرکت  
کرنا۔ بال اکھاڑنا۔ بگھڑنا۔ گرد اور

غبار کا اڑنا۔ پر اگندہ ہونا۔  
مَوْسٌ - اڑتی ہوئی گرد۔ آندھی۔ گرد و غبار

والی ہوا۔

مَوَدِّنٌ - تاجر۔ سامان نوشت و خواند (د)  
مَوْرِدٌ - دانوں کے نکلنے کی جگہ۔ مسوڑھے۔

جہ۔ مَوَارِسٌ۔

مَوْرُوْدٌ - جس پر لوگ وارد ہوں۔ جہاں لوگ  
اتریں۔

مَوْرِيَاتٌ - چمقاتی مار کہ پتھر سے آگ نکلنے  
والیاں (مرا د گھوڑے میں)

مَوْسٌ - کیسلا۔ وا۔ مَوْزَةٌ۔

مَوْسَجٌ - موزہ (جراب) کا عرب۔ جہ۔  
مَوَارِثَةٌ - مَوَارِثَةٌ۔

مَوْزِعٌ - ڈاکہ (د)

مَوْزُونٌ - جتنپا ہوا۔ تولا ہوا۔

مَوْزِيكٌ - موسیقی۔ (د)

مَوْسٌ - (ن) بال موٹنا۔ اونٹنی کے رحم میں  
ہاتھ ڈال کر نطقہ کو باہر نکالنا۔ آسترہ

کو تیز کرنا۔

مَوْسِيٌّ - تو نگر۔ مالدار جہ۔ مَوَّابِيٌّ۔

مَوْسِيحٌ - تو نگر۔ صاحب وسعت۔ مالدار

وسعت دینے والا۔

مَوْسِمٌ - ہر چیز کا وقت اور زمانہ۔ حاجیوں کے  
جمع ہونے کا زمانہ (حاجیوں کے)

جمع ہونے کی جگہ جہ۔ مَوَّابِيحٌ۔

مَوْسُومٌ - علامت کیا ہوا۔ داغ دار۔

مَوْسِيٌّ - آسترہ حضرت کلیم اللہ کا نام۔ علیہ  
وعلیٰ نبینا الصلوٰۃ والسلام۔ خود

(لوہے کی ٹوپی) کا اوپری حصہ۔

مَوْصٌ - بھوسہ مص (ن) آہستہ آہستہ  
دھونا۔ ہاتھ سے ملنا۔

مَوْصَدَةٌ - ڈھکی ہوئی۔ موندی ہوئی۔

مَوْصِيٌّ - وصیت کرنے والا۔

مَوْصِيحٌ - سر کی چوٹ جو ہڈی تک پہنچی ہو۔

مَوْضِعٌ - (ظرف) جگہ۔ جہ۔ مَوَّابِيحٌ۔ کسی  
جگہ پر رکھنا۔

مَوْظِفٌ - عمیدار۔ (د)

مَوْضُوعٌ - رکھا ہوا کسی علم میں جس چیز کے عوارض  
ذاتیہ سے بحث کی جائے۔ عنوان

مَوْق - مَوْق - مَوْق - مَوْق - مَوْق - مَوْق - (ن)  
احتمق ہو جانا - ہلاک ہو جانا۔

مَوْقِت - مِیقَات - احرام باندھنے کی جگہ۔  
جہ۱ - مَوَائِقِت -

مَوْقِد - جسم کا کنارہ - کاندھا - کلائی - کہتی۔  
ران وغیرہ۔ جہ۱ - مَوَائِقِد -

(نَاسِ) مَوْقِدَة - سلگائی ہوئی آگ۔  
مَوْقِر - بھاری بوجھ والا آدمی۔ چھوڑے

لگا ہوا درخت۔

مَوْقِع - گرنے کی جگہ۔ جہ۱ - مَوَائِقِع -

مَوْقِع - وہ آدمی یا پہاڑیہ جو مصیبتیں اٹھا  
چکا ہو۔ جانفرد جس کی پیٹھ بوجھ کی وجہ  
سے زخمی ہو گئی ہو۔ تیز کی ہوئی چھری یا  
تلوار۔ روندا ہوا راستہ۔

مَوْقِع - کھڑے ہونے کی جگہ۔

مَوْقِف المَدْعَاة - عورت کے جسم کا وہ  
حصہ جس کے کھولنے پر وہ مجبور ہے

چہو۔ قدم۔ آنکھیں۔ ہاتھ وغیرہ۔

مَوْقِن - یقین کرنے والا۔

مَوْقُوْت - جس چیز کا وقت مقرر ہو۔

مَوْقُوْدَة - لکڑی سے ماری ہوئی۔

مَوْقُوْم - عکین آدمی - ٹوٹی چھوٹی حالت والا۔

مَوْكِب - ایک قسم کی چال۔ رفتار۔ اونٹ پر  
سوار لوگوں کی جماعت۔ سوار یا  
پیدلوں کا گروہ جو راستہ طے کر رہا

ہو۔ جہ۱ - مَسَوَاكِب -

مَوْكُوْم - بہت زیادہ غمگین۔

مَسُوْل - (ن) کسی کو مال دینا۔

مَسُوْل - مَسُوْل - (س) مال والا ہونا۔ بہت

سجکٹ م۔ مَوْضُوعَةٌ - احادیث

مَوْضُوعَةٌ - بنائی ہوئی۔ اور

گھڑی ہوئی حدیثیں۔

مَوْضُوعَةٌ - دودو حلقوں کی بنی ہوئی زرہ۔

چھوٹے اور قریب قریب حلقوں

کی بنی ہوئی زرہ۔ جڑاؤ تخت۔

جڑاؤ زرہ۔

مَوْطَأ - مَوْطِئٌ پاؤں رکھنے کی جگہ۔ جہ۱ -

مَوَائِطِئ -

مَوْطَأ - امام مالک و امام محمد رحمۃ اللہ علیہما

کی کتاب حدیث کا نام۔ پاؤں

سے مسلا ہوا۔ مَوْطَأُ الْاَلْکَتَات -

نرم عادت والا۔ بہادر۔ سخی اور

حمائی کرنے والا آدمی۔

مَوْطِن - وطن۔ آدمیوں کے رہنے کی جگہ۔

لڑائی کا میدان۔ جہ۱ - مَوَائِن -

وعدہ کی جگہ (ظرف) وعدہ کرنا

(مصدر می)

مَوْعِد - مَوْعِدَةٌ - مَوْعُوْدَةٌ (ض) وعدہ

کرنا۔ خواہ کسی اچھی چیز کا یا بری کا۔

مَوْعِظَةٌ - دل کو نرم کرنے والی باتوں سے

نصیحت۔ جہ۱ - مَوَائِعِظ -

مَوْعُوْدٌ - وعدہ کیا ہوا۔

مَوْفِئٌ - پورا دینے والا۔

مَوْق - حماقت۔ کندھی ذہن۔ پردار چوٹی

آنکھ کا کرنا۔ غبار۔ سخت اور موٹا۔

مونہ جو دوسرے مونہ کی حفاظت

کے لیے اوپر پہن لیتے ہیں۔ جہ۱ -

آمَوَائِق -

مالدار ہونا۔

مَوْلِد - پیدا ہونے کی جگہ۔ پیدا ہونے کا وقت  
پیدائش۔ جرد۔ مَوَالِد۔

مَوْلِد - والدہ۔ ماں۔ ج: ۱۔ مَوَالِد۔  
مَوَالِد۔

مَوْلِد - بنایا ہوا۔ گھڑا ہوا۔ وہ لفظ جو عربی  
میں نیا وضع کیا گیا ہو۔

مَوْلِد - کلمی۔

مَوْلِد - مالوس کی ہوئی۔

مَوْلِد - اَلْقَلْبُ - نو مسلم جن کی دلداری کا  
شرع میں حکم ہے۔

مَوْلِد - جتنا ہوا بچہ۔

مَوْلِد - مالک۔ آقا۔ غلام۔ آزاد کرنے والا۔

مَوْلِد - آزاد کیا ہوا۔ ساتھی۔ قریبی رشتہ  
دار۔ دوست۔ پڑوسی۔ مہمان۔

مَوْلِد - شریک مددگار۔ پرورش کرنے والا۔  
نعمت دینے والا۔ نعمت دیا ہوا۔

مَوْلِد - مہربان۔ داماد۔ بہنوئی۔ ہنرمند (مولوی  
اسی کی طرف منسوب ہے)

مَوْلِد - اعراض کرنے والا۔ پشت پھیرنے  
والا۔

مَوْلِد - شمع۔ بتی۔ شہد کا روغن۔ جولانا کا  
ایک اوزار جس میں دھاگہ رکھ کر

بنتا ہے۔ برص۔ کوڑھ۔ بڑی اور  
موتے دانوں کی چھپک۔

مَوْلِد - دن (جموں)۔ چھپک یا برص کا  
بیمار ہونا۔

مَوْلِد - جنگل۔ بیابان۔ ج: ۱۔ مَوَالِد۔  
مَوْلِد - ذلیل اور بدکار عورت۔ ج: ۱۔

مَوَالِد۔

مُؤْمِن - ایمان لانے والا۔ امن دینے والا۔  
۴۔ مَوْلِد۔

مُؤْمِن - مَوْلِد (ن)، بڑی بچوں کو پالنا  
اور ان کے خرچ و پرورش وغیرہ کا  
بوجھ اٹھانا۔

مُؤْمِن - اُنس اور محبت کرنے والا۔ ساتھی  
بیچ شنبہ۔

مَوْلِد - چھوٹی بچی جو جیتی جاگتی گڑھا کھود  
کر دبا دی گئی ہو۔

مَوْلِد - مَوْلِد۔ مَوْلِد۔ مَوْلِد۔  
(س۔ ن۔ ص) (کنوئیں میں)

پانی کا بہت بوجھانا۔ کشتی میں پانی  
کا بھراؤ۔

مَوْلِد - قادر و مستعد۔

مَوْلِد - آمادہ و تیار۔

مَوْلِد - مَوْلِد۔ عطیہ۔ بخشش

مَوْلِد - مَوْلِد۔ عطیہ۔ بخشش ہوئی  
چیز پانی کا چھوٹا تالاب۔ پھاڑ

کا گڑھا۔ جس میں پانی جمع ہو  
جائے۔ ج: ۱۔ مَوْلِد۔

مَوْلِد - چہرہ کی آب و رونق۔ خوبی۔ نیکی  
چمک۔ دک۔

مَوْلِد - سختی کے ساتھ روندنے والا۔

مَوْلِد - روندنا ہوا مقام۔ پٹی زمین۔ ج: ۱۔  
مَوْلِد۔

مَوْلِد - مَوْلِد۔ مَوْلِد الخلق  
وہ شخص جس کی بڑیاں گٹھی ہوئی

ہوں۔

مثنوی - مہمان - (سو) کی طرف منسوب

صدی - (د)

مؤید - رسوائی - شرم - حیا - جہ - مؤیدات

مؤید - قوت دیا ہوا - تائید کیا ہوا - مؤید - قوت دینے والا - تائید کرنے

والا

مؤیل - ربائی - چٹکارا - پناہ پکڑنے کی جگہ - جہ - مؤایل

## م - ہ

مہ - مہر - رک جا (اسم فعل)

مہاء - میٹرہ - کچی - پیالہ اور برتن وغیرہ کا عیب

مہابۃ - خوف - ڈر - بجاؤ - پرہیز - بڑائی - بزرگی

مہاء - سورج - بلور - جنگلی گائے - جہ - مہا مہوات

مہاجاۃ - ایک دوسرے کی بھوکرنا

مہاجس - ہجرت کرنے والا - م - مہاجسۃ - مہاجسۃ - ہجرت کرنا یعنی ایک جگہ سے رہنا سہنا چھوڑ کر دوسری جگہ رہنے لگنا

مہاد - گوارہ (پالنا) زمین - بستر بچھانے کی چیز فرش - جہ - مہاد - آمہدۃ

مہادۃ - دو شخصوں کے بیچ میں ان کے کانڈھ پر ہاتھ ٹیک کر چلنا

مہارتۃ - کسی کے منہ پر کتوں کی طرح ہونگنا - مہارتۃ - کتوں کو ایک دوسرے پر بھڑکانا - ایک

دوسرے کے پیچھے دوڑانا

مہمان - ذلیل و خوار کیا ہوا

مہانتۃ - ذلت اور رسوائی

مہانتۃ - کسی کا مذاق بنانے کے لیے ہنسنا - ہنسی مذاق کرنا

مہاۃ - (دک) دودھ - گھی وغیرہ میں پانی ملا ہوا ہونا

مہادۃ - (آپس میں) صلح کرنا - وعدہ کرنا - مائل کرنا - پھر جانا

مہاۃ - تری - تازگی - سہل - ملائم اور نرم چال

مہایطۃ - پکارنا - آواز دینا - فریاد کرنا - قریب ہونا - دور ہونا

مہتیدی - ہدایت یافتہ - راہ پانے والا - مہتلیک - وہ شخص جسے آدمی اس کی مرضی

کے خلاف کسی کام پر مجبور کریں - پانی گھاس وغیرہ کا ڈھونڈنے والا - جو راستے سے بھٹک گیا ہو - جہ -

مہتلیکون

مہجۃ - (دق) بچہ کا دودھ چوسنا - جماع کرنا - بیماری کے بعد چہرہ اور جسم کا رنگ نکھر جانا

مہجۃ - جان - خون - دل کا خون

مہجس - عزت والا - بڑا آدمی - ہر عمدہ اور خوبصورت چیز - دوسروں پر فضیلت اور بڑائی رکھنے والا - دپہر کے وقت آنے والا

مہجسۃ - کچھ بڑا درخت - ذلت - بخشش - برائی - جہ - مہجسات

مہجنتۃ - غافل اور بے خبر جماعت - جہ -

مہاجن -

مہجوس - علیحدہ چھوڑا ہوا۔ وہ اونٹ جس کی

گردن کی رسی پاؤں میں باندھ دی گئی ہو۔ بے ہودہ۔

مہد - گمراہ (پالنا) زمین۔ جہ۔ مہود۔

مص (ف) بچانا۔ کمانا۔ کام کرنا۔

مہدوم - سویا ہوا شیر۔ ڈھایا ہوا۔

مہدای - وہ چیز جس میں تخم رکھ کر لائیں جیسے

رکابی۔ طباق وغیرہ۔ بہت تخم لانے

والا۔ (مذکورہ ٹونٹ)

مہدم - تیز اور کاٹ ڈالنے والی تلوار۔ جہ۔

مہانہ۔

مہر - عورت کا مہر۔ جہ۔ مہوس۔ مص۔

(ف) مہر باندھنا۔ مہر ادا کرنا۔

مہر - مہوس۔ مہاس۔ مہارت (ف)

کسی چیز کا ماہر ہونا۔

مہر - سینہ کے ریح کی ہڈی۔ جھنڈل کا پھل

جہ۔ مہرت - گھوڑے وغیرہ کا بچہ۔

جہ۔ مہاس۔ مہارت۔

مہراس - اوکھلی۔ باون دستہ۔ پتھر کا پیالہ

وغیرہ جس سے دھونکیا جائے۔ بڑے

ڈیل ڈول کا زیادہ کھانے والا۔ اونٹ

بہادر اور نڈر آدمی۔ جہ۔

مہرایس۔

مہرتی - ایک قسم کا سفید ریشم کا کاغذ۔ صفحہ۔

چکن اور صاف شفاف جنگل۔ جہ۔

مہریتی۔

مہرمتہ - بڑھاپا۔ مص (س) ضعیف اور

بڑھا ہوا۔

مہنات - شوخ اور چلبلی عورت۔ بہت ہنسنے

والی۔ جہ۔ مہناتیق۔

مہنڈول - لاغر۔ دبلا پتلا۔ جہ۔ مہنڈیل۔

مہنڈوم - شکست خوردہ۔ ہرا ہوا۔

مہنش - (ف) جلانا۔ چھیلنا۔

مہنٹاس - وہ اونٹنی جو اپنی خواہش سے سائڈ

کے آگے آئے۔ وہ اونٹنی جو پہلی ہی

جفتی میں حاملہ ہو جائے۔

مہطع - دوڑ کر آنے والا۔

مہفہقتہ - پتلے پیٹ اور پتلی کمر کی لڑکی۔

مہسنی - پانی پر جمی ہوئی کائی۔

مہنگ - (ف) زور سے گھسنا۔ جماع کرنے

میں عورت کو تنگ کرنا۔

مہسل - آہستگی۔ نرمی۔ مردہ کی پیپ۔ مص

(ف) کسی کام کا اطمینان سے کرنا۔

مہسل - دھات جو کان میں پیدا ہو۔ جیسے سونا۔

چاندی۔ تانبا۔ پتیل وغیرہ۔ بگھلا ہوا

لوہا وغیرہ۔ زیتون کا پتلا تیل۔ راکھ جو

روٹی سے چھڑے۔ زہر۔ پیپ۔

مہسل - گزرنے ہوئے بزرگ (اسلاف) مص

(س) نیک اور بھلائی میں پیش پیش ہونا۔

مہکتہ - تانیر۔ آمادگی۔ آہستگی۔ زمانہ وقت

مص (ف) بمعنی مہل۔

مہلک - ہلاکت۔ بربادی۔ جائے ہلاک

مہلک - ہلاک کرنے والا۔

مہلک - ہلاک کیا ہوا۔

مہلکتہ - جنگل بیابان۔ ہلاکت کی جگہ۔ جہ۔

## مری

میادِ اذاعہ - ہاتھ کے ہاتھ بدلہ دینا۔

مکاس - باہم فخر کا اظہار کرنا۔ [بین آدمیوں کے درمیان فتنہ پیدا کرنا۔

میاط - (مفاعلہ) دور پھینکنا۔ دھکیلنا۔ ڈانٹنا۔ ڈپٹ کرنا۔ پیچھے ہٹنا۔

میدت - مردہ ہوا ہوا ہے۔ آموان - موتی۔

میدت - مردہ ہے۔ میدتوں -

میتا لوجیا - علم معدنیات (د)

میتتہ - مرور جانور۔

میتوں - وہ بچے جس کے پاؤں (ہیٹ سے) پہلے نکلیں

میتا کا - ڈھیلے کوٹنے کی مونگری۔ لوہار کا اہرن

جہ - موٹائی۔

میتنا - نرم اور ملائم زمین ہے۔ میت - میت۔

میتناق - عمدہ پیمانہ۔ استواری (کسی چیز پر مضبوطی سے قائم رہنا۔ یوم المیتناق - وہ دن جبکہ تمام روحوں نے صرف خدا ہی کے مجبور ہونے کا اقرار کیا تھا۔ جہ۔

موتائینق - میتا تینق۔

معتب - چھوٹا کبیل۔ نرم زمین۔ چھوٹی سی نہر۔

میتب - کوٹنے والا۔ بیٹھنے والا۔ ادبچی زمین۔ جہ۔ میتب -

میتتہ - وہ کپڑا جس پر اور کپڑے پہنے جائیں۔ زمین کا تھوڑا کھانے والے جانور کی کھال۔ جہ۔ میتتہ - میتا تہ۔

میتتہ - دھوئی کی مونگری جس سے کپڑے کو کوٹنا ہے۔ جہ۔ موتا جن۔

میتح - نفع۔ مسواک۔ ایک طرح کی زنتار بطح کی

مہمتا - جب بھی جب کبھی (حرف شرط ہے) مہمتز - لوہے کی کیل جو سوار کے موزہ یا جوتے میں لگی ہوتی ہے اور گھٹا دوڑانے کے لیے

اسکی کوکھ پر مارتا ہے جہ۔ مہماوز - مہمتز - کوٹنا۔ ٹی۔ گدھے وغیرہ کو لٹکنے کا پتیا جس میں لوہے کی کیل لگی ہوتی ہے۔ جہ۔ مہماوز۔

مہمل - بے معنی۔ لغو۔ چھوڑا ہوا۔

مہمتہ - دو لکا جنگل۔ خالی اور بیکار پٹی ہوئی زمین۔

مہمتہ - مشن۔ (د)

مہمتن - مہمتن (ن) خدمت کرنا۔ ماننا۔ سچ دینا۔ مہمتہ - مہمتہ۔ مہمتہ - نوکری

کام کاج۔ کاریگری اور کام میں ہوشیاری اور عقل مندی۔

سیتف (سیتف) مہمتن - ہندوستانی لوہے کی بنی ہوئی تلوار۔ تیز تلوار۔

مہمو - ترچھوارے موتی۔ سفید کنکری۔ اولہ ہلکی تلوار۔ پانی ملا ہوا پتلا دودھ۔ مص (ن) زور سے مارنا۔

مہمواتا - زمین و آسمان کا بیچ۔ دو پہاڑوں کے درمیان کا گڑھا۔ جہ۔ مہمادی۔

مہمہ - ہلکی رفتار۔ نرمی۔ لڑ پڑ پن۔ آہستگی۔ زمانہ۔ امید مص (س) نرم ہوجانا۔

مہمیل - بکھرا ہوا۔ ریت پامٹی وغیرہ۔

مہمیلین - گواہ۔ نگہبان۔ دیکھ بھال کرنے والا۔ خوف سے امن دینے والا۔ امانتدار (باری تعالیٰ کی صفوں میں سے ایک صفت ہے)

مہمیلین - ذلیل و خوار کرنے والا۔

مہمیلین - رسوا اور ذلیل ہست۔ کھٹا دودھ۔ کم عقل۔ بے تیز۔ جہ۔ مہمتا۔

چال مص (رض) ٹھکتے ہوئے چلنا۔ پانی کا چلو بھرننا۔ رفع ہنپانا۔ مسواک کرنا۔ سفارش کرنا۔ ہوا کا درخت کو بلانا۔

**مِیْح** - کھجور کا درخت جس کے پھلوں کی گٹھلی سخت نہ ہوئی ہو۔ یا ابھی تک پڑی نہ ہو۔

**مِیْح** - (رض) ملک کر چلنا۔

**مِیْدَان** - (رض) بل کھانا۔ میل جول کرنا۔ پھلنا پھولنا۔ بڑھنا۔ سراب کا چمکانا۔ حرکت کرنا۔ ناز سے چلنا۔ راستہ سے ہٹ جانا۔ جھکا۔ زیارت کرنا۔ احسان کرنا۔ جی متلانا۔

**مِیْدَاء** - مقابل۔ آمنے سامنے۔ کسی چیز کی حد نہایت۔ کسی چیز کا قیاس اور اندازہ۔

**مِیْدَان** - مِیْدَان - جنگل۔ خالی زمین جس میں عمارت نہ ہو۔ گھوڑا دوڑانے اور چوگان کھیلنے کی جگہ۔ جہ۔ مِیْدَان -

**مِیْدَقَة** - کھانا۔ دسترخوان جو کھانے سے چنا ہوا ہو۔

**مِیْدَع** - پرانا کپڑا۔ کام کاج کے وقت پہننے کا کپڑا۔ کپڑوں کی پٹاری۔ ریغیدہ کرنے والی بات۔ جہ۔ مِیْدَع -

**مِیْدَانَة** - اذان کہنے کی جگہ۔ منارہ۔ صومعہ۔ جہ۔ مِیْدَان -

**مِیْر** - (رض) بڑی بچوں کے لیے خوراک لانا۔ دو آکو پانی میں بھگوننا اور گھسنا۔ اون دھننا۔

**مِیْرَاث** - وہ چیز جو کسی سے منتقل ہو کر کسی کے پاس پہنچے۔ مرہ کا بقیہ مال۔ جہ۔ مِیْرَاث -

**مِیْرَاثِی** - کر تل۔ (د)

**مِیْرِی** - محصول۔ (د)

**مِیْرَقَة** - تھوٹا غلہ۔ ایک شہر سے دوسرے شہر

میں غلہ لانا۔ (اسم مصدر)

**مِیْر** - (رض) جدا کرنا۔ علیحدہ کرنا۔ ایک کو دوسرے پر فضیلت دینا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔

**مِیْرَاب** - پر نالہ۔ جہ۔ مِیْرَابِی -

**مِیْرَان** - ترازو۔ اندازہ۔ عدل۔ انصاف۔ جہ۔ مِیْرَانِیْن -

**مِیْرَانِیْن** - الحار والبرد۔ تھرا میٹر۔

**مِیْرَانِیَّة** - بجٹ۔ تخمینہ۔ مصارف۔ (د)

**مِیْرَسَا** - چادر۔ جہ۔ مِیْرَسَا -

**مِیْس** - مِیْسَان - (رض) ناز سے چلنا۔ جرات کرنا۔ بے باکی کرنا۔

**مِیْسَان** - ناز سے چلنے والا۔ جہز میں سے ایک ستارہ۔ روشن ستارہ۔ جہ۔ مِیْسَانِیْن -

**مِیْسِر** - ہوئے بازی مص (رض) جو اٹھینا۔

**مِیْسِرَة** - بائیں جانب۔ بالائی آسانی۔ فراخی۔

**مِیْسَم** - داغ دینے کا لونا۔ خوبی۔ خوبصورتی۔ جہ۔ مِیْسَم - مِیْسَم -

**مِیْسُوس** - آسان۔ آسانی۔

**مِیْسُوس** - (رض) اون کو بالوں کے ساتھ ملانا۔ کچھ بات چھپانا۔ کچھ بیان کرنا۔ بھن کا آدھا آدھا دوہنا۔

**مِیْسَاقَة** - وضو کرنے کی جگہ۔ وہ برتن جس میں ہاتھ وغیرہ دھوتے ہیں۔

**مِیْسَط** - قوت۔ زیادتی۔ سختی۔ مص (رض) کنارہ کرنا۔ دور ہونا۔ دور کرنا۔ پھیر دینا۔ ظلم و ستم کرنا۔

**مِیْسَع** - کسی چیز کا زمین پر ہنا۔ بگھلنا۔ گھوٹے کا دوڑنا۔

مِعَاد - وعدہ کی جگہ۔ وعدہ کی مدت (وعدہ)

مِعَاس - ریشمی نرم زمین۔ نرم ریت۔ راستہ۔

مِیْعَة - خوشی۔ گھوڑے کی رفتار کا آغاز۔

شروع جوانی۔ شروع دن۔ ایک

خوشبودار گوند۔

مِیْقَات - کام کا وقت۔ کام کی جگہ۔ حج اور

عمو کے لیے احرام باندھنے کی جگہ۔

جر:۔ مَوَاقِیْت۔

مِیْقَد - اسٹو۔ انگریزی چولہا۔ (د)

مِیْقَف - ڈوٹی جس سے ہانڈی کو چلاتے ہیں۔

جر:۔ مَوَاقِف۔

مِیْکَلَة - چھوٹا پیالہ۔ چھوٹی ہانڈی۔ چھوٹی

سی خوراک۔

مِیْکَال - چمچہ۔ جر:۔ مَآکِیْل۔

مِیْکَال - ایک فرشتہ کا نام۔

مِیْکُو سکو ب - خوردبین۔ (د)

مِیْیَل - بہت مالدار۔

مِیْیَل - زمین کی سلائی۔ جراح کی سلائی

جس سے زخم کی گہرائی معلوم ہوتی ہے

زمین کی وہ حد جہاں تک آدمی کی

نگاہ پہنچے۔ منارہ۔ راستہ کا نشان۔

تہائی فرسنگ۔ جر:۔ آمِیَال۔

مِیْیُول۔

مِیْیَل - مَمِیْل - مِیْیَلَان - مِیْیُولَان۔

(ض) (حاکم کا) ظلم کرنا۔ (دیوار کا)

ٹپٹھا ہونا۔ [الی] پھر جانا۔ مڑ جانا۔

رجعت کرنا۔ مائل ہونا۔ [عس] [

راستہ سے پھر جانا۔ [علی] ظلم کرنا

[ب] غالب آنا۔

مِیْلَاء - ریت کا ٹیلہ جہاں ہوا۔ بہت شانوں کا

درخت۔ طپڑھی کوہان والی اونٹنی۔

مِیْلَاد - پیدائش کا وقت۔

مِیْلَک - وقت۔ زمانہ۔ جر:۔ مِیْل۔

مِیْلَکَة - حملہ۔ ایک بار جھک پڑنا۔

مِیْلَکَة - دلیل۔ راستہ دکھلانے والا۔ وہ اونٹ

جو قافلہ میں سب سے آگے رہے۔

مِیْمَکَة - برکت۔ نیک بختی۔ دائیں جانب۔

(میسرہ کی ضد)۔ جر:۔ مِیَاوِن۔

مِیْمُون - مبارک نیک بخت۔ جر:۔ مِیَاوِن۔

مِیْن - جھوٹ۔ جر:۔ مِیُون۔ (معن رض)

جھوٹ لونا۔ زمین میں ہل چلانا۔

مِیْنَا - کشتی کے کنارہ پر آنے کی جگہ۔

بندرگاہ۔

مِیْنَا الْجَوِّی - فضائی اسٹیشن۔ (د)

مِیْنَاء - شیشہ کا گلاس۔

مِیْیُول - (ض) سورج کا چھینے کے قریب ہونا۔

مِیْیَہ - (ض) تلوار وغیرہ پر سونے کا پانی

پھیرنا۔ طبع کرنا۔ کنویں کا بہت

پانی والا ہونا۔

۵۰  
ن۔ ۱

نَاب - کیل (دانت)۔ جر:۔ آنتِیَاب۔

نَابُ - قوم کا سردار۔ بڑی عمر کی اونٹنی۔ جر:۔

آنتِیَاب - نُیُوب۔ نِیْب۔

نَابِیْحَة - مغرورانہ بات کہنے والا۔ دور دراز

کی زمین۔ جر:۔ نَوَابِیْح۔

نَابِیْک - بلند جگہ۔ جر:۔ نَوَابِیْک۔

نَابِیْہ - شریف۔ عقل مند۔ جر:۔ نَبِیْہَاء۔



تاسراع - اونٹن پر لگا ہوا گاہ کا خواہش مند پر دیسی۔  
 کھینچنے والا۔ جر۔ نَسَاع۔  
 النَّازِعَاتُ عَزَّوَجَلَّ۔ سختی سے روح قبض کرنے والے فرشتے۔  
 تازیکہ - زمانہ کی سختی بلا معصیت۔ جر۔ تَوَازِل۔  
 تازیتہ - تیزی۔ سرد۔ ٹھنڈا۔ چوڑا پیالہ۔ جر۔  
 تَوَازِي۔

تاس - لوگ۔ انسان (اسم جمع ہے)۔  
 تاسک - عبادت گزار۔ جر۔ تَسَاك۔  
 تاسور - ایک زخم جو جاری رہتا ہے۔ اور  
 اکثر آنکھ کے حلقہ، دانتوں کی جھڑ  
 اور مقعد کے قریب ہو جاتا ہے۔  
 جر۔ تَوَاسِيْر۔  
 تاش - (ف) گھیر لینا۔ پکڑ لینا۔ حملہ کرنا۔  
 اٹھنا۔ دیر لگانا۔ پیچھے چھوڑنا۔ زور  
 سے پکڑنا۔

تاشیر - پبلشر۔ (د)  
 تاشیرات - ہوائیں چلانے والے فرشتے۔ بادل  
 پھیلانے والی ہوائیں۔  
 تاشیرۃ - بازو کے اندر اور باہر کا پھٹا۔ بازو۔  
 بازو کی رگ پہنچنے کے اندر یا باہر کا  
 پٹھا۔ جر۔ تَوَاشِيْر۔  
 تاشیط - خوش شادمان۔ جنگلی بیل۔ چھوٹا  
 راستہ جو بڑے راستہ کے برابر سے  
 نکلے۔ جر۔ تَوَاشِيْط۔  
 تاشیطان - وہ ستارے جو ایک بُرج سے  
 دوسرے بُرج میں جائیں۔ فرشتے  
 جو مومن بندوں کی دوشیں سہولت  
 سے نکالیں مومنوں کی جانیں کہ موت  
 کے وقت آرام کے ساتھ نکلیں۔

تاری - نشانہ پر نہ سٹینے والا تیر یا تلوار۔  
 تارتیق - سوار کو تھکا دینے والا۔ جلد آگ  
 بھڑکانے والا۔ حقیق۔ جلد حاملہ ہو  
 جانے والی اونٹنی۔ بہت بچوں والی  
 عورت (انہی کے دو معنوں میں)۔  
 جر۔ تَوَازِيْق۔

تارجح - کھانسنے والا۔ وہ دریا جس میں پانی  
 کے تلاطم کے سبب آواز ہو۔ پانی  
 کے ٹکڑانے کی آواز۔

تاجذ - سب سے پھیلا دانت۔ جر۔ تَوَاجِذ۔  
 تاجضا - نقد۔ موجودہ۔ تیار۔  
 تاجود - شراب۔ شراب کا پیالہ۔ بڑا پیالہ  
 زعفران۔ خون۔ جر۔ تَوَاجِيْد۔  
 تاجی - نجات پانے والا۔

تاجی - علم نحو کا جاننے والا۔ جر۔ تَجَاة۔  
 تاجل - (ہلکن یا بیماری کے سبب) دہلا پتلا۔  
 باریک۔ جر۔ تَوَاجِل۔  
 تاجیمتہ - کنارہ۔ طرف۔ گوشہ۔ جر۔ تَوَاجِي۔  
 تاجیب - ووٹر۔ (د)

تاجد - کینہ۔ دشمنی۔ مص۔ (د) برا جانا۔  
 زمین میں سے پانی کا رستا۔ سختی اور  
 تکلیف پہنچنا۔

تاجدس - اکیلا۔ مسافر۔ اٹکھا۔ جر۔ تَوَاجِدِس۔  
 تاجدم - شرمندہ پشیمان۔ جر۔ تَدَام۔ تَدَام۔  
 تاجدی - مجلس۔ محفل۔ جر۔ تَدِيْدَة۔  
 تاس - آگ۔ جر۔ تَوَاسِر۔ تَوَاسِر۔  
 تاجدۃ - آنسو۔

تاجدۃ - آتش بازی۔  
 تاجس - نیاسا نشان۔ عقل۔ رائے۔ دوزخ۔

تائیل - گھونٹ بھرائی۔ دودھ وغیرہ۔ شراب کی تکچھٹ جو بیانہ میں رہ جاتے۔ شراب شراب کا پیمانہ۔

تائیلس - دیکھنے والا۔ باغبان۔ پھولیدار حفاظت کرنے والا۔ م۔ تائیلس۔ آکھ کا سیاہ نقطہ۔ آکھ کی پتلی۔ ناک کی طرف ایک رگ۔ (د) وزیر۔ اسپیکر۔

تائیلوس - یاٹھان۔ مالی۔ تائیلوڈا - سردار جس کے حکم کے ہر کام میں لوگ منتظر رہتے ہوں۔

تائیلجہ - نرم و ملائم زمین۔ سفید اور تیز چال والی اوستنی۔ جہ۔ کوا عجب۔

تائیلقان - جوزا کے دوستارے۔

تائیلعہ - تروتازہ اور نرم و نازک۔ م۔ تائیلعمہ -

تائیلعی - بری خبر دینے والا۔ موت کی خبر لانے والا۔

تائیلف - (س) کسی چیز کو برا اور ناپسند سمجھنا (من) اسپٹ بھر کر پینا۔ (د) (فی) اکوشش کرنا۔

تائیلجہتہ - نادر۔ بہت پانی برسانے والا بادل۔ پہلو کی چھوٹی بڑی۔ ہوا جو شروع میں تیز چلے۔ وہ لڑاکی جو اپنے باپ کو اپنے مہر سے مالدار کر دے۔ جہ۔ کوا فحجہ۔

تائیلس - بھاگنے والا۔ غالب۔ جہ۔ تائیلس۔ آدمی کے رشتہ دار عزیز اور اقارب بھاگنے والی۔ جہ۔ کوا فہر۔

تائیلقلہ - غنیمت کا مال۔ عطیہ۔ وہ عبادت جو

تائیشیہ - اول دن۔ اول رات۔ رات کی پہلی گھڑی۔ تمام رات۔ وہ رات جس میں جاگنے والے بندے عبادت کریں۔ جہ۔ کوا اشی۔

تائیشیہ الکیل - رات کو اٹھنا۔ شب بیداری۔ تائیشیہ - رنج و تکلیف اٹھانے والی۔

تائیشح - نصیحت کرنے والا۔ درزی۔ خالص شہد۔ جہ (باعتبار معنی اول)۔ تائیشح۔ تائیشح۔

تائیشص - مددگار۔ رہائی دینے والا۔ جہ۔ تائیشصا - آنصا۔ تائیشص۔

تائیشصف - ملازم۔ خرد نگار۔ غلام۔ جہ۔ تائیشصف۔ تائیشصفہ - آب رو۔ دریا۔ نالہ۔ بہتا ہوا پانی۔ جہ۔ کوا یشصف۔

تائیشیہ - پیشانی۔ ماتھا۔ پیشانی کے بال۔ جہ۔ کوا یشی۔

تائیشح - دولت یعنی درہم دینار۔ روپیہ وغیرہ۔ آھس۔ تائیشح - ناممکن کام۔

تائیشح - وہ اونٹ جسے سچائی اور پائی کہنے کے کام میں لایا جائے۔ م۔ تائیشحہ۔ جہ۔ کوا یشح۔

تائیشصا - تروتازہ (چو) رونق والا۔ (چہرہ) م۔ تائیشصہ۔ گہرا سبز۔ تائیشح کو مبالغہ کے طور پر اور رنگوں کی صفت بھی لاتے ہیں۔ جیسے آھس۔ تائیشصا۔ گہرا سرخ۔

تائیشط - بولنے والا۔ عاقل۔ تائیشطہ۔ کوکھ سخن گوئی۔

(نفس) تائیشطہ۔ نفس انسانی۔

واجب یا فرض نہ ہو۔ پوتا۔ نواسہ۔

جہ:۔ تَوَاحِل

تاق - چھوٹی انگلی کے نیچے گوشت کے ٹکڑے کی بڑ۔ ہاتھ کی پھنسی۔

تَاقَة - اونٹنی۔ جہ:۔ تاق۔ نیاق۔ اَنَوَاق۔ جہ:۔ آبا نِق۔ نِیَاقَات۔

تَاقِس - نشانہ پر جلنے والا تیر۔ جہ:۔ تَوَاقِس۔ محاصمت۔ حجت۔ (بحث)

تَاقِح - تازہ عمدہ۔ دَم تَاقِح - تازہ خون مَاء تَاقِح - عمدہ اور خوشگوار پانی۔

سَم تَاقِح - زہر قاتل۔ تَاقِلَة - جگہ جگہ پھرنے والے آدمی۔ جہ:۔ تَوَاقِل۔

تَاقُوس - صور۔ زنگ۔ جہ:۔ تَوَاقِیْر۔ تَاقُوس - برہمنوں کا ستھ جے وہ اپنی عبادت کے وقت بجاتے ہیں۔ جہ:۔ تَوَاقِیْس۔

تَاقِب - ٹیٹھا اور منحرف ہونے والا۔ تَاقِز - خشک کنواں۔ جہ:۔ تَوَاقِز۔ تَاقِز۔ تَاقِز۔ سر جھکاتے والا۔

تَاقِس - سر جھکاتے والا۔ تَاقِس - بے محاش۔ سخی۔ جہ:۔ اَنَوَال۔ تَاقِل - تَاقِلَان۔ تَاقِیل (ف)۔ چلنا۔ آہستہ آہستہ چلنا۔ گویا سر پر بوجھ ہے۔

کسی پر رشک کرنا۔ برا چاہنا۔ تَاقِة - زندگانی جس و حرکت۔ جہ:۔ تَوَاقِر۔ تَاقِة - آواز سے گانا۔

تَاقِیل - چغندر۔ تَاقِیة - قیدی کی چال۔ تَاقِیة - پامال راستہ۔ چغندر عورت۔ تَاقُوس - خون۔

تَامُوْدَة - بھیڑیے کا جال۔ جہ:۔ تَوَاقِیْم۔ تَامُوس - رازدار۔ بھیجک جھاننے والا۔ وحی

جبریل علیہ السلام کا نام۔ ہوشیار اور عقلمند آدمی۔ شکاری کا جال۔ چھپایا ہوا کرا اور حیلہ۔ شیر کے سونے کی جگہ۔

جہ:۔ تَوَاقِیْم۔ تَاقِیة - مخلوق خدا۔ وہ قوت جو نشوونما کرتی ہے۔ کچھ دارانگور کی شاخ۔ بڑھنے والی۔ جہ:۔ تَوَاقِی۔

تَاقِیة - آنکھ کے ڈھیلے کو بہت پھرانے والا۔ کمزور۔ بزدل۔ ڈر پوک۔ عاجز آدمی۔ تَاقِیة - کسی کو عمدہ غذا کھلانا۔ روکنا۔ کمزور رائے والا ہونا۔ عاجز اور مجبور ہو جانا۔

تَاقِیة - جہاز کا کرایہ۔ (د) تَاقِیہ - ابھرے ہوئے پستان والی عورت۔ شیر کی جھاڑی۔ جہ:۔ تَوَاقِیہ۔

تَاقِیہ - گھوڑے وغیرہ کے رخساروں پر دو ابھری ہوئی ڈھیلیاں، جہاں آنسو بہتے ہیں۔ تَاقِیہ - سیراب۔ پہلے پانی پینے والا۔ پیاسا (ضد)۔ جہ:۔ تَوَاقِیہ۔

تَاقِیہ - پانی پینے کی جگہ پر آنے جانے والے اونٹ۔ تَاقِیہ - منع کرنے والا۔ تَاقِیہ - کافی ہے سمجھ کو۔

تَاقِیہ - نیچی۔ ٹوٹی۔ (ف)۔ دور ہونا۔ تَاقِیہ - کسی کی جگہ پر کام کرنے والا۔ (د)۔ پارلمینٹ کا ممبر۔ جہ:۔ تَوَاقِیہ۔ تَوَاقِیہ۔ تَاقِیہ - تَاقِیہ المَلِک - واسرائلے۔ (د)

تَاقِیہ - تَاقِیہ المَلِک - واسرائلے۔ (د)

تَاقِیہ - تَاقِیہ المَلِک - واسرائلے۔ (د)

تَاقِیہ - تَاقِیہ المَلِک - واسرائلے۔ (د)

تَاقِیہ - تَاقِیہ المَلِک - واسرائلے۔ (د)

تَاقِیہ - تَاقِیہ المَلِک - واسرائلے۔ (د)

تَاقِیہ - تَاقِیہ المَلِک - واسرائلے۔ (د)

کاتبۃ - مصیبت - بلا - سختی - دشوار کام -

جر - کواثب

تایح - نوحہ کرنے والا - رونے پینے والا -

جر - کوح - م - کاثحہ - جر -

الواح - لوح - تعایح -

تایحہ - سونے والا - جر - نیام - قوم - میم -

(کیل) تائیہ - رات جس میں لوگ سو رہے ہوں -

تائیمة - موت - سانپ - سوئی ہوئی عورت -

قوم - تئیم -

## ن - پ

نبا - خیر آگاہی - جر - انباء -

نبا - (ف) آہستہ چیننا - دور ہونا - اونچا

ہونا - پہننا - ایک جگہ سے دوسری

جگہ جانا -

نبات - سبزہ - گھاس - مہن (ن) اگنا -

نبتاح - دھاڑنے والا - سخت آواز والا بستو

گھولنے کا چھپر -

نبتاح - کتے کی آواز - ہرن وغیرہ کی آواز -

نبتاش - کفن چور -

نبتال - تیر والا تیرینا نے والا -

نبتاۃ - آگاہی - ذکاوت - فضل - مص (ک)

صاحب علم و فضل ہونا - شریف ہونا -

(ع) کسی سے بزرگ ہونا -

نبتاۃ - تیار - ساز و سامان -

نبتاۃ - تیر گری -

نبتت - (ن) ہاتھ سے زمین کو کھودنا - ساگ

توڑنا - غصہ کرنا - (ع) اچھی ہوئی

چیز کو کھول دینا -

نَبَجَة - پشتہ - طیلہ - جر - نَباج -

نَبَج - کیدیچ - نَباح - (ف) کتے سانپ

بوک وغیرہ کا آواز نکالنا -

نَبَد - مقوڑی اور آسان چیسر - جر -

اَنبَاد - حص - (ن) بیضہ بنانا -

نَبَد - نَبَدَان - (ض) رگ کا پھڑکانا - کسی

چیز کو ہاتھ سے پھینک دینا - عمدہ توڑنا -

نَبَدَة - نمندگی - گوشہ - کنارہ - طرف - حصہ -

نَبَدَرَة - فضول خرچی کرنا -

نَبْر - بے حیا مہر (ض) اٹھنا - بلند کرنا - اٹھانا

پہننا - بچھ مارنا - بچھ کا بڑھنا - پھولنا -

نَبْر - چھوڑنا - ایک قسم کی کھٹی - پھوٹے قد کا

کینہ آدمی - جر - اَنبَات - نَبَات - غلہ

جمع کرنے کی جگہ - گیہوں وغیرہ کا

کھلیان - جر - اَنبَاس -

نَبْرَج - اوپر کے ہونٹ کے گڑھے کا بیج - بدن

کی سوچن - بلند جگہ - اونچی اور نکلی ہوئی

چیز - رونے پینے کی آواز - گویے کا

آواز کا اٹھان -

نَبْرَن - (ض) اشارہ کرنا - عیب گیری کرنا -

برے نام رکھنا -

نَبْس - (ض) بات کرنا - بھید پھیلانا - حرکت کرنا -

نَبْس - (ن) کسی پر تیر چلانا - اور اس کے نہ

لگنا - چھی ہوئی چیز کو نظر کرنا - ننگا

کرنا - کفن چرانا - کمانی کرنا -

نَبَصَة - ایک بات مآ سمعت له تبصۃ

میں نے اس سے کوئی بات نہ سنی -

نَبَصَان - (ض) رگ کا پھڑکانا - کمان یا

چلہ سے آواز نکالنا - بجلی کا مال کی تہہ

میں چمکانا۔

نَبَط - نَبُوَط - (ن - ض) زمین یا کنوئیں میں سے پانی نکلنا۔ کنوئیں وغیرہ سے پانی نکلانا۔

نَبَط - وہ پانی جو کنواں کھودتے وقت پہلے پہل نکلے۔ غور۔ فکر۔ مص (س) گھوڑے کا سفید بغل اور سفید پیٹ والا ہونا۔

نَبَطَة - کنوئیں سے پہلی دفعہ نکلا ہوا پانی۔ گھوڑے کے پیٹ اور بغل کی سفیدی۔ جہ -

نَبَط

نَبَح - ایک قسم کا درخت جو کان بنانے کے کام میں آتا ہے۔

نَبَعٌ - نَبُوْعٌ - (ن - ف - ض) کنوئیں اور چشمہ سے پانی جاری ہونا۔

نَبَعٌ - نَبُوْعٌ - (ف) ظاہر ہونا۔ چشمہ وغیرہ سے پانی کا نکلنا۔ آرام کی زندگی گزارنا۔ برتن کا اپنے سوراخ سے باریک آٹے کو

گرایا۔ ایسے شخص کا جو شاعر نہ ہو۔ کوئی عمدہ شعر کہنا۔

نَبِقٌ - بیر جو بیر پر لگا ہوا ہو۔ وا - نَبِقْتَه - جہ - نَبِقَات - مص (ن) لکھنا۔

نَبِقٌ - بیر جو بیر پر لگا ہوا ہو۔

نَبَل - تیر - جہ - اَنَبَال - نَبَال -

نَبَلَان - مص (ن) کسی پر تیر چلانا۔ کسی کو تیر دینا۔ کسی کی طرف ہو کر دشمن پر تیر چلانا۔ تیر اندازی یا فضل کے مقابلہ میں غالب آنا۔ اونٹ کو پانی پر بلانا۔ اور دیکھ بھال رکھنا۔ (ب) نرمی کرنا۔

نَبَل - بزرگی۔ شرافت۔ آگاہی۔ دکاوت۔ زیادتی۔ بڑائی۔ سامان۔

نَبَل - استخف کا پتھر۔

نَبَل - زمین۔ بزرگ۔ بڑا۔ بڑا پتھر۔ بڑا ڈھیلہ۔ چھوٹا پتھر۔ چھوٹا ڈھیلہ۔ قوم کے چھوٹے آدمی۔ (ضد) جہ -

نَبَلَة - نَبَال -

نَبَلَة - آگاہی۔ برا۔ بدلہ۔ چھوٹا لقمہ۔ عطیہ۔ جہ - نَبَلَات -

نَبُوٌ - نَبُوَة (ن) تلوار کا اچھٹ جانا۔

کسی کی صورت کا تبادلہ جانا کہ پہچانا نہ جاسکے۔ جگہ کا موافق نہ ہونا تیر کا نشانہ پر نہ لگنا۔ آرام نہ پانا نافرمان ہونا۔

نَبُوٌ - نَبُوَةٌ - (ن) بینائی کا کم ہو جانا۔

نَبُوَةٌ - اونچی زمین۔

نَبُوَةٌ - پیغمبری۔

نَبُوْت - (ن) لڑکی کے پستان کا نکل آنا۔

نَبِيَةٌ - عقل مندی۔ ہوشیاری۔ ذہانت۔

نَبِيَةٌ - کھویا ہوا جو بغیر ڈھونڈے مل جائے

موجود۔ نامی گرامی۔ مص (س) بھولے ہوئے کام یا بھولی ہوئی بات کا یاد۔

بات کہنا۔ اوچھانیزہ مارنا۔ اچک  
لے جانا۔

تتش - (ض) سوئی یا کانٹے وغیرہ سے پھاس  
کونکالنا۔ بال اکھاڑنا۔ کمانا۔ مارنا۔  
کسی کے عیب کو چھپانا۔

تتخ - (ض) کسی کا عیب بیان کرنا۔  
تتھیں لگانا۔ جھوٹی برائیاں کرنا۔

تتف - (ض) بال اکھاڑنا۔ کمان کو آہستہ  
سے کھینچنا۔

تتق - (ض) پھاڑنا۔ بلند کرنا۔ بات  
کہنا۔ کھال اتارنا۔ کنویں سے ڈول  
کھینچنا۔ بکھیننا۔ ہلانا۔ عورت کا بہت  
بچوں والی ہونا۔

تتک - (ض) پنجہ سے پکڑی ہوئی چیز کو کھینچنا۔  
ادھر کھینچ کر توڑ ڈالنا۔ پیشاب کرنے  
کے بعد ذکر کو جھکنا۔

تتتل - شتر مرغ کا اٹلا۔ ٹھنکنے قد کا آدمی۔  
تتتل - نتول۔ تتلان۔ صفت سے باہر  
آنا۔ آگے کو کھینچنا۔ ہانکنا تنبیہ کرنا۔  
جھولی میں کی چیز نکالنا۔

تتتو - بدبو۔ بساند۔  
تتتو - (ض) کسی عضو کا سوچ جانا۔  
تتتو - (ض) زخم سے خون کا رستہ۔  
آنکھ سے ہانی ہند جسم سے پسینہ ہونا۔  
تتتیت - ہانڈی کے جوش مارنے کی آواز۔  
نبیذ کے جوش کی آواز۔

## (ن-ت)

نتش - (ض) خیر کو ظاہر کرنا۔ باز کو بیان

تشی - صاف اور کشادہ راستہ۔ اونچی زمین  
پہنچنے پر جو اللہ کا پیغام بندوں تک  
پہنچانے اور صحیح راستہ دکھانے  
کے لیے بھیجا گیا ہو۔ جہ۔ آئیڈیاء۔  
نباء۔ آئیڈیاء۔ ندیتوں۔

تیبیذ - نایت سے پھینکا ہوا۔ چھوڑے وغیرہ  
کا جھگڑا ہوا پانی۔ ایک شراب جو  
غلہ وغیرہ کو پانی میں رٹا کر بنائی  
جاتی ہے۔

تیبیل - تیز ذہن والا۔ ہوشیار۔ چالاک  
اچھا تیر انداز۔ جہ۔ تیبال۔  
تیبیلکے - دلدار اور موٹی چیز مردار۔ خوبصورت۔

## (ن-ت)

نت - غصہ کی وجہ سے ناک کے نتھنوں  
کا پھلانا۔ (ض) ہانڈی کا جوش  
مارنا۔

نتاش - کمینہ اور ذلیل لوگ۔

نتاق - مقابل۔ آہستہ سے سامنے۔

نتانانہ - (ض) بدبو دار ہونا۔

نتخ - پسینہ مص (ض) جسم سے پسینہ  
نکلنا۔ گرمی کا پسینہ کو باہر نکالنا۔

نتخ - (ض) کسی کی طرف دیکھنا۔ کھینچ لینا۔  
جڑ سے اکھاڑنا۔ باز کا گوشت کو  
اچک لے جانا۔ کپڑا بننا۔

نتو - کمان کی سمتی مص (ض) کھینچنا۔ اکھاڑنا  
توڑنا۔ ریزہ ریزہ کرنا۔ ذلیل اور  
بے آبرو ہونا۔ جھوٹی اور بری

کروینا۔ زخم پر تیسل ملنا۔ مریم رکھنا۔  
تَشَا - ضمیر۔ اطلاع۔

نَشَارَة - دسترخوان پر گرگا ہوا کھانے کا بڑا  
پاکھڑا۔

نَشْر - (ن) کلام بشر (خلاف نظم)

(ن - ض) بکھیرنا۔ بہت بولنا۔ زیادہ

اولاد جننا۔ ناک سکنا۔ جسم سے

زرہ اتار پھینکنا۔

نَشْر - نَشْر (ن - ض) بکھیرنا۔ بچھا کرنا

نَشْرَة - ناک کی جڑ۔ ناک کا اندرونی حصہ۔

دوستاروں کا نام۔ وہ زرہ جو آسانی

کے ساتھ پہنی جاسکے۔

نَشَل - (ن) کھودا ہوا کنواں۔ مص (ض)

گوشت کے پارچے کر کے ہانڈی میں

ٹالنا۔ کنویں کو گلانا اور مٹی باہر نکالنا۔

ترکش سے تیر نکالنا۔ کسی کو زرہ پہنانا۔

نَشَل - (ن) چوپایہ کا گوہر کرنا۔

نَشْو - (ن) بکھیرنا۔ خبر کو بیان کرنا۔ بھید

کو کھولنا۔

نَشِيْل - گوہر۔

نَشِيْلَة - کنویں کی کھینچ۔ کنویں کی مٹی جو نکال

دی جاتی ہے۔ باقی بچا ہوا۔ موٹا

گوشت۔ جر۔ نَشَا ئِل۔

## ن - ج

نَجْر - نَجْبِیح (ض) زخم کا رستا اور بہنا۔ جلدی کرنا

نَجَا اتاری ہوئی کھال۔ اونچی زمین ہو

کی کھڑیاں۔ لاطی۔ جر۔ آ نَجَاء۔

نَجَا يَة - بزرگی۔ شرافت۔ مص (ن) بزرگ

ہونا۔ عمدہ اوصاف والا ہونا۔

نَجَاة - چھٹکارا۔ حرص۔ حسد۔ بلند زمین۔ ٹہنی۔

جر۔ نَجَا۔

نَجَاد - تلوار کا پتلا۔

طَوِيْلُ النِّجَاد - لمبے قد کا آدمی۔

نِجَار - اصل۔ عادت۔ حسب۔ رنگ

روپ۔

نِجَار - بڑھی۔

نِجَاه - نجومی۔ ستاروں کی گردش اور

وقت پہچاننے والا۔

نِجْب - جو افزو۔ بہادر۔ سخی۔ مص (ن)

چھلکا اتارنا۔ چھاننا۔

نِجْبَة - قیمتی موتی۔ جر۔ آ نِجَاب۔

نِجْت - (ن) کسی کو گناہ اور برائی کی طرف

اکسانا۔ کسی سے فریاد اور مدد چاہنا

(عس) کوشش کے ساتھ تلاش

کرنا۔

نِجْح - نِجَاح (ض) کامیاب ہونا۔ کام

کا آسان ہونا۔

نِجْد - نِجْد - نِجْد - بہت زیادہ بہادر۔ وہ

کام کرنے والا جو دوسرے لوگ نہ

کر سکیں۔ جر۔ آ نِجَاد۔

نِجْد - اونچی زمین۔ راستہ۔ طریقہ۔ جر۔

آ نِجْد۔

نِجْد - نِجْد - نِجْد - مع (س) ٹھیک ہونا

رہنے اٹھانا۔ تھک جانا۔ بیوقوف

ہو جانا۔ محنت کے سبب پسینہ

پسینہ ہو جانا۔

نِجْدَة - لڑائی۔ جنگ۔ مردانگی۔ بہادری۔

یا خاک کا ڈھیر تودہ۔ ج:۔ آنَجَاف  
نَجْفٌ - (د) درخت کو کاٹنا۔ بکری کو خوب  
دوبنا۔ تیز چھیننا۔

نَجْفَةٌ انگریزوں کی ریت کے تودہ کا بھلی  
حصہ جس کی مٹی بولنے اور اڑا کر اونچے نیچے  
پیدا کر دی ہو۔

نَجْفَةٌ - بمعنی نجف۔

نَجْفَةٌ - تقوڑی چیز۔

نَجَلٌ - بیٹا۔ باپ (دند) بڑی جماعت۔  
راستہ کا بیچ۔ تیر چال۔ برسا ہوا  
پانی۔ ج:۔ نَجَالٌ۔

نَجَلٌ - (د) بچہ جتنا پھینک دینا۔ کام کرنا۔  
چیز یا چیز سے زخم کو چوڑا کرنا۔ زمین کا  
ہر اہل ہونا۔ کسی کے ساتھ برائی کرنا۔

نَجَلٌ - (د) بڑی بڑی آنکھوں والا ہونا۔

نَجْمٌ ستارہ۔ گھاس۔ ج:۔ آنَجْمٌ  
نُجْمٌ۔

نَجْمَةٌ - نَجْمَةٌ - ایک گھاس ہے۔

نَجْمَةُ اللَّيْلِ - فلم اسٹار۔ (د)

نَجْوٌ - کھال کھینچنا ہوا۔ دو شخصوں کے درمیان  
بھید۔ پانی برسایا ہوا بادل۔ ریح یا  
سُخامت جو بیٹھ سے خارج ہو۔ ج:۔

آنَجَاءٌ - (د) درخت کا ٹٹنا۔  
گھنٹنا۔ منہ سوگھنا۔

نَجْوٌ - نَجَاءٌ - نَجَاءَةٌ (د) چھٹکارا  
پانا۔ رٹائی پانا۔

نَجْوَعٌ - (د) کھانے کا ہضم کرنا۔ چارہ کا  
چوپایہ کو موٹا اور فسہ بہ کر دینا۔  
بھلائی کی طلب میں نکلنا۔ پانی اور

قوت۔ سستی۔ دلیری۔ خوف۔ مص۔  
(د) شجاع اور بہادر ہونا۔

نَجْدٌ - سخت بات (د) پچھلے وقتوں سے بہت  
سخت کاٹنا۔ ضد کرنا۔ اصرار کرنا۔

نَجْسٌ - اصل۔ طبیعت۔ رنگ۔ روپ  
حسب۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی  
زمین۔ مص (د) چھیل کر برابر  
کرنا۔ دن کا گرم ہونا۔ پانی کو گرم  
کرنا۔ سر پر گھوسہ مارنا۔ ارادہ کرنا  
کھینچنا۔

نَجَسٌ - اونٹ اور بکری کی پیاس۔ مص  
(د) اونٹ اور بکری وغیرہ کا  
سخت پیاسا ہونا۔

نَجْسٌ - (د) کسی کی حاجت کو پورا کرنا۔  
(د) وعدہ پورا کرنا۔

نَجْسٌ - کسی چیز کا ناپیدا اور ختم ہونا۔ فنا ہو  
جانا۔ کلام منقطع ہو جانا۔

نَجَسٌ - نَجَسٌ - نَجَسٌ - ناپاک  
اور پلید۔ ج:۔ آنَجَسٌ۔

نَجَسٌ - نَجَسَةٌ - (د) ناپاک اور پلید ہونا۔  
نَجَسٌ - (د) ہینچنے والے کے ساتھ مل کر مال

کی تعریف کرنا۔ تاکہ لوگ خریدیں  
مال کی قیمت کو اس لیے بڑھانا۔ کہ

لوگ زیادہ قیمت میں خریدیں۔  
چرنے والے ہویاؤں کو جمع کرنا۔ تلاش

کرنا۔ لٹکاؤ کو ایک جگہ سے دوسری  
جگہ بھگانا۔ آگ جلانا۔

نَجْفٌ - وہ مقام جہاں حضرت علی کرم اللہ  
وجہہ کا مزار ہے۔ عراق میں۔ ٹیلہ۔ ریت



نَحْوِ نَجْوٰی - عقل مند - سحر بہ کار - ہوشیار ذہین  
اور تیز طبیعت والا۔ ج (نَحْوِ نَجْوٰی)  
نَحْوِ نَجْوٰی -

نَحْوِ نَجْوٰی - سینہ کا بالائی حصہ۔ گردن بند کی جگہ  
نَحْوِ نَجْوٰی - دن کا شروع حصہ۔  
نَحْوِ نَجْوٰی - اول مہینہ مص۔ (ف)  
ذبح کرنا۔ سینہ پر (نیزہ) مارنا۔ دُو  
گھول کا آسنے سے ہونا۔ نماز میں  
سینہ تانے ہوئے کھڑا ہونا۔ نماز کو  
اول وقت ادا کرنا۔

نَحْوِ نَجْوٰی - قربانی کا دن۔ دس ذی الحجہ۔  
نَحْوِ نَجْوٰی - کھانسی والا اونٹ۔ م۔ ۱۔ نَحْوِ نَجْوٰی -  
نَحْوِ نَجْوٰی - (ف) بھگانا۔ کلمہ سے کسی کے ہاتھ  
پاؤں توڑ ڈالنا۔ اوکھلی میں کوٹنا۔  
پاؤں سے کوئی چیز کچلنا۔

نَحْوِ نَجْوٰی - مخموس۔ نامبارک۔ مضرت۔ ٹھنڈی  
ہوا۔ مغربی۔ غبار۔ جہ۔ ۱۔ نَحْوِ نَجْوٰی -  
مص (ف) کسی پر ظلم و ستم کرنا۔ اونٹ  
کا سر کشی کرنا۔ قابو میں نہ آنا۔

نَحْوِ نَجْوٰی - مخموس۔ برائے نامبارک۔ م۔ ۱۔ نَحْوِ نَجْوٰی -  
نَحْوِ نَجْوٰی - (س) بد نصیب ہونا۔  
نَحْوِ نَجْوٰی - پہاڑ کی تلی۔

نَحْوِ نَجْوٰی - موٹا گوشت۔ جہ۔ ۱۔ نَحْوِ نَجْوٰی - مص (ف)  
گوشت کے پھینچنے وغیرہ علیحدہ کرنا  
بڑی سے گوشت علیحدہ کرنا۔

نَحْوِ نَجْوٰی - (ض) ٹھنکی و جہ سے پانپنا۔ زور  
زور سے سانس لینا۔ ماننے والے کو  
جوڑ کرنا۔

نَحْوِ نَجْوٰی - شدت کی کمی۔ وا۔ نَحْوِ نَجْوٰی - عطیہ بخشش

چارہ کی تلاش میں جانا۔

نَجْوٰی - بھید۔ راز۔ سرگوشی۔ آپس میں بھید  
کننے والے۔ سرگوشی کرنے والے۔

نَجْوٰی - راز۔ ہراز۔ جہ۔ ۱۔ آنَجْوٰی -

نَجْوٰی - جو اوزد۔ ہادہ۔ شریف۔ عالی ذات۔  
بزرگ۔ اچھی نسل کا اونٹ۔ جہ۔ ۱۔

نَجْوٰی - نَجْوٰی۔ نَجْوٰی۔

نَجْوٰی - صابر۔ صبور۔ تیز رفتار۔

نَجْوٰی - کٹی جو اونٹوں وغیرہ کو کھلاتے ہیں۔

سیاہی مائل خون۔ نفع بخش غذا۔

نَجْوٰی - چوڑی پیکان کا تیر۔ پرانی مشک

جہ۔ ۱۔ نَجْوٰی۔

## ن-ح

نَحَاب - (ض) اونٹ کا کھانا۔

نَحَاب - صبر۔ ضبط۔ سخاوت۔ کنجوسی۔

نَحَاب - نَحَاب۔ نَحَاب۔ تانبا۔ آگ

دھواں۔ ہر چیز کی اصل طبیعت۔

نَحَاب - کزوری۔ دبلا پن مص۔ (ک) کزور

ہونا۔ پیدا ہونے۔ دبلا پٹلا ہونا۔

نَحَاب - قصد۔ ارادہ۔ ضرورت۔ موت۔

وقت۔ مدت۔ خواب۔ نیند۔ موٹا پا

سنتی۔ جوا۔ بڑا حادثہ۔ بڑا کام۔ مص

(ف) زور زور سے رونا۔ (ن)

نذر ماننا۔ تیز چلنا۔

نَحَاب - فطرت۔ طبیعت۔ خالص۔ بے ملاوٹ

مص (ض) چھیلنا۔ کاٹنا۔ کسی کو

زمین پر دے مارنا۔ ضیبت کرنا۔

برائی کرنا۔ گالی دینا۔

کرنا۔ نگاہیں پھیر لینا۔  
 نَحِيبُ - (صن) زور زور سے بھنا۔  
 نَحِيبَتٌ - کاٹا ہوا۔ چھاٹا ہوا۔ لنگھی۔  
 نَحِيبِحٌ - پیٹ کی آواز اور گڑ گڑا ہٹ۔ مص  
 (صن) ہوا کا پیٹ میں گھومنا۔ اور  
 آنا جانا۔  
 نَحِيبِرٌ - ذبح کیا ہوا اونٹ۔ جر۔ نَحِيبِي -  
 نَحِيبَا - نَحِيبَا -  
 نَحِيبِرَةٌ - مینہ کا پہلا یا پچھلا دن۔ مینہ کی پچھلی  
 رات۔ جر۔ نَحِيبِرَاتٌ - نَحِيبِرٌ -  
 نَحِيبِضٌ - بہت گوشت والا۔ موٹا۔ دبلا۔ پستلا۔  
 کم گوشت۔ (ضد)  
 نَحِيبِطٌ - ٹھکن کی وجہ سے اونٹ کے ہانپنے  
 کی آواز مص (صن) ٹھکن میں زور  
 سے آواز نکالنا۔

نَحِيبُفٌ - دبلا۔ پتلا۔ جر۔ نَحِيبَاتٌ  
 نَحِيبِلٌ - بیماری یا سفر کی وجہ سے دبلا۔ جر۔ نَحِيبِلٌ  
 نَحِيبِيہ - نَحِيبَانٌ - (صن) ٹھنڈی سانس لینا  
 نالہ کرنا۔ کھنکھانا۔ ڈروکنا۔

## ن-خ

نَخْرٌ - سخت چال۔ ایک لبافرش۔ مص  
 (صن) زور زور سے ٹھکانا۔ اونٹ کو  
 رخ اِخ کہہ کر بٹھانا یا سٹلانا۔  
 نَخَّاسٌ - چھپائے بیچنے والا۔ غلام بیچنے والا۔  
 نَخَّاسِنَةٌ - چھپایہ فروشی۔ غلام فروشی۔  
 نَخَّاعٌ - (نون مثلث) حرام مغز۔  
 نَخَّاعَةٌ - رینٹ۔ بلغم۔  
 نَخَّالَةٌ - بھوسی چھنا ہوا ٹاپا چھنے ہوئے آٹے

دبلا۔ نیا چاند مص (صن) کسی پر اُترا  
 کرنا۔ گالیاں دینا۔  
 نُحْلٌ - (صن) عطیہ دینا۔ مال میں سے کسی  
 کے لیے حصہ نکالنا۔  
 نِحْلَةٌ - نِحْلَةٌ - بے مانگے عورت کو اس کا مہر  
 دینا۔ عطیہ بخشش۔ دعویٰ۔ مذہب۔  
 مسک۔ جر۔ نِحْلٌ - نُحْلٌ -  
 نَحْنٌ - ہم۔ تشبیہ و مرجع معکوم کی ضمیمہ منفصل۔  
 نَحْوٌ - جانب۔ طرف۔ راستہ۔ مثل۔ مقدار  
 ارادہ۔ جر۔ اَنَحَاءٌ - نُحُوٌ مص (صن)  
 قصد کرنا۔ ایک طرف کو مڑنا۔ کسی کی  
 طرف نگاہ اٹھانا (صن) پھیر دینا  
 عِلْمُ النَحْوِ - ایک علم جس سے کلام  
 کے اعراب کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔  
 نَحْوَاءٌ - لرزہ۔ جمائی۔  
 نَحْوُصٌ - (صن) بہت موٹا ہو جانا۔ اونٹنی کا  
 موٹاپے کے سبب حاملہ نہ ہو سکتا۔  
 نَحْوُضٌ - (صن) دبلا ہو جانا۔ گڑ گڑا کر کچھ مانگنا  
 گوشت کو کھال سے علیحدہ کرنا۔ نیزہ  
 کی لوک تیز اور باریک کرنا۔ بڑی سے  
 گوشت چھٹانا۔

نَحْوُولٌ - لاغری۔ مص (س۔ ک۔ ف۔ ن)  
 بیماری یا سفر کی وجہ سے دبلا، اور  
 کم زور ہو جانا۔  
 نَحْوِيٌّ - مشک۔ گھی کی مشک۔ جر۔ اَنَحَاءٌ -  
 نَحْوِيٌّ - مٹی کا برتن جس میں وہی جمایا جاتا  
 ہے۔ ترچھوارہ۔ (ایک قسم کا) جر۔  
 اَنَحَاءٌ -  
 نَحْوِيٌّ - (صن۔ س) وہی جاتا کسی چیز کو دور

نَحْمٌ (ف) جانور کو ذبح کرتے ہوئے چھدری  
 سوام مغز تک پہنچا دینا۔ ناک صاف  
 کرنا۔ سچی دوستی کرنا۔ کسی کے حق کا  
 انکار کرنا۔  
 نَحْلٌ - کھجور کا درخت۔ واء۔ نَحْلَةٌ - نَخِيلٌ۔  
 مص (ن) آٹے کو چھانا۔ اچھی چیز  
 چھانٹنا۔  
 نَحْمٌ - (ن) کھیننا۔ خوب گانا۔ ناک صاف کرنا۔  
 نَحْوَةٌ - تکبر۔ غرور۔ ناز۔ مص (ن) کسی کی  
 تعریف کرنا۔ (علی) انار کرنا۔ فخر کرنا  
 گھمنڈ کرنا۔

نُحُوصٌ - (ف - ن) دبلا ہوجانا۔ بڑھاپے  
 کے سبب کمزور ہونا۔ بڑھاپے کی وجہ  
 سے بھربیاں پڑ جانا۔  
 نُحَيْبٌ - بزدل۔ ڈر پوک۔ دیوانہ۔  
 نُحَيْطٌ - (ن) (ب) گالیاں دینا۔ برا کہنا  
 (علی) سرکش اور تکبر کرنا۔

## ن - د

نَدٌّ - اونچا ٹیلہ۔ پہاڑی۔ ایک قسم کی خوشبو۔  
 نَدٌّ - کد کد۔ نَدْدٌ - (ض) بھانگ  
 نفرت کرنا۔

نَدٌّ - مثل۔ مانند۔ برابر۔ شریک۔ جہ۔ آنداد۔  
 نَدٌّ - (ف) ناپسند کرنا۔ گشت کو آگ  
 میں دہانا۔ ظاہر ہونا۔ ڈرانا۔ زمین پر  
 دے مارنا۔

نَدَّةٌ - مال کی کثرت۔  
 نَدَّةٌ - نَدَّةٌ - دھنک۔ سورج کے  
 چھپنے اور نکلنے کے وقت آفتاب

کا پھوکس۔  
 نَحَامَةٌ - ناک اور دماغ اور سینہ کی رطوبت۔  
 نَحْبٌ - نَحْبٌ - نَحْبٌ - بزدل۔ ڈر پوک  
 جہ۔ نَحْبٌ -

نَحْبٌ - پانخانہ کا سوراخ (کون) مص (ن)  
 (ف) جماع کرنا۔ کاٹنا۔ کھینچنا۔ جمع  
 کرنا۔ بہن لینا۔

نُحْبَةٌ - چننا ہوا۔ برگزیدہ۔ جہ۔ نَحْبٌ -  
 نَحْتَةٌ - غلام۔ کھیتی کے بل وغیرہ۔ شراب۔  
 پروا ہے۔ ہلکا بینہ۔

نَحْتٌ - (ن) پرندوں کا دانہ چننا۔ جڑ سے  
 اکھاڑ ڈالنا۔ برتن میں سے ایک دو  
 چھوڑے اٹھانا۔

نَحْرٌ - نَحْيِيرٌ - (ض - ن) ناک میں پوننا۔  
 نَحْرٌ - گلی ٹری ہوئی چیز جو ٹکڑے ٹکڑے  
 ہو گئی ہو۔

نَحْرَةٌ - گلی ہوئی بڑی جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی  
 ہو۔ کھوکھل چیز۔

نَحْرُوبٌ - پتھر کی پھٹن۔ کسی چیز کا سوراخ۔ بھڑ  
 کا چھتہ۔ جہ۔ نَحْرُوبٌ -

نَحْرٌ - (ف) چھڑے وغیرہ سے زخمی کرنا۔  
 زبان اور کلام سے کسی کو رنجیدہ کرنا۔  
 اور تکلیف پہنچانا۔

(ابن) نَحْسَةٌ - حرام کا بچہ۔  
 نَحْسٌ - (ن) (ف) چوپائے کے سرین کو لکڑی مار  
 مار کر زخمی کر دینا۔ ہانکنا۔ اکھاڑنا۔

نَحْسٌ - مال کا ایک حصہ۔ مص (ن) دبلا  
 ہونا۔ سخت ہانکنا۔ بلانا۔ رنج دینا۔  
 کھال اتارنا۔ چھانٹنا۔ چننا۔ پھیلنا۔

نَدَف - (صن) روئی دھنا۔ کھانا کھانا۔

چاقور کو تیز بانگنا (بالعود) باجر  
بجانا۔

نَدَف - نَدَفَان - (ف) چوپایہ کا تیزی

کے ساتھ چلنا۔ درندوں کا زبان سے  
پانی پینا۔ بادلوں کا مینہ برسانا۔

نَدَل - پیپ۔ میل کھیل مص۔ (ن) پھرتی

کے ساتھ اچک لے جانا۔  
نَدْم - عقل مند۔ ہوشیار۔ ہنس نگھ۔

نَدَم - نَدَامَتہ - (س) شرمندہ ہونا

افسوس کرنا۔ توبہ کرنا۔  
نَدَمَان - شرمندہ۔ تائب۔ ساتھ شراب پینے

والا۔ ج۔ نَدَامَہی۔ نَدَامہ۔

نَدُو - (ف) مجلس میں جمع ہونا۔ مجلس میں

جمع کرنا۔ بکھر جانا۔ سخاوت کرنا۔  
کسی چیز کا کافی ہونا۔

نَدَوَۃ - گروہ۔ جماعت۔ مجلس۔

نَدَوَۃ - جانوروں کا گھاٹ۔

نَدُوَس - (ن) اکیلا ہونا۔ اٹوٹھا ہونا۔ کسی چیز

کا گرہڑنا۔ درخت کا پتے نکال لانا۔ مر  
جانا۔ علم و فضل میں بڑھ جانا۔

نَدَوَہ - مال اور مویشی کی کثرت۔

نَدَہی - ترچیز بھگی ہوئی چیز بخشش عطیہ

ج۔ آندایہ۔ آندایہ۔  
نَدَہی - ترنناک۔ دن کی مجلس (د) طلیغون۔

نَدَہی النکت - سخی آدمی۔

نَدَہی السقوت - بھاری اور بلند آواز والا  
آدمی۔  
نَدَہی - مثل۔ مانند۔ برابر۔ ج۔ نَدَہی۔

کی سخی۔ چاند کا مالہ۔

نَدَا - آواز مص۔ (مفاعلہ) آواز دینا۔

نَدَامَتہ - شرمندگی مص۔ (س) شرمندہ ہونا

نَدَاوَتہ - تری گیلا پن مص (س) تر ہونا۔

نَدَاب - عقل مند۔ ہوشیار آدمی (شریعت

کی اصطلاح میں وہ کام جس کے  
کینے والے کو تواب ملے اور چھوڑنے

والا گناہ بھگار نہ ہو۔) ج۔ نَدَاب

نَدَاب - مص (ن) مروہ پر رونا

اور اس کی بھلائیوں کا ذکر کرنا (الحی)

کسی کام کے لیے بلانا۔ اور اس کام کی

طرف توجہ دلانا۔

نَدَابَتہ - زخم کا نشان جو جسم پر باقی رہ جائے۔

ج۔ آنداب۔ نَدَاب

نَدَابَتہ - مروہ کی خبریوں کا ذکر کر کے رونا۔

فصیح۔

نَدَاح - فراخ زمین۔ ج۔ آنداح۔ مص۔

پھڑا اور کشادہ کرنا۔

نَدَارَتہ - سونے کا ٹکڑا جو کان میں پایا جائے۔ کیابی

نَدَارَتہ - کم پائی۔

نَدَس - نَدَس - نَدَس - عقل مند بچہ۔

نَدَش - (صن) کسی چیز کی چھان بین کرنا۔

روئی دھنا۔

نَدَص - (س) پھوڑے پھسی کا پھوڑا جانا۔

مواد کا اس میں سے نکلنا۔

نَدَغ - جنگلی اونٹ۔ ایک بوٹی۔ عمدہ قسم

کا شہد۔ مص (ف) بچہ کا نرم

نرم ملا جانا۔ انگلی سے ٹھوکتا۔ نیزہ

مارنا۔ جانور کا کاٹنا۔

تَدْوِيم - تَدْوِيمَة - ساتھ شراب پینے والا بڑے لوگوں کا مصاحب۔ ج:۔ تَدْمَاء - تَدْمَا -

## ن - ذ

نَدَّارَة - خوف اور ڈر۔ نَدَّالَة - نَدَّالَة - نَدَّوْکَة - دك، کینہ اور ذلیل ہونا۔

نَدَّس - عہد پیمان۔ منت مانی ہوئی چیز۔ ج:۔ نَدَّس - نَدَّوْس - نَدَّس - اس، [ب] ایک چیز کو جاننا اور پھیر پھین کرنا۔

نَدَّسْر - نَدَّوْس (ن - ض) کوئی چیز اپنے اوپر واجب کرنا۔ منت ماننا۔ لشکر کا کچھ لوگوں کو دشمن کی ٹوہ لگانے کے لیے مقرر کرنا۔

نَدَّع - دف، پانی کا رسنا۔ پسینہ کا نکالنا۔

نَدَّال - نیچ۔ کینہ۔ خوار۔ ذلیل۔ ج:۔ انْذال - نَدَّوْل -

نَدَّيْر - ڈرانے والا۔ وہ چیز جس سے خوف کھایا جائے۔ کمان کی آواز۔ پیغمبر۔ ج:۔ نَدَّس -

نَدَّيْرَة - لشکر کا طبعہ (کھوج لگانے والا دستہ) وہ چیز جو نذر میں دیں۔ وہ بچہ جسے اس کے ماں باپ نے کسی عبادت خانہ کی خدمت کے لیے چھوڑ دیا ہو۔ ج:۔ نَدَّائِيْر -

نَدَّيْل - نیچ۔ کینہ۔ ذلیل۔ رسوا۔ ج:۔

نَدَّالَاء - نَدَّال -

## ن - س

نَدَّجَس - نرگس (آنکھ کی شکل کا ایک پھول) نَدَّد - ایک کھیل کھجور کی سنی کا بٹا ہوا مخروطی تھیلہ۔

نَدَّوِيْن - تارو دین۔ سنبل رومی۔ ایک قسم کی خوشبو دار گھاس۔

نَدَّس - ان، خوف اور ڈر کی وجہ سے چھپ جانا۔ نَدَّسَج - نارنگی۔ نَدَّوَج - ملک ناروے۔

## ن - س

نَدَّو - نَدَّو - رسا ہوا پانی۔ ج:۔ نَدَّوْس - چالاک تیز طبیعت والا آدمی۔ چیللا اور ہوشیار جسے ایک جگہ چین نہ آئے۔ نَدَّوْء - نَدَّوْء - اف، (بین) کسی کے درمیان شر اور فساد ڈالنا [علی] حملہ کرنا کسی چیز پر بھڑکانا اور لالچ دلانا۔

نَدَّأء - ان، نرکا مادہ پر چڑھنا۔ ایک قسم کی بیماری۔

نَدَّاعَة - خصومت۔ دشمنی۔ جھگڑا۔

نَدَّاع - نَدَّوْع - نَدَّاعَة - (ض) [الی] مشتاق ہونا۔ آرزو اور خواہش کرنا۔

نَدَّاعَة - کھینچنے والی۔ نکال لینے والی۔

نَدَّاق - تیز چال کی اونٹنی۔ مص (مفاعلہ) گالی دینا۔ قریب آنا۔

نَدَّال - امر آ۔

نَدَّالَة - منی کا پانی۔ وہ پانی جو اوپر سے نیچے گرے۔

میں جسم سے خون نکالنا کہ کمزوری پیدا ہو جائے۔

تَزْف - دس، آلسوں کا خشک ہو جانا۔

تَزْفَة - پانی یا خراب کا ایک گھونٹ۔ تھوڑا پانی۔ جڑ۔ تَزْف۔

تَزَق - قریبی جگہ۔ حماقت کے ساتھ جلد بازی۔

تَزَق - تَزْوَق - (ن) ص (گھوڑے کا گھوڑی پر چڑھنا۔ غصہ کے وقت جلدی کرنا۔ برتن بھرننا۔

تَزَك - (ن) برہمی مارنا۔ برا بھلا کہنا۔ جھوٹی تممت لگانا۔

تَزَل - مینہ۔ کھیتی کی سرسبزگی اور شادابی۔

زیادتی برکت مص - (س) کھیتی کا پھولا پھلا ہونا۔ نکام میں مبتلا ہونا۔

تَزَل - منزل۔ مکان۔ وہ کھانا جو مہمان کے سامنے رکھا جائے۔ زیادتی اور

برکت والا کھانا۔ عمدہ پھولی بڑھی ہوئی کھیتی۔ سخاوت۔ برکت۔ جماعت

(د) ہوٹل۔ جڑ۔ آتزال۔

تَزَلَة - نکام۔ اچھی پیداوار کی زمین۔ ایک مرتبہ اتزنا۔

تَزْو - تَزَاء - تَزْو - (ن) نکام مادہ پر چڑھنا۔ دل کا کسی کی طرف کھینچنا۔ اور عاشق ہونا۔

تَزْوَح - دور۔ کم پانی کا کنواں۔ وہ کنواں جس کا تمام پانی کھینچ لیا گیا ہو۔

تَزْوَس - کم بچوں والی عورت۔ کم دودھ

تَزَالَة - زمین کا سخت ہونا۔ کہ تھوڑا پانی بہ نکلے۔

تَزَاهَة - تَزَاهِيَة (ك) ص (جگہ کا پاک اور صاف ہونا۔ بری چیزوں سے بچنا اور دور دور رہنا۔

تَزَاهَة - پرہیزگاری اور رائی سے دوری۔ تَزَبَج - (ن) زمین پر پاؤں مار مار کر ناچنا۔

تَزَح - تَزْوَح - (د) کنویں کا تمام پانی کھینچ لینا۔ اور تھوڑا سا باقی رکھنا۔ دور ہو جانا۔ کنویں کا پانی کھینچ جانا۔

تَزَس - تھوڑا بے مزہ۔ جڑ۔ تَزَاد مص (ن) جھگڑ جھگڑ کر مانگنا۔ خفا ہو جانا۔ بگڑ جانا۔ کسی کو چھوٹا اور ذلیل سمجھنا۔

کم گمان کرنا۔ تَزَس - تَزَارَة - تَزْوَس - (ن) کم ہونا۔

تَزَسَة - کم بچوں والی عورت۔ تَزَع - (س) پیشانی کے دونوں طرف کے بال اڑ جانا۔

تَزَع - (ص) اکھاڑنا۔ کھینچنا۔ اتارنا۔ معزول کرنا۔ پھینکنا۔ حالت نزع میں ہونا۔

تَزَع - وسوسہ مص (ف) زبان سے طعن کرنا۔ پیچھے پیچھے برائیاں کرنا۔ کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دینا۔ (بین) ایک دوسرے پر بھڑکانا۔

تَزَف - (ص) کنویں کا تمام پانی کھینچ لینا۔ کنویں کا پانی خشک ہو جانا۔ پاک گل یا بے ہوش ہو جانا۔ اتنی مقدار

شراب۔ پتلا دودھ۔ جس میں پانی ملا  
ہوا ہو۔ وہ عورت جس کا حیض رکا ہوا  
ہو۔ چربی۔ موٹا پامص (ف) عورت  
کے حیض آنے کے وقت میں دیر ہونا۔  
اور حیض کی امید ہونا۔ مہلت دینا۔  
اونٹوں کو آواد کے ساتھ بانڈنا۔ حفاظت  
کرنا۔ لسی پلانا۔ موٹا ہونا۔

نَسَا - ران سے لے کر نختہ تک ایک رگ ہے  
جسے عرق النساء بھی کہتے ہیں۔ جہ۔  
اَلنَّسَاء۔

نِسَاء - عورتیں (دونوں اِمْرَاة  
کی من غیر لفظ جمع ہیں،  
نِسَاءة - توقفت۔ تاخیر۔ دیر۔

نَسَّاج - جولاہا۔ زرہ بنانے والا۔ جھوٹا باتیں  
گھڑنے والا۔  
نَسَافَة - گیہوں کا گوا کر کٹ ہو چکے وقت ہوا  
میں اڑے۔ دودھ کے بھاگ۔

نَسَاہَة - (صن) پانی کا زمین سے نکلنا۔ اونٹ  
کا اپنے سم کو زمین پر مارنا۔ کسی چیز  
کا مبل جانا۔

نَسَب - قرابت باپ کی طرف سے رشتہ  
داری۔ جہ۔ اَلنَّسَاب

نَسَب - نَسَبَة - (ن) کسی کے خاندانی  
رشتہ کو بیان کرنا۔ کسی سے اس کے  
خاندانی رشتہ کو معلوم کرنا۔

نَسَب - نَسِيب - (صن) (ب) عورت  
کے حسن اور خوبصورتی کی تعریف میں  
غزل لکھنا۔ عورت کے ساتھ عشق اور  
محبت کو شعروں میں بیان کرنا۔

وال عورت۔ وہ چیز جو کم ہو جائے۔  
جہ۔ نَزْوَع۔

نَزْوَع - کم گہرا کنواں۔ کسی چیز کا شوقین۔ دور  
کا جنگل۔ جہ۔ نَزْوَع۔

نَزْوَع - (صن) اترنا۔ مٹی میں اترنا۔ (صن) [  
حق چھوڑ دینا۔ (ب) اترنا۔

نَزْهَة - نَزَاهَة - پرہیزگاری۔

نَزْهَة - نَزِيْهَة - نَزْهَة - پرہیزگار آدمی۔ جو  
الگ تھلک رہتا ہو۔ جہ۔ نَزْهَاء۔

نَزْهَوْن - نَزَاة -  
نَزْهَة - دوری۔ ناخوشی کی وجہ سے دوری۔

نَزِيْز - خواہش کرنے والا۔ شہوت والا۔  
عقل مند ہوشیار۔ مص (صن) سخت  
اور مضبوط ہوجانا۔ زمین کا بہت چشموں

دالا ہونا۔ (صن) دور ہوجانا۔  
نَزِيْج - غریب۔ لوٹھی۔ بچہ۔ درخت سے  
توڑا ہوا میوہ۔ کم گہرا کنواں۔ جہ۔

نَزَعَاء -  
نَزِيْف - بخار کا ستایا ہوا۔ بیہوش۔ وہ آدمی کہ  
جس کے جسم سے خون زیادہ نکل جانے  
کی وجہ سے کمزوری پیدا ہو گئی ہو۔ بہت  
پیا سا۔ جہ۔ نَزَعَاء۔

نَزِيْل - برکت والا کھانا۔ ممان۔ پورا۔

## ن - س

نَس - کسی کام کو جاری رکھنا۔ آواز دینا۔ پکارنا  
ڈانٹنا۔ خشک ہونا۔ ہٹکانا۔ جھولنا۔ سر  
کے بالوں کا کبھرا ہوا ہونا۔

نَسَّ - مست اور بے ہوش کرنے والی

کَسْرُ - کَسْرُ سَہ اَکھڑا پھینکنا۔ غلہ برسانا۔  
 بہ آگندہ کرنا۔  
 کَسْف - کَسْفُ (ن) کاٹ کھانا۔  
 برتن کا بھر جانا۔  
 کَسْفَة - جھاواں۔ کھروا سیاہ پتھر۔ جہ۔  
 کَسْفَات - کَسْف۔  
 کَسْفِی - (ن) کلام کو مرتب کرنا۔ موتی پرونا  
 کسی چیز کو قاعدہ اور ترتیب کے  
 ساتھ رکھنا۔  
 کَسْفِی - ترتیب دیا ہوا کلام۔ اپنے اپنے مرتبہ پر  
 رکھی ہوئی چیز مرتبوں کی لڑھی۔ دانتوں  
 کی برابر قطار۔  
 کَسْف - کَسْف - کَسْفَة - کَسْفَات۔  
 (ن) پوجنا۔ عبادت کرنا۔ پارسا اور  
 پرہیزگار ہونا۔  
 کَسْف - قربانی کے جانور۔ قربانی۔ خون۔  
 کَسْف - (ن) کپڑے کو دھونا اور پاک کرنا۔  
 کَسْف - مخلوق۔ اولاد۔ بیٹے پوتے وغیرہ۔ جہ۔  
 کَسْف - (ن) پریا اون گرانہ۔  
 بچہ مننا۔ کثیر الاولاد ہونا۔  
 کَسْفَان - کَسْف - (ن) (فی) تیز چلنا۔  
 کَسْف - ہرے انجیر کا دودھ۔ چھاتی کا دودھ  
 جو انجیر دوسے نکل آیا ہو۔  
 کَسْف - روح کی حرکت۔ ہوا کی سرسراہٹ۔  
 جہ۔ کَسْف - (ن) بدل جانا۔  
 کَسْف - کَسْفِی - کَسْفَان - (ن) ہوا کا  
 آہستہ اور نرم نرم چلنا۔  
 کَسْفَة - روح کی حرکت۔ ذی روح۔  
 غلام۔ جہ۔ کَسْف - کَسْفَات۔

کَسْر - کَسْرَان - ایک خوشبودار پھول۔ بیلا۔  
 کَسْبَج - (ن) صی، کپڑا بننا۔ گھاس اگانا۔  
 اور اس کا گنجانا۔ کلام کو  
 آراستہ کرنا۔  
 کَسْبَج - (ن) خاک اڑانا۔  
 کَسْبَج - (ن) مٹانا۔ بدلنا۔ بیکار کرنا۔ کسی  
 چیز کی صورت تبدیل کر بیٹھنا کرنا۔ لکھنا  
 کَسْبَجُ الْاٰیٰتِ بِالْاٰیٰتِ - ایک آیت کے  
 حکم کو دوسری آیت کے حکم سے اللہ  
 تعالیٰ کا بدلنا۔  
 کَسْبَجَة - کتاب جس سے نقل کی جائے۔  
 جہ۔ کَسْبَج۔  
 کَسْر - گدھ۔ عقاب۔ جہ۔ کَسْر - کَسْر۔  
 قوم نوح کے ایک بت کا نام۔ مص  
 (ن) باز کا اپنی چونچ سے گشت  
 اکھاڑنا۔ عیب بیان کرنا۔ ننگا کرنا۔  
 پھوڑے وغیرہ کو توڑنا۔ غصہ کی وجہ  
 سے خون کھولنا (کھانے میں سے)  
 تھوڑا سا لینا۔  
 کَسْرَان - دوسٹارے۔ کَسْرُ وَاَقْع۔  
 کَسْرُ کَاطِر۔  
 کَسْبَج - کَسْبَجَة - نواز۔ چھاپا یا کاتنگ۔ جہ۔  
 کَسْبَج - کَسْبَج - کَسْبَج۔  
 کَسْبَج - شمالی ہوا۔  
 کَسْبَج - (ن) ملک میں گھومنا۔ دودھ میں  
 پانی ملانا۔ بات کہہ کر تکلیف پہنچانا۔  
 کوڑے سے مارنا۔ تہمت لگانا۔ طعنہ  
 دینا۔ گودنے والے کا سوئی چھوڑنا۔  
 کَسْف - (ن) عمارت یا گھاس وغیرہ



دک، پیدل ہونا۔ جینا۔ بڑھنا۔ پھیلنا۔  
چھونا۔ جوان ہونا۔ اونچا ہونا۔

نَشَا - نشاستہ۔ (د)

کَشَاء - نسل۔ اونچا ابر۔ جہ۔ کَشَاء۔

کُشَاب - تیر۔ واہ۔ کُشَابَة۔

کَشَاءَة - پیدایش۔ نشوونما۔ تربیت۔

کَشَاص - تہ بہ تہ۔ اونچا چڑھا ہوا ابر۔ جوان لڑکی۔

ہموار۔ برابر۔ جہ۔ کَشَاص۔

کَشَاط - (س) ہوپاہ کا موٹا ہونا۔ خوشی خوشی

کوئی کام کرنا۔ (من) نکلنا۔

(انی) [جلدی سے کسی کام کی طرف

پسکنا۔

کَشَاف - جاذب۔ بلائنگ۔ (د)

کَشَب - مال۔ روپیہ۔ گھوڑے۔ بکری۔ غلام

وغیرہ۔ زمین۔ ایک درخت کی لکڑی

جو کمان بنانے کے کام آتی ہے۔

کَشَب - کُشُوب - (س) پھنس جانا۔ الجھ

جانا۔ ٹرکنا۔

کُشِبَة - آویزش۔ وہ آدمی جو کسی کام میں گھرا

ہوا ہو۔ بھڑپا۔ جہ۔ کُشِب۔

کَشَج - پانی کے گزرنے کا راستہ۔ جہ۔

آکَشَاج۔

کَشَج - دھن گدھے اور منڈک کی آواز کا بھڑانا

دیگ کا جوش مارنا۔ گائے والے کا

دوسروں کے درمیان ٹھہرنا۔

کَشَد - کَشَدَة - (نشد ان)۔ (د) کھوٹے

ہوٹے کو ڈھونڈنا۔ کسی کو پہچان لینا

خدا کی قسم کھلانا۔

کَشَدَة - آواز۔ صدا۔ پکار۔

کَسَا - بن مانس۔

کَسَا - ہاگنا۔ اڑنا۔ ہوا چلنا۔

نِسْوَة - نِسَاء - نِسْوَان - عورتیں۔ یہ سب

الفاظ مَرَوَعَة۔ (ایک عورت) کی

غیر لفظی جمعیں ہیں۔

نِسْوَال - (ن) پرندہ کے پریا بال کا جھڑ جانا۔

نَسِي - نَسِيَان - نَسَايَة - (س) بھول جانا

نَسِي - (س) عرق النساء کی بیماری میں

بتلا ہونا۔

نَسِيِي - تاخیر دیر۔ اوجھار۔ وہ عینہ جس پر

اشر حرم میں سے کسی عینہ کی حرمت

جاہلیت میں ڈال دی جاتی تھی۔

نَسِيَس - تیز بھوک۔ محنت اور کوشش

طبیعت۔ جسم میں بقیہ روح۔

نَسِيْف - ہتھیالی اور ماتھے کی شکنیں۔ کاٹنے یا

لات مارنے کا نشان۔ بھید۔ راز۔

نَسِيَكَة - قربانی۔ وہ جانور جو ذبح کیا جائے۔

چاندی۔ سونے کا ڈھیلا۔ جہ۔

کَسَاثَك۔

نَسِيَل - گرے ہوئے پر۔ بال اور اون۔ پگھلا

ہوا شہد۔ قوم سے جدا آدمی۔

نَسِيْم - ہوا کا بھونکا۔ جان۔ عادت مص

زرم ہوا کا چلنا۔

## ن-ش

نَش - بیس درہم وزن یعنی آدھا اوقیہ۔

داوقیہ ہم درہم کا ہوتا ہے، جانور کا

آہستہ ہاگنا۔ مشک وغیرہ کوٹنا۔

نَشَاء - نَشَاءَة - نَشُوَع - کَشَاء - (د)

نَشْفَة - بخور سی چیز جو برتن میں باقی رہ جائے۔ دوپتے وقت دودھ کے جھاگ۔ جھانواں۔  
نَشْفَة - پٹریا سی کا حلقہ جو پاراپیوں کی گردن میں ڈالا جاتا ہے۔

نَشْل - (ض) بغیر چمچ کے ہانڈی میں سے گوشت نکالنا۔ کسی عضو کو ہاتھ میں لے کر اس کا گوشت بھینھوٹنا۔

نَشْح - ایک درخت جس سے کمان بناتے ہیں مص (س) گائے کی کھال پر بہت تل ہونا۔

نَشْمَة - چکنائی وغیرہ کی وجہ سے بدبودار۔  
نَشْنَشَة - دیکھی کے جوش کی آواز۔ مص  
پاشچامہ کھولنا۔ جسم پر سے کپڑا کھینچنا۔  
زور سے ہلانا۔ چوچ سے پرندہ کا اپنے بازو اکھاڑنا۔ ٹانگن۔ جماع کرنا۔ دیکھی کا جوش مارنا۔

نَشْو - نَشْوَة - نَشْوَة - مست ہو جانا۔  
نَشْوَان - متوالا۔ مست۔ م۔ نَشْوَى۔

نَشْوَب - (س) لڑائی پھڑ جانا۔ لڑائی جرم جانا۔ لازم ہونا۔

نَشْوَة - بو۔ مستی۔  
نَشْوَق - (ن) پرہرہ حرکات، خوشبو سوگھنا۔ مست ہو جانا۔ کسی چیز تک بار بار آنا۔ چکر لگانا۔

نَشْوَح - تھوڑا پانی پینا۔  
نَشْوَس - (ن) درخت کا پھلنا پھولنا۔ زندہ کرنا۔ زندہ ہونا۔

يَوْمُ النَّشْوَس - قیامت کا دن۔

نَشْر - خوشبو (چھی یا بری ہو) مص (ن) زندہ کرنا۔ زندہ ہونا۔ کسی پر پڑھ کر پھونکنا۔ پھیلانا۔ شہرت دینا۔ بچھانا۔  
آر سے سے کھڑی چیرنا۔ ابرو الے دن ہوا کا چلنا۔ (د) شائع کرنا۔

نَشْر - بکھرا ہوا تتر تتر آدمی۔ مص (س) اونٹوں کا کھجلی والا ہونا۔ بکریوں کارات کو چرنے کے لیے ادھر ادھر پھیل جانا۔

نَشْرَة - کسی کتاب یا اخبار کی اشاعت۔  
سرکھ۔ (د)

نَشْرَنْ - بلند جگہ۔ جہ۔ نَشْوَنْ - آفتاب۔ مص (ن) مجلس میں سرٹ کر بیٹھنا۔ مجلس میں اٹھ جانا۔ گھبرا جانا۔ بلند ہونا۔ محفوظ ہونا۔

نَشْط - (ن) سانپ کا کاٹنا۔ رسی میں گرہ لگانا۔ نیزہ مارنا۔ علم کی وجہ سے مارا مارا پھرنا۔

نَشْح - (ف) نیزہ مارنا۔ پانی کا جاری ہو جانا کسی کو کوئی بات سکھانا۔ منہ یا ناک میں دوا ڈالنا۔ ہاتھ میں لے کر پانی پینا۔ خوشبو سوگھنا۔

نَشْح - بمعنی۔ نَشْح  
نَشْف - (ن) پانی وغیرہ کا جذب کر لینا۔ خشک کر لینا۔ پونچھ لینا۔ کنویں کا خشک ہو جانا۔ پانی کا جذب ہو جانا۔

نَشْفَة - وہ کپڑے کا پتھر جس میں بارش کا پانی لے کر برتن میں پھڑتے ہیں۔ جہ۔  
نَشْف - نَشْف - نَشْف -

تَشْوُوز - نافمانی۔ ناموافقیت۔ مص (ن)  
 (من۔ علی) عورت کا اپنے شوہر  
 کی نافمانی کرنا (علی) شوہر کا اپنی  
 بیوی پر ظلم کرنا۔

تَشْوُوص - (ض) ابر کا اونچا ہونا۔ عورت کا  
 ناف فرمان ہونا۔ جی متلانا۔ نیزہ  
 مارنا۔

تَشْوُوع - حلق اور ناک میں ڈالنے کی تھوڑی  
 سی دوا۔

تَشْوُوع - (ب) حلق یا ناک میں دوا ڈالنا۔ مرنے  
 کے قریب پہنچ کر بیماری سے اچھا ہونا۔  
 تَشْوُوع - بمعنی تَشْوُوع۔

تَشْوُوق - وہ دوا جو چھینک لانے کے لیے  
 ناک میں ڈالی جائے۔

تَشْوِیْب - (ض) روتے ہوئے گلے میں مہرانا۔  
 ہانڈی کا جوش مارتے ہوئے سنسانا۔

تَشْوِیْد - آواز کی بلندی۔ شعر کے جواب میں  
 پڑھا ہوا شعر۔ (د) گیت۔

تَشْوِیْش - پانی اور ہانڈی وغیرہ کے جوش کی آواز  
 مص (ض) اتالاب کے پانی کا

سوکھنے لگنا۔ کنوئیں میں پانی کا سنسانا۔  
 تَشْوِیْطَة - غنیمت کا سامان جو غازیوں کو

راستہ ہی میں مل جائے۔ جہ۔  
 تَشْوِیْط۔

## ن-ص

نَص - سامان کو تہہ بہ تہہ اوپر نیچے رکھنا۔ کسی  
 بات کی چھان بین کرنا۔ بلند کرنا۔  
 ظاہر کرنا۔ ظاہر ہونا۔ حدیث کی

سندیان کرنا۔ کلام کو سنوارنا۔  
 (علی) کلام کو صاف اور واضح کر دینا  
 کہ معنی مشتبیہ نہ رہیں (د) اصل  
 عبارت۔ تین۔ شرط۔

نَصْءٌ - (ف) پیشانی کے بالوں کو پکڑنا۔  
 اونٹ کو ڈانٹنا۔ اٹھانا۔

نِصَاب - کسی چیز کی اصل۔ سورج کے چھپنے  
 کی جگہ۔ چھری کا دستہ۔ اتنا مال کہ

جس پر زکوٰۃ واجب ہو۔ جہ۔  
 نِصَب۔

نِصَاح - ڈورا۔ لڑی جہ۔ نِصْم۔ نِصَاحَة۔  
 نِصَارِی - عیسائی لوگ۔ دہ۔ نِصَارِی۔

نِصَاعَة - نِصُوع۔ (ف) خالص اور  
 بے ملاؤ ہونا۔ نہایت سفید ہونا۔ کسی

کے حق کا اقرار کرنا۔ اور ادا کرنا۔  
 نِصَب - نِصَب۔ بیماری۔ سختی۔ برائی۔ بلا۔

علامت۔ نشان۔ کوئی پتھر وغیرہ۔  
 جو عبادت کے لیے گاڑ لیا ہو۔ تھان

وغیرہ جہاں چڑھاوا وغیرہ چڑھایا جاتا  
 ہے۔ (د) اسٹیچر۔

نِصَب - رنج۔ سختی۔ مص (س) غم اور  
 تکلیف اٹھانا۔ ٹھک جانا اور

عاجز آ جانا۔ (فی) کوشش  
 کرنا۔

نِصَب - (ن) بیماری کا کسی کو غمگین کرنا۔  
 کسی کو نیچا اور پست کرنا۔ بلند اور

اونچا کرنا۔ (ض) درخت ہونا۔  
 مقرر کرنا۔ منصوب پڑھنا۔ (ل) [

مخالفت کرنا۔

پوری قوت کے ساتھ گھٹنے ٹیکنا۔ تاکہ  
 بوجھ سمیت اٹھے۔ ہلانا  
 نَصُو - پیش کی قسم کی ایک بیماری۔ پیٹ  
 کا درد مص (ن) پیشانی یعنی سر  
 کے اگلے بالوں کو کچل کر کھینچنا۔ ایک  
 جنگل کا دوسرے جنگل کے برابر ہونا

(متصل ہونا)

نَصُوْح - سچا۔ سچی۔ التَّوْبَةُ النَّصُوْحُ

سچے دل سے توبہ۔

نَصُوْح - (ف) اونٹوں کا پیٹ بھر کر پانی

پینا۔

نَصُوْل - (ن) تیر کی نوک کا کسی چیز میں

گھس جانا۔ بالوں کے خضاب کا رنگ

جاتا رہنا۔ زہر کا اثر جاتا رہنا۔

نَصِيٌّ - ایک گھاس کا نام۔

نَوِيْبٌ - حصہ۔ حوض۔ بچھایا ہوا جال۔

النَّصَاءُ - النَّصِيْبَةُ

نَصِيْبَةٌ - علامت۔ نشان۔ نشانی۔ جز۔

نَصَائِبٌ

نَصِيْبَةٌ - عمدہ۔ جز۔ نَصِيٌّ - النَّصَاءُ

نَصِيْبَةٌ - پند۔ نصیحت۔ وعظ۔ جز۔ نَصَارَةٌ

نَصِيْحٌ - سبھانے والا۔ نصیحت کرنے

والا۔

نَصِيْرٌ - مدد کرنے والا۔ ساتھ دینے والا۔

جز۔ النَّصَاةُ

نَصِيْفٌ - عورتوں کی اور یعنی۔ آدھا ہمار۔

پگڑھی۔ سر سے لٹکے کا کوئی کپڑا۔ دو

رنگی چادر۔ ایک ہیجان۔

نَصِيْبٌ - ایک لمبا پتھر۔ منہ کا تالو۔ مرغ

نَصَتْ - (ض) چپ رہنا۔ خاموش رہنا۔

دل کا کان لگا کر کسی کی بات سننا۔

نَصَتْ - مادہ چڑایا۔ نَصَتْه - خاموشی۔

نَصَحٌ - نَصَحٌ - نَصِيْحَةٌ - نَصَاْحَةٌ (ف)

دل نصیحت کرنا۔ فائدہ کی بات

بتلانا۔ خالص دوستی کرنا۔

نَصَحٌ - نَصُوْحٌ - (ف) خالص ہونا۔

صاف ہونا۔ خالص کرنا۔ صاف کرنا۔

کپڑا سینا۔

نَصَحٌ - خیر خواہی۔ نصیحت۔

نَصْرٌ - نَصُوْرٌ (ن) مدد کرنا۔ قید سے

چھڑانا۔ مینہ کا تمام زمین سیراب کرنا۔

نَصْرَانِيٌّ - عیسائی۔ مسیحی۔ شہزادہ (مولد

حضرت مسیح کی طرف منسوب۔

خلاف قیاس)

نَصْرَةٌ - مدد۔ حُسن سلوک۔

نِصْفٌ - آدھا۔ دو برابر ٹکڑوں میں کا ایک

جز۔ اَنْصَافٌ

نَصْفٌ - (ن) کسی چیز کے آدھے کو پہنچنا۔

کسی چیز کا آدھا لینا۔

نَصْفٌ - نِصَافٌ - نِصَافَةٌ - (ض - ن)

خدمت کرنا۔

نَصْفٌ : ادھر ادھر کی عورت۔ جز۔ اَنْصَافٌ

نَصْفٌ

نَصْفَانٌ - آدھا بھرا ہوا (برتن)

نَصْلٌ - تیر کا پیکان۔ نیزہ کی آئی۔ بے دستہ

کی تلوار۔ چھری۔ جز۔ اَنْصَالٌ

نَصْلٌ - اَنْصَلٌ

نَصْنَصَةٌ - اونٹ کا زمین سے اٹھے وقت

کی چورنچ صاف گیہوں۔ سرکا اوپری حصہ۔ پھوڑا۔

## ن-ض

نَضّ - برا کام۔ پھوڑا پانی۔  
نَضّ - کَضِیض - دن، پانی کا پھوڑا پھوڑا  
بننا یا ٹپکنا۔ پزندے کا اپنے بازوؤں کو بلانا۔ پھوڑا دینا۔  
نَضّاحَة - دور پھینکنے والا۔  
رَعِیْن (نَضّاحَة) - بہت پانی اور خوب  
الینے والا چشمہ۔

نَضّاس - سونا، چاندی، خالص بغیر گلی۔ درخت  
کرنکی لکڑی۔ (جو برتن بنانے کے کام آتی  
ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  
کا منبر پاک بھی اسی لکڑی کا تھا،  
نَضّارَة - نَضّوْرَة - تازگی۔ تری۔ رونق  
چہرہ کی چمک دمک۔

نَضّاضَة - بچا ہوا پانی۔ سب سے چھوٹی اولاد  
(مذکر و مؤنث۔ تشبیہ و جمع۔ اس میں  
یکساں ہیں)

نَضّج - نَضّجِر دس، میوہ، گوشت، زخم  
پھوڑا، مواد وغیرہ کا پکنا۔

نَضّج - حوض، جہ، اَلنَضّاح - نَضّوْح -  
نَضّج - (دن) تیر کا برسنا۔ پانی چھوڑ کنا۔

آنسو بہانا۔ منگک کا ٹپکنا۔ پیاس  
بھگانا۔ خوب پانی پینا۔ اونٹ کے  
ذریعہ کھجور کے درختوں کو سیخنا۔

نَضّد - (ض) اسباب اور سامان کو اوپر  
نیچے رکھنا۔

نَضّد - اوپر نیچے چنا بہا۔ سامان عمدہ اور  
نفیس ساز و سامان۔ خاندانی بزرگی  
موتی اونٹنی۔ جہ۔ اَلنَضّاد۔

نَضّس - سونا، چاندی، جہ۔ نَضّار - اَلنَضّوْر -  
نَضّس - کَضّارَة - چہرہ کی تازگی، اور  
خوبصورتی و خوشنمائی۔ مص

(ن۔ س) تروتازہ ہونا۔ تروتازہ  
کر دینا۔ نَضّس۔ بیوی۔

نَضّف - پلید، ناپاک، جہ۔ کَضّفُوْن  
نَضّف - (ن۔ ض۔ س) اونٹ کے بچہ کا  
سارے دودھ کو تھنوں سے چوس  
لینا۔ گدھے کا ریح خارج کرنا۔

نَضّل - (س) کمزور اور دہلا ہو جانا۔  
تھک جانا۔

نَضّل - (ن) غالب آنا۔ تیر اندازی میں۔  
نَضّنَصَة - سانپ کا زبان باہر نکالنا۔ اور  
بلانا۔

نَضّوْ - (ن) پانی کا زمین میں دھنس جانا۔  
تیر کا لگان سے چھوٹ جانا۔ تلوار  
کھینچنا۔ کسی کے کپڑے اتار لینا۔

نَضّوْ - دہلا پٹلا اونٹ۔ لگام کلاوا۔ خواب  
مستعل تیرم۔ نَضّوْرَة - جہ۔ اَلنَضّاء  
نَضّوْ السّوْم - لوگ سے لے کر پر  
تک تیر کا حصہ۔

نَضّوْب - (ن) پانی کا زمین میں جذب ہو  
جانا۔ مرجانا۔ آنکھ کا گڑھے میں  
گھس جانا۔

نَضّیْ - (ض) تلوار سونٹنا۔ کپڑے کو پہن کر  
پراناکر دینا۔

نَضِي - دُبا اور کمزور اونٹ۔ بغیر پیکان و پر تیز۔  
 جوئے کا تیز۔ گردن کا درمیانی حصہ مرد  
 کا ذکر (مشابہ کا مقام)۔ ج۔۔۔  
 أَنْضِيَّة -  
 نَضِيْبِيَّة - پکا ہوا میوہ۔ ہر کی ہوئی چیز۔ نَضِيْبِيَّة  
 اَلزَّأِي تَجْرِبَكَار -  
 نَضِيْمٌ - پسینہ۔ حوض۔ ج۔۔۔ لَضْمٌ  
 نَضِيْدٌ - مرتب۔ تدریجاً۔  
 نَضِيْمِيْنٌ - تھوڑا پانی۔ آدمیوں کا گروہ۔ کم گوشت  
 والا۔ ج۔۔۔ نَضَائِيضٌ - نَضَائِيضٌ  
 نَضِيْبِيَّةٌ - ہلکی بارش۔ ج۔۔۔ نَضَائِيضٌ -  
 نَطْحٌ - نَطِيْطٌ - (ن) بکواس کرنا [ن] چلنا بھاگنا  
 کودنا۔  
 نَطْ - (ن) باندھنا۔ کھینچنا۔  
 نَطْمٌ - انسان کی شکل کا کوئی ڈھانچہ جو حضانہ  
 کے لئے درختوں پر رکھا کر دیتے ہیں  
 تاکہ جانور نہ آئیں۔  
 نَطَّاسِيٌّ - دانہ۔ عقل مند۔ ہوشیار طبیب۔  
 نَطَّاعٌ - علاقہ۔ طرف۔  
 نَطَّاعٌ - گفتگو یا خورد و نوش میں زیادتی کرنے والا  
 نَطَّاقٌ - کم کا ٹپکا۔ ایک کپڑا جسے عورت کم  
 میں باندھ کر اس کے اوپر کے سرے کو  
 نیچے کے سرے پر ڈال دیتی ہے۔ بچلا  
 سر آ زمین پر گھسٹتا ہے۔ ج۔۔۔  
 نَطَّقٌ -  
 ذَاتُ النِّطَاقِيْنِ - سمار بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما  
 کا لقب۔

نَطْحٌ - (ن) اینٹ مارنا۔ دھکیلنا۔  
 نَطْسٌ - (ن) باغیانی کرنا۔  
 نَطْسٌ - (ن) خوب جاننا۔ ہوشیار می کا انتہا  
 کر ادینا۔  
 نَطْحٌ - نَطْحٌ - چرمی دسترخوان چمڑے کا  
 فرش۔ ج۔۔۔ انطاع - نَطْوَعٌ  
 نَطْحٌ - سالو کا وہ حصہ جہاں زبان لگتی ہے۔  
 نَطْفَةٌ - نَطْوَفَةٌ - نَطَافَةٌ (ن) تہمت زدہ  
 اور عیب دار ہونا۔ کھانا ہضم نہ ہونے  
 کی وجہ سے تکلیف (ٹھکانا)۔  
 نَطْفٌ - عیب۔ بڑائی۔ پیچھے کا زخم۔  
 نَطْفٌ - پلید۔ ناپاک۔ دھوکہ باز آدمی۔  
 نَطْفَانٌ - نَطْفَانَةٌ - (ن) پانی کا  
 جاری ہونا کسی پر تہمت لگانا۔ پانی  
 بکھیرنا۔  
 نَطْفَةٌ - صات شفات پانی۔ مرد یا عورت  
 کی منی۔ ج۔۔۔ نَطْفَانٌ - نَطْفٌ  
 نَطْفَةٌ - نَطْفَةٌ - گوشوارہ۔ بندہ۔ چمکدار موتی  
 چھوٹا موتی۔ ج۔۔۔ نَطْفٌ -  
 نَطْقٌ - نَطْوَقٌ - مَنْطِقٌ - (ن) ایسی گفتگو  
 کرنا جس سے مراد کچھ میں آئے۔ بیان  
 کرنا۔ واضح کرنا  
 نَطْقٌ - لفظ۔ کلام۔ سمجھ۔  
 نَطْنَطٌ - زیادہ لمبا۔ ج۔۔۔ نَطْنَطٌ  
 نَطْوٌ - (ن) لمبا کھینچنا۔ سوت کو تانا۔  
 نَطْوَلٌ - دواؤں کے ساتھ جوش دیا ہوا پانی  
 نَطْوَلٌ - نَطْوَلٌ - (ن) دواؤں کے ساتھ  
 جوش دے ہوئے پانی کو لٹے میں  
 بھر کر تھوڑا تھوڑا بیمار کے سر پر ڈالنا

## ن - ط

نَطْ - (ن) باندھنا۔ کھینچنا۔  
 نَطْمٌ - انسان کی شکل کا کوئی ڈھانچہ جو حضانہ  
 کے لئے درختوں پر رکھا کر دیتے ہیں  
 تاکہ جانور نہ آئیں۔  
 نَطَّاسِيٌّ - دانہ۔ عقل مند۔ ہوشیار طبیب۔  
 نَطَّاعٌ - علاقہ۔ طرف۔  
 نَطَّاعٌ - گفتگو یا خورد و نوش میں زیادتی کرنے والا  
 نَطَّاقٌ - کم کا ٹپکا۔ ایک کپڑا جسے عورت کم  
 میں باندھ کر اس کے اوپر کے سرے کو  
 نیچے کے سرے پر ڈال دیتی ہے۔ بچلا  
 سر آ زمین پر گھسٹتا ہے۔ ج۔۔۔  
 نَطَّقٌ -  
 ذَاتُ النِّطَاقِيْنِ - سمار بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما  
 کا لقب۔

ترتیب دینا۔ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا۔ سنوارنا۔

نَظْمٌ - قوم کا سردار جس کی طرف لوگوں کی نگاہیں لگی رہیں (مفرد و جمع)

نَظِيرٌ - مانند۔ مثل۔ جہ:۔ نَظَرٌ - آء۔

نَظِيرَةٌ - قوم کا سردار۔ فوج کا ہر اول دستہ جہ:۔ نَظَا شَرٌ -

نَظِيفٌ - صاف۔ پاکیزہ۔ نَظِيفُ السَّرَاوِيلِ - پاک دامن اور پرہیزگار۔

## ن - ع

نَعَّاسٌ - حکم نہ ماننے والا۔ مکار۔ جیلہ ساز۔ فسادی۔

نَعَّاسٌ - اونگھ۔ غفلت مص (ف)۔ اونگھنا۔ جسم کا ضعیف ہو جانا۔ ہازار کا ماند پڑ جانا۔

نَعَّارٌ - شتر مرغ۔ واہ:۔ نَعَامَةٌ جنگل وہ نشان جو راستوں پر قائم کر دیتے جاتے ہیں۔

نَعَامَةٌ - شتر مرغ۔ تلوار۔ راہ:۔ نہ نشان۔ کھوپری۔ پالان۔ گھوڑے کا دماغ کھارا راستہ۔ پٹنڈلی کی پٹی۔ خوشی بے وقوفی۔ اندھیرا۔ اکرام۔

نَعَبٌ - نَعْبٌ - نَعَابٌ - نَعْبَانٌ (ف) - کتے کا کائیں کائیں کرنا۔

نَعَشٌ - نر کر گھڑ۔ بے وقوف بڑھا۔ جہ:۔ نَعَائِشٌ

نَعَشَكَةٌ - بے وقوفی۔ کمزور پڑھوں کی چال نَعَجٌ - بھیرہ کا گوشت کھانے کی وجہ سے

نَظِيحَةٌ - وہ جانور جسے دو سرا جانور سینگ سے مار ڈالے۔ جہ:۔ نَظَارِحٌ -

نَظِيْسٌ - طبیب۔ حکیم۔ عالم۔

## ن - ظ

نَظَارَةٌ - عمدہ وزارت۔ دفتر وزارت۔

نَظَارَةٌ - تماشہ دیکھنے والوں کی جماعت۔ جنگ کا نظارہ کرنے والی جماعت (د)۔ ڈورین

نَظَاقَةٌ - صفائی۔ ستھرائی۔ پاکیزگی مص (ك) صاف ستھرا ہونا۔

نَظَاهٌ - موتیوں کی لڑی۔ وہ چیز جس کی وجہ سے کوئی کام قائم ہو، موجود ہو۔ طریقہ قاعدہ

اسول۔ عادت۔ شعر۔ تہ بہ تہ۔ جما ہوا پیرت۔ جہ:۔ اَنْظَمْتُ - اَنَاظِمْتُ

نَظَامِيٌ - باقاعدہ فوج کا سپاہی (د)

نَظَرٌ - (ص)۔ انتظار کرنا۔ مہلت دینا۔ آنکھ۔ بصیرت۔ بینائی۔ جہ:۔ اَنْظَارٌ

آمنے سامنے ہونا۔ دیکھنا۔ غور کرنا۔ (ف) کسی کام میں تدبیر کرنا [مبین]

مقدمہ فیصل کرنا [ل] مدد کرنا۔ ایک بار دیکھنا۔

نَظَرَةٌ - تاخیر کرنا۔ مہلت دینا۔ نَظْرِيَّةٌ - تھیوری۔ مسئلہ (د)

نَظْمٌ - شعر۔ موتیوں کی لڑی۔ جوڑے کے تین ستارے پر دیا ہوا موتی پٹنڈی دل

نَظْمٌ - نَظَامٌ - (ف) موتیوں کو ڈور سے میں پروتا۔ نظم کھنٹا۔ انتظام کرنا۔

نُعْض - ججاز میں ایک ریگستانی درخت جس کی شاخوں سے مسواک بناتے ہیں۔  
نُعْض - اونچی اور ہموار جگہ۔ ٹیلہ کا اگلا حصہ۔  
ج:۔ نِعَات - جوئی کا قسم۔  
نُعْفَة - کھال کا ٹکڑا جو بالان کے نیچے لٹکایا جاتا ہے۔ مُرْع کا تاج۔ رسولی۔  
نُعْفَة - نَعْق - نَعِيق - نَعَاق - نَعَقَان (رف) چرداسے کا اپنی بکریوں کو بلکانا کہے کا کا میں کا میں کرنا۔  
نَعَل - (س) جو تاپہنا۔  
نَعْل - جوتا۔ نعل - ہل کا لوہا۔ ذبیل اور رسوا آدمی۔ تلوار کے نیام کے نیچے کا لوہا۔  
نَعْم - ناریکی۔ نرمی۔ ہبلاتی۔ ج:۔  
اَنْعَم - نَعْم - چوپائے پھرنے والے جانور گائے بھینس۔ بکری وغیرہ اکثر اونٹ کے لئے بولا جاتا ہے۔  
ج:۔ اَنْعَام - نَعْمَان - نَعْم - ماں (حرف جواب)  
نِعْم - اچھا ہے یا نِس (بڑا ہے) کی ضد یہ دونوں دراصل فعل ماضی ہیں لیکن دوسرے فعلوں کی طرح ان کی گردان نہیں آتی۔  
نَعْمَاء - نَعْمَاء - خوشی۔ عیش و آرام۔  
نَعْمَة - نیکی۔ آرام۔ عیش۔ بھلائی۔ مال اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز۔ نِعْمَة - عیب نہ آنکھ کی ٹھنڈک۔

دل اور معدے کا بھاری پن۔ خالص پے ملاٹ سفیدی مصل (س) موٹا ہونا بھیرٹ کا گوشت کھانے کے باعث جی ملانا۔  
نَعْم - نَعْوَج - (ن) خالص سپید ہونا۔ تیز چلنا۔  
نَعْمَة - مادہ بھیرٹ۔ ج:۔ نِعَاج - نِعَاجَات - نَعْمَة الرَّمْل - جنگلی گائے۔ ج:۔ (ن) اِنکارت کرنا۔ مخالفت کرنا جوش میں آنا جمع ہونا رفتی کسی کام کے لئے اٹھنا (تیار ہونا) اور کوشش کرنا۔  
نَعْر - (س) چوپایہ کی ناک میں مکھی کا گھس جانا۔  
نَعْرَة - نَعِير - نَعَس - نعرہ مارنا۔ ناک سے آواز نکالنا۔ رگ سے خون کا اچھل کر آواز کے ساتھ نکلنا۔  
نَعْس - جسم کا استعمال۔ رائے کا بودا پن۔ بازار کی بے رونقی۔  
نَعْس - نَعَس - (رف) اونگھنا۔  
نَعْس - زندگی وہ کھاٹ جس پر مردہ رکھا ہوا ہو (خالی کو سر پر کہتے ہیں)۔  
نَبَات نَعَش - سات ستارے ہیں (قطب شمالی کی طرف) مصل (س) اٹھانا۔  
مردہ کو نیکی کے ساتھ یاد کرنا۔ آنکھ اٹھا کر اوپر دیکھنا۔ کسی کی محتاجی دور کرنا۔  
نَعْض - (رف) حرکت دینا۔ ٹڈی کا کھیت چاٹ جانا۔



نَعْتَان - نَعْتَان - بُود بِن - ج: نَعْب  
نَعْوَب - تیز چال والی اونٹنی - ج: نَعْب  
نَعْوَمَة - (س) ن - حق - کج - نرم و نازک ہونا -  
نَعْبَعِي - موت کی خیر - موت کی خبر دینے والا  
بری خیرستانے والا -  
نَعْيٌ - نَعْيٌ - نَعْيَان - (ف) موت کی خبر  
دینا ز علی کسی کے گناہوں وغیرہ کو  
بیان کرنا -  
نَعْيِر - روٹی میں چرخ و پکار - نَعْيِرُ الْهَمِّ  
اپنی اور گری بات سوچنے والا -  
نَعْيِمٌ - نعمت - آسانی - آرام خدائے تعالیٰ  
کی بخشی ہوئی چیز - مال - خوش نصیبی  
جنت -  
ن - ع  
نَعَار (ج) نَعَار - وہ زخم جس سے خون بہتا ہو -  
نَعْب - (ف) (تھوک کو) نکل جانا .....  
پانی وغیرہ کو گھونٹ گھونٹ کر کے پینا -  
نَعْبَة - بھوٹا کھانا - پانی وغیرہ کا ایک گھونٹ  
ج: نَعْب -  
نَعْر - نَعْرَان - (س) ض (ف) ہانڈی کا چرچا مارنا  
بچہ کے بالوں کو ملنا - بہت پانی پینا -  
(علی) کسی پر غصہ کرنا -  
نَعْر - بیل چڑھ یا کاپچہ - نرگدھا - وا -  
نَعْرَان - ج: نَعْرَان -  
نَعْسٌ - نَعْسَان - بچپن ہونا - کانپنا - اپنی جگہ  
پر حرکت کرنا -  
نَعْضَى - (س) ناکام رہنا - نامراد رہنا -

نَعْبُ - شتر مرغ یا شتر مرغوں کا گلہ - وہ  
اڑی جس کا سر چلتے وقت ہٹا ہو -  
نَعْبُ - نَعْبُ - نَعْبَان - نَعْبُ - (ن)  
حرکت کرنا - بے چین ہونا - حرکت دینا -  
ہلانا - بادل کا ہٹنا ہونا -  
نَعْبَف - اونٹ اور بکری کی ناک کا کپڑا -  
نَعْفَة - گال کی ہڈی -  
نَعْل - نَعْل - حرام کا جنا ہوا پتہ - م: نَعْلَة  
نَعْل - (س) پوست کا دباغت سے خراب ہو  
جانا - زخم کا سر ہوجانا - بیت کا خراب  
ہونا [سین] لوگوں میں فساد پھیلانا -  
نَعْم - (ف) سانس لینا - آہستہ گانا -  
(ف) شراب کو خلق سے پیچھے اتارنا -  
نَعْمَة - خوش آوازی -  
نَعْمَة - گھونٹ پانی وغیرہ کا - ج: نَعْم -  
نَعْنَع - ن - سست - ج: نَعْنَع -  
نَعْنِق - کوئے کی آواز -

## ن - ف

نَف - (ن) زمین میں بیج بونا (س) سفوف  
کھانا - دوا کو کھٹ کر سفوف بنانا  
نَفَاة - خراب اور بے کار چیز بچی ہوئی -  
نَفَات - چھونک مارنے والا -  
النَّفَات فِي الْعَقْد - عبادت کے عورتیں -  
نَفَاج - معسرور ایسی چیز پر اترنے والا  
جو اس کے پاس نہ ہو -  
نَفَاجَة - کپڑے کا چوبندل -  
نَفَاح - بہت انعام دینے والا - بہت نفع  
پہنچانے والا - نیرہ کی گہری

ضرب۔

نَفَاد - نَفَاد (س) ناپید ہو جانا مرث جانا

جانا رہنا۔

نَفَاد - نَفَاد (س) حکم کا جاری ہونا۔ بات

کا پورا ہونا۔ راستہ کا نام ہونا خط

کا بھیجا رفتی ماہر ہونا۔

نَفَان - نَفَاد - نَفَاد (س) بھس جانا

آر پار ہو جانا۔ آگے نکل جانا۔ اور دوسرے

کو پیچھے چھوڑ دینا۔

نَفَاد - نَفَاد (س) متفرق ہونا۔

نَفَاد - نَفَاد (س) متفرق ہونا۔

بدک کر جانا (س) نفرت کرنا۔

گھبرانا (س) اعراض کرنا (س) [

کسی کی طرف پکنا (س) کسی کام کے

لئے اٹھنے نکانا۔

نَفَاد - حکم فرمان۔ ٹیکس۔

نَفَاس - وہ خون جو پھوپھ پیدا ہونے کے بعد کچھ

دن آتا رہتا ہے۔ عورت کا زچہ۔

نَفَاس - نَفَاس (س) نفس (س) قیمتی ہونا۔

عمدہ ہونا۔

نَفَاص - بکری کی ایک بیماری جس کی وجہ سے بار

بار پیشاب کرتی ہے اور آخر کار مر جاتی

ہے۔

نَفَاص - بخار کی ٹیکہ ہر تنگ دستی۔

مقلسی۔

نَفَاص - مسواک کا ریشہ جو زمین میں نہ جائے پتہ

ذخیرہ جو جھاڑنے سے گر پڑے۔

نَفَاص - پڑوں کا چشمہ۔

نَفَاق - (مفاعل) دوزخی اختیار کرنا۔ کفر کو چھپانا

اور ایمان کو ظاہر کرنا۔

نَفَاق - (س) بازار کا رونق پکڑنا کسی چیز

کا ختم ہو جانا یا کم ہو جانا۔

نَفْت - نَفْت (س) غصیاہ ہو جانا۔

ہانڈی کا جوش مارنا۔

نَفْت - (س) چھوٹا مازنا۔ تھوکتا گزندہ

کا زہرا گلتا۔ مریض سینہ کا خون گرانا

کھنا۔ جادو کرنا۔ دل میں کوئی بات

ڈالنا۔

نَفَج - (س) خرگوش کا کودنا اور چھلانگیں

مارنا۔ انڈے سے پتھر کا باہر نکلنا۔

ہوا کا تیزی سے چلنا۔ جو چیز پاس نہ

ہو اس پر اتارنا۔

نَفْح - نَفْح (س) نَفْح (س) رات خوشبو کا

مہکتا۔ ہوا کا بلکے بلکے چلنا۔ رگ

میں سے خون کا جوش مارنا۔ تلوار

پھینک کر ہتھیار مارنا۔ کسی کو کچھ

دینا۔

نَفْح - ہوا کی روانی خوشبو کی محک بخشش

عظیہ۔ جہ۔ نَفْح (س) چھوکتا۔ دن پڑھنا

ہوا کا تھوکتا۔

نَفْح - ایک بار چھوکتا۔

نَفْح - دیکھو۔ نَفَاد -

نَفَس - آدمیوں کا گروہ۔ تین سے دس تک

جہ۔ نَفَس (س)

نَفَس - نَفَس (س) بھاگنا۔ پدگانا۔

بھاگنا دینا۔

نَفَس - نَفَس (س) حاجیوں کا منی سے

کا پتہ لگائیں۔ وا۔: نَافِض  
 نَفْط - (ض) غصہ کرنا۔ غصہ میں بھر جانا۔  
 نَفْط - نَفْط - نَفِیْط - (س) کام کرنے کے  
 سبب اٹھ میں آبلہ پڑ جانا۔  
 نَفْط - نَفِیْط - (ض) بکری کا چھینکنا۔ جوش  
 مارنا (انڈی کا)  
 نَفْطَة - نَفِیْطَة - چیچک۔ آبلہ۔  
 نَفْع - نَفَع - فائدہ (ص) نفع دینا۔  
 نَفَق - سَرَنگ - بیٹیا۔ جنگلی چوہے کا  
 سوراخ۔  
 نَفَقَة - کھانے پینے کا خرچ۔ ج۔: نَفَاق  
 نَفَقَات -  
 نَفَل - وہ عبادت جو واجب نہ ہو عطیہ۔  
 بخشش۔ جاڑا۔ (ص) (ن)  
 بخشش کرنا۔ عطیہ دینا۔ تم  
 کھانا۔  
 نَفَل - غنیمت کا مال۔ عطیہ۔ مزید۔ ج۔:  
 اَنْفَال - نَفَال  
 نَفْوَة - نَفَاء - نَفَاوَة - پھینکا ہوا ردی  
 نَفْوَد - دیکھو نَفَاذ  
 نَفْوَس - بھاگنے والا۔ نفرت کرنے والا۔  
 (مذکر مؤنث)  
 نَفْوَس - (ن) آنکھ وغیرہ کا سوچ جانا۔  
 (دیکھو نَفَاس)  
 نَفْوَش - (ض) (ن) کھانے کی طرف توجہ  
 کرنا۔ رات کو چرواہے کے بیڑاؤٹ  
 بکریوں کا چرنا۔  
 نَفْوَق - چوپائے یا آدمی کا مرجانا۔ زخم کا  
 پھل جانا۔

گروہ درگروہ واپس آنا۔ غالب آنا  
 نَفْثَة - آدمیوں کی جماعت جو ایک ساتھ کسی کام  
 کے لئے جاتے۔ آدمیوں کی ٹولی تین  
 سے دس تک۔  
 نَفْس - جان۔ خون۔ جسم۔ پاس۔ نزدیک۔  
 ہر چیز کا عین اور ذات۔ جڑ۔ اربابہ۔  
 بزرگی۔ غلبہ۔ مبارکی۔ ج۔: انفس  
 نفوس  
 نَفْس - سانس۔ گھوٹ۔ وسعت۔ فراخی۔  
 طویل کلام۔ ج۔: اَنْفَاس  
 نَفْس - (س) کسی چیز میں اس کی عمدگی کے سبب  
 کچھ عیبی کرنا (علیٰ) حسد کرنا۔  
 نَفَس - نَفَاسَة - نَفَاس (س) عورت کا حالت  
 نفاس میں ہونا۔ (ک) قیمت ہونا۔  
 نَفْسَاء - نَفْسَاء - زہر عورت ج۔: نَفْسُ  
 نَوَافِس - نَفَسَاوَات -  
 نَفَش - (ن) اردی اور اون وغیرہ دھنا۔  
 انگلیوں سے کسی چیز کو بھیرنا۔  
 نَفْثِيَّة - ٹیک۔ بکٹ (د)  
 نَفْث - (ض) تھوڑا تھوڑا کر کے خون گرانا۔  
 جلدی سے بات لہنا۔  
 نَفْثَة - خون کا ایک چلو۔ خون کا ایک ٹکڑا۔  
 ج۔: نَفْثُ  
 نَفْثُ - (ن) مکان کے سامان کو جانا پٹھے  
 یا دخت کو جانا۔ دائیں بائیں رکھنا  
 عورت یا ادنیٰ کا بہت بچوں والا ہونا  
 بخار کا جھڑ لینا۔ مال کا صالح ہو جانا  
 کپڑے کا رنگ اتر جانا۔  
 نَفْثَة - جاسوسوں کا گردہ۔ جو دشمن کے حالات

نقوہ - (ن) بزدل ہو جانا - بہادری دکھانے کے بعد ڈر پوک ہو جانا -

نسخی - (ن) ہانکنا - دور کرتا - دور ہو جانا - رو پیہ - درہم وغیرہ کو پرکھنے کے لئے چٹکی سے بجانا - انکار کرتا - بادلوں کا پانی برسانا - ہوا کا خاک اور گرد کو اڑانا -

نسخی - جوش مارتی ہوتی ہانڈی سے نکلنا ہوا جھاگ - ڈول کی رسی سے - پیکا ہوا پانی کنسکری وغیرہ جو چوپایہ کے سم سے اڑے - مینکی پھوار - بڑی فوج کا ایک دستہ جو عسیدہ ہو گیا ہو -

نقیب - اجنبی - ج - : - نفیج - نقیبہ - کمان - ج - : - نفاہ - نقیبہ - لوگوں کا وہ گروہ جو لڑائی وغیرہ کے لئے نکلے -

نقیس - سندیہ اور عمدہ مال - ہر اچھی اور قیمتی چیز - بہت مال -

نقیط - (ن) مادہ پھیلاؤ وغیرہ کا پھینکنا - ہانڈی کا جوش مارتا - جھاگ پھینکنا - بچ کا آواز کرنا - ایسی بات کہنا جو بھین پڑے -

نقیطہ - ہتھیلی جس میں کام کرنے کی وجہ سے ٹھینٹ یا آبلے پڑ گئے ہوں -

## ن - ق

نقا - ریت کا ڈھیر - بازو کی ہڈی - ہر گروے دار ہڈی - ج - : - نقاء

## نقی

نقی - ہوشیار اور تجربہ دار آدمی - سخت زمین کا راستہ چہرے پر ڈالنے کا پردہ (معن مغالطہ) کسی سے ناگماں دوچار ہونا - بے غلب پانی پر پہنچ جاتا - آپس میں اٹھار نخر کرنا -

نقابة - (ن) سرداری کرتا زرقی چلنا پھرتا (معن) سرسراہ رسائی کرنا - یعنی حانات کا صحیح صحیح پتہ لگانا -

نقابة - انجمن - سوسائٹی (د) نقاخ - صاف ٹھنڈا پانی - میند - امن میں خالص -

نقاد - بکریوں کا چرواہا - روپیہ - درہم دینار وغیرہ کا پرکھنے والا - اچھے برے کو الگ الگ کر دینے والا -

نقاد - چوپایوں کا طاعون -

نقاز - چھوٹی چڑیا - ایک پرندہ -

نقات - مانگنے کا شوقین - کڑی پھیلنے والا - دور کی بات سوچنے والا - م - : - نقافة

نقال - جلد جلد قدم اٹھانے والا گھوڑا - ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر رکھنے والا -

نقالة - اسٹریچر (د)

نقاوة - نقاء - نقاعة - نقاوة (س) پاک صاف ہونا -

نقاوة الشیء - کسی چیز کا عمدہ اور بہتر حصہ نقب - سوراخ - پہلو کا زخم - خارش -

پھاڑی راستہ - ج - : - نقاب

نقشہ - جہ - نقیاس آنکھ کا گڑھا۔  
 باخانہ کا سوراخ - پرندے کے انڈے  
 رکھنے کی جگہ - جہ - نقیاس۔  
 نقز - چھوٹے چھوٹے چوپائے - بیچ اور کھینے  
 آدمی - لقب۔

نقز - صاف اور عمدہ پانی - لقب۔  
 نقز ان - نقز - (ن) برن کا دوڑتے ہوئے  
 چھلانگیں مارتا - کودنا (ن) دور  
 کرنا۔

نقش - دوات کی سیاہی - جہ - نقیاس۔  
 ناقوس کی ایک قسم - عیب - سنہی - مذاق  
 کھلی (ن) ناقوس کو بجانا -  
 (ن) کسی کا مذاق اڑانا۔

نقش - تھوڑا سا گوند - خشک چھوڑا ہوا نقش و  
 نگار (ن) نقش بنانا - پیل پیلے  
 بنانا - ججاج کرتا - بکری کے رستے کی  
 جگہ کو صاف کرنا - بالوں کو موچنے سے  
 اکھاڑنا (ن) کھوج لگانا۔

نقص - کمی اور نقصان (ن) کم کرنا - کم  
 ہونا - وعدہ کو توڑنا - عمارت کو  
 توڑنا۔

نقطۃ - سیاہی پر سفیدی اور سیاہی پر سفیدی  
 کی ننگی - نقطہ مرکز - دیکھو  
 موضوع بحث - جہ - نقطہ۔

نقطة اتصال الخطوط - جکشن۔  
 (د)

نقوع - گردوغبار - جہ - نقاع  
 نقوع - شتر مرغ کی آواز - پانی

نقاع - (ن) کسی چیز میں سوراخ  
 کرنا - موزہ میں پیوند لگانا - چلنا - مصیبت  
 آنا۔

نقب - (ن) موزہ کا پھٹنا - اونٹ کے سم کا  
 گھسا ہوا اور پتلا ہو جاتا (ن) سفر  
 کرنا۔

نقبۃ - رنگ - آواز - چہرہ - سوراخ - جہ -  
 نقب - لقب۔

نقت - (ن) ابدی سے بیگ نکالنا۔

نقت - (ن) پھرتی اور جلدی کرنا - بڑی سے  
 گودا نکالنا - کوئی چیز - کھو کر نکالنا۔

نقح - (ن) بڑی کا گودا نکالنا - چھلکا اور  
 پوست اتارنا - درخت کو پھانٹنا

نقد - وہ چیز جو ہاتھ کے ہاتھ دی جائے  
 (ادھار کی ضد) روپیہ (ن) ادھار  
 پر کھنا - جا بچنا - کسی کو کچھ نقد دینا -  
 پھانٹ لینا - ٹکٹکی ہاندھ کر دیکھنا  
 پرندہ کا چوہنچ مارنا - سانپ کا کاٹ  
 لینا۔

نقدۃ - سلامتی - آسائش (ن) رہائی  
 دینا - بیکسو کرنا۔

نقدن - چھوڑا ہوا - رہائی دیا ہوا (ن) (ن)  
 چھوٹنا - رہائی پانا - سلامت رہنا۔

نقدن - چٹکی بجانے کی آواز - تالو اور زبان  
 کی آواز جس سے چوپایہ کو بانگتے  
 ہیں (ن) (ن) مارتا - ٹکڑی میں نقش  
 کرنا - پتھر پر لکھنا - چوک مارنا۔

نقدن - زبان کا رگڑا ہوا - عیب لگانا۔  
 نقدۃ - گڑھا - پگھلا ہوا سونے چاندی کا

نقو - بازو کی ہڈی۔ ہر گودے والی ہڈی۔  
جہ۱۰۱۔ انقضاء۔ مہس (ن) ہڈی میں  
سے گودا نکالنا۔

نقوع - (ف) پانی کا جمع ہونا کسی کو بڑا کہنا۔  
اور گالیاں دینا۔ آواز کا بلند ہونا  
تصدیق کرنا۔ پانی میں بھگوننا۔  
وب [ شفا پانا۔ خوب شراب  
پینا۔

نقہ - بات کو سمجھنے والا۔  
نقۃ - نقوۃ (س) بیماری سے اچھا ہونا  
اور کردوری کا ابھی باقی رہنا۔  
نقۃ - نقوۃ - نقاہۃ - (ف) بات کو  
سمجھنا۔

نقۃ - پاکیزہ۔ صاف۔ سترا۔  
نقیب - بانیسی - ترازد کی زبان۔ قوم کا  
بڑا آدمی جو قوم کے حقوق کی حفاظت  
کے - سردار۔ لوگوں کے نسبوں

کا جاننے والا۔ جہ۱۰۱۔ نقیباء۔  
نقید - کھوکھی مکڑی۔ کھجور کی گٹھلی کا گڑھا  
چھوٹا گڑھا۔ سوراخ کیا ہوا پتھر۔  
مکڑی وغیرہ :- انقضۃ

نقیض - عکس۔ مخالفت۔ کمان کے چلے کچا وہ  
پالان۔ کنویں کی گھرنی وغیرہ کی آواز  
مینڈک - بچھو۔ باز وغیرہ کی آواز  
نقیضۃ - پہاڑی راستہ۔ کسی شعر کا اٹلا  
جواب دینا۔ جہ۱۰۱۔

نقیض - ہست پانی کا کنول۔ ٹھنڈا اور مٹھا  
پانی چھاروں کی شراب۔

کے جمع ہونے کی تنگ جگہ۔ عمدہ مٹی  
کی زمین۔ جہ۱۰۱۔ نقاع - انقح  
مہس (ف) آواز کا بلند ہونا۔

گریبان پھاڑنا۔ مسافر کی مہمانی کرنا  
قتل کرنا۔ وب [ پیاس بھگانا۔

نقفت - (ن) شراب کو صاف کرنا یا پانی میں  
لانا۔ سر کی کھوپری توڑنا۔ چوٹ  
کے اثر کا داغ تک پہنچانا۔ اندھے  
میں سوراخ کرنا۔

نقل - پیوندگی ہوئی پرانی جوتی یا موزہ۔ جہ۱۰۱۔  
انقَالَ - نقَالَ - مہس (ن) |  
ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا  
پیوندگانا۔ ہدایت کرنا۔ کتاب کو  
لکھنا۔

نقل - کلام میں حاضر جوابی۔ کنسکری۔ پرانا  
جوتا یا موزہ۔

نقۃ - مہرہ فروش۔ (د)۔  
نقل - پتھر کی زمین۔ حاضر جواب آدمی۔

نقیم - (م) میں، سزا دینا۔ بدلہ لینا۔ عتاب  
کرنا۔ کسی بات کو بڑا سمجھنا۔

نقیمۃ - نقمۃ - نقمۃ - بدلہ۔ سزا۔ جہ۱۰۱۔ نقم  
نقیم - نقمات

نقیتق - نر خر مرغ۔ جہ۱۰۱۔  
نقانتق -

نقنقۃ - مینڈک اور پرندہ کی زوردار آواز  
مہس دُپٹے پن کے سبب آنکھ

کا گڑھا میں گھس جانا۔ مینڈک کا  
ٹڑٹانا۔ مرنے کا اندھا دینے کے لئے  
کڑکڑانا۔

میں مبتلا ہونا زعن (پھوڑا)۔  
**تکب** - (ت) ارنج اور سختی پہنچانا۔ پتھر کا پاؤں کو زخمی کر دینا۔ تیردان کو اونٹھا کرنا۔ زعن (پھوڑا)۔  
**تکت** - (ن) کسی کو سر کے بل کر ادینا۔ چھڑی وغیرہ سے زمین کو میدنا۔ کو دنا۔ بے آرام ہونا۔  
**تکتہ** - ہندگی۔ نقطہ۔ باریک مات۔ آئینہ کا زنگ۔ جہ۔۔ نکات  
**تکت** - (ن) حق) معاملہ کو فسخ کرنا۔ سہد کو توڑنا۔ چادر کبل وغیرہ کو اُدھیرنا۔ رسی کا بٹ کھولنا۔  
**تکت** - کبل وغیرہ جسے دوبارہ ٹینٹے کے لئے اُدھیرا جائے۔ جہ۔۔ اُنکات  
**تکح** - عورت کی شہم گاہ۔ مص (ن) آنکھوں میں نیند بھر جانا۔ بارش کا زمین پر پہنچنا۔  
**تکح** - وہ مرد جس نے بہت سے نکاح کئے ہوں۔  
**تکد** - بدقال و منحوس آدمی خراب عادت والا۔ جہ۔۔ اُنکاد مص (ن) کوڑے کا زرد زور سے کانٹا کاٹنا۔ کرنا۔ مانگنے والے کی تھوڑی سی ضرورت پورا کرنا۔  
**تکد** - زندگی کی سختی اور تکلیف مص (ن) زندگی کا دشواری اور تکلیف میں گزرتا۔ کنوئیں کے پانی کا کم ہونا۔ جانا۔  
**تکد** - تھوڑا دینا۔ قلیل۔ بن دودھ کے

میوں اور پھوڑوں کی مویز۔ (وہ پانی جس میں میوے چھوڑے وغیرہ تھوڑے دیے گئے ہوں) وہ آدمی جس کی ماں اور قوم کی ہو۔ جہ۔۔  
**انقیعة**۔

**تقیعة** - مسافر کی مہمانی۔ خاطر مدارات۔ وہ جانور جو مہمانی میں ذبح کیا جائے جہ۔۔ نقائح۔

**تقیق** - (حق) بیندگ۔ بچو وغیرہ کا بلونا۔  
**تقیقل** - گھوڑے کی ایک خاص چال جو

دوڑنے اور پویہ چلنے کے درمیان ہوتی ہے۔ پردیسی اور مسافر آدمی راستہ۔

**تقیقلہ** - پردیس۔ جو تے یا موزہ کا پیوند جہ۔۔ نقائل۔ تقیقل۔

## ن - ل

**تقاء** - (ن) زخم کی کھال اُٹار دینے کے سبب پیپ پڑ جانا۔ دشمن کو مار ڈالنا۔ کسی کا حق ادا کرنا۔

**تکابہ** - تکتوب۔ (ن) قوم کا معتمد علیہ ہوجانا۔

**تکاح** - (ن) نکاح کرنا۔ صحبت کرنا۔  
**تکادہ** - عقل مندی مص (ن) کسی کام کا دشوار اور سخت ہوجانا۔

**تکاف** - کان کی لو کی سوجن۔ سونٹ کے حلق کی ایک بیماری۔

**تکال** - سزا۔ عذاب۔ رسوائی۔

**تکب** - (ن) شائد رکندھے کی ایک بیماری

اوتھ  
نکس - عقل مندی - ہوشیاری -  
نکس - عقل مند - ہوشیار -  
نکس - دشواری - بڑی اور ناپسندیدہ چیز  
نکس - نکوس - نیکیڈو - (س) کسی چیز کو تہ  
پہچانتا -

نکس - چالاک - ہوشیاری - چالاک عورت  
بڑی چیز -  
نکس - ناستناسی - وہ اسم جو عذر  
ہو - خون اور پیپ سے بھرا ہوا زخم  
یا آبلہ -

نکس - (ن) کتوں کے پانی کا ختم ہوجانا -  
سانپ کا ڈوسنا - مارنا - دور کرنا  
رہنما لگانا -

نکس - (س) کتوں کا پانی کم ہوجانا -  
نکس (ن) ادب دیکھ کر نا - بد پریمی کا مرض  
کو لوٹا دینا -

نکس - (ن) جن کسی کام کو ختم اور انتہا تک  
پہنچانا کنیوں کی کچھڑ لگانا - کسی چیز  
کو ختم کرنا -

نکس - (ن) جن کسی کام سے پیچھے  
ہٹنا - روک رہنا -  
نکس - نکس - (ن) اکوشش کرنا  
رج اور تکلیف اٹھانا - جلدی کرنا -

نکس - (ر) چوپایہ کو سختی کے ساتھ دوسنا  
کسی کا حق روک لینا - کسی کو اس کا حق  
دینا - لات مارنا -

نکس - چھوٹے غدد جو کان کی لوکے پیچھے  
ہوتے ہیں - وا؛ نکفہ (س)

نکف - (ن) آنسوؤں کو ہاتھ سے پونچھنا  
(س) کسی چیز سے منہ موڑنا اور  
پھرجانا -

نکف - سخت قید اور تکلیف - گام خط  
لے جانے والے کی سواری کا گام  
وہ آدمی جس کے سبب اس کے  
دشمن قید میں ہوں - جہ - آنکھ

نکف - بڑے ڈول کی رسی - طاقتور آدمی  
اور بہادر آدمی - ہوشیار اور تجربہ کار  
قبضہ میں کیا ہوا - مضبوط گھوڑا -

نکف (س) سزا کو قبول کرنا -  
نکف - (ن) نکبتاء (ایک قسم کی ہوا)  
کا چلنا (س) پھرجانا - ہٹ جانا

نکف - (ن) پانی کا زمین میں گھس جانا -  
نکف - (ن) (س) کسی کام سے پیچھے  
ہٹنا - ڈرنا - بزدل اور ڈرپوک  
ہوجانا - دشمن کے مقابلہ سے رک جانا -

نکف - (ن) ناک پر چھونک مارنا -  
پیٹ کی خرابی کے سبب منہ کی بو کا  
بدل جانا - دھوپ یا گرمی کا تیز ہوجانا  
(س) منہ کی بو سونگھنا -

نکف - منہ کی بو -  
نکف - قبر میں سوال کرنے والے فرشتے کا نام  
مضبوط قلعہ - انکار - منع -

ن - ہ

ن - (ن) جن خوشبو کا پھیدا جھلی کھانا



نمّص - بالوں کی زمی اور پتلا پن چھوٹے بال  
ایک گھاس جس سے ٹوکری وغیرہ  
بناتے ہیں معاً (س) بالوں کا کم  
کرنا۔

نمّص - (ن) بال توڑنا۔

نمّص - ایک قسم کی گھاس۔

نمّط - بچھونے فرش وغیرہ کا ابرہ (ادیر کا  
پرست) بطور طریقہ کسی چیز کا رنگ  
آدمیوں کا گردہ جن کا شغل ایک ہو۔  
پردہ جو موجود چرڈالتے ہیں۔ ج:-

آنمّط - نمّط۔

نمّختہ - قوم کا بڑا آدمی۔ مال کی زیادتی۔ پہاڑ  
کی چوٹی۔ سر کا ادیری حصّہ۔

نمّتی - (ن) آنکھ پر طمانچہ مارنا۔ خط لکھنا  
نمّیل - (س) آنکھ کا سوجھ جانا اور دست  
ہونا زرقی چڑھنا۔

نمّیل - چوٹی۔ واہ۔ نمّلتہ ج:- نیمال  
معاً (س) چغلی کھانا۔

نمّیل - چغل خور۔

نمّکتہ - ہلو کا گھاؤ۔ گھوڑے کے سم کی پھین  
چغل خوری۔

نمّکتہ - جنبش عیوض میں بچا ہوا پانی۔

نمّنم - سفیدی جو نوجوان آدمی کے ناخنوں  
پر ہوجاتی ہے۔ ج:- نمّانم

نمّمتہ - نقش کرنا۔ سوزنا۔ زمین پر خط  
کھینچنا۔

نمّو - جسم کی یکساں برصورتی (ن) زیادہ  
ہونا۔ بڑھنا (زنی) کسی کی طرف  
نسبت کرنا۔

کلام کو جھوٹ سے سوزانا (سبب)  
انسان) فساد ڈالنا۔

نمّاء - نمّاء - چھوٹی جوں۔ ج:- ۱۔ آنمّاء

نمّاص - مہینہ۔ ج:- ۱۔ آنمّص۔ آنمّصہ۔

نمّار - چغل خور۔ ایک خوشبو دار گھاس۔

نمّتہ - سر کی جوں۔ چوٹی۔ ج:- ۱۔ نمّم

نمّثر - نمّثر - نمّثر - نمّثر - شمار۔

نمّی - (ن) زرقی چڑھنا۔

نمّی - (س) غصہ ہوجانا۔ بری عادت والا ہو  
جانا۔ تیندو سے کے رنگ کا  
ہوجانا۔

نمّی - تیندو۔ ج:- ۱۔ نمّار۔ نمّارہ۔ نمّوی۔  
صاف و سادہ اور کھانے کو مہتمم کرنے

پر والا پانی۔ ج:- ۱۔ آنمّاس

نمّوی - نمّوی - چھوٹا نگیر۔ زمین اور پالان کی نمائیں  
ج:- ۱۔ نمّاریق۔

نمّوود - ایک کافر بادشاہ جس نے حضرت ابراہیم  
علی نبینا و علیہ السلام کو آگ میں  
ڈالا۔

نمّس - (ن) بھید کر چھپانا۔ کا تا چھوٹی کرنا۔  
نمّس - (س) گھی تیل وغیرہ کا خراب ہوجانا۔

نمّسبا - ملک آسٹریا۔

نمّش - (ن) جھوٹ بولنا چغلی کھانا۔ طبری کا  
کھیت وغیرہ کو چھپانا۔

نمّش - سفید و سیاہ چتیاں۔ گائے وغیرہ  
کی کھال میں اس کے رنگ کے خلات  
دھبے پورے کی دھاریاں اور نقش

معاً (س) ابلق اور کوڑھیالا یعنی  
سیاہ و سفید ہونا۔

نمّی - (س) ابلق اور کوڑھیالا یعنی  
سیاہ و سفید ہونا۔

نوآکے - نوآک (۱) احمق اور بے وقوف ہوجانا  
 نوآل - بخشش عطیہ - لائق - مناسب حصہ -  
 نوب - ترقی قوت (در طاقت میں) (۲)  
 (۳) کسی کی جگہ پر قائم ہونا والی نگاہ  
 سے رک رہنا اور زندگی کو اپنے ذمہ  
 لازم کرنا -

نوآبہ - باری - فرصت - جہ - نوآب -  
 نوآبہ حبشیوں کا ایک گروہ - مصیبت  
 جہ - نوآب -

نوآبائی - پاسبان - سنتری - (د)  
 نوآقی - ملاح - کشتیاں - جہ - نوآقی -  
 نوآح - نوآح - نیآحہ - (ن) زور  
 زور سے دینا - قائم کرنا -

نوآح - ایک اولوالعزم پیغمبر علیہ السلام کا نام  
 نامی جن کی امت پر نافرمانی کے سبب  
 طوفان بھیجا گیا تھا -

نوآد - نوآد - نوآد - (ن) نیند کی وجہ سے  
 جسم کا بے قابو ہونا اور ادھر ادھر  
 گر پڑنا -

نوآس - غنچہ - کلی - جہ - نوآس میں (ن)  
 روشن ہوجانا (ادبئی پر) نشان  
 بنانا -

نوآس - نوآس - (ن) دورے آگ کو دیکھنا -  
 عورت کا تمہ کی جگہ سے جگانا -  
 (فتنہ کا) پھیل جانا -

نوآس - روشنی - روشنی کی کن - جو چیز اشیا  
 کو آشکارا کر دے - ذات یا برکت  
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن (د)  
 لالین جہ - نوآس - زیندان

نوآج نمونہ - جھوٹا چغلی کھانے والا - درغلانے

نوآجی - نسی - تمآء - توآیہ - (من) پڑھنا  
 خوب آگ بھڑکانا - زنگ کا گہرا  
 ہونا - بھاؤ کا تیز ہونا - نکلنا - موٹا ہونا  
 منسوب کرنا -

نوآسی - کمی - بیڑھ - عیب - دشمنی طبیعت  
 پیسہ - درہم وغیرہ - جس میں تابنا ملا ہوا  
 ہو - جہ - تمآھی -

نوآسڈ - پاک صاف پانی سے ملاؤ اور خالص  
 صب -

نوآیمہ - نیمیم - چغل خوری - جہ -  
 تمآثم -

## ن - و

نوآة - چھوارے کی گھٹی - ضرورت -  
 ایک اوقیہ سونا - چار دینار - جہ - نوآ  
 آنوآء - نوآی -

نوآس - پاک دامن عورت - بجا سے نفرت  
 کرنے والی گائے - جہ - نوآس  
 نوآرة - شگورہ - سفید شگورہ - جہ -  
 نوآس -

نوآھی - پیشانی کے بال - پیشانیاں - واہ -  
 تا صیہ -

نوآھی الناس - شریف اور بزرگ آدمی  
 بڑے لوگ -

نوآصۃ - لیب - (د)

نوآق - ادبوں کو سدھانے والا -

توقل - دریا بخشش عطیہ بخیر لہو آدمی  
سخاوت کرنے والا - فریبجو - گیدڑ -

جہ - تو اخل

توقلکے - شورستان (شور اور کھاری زمین)  
نمک کی جگہ - نمک کی کان - نمکدان -

(نمک رکھنے کا برتن)

توقمبے - نومبر (د)

توق - اذنیماں - واہ - ناققہ -

توقل - ہنسا ہونا - لہ کشتی کی اجرت جونا بہ  
کی ایک کڑی جس پر کپڑا بن کر

پہنتا جاتا ہے - جہ - انوال میں  
(ن) کسی کو کچھ دینا - ہدیہ دینا - تحفہ

کے طور پر کچھ دینا -

توقلے - حاصل شدہ چیز - بوسہ -

توقم - نیٹام - نیند مص (ن) سو جانا -

توقد - (ن) ہوا کا ٹھہر جانا - آگ کا بجھ جانا -

دریا کا ساکن ہونا یا آہستہ ہونا - اللہ  
تعالے کے ساتھ عاجزی کرنا - سونا -

کسی پر سونے میں غالب آنا - بازار کا  
گھٹنا اور بے رونق ہونا -

توقمان - بہت سونے والا آدمی (اس لفظ کا  
استعمال مذاکے وقت صحیح ہے

دیا تو مان " تو کہہ سکتے ہیں رجل  
توقمان نہیں کہہ سکتے ایک گھاس -

توقمہ - گنام آدمی - غیر معتبر آدمی -

توقمہ - بہت سونے والا - گنام اور بے اعتبار  
آدمی - نادان آدمی -

توقن - مچھلی - نعمت - دوات - تلوار کی تیزی  
تلوار - حروف تہجی میں سے ایک حرف

توقمہ - چونا چوپایہ کا نشان - قطران -  
بہت جا دوگر عورت -

توقس - (ن) زیور یا زلفوں کو حرکت دینا -  
توقش - (ن) کسی کے سر یا ڈاڑھی کو کپھانا -

ڈھونڈھنا - جلدی سے اٹھنا - چلنا  
کسی کے ساتھ بھلائی کرنا -

توقص - گورخمص (ن) (معنی کسی چیز سے  
کنارا کرنا اور ہٹانا) - ایک طرف ہونا

زانی کسی کے پاس پناہ لینا - ٹوٹنا  
بھاگنا -

توقص - پیٹھ اور چتر کے درمیان کا جوڑ -  
بلند جگہ - حرکت - پانی نکلنے کی جگہ -

جہ - انواض مصداق ا کھوٹے -  
بیل وغیرہ کو ہلکا کھانا - بجلی چمکانا -

حرکت کرنا - بھینچ نکالنا - سفر کرنا -  
واپس ہونا -

توقط - وہ بوجھ جو دو گونوں کے بیچ میں رکھ  
دیا جائے - ٹکی ہوئی چیز جیسے توشہ

دان وغیرہ جو ادبٹ پر ٹکا دیا جاتا  
ہے - جہ - انواط - پینا ط -

مص (ن) ٹکاتا -  
توقط - نوٹ (د)

توقع - قسم - جنس - صفت - ڈھنگ - طریقہ  
جہ - انواع - مص (ن) ڈھونڈھنا

تلاش کرنا - بلا جھوٹے ہوئے جانا -  
توقع - پیاس - تشنگی -

توقف - اوچھا کولن - جہ - انوات باتیں  
کرنے کی آواز مص (ن) (معنی چڑھنا

اوچھا ہونا -

نہایت۔ کسی چیز کا کنارہ۔ حد۔ ختم۔ انتہا۔  
 نہیب۔ غنیمت۔ لوٹا ہوا سامان۔ جہ۔  
 نہیب۔  
 نہیب۔ (ن۔ س) لوٹ مار کرنا۔ غنیمت کا  
 مال حاصل کرنا۔ کئے کا آدمی کی ایڑھی  
 کا منہ میں بھر لینا۔ بدگوئی کرنا۔  
 نہیبۃ۔ مال غنیمت۔ عمارت گری۔ لوٹ  
 مار کا مال۔  
 تھجج۔ طور پر لقمہ چوڑا اور صاف راستہ  
 دمہ اور سانس اکھڑنے کی بیماری  
 معی (ف) راستہ کو صاف اور چوڑا  
 بنانا۔ صاف راستہ پر چلنا۔ راستہ  
 کا کشادہ ہونا اور صاف ہونا۔ کپڑے  
 کا پین کر پرائنا کرنا۔ کپڑے کا پرانا  
 ہوجانا (س) معنی دمہ اور سانس کا  
 بیمار ہونا۔

نہد۔ (ك ن د) (النی) دشمن کی طرف  
 اٹھنا۔ اُبھر آنا۔ پستانوں کا۔  
 نہس۔ سفر کے ساتھیوں کی برابر نکالی ہوئی  
 رقم تاکہ ایک جگہ خرچ ہو۔  
 نہد۔ گول اور اُبھری ہوئی (اوپچی) چھاتی۔  
 شیر۔ اچھا۔ خوبصورت بھاری بھرم  
 گھوڑا۔ سخی۔ بہادر آدمی۔  
 نہس۔ ندی۔ ج۔:۔ اُنہاس۔ اُٹھنا۔ اُٹھنا  
 نَس۔ (ف) نہر کو جاری کرنا  
 نہس۔ کھودنا۔ ڈانٹنا۔ زور سے  
 آواز دینا۔  
 نہس۔ ندی۔ ج۔:۔ اُنہاس۔ اُٹھنا۔ اُٹھنا  
 نہوس۔

نہینان۔ آنوان۔  
 دُدُ النَّوْنُ۔ حضرت یونس علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ  
 والسلام کا لقب۔ اس لئے کہ اُنہیں  
 مچھلی نکل گئی تھی۔  
 نوْتۃ۔ حق بات۔ مچھلی، لوط کی ٹھوڑی کا چھوٹا  
 سا گڑھا۔  
 نوْکۃ۔ (ن) اوچھا ہوجانا۔ گھاس کا چوپایہ کوڑھا  
 کر دینا (ن۔ س) (معنی) انکار کرنا۔  
 چھوڑ دینا۔ قوی ہوجانا۔  
 نوْیٰ۔ جہت۔ سمت۔ طرف۔ دوری۔ جوڑائی  
 نوْیٰ۔ وہ آدمی جو نیت۔ قصد۔ ارادہ میں تھارا  
 شریک ہو۔  
 نوْیص۔ نیا صفت۔ نوْصان۔ نوْص  
 (ن) حرکت کرنا۔ ہلنا۔

ن - ہ

نہاء۔ کسی چیز کی غایت۔ شیشہ۔ آئینہ  
 ایک سفید پتھر۔ اندازہ۔ مقدار۔  
 جہ۔:۔ نہاۃ  
 نہاۃ۔ (س) نہاۃ۔ (س) نہاۃ۔  
 گوشت کا آدھا پکا ہوجانا۔  
 نہاس۔ دن رات کی ضد۔ آٹھ۔ ہنس۔  
 نہاکۃ۔ (ف) کسی پر غالب آنا۔ شراب یا بخار  
 کا کسی کو کمزور کر دینا۔ پستان کا کل  
 دودھ پخڑ لینا (ك) دیر اور بہادر  
 ہونا۔  
 نہام۔ نہامتی۔ لوط۔ بدھٹی۔ آسان  
 راستہ۔  
 نہامتی۔ کلیسا یا گرجا گھر میں رہنے والا۔ پادری

تھم۔ تھمتہ۔ تھیم۔ (ض) آواز سے ڈانٹنا۔ چوپایوں کو چلانا۔ بانگنا۔

تھم۔ تھیم۔ (ف) اٹھنے کا چھٹکارنا۔

تھم۔ تھامتہ (س) زب لایج کرنا۔

تھمتہ۔ پلانا ہوا کپڑا۔ جہ۔ تھایتہ۔

تھنتہ۔ (ع) کسی کو ایک کام سے باز رکھنا روکنا۔ جھروکنا۔

تھوڈ۔ (ن) ف) چھاتیوں کا اٹھانا اور اُچھڑانا۔ عورت کا ابھری ہوئی چھاتیوں والا ہونا۔ اُٹھنا۔ کسی حالت پر گزرنا۔

تھوع۔ (ف) حلق میں اٹھنے والے کڑبڑ دستی کرنے کا۔ مگر تھے نہ ہونا۔

تھئی۔ (ف) منع کرنا۔ کسی کام سے روکنا۔

تھی۔ (ف) برطاحض۔ برطاسلاب۔ جہ۔

آٹھائی۔ تھیجی۔ تھتاد۔

تھیق۔ گدھے کی آواز مص (ض)۔ (س) گدھے کا ڈھینچوں ڈھینچوں کرنا۔

تھیٹک۔ بہادر۔ حد سے گزرنے والا۔ لوگوں پر تمس کرنے والا۔ قوی اور ٹھن تیز۔ تلوار۔ اچھی عادت کا آدمی۔

تھیم۔ گھوٹی۔ جھوٹی۔ اٹھتی اور شیر کی آواز۔

## ن - ی

تی۔ نوایتہ۔ (ض) ادنیٰ کا موٹا ہوا جانا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔

تی۔ نوٹاپا۔ قائم مقام (دوسرے کی جگہ پر ہونا)۔

تھن۔ اندازہ مص (ف) ڈول کو گنوں میں جھٹکا دینا تاکہ بھر جائے۔ سر بلانا۔ قریب ہونا۔

دور کرنا۔ بارنا۔ بانگنا۔

تھنتہ۔ (ف) غنیمت۔

تھس۔ چڑیا کا شکار کرنے والا ایک پرندہ۔

تھس۔ (ف) س) اگلے دانتوں میں گوشت کو دبا کر کاٹنا۔ اکھاڑنا۔ سانپ کا ڈس لینا۔

تھتس۔ (ف) ض) اگلے دانتوں سے کاٹنا اور اکھاڑنا۔

تھتسل۔ بھیڑیا۔ شکرہ۔ بہت زیادہ بوڑھا۔ جس کے جسم میں بڑھاپے کے سبب کیکچی اور ریشہ دوڑا ہوا ہو۔ جہ۔

تھتشل۔

تھن۔ اونٹ کے منڈھوں اور کاندھے کے درمیان کی جگہ۔ جہ۔ آٹھن۔

تھنض۔ (ف) (ض) اٹھنا کسی کام کو ظلم کرنا۔ پرندے کا اڑنے کے لئے باز دھپیلانا۔

تھنتہ۔ ترقی۔ (د)

تھتک۔ تھاکتہ۔ (ف) غالب آنا کھانا کھانے اور گالیاں دینے میں حد سے گزرنا۔

شرب یا بخار کا کمزور اور لاغر کر دینا چھاتی کا تمام دودھ پی جانا (ک) بہادر ہونا۔

تھنصل۔ کھایا ہوا کھانا مص (س) پہلے ہی پینا پانی پینا۔ سیراب ہونا۔ پانی پینا۔ پیاسا ہونا (ض)۔

نِیْسَل - انعام - عطیہ - بخشش - ایک گھاس جو زمین کے کام آتی ہے۔

نِیْسَل - نال - نالہ - (س حق) کسی چیز کو حاصل کرنا - پانا - دینا - بخشنا (من) گالی دینا - نال مین مخوفہ اس کو گالیاں دیں - اس کی آبروریزی کی -

نِیْسِم - نرم کپڑا - نعمت - آرام - راحت کی زندگی - ایک قسم کا درخت - پرانی پرستین -

نِیْسُوْمِ - چربی کا دھواں کہ جس سے گودے ہوئے بدن اور جسم کے نقش کو سیاہ کرتے ہیں - مستی (جو عورتیں دانتوں پر ملتی ہیں) تہمت سے دور رہنے والی عورت -

نِیْسِیْمِ - (حق) ہو اچلنا اور حرکت کرنا - اللہ تعالیٰ کے سامنے دُعا میں گڑگڑانا عاجزی کرنا - اُوکا بولنا -

نِیْسِیْم - کمان کی آواز - شہ کی آواز - ہرن کی آواز

## و - ا

وَ - اور (حرف عطف) قسم ہے (حرف جر) وَ اُنْب - بڑا پیالہ بڑا اُسْم چوڑا جھک ادنٹ مص (حق) شرمندہ ہونا شرم کی وجہ سے سر جھکانا - شرمنا لیجانا

وَ اِیْلِ - بڑی بڑی بوندوں اور بڑے بڑے قطروں کا مینہ -

وَ اِبْکَہ - بازو - گھٹنے یا کندھے کا سرا -

وَ اَبُوْس - اسٹیمر - ریل - انجن -

باری - سرسوت (د) پارلیمنٹ کی ممبری -

نِیْسَاط - دل کھوٹی وغیرہ - وہ چیز جس میں کچھ لٹکا یا جاتے - دو ستارے - دل کے قریب ایک رنگ جنگل کی دوری -

جوا - اَلْوَطَہ - اَنوَاط - نُوَط - نِیْسَب - (حق) کسی کے وراثت پر مارنا - وراثت پر چوٹ آنا -

نِیْسَت - (حق) بل کھانا مکھوری کی وجہ سے پلٹے پلٹتے چلنا -

نِیْسَہ - نُوَاخ - (حق) قصد کرنا - ارادہ کرنا - نیت کرنا -

نِیْسَہ - قصد - طرف - جہت - دوری ضرورت کپڑے کا ہاتا کپڑے کے نقش کپڑے کا رواں - ہل یا گاڑی کا جوا - جہ - آبیاس - نِیْسِدَات

نِیْسِر - (حق) کپڑے پر پیل بوٹے بنانا - نقش نگار کرنا -

نِیْسِرَک - چھوٹا نیزہ - جہ - نِیْسِرَک نِیْسِب - سیدھا راستہ چیونٹیوں کی قطار -

چیونٹیوں کا راستہ - جہ - نِیْسِب نِیْسَان - تمنع - نشان - جہ - نِیْسَانِیْن (د)

نِیْسَط - موت - مردہ - بم کی حد اور نہایت (مع حق) دور ہونا -

نِیْسِق - پہاڑ کی چوٹی - پہاڑ کی سب سے اونچی جگہ - جہ - نِیْسَاق - اَنِیْسَاق - نِیْسِق

نِیْسَقَہ - کام و لباس اور کھانے پینے میں نمک اور زیادتی -

نِیْسَک - (حق) جماع کرنا -

دَاسِد - پانی وغیرہ پر آنے والا جہ۔ دُستَاد  
دَاسِنَع - پیادہ۔ پیدل۔ سپاہی۔ لشکر کا سردار  
اور لشکر کی ضرورتوں کا انتظام کرنے  
والا۔ روکنے والا۔ وہ پادشاہ جو اپنی  
رعایا کو گناہوں سے روکتا ہے۔ جہ۔  
دَاسِنَعَة -

دَاسِط - دانت۔ ایک شہر کا نام۔ واسط شہر  
کے بسنے سے پہلے حجاج کا بنایا ہوا  
ایک محل تمام شہروں کے نام۔ مؤنت  
اور غیر منصرف پڑھے جاتے ہیں صرف  
واسط۔ منیٰ۔ شام۔ عراق۔ فلج۔ حجر۔  
چند شہر اس حکم سے خارج ہیں۔

دَاسِطُ الْكُوفِ پالان کا اگلا حصہ  
دَاسِطُ الْقِتْلَادَةِ اریں  
بیچ کا بڑا موتی۔

دَاسِع - فراخ۔ کشادہ۔ دسعۃ والام۔  
دَاسِعَة -

دَاسِق - حاملہ اونٹنی جہ۔ دَاسِقَات -  
دَاسِق - مَوَاسِق - مَوَاسِقِ  
دَاسِقَة - آپس کی رشتہ داری۔ قرابت۔ ایک  
دوسرے سے جوڑ اور تعلق۔

دَاشِی - چغل خور۔ بہت اولاد والا آدمی۔  
کپڑا عینے والا۔ سوتے کی کان کوٹنے  
والا۔ سکہ لگانے والا۔ جہ۔ دَاشَاة  
دَاصِب - ہمیشہ اور لازم ہونے والا۔ واجب  
خالص۔

دَاصِلَة - عورتوں کے بالوں میں دوسرے علیحدہ  
بالوں کا جوڑ لگانے والی۔ تاکہ  
سر کے بال زیادہ اور لمبے معلوم

دَابُّوَالْبَرِّ - ریل۔  
دَابُّوَالْبَحْرِ - اسٹیمر جہاز۔  
دَاسِن - ایک جگہ پر اترنے والا جہ۔ دَاسِنٌ  
بہتا ہوا پانی۔

دَاجِب - مار ڈالنا ہوا۔ وہ کام جس کا کرنا ضروری  
اور لازمی ہو۔ شرع کی اصطلاح میں  
وہ حکم جس کے کرنے والے کو ثواب  
اور نہ کرنے والے کو عذاب اور  
سزا دی جائے (د) مشرف۔ ذمہ  
داری۔

دَاجِفَة - مضطرب و بے قرار ہونے والی  
دَاج - دَاجَة - بخاستان۔ (د)

دَاجِد - ایک۔ تنہا۔ اکیلا۔ جہ۔ دَاجِدٌ  
م۔ دَاجِدَة -

دَاجِدٌ - سخت آواز۔ اونٹ کی آواز۔ مصی  
رضی اونٹ کی کو زندہ دفن کر دینا۔  
(جیسا کہ زمانہ مجاہدیت میں کیا کرتے  
تھے)۔

دَاجِدٌ - تیر تلواریں ہو یا کوئی اور چیز۔  
دَاجِدِی - نالہ۔ جنگل۔ دو پہاڑوں یا دو پشتوں  
کے درمیان کی کھلی ہوئی جگہ۔ درہ  
جہ۔ دَاجِدِیَة - آدِء

دَاس - رضی کسی کو ڈرانا۔ بُرائی میں ڈالنا  
آگ پوجنے کے لئے آتش کدہ بنانا۔  
دَاسِث - جس کی طرف کوئی چیز منتقل ہو کر پہنچے  
نیراث لینے والا۔ جہ۔ دَاسِثَة

دَاسِثَة - بوجھ اُٹھانے والی۔ گناہوں کی  
ذمہ دار ہونے والی نفس کی صفت  
(ہے)۔

ہوں (مُسْتَوِصِلَه) وہ عورت جو یہ جوڑ لگواتی ہے (حدیث شریف میں واصلہ اور مستوصلہ دونوں پر لعنت کی گئی ہے)۔

وَالْبَيْتَةِ - دوبارہ آگ آیا ہوا کھیت - قوم کے نوجوان - گائے اور بکری کے بچے۔  
وَالْبَيْتَةِ - مصیبت - سختی - دانتوں کی بیماری پھیٹ کا درد۔

وَالْبَيْتَةِ - باپ -

وَالْبَيْتَةِ - ماں -

وَالْبَيْتَةِ - ماں باپ -

وَالْبَيْتَةِ - عشق اور محبت کے سبب بے چین اور دیوانہ۔

وَالْبَيْتَةِ - حاکم - نزدیک - حمایتی - گورنر - جہاں۔  
وَالْبَيْتَةِ -

وَالْبَيْتَةِ - یہ چیز کیا ہی خوبصورت ہے کسی عمدہ چیز کو دیکھ کر تعجب کے لئے بولتے ہیں افسوس کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔

وَالْبَيْتَةِ - سست عورت - پہلو (کر دٹ) کی چھوٹی بڑی - گردن کا مہرہ - بازو کی بڑی - گھوڑے کی پسلیاں۔

وَالْبَيْتَةِ - سست - بھٹی ہوئی چیز - کمزور ڈھیل ڈھالی شے۔

وَالْبَيْتَةِ - آدمیوں کا شمار اور گنتی و ہم - گمان (معنی) گمان کرنا - خیال کرنا اورہ کرنا۔

وَالْبَيْتَةِ - تیز چلنے والا گھوڑا گدھا وغیرہ۔

وَالْبَيْتَةِ - عام موت - طاعون - بیماری بخولہ کسی قسم کی - جہاں - آدابہ اور پختہ۔

وَالْبَيْتَةِ - چمکدار - چمکیلا - جگمگاتا ہوا چاند۔

وَالْبَيْتَةِ - کون پاشا نہ کا مقام۔

وَالْبَيْتَةِ - دانت جو منہ سے وقت کھل جائیں اور ظاہر ہو جائیں۔

وَالْبَيْتَةِ - صاف اور ظاہر چیز۔

وَالْبَيْتَةِ - (معنی) ملاقات کرنا - بھڑکنا اور غصہ ہونا - بھڑکانا - برا بھلا کرنا۔

وَالْبَيْتَةِ - نصیحت کرنے والا۔

وَالْبَيْتَةِ - چیخ و پکار - شور - زیادہ - رونے چلانے والی عورت۔

وَالْبَيْتَةِ (أَذْنٌ) - سننے اور توجہ کرنے والے کان وہ شخص جو کھانے یا شراب کی مجلس میں بے بلائے جا بیٹھے۔

وَالْبَيْتَةِ - آنے والا - سفیر اور ایچی بن کر آنے والا جہاں - وُقُودٌ - وَقْدٌ - آوقاد وُقْدٌ

وَالْبَيْتَةِ - دُنبہ کا سرین جب کہ وہ بڑھا ہو۔

وَالْبَيْتَةِ - کلیسا کا خادم۔

وَالْبَيْتَةِ - حفاظت کرنے اور نگاہ رکھنے والا - واقف - گرنے والا ہونے والا۔

وَالْبَيْتَةِ - سختی - مصیبت - سخت حادثہ - قیامت کا دن - بہادر آدمی۔

وَالْبَيْتَةِ - انڈوں پر بیٹھا ہوا پرندہ جہاں - دَآئِنَاتٌ وَّآلٌ - وُؤُؤُلٌ - وُؤُؤُؤُلٌ (معنی) زالی کسی کی حفاظت اور نیاہ میں جانا - رانی اور پھڑکارا - تلاش کرنا - مکان کی طرف دوڑنا۔



دَبَال - سختی - بوجھ - مصیبت - تکلیف  
 دَبْد - پہاڑ کی کھوہ - غار - پہاڑ کا گڑھا -  
 خراب حالت - زندگی کی سختی اور تکلیف  
 بچوں اور کنبہ وغیرہ کی کثرت اور مال  
 کی کمی - غصہ - جلن - عیب - کپڑے  
 کا پیرا تاپنا -

دَبَسر - اونٹ اور خرگوش وغیرہ کے بال -  
 ج :- آؤبَس - مص (س) بالوں  
 والا ہونا -

دَبَسر - بلی کی شکل کا ایک پھوٹا سا جانور -  
 ج :- دَبُوس - دَبَاس - دَبَارَة -  
 مص (حق) ٹھہرنا - سکونت کرنا -

دَبِط - (حق) مرتبے سے گرا دینا - زخم کو  
 کھول دینا -

دَبُط - دَبُوط - دَبَابَة - (حق) س (ك)  
 کم - در رائے والا ہونا تاکہ سمجھ ہو جانا -  
 دَبِخ - سر کی جھوس اور خشکی جو جھلانے کے  
 وقت چھڑتی ہے -

دَبَل - دَبُول - دَبَال - (ك) ناپسند ہونا  
 ناگوار ہونا - بھاری ہونا -

دَبِيل - بڑی بڑی بوندوں کا مینہ مص (حق)  
 ابر کا بڑے بڑے قطرہوں کا مینہ  
 برساتا - شکار کو خوب دوڑانا -  
 لالچی وغیرہ سے مارنا -

دَبِيلَة - بھاری پن - سختی - بد مصفی  
 دَبُوق - - دَبِيق (حق) س (ج) ہلاک اور  
 تباہ ہو جانا -

دَبِيَة - غفلت مندی - برادرگ نشی - مص  
 (ف) اول [جاننا -

دَبِیص - (حق) چکنا چکنا - جگنا -  
 دَبِیصَة - آگ -

دَبِیصل - سخت دشوار کام - بھاری اور بھرم  
 خشک - موٹی لکڑی - ملائم ہنسی - وہ  
 لکڑی جس سے ناقوس بجاتے ہیں -  
 گیلیا کیٹا کوٹنے کی موگری - ج :-  
 دَبِیصل

دَبِیصَة - وہ جگہ یا مقام جہاں ویا پھیلی ہوتی  
 ہو -

## و - ت

دَتَا - پیپ - خون - کچھو -

دَتَائِي - (ف) بڑھا پے یا نیکی اور بزرگی کے  
 سبب آہستہ آہستہ گرون  
 جھکائے ہوئے چلنا - نظریں جھکا کر  
 چلنا -

دَتَح - تھوڑی اور حقیر چیز - مص (حق) کم دینا  
 کم عطا کرنا -

دَتَد - کھوٹی خواہ دیوار میں گڑی ہوئی ہو  
 یا زمین میں - ج :- آؤتَد -

دَتَد - (حق) کھوٹا - کھوٹی - کیلی ٹھونکنا -  
 گالنا -

دَتَد - تنہا - کیلا - طاق (حفت کی ضد) کینہ  
 ظلم، عرذ کا دن - ظلم کی زیادتی -

دَتَد - مکان کا چلہ - ج :- آؤتَد  
 دَتَد - (حق) ظلم کرنا - مکان پر چلہ چڑھانا -

دَتَد - درناز پرھتا - ڈراتا - کسی کو اس کا  
 حق کم دینا -

دَتَدَة - بہترین اور عمدہ چیز - ناک کا پردہ -

وَتَّاجَة - (ک) گوشت کا زیادہ مہو جانا - بہت گوشت والا مہو جانا -

وَتَّادَة - چربی کی کثرت مص (ل) نرم ہو جانا - موٹا ہونا -

وَتَّاق - بند - بندھن - برطی -

وَتَّاقَة - (ک) سخت اور مضبوط ہونا -

وَتَّامَة - (ک) گوشت سے بھرا ہوا ہونا

وَتَّب - وُتَّوِب - وِتَّابَان - (حق) کودنا پھانڈنا -

وَتَّسُو - (حق) روندنا - نرم کرنا - جماع کرنا

وَتَّسُر - نرم بستر - نرم بچھونا -

وَتَّشَقِي - بہت مضبوط - مذہ - آؤتق

وَتَّشَل - چھواروں کے درخت کی پھال سے بنی ہوئی رسی - جہ - آؤتال -

وَتَّشَم - توڑنا - کوسنا - پتھر کا گھوڑے کے سسم کو خون آلودہ کر دینا - دوڑنا - جمع کرنا -

وَتَّشَن - بت - مورتی - جہ - آؤشان وُشَن

وَتَّشَقِي - بت پرست - ہندو (د)

وَتَّشِيكَة - وہ کپڑا جو عمدہ اور نفیس کپڑوں پر ڈال دیا جائے تاکہ گرد و غبار سے محفوظ رہیں - زین کا تندرہ - نرم پتھر بھاڑنے والے جانوروں کی کھال - موٹی تازی عورت - جہ -

وَتَّشَا سِر - وِتَّشَا س -

وَتَّشِيكَة - عمد نامہ (آپس) کا معاطہ اور اس کی شرطیں جو ایک کاغذ وغیرہ پر لکھ دی جاتی ہیں تاکہ مندریقین اس کے پابند رہیں (د) ٹھیکہ - جہ -

وَتَّشَا سِر - وِتَّشَا س -

وَتَّشَا سِر - وِتَّشَا س -

وَتَّشَا سِر - وِتَّشَا س -

وَتَّشَا سِر - وِتَّشَا س -

وَتَّشَا سِر - وِتَّشَا س -

وَتَّشَا سِر - وِتَّشَا س -

وَتَّشَا سِر - وِتَّشَا س -

وَتَّشَا سِر - وِتَّشَا س -

وَتَّشَا سِر - وِتَّشَا س -

وَتَّشَا سِر - وِتَّشَا س -

جو دونوں سوراخوں کے بیچ میں ہے

کان کے ادھری حصے کی ایک چھوٹی

بڑی - زبان کے نیچے کا پتھا - ناک

اور مونچھ کے درمیان کی جگہ -

سر دو انگلیوں کے درمیان یا

انگشت شہادت اور انگوٹھے

کے درمیان کی کھال کمان کا وہ حصہ

جہاں سے تیر نکلتا ہے - جہ -

وَتَّسُر - وِتَّسُرَات

وَتَّسُر - وِتَّسُرَات

وَتَّسُر - وِتَّسُرَات

وَتَّسُر - وِتَّسُرَات

وَتَّسُر - وِتَّسُرَات

وَتَّسُر - وِتَّسُرَات

وَتَّسُر - وِتَّسُرَات

وَتَّسُر - وِتَّسُرَات

وَتَّسُر - وِتَّسُرَات

وَتَّسُر - وِتَّسُرَات

وَتَّسُر - وِتَّسُرَات

وَتَّسُر - وِتَّسُرَات

وَتَّسُر - وِتَّسُرَات

وَتَّسُر - وِتَّسُرَات

وَتَّسُر - وِتَّسُرَات

وَتَّسُر - وِتَّسُرَات

وَتَّسُر - وِتَّسُرَات

وَتَّسُر - وِتَّسُرَات

وَتَّسُر - وِتَّسُرَات

وَتَّسُر - وِتَّسُرَات

وَتَّسُر - وِتَّسُرَات

وَتَّسُر - وِتَّسُرَات

## و - ت

وَتَّشَا - وِتَّشَا - (س) بڑی کو نقصان پہنچے

بغیر صدمہ پہنچنا (ہاتھ کا) بغیر بڑی

ٹوٹے معیوب ولے کار مہو جانا -

وَتَّشَاب - وِتَّشَاب - بچھوتا - منسرف - بیٹھنے

کی جگہ -

وَجَدَ - وَجْدَانٌ - دُجُودٌ - (ص) پانا  
حاصل کرنا۔

وَجْدَةٌ - وَجْدَةٌ - (ق) (ع) کسی پر غصہ کرنا  
خفا ہونا۔

وَجْدٌ - پہاڑ کا گڑھا جس میں پانی جمع ہو جائے  
حوض - ج - وَجْدَانٌ - وَجَادٌ

وَجْسٌ - پہاڑ کی کھوہ مص (ق) امن میں وا  
ٹپکانا۔

وَجَسٌ - (س) ڈرنا - خوف کھانا۔

وَجَسَةٌ - شکار کا گڑھا جو وحشی جانوروں کے  
شکار کے لئے بنایا جاتا ہے تاکہ

جب اس پر سے ہو کر گزرتا چاہیں  
گرجائیں - ج - آوَجَارٌ

وَجْنٌ - وَجَانَةٌ - وَجْوَزٌ - (ك) (ق) مختصر  
کلام کرنا۔

وَجَجٌ - رَجَجٌ - صدمہ - درد - ج - وَجَاعٌ  
آوَجَاعٌ مص (س) رنجیدہ اور

درد مند ہونا۔

وَجِجٌ - رنجیدہ اور درد مند آدمی - ج -  
وَجِجِيٌّ - وَجَاعِيٌّ

وَجِيْفٌ - وَجُوْفٌ - وَجِيْمٌ - (ص)  
تڑپنا اور بے آرام ہونا - گھوڑے

کا دوڑنا۔

وَجِلٌ - ڈرپوک آدمی - ج - وَجَالٌ - م -  
وَجَلَةٌ -

وَجَلٌ - (س) ڈرنا - خوف کھانا۔

وَجْسَمٌ - کمینہ اور ذلیل آدمی - جنگل کے  
راستوں کے نشانات ج -

دُجُومٌ - آوَجَامٌ مص (ق) پسند نہ کرنا

وَتَائِقٌ -

وَتَيْلٌ - چھوڑوں کے درخت کی چھال پرانی  
عمک درخت -

وَتِيْمَةٌ - سنگریزہ - کسری کھانا یا چارہ  
جمع کیا ہوا - ج - وَتَائِمٌ -

## و - ج

وَجَاءٌ - (ف) اٹھنا یا پھری سے مارنا - جماع  
کرنا - بوگ کے فوطوں کو پتھر سے

پکل کر خستی کرنا۔

وَجَابٌ - پانی کے ٹھہرنے کی جگہ۔

وَجَابٌ - نہایت بے وقوف اور ڈرپوک۔

وَجَاحٌ - پردہ - چمکتا ہوا پتھر - تھوڑا سا پانی  
وَجَاسٌ - بجو و بیغہ کا بھٹ - کھوہ - غار -

ج - آوَجَسَةٌ - وَجَسٌ -

وَجَاةٌ - اندازہ - مقدار بولنے میں - هَذَا  
وَجَاةٌ أَلْفٌ یہ لہدرا یک ہزار کے

ہے۔

وَجَاهَةٌ - عِزَّتٌ - ابرو - رُعبٌ مص (ك)  
عزت دار ہونا۔

وَجِبٌ - وَجِيْبٌ - وَجْبَانٌ (ص) دِل  
دھڑکن۔

وَجِبَةٌ - رات دن میں ایک بار کھانا - ایک دم  
گر پڑنا۔

وَجْدٌ - مالداری - پانی کے ٹھہرنے کی جگہ۔  
عشقی پریشانی ج - وَجَادٌ - مص

(ص) مالدار ہونا - رنجیدہ اور غمگین  
ہونا۔

وَجْدٌ - تو انگری - وسعت - مقدور۔

## و-ح

وَحْدًا - وَحْدًا حَةً - (حق) اکیلا ہونا۔  
 وَحَاةٌ - وَحُوْفَةٌ - (ک) اگھاس اور  
 بالوں کا گھٹنا اور زیادہ ہونا۔  
 وَحَاهُ - حاملہ عورتوں کی رعیت کسی کھانے  
 کی چیز کی طرف مع دس) چوپایہ کا  
 بوجھ لادنے کے وقت سرکش کرنا۔  
 وَحْدًا - اکیلا - تنہا (اس کا استعمال ضمیر کی  
 طرف اضافت کے ساتھ ہوتا ہے)۔  
 وَحِيدٌ - یگانہ - یکتا جس کا کوئی مثل اور شریک  
 ساتھی نہ ہو۔  
 وَحْدًا حَةً - یکتائی۔  
 وَحْصٌ - کینہ بغضہ حسد۔ دشمنی حل کی  
 تارکی۔  
 وَحْمَةٌ - پھینکی کی شکل کا ایک سرخ رنگ کا  
 زہر لیا کیڑا۔ کالی یا سرخ رنگ کی  
 پستہ قد عورت۔ پھوٹے ڈکاونٹ  
 مع دس) حق) دل میں کینہ اور  
 عداوت رکھنا  
 وَحْشٌ - جنگلی جانور۔ واہ۔ وَحْشِيٌّ - چہ۔  
 وَحْشٌ وَحْشَانٌ حَمَادٌ وَحْشِيٌّ  
 گو رز۔ بکد وَحْشٌ۔ دران اور اجڑا  
 ہوا شہر۔ مع دس) حق) دشمن کے خوف  
 سے کپڑے پھینک کر بھاگنا۔  
 وَحْشَةٌ - تنہائی پریشانی۔ گھبراہٹ۔ سوکھی  
 زمین مع دس) غم کرنا۔  
 وَحْشِيٌّ - جنگلی جانور کسی چیز کی دائیں بائیں جانب  
 وَحْصَةٌ - جازا۔

برا بگھٹنا۔ خوف یا سخت بغضہ کی وجہ  
 سے خاموش ہوجانا۔

وَجَبَّةٌ - تنگ۔ شرم بغیرت۔ عار۔  
 وَجْبٌ - (حق) دھوبی کا کپڑوں کو کوٹنا۔ (ب) [  
 دور چھینکنا۔ زمین میں کھوسا گاڑنا  
 وَجْنَاءٌ - موٹے جسم کی قوی اومٹی۔  
 وَجَنَةٌ - رخسار۔ (گال)۔ ج۔۔  
 وَجَنَاتٌ -  
 وَجُوبٌ - (حق) ثابت اور لازم ہونا۔ گر پڑنا  
 سورج کا چھپ جانا۔ آنکھ کا  
 گرہے میں گھس جانا۔ مرجانا۔  
 وَجُوبَةٌ - (ک) ڈرپوک اور بے وقوف ہوجانا  
 وَجُودٌ - ہستی۔  
 وَجُوسٌ - منہ میں ڈالنے کی دوا۔ ناپسند  
 بات۔  
 وَجْمٌ - (حق) غم اور غصہ کی وجہ سے سر بھکا  
 لینا۔ خاموش ہوجانا۔  
 وَجْهٌ - آدمی یا کسی اور چیز کا چہرہ۔ مقصد۔  
 ذات۔ نفس۔ سردار۔ رضامندی  
 طریقہ۔ وقت کی ابتداء ج۔۔ وَجْهٌ  
 آؤجہ مع دس) حق) کسی کے منہ پر  
 مارنا۔  
 وَجْهٌ التَّهَامِسُ - آغا ز روز۔  
 وَجْهَةٌ - قبلہ اور سمت جس کی طرف منہ  
 کیا جائے۔  
 وَجْهَةٌ التَّنْظَرِ - نقطہ نظر۔  
 وَجْبِيٌّ - وادی کا کنارہ۔ سخت زمین۔  
 وَجْيَةٌ - قوم کا سردار۔ آبرو اور عزت  
 والا ج۔۔ وَجْهَةٌ۔

شتر مرغ کا ایک خاص طریقہ پر چلنے۔  
 وَحْز - تھوڑی چیز بولا جاتا ہے۔ جَاوَا  
 وَحْزًا۔ وَحْزًا اُچھا چار چار آتے ہیں  
 (حق) نیزہ مارنا۔ طانا۔ سر کے تھوڑے  
 بالوں کا سفید ہو جانا۔ بالوں کا  
 کھڑکی ہو جانا۔

وَحْش - بے گار اور خراب چیز۔ بیچ اور کمینہ  
 آدمی۔ ج۔ اَوْحَاش  
 وَحْض - (حق) نیزہ سے معمولی زخم کرنا۔ بالوں کا  
 کچھ سیاہ کچھ سفید ہو جانا۔

وَحْط - (حق) سفید بالوں کا سیاہ بالوں  
 میں مل جانا۔ حلدی کرنا۔ اُچھٹا ہوا  
 ہلکا نیزہ مارنا۔ چلتے ہوئے جوئے کا  
 آواز کرنا۔

وَحْط - (حق) خطی کو اتنا ملنا کہ لعاب اُٹھ  
 آئے۔ بُرائی کے ساتھ کسی کا ذکر کرنا  
 پیٹھ پیچھے بُرا بھلا کرنا۔

وَحْص - بھاری۔ ناموافق۔ ج۔ اَوْحَام  
 وَحَام

وَخَاخ - ڈھیلے اور مرکز درجہ کا آدمی سست  
 نامرد۔ (جسے عورتوں کی خواہش نہ ہو)  
 ملائم چھوڑا رہ۔

وَخَوَّخَة - مرغ کی آواز۔ مرغ کی آواز  
 کی نقل۔

وَخَوْم - بھاری پتھر۔ ناموافق آدمی۔ وہ  
 زمین میں عمدہ گھاس نہ ہو۔

وَخَوَّج - قصد۔ ارادہ۔ (وَخَوَّجٌ مَعْنَى  
 کسی چیز کا ارادہ کرنا۔ درمیانی چال  
 چلنا۔ نہ آہستہ نہ تیز۔

وَخَفَا - کالے چمکیدے اور گھنے بال پر بندہ کا  
 بہت پروں والا بازو۔ تازہ  
 گھاس میں (حق) تریب آنا۔  
 جلدی کرنا۔

وَخَفَاء - وہ زمین جس میں سیاہ پتھر پائے  
 جائیں۔ ج۔ وَخَافِي

وَخَفَة - آواز۔ کال پتھر۔ ج۔ وَخَافِي  
 وَخَل - کیچڑ۔ پتلا گارا۔ ج۔ اَوْحَالَ اَوْحُول  
 وَخَم - حاملہ عورت کو کسی چیز کے کھانے کی

رغبت بخواہش۔ آرزو۔ پرتدے  
 کے بازو۔ اور پروں کی آواز۔  
 (ح - س) - خواہش کرنا۔ مص

وَخِي - آدمیوں کی آوازیں۔ بڑا سردار۔  
 پادشاہ۔

وَخِي - اشارہ خط و کتابت۔ پیغام۔ راز  
 کی بات۔ چھپی ہوئی بات۔ وہ چیز  
 جو کسی کے پاس بھیجی جائے۔ ج۔

وَخِي - مص (حق) دل میں ڈال دینا۔  
 زالی (بھیجنے والی) اشارہ کرنا۔

وَخِيْد - یگانہ۔ اکیلا۔ تنہا۔ وَخِيْدٌ اَلْعَصْرُ  
 اپنے زمانہ کا بے مثل اور بے نظیر  
 آدمی۔

## و-خ

وَخ - رنج۔ قصد۔  
 وَخَامَة - وَخَوَّجَة رِك (ناگوار اور ناپسند

ہونا۔  
 وَخَد - وَخَدَان - اونٹ کی ایک

خاص چال میں (حق) اونٹ اور

وَدَقٌ - بارش - آنکھ کی ایک بیماری مص  
(ص) برسنا - ٹپکنا (ب) مانوس  
ہونا (ا) [ نزدیک ہونا - پیٹ کا  
بڑا ہونا - سورا کا تیز ہونا -  
وَدَلٌ - گوشت کی چکنائی - چربی مص  
(س) چکنا ہونا - چربی دار ہونا -  
وَدَّكَاءُ - ریت کا تودہ (دھیر) ایک جگہ کا تام  
وَدْنٌ - وَاَدْنٌ (ص) کسی چیز کو گھسیا اور  
ترکھنا - کسی چیز کو مختصر کرنا (ب)  
کسی چیز سے مارنا -  
وَدْنٌ - (س) عورت کا بوا اور کمرہ در بچہ  
جننا -

وَدُوْدٌ - دوست - بہت محبت کرنے والا  
الشد جل شانہ، کا نام نامی -  
وَدِيٌّ - وہ پیپ دار پانی جو پیشاب کے  
بعد نکلے -  
وَدِيحٌ - تن آسان - محنت نہ کرنے والا -  
آرام کا عادی - عہد و پیمان - جہ -  
وَدِيحٌ - امانت - امانت رکھی ہوئی چیز - جہ -  
وَدِيحٌ -  
وَدِيكٌ - مرنی تازی چوہی سے بھری ہوئی  
مرغی -

## وَدِيحٌ

وَدِيحٌ - نامناسب - غلط اور بُری بات  
بڑا کلام مص (ف) عیب  
لگانا -  
وَدِيحَةٌ - مرض - بیماری - صحت کی

وَحِيفَةٌ - خطمی کا لُباب - جہ - وَخَالِفٌ

## وَدَّ

وَدَّ - وَدَّ - وَدَّ - سچا دوست بچی محبت  
کرنے والا - جہ - اَوَدَّاءُ - اَوَدَّادٌ -  
وَدِيْبِيْدٌ -  
وَدَّ - وَدَّادٌ - وَدَّادَةٌ - (س) آرزو کا  
پورا ہونا - آرزو کرنا - دوست رکھنا -  
وَدَّ - قوم نوح کے ایک بت کا نام -  
وَدَّوٌ - مَوَدَّةٌ - (س) دوست رکھنا محبت  
کرنا -

وَدَّءٌ - (ف) برابری کرنا - بُرائی میں لپیٹ  
لینا کسی کو بُرائی میں گھیر لینا گھورے  
کا اپنے ذکر کو پیشاب کرنے یا جفتی  
کے لئے نکالنا -

وَدَّاءٌ - ہلاک - ہلاکت -  
وَدَّاعٌ - رخصت - جڑائی -  
وَدَّاعَةٌ - جسم کا آرام - زندگی کا عیش و راحت  
مص (ک) سفر کو جانا خوش حال ہونا  
وَدَّجٌ - گردن کی رگ - سبب - وسیلہ -  
وَدَّجَانٌ - ڈوبائی -  
وَدَّشٌ - تباہی - فساد -  
وَدَّصٌ - (ص) (ا) کسی سے گفتگو شروع  
کرنا اور ختم نہ کرنا -

وَدَّعٌ - قبر - قبر کا چوترا یا احاطہ مص (ف)  
چھوڑنا - جڈا کرنا - رخصت کرنا -

وَدَّعَةٌ - کوڑی یا سپی - جہ - وَدَّعَاتٌ  
وَدَّفٌ - (ص) گھلنا - پکنا - کم کرنا -

وَدَّعَةٌ - وَدِّيْفَةٌ - سرسبز و شاداب باغ

ہونا۔ برائیوں سے بچنا۔  
 وَسْمَاقٌ - بہت درہم دیتا رہا آدمی۔  
 کاسنڈکاٹھنے والا۔ ورق بنانے  
 والا۔ کھینچنے والا۔ (د) کاغذ  
 فروش۔  
 وَسْمَاكٌ - کاسٹھی کے آگے چھوٹا سا تکیہ۔ کاسٹھی  
 کی وہ جگہ جہاں اوتھ کا سوراخ اپنے  
 پاؤں مہارنے کے لئے ٹیک کر  
 رکھتا ہے۔ جہ۔ وَسْمَاكٌ -  
 وَسْمَابٌ - (س) خراب اور قاسد ہونا۔  
 وَسْمَابٌ - جنگلی چوپایوں کا گلہ۔ کچھو۔ چوہے  
 وغیرہ کے سوراخ کا منہ۔ کون (پانچا  
 کا سوراخ)۔ جہ۔  
 اَوْسَابٌ -  
 وَسْمَابَةٌ - چھوٹا عامر (د)  
 وَسْمَادٌ - وظیفہ پر نروں کا غول۔ پانی جس پر  
 لوگ آتے ہیں۔ فوج کا ایک دستہ  
 معارض (ض) پانی پر آنا۔ نوبت کے  
 ساتھ نجا آنا۔  
 وَسْمَادٌ - گلاب کا پھول وا۔ وَدَّارَةٌ -  
 زعفران۔ شیر۔ بہادر آدمی۔ جہ۔  
 اَوْسَادٌ - وَدَّارٌ - وَسْمَادٌ -  
 وَسْمَادٌ - زردی مائل۔ سرخ رنگ کا گھوڑا۔  
 جہ۔ وَسْمَادٌ -  
 وَسْمَادَةٌ - گلابی۔ بہت سرخ۔  
 وَسْمَاسٌ - ایک گھاس ہے جو رنگنے کے کام میں  
 آتی ہے۔  
 وَسْمَاسٌ - (س) پتھر پر کائی جم جانا۔ اس قدر کہ وہ  
 پتھر سبز اور پھسلواں ہو جائے۔

خرابی۔ عیب۔  
 وَدَّارَةٌ - درزی کی کتر میں۔ کپڑوں کی کاٹ چھٹ  
 سے بچی ہوئی دھجیاں۔  
 وَدَّاسٌ - (ض) پٹے وغیرہ کو کاٹنا۔ تراشنا  
 زخم کو نشتر سے چرنا۔  
 وَدَّارَةٌ - گوشت کی گول ہوتی۔ گوشت کا ٹکڑا  
 وَدَّالَةٌ - شادمان اور خوش عورت چالاک  
 اور پریشیا رنور۔  
 وَدَّمَ - زیادتی۔ مستہ۔ ڈول کے کنارہ کے  
 تسمے۔  
 وَدَّمَہ - انرطی۔ جہ۔ وَدَّمَہ  
 وَدَّيَّةٌ - درد۔ بیماری۔ تھوڑا پانی عیب۔  
 وَدَّيْلَةٌ - آئینہ۔ چاندی کا ٹکڑا۔ جہ۔ وَدَّيْلٌ  
 وَدَّائِلٌ -  
 وَدَّيْمَةٌ - نذر کا مال۔ خانہ کعبہ کا سقف۔ جہ۔  
 وَدَّائِمٌ -

## وَسْمِ

وَسْمِءٌ - (ف) دور کرتا (مِنَ الطَّعَامِ)  
 پیٹ بھر کر کھالینا۔  
 وَسْمَاءٌ - پیچھے۔ جیسے مِّنْ وَسْمَاءِ حِجَابِ  
 ریدہ کے پیچھے سے، آگے مثلاً۔  
 كَانَتْ وَسْمَاءُ عِنْدَهُمْ مَيْكَاةً دَانَ كَ آگے  
 ایک بادشاہ تھا پوتا۔  
 وَسْمَاطٌ - دھو کر دینا۔ مکر فریب کرنا۔  
 وَسْمَاعَةٌ - وَسْمُوعٌ - وَسْمَاعَةٌ (ف۔ ك)  
 ڈرپوک اور بزدل بن جانا۔  
 وَسْمَاعَةٌ - وَسْمُوعٌ - وَسْمَاعَةٌ (ح۔ س)  
 ك - (ف) پرہیزگار و نیک

وَسْمَانٌ ران کے اوپر کا حصّہ ہے۔ اَوْرَاك  
وَسْمَالٌ - گوہ کی شکل کا ایک چھوٹا سا ہانہ  
جہ :- وِرْدَانٌ - اَوْرَالٌ - اَزْوَالٌ -  
وَسْمَانٌ - سوجن - جہ :- اَوْسَانٌ - مَرْمَعٌ (ج)  
سُوجٌ جاتا۔

وَسْمَانٌ - (حق) آنا - اُتْرْنَا (د) ام - درآمد  
اسھیانے تجارت  
وَسْمَانٌ - گھوڑے کو دیکھنا جلدی بولنا ۔  
وَسْمَانٌ - (حق) بڑے کاموں میں پڑا رہنا۔  
لاپٹی ہونا۔

وَسْمَانٌ - (حق) کسی جگہ رہنا۔ (عربی)  
کسی کام پر قادر ہونا۔ سرین زمین  
پر رکھنا۔ چت لیٹنا۔

وَسْمَانٌ - (س) بے وقوفی کرنا خوب ہوا چلنا  
وَسْمَانٌ - مخلوقات - پیدا کی ہوئی چیزیں۔  
دُنیا۔ جہان۔

وَسْمَانٌ - پیٹ کا زخم (حق) پھیرنے  
پر مارنا۔ آگ کا بھڑکنا۔ حقیقاً  
سے آگ نکلنا (ج) گوردے کا ہڈی  
میں جمع ہونا۔

وَسْمَانٌ - چیتھڑا۔ کپڑے کا ٹکڑا۔ کولہ وغیرہ  
جس سے آگ سلگائی جائے۔

وَسْمَانٌ - گردن کی رگ۔ شررگ۔ جہ :-  
اَوْسَانٌ -

وَسْمَانٌ - (ثوب) وِسْمَانِیْسٌ - درس سے رنگا ہوا کپڑا

## و - س

وَسْمَانٌ - پانی پرندہ۔ بط۔  
وَسْمَانٌ - (ف) گوشت کو خشک کرنا۔ قوم

وَسْمَانَةٌ - کارخانہ (د)  
وَسْمَانٌ - (حق) پتلا پاخانہ پھرنا۔ ایک بارگی۔  
انڈا دینا۔

وَسْمَانَةٌ - گڑھا۔ ہلاکت کی جگہ۔ سپاٹ  
زمین جس میں راستہ اور نشانات  
دیکھ نہ ہوں۔ ہلاکی جھلسن (د) کچھڑ  
کی جگہ۔ مشکل۔ مصیبت۔ جہ :-  
وَسْمَانٌ - وَسْمَانٌ - وَسْمَانٌ -

وَسْمَاعٌ - پر ہیر گاری۔ ڈرپوک آدمی۔ جہ :-  
اَوْسَاعٌ

وَسْمَانٌ - جگر کے اطراف کا وہ حصّہ جو باریک  
اور پتلا ہو۔

وَسْمَانٌ - وِسْمَانِیْقٌ (حق) بھیلا ہوا، اور چڑھا  
ہونا۔

وَسْمَانٌ - کانا ہوا کاغذ۔ درخت پتہ۔ خون  
کی بوند۔ وا۔ وِسْمَانَةٌ - سکہ

لگائی ہوئی چاندی۔ درہم، دینار (د)  
نوٹ۔ جہ :- اَوْسَانٌ - وِسْمَانِیْقٌ

وَسْمَانٌ - درہم۔ دویہ وغیرہ۔ جہ :- اَوْرَانٌ - اِسْمَانٌ  
وَسْمَانٌ اَلْبُیْضُ سَطَةٌ - کارڈ ٹیکٹ (د)

وَسْمَانٌ بَحْوِیْلٌ - بنک کا چیک (د)  
وَسْمَانٌ اَلْمَسْکَا تِیْبٌ - لیٹر پیپر (د)

وَسْمَانٌ - مادہ پھیڑا۔ کبوتر۔ فناختہ۔ جہ :-  
وَسْمَانِیْقٌ -

وَسْمَانٌ - کینہ اور ذلیل عورت۔ بہت پتوں  
والا درخت۔

وَسْمَانَةٌ - بیج اور کینہ آدمی۔ شریف اور بزرگ  
آدمی (مضد) ایک پتہ۔

وَسْمَانَةٌ اَلزَّیْطَا سَمَةٌ - ملاقاتی کارڈ (د)



وَسَائِرُ - ٹھکنے قدر کا مضبوط آدمی۔ قوی  
گدھا۔  
وَسَائِرُ - بادشاہ کا خاص مصاحب مشورہ  
دینے والا۔ اور سلطنت کے  
کاموں کا انتظام کرنے والا۔ ج  
اَوْتَمَارُ - دُتَمَارِی -  
وَزْنِیْمُ - ساگ کا مٹھا۔ بچا ہوا شور بہ بوٹا  
آدمی۔ خشک گوشت۔  
وَزْنِیْمَةُ - خشک گوشت۔ ساگ کا مٹھا  
وَسَادٌ - مکھی بیکھیر کی جگہ۔ دُسَادٌ - وَسَائِدٌ  
وَسَاعَةٌ - (ک) کشادہ ہونا۔ گنجائش والا  
ہونا۔ وسیع ہونا۔  
وَسَاهٌ - تمغہ سلطنت۔ فرمان سلطنت۔  
وَسَامَةٌ - خوبصورتی۔ زیبائی (مص) (ک)  
خوب صورت ہونا۔  
وَسْبٌ - گھنی گھاس۔  
وَسَخٌ - میل پھیل (مص) (س) میلا ہونا۔  
وَسَطٌ - بیچوں بیچ۔ درمیانی۔  
وَسْطٌ - بیچ۔ میاتہ (ظرف)۔ اگر کسی چیز  
کے مختلف علیحدہ علیحدہ جز ہوں تو  
لفظ وسط لائیں گے جیسے جَسْتِ  
وَسَطُ الْقَوْمِ میں قوم کے بیچ میں  
بیٹھا۔ اور اگر اس چیز کے مختلف  
جز ہوں تو پھر وَسَطٌ لائیں گے  
جیسے جَسْتِ وَسَطُ الدَّادِ میں  
گھر کے بیچ میں بیٹھا (مص)۔  
درمیان میں ہونا۔ درمیان  
میں بیٹھنا۔  
وَسْطِیٌّ - بیچ کی انگلی۔ الصَّلَاةُ الوَسْطِیَّةُ

کو ترتر کر دینا۔ جدائی کرنا۔ علیحدہ  
کرنا۔ چھوٹ ڈالنا۔  
وَسَائِرُ - وزیر کی عمدہ کا نام (د)  
کینٹ۔ مجلس وزراء۔  
وَسَائِرُ النِّصَابِ - وزارت انصاف (د)  
وَسَائِرُ الخَارِجِیَّةِ - فارن آفس (د)  
وَسَائِرُ الدَّاخِلِیَّةِ - ہوم آفس (د)  
وَسَائِرُ التِّیَّارِیِّاتِ - وزارت جنگ (د)  
وَسَائِرُ المعَارِیِفِ - وزارت تعلیم (د)  
وَسَائِرُ المُوَاصِلَاتِ - وزارت رسل  
رسائل۔  
وَسَائِرُ - ہم وزن برابر  
یہ اس کے برابر ہے۔  
وَسَائِرَةُ - (ک) بھاری ہونا۔ عقل مند ہونا۔  
دزنی رائے والا ہونا۔  
وَسَائِرُ - گناہ۔ بوجھ۔ کپڑے۔ ہتھیار وغیرہ  
بھاری گھڑی۔ جم۔ اَوْدَاسٌ (مص) (حق)  
پیٹھ پر بوجھ اٹھانا۔ گناہوں میں  
پھنسنا۔  
وَسَائِرُ - قلعہ۔ اونچا پہاڑ۔ پناہ کی جگہ۔  
وَسَائِرُ - کپکپی۔ پیار آدمی۔ ذیل و خوار  
آدمی۔  
وَسَائِرَةُ - گرگٹ۔ جم۔ وَسَائِرُ - اَوْدَاعٌ  
وَسَائِرُ - اَوْدَاعٌ - وَسَائِرُ  
وَسَائِرَةُ - (حق) مال میں تھوڑا سا نقصان پہنچنا۔  
وَسَائِرُ - تولی۔ اندازہ جم۔ اَوْتَمَانٌ  
ایک ستارہ (مص) (حق) تولنا۔  
اندازہ کرنا۔ شعر کو موزوں کرنا۔  
وَسَائِرُ - (حق) پانی کا بہنا۔

فجر یا ظہر یا عصر یا مغرب یا عشاء  
کی نماز۔ اس کے علاوہ بھی متعدد قول  
ہیں۔ غالباً زیادہ صحیح یہ ہے کہ اس  
سے عصر کی نماز مراد ہے۔  
وَسُحٌ - فرائضی (تنگ کی مند) مال داری۔  
طاقت۔ قبضہ۔  
وَسُقٌ - اونٹ کا بوجھ۔ ساتھ صاع۔ (ایک  
پیمانہ)۔ ج۔۔ وُسُوْقٌ - آوَسُقٌ  
مص (حق) جمع کرنا۔ لادھنا۔ لگانا۔  
وَسْمٌ - نشان۔ داغ۔ ج۔۔ وُسُوْمٌ - مص  
(حق) نشان لگانا۔ داغ دینا۔  
وَسْمَةٌ - ایک گھاس جس کے پتوں سے سرادر  
ڈاڑھی پر خضاب کرتے ہیں۔  
وَسَنٌ - حاجت۔ ضرورت۔ بھاری پن۔  
نیند۔ اُونُکھ۔ ج۔۔ آوَسَانٌ  
وَسَنٌ - بستہ۔ تیند۔ اُونُکھ۔ غفلت۔  
موسا، سونا۔

## و - ش

وَشِيٌّ (حق) مختلف رنگوں سے کپڑے پر  
نقش و نگار بنانا۔ بات پر بھڑک  
کارنگ چڑھانا (ب) کسی کی جھیل  
کھانا۔  
وَشَاحٌ - موتیوں وغیرہ کا ہار۔ ج۔۔ وَشَاحٌ  
آوَشِحَةٌ - وَشَاحٌ -  
وَشُجٌ - (حق) درخت کی شاخوں کا آپس میں  
لپٹا ہوا اور گھنا ہونا (رشتہ داری  
کا) شاخ در شاخ ہونا۔  
وَشْتَرٌ - (حق) آرے سے لکڑی چیرنا۔ دانوں  
کو تیر کرنا۔  
وَشْطٌ - (حق) بڑی کوتاہی لگانا۔ کھلاڑی کے  
دستے میں پچھ لگانا تاکہ وہ تنگ  
اور مضبوط ہو جائے۔  
وَشْجٌ - ساگ کی کوئیل مص (ق) پہاڑ پر  
چڑھنا۔  
وَشْشٌ - (حق) پارچے کے گوشت کو خشک  
کرنا۔ حبلی کرنا (ب) نیزہ  
مارنا۔  
وَشْكَ - شتانی۔ جلدی مص (ك) جلدی  
کرنا۔ جلد ہونا۔

وَسُوَاسٌ - برانڈیشہ۔ بڑا سوچ بچار۔ بڑا خیال  
جو دل میں گزے۔ زیور کی جھنکار  
ہو اکی وجہ سے درختوں کے بھوننے  
کی آواز۔  
وَسُوَسَةٌ - دل میں کسی بڑے خیال کا لگانا  
وَسُوَسٌ ڈالنا۔  
وَسِيْلٌ - اونٹ کی ایک خاص چال مص (حق)  
(اونٹ کا تیز چال چلنا۔  
وَسِيْطٌ - بیخ۔ جو بھڑا کرنے والوں کے بیخ میں  
پڑا ہوا ہو۔ جو شخص نسب میں اچھا  
اور قدر و منزلت میں سب  
سے اونچا ہو۔

وَسِيق - خشک کیا ہو اگر شت۔

## وَص

وَص - (ن) کام کو پختگی اور مضبوطی کے ساتھ کرنا۔

وَصَاة - وعظ - نصیحت - پند۔

وَصَاف - وصف پہچاننے والا - وصف بیان کرنے والا۔

وَصَال - باہم ملنا - بے غرض دوستی کرنا۔

وَصَايَة - نصیحت۔

وَصَايَة - ولایت - سرپرستی (د)۔

وَصَب - بیماری - ج - آوَصَاب مَص (ن) بیمار ہونا۔

وَصَح - ایک چھوٹی چڑیا (مولا ج - وَصَعَان مَص (ن) اڈھانک لیتا گھر لینا۔

وَصَف - بیان - صفت - ج - آوَصَاف مَص (ن) کسی کی صفت بیان کرنا اور تعریف کرنا۔

وَصَفَة - نسخہ (د)۔

وَصَل - پیوند - بدن کا جوڑ (د) رسید - ج -

أَوْصَال مَص (ن) ملنا - ملانا۔ دوستی کو خالص کرنا - کپڑے میں پیوند لگانا۔

وَصَم - کدھڑی کی چیٹن - کدھڑی کی گرہ (گانٹھ) - ننگ - شرم - عیب - ج - وَصُوم۔

مَعْن مَص (ن) جلدی باندھنا - جبرائیل کے بغیر کدھڑی کو چھڑانا - عیب لگانا۔

وَصَوَاص - پودہ کا سوراخ جس میں سے جھانکا جاسکے - بڑھوئی آنکھ - ج -

وَسَل - تھوڑا پانی جو پتھر یا پھاڑ سے رے تھوڑا یا زیادہ آسوج - آوَسَال بے بہت و جلال۔

وَسَلَان - وَسَل (ن) ہنسا - پکنا - سست ہو جانا - فقیر اور محتاج ہو جانا (انی) کسی کے سامنے رونا - اور فریاد کرنا۔

وَسْتَم - نقش - پھول وغیرہ جو جسم پر سوئی گود کر اور نل بھر کر بنائے جاتے ہیں - ج -

وَسْتُوم - وَسْتَام - مَص (ن) کھال گود کرنا کھال کو سوئی سے گود کر اس میں رنگ بھرنے۔

وَسْوَسَة - کدھڑی بات - ہلکاپن۔

وَسْوُول - بہت دودھ دینے والی ادھنی - ج - وَسْوُول - دولت اور مالدار کی کمی۔

وَسْوِي - ایک قسم کا کپڑا اچھینٹ - ج - وَسْوَاء مَص (ن) کپڑے کو چھپانا - اُس پر پھول پتی بنانا - بات پر بھروسہ کا رنگ چڑھانا [ب] کسی کی چغسلی کھانا۔

وَسْوِيَة - درخت کی جڑ اور ریشہ - ج - وَسْوِيَة - وَسْوِيَة - وَسْوِيَة - جھوٹی چھوٹی ٹہنیاں - بوریا ٹاٹ وغیرہ جسے بارش سے بچاؤ کے لئے دیواروں اور چھت پر ڈال دیتے ہیں یا پودہ بناتے ہیں۔

وَسْوِيَة - غبار کا راستہ - کپڑا اپنے والوں کی وہ چوٹی جس پر سوت لپیٹا جاتا ہے - ج - وَسْوِيَة - وَسْوِيَة

وَصُوبٌ - (ض) ثابت ہو جانا۔ کوئی کام برابر کرتے رہنا۔

وَصُولٌ - وَصْلَةٌ - (ض) پہنچنا۔  
وَصِيٌّ - نصیحت کرنے والا۔ جس کو نصیحت کی گئی ہو۔ ج۔: - اَوْصِيَاءُ

وَضِيٌّ - (ض) عزت کے بعد ذلیل ہونا۔ ہلکا ہونے کے بعد بھاری ہونا۔ قریب ہونا۔

وَضِيٌّ - وَصِيٌّ - وَصَاعَةٌ - (ض) گھاس کا بھج اور ملا ہوا اُگنا۔

وَصِيَّةٌ - نصیحت۔ وہ چیز جس کی نصیحت کی جائے۔ ج۔: - وَصِيٌّ - وَصَايَا

وَصِيْبٌ - گھر کے سامنے کی جگہ چوکھٹ۔ آستان۔  
وَصِيْفٌ - نوکر۔ چاکر۔ غلام۔ لوندی۔ وہ لوگ جو نابالغ ہو۔ ج۔: - وَصْفَاءُ

وَصِيْلَةٌ - عمارت۔ ایک ساتھ سفر کرنے والا گروہ۔ تلوار۔ ارزانی۔ پیداوار۔

وَصْرَاحِيٌّ - تانگی۔ تاکے کا گولا (پتیک) پورا میدان۔ ایک دھاری دار مٹی کی پٹا

وہ اذنتی جس کو مشرکین عرب دو مادہ بچے جینے کے بعد توں کے نام پر

چھوڑ دیتے تھے۔ ج۔: - وَصَائِلٌ -

وَضِيْعَةٌ - (ض) پریشانی اور بے چینی میں (ض) پریشان و بے چین ہونا۔

وَصَاعَةٌ - چہرے کی صفائی اور خوبصورتی میں (ض) خوبصورت ہونا۔

وَصَاحٌ - صاف اور ظاہر چیز۔ گورا پٹھا آدمی

وَضِيْعَةٌ - کھاری اور بد مزہ گھاس عشر۔ خراج ٹیکس جو پادشاہ رعایا سے وصول کرتے

وَضِيْعَةٌ - (ض) پریشانی اور بے چینی میں (ض) پریشان و بے چین ہونا۔

ون۔

وَصَاعَةٌ - (ض) اذیل ہونا۔ کم مرتبہ ہونا درجے سے گرتا۔

وَضْحٌ - روشنی۔ چاند کی سفیدی گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی اور اس کے

ہاتھ پاؤں کی سفیدی، بوڑھا پاپا۔ دودھ راستہ کا بیج۔ چاندی کا زیور۔ ج۔: -

اَوْصَاحٌ - میل کچیل۔ چکنائی۔ پیالہ کا دھوون۔

وَضْرٌ - سڑے ہوئے کھانے کی بدبو۔ زعفران کا ملاؤ میں (س) میلا ہونا۔ گندہ ہونا

چکنا ہونا۔  
وَضْحٌ - (ض) رکھنا۔ کسی جگہ پر رکھنا۔ عاجزی اختیار کرنا۔ اڑٹ کا تبر۔ چلنا۔ بچ جینا۔

وعن منق قرض دار کے قرض میں سے کچھ معاف کر دینا۔ کسی کو اس کے

مرتبے سے گرا دینا۔  
وَضْمٌ - (ض) گروشت کو تخت یا بورلیے پر رکھنا۔ تاکہ خراب نہ ہو۔

وَضْمٌ - قصائی کا تخت یا بوریا جس پر گروشت کو کاٹا جائے۔ ج۔: - اَوْصَامٌ

وَضْنٌ - (ض) بننا۔ بیٹنا۔ ڈھرا کرنا۔ تکرنا۔  
وَضْنُوٌّ - (ض) وضو کرنا۔ ہاتھ دھونا اور کھلی

کرنا۔ صاف ہونا اور حسین ہونا۔  
وَضْنُوٌّ - وضو کرنے کا پانی۔

وَضِيْعٌ - امانت رکھا ہوا سامان۔ کعبہ آدمی ج۔: - وَضْعَاءُ

وَضِيْعَةٌ - کھاری اور بد مزہ گھاس عشر۔ خراج ٹیکس جو پادشاہ رعایا سے وصول کرتے

وَضِيْعَةٌ - (ض) پریشانی اور بے چینی میں (ض) پریشان و بے چین ہونا۔

وَضِيْعَةٌ - (ض) پریشانی اور بے چینی میں (ض) پریشان و بے چین ہونا۔

وَطَن - آدمیوں کے رہنے کی جگہ۔ بکریوں اور گایوں کے بندھے رہنے کی جگہ۔

جہ:- آوطان

وَطَن - (ض) ٹھہرنا۔ رہنا۔ سہنا۔

وَطَنِيں - تنور۔ بھیٹی۔ جنگ۔

وَطِيٌّ - کوٹا ہوا پاؤں کے نیچے کچلا ہوا۔ روندنا ہوا

و-ط

(عِلْمٌ) وَطَائِفُ الْأَعْمَاءِ - فریالوجی (د)

وَطَب - (ن) پامال کرنا۔ کچنا۔ پاؤں کے نیچے روندنا۔

وَطِر - (س) موٹا ہونا۔ پرگوشت ہونا۔

وَطَف - (اونٹ کی) بندش کم کرنا۔ پیروی کرنا

وَطْمَةٌ - تھمت۔

وَطُوب - (ض) پابندی کرنا۔ کسی کام کو ہمیشہ

کرنا۔

وَطِيفٌ - گھوڑے۔ اونٹ وغیرہ کی ٹانگوں کا

پتلا پن۔ جہ:- آوطِيفَةٌ - وُطِف - ایک دوسرے کے پچھے آنے والے

اونٹ بولا جاتا ہے۔ جَاءَ الْأَنْبُلُ عَلَى وَطِيفٍ - اونٹ ایک دوسرے

کے پچھے آئے۔

وَطِيفَةٌ - کھانے پینے۔ خدمت۔ کام۔ عبادت

وغیرہ کا روزانہ کا معین حصہ یعنی وہ

چیز جو روزانہ کی جائے بشرط عہد (د)

تخواہ جہ:- وَطَائِفٌ - وَطَف

و-ع

وَغٌ - گیدڑ گیدڑ کی آواز کی نقل۔ بچے

سے۔ مٹے بولا بیٹا۔ وہ کتاب جس میں حکمت کی باتیں لکھی ہوں۔ جہ:- وَصَلَجٌ - وَصِيْنٌ - دُوتہ کی ہوتی چیز۔ نوار۔ ہودہ کا تسہ

زنگ جہ:- وَصِنٌ -

د-ط

وَطَاءٌ - اونچی زمینوں کے بیچ میں نیچی زمینوں کا

ٹکڑا حص (س) پاؤں کے نیچے ملنا

کچنا (ف) تیار کرنا۔

وَطَاءَةٌ - (ث) پامال ہونا۔

وَطَبٌ - دودھ کی مشک جہ:- آوطَبٌ -

وَطَابٌ - آوطَابٌ -

وَطْحٌ - پلیدی جانوروں کی سیٹھ۔ جانوروں کے پیروں پر لگی ہوئی مٹی (ض) رگڑ

کرنا۔ پستوں کی پلیدی کو صاف

کرنا۔

وَطْدٌ - (ض) ٹھیک کرنا۔ مضبوط کرنا۔ گھیر لینا۔ زمین کو ٹٹنا تاکہ سخت ہو جائے

اپنی جگہ کھڑا رہنا۔ چلنا۔

وَطْرٌ - حاجت۔ ضرورت۔ مطلب۔ جہ:-

آوطَارٌ

وَطْسٌ - (ض) بہت زیادہ مارنا۔ توڑنا۔

وَطَفٌ - (س) لائبنی لائبنی پلکوں اور گھنی بھوڑوں والا ہونا۔ میز برستا۔

وَطَابَةٌ - وَطَقَاءٌ - وہ بادل جس نے اپنے

دامن لٹکا دیے ہوں۔ یعنی برابر رہنے

والا بادل۔

وَطْمٌ - (ض) پاؤں سے کچنا۔ پردہ لٹکا

رہنا۔

کے رونے کی آواز

وَعَاء برتن۔ جہ۔ اَوْعِيَّة۔ اَوْعَاء۔

وَعَارَةٌ - وَغَوَّامَةٌ - (ک) سخت ہونا۔

(کسی جگہ کا) کم ہو جانا۔ گھٹ جانا۔

وَعَيْبٌ - چوڑا راستہ۔ جہ۔ وَغَابٌ (م) (م) کوئی چیز پوری پوری لے لینا۔

وَعَثٌ - مائٹ اور نرم جگہ۔ جہاں پاؤں دھنس

جائے۔ دشوار راستہ جس میں چلنا

مشکل ہو۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی۔ بھاری بوجھ

مکروری (م) (ک) راستہ کا

کٹھن راستہ۔

وَعْتٌ - (س) ہاتھ ٹوٹ جانا۔

وَعْدٌ - (م) وعدہ کرنا۔

وَعْسٌ - مشکل۔ دشوار۔ نامہوار جگہ۔ دشوار

مقام (سہل کی ضد) جہ۔ اَوْعَسٌ -

اَوْعَسٌ - وُعُوسٌ - وَعَسٌ الْمَعْسُ وَت

کم بخشش اور احسان کرنے والا

آدمی۔

وَعَسٌ - (س) حسد کینہ اور دشمنی سے بھرا ہوا

ہونا۔

وَعَسٌ وَغَوَّامَةٌ - وَعَارَةٌ - وُعُوسٌ -

(ک) (م) راستہ یا جگہ کا کٹھن

اور مشکل ہو جانا۔

وَعَسٌ - ایک درخت جس کی لکڑی سے سارنگی

اور رُباب (ایک قسم کا پاجا) بنائے

جاتے ہیں۔ نشان۔ نرم ریت کہ

اس میں چپنا دشوار ہوتا ہے۔

وَعَظٌ - (م) دل کو موم کرنے اور پگھلا دینے

والی باتوں سے نصیحت کرنا۔

سمجھانا۔

وَعُقٌ - بڑی عادت اور خصلت کا آدمی۔

تینگ دل آدمی (م) گھوڑے

کے چلنے کی حالت میں پیٹ کے

اندھے سے قراقری آواز سنائی دینا۔

وَعَقَّةٌ - بد خوئی۔ بڑی عادت والا آدمی۔

وَعَثٌ - گرمی کی زیادتی۔ بھاری تیزی۔ بھاری

کا درد اور تھکن (م) بیماری

کا عملیوں اور بچیدہ کرنا۔ ہوا کا رکنا

(بھاری) جسم میں اثر پیدا کرنا۔

وَعَلَّةٌ - لڑائی کا میدان اور شور کی لڑائی

سخت گرمی۔

وَعِيلٌ - شریف اور بہادر آدمی۔ جہ۔

اَوْعَالٌ - وَعِلَانٌ

وَعْلٌ - پہاڑی بکری۔ جہ۔ اَوْعَالٌ - وُعُولٌ

وُعُولٌ - وَعِلَّةٌ - مَوْعَلَةٌ -

وَعَلَّةٌ - میس کا ٹکڑا۔ گھنڈی پہاڑی اونچی

جگہ۔ پیالہ یا لوٹے کا دستہ۔

وَعْنَةٌ - سخت اور بنجر زمین جس میں کچھ تر آگتا

ہو۔ جہ۔ وَعَانٌ

وَعْوَاعٌ - کتے اور بھیرے اور گیدڑ کی آواز۔

بہودہ مینے والا۔ پرہ دار آدمیوں

کا شور اور آوازیں۔

وَعْوَعٌ - گیدڑوں کی عمدہ تقریر کرنے والا۔

فیصیح اور بلیغ آدمی۔ جنگل۔ دیدبان۔

جہ۔ وَعَاوِعٌ -

وَعْحِيٌّ - پیپ۔ شور۔ چیخ پکار۔ کتے کی بھول

بھول۔ تدبیر (م) یاد رکھنا۔

حفاظت کرنا۔ زخم میں پیپ بھر جانا۔

کو بھی وُغنی کہا جانے لگا۔ چونکہ اس میں بھی شور مچا رہتا ہے۔

## د - ف

وَقَاءَ - (ض) دوستی کا بنا ہونا۔ وفا کرنا۔

وعدہ کو پورا کرنا۔

وَقَات - موت۔ مرگ۔

وَقَارَةٌ - وَضی - وَفوس۔

(ک جن) بہت

ہو جاتا۔ زیادہ ہونا۔ تمام ہونا۔ بڑھتا

وَقَاع - بول کی ڈاٹ۔ مرتبان کا سر پیدش

وَقَاق - (مفاعیلہ) موافقت کرنا۔ کسی کی مرضی

کے موافق ہونا۔

وَقْد - پہاڑ کی چوٹی۔ ریت کا ٹیلہ کسی بادشاہ

وغیرہ کے حضور میں آنے والا گروہ۔

جہ:۔ وَفُود - آؤقَاد۔

وَقْد - وَفُود - وَقَادَةٌ - (ض) زالی،

رعلی، سفیر واپسی بن کر کہیں آنا۔

وَقْس - مالدار کی بہت سامان۔ مال و متاع

جہ:۔ وَفوس۔

وَقْسَاة - کثرت۔ بال۔ کان کی ٹونک بال۔

جہ:۔ وَفاس۔

وَقْسز - جلدی۔ جلد۔ جہ:۔ آؤقَانز۔

وَقْفص - وہ کلوٹی جس پر قصاب قلمہ کو تھپے

جہ:۔ آؤقَاض

وَقْفَصَةٌ - چرواہے کا تھیلا۔ چرٹے کا تیردان۔

جہ:۔ وَقَاض

وَقْفَعَةٌ - پھٹے پرانے کپڑے کا ٹکڑا جس سے آگ

سلاگنی جلتے۔ بول کی ڈاٹ۔

پکارنا۔ تفریاد کرنا۔ ٹوٹی بڑی کا

میرٹھا جوڑنا اور اچھا ہو جانا۔

وَعِيْد - ادب کی آواز۔ سزا کا وعدہ۔

## د - ع

وَعْنِبٌ - بیکار و خراب مال بے وقوف آدمی۔

سست اور ڈبیلے پتلے جسم والا۔

کینہ۔ مروتا تازہ ادب۔ جہ:۔ آؤعَاب۔

وَعَاب -

وَعَسٌ - کینہ۔ حسد۔ دشمنی۔ شکر کا شور مہ

(ض) دوپہر کی دھوپ کا سخت گرم ہونا

اور نہایت پیش والا ہونا۔

وَعَسٌ - (ض) سی غفٹہ اور دشمنی سے سینے کا

پہر ہونا۔ کسی پر بہت غضب ناک ہونا۔

وَعْفٌ - نظر اور بیابان کی مرکز دریا جہ:۔ وَغُوف

مض (ض) اردو نا۔ جلدی کرنا۔

وَعْلٌ - کینہ۔ سستی کرنے والا۔ گنجان درخت

گیہوں کا داتہ۔ نسب کا بھڑنا دعویٰ

کرنے والا۔ تدبیر۔ بغیر بکائے کھانے

کی محفل میں جانے والا۔

وَعْنَم - جان۔ وہ آدمی جو دوسروں پر بھاری ہو

اور لوگ اُسے بڑھائیں۔ دشمنی

کینہ بے وقوف۔ لڑائی قبر۔

جہ:۔ آؤعَام مض (ض) ایسی خوردینا

جس کا یقین نہ ہو۔

وَعُوِيَّة - (ک) مورتا اور سخت ہونا۔

وَعُوْل - (ض) کسی چیز میں داخل ہونا۔ کہیں

پھینا۔ دور ہونا۔ چلا جانا۔

وَعْنَى - شور و غوغا۔ چیخ پکار۔ جنگ۔ لڑائی

بڑا سوراخ جس میں دھوپ آسکے۔  
 وَقْت - وقت زمانہ کا حصہ۔ گھڑی۔ وَقْت  
 مَوْقُوفٌ مقرر کیا ہوا وقت۔ ج۔  
 اَوْقَاتٌ (حق) وقت مقرر کرنا۔  
 وَقْدٌ - (حق) آگ کا لپٹیں مارنا اور بھڑکانا۔  
 بہت سخت گرمی۔ گرمیوں کے وہ چند  
 دن جن میں گرمی زور کی پڑتی ہے۔  
 وَقْدٌ - سخت چوڑھ مہ (حق) پھیلانا۔  
 پیٹتے پیٹتے مار ڈالنا۔ سست کر دینا  
 آرام پہنچانا۔ آنکھوں میں نیند بھر جانا  
 کسی کو بیمار چھوڑ دینا۔  
 وَقَسٌ - بہرہ پن۔ کینہ مہ (حق) بہر کر دینا۔  
 پنڈلی کو چیرنا۔ ہڈی کو چیرنا (حق۔ س)۔  
 کانوں کا بھرا ہوجانا۔  
 وَقْرٌ - وَقْرٌ (حق) بیٹھنا  
 بھاری بھری۔ گدھے یا فخر کا بوجھ۔  
 ج۔ آذْقَامٌ۔  
 وَقَسَاتٌ - سختیاں۔ علامتیں۔ نشانات۔  
 وا۔ وَقَسَاةٌ  
 وَقَسَاةٌ - تھکر کا گڑھا جس میں پانی جمع ہو (حق)  
 ٹھوکر کھانا۔  
 وَقَسَاةٌ - بکریوں کا چروانا۔ گدھوں کا مالک۔  
 شہکار سننے والا۔  
 وَقَسٌ - زنا۔ حرام کام۔ ہر وہ آگاہ۔ کبھی مہ  
 (حق) زخم سے کھال چھٹانا۔ یا  
 نوح ڈالنا۔ زنا کا ذکر کرنا۔  
 زنا کی تمہت لگانا۔ اونٹوں میں بھلی  
 کی بیماری پھیلنا۔  
 وَقَسٌ - حرکت۔ چھپیٹی۔ سوکھی لکڑی مہ (حق)

موافق مطابق مہ (ح) موافق پانا۔  
 دِقِّا - (حق) کسی چیز کا پورا ہوجانا۔ زیادہ ہونا  
 بڑھنا۔

## د - ق

وِقَاءٌ - جس کے ذریعہ کسی چیز کی حفاظت کی  
 جائے۔  
 وَقَاحٌ - بے شرم آدمی۔ بے جھجک گناہ کرنے  
 والا۔  
 وَقَادٌ - ایندھن۔  
 وَقَادٌ - طبیعت کا تیز۔ عقل مند۔ (د)  
 وَقَادٌ الْفَطَارِیْلِیْنِ - ایندھن بھونکنے والا۔ (ر)  
 وَقَاسٌ - مٹاٹ۔ سنبھوگی۔ بردباری۔ رعب  
 دیدہ مہ (لث) بردبار ہوجانا۔  
 وَقَافٌ - سستی اور دیر کرنے والا۔ ٹھہرا ہوا  
 لڑائی سے پیچھے ہٹنے والا۔  
 وَقَاهٌ - تلوار۔ کوڑا۔ لاطھی۔ چھڑی۔ رسی۔  
 وَقَاهِیَّةٌ - کلیسا کی خدمت گزار  
 وَقَايَةٌ - (مثنیٰ) عورتوں کا دوپٹہ۔ حفاظت اور  
 بچاؤ کا سامان  
 وَقَائِدٌ - بچھے ہوئے پتھر۔  
 وَقَبٌ - بچان کا گڑھا جس میں پانی جمع ہوجائے  
 بدن کا ہر گڑھا جیسے آنکھ وغیرہ کا  
 کنویں کی چرخی کا سوراخ۔ بے وقوف  
 کینہ اور حقیر آدمی مہ (حق) اندھیرا  
 چھاجانا۔ چھپنا۔ داخل ہونا۔ کھڑا رہنا  
 سورج کا ڈوبنا۔ بجا نڈگن ہونا۔  
 وَقْبَةٌ - پتھر کا گڑھا جس میں پانی جمع ہوجائے  
 جسم کا گڑھا (جیسے آنکھ کا گڑھا)۔



جہ۔ اَوَقَالَ - معص (رض) ایک  
 پاؤں پر کھڑا ہونا رقی (پڑھنا)۔  
 دَقَمَ - (رض) کسی پر غلبہ پانا۔ ظلم کرنا۔ ذلیل  
 کرنا۔ توڑنا۔ رنجیدہ اور غم گین کرنا۔  
 ناکام کھینچنا۔ کسی کو اس کی ضرورت  
 سے بری طرح روکنا۔ لاندی کا اُبال۔  
 پانی ڈال کر ختم کر دینا۔

دَقُوْد - سوکھی مکڑیاں۔ ایندھن

دَقُوْع - (فت) اگر پڑنا۔ واجب اور ذمہ میں  
 ہو جانا۔ ملواری کو سان پر تیر کرنا۔ حتی  
 بات کا ثابت ہو جانا پر زندہ کا زمین  
 پر اترنا۔ باتوں سے آدمیوں کو جوش  
 دلانا تیر چلنا۔

دَقُوْف - (رض) کھڑا رہنا۔ ٹھہرنا۔ رُک جانا۔  
 دَقُوْقَة - خوف اور ڈر کے وقت کتنے یا پرندہ  
 کی آواز۔

دَقِهَة - اطاعت۔ سربانہ داری

دَقِيْقَة - (رض) دیکھ بھال رکھنا  
 حفاظت کرنا۔

دَقِيْقَط - وہ آدمی جس کا جسم رات کو بھاگنے کی وجہ  
 سے بھاری ہو۔ جہ۔ دَقَطَان - دَقَا  
 راقاٹ۔

دَقِيْبَة - جنگ۔ لڑائی۔ پہاڑ کا چھوٹا کنواں  
 فتنہ۔ فساد۔ آدمیوں کی پیٹھ پیچھے  
 بڑائی۔ جہ۔ دَقَائِع -

د - ل

دَلَق - (رض) دور کرنا۔

دَلَقَاء - (رض) تکیہ لگانا۔ اونٹنی کا چبھنے کے درد

(نشان) مننا  
 دَقَص - نقص۔ کوتاہی عیب۔ (رض) گردن  
 ٹوٹنا زب (گردن توڑنا۔ شراب کرنا  
 عیب نکالنا۔ کم کرنا۔ کم ہونا۔

دَقَص - آگ سلگانے کی پھیٹیاں۔ سوکھی اور  
 چرمی ہوئی چھوٹی مکڑیاں۔ وہ مال جو  
 نصاب پر زیادہ ہو اور اس میں زکوٰۃ  
 واجب نہ ہو۔ جہ۔ اَوَقَاص

دَقَط - پتھر ملی یا سخت زمین کا ٹکڑا۔ جہ۔  
 دَقَاط - اِقَاط - اَدَقَاط (مع) (رض)  
 (پھاڑ دینا۔ مرغے کا مرغی پر چڑھنا)۔

دَقَط - چھوٹا۔ حوض معص (رض) سخت مارنا۔  
 پختہ اور علیٰ امداد مت کرنا۔

دَقَع - پہاڑ پر اونچی جگہ۔ وہ بادل جس سے بارش  
 کی امید کی جائے معص (فت) (الحی)  
 جلدی کرنا۔ پھری اور تلوار کو پتھر پر لگانا  
 تیر کرنا۔

دَقَعَة - پتھر دَقَعَة - (ایک پتھر) معص (س)  
 پتھر ملی اور سخت زمین کا سُم  
 کو گھسنا۔

دَقَعَة - گرنے کے وقت کی حالت۔

دَقَعَة - مصیبت۔ لڑائی کی مصیبت۔  
 دَقَف - ہاتھی دانت کا سنگن۔ سفید پاپوں  
 والا کھوڑا معص (رض) کھڑا ہونا۔  
 ٹھہر جانا۔ ٹھہر دینا۔ ٹھنڈا پانی ڈال  
 کر لاندی کے جوش کو دبا دیا۔ اللہ

تعالے کے راستہ میں کسی چیز کو وقف  
 کر دینا۔ خیر دینا۔

دَقَل - متل کا درخت یا پھل (ایک دوا)

دکاء - کا وجہ سے آواز نکالنا۔  
 دگاء - مشک کا سرنبد یعنی وہ ڈورا جس سے مشک کا منہ باندھتے ہیں بہرہ ہے جس کا منہ باندھ دیا جائے۔  
 دگافت - ناشتہ وہ چیز جو ناشتہ کے طور پر صبح کو کھائی جائے۔  
 دگاد - پالان باندھنے کا قسم۔ ج: دگائید  
 دگاعتہ - نالائق اور کمینہ ہونا۔ سخت ہونا۔  
 دگاکتہ - نیابت۔ کسی کی قائم مقامی (د) اچھنسی۔  
 دگب - (ض) یعنی کسی کام میں برابر لگے رہنا اٹھ کر کھڑا ہونا۔ کھڑا ہونا۔  
 دگب - (س) کھجور میں پختل کارنگ ظاہر ہونا۔  
 دگد - کوشش۔ طاقت۔ کام۔  
 دگد - ارادہ۔ قصد۔ مراد۔ مطلب۔  
 دگس - پرندہ کا گھونسل۔ ج: دگوز۔ آڈگوز  
 آڈگار مھ (ض) ناک پر گھونسل مارنا۔ پرندہ کا گھونسلے میں جانا۔  
 مشک کو بھسرتا۔ اونٹ گھوڑے وغیرہ کا دوڑانا۔  
 دگسن - (ض) دوڑ کرنا۔ ہانکنا۔ تیز مارنا۔  
 گھونسلہ مارنا۔ پاؤں کے نیچے سے دباننا۔  
 دگس - چاند کی ایک منزل (جس میں پہنچ کر چاند گمن ہوتا ہے) مھ (ض) کم ہونا۔ کم کرنا۔ تجارت میں نقصان اٹھانا  
 چاند کا کس منزل میں پہنچتا (مجبوراً) تجارت میں نقصان اٹھانا۔  
 دگظ - (ض) دوڑ کرنا۔ ہانکنا (علی) کسی کام

پر ہمیشگی کرنا۔  
 دگح - (ض) ناک پر گھونسلہ مارنا۔ سانپ بھوکھا ڈسنا۔ مرضی کا جفتی کے لئے نیچے بیٹھ جانا۔ کسی کام پر ڈانٹنا ڈپٹنا۔ دودھ چوسنے کے وقت بکری کے بچے کا اپنے سر کو تھنوں میں مارنا۔  
 دگج - (س) پاؤں کے انگوٹھے کا برابر دلی انگلی پر چڑھنا یا مال ہونا  
 دگفت - (ض) بارش کی وجہ سے مکان کی پھت کا ٹپکنا۔ بادلوں کا مینہ برساتا۔ آنکھ کا آنسو بہانا  
 دگفت - گناہ غیب۔ پہاڑ کا کنارہ۔ پسینہ سخت اور پتھری زمین۔ ج: آڈکاف مھ (س) بل کھانا۔ ٹیڑھا ہونا۔  
 ظلم کرنا۔ ستانا۔ عیب دار ہونا۔ گناہ گار ہونا۔  
 دگگل - وہ عاجز و مجبور آدمی جو اپنا کام دوسرے کے حوالے کر دے اور اس پر بھروسہ کرے۔  
 دگگلی - (ض) (یا للہ) خدائے قدوس پر بھروسہ کرنا اور اپنے عاجز و مجبور ہونے کا اقرار کرنا۔  
 دگل - دگول - (ض) (رائی) اپنا کام کسی پر چھوڑ دینا۔ اور اس کے حوالے کر دینا۔  
 دگم - (ض) رنج پہنچانا۔ غم گین کرنا۔ توڑنا ذیل کرنا (مجبوراً) پامال ہونا۔  
 دگن - پرندے کا گھونسلہ۔ ج: آڈگن۔ دگن

دَلَاء - پادشاہی - آزادی - قرابت - دوستی  
 دَلَاذ - دَلَاذَة - (ص) جننا -  
 دَلَاذ - جھوٹا خود رائے - اپنی سمجھ کا کام  
 کرنے والا - دوسرے کی بات نہ  
 ماننے والا -

دَلَايَة - حکومت - پادشاہت - گورنری  
 مص (س) مانگ ہونا - کسی چیز کا  
 قبضہ اور اختیاریا میں ہونا - پادشاہ  
 کرنا - مدد کرنا -

أُولَايَاتُ الْمَلِكِ دَلَايَة - یونائیٹڈ اسٹیٹس  
 (آف امریکہ) (د)

دَلَّت - کمی مص (ص) کمی کرنا -

دَلَّت - تھوڑا سا مینہ - برتن میں بھی ہوئی نہیں  
 کی تلچھٹ - پانی میں چکنائی یا  
 چربی کا اثر مص (ص) مارنا - غلام کو  
 موت کے بعد آزاد کرنا - یعنی یہ کہنا  
 کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے -  
 دَلَج - کنارے - کونے - گلیاں -

دَلَجَة - پہاڑ کی کھوہ - وادی کا پتھ اور پور  
 ج - دَلَج -

دَلَجْ - (ص) اونٹ وغیرہ پر طاقت سے زیادہ  
 بوجھ لادنا -

دَلَد - بیٹا (د) خادم - چھوکر - چہ -

أَدْلَاد - دَلْدَة - دُلْد

دُلْد - دَلْد - دَلْد - بیٹا - فرزند -

دَلْس - دَلْسَان - (ص) تیر چننا - بات  
 کو اشاروں میں کہنا -

دَلْع - دَلْعُوع - (س) کسی چیز کی حرص اور پلنگ کرنا

دَلْعُوع - دَلْعَان - (ف) ذیل اور بے آبرو  
 مہلت کے کرنا -

دَلْعُون مص (ص) بیٹھنا پرندہ کا  
 اندھے کو اپنے نیچے دبا کر بیٹھنا -

دَلْوَاك - ڈرپوک - بہت ڈرنے والا -

دَلْوَب - دَلْوَبَان - (ص) چلنا (دقار  
 اور استنگی سے) -

دَلْوَد - (ص) رُكنا - ٹھہرنا - رہنا - سہنا -  
 قصد کرنا - مضبوط گانٹھ لگانا - ہودہ  
 گسنا -

دَلْوَاء - دَلْوَاء - مشک کے منہ کو باندھنا

دَلْوَيْت - (ص) حاکم کے سامنے چھٹی کھانا - باتوں  
 میں جھوٹ کا رنگ بھرنا -

دَلْوِيو - دَلْوِيوَة - نیا مکان بنانے کی خوشی میں  
 دوستوں اور عزیزوں کی دعوت

اور مہمانی -  
 مضبوط اور عمدہ مشک جس میں سے  
 کہیں پانی نہ رسے - مضبوط کھوڑا  
 خوب دیکھتے سننے والا - دانا - بیٹا -  
 مضبوط دل آدمی -

دَلْوَيْج - مضبوط اور عمدہ مشک جس میں سے  
 کہیں پانی نہ رسے - مضبوط کھوڑا  
 خوب دیکھتے سننے والا - دانا - بیٹا -  
 مضبوط دل آدمی -

دَلْوَيْل - کار ساز - دوسروں کے کام بنانے والا  
 اندر حل شانہ - وہ آدمی جس کے سپرد  
 دوسرے لوگ اپنا کام کریں (د)

دَلْوَيْل - ریڈیٹنٹ  
 ایجنٹ - ریڈیٹنٹ

أَلْوَيْلُ السِّيَاسِي - پولیٹیکل ایجنٹ

## وَل

وَلَاء - (مفاعلہ) - دو کاموں کو ایک دوسرے

کے بعد کرنا - بے درپے کرنا - ایک کام  
 کو دوسرے کام کے بعد فوراً اور بغیر  
 مہلت کے کرنا -

ریخ اور غم کی وجہ سے بے قابو ہو رہا ہو  
ایک شیطان کا نام۔ جو وضو میں آدمی  
کو بہت پانی خرچ کرنے پر اکساتا  
ہے۔

وَلَعِي - ہمارے موسم کی دوسری بارش۔  
جر:۔ اَوْلِيَّةٌ دوست۔ رشتہ دار  
مہربان۔ مددگار۔ نگہبان۔ مالک  
جر:۔ اَوْلِيَاءُ

وَلِيَّةٌ - بیٹھ دیا ہو اکھڑا۔ مہمانی کا کھانا۔ جر:۔  
وَلَايَا۔

وَلِيَّةٌ - خاص دوست۔ رازدار۔ اپنا آدمی  
جس پر بھروسہ اور اعتماد کیا جائے۔

وَلِيَّةٌ - برتن۔ جر:۔ وَاوِيحٌ۔ وَاوِيحٌ۔  
وَلِيَّةٌ - جناہ اور اکھڑا۔ غلام۔ جر:۔ وَاوِيحٌ۔  
وَلِيَّةٌ۔

وَلِيَّةٌ - لڑکی۔ جوان عورت۔ لڑکی۔ ملازم  
جر:۔ وَاوِيحٌ۔

وَلِيَّةٌ - بے درپے اور برابر چمکنے والی بجلی۔  
وَلِيَّةٌ - ایک قسم کا کھانا جو مٹھن، آٹے  
اور دودھ سے تیار ہوتا ہے۔

وَلِيَّةٌ - شادی کی دعوت۔ نکاح۔ بیاہ کا  
کھانا جو دو لٹا خوشی میں کھلاتا ہے۔  
جر:۔ وَاوِيحٌ (پر خوشی کی دعوت کو کہتے  
کہہ سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ لفظ نکاح  
ہی کی دعوت کے ساتھ مشہور ہو گیا ہے۔

## و - ہ

وَمَسَدٌ - گرمی کی شدت، سختی، گرمیوں کی رات  
کی سختی، غصہ، مص (س)، وعلیٰ

ہو جانا۔ جھوٹ بولنا، بے چہین لے  
جانا۔

وَلَعٌ - وَاوِيحٌ - وَاوِيحٌ - (ف - ح - س)  
کتے وغیرہ کا پانی میں منہ ڈال کر زبان  
سے پانی پینا۔ تمام درندوں کے  
پانی پینے کو وَاوِيحٌ ہی کہتے ہیں۔  
اور پرندوں میں یہ لفظ صرف مکھی کے  
لئے خاص ہے۔

وَلَعَةٌ - چھوٹا ڈول۔  
وَلَعٌ - وَاوِيحٌ - وَاوِيحٌ - (ص) بجلی کا برابر  
چمکنے جانا۔

وَلَعٌ - (ص) تلوار سے مارنا۔ ہلکا  
نیزہ مارنا۔ جھوٹ بولنا (فی السب)،  
تیز چلنا۔

وَلَعٌ - اونٹنی کی ایک خاص چال۔  
وَلَعٌ - زین کا تنگ پالان کا تنگ۔ وہ  
سی جس سے پالان کے تنگ کو ادھر  
اُدھر سے باندھا جائے تاکہ ہل  
نہ سکے۔ زنجیر۔

وَلَعٌ - (ص) جلدی کرنا (والی) پہنچنا۔  
وَلَعٌ - (ص) داخل ہونا۔

وَلَعٌ - چھنے والی بکری۔ بہت چھنے والی۔  
وَلَعٌ - رکابین۔ بچپن تک مہربانی۔ جفا۔

وَلَعٌ - لالچی مص (ص) لالچی ہونا۔  
وَلَعٌ - وہ چیز جو پنی جائے۔

وَلَعٌ - عشق و محبت کی مستی، غم، ڈر میں  
(ح - س) بے (حق) ڈرنا۔ عشق کی وجہ سے  
برگشتہ ہونا۔

وَلَعَانٌ - عکبین آدمی۔ رنجیدہ۔ وہ آدمی جو

وَهْبٌ - (ف) بخشنا بخشش کرنا۔ انعام دینا۔

وَهْتٌ - (ض) تنگ کرنا۔ کوشنا۔ زور سے دبانا۔ کوشش کرنا۔ ضد کرنا۔

وَهْجٌ - (ض) پاؤں کے نیچے خوب کچلنا۔  
وَهْجَانٌ - (ض) (التَّارُ) آگ کا خوب بھروکنا لپٹیں مارنا۔

وَهْدٌ - نیچی اور ہموار زمین۔ جم: اَوَهْدُ وَهَادٌ - وَهْدَانٌ

وَهْسٌ - (ض) کسی کو اتنی سخت مشکل میں پھنسا دینا کہ وہ اس سے نکل نہ سکے۔

وَهْرٌ - ٹھکنے قد کا آدمی (ض) پاؤں سے مسلتا۔ بھڑکانا۔ دونوں خنوں کے پینچ میں جوں مارنا۔ دور کرنا۔

وَهْصٌ - (ض) کمزور اور کھوکھی چیر کر توڑنا سر توڑنا۔ زور کے ساتھ بھینک دینا۔ زور سے زمین پر بیٹھنا بھینتی کرنا۔  
وَهْطٌ - کمزوری۔ باغ (ض) توڑنا۔ نیزہ مارنا۔

وَهْفٌ - وَهْفِيَةٌ - (ض) گھاس کا سبز ہونا اور پتے نکالنا۔ پھلانا۔ پھو (تار) [پیش آنا زالی] قریب آنا۔

وَهْقٌ - (ض) بست کرنا۔ روکنا۔  
وَهْلٌ - ڈرنے والا جس سے ڈر معلوم ہو۔

مصرف - (ض) زالی، کسی چیر کی طرف وجم جانا۔ حالانکہ ارادہ دوسری چیز کا ہے۔

وَهْلٌ - سستی۔ ڈر۔ بھوک چوک مص

غصہ ہونا۔  
وَهْنٌ - (ض) غصہ کی وجہ سے ناک بھوں چڑھانا۔

وَهْسٌ - (ض) کسی چیز کو گرنا اور گھسنا تاکہ پھلکا اتر جائے۔

وَمِيضٌ - وَمِيضٌ - وَمِيضَانٌ - (ض) بجلی کا خفیہ چلنا۔

وَمِطَةٌ - سستی۔ رنج اور غصہ کے سبب زمین پر گر پڑنا۔

وَمِيقَةٌ - (ح) دوست رکھنا۔ بہت زیادہ محبت کرنا۔

وَمَسَةٌ - (س) (الْتِهَامُ) ددن کی آگ کی کا بے حد سخت اور تیز ہونا۔

## و - ن

وَنِيَةٌ - چنگ (ایک باجر کا نام) سستی۔  
وَنِيٌّ - ماندگی۔ سستی۔ تخم۔

وَنِيٌّ - وَنِيٌّ - وَنِيَّةٌ - (س) تھکا ہوا اور سست ہو جانا۔ چھوڑ بیٹھنا آستین کو میٹھنا۔

وَنِيَّةٌ - موتی۔ موتی کا دھاگہ۔ بو بھگی گھری سستی۔

وَنِيْمٌ - وَنِيْمٌ - مکھی کی بیٹ (ض) مکھی کا کپنا۔

## و - ه

وَهَابٌ - خوب بچھنے والا۔ بہت خیرات کرنے والا۔

وَهَاجٌ - روشن۔ درخشاں۔

## د - ی

دَوَى - تعجب کا کلمہ ہے جیسے وَیْکَ تَعْجِبُ ہے۔ دَوَى لَزِیْدًا زید پر تعجب ہے حَقًّا (حق ہے اور درست ہے) کے معنی میں بھی آتا ہے اور اس وقت کَانَ یَا کَانَ - پر داخل ہوتا ہے جیسے وَیْکَانَ اللّٰهُ یَنْبِیْطُ الرِّیْقَ لَیْسَ لَیْشَاءُ حق ہے۔ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ہی جس کے رزق کو چاہتے ہیں وسیع فرمادیتے ہیں۔

وَسِیْعٌ - وائے - افسوس (یہ لفظ کسی حالت پر افسوس کرنے اور رحم کھانے کے لئے خاص ہے) وَیْجُ لَزِیْدًا (افسوس ہے زید پر)۔

وَسِیْلٌ - وائے - افسوس (یہ لفظ ڈرانے اور عذاب کے لئے آتا ہے) دوزخ کا ایک طبقہ یا کنواں - ہلاکت - سختی۔

رَیَا وَیْکَتٰی - اے میرے افسوس - یائے متکلم کو الف سے بدل لیا ہے۔

## د - ع

وَمِیْسَةٌ - موتی - چوڑی ہانڈی - چوڑا پیپالہ - بڑے پیٹ کی اونٹنی گھڑکی رکھوالی کرنے والی عورت بڑی بوری۔

وَمِیْسِدًا - چھوٹی لڑکی جس کو زندہ دفن کر دیا گیا ہو (جیسا کہ عرب میں رواج تھا) ویر - آہستگی۔ اونٹ کی آواز۔

(س) سست ہوجانا - ڈرنا۔ غلطی اور سھول چوک کرنا۔

وَهْلَةٌ - کسی چیز کی ابتدا بشروع خوف ڈر وَهْمٌ - گمان - ایک قوت کا نام جس کے ذریعہ سے معافی جزیرہ محسوسہ کا ادراک ہوتا ہے - ج :-

أَوْهَامٌ

وَهْمٌ - بھاری بھرکم اونٹ - موٹا تا زہ آدمی چوڑا راستہ - ج :- أَوْهَامٌ - وَهْمٌ وَهْمٌ -

وَهْمٌ - (س) رقی الحساب (حساب میں غلطی کرنا۔

وَهْنٌ - ٹھکنے قدر اور سخت بدن کا آدمی - سستی - آدھی رات یا رات کا بڑا ٹھکرا - بہت سے اونٹوں میں (س) - ح - کٹ - سستی کرنا بہت ہوجانا - رات کا آدھا ہوجانا -

آدھی رات میں آنا۔

وَهْوَةٌ - شیر کا گوجننا - دھاڑنا - خوف اور ڈر کی وجہ سے آدمی کا چیخنا۔

وَهْجٌ (س) - ج - پھین - شگاف - ج :- وَهْجٌ - آدھی سے دلوں کا خوب رینا گہر پڑنا - کمزور ہونا - دیوار کا گہر پڑنے کے قریب ہونا - رستی کا پڑنا ہوجانا۔

وَهْیٰنٌ - وہ آدمی جو مزہ دوروں کی دیکھ بھال کے لئے مقرر کیا جائے تاکہ کام میں لگے رہیں اور بے کار نہ بیٹھیں۔

۵ - ۱

ہا - خبردار (حرف تشبیہ ہے) - لے - بکڑ  
 (اسم فعل) ضمیر واحد مؤنث فاعل  
 ہاء - لا امر کا صیغہ ہے - اس کی گردان بھی  
 آتی ہے - ہاء ۱ ہاء ۲ ہاء ۳  
 ہاء ۴ ہاء ۵ ہاء ۶ ہاء ۷ ہاء ۸ ہاء ۹  
 اور ان سب میں ہمزہ کی بجائے تا  
 بھی لاتے ہیں - جیسے ہات  
 ہاتیا - الخ - اس میں ایک لغت  
 ہاء اور ہے معنی خذ لے اور بکڑ۔

ہاء دوم راقع غوا اور پڑھو۔  
 ہاب - گھوڑے کے بلانے کے لئے بولتے ہیں  
 ہابی - قبر کی مٹی یا ایک مٹی جو بخار کی طرح ہو  
 ہابیل - حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے  
 کا نام ہے جو اپنے بھائی قابیل کے ہاتھ  
 سے مار گیا۔

ہات - لا - وے - امر کا صیغہ ہے خلیل نحوی  
 اس کی اصل آت تبتا تا ہے - ہمزہ  
 ہا سے بدل گیا ہے -

ہاتفت - تعریف کرنے والا یعنی پکارنے والا  
 جس کی آواز سنی جائے - لیکن پکارنے  
 والا نظر آئے (د) میلیفون -

ہاتین - ہت ہون برسنے والا بادل - جب -  
 ہٹن - ہٹن -

ہاجد - سویا ہوا - رات کو جاگنے والا -  
 ہاجر - بنے نکی باتیں کرنے والا - جدائی کرنے  
 والا - دوسروں سے زیادہ لائق  
 اور قابل -

ہاجرۃ - حضرت اسماعیل علیہ السلام کی  
 والدہ کا نام -

ہاجرۃ - دوپہر - ظہر سمیت - سورج کے ڈھلنے  
 سے لے کر عصر تک کا وقت - گرمی کی

تیزی - جب - ہا جرات - ہو آج  
 رات کو سونے والا - جب - ہجج  
 ہجج

ہاجن - وہ لڑکی جس کو بالغ ہونے سے پہلے  
 بیاہ دیا ہو - اور شوہر کے سپرد کر  
 دیا ہو -

ہادیس - بے اعتبار اور بے آبرو آدمی کا لٹھا  
 دودھ -

ہادی - راستہ دکھانے والا - پیشوا - ہدایت  
 کرنے والا صحیح راستہ بتانے والا  
 جب - ہذا آ - گردن - تیر کی نوک  
 رات کا اول حصہ - شیر - اونٹوں  
 کے گلہ میں آگے رہنے والے اونٹ

ج - ہو آدی  
 ہذا - یہ - ہذا - ہو آئے  
 ہاروت - ایک فرشتے کا نام -

ہارون - حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی  
 کا نام - تمام دنیا کا مال -

ہارون السیثید - خلفائے عباسیہ میں  
 سے پانچواں خلیفہ -

ہاسا - گرنے والا -  
 ہاصوٹم - ہضم ہونے والا - مال خرچ کرنے  
 والا - شیر -

ہاطل - لگاتار برسنے والا مینہ - جب -  
 ہطل -

ہائیم - حیران - پریشان - بہت زیادہ پیاسا

## ۵ - ب

ہبب - ہبوب (ن) ہوا کا چلنا - حرکت کرنا - تلوار کا چمکنا - کسی کا مدت تک غائب رہنا - ہارتا - کشتی اڑانے کے لئے بلانا جاگنا -

ہببآء - ہوا میں اڑا ہوا آگرد بخار - اونچا چڑھا ہوا خاک کے چھوٹے چھوٹے ذرات جو سورج کی کرنوں میں لپٹے ہوئے دھوئیں کی طرح معلوم ہوتے ہیں زمین پر بکھری ہوئی خاک کم عقل آدمی - بے وقوف - جہ - آہببآء -

ہببب - گرد - خاک کے ذرے جو کسی روشن یا بڑے سورج میں سے ہو کر اُرد آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور سورج کی کرنوں کے ساتھ لپٹے ہوئے ہوتے ہیں -

ہبببشہ - وہ گردہ جس میں مختلف جگہ کے آدمی آکر جمع ہو گئے ہوں - جمع کیا ہوا مال -

ہببال - کمانے والا - مکار - دھوکہ دینے والا - شکاری -

ہببالہ - جستجو - تلاش - کھوج - ہببہ - (ف) بخشش کرنا - خیرات کرنا - مال دینا -

ہببہ - حال - حالت - پرانا کپڑا - کپڑے کا ٹکڑا - جہ - ہببب -

ہببر - نیچی اور ہموار زمین - جہ - ہببوس -

ہباع - لالچی آدمی - ڈرپرک - بزدل - رست ہکنڈا - ایسے ہی - اسی طرح -

ہبالہ - چاند کا کڈن - گول دائرہ جو چاند کے گرد بن جاتا ہے - جہ - ہبالات

ہبالک - مردہ - برباد ہونے والا - مٹنے والا - جہ - ہباعی - ہوالک -

ہبالکی - لوہار تبلی کرنے والا

ہبامان - ایک بڑے کا ذکا نام - جو فرعون موسیٰ کا وزیر تھا -

ہبامتہ - تکلیف اور ایذا پہنچانے والے جانور - چوپایہ - جہ - ہوام -

ہبامتہ - سردار - ٹھوڑا - نرا تو -

ہبامتہ القوم - قوم کا رئیس - سردار - جہ - ہام - ہامات -

رأرض ہبامدآء - خشک اور بے نبات زمین -

ہبامش - کتاب کا سا - شید -

ہباموم - پھلی ہوئی چربی - بس اونٹ کا کدوا پھل گیا ہو -

ہبانم - خانم - بیٹی (د)

ہباون - ہاؤون - ادھلی - جہ - ہواؤون -

ہباویہ - زمین دان کا بیج - وہ عورت جس کا بچہ ہو گیا ہو - ایک گڑھا دوزخ کا -

ہبستا - اُس جگہ - یہاں -

ہبش - توبہ کرنے والا جن بات یا خدائے تعالیٰ کی طرف پھرنے والا جہ - ہود

ہباع - بہت لالچی - ڈرپرک آدمی - اندھیری رات پکھلا ہوا - بہتا ہوا -



ہوب - ہوبہ (ن) گوشت کے بڑے

ہوبہ - گردو ہندلاپن۔

ہوبس - کڑی۔

ہوبس - چھوٹی چوٹی۔

ہوبس - ہبائن - (ض) مرجانا۔

ہبوت - اچانک مرجانا۔

ہبوط - دُصلواں زمین نیچی زمین۔

ہبوط - (ض) ن) کم ہونا (قیمت کا) اترنا۔

ہبوط - (ض) ن) منتقل ہونا۔

ہبوغ - (ض) سوجانا۔

ہبئی - چھوٹا لڑکا (م) ہبیۃ۔

ہبیب - ہبیب - ہبتۃ - (ض) ن) جفتی کے وقت بڑے کا جوش میں آنا۔

اور ہونا۔

ہبیت - بزدل۔ ڈرپوک اور بے عقل آدمی

ہبیط - ڈبلا اونٹ - وہ آدمی جسے بیماری

نے ڈبلا کر دیا ہو۔

## ح - ت

ہت - (ن) کسی کو عزت کے مرتبے سے گرا دینا

کپڑا پھاڑنا - منہ موڑ لینا - درخت

کا پتہ ترنا - صاف دشتہ بات

کرنا - اُتدیلنا - بے درپے کاٹنا۔

ہتاء - وقت - ہنگام - گھڑی (ض) (ض) مارنا۔

ہتاء - ہتوؤ - (ض) چیرنا - پھاڑنا۔

ہتاف - چیرنا - نعرۃ مسرت (د)

ہتامۃ - گرہواریزہ - ٹوٹا ہوا ٹکڑا۔

ہتر - (ض) بوڑھے کا بے عقل کر دینا۔

ہبڑی - نیادینار - ہردہ چیز جو دیکھنے میں اچھی

معلوم ہو - شیر - بے ملاؤ - گھراسونا

دست بند فارسی۔

ہبڑی - لوہار - سونار - جنگلی بیل۔

ہبڑیۃ - روٹی - اون وغیرہ کا رُوں جو اُڑتا

ہے - چربی - سرکی بھوسی۔

ہبٹس - (ن) س) جمع کرنا - کمائی کرنا بہت

زیادہ مارنا۔

ہبص - (س) ح) خوشی کرنا - خوش ہونا۔

جلدی کرنا - کھانے کی چیز کو بہت

زیادہ آرزو اور بے قراری کے ساتھ

چاہنا۔

ہبٹ - (ن) نیچے اتارنا - بیماری کا کسی کو

ڈبلا کر دینا - داخل ہونا - اترنا - لڑائی

میں پھینسا - کم کرنا۔

ہبج - گدھا - اونٹ کا بچہ جو آخ میں پیدا ہو

جہ - ہباع - م - ہبجۃ جہ -

ہبجات

ہبیل - بھیڑیا - ہبلس - ایک بت کا نام

ہبیل - (س) عورت کا بچہ کو گم کر دینا یعنی بچہ

کا مرجانا۔

ہبیتق - خدمت گزار - نوکر چاکر - خادم۔

ہبیتق - ایک بے وقوف آدمی کا لقب۔

ہبیتق - ہبیتق - نوکر چاکر - خادم۔

ہبوت - (ن) (رگد و قبار) اور پھاڑنا - بھاگنا۔

مرجانا۔

ہبوب - (ن) ہوا کا چلنا۔

ہوجائے۔  
 ہتملہ - تباہی - بربادی مص تباہ و برباد  
 ہونا - طانا۔  
 ہتملہ - ملنا - ظلم کرنا - جلد بھیجنا - زور کا  
 مینہ برسنا۔

## ۵ - ج

کچھ - ہجیر - (ن) (گھر کو) گرانا - ویران  
 کرنا - گڑھے میں گھسنا - آنکھ کا بھڑکنا  
 (آگ کا)

کچھ - ہجیر - (ن) (الوجوع) بھوک کا مہمان  
 (الطعام الجوع) کھانے کا بھوک  
 کو ختم کر دینا۔

ہجاء - حروف مقطعات کا پڑھنا (ادب  
 ت - ت پڑھنا)۔  
 ہجاس - کمان کا چلنا - پالان کی رہتی - کلو بند  
 تاج - آنکھوں کی۔

ہجان - ہر عمدہ چیز - بزرگ عورت۔  
 سفید بالوں والے اونٹ (مذکر و مؤنث)  
 واحد و جمع (جہ)۔ ہجائین

ہجس - دوسروں سے بہتر اور قابل آہستہ  
 چلنے والا۔

ہجس - بڑی اور یہودہ بات۔  
 کجس - جدائی - وخت کی لمبائی - دوسرے  
 اونٹ کی مہار کمان کا چلنا - گدی کی  
 تیزی - جہ - آہجاس

کچھ - ہجس - (ن) جدائی کرنا - جماع سے  
 روکنا - کسی چیز کو ترک کرنا۔

کچھ - ہجس - بڑی اور بے ہودہ بات - نفع۔

(بروز صاپے کی وجہ سے سٹھ جانا)۔  
 کسی کی عزت و آبرو کو بٹھکانا۔  
 غیب لگانا۔

ہتر - جھوٹ - سختی - بکارت - عجیب کام  
 بے فائدہ بات - اعتبار سے گرا ہوا  
 کلام میں خطا - رات کا پہلا نصف  
 حصہ - جہ - آہتاس

ہتفت - (ض) بولنا (کی تو وغیرہ کا)۔  
 ہتت - آدھی رات۔

ہتت - (ض) پردہ چھاڑنا یا کھولنا - تاکہ پردہ  
 کے پیچھے کی چیز نظر آجائے - رسوا  
 کرنا - بے آبرو کرنا۔

ہتک - پردہ دری - رات کا کچھ حصہ۔  
 ہتل - ہتول - ہتلان - (ض) ابر کا برابر  
 برسنا - متواتر برسے جانا۔  
 (بھڑکی لگنا)

ہتلان - ہلکا مینہ جو برابر برس رہا ہو بھڑکی۔  
 ہتم - (ض) دانت کو جڑ سے توڑنا۔  
 ہتم - (س) اگلے دانتوں کا جڑ سے ٹوٹ  
 جانا۔

ہتملہ - راز کی بات مص راز کی بات کہنا  
 ہتمس - (ض) یادوں کا برابر برسنا۔

ہتمو - (ن) پاؤں کے نیچے دیا کر توڑنا  
 ہتمی - ہتمو - ہتمو - رات کا ایک  
 حصہ۔

## ۵ - ت

ہتت - جھوٹ (ن) (ض) بھوٹ بولنا۔  
 ہتم - (ض) کسی چیز کو اس قدر کوتاہ کرنا کہ باریک



(ض) شراب کا جوش مارتا۔ کبوتر کا بولنا  
چھوڑے کے شکووں کا کھلنا۔

ہدایہ - ہر وہ چیز جو سطح زمین سے اونچی ہو۔

(تیکڑا) نشانیہ بڑے ڈیل ڈول کا آدھی  
بہت سونے والا۔

ہدال - (س) اکپڑے کو نیچے لٹکانا۔ اونٹ

کا زخمی ہونا اور اپنے ہونٹ کو  
لٹکانا۔

ہدال - ہدیل۔ (ض) کبوتر کا بولنا۔

ہدلم - بیکار۔ گیا ہوا خون (جان)۔

ہدلم - بیوند لگا ہوا پیرانا کپڑا۔ ج۔: اهدام

ہدلم۔

ہدلم - کنیز کے اطراف سے جو چیز ٹوٹ کر

کنویں میں گر جائے۔

ہدلم - (ض) عمارت کو توڑنا اور مسمار کرنا

کمر توڑنا۔

ہدلمۃ - ہلکا مینہ۔ مینہ کا ایک جھالا۔

ہدلمۃ - وہ اونٹنی جو درکی بہت زیادہ آرزو

اور خواہش کرے۔ ج۔: ہدلمۃ۔

ہدلمۃ۔

ہدلمۃ - صلح اور نرمی۔ آرام طلبی۔

ہدلمۃ - (ض) آرام حاصل کرنا۔ آرام دینا خوش

کرنا۔ دفن کرنا۔ اور مار ڈالنا۔ عیش و

آرام کے ساتھ زندگی گزارنا۔

ہدلمۃ - قاضی شرعی مشلے جانے والا۔

ہدلمۃ - کھٹ۔ بڑھتی بہرزد و زور سے

برتنے والا پرندہ بہت آواز والی کبوتر

ج۔: ہدلمۃ۔

ہدلمۃ - کبوتر کی آواز۔ ج۔: ہدلمۃ۔ مص

(س) - ن) بہت زیادہ اُجاڑنا۔

ویران کرنا۔ توڑنا۔ پوڑھا ہونا۔ اونٹ

کا بولنا۔

ہدلمۃ - عادت، تخلصت۔ مص (ض)

آرام کرنا۔ قرار پکڑنا۔

ہدلمۃ - (س) کپڑا ہوجانا۔

ہدلمۃ - سست اور کند ذہن۔ غنی مص

(ض) دھن کو گھر میں لانا۔ دھن کو

شور کے گھر بھیجنا۔ آگے بڑھنا۔

ہدلمۃ - سر کا چکر جوستی میں سوار ہونے کی

وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔

ہدلمۃ - بے وقوف آدمی۔ بھاری جسم کا آدمی

ج۔: ہدلمۃ

ہدلمۃ - بے وقوف۔ کند ذہن۔ عاجز۔ کپڑے

کا ٹکڑا۔ ریشہ۔

ہدلمۃ النخل - کھجور کے درخت کی شاخیں۔

ہدلمۃ - ہدلی دہنٹائی۔ ہدایت۔ رہبری

مص (ض) راستہ دکھلانا۔ بتلانا۔

آگاہ کرنا۔

ہدلمۃ - (ض) کاٹنا۔ دوہنا۔ میوہ چینا۔

ہدلمۃ - دیوار وغیرہ کے گر پڑنے کی آواز۔

ہدلمۃ - ادھنی کا رونا۔

ہدلمۃ - بڑھوں کی رفتار (جال) مص

(ض) کانپتے ہوئے چلنا۔

ہدلمۃ - خون یا حق جو رانگیں چلا جائے

اور بے کار چلا جائے۔ بے اعتبار آدمی

جو کسی شمار اور نعتی میں نہ ہو۔

ہدلمۃ - (ض) - ن) حق یا خون کا ضائع اور

بے کار جانا۔ یا خون کا ضائع کرنا۔

اونٹ یا پرندہ کا یونا۔ بچہ کو تھپکنا کہ  
سوجانے کوئی چیز اونچائی پر سے نیچے  
اُتارنا والی کسی چیز کا خیال اور تصور  
میں پھرنا اور گھومنا بولتے ہیں فلان  
یُحَدِّثُ هُدًى اِی وہ میرے خیال میں  
پھرتا ہے۔

ہدیٰ - قیدی - دواہن - ہر عمدہ اور عزت کے  
قابل چیز۔ قربانی کا جانور جسے حاجی لوگ  
مکہ معظمہ بھیجتے ہیں۔

ہدیٰ - ہدایۃ - ہدییۃ - (حق)  
سیدھا راستہ دکھانا۔ راستہ کو پاتا  
صحیح راستہ پر آجانا

ہدیٰ - پجائی - راستی - سیدھا راستہ۔ رہنمائی۔  
ہدییۃ - تحفہ - سوغات جہ: ہدایا۔  
ہدییۃ - کام کا طور طریقہ۔ ڈھنگ۔

ہدیدی - لمبا آدمی۔ آواز میں (حق) گرتا دیوار  
کا زمین میں دھنستے وقت آواز کرتا۔

ہدیسر - (حق) کبوتر کا یونا۔ گھاس کا خوب لمبا  
ہونا۔

ہدیل - نر کبوتر کی آواز جب تک کبوتر کی آواز میں  
(حق) کبوتر کا بولنا۔

ہدی - قربانی کا جانور۔ جسے مکہ معظمہ لے جایا  
جاتے۔

۵ - ذ

ہذّ - کاٹنے والا حصہ (حق) خط کو جلد پڑھنا  
جلد کا ٹٹا بہت تیز پڑھنا۔

ہذّ - (حق) بہت جلد کا ٹٹا (دشمن کو)  
تباہ کرنا۔

ہذّاء - بیماری یا نیند میں بڑ بڑا ہسٹ اور لٹی  
سیدھی بائیں۔

ہذّاء - بوجے کا بیچلہ۔ کدال  
ہذّاف - پھرتیلا اور تیز چالاک آدمی۔

ہذّب - (حق) کسی چیز کو کاٹنا۔ پاک و صاف  
کرنا۔ ٹھیک کرنا۔ رہنا جاری ہونا  
دریاؤں کے شور و شغب۔ چیخ و پکار  
کا زیادہ ہونا۔ درخت کو چھٹا کرنا۔

ہذّاس - فضول گوئی۔ بیہودہ گوئی۔ ردی کلام  
میں اس (انکلاہ) کلام کلبے ہودہ  
نغوار خراب ہونا۔

ہذّاس - (حق) بیہودہ بکنا۔ بکواس کرنا  
دن کا سخت گرم ہوجانا۔

ہذّاس - ہذّاس - ہذّاس - بکواس  
کرنے والا۔ بیہودہ بکنے والا۔

ہذّاء - جلد بات کہنا۔ تیز اور جلدی پڑھنا  
ہذّاء - ایک قسم کی تیز چال۔

ہذّاء - موٹے ہونٹ والا آدمی۔  
ہذّاء - ہلکا۔ پھرتیلا۔ لمبا گھوڑا۔ چھوٹا پشیمانی

ہذّاء - تیز چالاک۔ بھیریا۔ ہلکا تیز جہ۔  
ہذّاء - (حق) کاٹنا۔ جلدی کھانا۔

ہذّاء - ہذّاء - ہذّاء - (حق) بے ہودہ  
بائیں بکنا۔ بیساری یا خواب میں  
بڑ بڑانا۔

۵ - س

ہسّ - ہسّ - (حق) برا جانا۔ تاپند کرنا۔  
کٹے کا بھونکنا۔ کمان کا چرچرانا۔

ہسّ - (حق) کاٹنے کا سوکھ جانا۔

ہس د - (ض) گوشت کو خوب پکانا کپڑے کو بھارنا اور کڑے کڑے کر ڈالنا۔ قابو پانا کسی کی عورت و آبرو پر حملہ کرنا۔ خراب کرنے کے لئے بھارنا۔  
ہس س - بٹی - مص (ن) خوب کھانا خوب کھانا۔

ہس س - بٹی - بہت بھارنے اور کھانے والا شیر۔ پرانا کپڑا۔

ہس ش - (س) بری عادت والا ہو جانا۔

ہس شمس - نرم پتھر۔ نرم پہاڑ۔

ہس شمتہ - بہت دودھ والی بکری سخت زین

ہس ص - بدن کی سخت خشک بھلی مص (س) خشک بھلی میں مبتلا ہونا۔

ہس ط - (ن) عورت و آبرو پر حملہ کرنا۔

بے عزتی کرنا (فی الکلام) لغو

بکھا۔

ہس طہ - بوڑھی اور بلی بھیرٹ۔ بے وقوف

ڈیوک عورت - ج - ہس ط۔

ہس ع - (حق) خون بہنا۔ بے قراری کے

ساتھ چلنا۔

ہس ع - گرم خون بہتا ہوا۔ وہ آدمی جو ذرا سی

دیر میں رو پڑے۔

ہس ف - (حق) ب (تعریف کرنے میں مبالغہ

اور خوب زیادتی کرنا۔ بغیر جانے پچانے

بڑے تعریف کرنا بھروسے و درخت

کا پھلوں کو جلدی یکا دینا۔

ہس ق - ہس قیل و دم کے ایک بلو شاہ

کا نام۔

ہس م - ایک کھاری گھاس۔

ہس بٹی - ج - ہس ر م - ہس س ج -

ہس ر -

ہس ز - ہس ز - (س) اللحم گوشت

کا خوب پک جانا۔ گوشت کا خوب

گل جانا۔

ہس آ - بری اور فحش بات کہنے والا۔

ہس اش - کتوں کو ایک دوسرے پر لہکانا۔

ہس اع - (س) بے چینی اور گھبراہٹ کے ساتھ

تیز چلنا۔

ہس او - مونی لاجھی - ج - ہس او بی - ہس بی

ہس بی -

ہس ب - اوجھا اور نترپی کے اوپر کی پستلی

چربی۔

ہس ب - ہس بان - (ن) بھاگ جانا۔

ہس بین - آتش کدہ کا مجا در یا خدمت گار۔

آتش پرستوں کا عالم - ج - ہس ایذہ

ہس ات - (س) عورت کے دونوں پیشاب

پاخانے کے سوراخوں کا ایک ہو جانا۔

کسی چیر کا کشادہ ہونا۔

ہس ات - (ن) گوشت کو خوب پکانا۔ کسی کی

عورت و آبرو پر طعن کرنا۔ نیزہ مارنا۔

کپڑا بھارنا۔

ہس اہمتہ - شیر - ناک کی نوک کہتے کے ناک کے

دونوں سوراخوں کی بیچ کی سیاہی

ہس ج - خرابی - نقصان - فتنہ - فساد مص

(حق) فتنہ اور خرابی میں پڑنا۔ دروازہ

کھلا چھوڑ دینا۔ زیادہ بائیں بنانا۔

صعبت کرنا۔ مشہر میں ڈالتے والی

بات کہنا۔ تیز دوڑنا۔ گھوڑے کا

ہم - (س) بہت بوڑھا اور زیادہ عمر کا ہو جانا۔  
 ہم - بہت بوڑھا جو بڑھاپے کی وجہ سے بدحواس ہو گیا ہو۔ ج۔  
 ہمنام - عقل - موش - اچھی رائے۔  
 ہمسکان - مصر میں دو عمارتیں - کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو حضرت ادریس علیہ السلام نے بنوایا تھا۔  
 ہمنان - ہمنان - ہارمونڈ - فارس کا ایک بڑا بادشاہ۔  
 ہمنان - وہ بات جو دوست سے چھپائی جائے مصلحتاً کہ آہستہ آہستہ خوب چبانا آگ کا بھنا۔  
 ہمنان (مکتہ) - بال اکھاڑنا - بال کاٹنا۔  
 کام کا خراب اور تباہ ہونا۔ بڑھیا عورت کا بڑھاپے کی وجہ سے سٹ جانا۔  
 ہمنان - اکھاڑا ہوا بال - گرا ہوا بال - ج۔  
 ہمنان - سفیر - خوشنواز - بھینس - گینڈا۔  
 ہمنان - دوڑنے اور چلنے کے درمیان کی چال (ایک کرچلنا)  
 ہمنان - جاڑے کی وجہ سے کتے کی آواز (جو بھونکنے سے کم ہو)۔  
 ہمنان - اناج اور پرند کے گوشت سے پکا ہوا کتا

۴ - ہمنان

ہمنان - (س) من - کسی کے ساتھ سخن چاہ کرنا۔

ہمنان - (س) مرجانا۔  
 ہمنان - (ن) ہلنا - حرکت دینا - ہلانا۔  
 ہمنان - بیل (د)  
 ہمنان - ڈبلین - لاغری۔  
 ہمنان - سفیر - سخت ٹھوس اور موٹی چیز۔  
 ج۔  
 ہمنان - شادمانی خوشی - گرج - لاندھی کے پوش کی آواز - اونٹ کی ایک قسم کی چال۔  
 ہمنان - گرج کی آواز - راگ - ترانہ - عروض کی بحر میں سے ایک بحر مص (س) گویے کا راگ گانا۔  
 ہمنان - (س) ناٹھی سے کوکھ اور پیٹ پر مارنا۔ تجارت میں بھاؤ کو بڑھانا - ہنسنا کسی کو کچھ دینا - بہت مارنا۔  
 ہمنان - بیماری جسم کا تیز چلنے والا شتر مرغ چلنے عورت جو ایک جگہ بیٹھے۔  
 ہمنان - یہود کی مذاق کی بات - سنہی مذاق مص (ن) (س) دبا ہوا جانا - ڈبلا کر دینا۔  
 ہمنان - (س) سنہی مذاق اور یہود کی کرنا۔  
 ہمنان - (ن) مہربان کرنا (س) کسی چیز میں انگلی ڈالنا - شکست دینا - کنوا کھودنا۔  
 ہمنان - سدھا ہوا اور تباہ ہوا گھوڑا۔  
 ہمنان - بین جو تھکنے کا نام دے۔  
 ہمنان - بچی جگہ - ج۔  
 ہمنان - (ن) چلنا۔  
 ہمنان - (ت) تیز چلنا - دوڑنا۔  
 ہمنان - آواز - ہوا کے چلنے کی آواز - گرج

کی آواز میں دن (اونٹ) مانگنے والے  
کاراگ سے اونٹوں کو جوش دلانا۔

ستارہ کا ٹوٹنا۔

ھَنِيح - رات کا کچھ حصہ۔ (حق آدمی۔)

ھَنِيح - بجلی اور اس کی کڑک۔ تر تھمتے والا  
میدان شکست خوردہ۔

ھَنِيح - لشکر کی شکست۔ بہت پانی والا  
کنواں۔ ڈبلا اور کمزور چوپایہ۔

جہ - ھَنِيح - آئیم۔

ھَشَاشَة - ھَشَاش - خوشی بشار دانی

میں (حق - حق) خوشی ظاہر کرنا۔

خوش ہونا۔ ہشاش ہشاش ہونا  
پانچ پانچ ہونا۔

ھَشَاشَة - ہجر غزور۔ آزار پہن

ھَشَاش - (حق) سوکھی روٹی توڑنا۔ ہوا کا شگ  
ورخت کو (کھاڑنا۔ پھینکنا۔ تمام)

دودھ دوہنا۔

ھَشَاش - سخی آدمی جو مانگنے والوں کے سوال  
سے خوش ہو۔

ھَشَاش - ٹوٹا ہوا۔ ہر خشک چیز۔ بربزہ بربزہ  
سوکھی گھاس۔

## ۵ - س

ھَس - (ن) کوٹنا۔ توڑنا (حق) کوئی بات سچنا

کوئی بات دل میں آنا۔ بات کا  
پوشیدہ رکھنا۔ کسی کا دل ہی دل میں

باتیں کرنا۔

ھَسَاھَسَا الحجت۔ جن کی حقی آوازیں۔

ھَسَاھَسَا الناس۔ لوگوں کی ہلکی آوازیں جو کچھ  
میں نہ آویں۔ واہ۔ ھَسَاھَسَا

ھَسَاھَسَا۔ رات کا پہرہ دار بچیوں کی تمام رات  
کی رکھوالی کرنے والا۔ قصاب۔

ھَسَاھَسَا۔ زہ اور زہیور کی ہنکار۔ (آواز  
دینا) رات کے وقت چلتے ہوئے

پاؤں کی آواز۔ رات کو چلنا۔

## ۵ - ش

ھَش - سست اور نرم چیز۔ مٹاؤ روٹی

خوش و خرم آدمی۔ بہت پسینہ  
بھانے والا گھوڑا (ن - حق)

درخت کے پتے بھاڑنا۔

## ۵ - ص

ھَصَب - (حق) بھگانا

ھَصَم - (حق) توڑنا۔ ٹکڑے کرنا۔

ھَصُوس - ھَصُوسَاة - ھَيْصُوس - شیر۔

ھَصْبِص - پاؤں کے نیچے پکلا ہوا۔ توڑا ہوا۔

ھَصِيص النَّار - آگ کی چمک۔

## ۵ - ض

ھَضَق - (ن) توڑنا۔ کوٹنا۔ آدمی کا اچھی چال  
چلنا۔ سحر کا نام۔

ھَضَام - ہاضمہ کے درست کرنے کی دوا  
مال خرچ کرنے والا آدمی۔ شیر۔

ھَضِيبة - زمین پر پھیلا ہوا پہاڑ کا سلسلہ  
بڑی بڑی بوندوں کا برابر برستے

والا مینہ۔ جہ۔ ھَضَب - ھَضَب - ھَضَب -



هَضَم - نیچی اور سموار زمین - ج:۔ هَضْمُوم

مص (ض) کھانے کو معدہ میں ہضم کرنا۔ توڑنا۔ ظلم و ستم کرنا۔ بغض ہونا۔ کسی کے حق میں سے کچھ لے لینا۔ دوسرے پر کچھ حق باقی رہنا۔

هَضَم - ایک قسم کی خوشبو۔ ج:۔ اَهْضَام مص (س) پتلے پیٹ اور پتی کروالا ہونا۔

هَضْمُوم - ہاضمہ کی دوا۔ شیر۔ سخی آدمی۔ خوب بخشش کرنے والا۔ سخی۔ ہاتھ کر چویا لٹا دے۔ ج:۔ هَضْمُوم

هَضِيم - ظلم کیا ہوا۔ تکلیف پہنچایا ہوا۔ مظلوم۔ پتلے پیٹ کی عورت۔ بے کھلا غنچہ۔

هَضِيمَةٌ - ظلم و ستم۔ بغض۔ وہ کھانا جو میت کے سلسلین تیار کریں۔ ج:۔ هَضَامُوم

ط - ۵

هَطَل - ہلکا اور برابر بستے والا مینہ۔ مص (ض) بڑی بوندوں والے مینہ کا لگنا۔ تار برسنا۔ آنسوؤں کا بہنا۔ آنکھ کا آنسو بہانا۔

هَطَل - بھیر یا چور۔ بے وقوف۔ تھکا دینے والا۔ اوٹ۔

رِدِيمَةٌ (هَطَلَاءٌ) - لگاتار بستے والا مینہ۔ مینہ کی بھڑی۔

هَطَلَج - بڑی جماعت۔ بڑا لشکر۔ لمبے قد کا بھاری بھر کم آدمی۔

هَطَلِي - آہستہ چلنے والی اونٹنی۔ راستہ میں تھکے ہوئے اونٹ۔ بے ساربان۔

اونٹ۔

۵ - ف

هَفَّت - کھینٹ۔ (ض) ہوا کا سنسنار ہٹنا۔ اور تیزی کے ساتھ چلنا۔ چکنا۔ ہلکا۔ ہوجانا۔ تیز چلنا۔

هَفَاةٌ - مینہ کی ہلکی بھڑی۔

هَفَّاتٌ - چست۔ چالاک۔ صاف و شفاف چیز۔ ٹھنڈا سایہ۔ چمکدار۔ روشن تیز۔ پھر تپنا۔

هَفَّت - بڑی بے وقوفی۔ نیچی اور سموار زمین۔ مص (ض) بے سوچے سمجھے زیادہ

گف تنگو کرنا۔ ہلکے پن کی وجہ سے ادھر اُدھر اڑنا۔

هَفُو - جھوک مص (ن) جھوکا ہوتا۔ ٹھوکر کھانا۔ اڑنا۔

هَفْوَةٌ - لغزش۔ ٹھوکر۔ ج:۔ هَفَوَاتٌ مص (ن) ٹھوکر کھانا۔ پرندہ کا اڑنا اور بازوؤں کو ہلانا۔ جھوکا ہونا۔

۵ - ق

هَقَق - (ض) بھاگنا۔ هَقَقَت - (س) جھوک اور کھانے کی خواہش کا کم ہونا۔

هَقَل - جوان شتر مرغ۔ لمبا۔ بے وقوف چھوہڑ۔

هَقَم - (س) بہت جھوکا ہوجانا۔

هَقُو - بکنا۔ کجواس کرنا۔ کسی کو رشیدہ کرنا۔ دل دکھنا۔

مل کرنا ہے ہلاقت۔ کیوں نہ  
کہا تو نے۔

ہلاس۔ سن کی بیماری جس میں منہ سے خون  
آتا ہے۔

ہلال۔ پہلی رات کا چاند یا تیسری رات یا  
ساتویں رات تک کا چاند۔ پہلی بارش  
چلی کا ڈٹا ہوا پتھر۔ ناخن کی جڑ کی  
سفیدی۔ خوب صورت لڑکا۔ کتوں  
کی تھاہ کا تھوڑا سا پانی۔ جہ۔  
آہلہ۔ آہالیل۔

ہلاہل۔ بہت صاف پانی

ہلاہ۔ جیلی (ایک قسم کا مریہ) (د)

ہلالان۔ برکیٹ (د)

ہلب۔ (حق) بال اٹھانا (آسمان کا) اوس  
یا بارش سے تر کرنا۔ بڑا بھلا کتا۔  
بجھو کرنا۔

ہلتہ۔ ڈبوٹ۔ بارش۔ شے۔ جہ۔ ہتلی

ہلس۔ بہت زیادہ بھلائی اور احسان۔

سہل کی بیماری۔ ڈبلا پن (حق)

سہل کا بیمار ہو جانا۔ بیماری کا

مکرور اور ڈبلا کر دینا۔

ہلتق۔ (ن) کھینچ لینا۔ اٹھا لینا۔

ہلتق۔ (س) بے صبری کی وجہ سے شور

مچانا۔

ہلتق۔ (ن) جلدی کرنا۔

ہلتقم۔ قوی آدمی۔ بڑی عمر کی عورت۔ پڑھی

پاھوں والا۔ کشادہ دہن والا۔

ہلتک۔ ہر بلاگ ہونے والی چیز۔ دو چیزوں کے

درمیان کا جھوٹا ہوا۔

ہتھوقہ (مع رقعہ) تیر چال سے چلنا

## ۵ - ل

ہلق۔ اٹلی سمجھ کا آدمی۔ بے عقل جہ۔ ہلقتہ

آہٹک (مع رن) پچھاڑا جانا۔ پاخانہ  
کے راستے سے ہوا پھوڑنا۔ گاتار  
نیشے مارنا۔ بہت زیادہ صحبت کرنا۔  
کتوں کا منہم ہو جانا۔ ڈبلا کرنا۔

ہلکس۔ (حق) بہت زیادہ تعجب کرنا

(س) آنکھوں میں نیند بھرنا۔

ہلح۔ (س) بے صبر ہو جانا۔ عاجزی اور

آنکساری کرنا۔

ہلقتہ۔ (حق) نادان۔

ہلکوخ۔ (د) آرام حاصل کرنا۔ بستانا

(بالقوم) شام کو اپنی قوم اور

گروہ میں لوٹ آنا (الی الارض)

زمین پر منہ کے بل اوندھا گر پڑنا۔

ہلکوک۔ نڈر۔ گستاخ اور جلد باز آدمی۔

## ۵ - ل

ہل۔ کیا سوال کا حرف (تحقیق) (معنی

قد) نہیں (معنی نفی)

ہل۔ پتلا اور طام کپڑا۔ طام باں۔

(ن) مینہ کا زور سے برسنا۔ ہلال

(مہینہ کی شروع تا ریحوں کا چاند)

نکلنا خوش ہونا۔

ہلا۔ کیوں نہیں۔ کس لئے نہیں (طاعت

کرنے یا اچھا کرنے کے لئے بولا جاتا

ہے۔ ہل سوالیہ اور لافنی سے

مردوں کو منصوب متصل) اُن مردوں کا (مجرور متصل)

هَمَّ - بہت بوڑھا۔ ج۔۔ اَهَمَّام

هَمَّاءُ - (ف) کپڑے کو بچاڑنا اور پڑنا کرنا

هَمَّاءُ - وہ دو۔ ان دو کو۔ اُن دو کا۔

هَمَّاسٌ - خوب برسنے والا بادل۔ بہت بولنے والا آدمی۔ یا وہ گو۔

هَمَّاسٌ - عیب چیں۔ بدگو۔

هَمَّاهُ - بہادر سردار۔ جو افرود۔ برت کا پھلا ہوا پانی۔ بڑی بہت والا بادشاہ۔ ج۔۔

هَمَّاهُ -

هَمَّاتٌ - بہت بوڑھا۔ قصد۔ ارادہ۔ ج۔۔

هَمَّمٌ - خواہش۔ آرزو۔ بہت بوڑھا

ج۔۔ هَمَّاتٌ - هَمَّاتٌ

هَمَّسٌ - (ن) ح) پر اگندہ کرنا۔ پر اگندہ ہونا۔

دینا۔ بخشنا۔ بہت باتیں کرنا۔ حقن کا تمام دودھ دودھ لینا۔

هَمَّيْ جَآءٌ - جلدی۔ ملاوٹ۔ بیکار۔ حقیر۔ ج۔۔

طیرھا۔ سیدھا چلنا۔ آدمیوں کا شور مچانا۔ مل جانا۔

هَمَّسٌ - (ن) آنکھ سے اشارہ کرنا۔ چکنا چور کرنا

مٹھی میں لے کر بھینچنا۔ زور سے دباننا۔

چبھوتا۔ پاؤں سے دباننا۔ عیب بیان

کرنا۔ کاٹ کھانا۔ هَمَّسُ الشَّيْطَانِ

وہ خطہ۔ دوسرے جو شیطان انسان کے

دل میں پیدا کرتا ہے۔ ج۔۔ هَمَّسَاتٌ

هَمَّسَاتٌ - بہت عیب گیری کرنے والا۔

هَمَّسٌ - نرم اور ہلکی آواز۔ دل کی دھڑکن کی آواز

مص (حق) بھینچنا۔ دباننا۔ ہونٹ بند

هَلْكَ - هَلَاكَ هَلُوكٌ (ف) جن (م) مرجانا

نیست دنیا بود مرجانا۔

هَلَلٌ - خوف اور ڈر۔ پہلا مینہ۔ مکڑی کا تنا

ہوا جالا۔ ایک قسم کا زہر جو فوراً

ماریتا ہے۔

هَلَمَّ - آو۔ یہاں۔ آؤ۔

هَلُوعٌ - بے صبر۔ ذرا صبر نہ کرنے والا۔ بُرائی

سے ڈرنے والا کسی چیز کی آرزو اور خواہش میں ترپنے والا۔

هَلُوفٌ - بھاری جسم کا آدمی۔ بڑی داڑھی والا

آدمی۔ زیادہ عمر کا بوڑھا۔ بہت بالوں والا

آدمی۔ ابرو والا دن

هَلُوكٌ - بے شرم عورت۔ کسی۔ رڈی

هَلْهَلٌ - تپانا ہوا کپڑا۔ نرم اور باریک بال

ایک قسم کا زہر۔ ج۔۔ هَلْهَلٌ -

هَلْهَلَةٌ - باریک کپڑا بننا۔ انتظار کرنا۔ دیر کرنا

باریک چھلنی سے اٹا پھاننا۔ کوئی کام کرنے کے قریب ہونا۔ گھوڑے کا لفظ ہللا کے ساتھ ہانچنا۔

هَلْيُونٌ - ایک گھاس ہے۔ فارسی میں مارچوبہ

اور مارگیاہ بھی کہتے ہیں۔

۵ - ۵

هَمَّ - فکر غم۔ ج۔۔ هَمُّومٌ - مص (ن)

کسی کا کسی کو غم گین کرنا۔ بیماری کا کسی

کو ڈھلا کرنا اور کروڑ کر دینا۔ عورت کا

بچو کو لوبیاں دے کر سلانا۔ قصد کرنا۔

چرنی کو گکانا۔ دودھ دہنا۔

هَمَّ - وہ سب مرد (ضمیر فروع متصل) اُن

جو کر سے ہاتھ لی جاتی ہے۔ ج۔ ہ۔  
ہَمَّیْنِ -

ہَمَّیْمِ - ہلی بارش ہص (حق) آہستہ چلنا۔  
ہلنا۔

## ۵ - ن

ہَمَّیْتٌ - وہ سب عورتیں۔ ان عورتوں کو۔  
ان عورتوں کا تمغیر۔ جمع مؤنث  
غائب۔

ہَمَّیْتُ - ہَمَّیْتُ (س) خوش گوار ہونا۔ کھانے  
کا ہضم ہونا۔ ب [کسی چیز میں گن گن ہنا  
خوش رہنا۔

ہَمَّیْتُ - (ف) عطا کرنا کچھ دینا بخشنا  
کھانے کا ہضم ہونا بغیر تکلیف کے  
پہنچنا۔

ہَمَّیْتُ - مَمَّیْتُ - مذاق بنانے کے طور پر  
ہنسنا۔ باہم کھیلنا۔

ہَمَّیْتُ - ہندوستانی - واہ۔ ہند کی

ہَمَّیْتُ - واپ۔ اس وقت

ہَمَّیْتُ - بھوک کی تیزی۔ تیز بھوک۔ جنت عورت  
وہ تھی جو تھوڑی ہو اسے اڑجاتی ہے۔

ہَمَّیْتُ - بھوکا ہونا۔ گرد اور بخار کا اڑنا۔

ہَمَّیْتُ - اونٹوں کا گلہ۔ ایک عورت کا نام۔

ہندوستان (یہ لفظ منصرف بھی سے  
اور غیر منصرف بھی۔ ج۔ آہٹ  
آہٹا۔ ہٹو۔

ہَمَّیْتُ - ہندوستانی (مسلمان) (د)

ہَمَّیْتُ - کاسنی (ایک قسم کی گھاس)

ہَمَّیْتُ - اندازہ (د) انجیزی

کر کے کھانے کو چبانا (شہطان) کا  
دوسوہ ڈانا۔ توڑنا۔ پھوڑنا۔ رات  
کو خوب چلنا۔

ہَمَّیْتُ - (ن) گوشت کھانا کسی کو زمین پر پھینچا  
کر اوپر چڑھ بیٹھنا اور مار ڈالنا۔

ہَمَّیْتُ - (حق) ظلم کرنا۔ ستم ڈھانا۔ بہت مارنا  
خراب اور پامال کرنا بغیر جج کے اور بے خوف  
ہو کر کوئی بات کہنا۔ حق باطل کے ساتھ  
ملانا۔

ہَمَّیْتُ - نرم اور تازہ گھاس۔

ہَمَّیْتُ - (ن) کسی سے اپنا کام پورا کرانے کے  
لئے کوشش اور ہٹ کرنا کسی معاملے  
میں کسی پر زور ڈالنا۔ باؤ ڈالنا۔

ہَمَّیْتُ - چھوڑے کے درخت کی اتاری ہوئی پھل  
بتا ہوا پانی۔ ج۔ آہمال

ہَمَّیْتُ - ہَمَّیْتُ (ن) جن (انسوؤں  
کو بہانا۔ زار زار رونا۔ ہادوں کا متواتر  
برسنا۔

ہَمَّیْتُ - خوب چلنے والا چوپایہ۔ ج۔ ہَمَّیْتُ  
بروزن فعل تیز چال والا اونٹ۔

ہَمَّیْتُ - بھیریا۔ بے وفا صحبت آدمی جو کبھی  
ایک گروہ کو بھی دوسرے گروہ میں چلا جا  
پھر تپا اور چالاک آدمی۔

ہَمَّیْتُ - برسنے والا بادل۔ بہت پانی والا کنواں  
عمدہ چال کی اونٹنی۔

ہَمَّیْتُ - ہَمَّیْتُ (حق) پانی یا انسوؤں کا بہنا  
چوپایوں کا چرنا گاہ میں بھٹکنا (ادھر  
ادھر بھاگنا)۔

ہَمَّیْتُ - ہَمَّیْتُ (حق) پانی یا انسوؤں کا بہنا  
چوپایوں کا چرنا گاہ میں بھٹکنا (ادھر  
ادھر بھاگنا)۔

ہَمَّیْتُ - ٹپکا۔ روپیہ وغیرہ رکھنے کی تھیلی

ہند کی - ہندو - ج:۔ ہندا ڈک -

ہند دوس

(سبب) ہندا د اخی - ہندوستانی تنوار -

ہنداوس - دانا پینا - چالاک آدمی - ج:۔

ہندا ستہ -

ہندہ - گردن کی چھوٹائی - قد کا ٹیڑھ پان مہ (س) چھوٹی اور ٹیڑھی گردن والا ہونا -

ہنڈا -

ہنڈا - اونٹ کی گردن کی جڑ کا دارغ - چاند کی ایک منزل -

ہنڈاریا - ملک ہنگری -

ہنڈا - رنج اور غم کے سبب بے آرامی - بے تہ راری -

ہنڈی - خوش گوار کھانا - رچا پچا -

۵ - ۶

ہو - محبت کرنے والا - دوست رکھنے والا -

ہو - وہ مرد - ضمیر -

ہو - قصد - ارادہ - ہمت - صحیح رائے

مہ (ن) (ب) کسی کو نیک گمان کرنا یا برا گمان کرنا - کسی سے خوش ہونا - ادب سچا کرنا - بلند کرنا -

ہو اع - آسمان اور زمین کا بیچ - فضا - ج:۔ آہویہ - خالی -

الہو اع الاقصی - وہاں سے بہت دور -

ہو ادا - نرمی کرنا - صلح کرنا - میل جول کرنا - آہستہ چلنا -

ہو ارا - ہنسی - ہلاکت - ج:۔ ہو ارا ت

ہو اع

ذی قعدہ کا مہینہ - ج:۔

ہو اعات - آہو اعہ (م) (ن) قے کرنا -

ہو اک - حیران - پریشان - ہکا بکا -

ہو ام - زور کی پیاس - ایک قسم کا جنون اور عشق -

ہو ب - احمق - بیہودہ کہنے والا - آگ کی ریشتنی -

ہو ہ - نیچی زمین - گڑھا - آسمان زمین کا بیچ

ہو ج - لمبا پن - تھوڑی سی بے وقوفی اور جلد بازی کے ساتھ -

ہو جاء - تیز چال کی اونٹنی - تیز ہوا - آندھی جو درختوں کو اکھاڑ ڈالے - مکانوں کو گرا دے - ج:۔ ہو ج

ہو جیل - لمبا چوڑا سپاٹ جنگل - ڈیل بے آبرو - لمبی چوڑی رات - کشتی کا سنگر - لمبا - بے وقوف -

ج:۔ ہو اجل -

ہو د - (ن) تو بکرنا - شرمندہ ہونا - بچائی اور حق کی طرف لوٹنا - یہودی ہونا -

ہو د - یہودی لوگ - ایک پیغمبر علیہ السلام کا نام مبارک -

ہو دج - ہودہ - ڈولی - عورتوں کی ایک قسم کی سواری - ج:۔ ہو ا دج -

ہو ذرہ - سنگ خوار (ایک جانور)

ہو ذلہ - تیز چلنا - ادب کی طرف پیشاب کرنا پھینکنا -

ہو س - ایک قسم کی چال مہ (ن) کوٹنا - توڑنا - رات کو گھومنا - پھسرتا - چکر کاٹنا -

چاہتا۔ خواہش کرنا۔ لغت رکھنا  
 ہوئی۔ رات کا ایک حصہ۔ آواز۔ فریاد۔  
 ہوئیں۔ کھٹکا۔ بھید۔ راز کی بات جو دل ہی  
 میں رکھی جائے  
 ہوئی۔ ہوئیاں۔ (ص) اوپر سے نیچے اترنا  
 گرنا۔

۵ - ی

ہی۔ وہ عورت ضمیر۔  
 ہڈیا۔ کسی چیز کی حالت اور کیفیت صوت  
 ڈھانچہ (د) مجلس کورم۔  
 الہیاء الایجابیۃ۔ سوسائٹی (د)  
 ہیسا۔ وہ چیز جو گر پڑے۔ منہدم۔  
 ہیاہ۔ چکتا ہوا ریت۔ خشک ریستان  
 جہ۔ ہیسم۔  
 ہیاہ۔ عشق۔ محبت کی دیوانگی اور جنون۔  
 تیز پیاس۔ چوپایوں کی بیماری۔  
 ہیبان۔ بہت زیادہ ڈرنے والا اور خوف  
 کھانے والا۔ ڈر پوک۔ حسرت اور  
 چالاک گذریا۔ اونٹ کے منہ کے بھاگ۔  
 ہیبت۔ خوف۔ ڈر۔ دمہشت۔ رعب۔ دہلہ  
 بزدلی۔  
 ہبت۔ آدم فعل ہے جیسے ہلم۔  
 ہیبت۔ (ص) تھوڑی سی چیز دینا۔ ہن۔ مال  
 سے ضرورت کو پورا کرنا۔  
 ہیجم۔ ہیجان۔ (ص) غفہ کرتا جو ش مارنا  
 کھجاء۔ جنگ۔ لڑائی۔  
 ہیسا۔ بے چین پریشان۔ حرکت مص  
 (ص) ڈراتا۔ ہلانا۔ رنج پہنچا۔ درست

تباہی اور بربادی ڈالنا۔ ادنیوں کو  
 آہستہ ہانپنا۔  
 ہوش۔ بڑی تعداد میں (ن) بلا ہوا ہونا۔  
 گڈمڈ ہونا۔  
 ہوش۔ (س) بے چین ہوجانا۔ مکر۔ دری کی  
 وجہ سے سریش کا چھوٹا ہونا۔  
 ہوشہ۔ فتنہ۔ بے چینی۔ اضطراب۔ گڑبڑ۔  
 بھیڑ۔  
 ہوت۔ گرم ہوا۔ ٹھنڈی ہوا۔ (ص)  
 ہوت۔ بے خیر آدمی۔ وہ آدمی جس سے لوگوں  
 کو کوئی فائدہ اور فیض نہ پہنچتا ہو۔  
 بزدل۔ محم آدمی۔  
 ہول۔ خوف۔ ڈر۔ جہ۔ آہوال۔ ہول  
 مص (ن) ڈراتا۔  
 ہولادۃ۔ ہالینڈ (یورپین ملک)  
 ہولکۃ۔ خود بینی۔ ناز۔ خوبصورت عورت جس  
 کا حسن لوگوں کو حیرت میں ڈالے۔  
 وہ آگ جس کی آیاں جاہلیت میں قسم  
 کھایا کرتے تھے۔  
 ہولول۔ ہلکا آدمی۔  
 ہون۔ طور۔ ڈھنگ۔ آرام۔ آسانی ضبط  
 بردباری۔ بھوٹا اور حقیر آدمی۔  
 ہون۔ رسوائی۔ ذلت۔ تکلیف۔  
 ہوہاءۃ۔ بے وقوف آدمی۔ وہ کنواں جہیں  
 اترنے کے لئے زمین یا زنجیر وغیرہ  
 لٹی ہوئی نہ ہو۔  
 ہوی۔ عشق۔ محبت۔ آرزو چاہت۔  
 دل کی خواہش چاہی ہوئی چیز، معشوق  
 محبوب۔ جہ۔ آہواء۔ مص (س)

ہیج - ہیج طل - ہیج طلہ -  
 ہیج - (حق، صفت) بچھا ہوا ہونا۔ رونا۔ بزدل  
 ہونا۔ کم محبت ہونا۔ زبردستی سے  
 کرنا۔ بھوکا ہونا بہت زیادہ آرزو  
 اور خواہش کرنا۔ کھلنا۔ بہنا۔  
 ہیجۃ - شور اور آوازیں جس سے ڈر معلوم  
 ہوسکتی۔

ہیجوعۃ - مص (حق) سے کرنا۔ بزدل ہونا  
 ہیجۃ - پیاس کی تیزی۔ گرم ہوا مص (حق)  
 بہت پیاسا ہونا۔

ہیفاء - پتلی کردالی عورت۔ خاص ہیفاء  
 پتلی کرکا گھوڑا۔ ج۔ ہیفاء۔

ہیفات - پیاسا آدمی۔

ہیق - ترش تر مرغ۔ برہ پتلی اور لمبی چیز۔

ہیقم - دریا کی موجوں اور تھپیڑوں کی آواز  
 گرا اور بڑا دریا۔ لمبا شتر مرغ۔  
 لقمہ نکلنے کی آواز۔

ہیکاسا - (یکوڑ د)

ہیککل - ہر سخت اور موٹی چیز۔ لمبا موٹا تازہ  
 آدمی۔ اور گھوڑا وغیرہ۔ ڈھانچہ۔

مورت - تصویر۔ اونچی عمارت۔

قربان گاہ کلیسا۔ ج۔ ہیجا صل

ہیسل - اڑائی ہوئی گرد۔ خاک جو نیچے آگے

مص (حق) خاک و مھول۔ کسی کے

اوپر ڈالنا۔

ہیکلۃ - خوف ناک کام۔ وہ کام جسے کرتے ہوئے

ڈر معلوم ہو۔

ہیسم - ہیسمان - (حق) محبت کرنا

عاشق ہونا۔ کسی کے عشق میں حیران

کرنا۔ الٹ دینا۔ اکھاڑنا  
 ہیڈاب - جھکا ہوا ہادل۔ ٹپ۔ ٹپ کرنے والے  
 آنسو۔ بھاری جسم کا چھوڑ کھڈ ذہن۔  
 کم سمجھ آدمی۔

ہیڈانی - گھوڑے کی ایک قسم کی پٹائی

ہیڈو - رات کا شروع آدھا حصہ۔ شمالی ہوا۔

ہیڈو - چرواہے کی یا نشہ۔ روانی کے میدان

کا گرد و غبار۔ جنگل کے بھوت پریت

جماع کی بہت آرزو مند عورت۔

ہیڈس - ہن پیل وغیرہ کھیتی کاسا مالیا اور آواز

مص (حق) بہت سارے لینا۔ روندنا

پراگندہ کرنا۔ تیز چلنا

ہیڈیش - (حق) بھڑکانا۔ آہستہ دوہنا

بہت باتیں کرنا۔ بر باد کرنا۔

ہیڈشہ - فتنہ۔ فساد۔ لڑائی جھگڑا۔ کھلبلی۔

گڈمڈ۔ بھیر۔

ہیڈصم - ایک قسم کا چمکیلا پتھر۔ بہادر آدمی۔

شیر۔

ہیڈض - (حق) بڑی کوجڑ جانے کے بعد پھر

توڑنا۔ بیماری کو لوٹا دینا۔

ہیڈضۃ - (حق) رنج و غم کا بار بار پہنچنا۔ رنج

اور غم برداشت کرنے کی عادت

پڑھانا۔ بیماری کا لوٹ آنا۔ کھانے

کا ہضم نہ ہونا۔

ہیڈضلۃ - موٹی اور درمیانی عمر کی عورت۔

مسخ لشکر آدمیوں کی چیخ و پکار

اور آوازیں۔

ہیڈطل - لومڑی۔ چند آدمیوں کی جماعت

جسے ساتھ لے کر جنگ کی جائے۔

پرنیشان اور دیوانوں کی طرح پھرنا۔  
ہیثم - پیاسے اونٹ -

ہیثماء - خشک اور سپاٹ جنگل جس میں  
تر پانی ملے اور تر راستوں کے نشان  
کھینٹتے۔ آئین کتا - پرندہ کا اپنے بچے پر بازو  
پھیلا نا۔ پردوں میں پھیپھڑا نا۔ گنجان -  
اور محافظ ہونا۔ دیکھ بھال کرنا۔

ہتین - نرم۔ آسان۔ ہلکا۔ عام۔  
کھیبوب - ڈرنے والا۔ ڈرپوک آدمی۔ وہ آدمی  
جس سے لوگ ڈریں۔

ہیوع - ہیتعان - (ض. ف) بھوکا ہونا۔  
بدول ہونا۔

ہیویا - مادہ۔  
ہیثہ - وہ شخص جسے میںے کپڑوں اور گزہ  
رہنے کے سبب لوگ اپنے پاس نہ  
بٹھنے دیں۔

ہیہات - وہ دور ہوا (اسم فعل ہے)  
ہیئی - اچھے جسم اور عمدہ بدن کا آدمی۔

## ی - ل

یابان - جاپان - (د)  
یالیس - خشک جہ۔۔ یلیس - بھر روم کا  
ایک جزیرہ۔

یالیستہ - بڑا عظم (د)  
یاستری - یہ ہوگا۔ خدا کرے ایسا ہو کلمہ تعجب  
و کلمہ تمنا۔

یاجوج - یا جوج ماجوج۔ دودھنی قومیں جن کی  
رکاوٹ کے لئے ذوالقترین  
نے دیوار بنوائی تھی۔

یاخوٹ - اصطیل (د)

یاساج - ہاتھ کے زلزلہ (د)

یاساق - دستا نہ سنگھن۔

یاسس - (س. ف) جانتا۔ ظاہر ہونا۔

یاسس - (س. ف) ضج۔ نا امید ہونا۔

یاسس - آسان۔ پایاں۔ اونٹ کو ذبح کرنے

والا۔ جو اٹھینے والا۔ جوئے کی قربانی

کو بانٹنے والا۔ جہ۔۔ آیساس

یاسسوں - یاسسین۔ جنسبلی۔

ییس - فترآن کریم کی ایک سورت کا

نام۔

یانتا - زندہ یاد۔ کلمہ و عبار لے بادشاہ۔

یاشمق - روئے بند (د)

یافتہ - ساتن بورڈ (د)

یاقح - گدرائے ہوئے جسم کا لڑکا۔ جہ۔۔

یقعۃ - یقعان۔

یاخوٹ - تیز کا بچہ۔ کمزور اور سست آدمی

کڑوا کھانا۔

یاقۃ - کالر (د)

یانج - پکا ہوا پھل۔ ہر سرخ چیز۔ جہ۔۔ ینج

یادسا - ایڈی کانگ (د)

یالیس - نا امید۔

## ی - ب

یباب - خراب۔ بیکار۔

یباس - بد خو عورت۔

یبس - (س) خشک ہو جانا۔ سوکھ جانا۔

یبس - یبس - خشک ہو گئی ہوئی چیز۔

جو پہلے تر ہو پھر خشک ہو گئی ہو۔



یَسَّس - ترادف گیل جگ جو خشک ہو جائے وہی خشک چیز جو کبھی تر نہ رہی ہو بلکہ غیر بے فائدہ۔  
 یَسَّوَسَة - خشکی۔  
 یَسَّس - خشک گھاس خشک ساگ۔  
 یَسَّسُ الْمَاءَ - پسینہ۔

## ی - ت

یَسَّثَم - (رض-س) فرد اور کیتا ہوتا ہے تیسیم ہونا۔  
 یَسَّثَم - (س) پھوٹا ہونا۔ کمزور۔ سست ہونا۔  
 تاخیر کرنا۔  
 یَسَّثَم - وہ پتھر آدمی کا جس کا باپ مر گیا ہو۔  
 چھو پاپہ کا وہ پتھر جس کی ماں مر گئی ہو۔  
 تنہا۔ کیتا قیمتی بے نظیر اور بے مثل موتی۔ ہر وہ چیز جس کا کوئی مثل اور مانند نہ ہو۔ ج۔ آیتا۔ یتاخی مینمہ۔ یتاٹم۔

## ی - ث

یَسَّوَب - مدینہ منورہ کا قدیمی نام

## ی - ح

یَسَّوَس - سُرْح جنگلی گدھا۔ گورخر۔  
 یَسَّوَم - کالا دھواں۔  
 یَسَّوِي - ایک نبی علی نسبتاً علیہ الصلوٰۃ و السلام کا اسم گرامی جو حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے چونکہ ان سے دین نے حیات تازہ پائی اس لئے یہ نام رکھا گیا۔

یَسَّوَس - لمبا آدمی۔ لمبی گردن والا۔ ایک سفید سپی۔ یا کوڑی  
 یَسَّوِي - قلیہ۔ یسینی (د)

## ی - د

یَسَّو - ہاتھ۔ ج۔ آیدای۔ ج۔ آیدای  
 یَسَّو - بزرگی۔ قوت۔ طاقت۔ غلبہ۔ قبضہ۔  
 اختیار۔ راستہ۔ اسلام۔ ذلت نعت احسان۔ بھلائی (د) دستہ۔ ج۔ آیدای۔ آیدای  
 یَسَّوِي - (رض) احسان اور بھلائی کرنا کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔

یَسَّوِي - (س) سبقت کرنا۔ پہل کرنا۔ آگے بڑھنا۔ بھلائی کرنا۔

یَسَّوَع - جگنو۔ وہ نے جس کا قلم بناتے ہیں۔ بانسری۔ ڈرپوک آدمی۔

یَسَّوَع - جنگلی چوہا۔ ج۔ یسایبع  
 یَسَّوَج - ہاتھ کے زبرد (د)

یَسَّوَس - (س) سخت ہونا۔  
 یَسَّوَد - گز (د)

یَسَّوَع - گائے کا بچہ۔  
 یَسَّوَع - مچھر کی طرح ایک چھوٹا کیڑا (س)

یَسَّوَع - بزدل ہونا۔  
 یَسَّوَعِي - جو ڈر کے مارے مر گیا ہو بشرط مَرُغ۔

یَسَّوَعِي - بھاگنے والا۔ نفرت کرنے والا۔ دوڑتا اُپھلتا کودتا ہوا ہرن۔

یَسَّوَعَان - کھیت کی آفت۔ وہ کیڑا جو کھیت کو لگ جاتا ہے۔ ایک بیماری۔  
 یَسَّوَع - رگوں کا ایک کھیل۔ سفید۔ نرم اور

## ی - ع

يَعَّاسُ - بکری یا بھیر کی آواز مص (ض-ف)  
 بکری یا بھیر کا زور زور سے بولنا۔  
 يَعَّامِيرٌ - بھیر کے بچے - واہ۔ يَعْمُومَاتٌ  
 يَتَّبِعُونَ - تیرے دوڑنے والا گھوڑا - ابرہہ سے پانی  
 کی تہرج۔ يَعَّائِيْبٌ -

يَعْسُوبٌ - شہد کی مکھیوں کا بادشاہ - نہ مکھی - ج۔  
 يَعَّاسِيْبٌ -

يَعْقُوبٌ - ایک پیغمبر علیہ السلام کا نام نامی۔

يَعْمَلٌ - عمدہ اور طاقت ور اونٹ - خوب بوجھ  
 اٹھانے والا - زیادہ کام دینے والا۔

ج۔ يَعْمَلَاتٌ

يَعْوَسٌ - وہ بکری جو دوپٹے کے وقت پیشاب  
 کرے امداس طرح دودھ کو ناپاک  
 کر دے۔ وہ بکری جو بہت شور مچائے۔

يَعُوْقٌ - حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ایک بٹ

## ی - ع

يَعُوْتُ - قوم نوح کے ایک بٹ کا نام جو فریادری  
 کا دیوتا بھجھاتا تھا۔

## ی - ف

يَفْعُؤٌ - (ف) لڑکے کا نشوونما پاتا - جو انی کے  
 قریب پہنچتا چڑھتا۔

يَفْعَسٌ - بہت زیادہ عمر کا بوڑھا چار سال کا بچہ

## ی - ق

يَقَاظَةُ - (ق) جاگ اٹھنا - جاگ جانا۔

چمکتی ہوئی کنکریاں - ج۔ يَزَامِعُ  
 يَزْمُوقُ - کمزور نگاہ کا آدمی - ج۔ يَزَامِيْقُ

## ی - ز

يَزْكٌ - سنتری (د)

## ی - س

يَسَّاسٌ - آسانی - مالداری - بایاں ہاتھ - ج۔  
 يَسَّرٌ - يَسَّرٌ -

يَسَّاقِيٌ - سفارت خانے کے سنتری (د)

يَسَّرٌ - يَسَّرٌ - آسانی - نرمی مص (ض) آسان  
 اور نرم ہونا - فرماں بردار حکم

ماننے والا - ہوجانا - آسانی سے چلنا۔  
 جُوحَاكِيْنَا - جوئے کے اونٹ کا گوشت  
 آپس میں ہاتھنا۔

يَسَّرٌ - يَسَّرٌ - آسانی - مال داری - قراخ دستی  
 (تنگی اور غریبی کی ضد)

يَسَّرٌ - آسان - جوئے بازوں کا گروہ - آمادہ اور  
 تیار۔

يَسَّرَةٌ - ہتھیلی کی لکیریں - ج۔ آيسَاسُ  
 يَسَّرِيٌّ - بایاں ہاتھ - بہشت - جنت -

اَلْيَسَّعِ - ایک پیغمبر علی بنینا علیہ الصلاۃ والسلام  
 کا نام مبارک -

يَسَّعٌ - مکھی -  
 يَسَّوَعِيٌّ - عیسائی - منسوب یہ یسوع (نام  
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام)۔

يَسَّيْرٌ - تھوڑا - آسان - جوارى -

## ی - ط

يَطَّقُ - باڈی گارڈ - (د)

يَقِطِين - بغیر حرط کی گھاس جیسے کدو - تر بوڑھو کی بیل -

يَقِطِينَة - تر و تازہ کدو -

يَقِط - جاگتا ہوا ہوشیار آدمی - جہ - اَيْقَاط

يَقِطَان - ہوشیار چوکتا - جاگتا ہوا جہ - يِقَاطِي

يَقِيْق - نہایت سفید (اس لفظ کو انیس کی صفت لاتے ہیں -

يَقِيْن - (س) کسی بات کا یقین کے ساتھ معلوم ہونا یقینی ہونا -

يَقِيْن - یقین رکھنے والا - تحقیق کے ساتھ کوئی بات جاننے والا -

يَقِيْن - بے گمانی - وہ خیال جس میں کسی قسم کا شک شبہ نہ ہو - موت -

## ی - ل

يَيْب - ڈھال - چڑے کی زرہ - چڑے کی ٹوپی جہ - يَيْبَة -

يَيْق - ہر سفید چیز - وا - يَيْقَة -

يَيْلَق - واسکٹ - صدری -

يَيْلَعِي - تیز عقل اور عمدہ ذہن والا جھوٹ بولنے والا

يَيْلَعِي - قبا - اچکن - انگرکھا جہ - يَيْلَعِي

يَيْلَعِي - مکہ معظمہ سے چند منزل پر ایک پہاڑ جو

کہین والوں اور ہندوستان والوں کا میقات ہے -

يَيْلَعِي - بہت زیادہ ہیکڑا الودمی جو حق اور

سچائی کے قریب نہ آئے -

## ی - م

يَيْم - دریا - سمندر - جنگلی کبوتر - مہ (ض)

(جمہولاً) دریا میں ڈالا جاتا - دریائے

بہاؤ اور موجوں کا کنارہ پر چڑھ آنا -

اور کنارے سے نکل جانا -

يَيْمَام - جنگلی کبوتر - قصد - ارادہ -

يَيْمَامَة - جنگلی کبوتر - قصد - ارادہ - ایک ٹوڈی

کانام - چند شہر جو اسی ٹوڈی کے نام

کی طرف منسوب ہیں -

يَيْمَقْوَم - کر وا - تلخ - جہ - يَيْمَقِيْد

يَيْمُن - زیادتی - ترقی - برکت - نیک - سخی -

يَيْمَن - عرب کا مشہور علاقہ جو قبلہ کی دہنی

جانب واقع ہے -

يَيْمَنِي - يَيْمَانِي - يَيْمَان - یمن کی طرف منسوب

چنانچہ بولتے ہیں رَجُلٌ يَيْمَنِيٌّ

کارسنے والا يَيْمَانِيٌّ یعنی چادر

قَوْمٌ يَيْمَانِيَّةٌ یمن کی قوم -

يَيْمَن - (س - ف - ن) مبارک ہونا - نیک

بخت ہونا - (رض) (رب) داہنی طرف

لے جانا (ف - س) دائیں طرف سے

آنا -

يَيْمَنَاء - بہت خیر و برکت والی عورت -

يَيْمَنَة - دائیں طرف -

يَيْمَنَة - (ی کے پیش کے ساتھ) یمن کی ایک قوم

کی چادر

يَيْمِين - برکت والا - دائیں طرف - جہ - اَيْمِين

اَيْمَان - اَيْمَان - اَيْمَانِي - قسم -

زیادتی - برکت - قوت - طاقت -

داہنا ہاتھ یہ نام اس لئے رکھا گیا

کہ قسم کھاتے وقت دائیں ہاتھ کو قسم

کھانے والا چھو کرتا تھا - جہ - :-

ایمان - ایمان -

## ی - ن

یہودیوں - چشمہ چھوٹی اور بہت پانی والی تہر۔

یہودیوں - یسوع -

یہودیوں - یسوع - (ف حق) پھلوں کا پک جانا۔

یہودیوں - بہت بھاگنے والا۔ نفرت کرنے والا۔

یہودیوں - اسپغول - داہ - یہودیوں - اسپغول کا ایک دائرہ ایک گھاس جو زخموں کو اچھا کرنے اور بھرنے کے لئے مفید ہے۔

یہودیوں - پکا ہوا میوہ۔

## ی - و

یہودیوں - دن بھر مزدوری کرتا اور شام کو اپنی مزدوری کے پیسے لے لیتا۔

یہودیوں - جو بلی (د)

یہودیوں - تباہی - فوج کا کپتان (د)

یہودیوں - ایک پیغمبر علیہ السلام کا نام نامی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔

یہودیوں - افسانوی سنگترہ (د)

یہودیوں - خواب گاہ - (د)

یہودیوں - ماہ جولائی (د)

یہودیوں - دن - حج - آیتاہ (اصل ایوام تھی - واؤ کوئی سے بدل کر ادغام کر دیا گیا ہے) مص (س - ح) دن نکلتا - دن ہو جانا۔

یہودیوں - اس دن -

یہودیوں - ایک پیغمبر علیہ السلام کا اسم مبارک یہودیوں - ماہ جون۔

## ی - ہ

یہودیوں - ڈرپوک چالاک - ذہین چٹیل زمین۔ (حق)

یہودیوں - بہت بڑا جنگل - سنسان ویران جس میں راستے اور نشانات نہ ہوں سخت سال - جس میں لوگ تنگ آجائیں۔

یہودیوں - یہودی لوگ - داہ - یہودیوں - سخت پتھر - خنظل - زہر - جھوٹ۔ سراب۔

## ی - ی

یہودیوں - ایک چشمہ کا نام - جو ضاحک (نام مقام) اور سوچک (نام مقام) کے درمیان واقع ہے۔

# عربی زبان سے لغت پر شاہکار تصانیف

<p>المعجم المفہر من اللغات العربیہ (۱۰ جلدوں میں) محمد رفیع عبدالہادی</p>	<p>قرآنی لفظ کی ترتیب پر جس میں الفاظ ۱۳۶۳۱ آیتوں سے مولانا سیدنی کاظم، اعلیٰ ریزیں جلد ۳۳ رقمہ ۱۰۱ و ۱۰۲</p>
<p>قاموس الفاظ القرآن الکریم اردو ڈاکٹر عبدالقدوس ندوی پروفیسر عبدالرزاق</p>	<p>قرآن کریم کی بیست ہجرتی ترتیب از معنی سابق کے مطابق مشاہدہ صرفی و نحو ایضاً ۱۰ مشہور تفسیروں اور تفسیرات و تفصیلات کے ساتھ عربی کی جانے والی لغت قرآن مجلی کے ایک ایک باب کو تفسیر کاغذ، مضمون، بیرونی رنگ، خوبصورتی اور جلد</p>
<p>کلمات القرآن ڈاکٹر احسان علی قادری</p>	<p>کلمات قرآن کا یہ مجموعہ اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ ایک نام بتدنیٰ آکر قرآن کریم کے معانی کیلئے جانے والی آیتوں کے ساتھ کیوں کہ اسے اور ہر سورہ کا مختصر مفہوم بھی ضرورت کے شروع میں اسے آیا ہے۔ مقدمہ ۱۰۰ جلد الفتح مہتابی</p>
<p>مختار الصحاح اردو اردو ترجمہ پروفیسر عبدالرزاق</p>	<p>الفاظ حدیث کے مستند معانی کی مشہور لغت جس سے ایک زمانے سے طالبان علوم حدیث استفادہ کرتے ہیں۔ اب اردو ترجمہ کے ساتھ بھی اعلیٰ کاغذ، رنگ جلد، ۱۰۰ جلدیں جلد کے ساتھ</p>

<p><b>المنجد</b> جامع عربی اردو و تصویف لغت بیروت سے شائع ہونے والی مشہور زمانہ لغت المفرد الکبیر کا مستند ترجمہ جس میں آج تک عربی الفاظ معارف و ضرب الامثال درج ہیں صفحات ۱۳۰۰ ۱۰ جلدوں کا مجموعہ ۲۰۰۳ء</p>	<p><b>المعجم</b> جامع اردو عربی لغت پچاس ہزار الفاظ کی زبان سے عربی و کثیرتی اس کے علاوہ ۱۰۰ جلدوں سے ملتی لغتوں کا قابل قدر ڈیکشنری۔ صفحات ۶۰۸، اعلیٰ جواہر کاغذ ۱۰ جلدوں کا مجموعہ ۲۰۰۳ء</p>	<p><b>مصباح اللغات</b> عربی اردو لغت مولانا عبدالغفار صاحبی استاد اولیٰ بکنور پچاس ہزار عربی الفاظ کا نہایت جامع و مستند ڈیکشنری۔ عربی اردو لغت ہی انشاء اللہ سے ایک نئے علم سے خارج نہیں مامل کر رہی ہے جو اس دور کا الفاظ کا انشاء اللہ کاغذ ہے۔ سائز ۲۰ جلدوں کا مجموعہ ۱۰۰ جلدوں کا مجموعہ</p>
--	--	--

<p><b>قاموس القرآن</b> مستعار و کثیرتی اردو عربی اردو از: قاضی زین العابدین مجاہد بیہوشی قرآن کریم تمام الفاظ مع اردو تفسیر اور ضروری عربی و لغوی ترکیب اور اہم الفاظ پر تفسیری نوٹ یکے یکے ہیں۔ سائز ۲۰ جلدوں کا مجموعہ ۸۱۶ ۱۰ جلدوں کا مجموعہ اعلیٰ جلد</p>	<p><b>القاموس الاصطلاحی</b> الجدید از: مولانا وحید الزمان کبیراٹوی پچاس ہزار عربی اور اردو اصطلاحات کا قابل قدر ڈیکشنری جو عربی الفاظ، اخبارات و رسائل و دیگر ڈیکشنریوں کی مستعمل ہیں، کاغذ و جواہر اعلیٰ جلد سائز ۲۰ جلدوں کا مجموعہ ۵۲۰</p>	<p><b>قاموس لمدنی</b> عربی سے انگریزی اردو کثیرتیوں کا مجموعہ جو عربی انگریزی کے خوب صورت ترین میں ہو گیا ہیں۔ اعلیٰ کاغذ و جواہر اعلیٰ جلد سائز ۲۰ جلدوں کا مجموعہ ۸۱۶</p>
---	---	---

<p><b>بیان اللسان</b> عربی اردو انگریزی از: قاضی زین العابدین مجاہد بیہوشی پچاس ہزار سے زیادہ قدیم و جدید عربی الفاظ کی تفسیر مع عربی لغوی بیانات کے ساتھ ہے۔ اعلیٰ کاغذ میں مسلسل جدید و قرآن کریم کے نام نہات شامل ہیں سائز ۲۰ جلدوں کا مجموعہ ۸۱۶ جلدوں کا مجموعہ</p>	<p><b>لغات القرآن</b> (۱۰ جلدوں کا مجموعہ) مولانا رشید احمد نعمانی مولانا عبدالاکرم جلالی قرآن پاک کے معانی و اظہار و کتب کے لیے نہایت تفصیل اور جامع لغت قرآن اہل زبان میں سب سے زیادہ مستند اور بڑی لغت قرآن کی لغتوں کا مجموعہ ۲۱۶ ۱۰ جلدوں کا مجموعہ میں جلدوں</p>	<p><b>لغات کشوری</b> اردو از: مولانا سید صدیق حسین رضوی بندوباک کی مشہور و معروف اور مستند لغت جو نو کثیرتیوں میں سب سے پہلی ہے جس میں لغتوں بڑا اور الفاظ و اصطلاحات شامل ہیں۔ اعلیٰ کاغذ و جواہر سائز ۲۰ جلدوں کا مجموعہ ۹۱۲</p>
--	--	--

<p><b>فرہنگ فارسی</b> فارسی سے اردو جامع لغت مولانا محمد رفیع فاضل دیوبند فارسی و عربی کے قدیم و جدید پچاس ہزار الفاظ کے معنی نہایت مجلس جہالت میں درج ہیں ضرورت کے تمام الفاظ پر معارف لغت۔ اعلیٰ کاغذ و جواہر اعلیٰ جلد سائز ۲۰ جلدوں کا مجموعہ ۸۰۰</p>	<p><b>فرہنگ نامہ جدید</b> فارسی اردو انگریزی از: پروفیسر فیروز الدین رازی پچاس ہزار فارسی الفاظ کی اردو اور انگریزی میں بہترین تفسیر، یہ لغت پہلی مرتبہ ہوئی ہے۔ ۱۰ جلدوں کا مجموعہ اعلیٰ جلد</p>	<p><b>جامع اللغات</b> اردو از: مولانا محمد رفیع عثمانی فاضل دیوبند پچاس ہزار الفاظ کی نہایت مستند لغت۔ جو ضرورت کے تمام الفاظ پر معارف لغت ہے۔ ۱۰ جلدوں کا مجموعہ ۸۰۰</p>
---	---	---

دارالاشاعت اہل دیوبند کراچی فون ۲۱۳۶۹۸

ذہانت کتب لغت ڈاک کے  
مختلف بین کرطبہ سہارا میں

# لُغَاتِ جَدِيدِهِ

عربی سے اردو

ممالک عربیہ میں مستعمل جدید عربی الفاظ و اصلاحات کا  
نہایت کارآمد مرقع جو المنجد جدید اور القاموس العصری  
اور عربی اخبارات و رسائل سے منتخب کئے گئے ہیں

ادوار اسلام سے تعلق رکھنے والے  
کراچی پاکستان 2213768

دَارُ الْإِشَاعَةِ

# بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## الف

اخذ - اَخَذَ - مسور کن - دل گیر - جاذب -  
اخذ - اخذ - تاخیر - لیٹ کرنا - پھچے  
کرنا - بست کرنا -

تاخیر - گھڑی کا پھچے ہونا - لیٹ ہونا  
قوم و ملک کا پس ماندہ ہونا -

مَوْخَذًا پھچے دنوں - کچھ عرصہ قبل  
اخیراً حال ہی میں - اخیر میں -

مَتَّحِدَات - بقایا جات - حساب

ادب - آداب - علوم و معارف - لٹریچر -

مَأْدِبَةٌ ضیافت - دعوت طعام

ج - مادب -

ادی - آدَاة ج - آدَوَات - کل پرزے -

آدَوَاتُ الْکِتَابَةِ - اسٹیشنری

آدَوَاتُ - متعلقہ سامان - مواد

لوازم و میٹیریل

اِذْنٌ - پرمٹ - لائسنس - اجازت نامہ

پاس -

اِذْنٌ مُّبْرَدٌ - پوسٹل آرڈر

اِذْنٌ هُوَ دَسْمَا - پاس

اِذْنٌ - سگنل - ریپورٹ سگنل

مَأْدُونٌ - سند یافتہ - اجازت یافتہ

ابر - اَبْرَةٌ دوائیة - انجشن

اَبْرِيْل - ماہ اپریل

اَبْرِيْقٌ - جگ - لوٹا

اَبْرِيْقُ الشَّاي - چائے دان

ابن - تَأْبِيْتِي - تعزیتی - ماتمی

حلفۃ التابین ماتمی جلسہ

اثث - آثَات - قرنیچر گھر یلو سامان - ج -

آثَاتَات

آثَاتٌ - قرنیچر لگانا سامان سے آراستہ کرنا

اشر - اَشْرِي - آثار قدیمہ سے متعلق - ماہر

آثار قدیمہ

مَأْشَرَةٌ - کارنامہ - ج - مآشر

اَشْر - ایشر - ایشر ایک بے وزن لطیف مادہ

اِثْمٌ - اِثْمٌ - مجرم مجسمہ مانہ

اجو - اَجْوَةٌ - کرایہ - ج - اجوسا

اجرة النقل - محمول ٹرانسپورٹ

اجل - اَجَلٌ - اَجَلًا - ملتوی ہونا

اَجَلٌ - تَأْجِيلًا - ملتوی کرنا -

تأجیل - التوا

احد - اِحَادٌ - ج - آحاد -

اِحْدِيَّةٌ - اکائی سے متعلق -

اسط - اسطواتة - (رگرافون کا)  
 ریکارڈ - جہ - اسطوانات -  
 (۲) اخبار کا کالم -  
 اسقلنت - ڈامر -  
 اسکلہلہ - اسٹول -  
 اسمنت - سمنٹ -  
 اسی - آسیا - ایشیا -  
 آسیا الصغریٰ - ایشیا کوچک  
 آسیوی - ایشیائی  
 مأساة - ٹریجڈی - المناک حادثہ  
 جہ - ماسی -  
 اطر - اطاس - فریم - جہ - اطر -  
 اضر - اضریشز - کارنس - جہ - افاریز -  
 افق - آفاق - جہاں دیدہ - سیاح -  
 اُفق - مسطح - چٹا - افقی سمت کا -  
 آفندی - مسٹر - صاحب -  
 اقلیم - اقلیم - ملک - صوبہ - علاقہ  
 اگدا - تاکیدا - یقین دلانا - توثیق کرنا  
 الی - آلہ - مشین - اوزار - ذریعہ عمل  
 جہ - الآہ -  
 آلہ محترکہ - انجن -  
 آلہ الخیاطہ - سینہ کی مشین  
 آلہ التصوير - کیمہ -  
 آلہ کاتبہ - ٹائپ رائٹر  
 الائی - رجمنٹ : فوج کی ایک جماعت -  
 آلف - تالیف - جماعت یا وزارت وغیرہ  
 کی تشکیل کرنا -  
 امب - امبالیہ - امپریل انم  
 امبراطوی - امپیر - شہنشاہ - والی -

المأذونیتہ - علوم عالیہ کی سند - قانون  
 کی سند - ڈگری -  
 اردو - اردوآز - سلیٹ  
 قلم اردوآز - سلیٹ پنسل  
 اسرس - دستقی اٹیوہ - معزز اور شریف  
 لوگوں کا طبقہ - وہ - اسطقراطی  
 اذق - مأذوق - نازک صورت حال خطرناک  
 پوزیشن -  
 ارض - ارضیہ - فرش - زمین  
 ہر وہ جگہ جس پر پیرکھے جا سکیں -  
 ارضیہ الصومالیہ - بیک گراؤنڈ  
 پس منظر -  
 ازم - آرمہ - کرائس - بحران - جہ -  
 اذمات -  
 ازمہ اقتصادیہ - مالی بحران -  
 سیاسیہ - سیاسی بحران -  
 تاڈر - بحران کا شکار ہونا - معاملات  
 کا نازک صورت اختیار کرنا -  
 اس - اساسی - بنیادی -  
 تاسیسی - بنیادی -  
 مجلس تاسیسی - مجلس قانون  
 ساز -  
 مؤسسہ - سیاسی ، تجارتی ، علمی  
 اور قاعی ادارہ - جہ -  
 مؤسسات  
 اسب - اسپیرین - اسپرو -  
 است - استودیو - اسٹوڈیو - تصویر کشی  
 یا فلم سازی کا مقام -  
 اسد - ماسومیہ - نعلی - پائپ -



امپراطورس - ملکہ امپرس  
 امپراطورسیتہ - شہنشاہیت  
 امر - امارت - ریاست - اسٹیٹ  
 امیر - حاکم - صدر - ہیڈ - شاہزادہ  
 امیر الامی - کرنل - ایک فوجی - ریٹ  
 کا اعلیٰ افسر  
 امیرال - افسر جہازات - افسر بحریہ  
 امیرالووا - برگیریز جنرل  
 امیرتی - سرکاری - ریاستی - شاہی  
 استشارتہ - سادہ فارم  
 مؤاخرتہ - سازش  
 ماموس - ماتحت - محکوم - ملازم  
 ماموسیتہ - ہم - مشن - ڈیوٹی  
 مؤتمس - کانفرنس - کنونشن - مشاورتی  
 اجتماع - جہ: مؤتمسات  
 امم - اُمتہ - قوم - عوام - پبلک  
 اُمم - تائیمینما - قومینا - قومی ملکیت  
 میں لینا  
 اُممعی - بین الاقوامی - انٹرنیشنل  
 امن - امن علی الحیاء - زندگی کا بیمہ کرنا  
 تائمین - بیمہ ضمانت - جہ: تائمینات  
 تائمین علی الحیاء - لائف انشورنس  
 امانتہ - نظامت - معتمدی  
 امین - ناظم - سکریٹری - لائبریرین  
 خرابچی - جہ: اُمماء  
 امی - امیرکا - امریکا  
 تائمٹرت - امریکی باشندگی اختیار کرنا  
 انب - آنباشی - کارپول - دس فوجی  
 سپاہیوں کا افسر

انٹیویو - پاپ - جہ: انابیب  
 انت - انٹوٹی - زمانہ - نسوانی  
 انوشتہ - نسوانیت - زنانہ پن  
 انج - انجلیڈ - انگریز  
 انس - انیسٹ - مس - نوجوان خاتون  
 جہ: آنسات  
 انف - استیناف - مقدمہ کی اپیل  
 مستآفت - اپیل کنندہ  
 انصر - انہودج - نمودج - نمونہ  
 طرز - ماڈل - جہ: تمادج  
 اتی - آناۃ - صبر - انتظار  
 اهل - آہلیتی - خانگی - ملکی - شہری  
 مؤہلات - علمی لیاقت - صلاحیت  
 کالیفیکیشن  
 اہالی باشندگان - عوام  
 اوت - اوٹمبیل - موٹر کار  
 اوس - اوسطہ - ٹالین - ایک ہسٹار  
 سپاہیوں کی جماعت  
 اوس نیٹ - سادہ فارم  
 اوساق - کاغذات - پرچے  
 اوساق التعمین - کاغذات  
 نامزدگی  
 اوستیا - یورپ  
 اوسبتی - یورپین - یورپ کا  
 اوق - اوقیتہ - اوس - مادی  
 اوق  
 اوصتہ - کمرہ - جہ: اوصات  
 اومباشی - دفعہ دار - فوج کا ایک چھوٹا  
 عمدہ دار جس کے تحت دس سپاہی

بجرتے ہیں۔  
 ایوان - مال - لابی - پبلک مال - محل۔  
 ایسا - رومی مہینہ مطابق مئی  
 ایٹالیا - ملک اطلی۔  
 ایلول - رومی مہینہ مطابق ستمبر۔  
 ایالہ - صوبہ (ترکی لفظ)  
 جداء - مبداء - قاعدہ - اصل - بنیاد۔  
 جداء - مبادی۔

مبدائی - بنیادی - اصولی - قانونی  
 مبدائی - اصولی طور پر - بنیادی طور پر  
 مبداء - استبدال - مطلق الغان ہونا۔  
 خود مختار خود رائے ہونا۔  
 بدل - بدل الاشتراک - رسالہ اخبار  
 کا جذبہ۔

مبدلہ تیاب - سوٹ - کپڑوں کا جوڑا  
 جداء - بدلات

مبدال - (۱) صرف - سکہ تبدیل کرنے والا  
 (۲) اشیاء خوردنی فروخت کرنے والا  
 پرچون فروش۔

مبدالہ التلیقون - ٹیلیفون اسپینج  
 جداء - بدالات

مبادل و مبادلہ - تجارتی لین دین۔  
 مبدلہ تیاب - کپڑوں کا جوڑا - سوٹ۔

مبدلہ سہو - شام کا لباس۔  
 مبدلہ رسمیتہ - سرکاری وردی۔  
 مبداء - سبب - لائنس - صفائی۔  
 چھٹکارا - خلاصی

مبدائی - بردی۔  
 مبدغال - پرنگال۔  
 مبداء - فیٹ۔

## ب

باتالوجیا - علم العلاج - علم ترکیب ادویہ۔  
 بارناجھ - بڑا مچ - پروگرام - فہرست۔  
 بارومٹر - بیرومیٹر - آلبا دبیا۔  
 بارلمان - بزرگمان - پارلمنٹ۔  
 بارودہ - بندوق۔

باشعیر - تولیہ (دارجر)  
 باصۃ - بس - جداء - باصات  
 بالوعۃ - گذار - گندی مالی۔

بالون - غبارہ (مع)  
 بتاسۃ - ٹپاس (مع)  
 بحث - تحقیق - مطالعہ - ریسرچ۔

جداء - آبحات - مبحث  
 باحت و بحث - محقق۔  
 مبحث - موضوع تحقیق و مطالعہ۔

جداء - مباحث  
 بحر - بخارہ - جہاز رانی - کشتی رانی  
 طاجی - سمندری سفر کی مہارت۔  
 بحوی و بخارہ و بخار - طاج۔

جہاز ران  
 بحریتہ - بحری طاقت - نیوی۔  
 بحیرہ - بھیل۔

بری - بڑا ایسٹہ - قلم تراش  
 مہاسا۱۶ - میچ - گورنمنٹ - مقابلہ  
 بڑ - بڑا۱۶ الاطفال - دودھ کی شیشی  
 بسط - بساط۱۶ - سادگی - صاف دلی -  
 بسیط - معمولی - سادہ - سہل -  
 بستر - باشد العمل - کام پر لگنا - خود انجام  
 دینا -  
 مباشر۱۶ - براہ راست - بلا واسطہ طور  
 پر - ڈائریکٹ -  
 مہیش۱۶ - مذہبی واعظ - مشنری -  
 بصر - مہساس - ٹیلی ویژن سیٹ - آلہ  
 غائب بینی -  
 بطل - میرد - شہسوار - جہ - آپٹال  
 بطالت - بے کاری - بے روزگاری  
 بعث - پیغام - نمائندہ - جہ - بعوث  
 بعث۱۶ - مشن - ڈیلیکیشن - نمائندہ وفد  
 جہ - بعثات  
 مبعوث - نمائندہ - پیغامبر - قاصد -  
 بعد - ابعاد - علیحدہ کرتا - معزول کرتا  
 جلا وطن کرنا -  
 بغت - مہابغت - ناگہانی غیر متوقع -  
 بقی - مستبقی - محفوظ - ریزروڈ  
 بکباشی - (رت) لیفٹینینٹ کولریٹل  
 فوجی عہدہ دار -  
 بکلاس لیس - (مح) گریجویٹ -  
 فنون - بی - اے -  
 بلا تین - پلانٹیم - ایک قیمتی دھات جو سونے  
 سے قیمتی اور جھاری ہوتی ہے -  
 بلجیکا - بلجیم -

بڑا۱۶ الشای - چاردان - ٹی پاٹ  
 بڑا۱۶ - ریفربجریٹ - ٹھنڈا کرنے کی  
 مشین - جہ - بڑا۱۶ ادات  
 بڑا۱۶ کولر - ٹھنڈا کرنے کا بکس  
 بڑا۱۶ و بارود۱۶ - بندوق -  
 برید - (۱) ڈاک (۲) پوسٹ میں  
 برید عادی - معمولی ڈاک  
 برید مستحق جیل اکسپریس ڈاک  
 برید تی - ڈاک سے متعلق  
 اسرا۱۶ - ڈاک بھیجتا -  
 برس - تہریڑا - جائز قرار دینا - سبکدوش  
 کرنا - بری کرنا -  
 مہوس - وجہ جواز - جہ - مہوس اند  
 لائیو بڑا۱۶ - ناقابل عفو -  
 بریش - پانڈان -  
 بڑا۱۶ شوقی - پیراشوٹ -  
 بروکل۱۶ - رشوت دینا -  
 تبرطل - رشوت لینا  
 برطل۱۶ - پھتری  
 بیوع - تبرع بالمال - چندہ دینا  
 تبرع - چندہ - علیہ جہ - تبرعات  
 متبرع - چندہ دہندہ -  
 برق - بروقت۱۶ - تار - ٹیلی گرام  
 اسراق - تار دینا -  
 برکاس - پرکار  
 برلیمان - پارلمنٹ -  
 بڑا۱۶ مہج - پروگرام - فرسٹ -  
 بڑا۱۶ نیط۱۶ - بیٹ -  
 پرواز - چوکت - فریم -

بوء - بیئنتہ - ماحول - محل وقوع - جہ -  
بیئات -

بوب - بوآبۃ - بھانگ - برط اور دانہ  
بووح - اباحتہ - رخصت - وجہ جواز -  
اباحتیۃ - بالشوازم - کمیونزم کی وہ قسم  
جس کے اصول انتہا پسندی پر مبنی ہوں -  
بوس صلتہ - (مع) تجارتی منڈی -

الاوراق المالیۃ - تبادلہ زر کی  
تجارت - زر مبادلہ -

بوص - سلک - ریٹھی کپڑا -

بوصلۃ - اربح - جہ - بھوصات  
بوصلۃ - قطب نما -

بوعناس - تنگ نائے - دو سمندروں کے  
درمیان کی تنگ نائی -

بوق - بگل - بان - جہ - ابواق  
بول - بھوکۃ - پیشاپ دان -

بولصۃ - رسید - ہنڈی -  
بویۃ پاش -

بیادۃ - پیدل فوج

بیت تجارتی - کمرشل ہاؤس -  
تجارتی گھر -

بیتض - تبدیلیتاً - قلعی کرنا - چونچ پھیرنا  
کپڑا دھونا -

بیتض - قلعی کر - دھوبی -

بیکاسا - پرکار -

بیکۃ النوس الکھرمائی بلب - تمقہ

بیتان - تفصیل - رپورٹ - وضاحت -  
پروگرام - لائحہ عمل -

بیمان دشمنی - سرکاری اعلان -

بلدیۃ - میونسپلٹی -

بلتشیقی - انتہا پسند اشتراکی جہ - بلاشفقہ -

بلتشیقیۃ - بالشوازم

بیلط - بیلاط - مائل - فرش کا پتھر  
وز - بیلاطۃ

بیلاط الملک - دربار شاہی

بلعہ - بیلاعۃ - بالوعۃ - نالی - موری  
گندہ - بچک -

بلخ - بیلاخ - خیر - اطلاع - اعلان پیغام  
فرمان - نوٹس - جہ - بیلآغات

بلاغ آخیر - الی طیم -

مبطلخ - مقدار - رقم -

بلکون - ناکہنی -

بلوک امین - کوٹراسٹر (فوجی عمدہ)

بلیون - (۱) ایک ارب (۲) دس لاکھ -

بلیاشی - لیفٹیننٹ کرنل -

بلیج - تبنیج - سن کرنا - بے حس کرنا -

بند - قانون کی دفعہ فقہہ جہ - ہنود

بندۃ - کارٹوس -

بندۃ قیۃ - بندوق - گن -

بند و لسم - گھڑی کا پنڈولم -

بیزین - پڑول -

ببک - بیتک - جہ - ببوک

ببت - کافی - قہوہ -

ببئی اللون - کافی کلر - براؤن رنگ -

ببئی - مبنی - عمارت - بلڈنگ -

بببآء معار - تعمیری (عمل بقاء )

تعمیری اور ترقیاتی کام -

ببھو - ہل - برطاکرہ - جہ - آبھہآء -

## ت

تبیح - تباعاً - مسلسل - نگاتا۔

تباہ - ماتحت - لاحق - خادم - طفیلی

مصاحب

تبعہ - ذمہ داری - نتیجہ - انجام

تبعہ - پیسے کا تہا کو

تبتل - تبتیلا - مصالحو ملانا - لگانا

تبتال - مصالحو فروش

تبتن - تبتان - نیکر - لنگوٹ - جانگلیہ

تجہ - تاجہ الجملة - تھوک فروش

تاجد المصترق و القطاعی

پرچون فروش - خردہ فروش

تحفت - متحف - عجائب خانہ - میوزیم

جہ - متاحف

تدراہ - ٹرام کار

تدسانہ میگزین - اسلحہ خانہ

تدعة نر - جہ - تدوع

تدعة الیراد آب پاشی کی نر

تدعة التصرف پانی نکالنے کی نر

تدشرین الاول - ماہ اکتوبر

تدشرین الثاني - ماہ نومبر

تدعب - آتھاب - محتاتہ - فیس

تدککة - کھٹ کھٹ کرنا - کھٹ کھٹ کرنا

تدخراف - ٹیلی گراف - ٹیلی گرام

تدخفة - تار دنیا

تدخفرة - ٹیلی ویزن

تدلو - التالی - انگلا - متصل

بالتالی - لہذا - نتیجہ یہ ہوا کہ

تدکة - کنسٹر ٹین

توتیا - جت

توتیا - سمرقاند - نیلا تھوٹھا

توتیستو - طالستانی

توتیس - کرنٹ - ہوا کا جھونکا - بہاؤ - دھارا

حالات کا رخ - رو - جہ

توتیسات

توتیغود - ٹائیفاٹ

## ت

تتاسمی - انتقامی

تتبت - جت - دلیل ثبوت

تتبت - غیر منقول - غیر متحرک - ظاہر

تتسلم شدہ - مستقل مزاج - مستقل

تتشیات و تثئیت - عارضی ملازم کو

مستقل کرنا - برسر ار رکھنا

تتقب - تثقاب و تثقوب - دیاسلمانی

تتقف - ثقافت - کچھ تعلیم - تہذیب

تتقی - کچھ - تعلیمی - تہذیبی

تتقیف - ذہنی تربیت دنیا - مذہب

بنانا - تعلیم یافتہ بنانا

تتقف - تعلیم یافتہ - مذہب

تتقل نوعی - (سائیس میں) کثافت نوعی

تتکنة - فوجی ہارک - پولیس کا مرکز جہ

تتکناات

تتلت - تلتائی - سرکئی - سرفری - سہ

اجزائی - سرحقی

تتدج - تثلجی - برفانی - برف سا

تتلاثة - آکس کبس - برف رکھنے والا

تتلاجات - جہ - تلاجات

تجریدۃ - فوجی دستہ - فوجی حملہ  
 وچوڑا الاسنان - دانتوں کا برش  
 جزو - جزاۃ - آلہ جبر ثقیل - جہ - جزاۃ  
 جدی - اجراء قانونی - صابن کی کارروائی  
 اجراء قضائی - عدالتی کارروائی  
 اجراء استد کارروائی -  
 جھسی - دوڑ - رفتار - دھارا - گذرگاہ -  
 رخ -

جزء - پرزہ - جز - اجزاء  
 اجزائی - کیمسٹ - دوافروش  
 اجزائیتہ - فارمیسی - دواخانہ  
 جزاسۃ - پیسے کی ٹینٹو -

جزمۃ - بوٹ - جوتا (وا)  
 جزماتی - جوتا بنانے یا مرمت کرنے والا  
 جزاء نقدی جرمانہ -

جزائی - تعزیری - قابل سزا  
 جعل - مزدوری - حق محنت یکیش  
 جحفی - خفیہ رسم الخط -

جذب و استجلاب - باہر سے مال منگانا  
 جلبۃ - واشر - دونکیوں کو جوڑنے والا چھلا -  
 تجلاب و جالیب - (بمپورٹر - بیرونی ممالک  
 سے مال منگانے والا -

جلسۃ - نشست - پیشگ -

قضایتہ سیشن - عدالتی اجلاس -  
 مجلس - نشست گاہ - سیٹ ٹریبونل  
 پکھری -

مجلس الادارۃ - مجلس انتظامیہ

الاعیان - دارالامراء

التواب - پارلمنٹ -

مثلاً - ریفر سچرٹ - ٹھنڈا کرنی مشین -  
 شہر - شہر مالہ - تشمیز - مال میں اضافہ  
 کرنا - کاروبار میں لگانا -

شخی - شتائی - ڈیل - دوہرا - دورکنی -  
 شائوٹی - دوسرے درجہ کا سیکنڈری  
 پر استثنائی - خصوصی - ہنگامی

ٹوکاۃ - جوش - بغاوت - انقلاب

ٹوسی - انقلابی - شور و شہینہ  
 شایئر - باغی - انقلابی - جہ - ٹو اس

## ج

جاویش - سارجنٹ - ایک فوجی عہدہ  
 جلیس - پلاسٹر کا مصالحہ - کھریا -

جئس العضو - حصہ جسم پر پلاسٹر چھانا -  
 جہتہ - محاذ جنگ وغیرہ - جہ - جہات  
 جہی - جہی الاموال و الصوائف -

جہایۃ - وصول کرنا (یکس وغیرہ)

جایب - جہ - جہاۃ - محصل وصول کنندہ

جداول - چھوٹی نر گول - فہرست - چارٹ  
 نقشہ - کالم - جہ - جداول

جدول الاعمال - ایجنڈا

= الضرب - پہاڑ -

جدعتی - بنیادی -

جدام - گرام (مخ)

جدوچام - راکٹ -

جداح - سرجن - سرجری کا طبیب -

جداحۃ - سرجری -

جداحتیۃ - سرجری آپریشن

جدیدۃ - اخبار نیوز پیپر - جہ - جہ اشک

تاجرو الجملہ - حقوق فروش  
 جناح - جناح - عمارت کا حصہ  
 جند تجنیداً - فوج میں بھرتی کرنا  
 تجنید اجازتی - لازمی بھرتی  
 جلسہ تجنیسا - حقوق قومیت عطا کرنا کسی  
 ملک کی نیشنلسٹی دینا - ملکی بنانا -  
 جنسیہ قومیت نیشنلسٹی - ملکی حقوق -  
 تجانس ہم قوم ہونا -  
 جنن - مجتنبۃ الحیوان - چڑیا گھر -  
 جنی - جنیہ - اشرفی - یعنی - برابر تقریباً  
 پچاس روپے یا اسٹنگ انگریزی -  
 پاؤنڈ - بیس شتک -  
 جوہری - بنیادی - اصلی ضروری -  
 زیورات بچنے والا -  
 جوہرات - زیورات -  
 جھس - جھس و جھس - بھونپو -  
 میکہ فون - لاڈا اسپیکر -  
 مچھس - میکہ سکوپ - خوردین  
 جھس - بھینڈ - تیار کرنا - سامان یا زادراہ  
 سے لیس کرنا -  
 چھاسی نظام ہسٹم - نظام ترکیبی -  
 جہ - آجھنہ -  
 چاہنہ - تیار - آراستہ - لیس  
 جواب - ستیاج -  
 چھوب - بیخ - سوراخ کرنے کا آلہ  
 جوت - پٹن - سٹی جس کی بوریاں وغیرہ  
 بنائی جاتی ہیں -  
 جوڑ - جاز الامتحان - جو سنا  
 امتحان پاس کرنا -

مجلس المدیریتہ - ڈسٹرکٹ بورڈ  
 مجلس اقلیتی - صوبائی کونسل  
 = بلڈائی - میونسپل کمیٹی  
 = لٹریچر - مجلس مقننہ  
 = سنسکرتی - فوجی عدالت  
 نیائی - پارلیمنٹ  
 جمل - جلالتہ و صاحب جلالتہ -  
 بادشاہ کا اعزازی لقب - ہر عیسیٰ -  
 مجلہ - رسالہ میگزین جہ - مجلات  
 جلو - جلالتہ - انخلاء - انکشاف  
 جالیہ - پردیسی جماعت جہ - جالیہ  
 جھسک - جھکی خاتہ جہ - جھارک کسٹم ہاؤس  
 جھمک المصروف - کمپوز کرنا -  
 جمعیتہ - سوسائٹی - انجمن - ایسوسی ایشن  
 جمعیتہ خدیوہ - فلاحی انجمن - ویلفر -  
 سوسائٹی -  
 جمعیتہ عمومیہ - جنرل اسمبلی  
 جماعتی - اجتماعی - جماعتی - مشترکہ  
 جماعت الکھلاء خواتمہ مجلس  
 جامع المصروف - کمپوزر -  
 جامعہ یونیورسٹی - لیگ  
 اجتماعی - معاشرتی - سوشل - عمرانی -  
 مجتہد - سوسائٹی - معاشرہ - سماج -  
 جہ - مجتہدات  
 مجتہد کونیشن - اجتماعی - علمی  
 مجتہد علمی - اکیڈمی - لیٹری - ادارہ  
 مجتہد داعی جلسہ  
 جمل - بالجملة - تھوک - ہول سیل -  
 خلاصہ یہ کہ

روایت - حکایت - خبر - مضمون  
حدّ ۵ - ... - تحدیداً - حد بندی کرنا - کیڑھول  
کرنا - محصور کرنا

تحدید التسل - ضبط ولادت  
حدق - حدائقہ عمومیہ - باغ عام

ہلک گارڈن  
حدال ... - حدالہ ہوار کرنا - رول پھیرنا -

محدالہ - رولر - وہ گول پتھر جس کے ذریعہ  
زمین ہوار کی جائے -

محدالہ بخاریہ - اسٹیم رولر -  
سروک کونٹے کا اجنبی -

حدیس - محتاط - چوکنا -

محدوس - قابل احتیاط -

حدیبیہ - حکمہ جنگ -

حدراب - سنگین بردار - نیزہ بردار -

حداریک - جنگ جو - لڑاکا - سپاہی -

حدرت - وحدات بخاری - ٹوکیکٹر

حداج - نیلام -

حدارہ تحویراً - آزاد کرنا - ایڈیٹ کرنا

تحدیق - آزادی سے متعلق - ادارات

سے متعلق - تصنیف سے متعلق

محدیس - اڈیٹر - مصنف - رائٹر -

حدیس - حداس - گارڈ - حفاظتی دستہ

حدیس شخصی - باڈی گارڈ -

حداسہ پرہ - عدالتی پرہ - صنبلی

حدیش - تحریک - فساد انگیزی کرنا -

حدرض - تھیں یعنی - اشتعال انگیز

حدرف مطبعی اوحدیدی - ٹائپ -

حدرفیاً - حرف بہ حرف -

اجازت - سندوینا - رخصت دینا

اجازت - سند - رخصت

مجازن - سند یافتہ - فاضل

جوازی و اجازت - پرمٹ - لائسنس

جوازی السقد - پاسپورٹ -

بروازہ درہ داری - جہ - جوازات

جاستا - زمیع اگیس جہ - جوازات

جاستا - انعام - جہ - جوازی

جول - جوال - سیاح - گشت کنندہ

پھیری لگانے والا -

جولتہ - گشت - پھیری - دورہ -

جوالہ - موٹو سائیکل

مجال - میدان کارگزارش - موقع -

جہ - کجالات

جو - فضا - ماحول - آب و ہوا -

جوئی - فضائی - ہوائی - خلائی -

آجوائی - ماہر موسمیات -

جیولوجیا - علم طبقات الارض

## ح

حبس احتیاطی - حوالات

محبس - ٹونٹی - جہ - محابیس

حیکۃ الروایۃ - ناول کا پلاٹ - خاکہ

حجب - حجاب - پردہ - پارٹیشن

حجزہ - ریزرو کرنا - محفوظ کرنا

حجاز - رکاوٹ - پارٹیشن - دیوار -

جہ - حواجی -

حداث - واقعہ - بدعت - نوعر -

حدیث - بات - کلام - گفتگو - کہانی -



حشَد ك حشداً - فوج جمع کرنا۔  
حشوا - حشيشة - گدا جہ۔ خشایا  
حشاً - بھرتا۔ ہتھیاریں بارود وغیرہ  
بھرتا۔

حصدا - محصداً - کھیتی کاٹنے کی مشین۔  
حصاة الکلمة اوالعبارة - حصراً -  
بریکٹ لگانا۔

حصيرة - حقی - چٹائی جہ۔ حصاص  
حصافة - اصابت رائے۔  
حصل - حصالة - روپے جمع کرنے کا  
کس۔ سیونگ کس۔

حصيداً - پیداوار۔ نتیجہ۔ حاصل مجموعہ  
آمدنی جہ۔ حصائل

محصل - پیداوار جہ۔ محاصيل  
حصن - حصانة - قلعہ بند ہونا۔

تحصينات - قلعہ بندیاں۔

محصن - قلعہ بند۔ مضبوط۔ محفوظ۔  
حصی - حصاة بولید۔ پتھری جو  
پیشاب کی راہ سے نکلتی ہے۔

إحصاء النفوس - مردم شماری۔

إحصائية - اعداد و شمار۔

حصد - حصومہ - حاضری۔ شرکت۔ موجودگی  
پیشی۔

حصاة - تہذیب۔ تمدن۔ شہرت  
حصوة - شہری۔ تمدنی

حصاة - پارہ تخت جہ۔ حواصی  
محضر - رؤداد - کارروائی جہ۔

محاضر -

إحصاء - پیش کرنا۔ عدالت کی پیشی۔

حرق - حریق - آتش زدگی جہ۔ حرائق  
حركة - تحریک جہ۔ حرکات  
حركة المرور - ٹریفک۔ آمد رفت۔  
محرقات - موٹر یا مشین جس کے ذریعہ  
آلات حرکت کرتے ہیں۔

حزمة - تقدیس۔ عدم جواز، عورت  
خدمة الرجل - بیوی۔

حزب - پارٹی۔ گروہ جہ۔ آحزاب  
شیعوی۔ کیونست پارٹی

اشتراکی - سوشلسٹ پارٹی  
معارضی - حزب مخالف۔

حزبیت - پارٹی بندی۔ گروہ بندی۔  
مختار - گروہ بند۔ پارٹی باز۔

حزبان - ماہ جون۔

حزق - حرقاً - دھاؤ ڈالنا۔

حزم - حزمًا - باندھنا۔ بندل  
بنانا۔ پیک کرنا۔ احتیاط برتنا۔

حزم - محتاط۔ دور اندیشی۔  
حزین - ماتمی۔ سوگی۔

حسب - حاسب - محاسب۔

محاسب - آڈیٹر۔ حسابات کی چابچ  
کرنے والا

محاسبة - اکاؤنٹنگ۔ حساب کا کام  
حساب جاری - کرنٹ اکاؤنٹ۔

حسب - حسناً - چکانا۔ الگ کرنا  
نعم کرنا۔

حاسب - قطعی۔ فیصلہ کن نازک  
حسن - تحسینات - اصلاحات۔

حسو - حساء - سوپ۔ شوربا۔

اِحْصَارِيَّة - سمن عدالت  
 اسْتَحْصَان - طلب کرنا -  
 مُسْتَحْضَرَات - تیار کردہ سامان  
 تَحْصُر - تمدن - تیاری -  
 تَحْصِيْر - شہری بنانا - تیار کرنا  
 حَاصِرَةٌ - کچھ دینا -  
 مُعَاوَرَةٌ - بچھرنے کی تقریر - جہاں جہاں  
 مُحَاوِرَةٌ - لکچر  
 حِصْن - حِصَانَة - پرورش - زینگ  
 دایہ گری -  
 حَاصِنَةٌ - دایہ - زس - جہ - حَوَاضِن  
 حَطٌّ - مَحْطَةٌ - اسٹیشن - جہ -  
 مَحْطَات -  
 حَطْر - ممانعت - رکاوٹ -  
 حَظْرُ التَّجْوَل - کرسیو -  
 حَضْر - حَاضِر - جہ - حَاضِرٌ مَحْرُکٌ بَاعَث  
 حَفْظ - مَحَافِظ - کلکٹ - نگران  
 مَحَافِظُ الْقِيَاس - گارڈ (ریوے) -  
 مَحْفَظَةٌ كَيْس - غلاف - بستہ -  
 مَحْفُوظَات - ریکارڈ - پرانے کاغذات  
 حَفٌّ - مَحْقَةٌ - اسٹریچر - پالکی -  
 حَفْلٌ - بزم - مجمع - جلسہ - تَقْرِيْب -  
 حَفْلَانَةٌ - جلسہ - پارٹی - جہ - حَفْلَات  
 حَفْلَةُ الشَّاي - ٹی پارٹی -  
 حَفْو - حَفَاةٌ - خیر مقدم - اعزاز و اکرام  
 حَقْب - حَقِيْبَةٌ - بیگ - سوٹ کیس  
 جہ - حَقَائِب  
 حَقْق - تَحْقِيق - ثابت کرنا - برلانا -  
 جَانِحٌ بِرُطَالٍ كَرْنَا - چھان بین کرنا -

اسْتَحْقَاق - صلاحیت - اہلیت -  
 مَحْقَق - افسر تحقیقات -  
 حُفْنَة - پچکاری - انجمنشن  
 مَحْفَنَةٌ - سرخ - پچکاری  
 حَكْكٌ - کھریا - چاک  
 حَكَاتُ الْاِحْجَادِ الْكَرِيْمَةِ - نگینہ ساز -  
 جواهرات کو تراشنے والا -  
 مَحْكَةٌ - کسوٹی - جہ - مَحْكَات  
 حُكْم - حکومت - فسرمازوائی - اقتدار  
 عدالتی فیصلہ - فیصلہ -  
 حُكْمٌ عُرْفِيٌّ - مارشل لا -  
 حُكْمُ الْاِرْهَاب - دہشت پسندانہ  
 حکومت -  
 حَكْمٌ دَاسِي - حاکم شہر - کوتوال  
 حَكْمٌ اَدِيَّةٌ - کوتوالی -  
 مَحْكَمَةٌ - عدالت - کچھری  
 مَحْكَمَةٌ جَزَائِيَّةٌ - عدالت خفیہ -  
 = الجنايات عدالت فوجداری  
 = مَدَائِيَّةٌ - سول کورٹ  
 = عَشْكَرِيَّةٌ - فوجداری عدالت -  
 = الْاِسْتِيْنَاَف - مافی کورٹ  
 مَحَاكِمَةٌ مَقْدَمَةٌ - سماعت مقدمہ  
 حَكِي - حَاكِي - گرامفون - ٹولوگرام  
 حَلْب - حَلَابِيَّةٌ - مَحْلَبٌ - دودھ کا  
 کارخانہ - بلک ڈیری -  
 حَلِيْبُ التَّوْمِ - شیرہ بادام -  
 حَلِيْجٌ - مَحْلِيْجَةٌ - پنائی کا کارخانہ -  
 مَحْكَمَةٌ الْجَدْوَلِ - عدالت دیوانی -  
 حَلْدُوْنَةٌ - پیچ دار کیل -

حَلَزُونِی - پیچ دار۔

حِلْف - پیکٹ - معاہدہ کنفیڈریشن

عسکری - فوجی معاہدہ گھجور

جر - اخلاف

حلق - مخلقہ سیفی - ریزرو - بال

کاٹنے کی مشین

حل - پارٹی تقم کرنا - وزارت توڑنا

احتیلا - قبضہ جمانا - قابض ہونا

ارض (محتلہ - مقبوضہ علاقہ

حلہ - ڈھکن دار دھچھی

انحلال - ڈھیلا پن - سستی - کمزوری

خلویات مٹھائیاں

حُمّیۃ - سُرخ - ہولوں کو لگانے کی سُرخ

حَمَن - چرچراپن

حمتسہ - خوش دلانا - مشتعل کرنا

حما سی - پرجوش - مشتعل مزاج

حَمَص - تحميصاً - سینکنا - جھوننا

رُٹسٹ یارونی وغیرہ سینکنا

حمل - جمالہ و حتمالہ پل کے ستون

مَحْمَل - ڈولی - جر - محامل

محمول - گاڑی کا لوڈ - وزن

حامل - اسٹینڈ - جر - حوامل

حی - معامی وکیل - بیرسٹر

حاما - محاماة - وکالت کرنا

مدافعت کرنا

حَمِیَّات محروسہ علاقے

حِمایۃ - حفاظت - حراست - نگہبانی

حِمایۃ دَدَلِیۃ - بین الاقوامی نگرانی

حامیۃ حفاظتی دستہ - خواہی

حَقِیقَۃ - ٹینٹو

حَنک - مُحَنک تجر پر کار - ہوشیار

حوج - حاجیات - ضروریات - لوازم

حُورِیۃ - ہری - جر - حوریات

مَحُوس بیلن - لوہے کی لاٹ جس پر دونوں

پتے گھومتے ہیں

حَدِیۃ الامکان دائرہ امکان

انحاز الیہ کسی کی طرف بھگنا - طرفدار

ہونا

حِیاسنۃ - قبضہ - ملکیت

تَحِیۃ - طرف داری - جانب داری

حَوْض الارض - کیاریاں بنانا

حَوْضُ الشُّغْن - گودی جس میں

جہاز کھڑے ہوتے ہیں

حوط - احتیالی - ریزرو - محفوظ

مُحِیط دائرہ سمندر - ماحول - جر

مُحِیطات

مُتَحَوِّط - مصلحت اندیش - محتاط

حَوَّل تحویلہ - حالت بدلنا - منتقل کرنا

ریل گاڑی کی لائن بدلنا

احال ... الی - مرسل کرنا - محمول کرنا

احال علی المعاش - پنشن دینا

حَالا قی - ابن الوقت

حَوَالۃ - تحویل - آرڈر - حکم

مالیہ چیک - ڈرافٹ - منی آرڈر

حَوَالِی - تقریباً - برابر

تحویل النقود - تبادلہ سکہ

متَحِیۃ - طرف دار - جانب دار

تَحْوِیْلۃ ریلوے کاٹنا

مَحَالَة - بڑا لین  
 مَحْوَل - منی آرڈر بھیجنے والا۔ ڈرائٹ  
 یا چیک کے ذریعہ رقم بھیجنے والا۔  
 مَحْوَلَة - ریوٹے قبیلہ جس کے ذریعہ  
 ریل گاڑی ایک پٹری سے دوسری  
 پٹری پر جاتی ہے۔  
 مَحْوَلِجی مَحْوَل - سو پینچ میں ریل  
 کی فینچی بدلنے والا۔  
 مَحْوَل علیہ رقم پانے والا جس کے پاس  
 منی آرڈر بھیجا جائے۔  
 مَحْوَل لہ - جس کے نام چیک یا ڈرافٹ  
 کیا گیا ہو۔  
 حوی - حاوی - مداری - سپیرا -  
 شعہہ باز - جر - حواۃ  
 محتویات مندرجات -  
 حید - حیاد - محاید - غیر جانب داری  
 محاید غیر جانب دار - کنارہ کش -  
 حیوی - حیاتی - زندگی کا - زندگی کے لئے  
 ناگزیر۔  
 حیویۃ - قوت حیات  
 خ  
 خبأ - مخبأ - پناہ گاہ  
 خبو - مخبرۃ - خبر رسانی -  
 اختباس - امتحان - ٹسٹ - تجربہ  
 استخباس - تحقیق کرنا -  
 خبداۃ - تجربہ - واقفیت - مہارت  
 خبیر صاحب بصیرت - تجربہ کار  
 ماہر فن - جر - خبداۃ -  
 مختبر - تجربہ کار - لیباریٹری -  
 جر - مختبرات  
 خبز - مخبز - روٹی کی دکان - بیکری -  
 بسکٹوں کا تنور -  
 ختم - مہر - مہر کا نشان - مہر کا آلہ  
 ختامۃ - اسٹامپ پیڈ - مہر کی سیاہی  
 کی ڈبہ  
 خد - مخدۃ - تکیہ - گدا -  
 خدۃ - مخدۃ - آسن کرنا - بیہوش کرنا -  
 خداس - خداسۃ - بے ہوشی  
 مخداس - بے ہوش یا سن کرنے والا  
 خداد - استخد ام - خدمت لینا - ملازم  
 رکھنا - کام لینا - استعمال کرنا -  
 مستخد ام - ملازم - نوکر - کارکن -  
 خاد مینۃ - ملازمت - نوکری -  
 خدیو - خدیوی - ترکی (دائسرائے مصر  
 کے سابق فرماں رواؤں کا لقب جو  
 سلطان ترکی کے تابع ہوتے تھے -  
 خراج - خراج و متخرج - کسی تعلیمی ادارہ  
 کا فارغ التحصیل - گریجویٹ -  
 خراج - سند فارغ حاصل کرنا  
 خادجی - بیرونی - غیر ملکی -  
 مخبر - فلم وغیرہ تیار کرنے والا -  
 خرد - مخبر - ستاری -  
 خرد و خرداۃ - خرد کا کام یا پیشہ  
 خرد الخشب - خرد کا کام کرنے والا  
 مخرطۃ - خرد کی مشین -  
 خردیۃ - خرد افیانی نقشہ - نقشہ  
 جر - خرد اظ -

مَحَالَة - بڑا لین  
 مَحْوَل - منی آرڈر بھیجنے والا۔ ڈرائٹ  
 یا چیک کے ذریعہ رقم بھیجنے والا۔  
 مَحْوَلَة - ریوٹے قبیلہ جس کے ذریعہ  
 ریل گاڑی ایک پٹری سے دوسری  
 پٹری پر جاتی ہے۔  
 مَحْوَلِجی مَحْوَل - سو پینچ میں ریل  
 کی فینچی بدلنے والا۔  
 مَحْوَل علیہ رقم پانے والا جس کے پاس  
 منی آرڈر بھیجا جائے۔  
 مَحْوَل لہ - جس کے نام چیک یا ڈرافٹ  
 کیا گیا ہو۔  
 حوی - حاوی - مداری - سپیرا -  
 شعہہ باز - جر - حواۃ  
 محتویات مندرجات -  
 حید - حیاد - محاید - غیر جانب داری  
 محاید غیر جانب دار - کنارہ کش -  
 حیوی - حیاتی - زندگی کا - زندگی کے لئے  
 ناگزیر۔  
 حیویۃ - قوت حیات  
 خ  
 خبأ - مخبأ - پناہ گاہ  
 خبو - مخبرۃ - خبر رسانی -  
 اختباس - امتحان - ٹسٹ - تجربہ  
 استخباس - تحقیق کرنا -  
 خبداۃ - تجربہ - واقفیت - مہارت  
 خبیر صاحب بصیرت - تجربہ کار  
 ماہر فن - جر - خبداۃ -

تخاطب - شرط یا نہی - ہازنگا -  
 اخطاس - تنبیہ - نرس -  
 خَطَطُ الارض - حد بندی کرنا - چک بندی  
 کرنا - کھیت میں کیریاں بنانا -  
 خَطْمٌ وَاخْتَطَّ - منصوبہ واسکیم بنانا  
 خَطَّ - لائن - سطر - لکھائی - رسم الخط -  
 خط جوتی - ایرلائن - فضائی راستہ  
 خَطَّ سَكَّةَ الحديد ریلوے لائن  
 خُطَّةٌ - لائسن عمل - اسکیم - منصوبہ - جہ:  
 خُطَطٌ -  
 تخطیط - پیمائش زمین - سروے -  
 چک بندی - حد بندی -  
 خَصْرٌ - خفیلہ - چوکیدار - جہ: خَصْرٌ اذ  
 مَخَصْرٌ - چرکی - پولیس چوکی -  
 حَقِصٌ - کم کرنا -  
 تخقیص - رعایت - کیشن  
 خُفْتُ - ہن بٹ - سیلیر - جہ: اَخْفَاتُ  
 خُفَّةُ اليد - ہتھکی صفائی - شعبہ -  
 خَفَقَ البیض - خَفَقًا - انڈاپھینٹنا  
 مِحْفَةُ البیض - انڈاپھینٹنے کا آلہ -  
 خَلَصٌ - خالص اجسیٹا البیڈ -  
 محمول ڈاک - پوسٹج -  
 استخلاص - مال پھرانا -  
 خَلَجٌ - خَلَاةٌ - آدارگی -  
 خَلِجٌ - آوارہ - بد معاش -  
 خَلْفٌ - مُخَلَّفَاتٌ - متروک سامان  
 خَلْفِيَّةُ الصودیک گراؤن - پس  
 منظر -  
 خَلْفَةٌ - کپڑے کا ٹکڑا -

خرع - مخترع - ایجاد - جہ: مخترعات  
 خدم - خدامتہ - سوراخ کرنے کا اوزار  
 تغیریمتہ - مختصر راستہ -  
 خَزَلٌ الكَلَامُ - خذلاو اختزال  
 مختصر کرنا - اشاروں میں کلام کرنا -  
 اختزال - شارٹ نویسی - اسٹینوگرافی  
 خزن - خزانة - الماری - تجوری -  
 خَزِينَةٌ - خزانہ - بیت المال -  
 خَزَانٌ - تالاب - ڈیم جو جسٹکی  
 جہ: خَزَانَاتُ  
 خازن - خزانچی - منتظم گودام -  
 مَخْزَنٌ - دوکان - اسٹور - گودام  
 جہ: مَخَايِنُ  
 خشب - خشیب - بغیر پالش کیا ہوا -  
 خَشْتٌ - اکھڑ - سادہ - بد اخلاق -  
 خصص - خصوص - تعلق - نسبت  
 تَخَصُّصٌ - منقر و ہوتا - امتیاز و مہارت  
 حاصل کرنا کسی علمی شعبہ کا ماہر ہونا -  
 مَتَخَصِّصٌ - قاضی - ماہر -  
 اختصاص - دائرہ اختیار - جہ:  
 اختصاصات  
 اختصاصی - اسپیشلسٹ - ماہر -  
 قحصوص - اسپیشل پرائیویٹ -  
 خصمہ - خصم کسی کے مقابل پر قیمت میں  
 کمی کر دینا -  
 خَصَمَ لَهُ - ماتحت و دست نگر ہونا -  
 خاضِعٌ - ماتحت - تابع - دست نگر -  
 خطی - خاطر ب... خاطر بے بازی لگانا  
 خطرہ مول لینا -

دبیس - دبیس - پی - سیفی پین - بالوں  
کا کلاب - جہ - دباییس  
دیخ - مَدَابَعَة - چمڑا صاف کرنے کا کارخانہ  
دَخْل - آمدنی -

دخیل - بدسی بغیر مکی - جہ - دخیل  
دا اخیلیتہ - اندرونی معاہدات کا حکمہ -  
مدخول آمدنی - پیداوار

دخن - تمباکو - بھاپ - دھواں  
دخاخنی - تمباکو لوازم فروخت کرنے والا  
دخن تدخینا - تمباکو پینا - حق پینا  
یا سگریٹ پینا -

داخنة - میداختہ - دھواں نکلنے  
کی جہتی -

دتریدہ علی ... بدتریدہ مشفق کرنا -

ٹرینگ دینا - تربیت دینا -

تدرب علی - مشق کرنا تربیت پانا -

دُرْبَة - تجربہ - مشق - عادت -

دراج - مَلْدَجْ - ہوائی اڈے کی سڑک  
رن وے -

دُراج - میری دراز - جہ - آدم آج

درجۃ - گریڈ -

درس - دس اساتذہ تعلیم - مطالعہ -

غور و خوض - معاینہ -

مدارسة فکر کیتب و فکر -

مدارسق - درسی اسکول کا -

دسع - مدسع - زرہ پوش

مددعات - بکتر بند کا ڈیاں

دعو - دعایہ - پروپیگنڈا

دعوة و دعوی - مقدمہ - کیس -

خلق - خَلْقَاتِي - ہرنے کپڑے بچنے والا  
اختلاق - اختراع کرنا - گھڑنا  
مُخْتَلَق - من گھڑت - ساختہ جعلی  
نیاؤں - بے حقیقت  
خَلْوِي - دیہاتی -

اخلاء - اخراج ، جلا وطنی -  
خَمَاسِي - مَحَمَس - پانچ کئی - پانچ اجڑالی  
خَمُول - سستی - گنماہی -

خول - تخویل الحق سپرد کرنا - سپرد کرنا -  
خان - سرائے - ہوٹل - جہ - خانانہ

خَيْط القَنْب - ستلی  
خَيْش - کینٹنس - ایک دیر کپڑا -

خَيْل اليه كذا - اسے ایسا خیال ہوا -  
اس نے ایسا سمجھا -

مُخَيَّل - حیران کرنا - توہم خیز -  
مُخَيَّل - قوت تجزیلیہ - داغ -

خيم - مَخِيْم - مَخِيْمَات - خیمہ گاہ -  
کیمپ - پناہ گزین کیمپ -

خام - خام - ناچختہ - سادہ  
خامات - ابتدائی میٹریل - خام اشیاء -

## د

دایل - گھڑی کا ڈائل

دایابہ - ڈینک - جہ - دایات

دبج - دیباچہ - سزنامہ - القاب - خط کا  
یا کتاب کا تہیدی مضمون -

دبج خطہ - اسکیم بنانا -

دبجہ - اسٹار - فوجیوں کی وردی کا  
ستارہ - پتھر توڑنے کا آلہ -

دفع - دقایبہ - مدافاة - اسٹو  
انجیٹی -

دفتز - کاپی - نوٹ بک - جر - دفاتر  
دفترخانہ محافظ خانہ -

دفع - ادائیگی

دفعہ ماہیتہ قسط

دافع محرک - سبب - جر - دوافح

مدقح توپ - جر - مدافح -

مدفوع الیہ - وصول کنندہ

مدققیتہ - توپ خانہ -

دقہ - باریکی - مہارت - نزاکت - پختگی

پوشیاری -

دکتا توپ - ڈکٹیٹ

دکتوس - ڈاکٹر - اعلیٰ علمی ڈگری والا -

ڈکتوس فی الحقوق - ڈاکٹر آف لا -

ڈولاب - مشین - آلہ - پہنیہ -

دلی - دلیل - راہ نما - گائیڈ -

دلیل الیلدا - ڈائریکٹری -

دلیل السفن - پائلٹ - جہازران -

دھر - مدافعت - جنگی جہاز

دھن - تیل - وارنش - روغن -

دھان - وارنش - روغن -

دھات - رنگ ساز - روغن گر -

دوس - ڈاس - جر - ادواس - گھر -

دارالآثار - میوزیم -

دارالتمثیل - تھیٹر - سینما گھر

دارالقضاء - کچہری -

دائرة حلقہ - دفتر - علاقہ - زون -

جر - دواشو -

دوسرا - نمبر مقررہ وقت - درجہ - نالی -

عمارت کی منزل - اسٹوری

دوریتہ - گشتی پارٹی - جر - ڈوریٹات

ڈو آس - متحرک - گھومتا (دروازہ وغیرہ)

پھیری والا -

اداسا - نظم و نسق - انتظام - اہتمام

دفتر - محکمہ -

اداسی - انتظامی

مدادیں - وقت شناس - زمانہ ساز -

مدیر - ناظم - مہتمم - مینجر - کلکٹر -

جر - مداساء

مدیریتہ - ضلع - صوبہ (مصری)

دوس - دواسا - ہائیکل یا کرسی

انجن - مشین وغیرہ کا پیڈل -

دولتہ - حکومت - ریاست - مملکت -

جر - ڈول

الدول العظمیٰ - برطی طاقتیں -

دولتی - بین الاقوامی -

مدادولہ - مخصوص بات چیت - جر -

مدادولت -

دولتہ - تدوین الاقوامی بنا دینا -

دیوان - عدالت - دفتر - محکمہ -

دیمنی اٹی - عوامی - ڈیموکریٹ -

دیمنی اہلیتہ - جمہوریت -

## ذ

ذخیرہ - اسٹاک کرنا - ہتھیار جمع کرنا

ذخیرہ - اسٹاک - جمع کردہ مال -

قذیبہ -

ذرات - ادخاسا - مال جمع کرنا - روپیہ بچانا -  
 ذرات - انکم - جو ہر فرد -  
 ذراتی - ایچی - جوہری -  
 ذکر - ذکرنامی - یادگار - یاد -  
 تذکار - یادگار - یاد -  
 تذکرہ - ٹکٹ - حج - تذکرہ آیکر  
 تذکرچی - ٹکٹ یا بوجہ - بنگلہ کلرک -  
 مذکورہ - میمورنڈم - یادداشت -  
 نوٹ بک - ایجنڈا - حج - مذکورہ  
 ذوات - شخصیت - حیثیت -  
 ذیچ - اذاعت - نشریہ - براڈ کاسٹنگ  
 اذاعات - ریڈیو نشریات - افواہیں  
 مذیچ - اناؤنسر -  
 مذبا - ریڈیو - بھدیو - میکرفون  
 ذیچ  
 سا دیو - ریڈیو (مع) ڈائریس سیٹ -  
 سا دیوم - ریڈیم - ایک چمکیلا مادہ -  
 سانس الجلسہ - صدارت کرنا -  
 ریاستہ صدارت - افسری - سربراہی  
 سڈ ٹیس صدر بنانا - افسر بنانا -  
 کتاب یا مضمون پر عنوان لگانا -  
 س اسمانی - سرمایہ دار -  
 س اسمائیتہ - سرمایہ داری -  
 س ٹیس صدر - افسر - ہیڈ - چیف  
 سپرینٹنڈنٹ - سربراہ - ذمہ دار - ڈین -  
 س ٹیسٹی - بنیادی  
 سبٹ - سرباط - رسی - پٹی - دوری تسمہ  
 ٹائیٹنس -

سرب - تربیعہ خانہ  
 سرتبہ - درجہ - عمدہ - منصب - حج -  
 سراتب - مالی یا نت - تنخواہ - وظیفہ  
 حج - ساداتب  
 سرتیب نظام - تدبیر - انتظام -  
 سرتب - رتاجہ - پھاٹک - بڑا دروازہ -  
 سرتل - سرتیلہ - ترغ - گنگنا بسٹ -  
 سرتن - سرتینہ - گیس کی لائین - لال ٹین  
 سراج - سراج - سماج - سماجیہ کارکن -  
 جاچنا مشورہ کرنا - نظر ثانی کرنا -  
 ہراجہ جاچ کر کھنڈہ - آڈیٹ حساب  
 رجعیہ - قدامت پسندی  
 سرجم - ترجمہ حریفہ لفظی ترجمہ  
 ترجمہ تفسیری - مفہومی ترجمہ  
 سرتبہ ترجمہ - خیر مقدم کرنا  
 سرتبہ - خیر مقدمی -  
 سرتبہ - سفر - سفر سیاحت -  
 سرتبہ - سیاحت -  
 سرتبہ - متونی - مہاجر -  
 سرتبہ - پربت - لائسنس - اجازت  
 سرتبہ - سرتبہ - بنڈل بنانا - پیکٹ  
 بنانا - بانڈنا -  
 سرتبہ - پارسل - پیکٹ  
 حج - ذمہ  
 ذمہ داری - گانڈ کا ایک دم -  
 سرتبہ - سرتبہ - میل موجدانا -  
 سرتبہ - نیچے گرانا -  
 سرتبہ - نیل - نشین -  
 سرتبہ - ڈرامے کا اسٹیج - تھیٹر -



رسالة الرصاص مشين گن۔  
 رسد۔ رسيد۔ محفوظ سرمايه۔ بينک بيلنس  
 ج۔: ارضيدۃ۔  
 رسحق۔ رصاص۔ سييه۔  
 قلم الرصاص۔ پتسل۔  
 رصاصۃ۔ گولی (بندوق کی)  
 رصفا۔ راستہ کو پختہ کرنا۔  
 هر صوق پختہ۔ سيمينٹ  
 رصيف۔ پليٹ فارم۔ فٹ پاتھ۔  
 ج۔: ارضيفۃ  
 رصاع۔ رصاعۃ۔ دودھ پلانے کی شيشی۔  
 رصطب۔ هر طببات۔ فرحت بخش مشروبات  
 رعویتۃ۔ ملکی حقوق۔ نيشنلی۔  
 رفاء۔ هر قا۔ پورٹ۔ بندرگاہ۔ ج۔: هر افق  
 رفق۔ هر فق۔ ج۔: هر افق۔ ضروریات  
 لوازم شے۔ ناگزیر لوازم۔  
 آرذقی... یکنایه منسک کرنا۔ بھتی کرنا  
 هر افق۔ ہم رشتہ۔ منسک۔  
 هر ققۃ۔ بلائنگ پیڈ۔  
 رقب... رقبۃ۔ ہجرائی کرنا۔  
 رقبۃ ہجرائی کنٹرول سنسر۔ چھان بین  
 مراقب۔ نگران۔ سپروائزر۔  
 هر قب۔ رصدگاہ۔  
 مراقب فلکی۔ ٹیلیسکوپ۔  
 رقص۔ رقاصۃ (الساعۃ)۔ پنڈولم۔  
 هر قق۔ ناچ گھر۔ ڈانسنگ ہال۔  
 رقص۔ رقصۃ العنوان۔ لیبیل۔ چٹ۔  
 مدققۃ۔ اسٹینسل  
 رقم۔ نمبر۔ ج۔: ارقام

رسائل۔ رسالة پیغام۔ خط۔ پمٹ۔ مقالہ  
 مشین  
 رسالۃ الدكتور۔ تھیسز۔ دو مقالہ  
 جوڈا کریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے لئے  
 لکھا جائے۔  
 رسالۃ مشن۔ ڈیلیکیشن۔ وفد۔ ج۔:۔  
 رسالیات۔  
 رسد اسیل۔ نامہ نگار۔  
 رسد اسئلۃ۔ نامہ نگاری۔  
 رسس۔ رسما۔ تصویر بنانا۔ نقشہ بنانا۔  
 ڈیزائن بنانا۔  
 رسس۔ نقشہ۔ نقاشی۔ تصویر۔ ڈیزائن۔  
 ج۔:۔ رسسوم۔  
 رسوم۔ فیس۔ محصول۔ ٹیکس  
 رسیجی۔ سرکاری۔ قانونی۔ رواجی۔  
 رسیجہ۔ رسیجی۔ نیم سرکاری۔  
 رسسٹی۔ سرکاری طور پر۔ قانوناً۔  
 رسسام۔ نقشہ ساز۔ ڈیزائنر ڈوگرافز  
 رسس۔ اسٹوڈیو۔ فٹو لینے کی جگہ۔  
 ڈیزائن روم  
 موسوم۔ فرمان۔ سرکلر۔ حکم۔ مقررہ۔  
 اصول۔ ج۔:۔ هر اسسیم  
 رسو۔ ہر سا۔ جہاز کا ٹگر۔ ج۔:۔  
 رسسحہ۔ منصب۔ توشیحاً۔ کسی منصب  
 کے لئے امیدوار نامزد کرنا۔  
 رسسٹیم۔ کنڈیڈٹ۔ امیدوار  
 هر تیلھ الماء وراشخ۔ فلٹر۔ پانی صاف  
 کرنے کا آلہ۔  
 رسش۔ رشاشۃ۔ آب پاش۔

ذکب - ذکیمة - بوری - بڑا اھیلا۔  
 سن لہج - میزلاج - چٹختی۔  
 سن لہج - پھیلواں کھڑاؤں۔  
 ذکب الارض تنزیلطا - زمین پر ٹکریٹ ڈالنا۔  
 ذمیل - شریک کادہ - ہم پیشہ۔  
 ذنبک - اسپرنگ۔  
 ذنک - توتیا - جست۔  
 ذہبیاتہ - گلان - چھول رکھنے کا برتن - جہ:

ذہبیات

مذہبیاتہ گلان۔

بن وجہ - کسی شے کا جرٹا - دو۔

مزدوج - ڈبل - دوہرا

خط مزدوج ڈبل لائن

زودۃ ب... تندویدا ہم پہنچانا۔

سپلائی کرنا - دینا۔

ذو ساعۃ - ایک ملاقات

ذیارۃ - ملاقات - کسی ملک کا مددہ

زائر - ملاقاتی - جہ - سزا ڈاس۔

مزار - قابل زیارت مقام۔

زول - زوال العمل مزاوالتہ۔

مسلسل کرنا - بطور پیشہ کرنا۔

مزدول - ٹیلیفون کا ڈائل۔

مینولۃ دھوپ بھڑی۔

سرایت الآلۃ - مشین کو تیل لگانا۔

سرایت العاز - مٹی کا تیل۔

سرایت - زیادۃ - اضافہ - الاؤنس

زائدۃ دودیتہ اینڈی - سائیس۔

مقنات - نیلام۔

مناکاتہ - فروختگی پدیرلیہ نیلام

ترقیم بنروان  
 سربک - سربک - سواری - جہاز  
 سربکاب - سواریاں - مسافر  
 سربک - سرکس - مرتبہ - پوزیشن - عمدہ  
 اسامی - پوسٹ - صدر مقام۔  
 سربت - سربت - گونج دار۔  
 سربن - راہن - حاضر و موجود۔  
 حالۃ زہیتہ - موجودہ حالت  
 سربود - سربود - راہنما۔

رایت الفتناء خلا باز - خلائی مسافر۔

خلائی کھوج لگانے والا - اسکاؤٹ

سروی - روایت - ناول - قصہ۔

روائی - ناول نویس۔

سرتی - آب پاشی۔

ریفت - ویران - زراعتی زمین جہ - ادیا

ز

زبدیتہ - پیالہ - جہ - زبادی

زبل - زبالہ کوڑا۔

صندوق الزبالہ کوڑے کی گاڑی۔

متر بیلہ - کوڑا خانہ

ذحف الجحیش - پیش قدمی کرنا۔

ذخافۃ زمین مہوار کرنے کا آلہ۔

ذخوقۃ - پھسلواں زمین پھسلواں تختہ۔

ذعم - زعامتہ - لیڈری - لیڈرشپ۔

ذعلیم - قوم کا لیڈر - سربراہ جہ - ذعلیمہ

ذعمیم - عصابی کسی پارٹی کا سرغنہ۔

ذفت - سمارکول۔

ذقتہ تزخیتا - سمارکول ملن - ڈالنا۔

سجّل - رجسٹر - ریکارڈ - قدیم کا مذاق  
دستاویزات - ج - سجّلات

سجّان - جیلر - جیل کا داروغہ  
سجّاب - لاٹری ٹکات - کسی عملہ قریبے فوج  
بٹانا - لائسنس وغیرہ ضبط کرنا -

سحق - مسحوق - پاؤڈر - میجن - ج -  
مساحیق -

سخن - سخان - پانی گرم کرنے کا سامان  
پیڑ - بجلی کا چوٹھا -

سدس - مسدّس - ریوالور - ج -

مُسَدّاسات

سیرک طائرات - ہوائی جہازوں کی کھپ  
سجّح الجیش - فوج توڑنا -

سجّاح - رائی

اطلاق التولم رہ کرنا -

مسجّح - تماشا گاہ -

مسجّحیتہ ڈراما - ج - مسجّحات  
سرد - سردقہ - شامیانہ رکاتا -

سردق شامیانہ - پنڈال

سُدّعتہ تیزی - رفتار - اسپید -

سُدّیح - اکسپریس -

سص - مسطریٹھ - اکیل پیمانہ -

جدول کش -

سَعَادَة - خوش حالی - تعظیمی لقب -

صاحب السعادة - یا - سعادة دارال

نرات ماب -

مساعید - مدگار - اسٹنٹ -

سعی - نرش و بھاؤ - ج - آسعداد

سَعْر السعلة - سامان کی قیمت متعزّر کرنا

سجّی - طرز - فیشن - بھیس - روپ -  
ج - آزیاء -

## س

سأل - مسؤل - ذمہ دار -

مسئولیتہ - ذمہ داری -

سبکخ - کھاد روارجم

سبہ - سبویٹھ - تختہ سیاہ - بلیک بورڈ

مسبکرو مسبار کسوٹی -

سبوتو - اسپرٹ -

سبوق - سوابق - گزشتہ جرائم

سبک - ڈھلائی - دھاتوں کی گڈائی -

مسبک - ڈھلائی کا رخانہ -

مسبک حروف الطباعة -

ٹائپ فونڈری

سبیکتہ بیونے چاندی یا دیگر دھاتوں

کا پگھلا ہوا ڈالا - ج - سبائک

سبت - خاتون روا

سبتوقی - ساٹھ سالہ -

سبتر - سبتاس - آڑ - رکاوٹ -

سبترة - کوٹ - آستین دار صدری

سبتجادة - جماناز - قالین ج - سبتاجید

سجّیل .... تسجیلا - ورج کرنا - رجسٹر

میں لکھنا - بیان وغیرہ قلم بند کرنا - ریکارڈ

کرنا - رجسٹری کرنا -

مسجّل - رجسٹرڈ - مندرج -

مسجّل - رجسٹرار -

مسجّلة - ٹیپ ریکارڈ - آواز

محفوظ کرنے کا آلہ -

سَلطَنَة - چٹنی -	ساعتی - بھاؤ کرنا - سودا کرنا -
سُلطانیة - بڑا پیالہ - ڈونگا -	سِعْر التبادل - شرح تبادلہ -
سُلْفَة - قرہن مع سود -	سعت - اسحات - رلیف - امداد -
سَلْفًا - پیشگی پیلے	طبی امداد -
سَلْك - تار - لائن - جرہ - اسلاك	سعی - ساعی البرید - پوسٹ میں -
سیاستی - سیاسی لائن	سَفَرَجَة - ہنڈی -
سُلوك طرز عمل - چال چلن - برتاؤ -	سفر - سفیر - ایک ملک کا دوسرے ملک
سُلوكی چال چلن سے متعلق -	میں مستقل نمائندہ - جرہ - سفر اہ
لاسلیکی - وائرلیس	سفارۃ - عہدہ سفارت - سفارت خانہ
سَل - سَلالة مَلِكِيَّة - شاہی خاندان -	سُفوسی - بے حجابی - بے پردگی -
سَلوئی - پرامن - امن سے متعلق -	سفن - سفینہ - جہاز - جرہ - سفن
تسليم وصول کرنا -	سِفانَة - کشتی رانی - جہاز رانی -
سَالْمَة مَسالْمَة - صلح کرنا	سِقَطِي - پرانے کپڑوں کا تاجر -
مَسالِم - صلح پسند - صلح جو -	سِقْف - سقیفہ - سائبان - جرہ -
مُسْتَلِم - وصول کنندہ	سِقائِف
سَمَح - سَمَاحَة - عالی ظرفی - فراخ دلی -	سُكَّر - شکر - کھانڈ -
روداری (اعزازی خطاب)	سَخَر - گرویا شکر -
سَمَاحَة ذَلال و صاحب السَمَاحَة	سُكَّرِيَّة - شکر دان -
مُسَامَحَة تعطیل - چھٹی - معافی -	سُكَّرِيَّة - طشتری - پلیٹ -
سَمَد الارض تَسْمِيْدًا - کھاڈو انا -	سُكَّرِيَّة - سکرٹری
سَماد کھاڈو - جرہ - اَسْمَدَة	سُكَّرِيَّة - سکرٹریٹ - سکرٹری آفس
سَمَح - مَسْمَاح - اسٹیٹ سکوپ -	سُكَّة الحنید ریوے
طبی آلہ جس کے ذریعہ سینے کی آواز	سُلْح ..... تسلیحاً - مسلح کرنا
سُنی جاتی ہے -	سلاح الطیران - فضائی طاقت - ہوائی
سَمَو - بلندی - عظمت (کلمہ تعظیم)	فوج -
جو عموماً شاہی خاندان کے افراد کے لئے	تسلیح - ہتھیار بندی -
استعمال کیا جاتا ہے یعنی اعلیٰ حضرت -	سُلطَة اختیار منصب حاکم -
عالی جناب -	مُطْلَقَة - اختیار کامل -
سَمادَة پچھا - سائبان -	سُلطات حاکم - اتھارٹیز -

## ش

شان ج: شئون - حالات - معاملات  
 کیفیات - مزوریات -  
 شبک - شبکة - جال - جالی -  
 اشتباک - الجھاؤ - تصادم جھڑپ  
 شبک سگریٹ پائپ حقی نے -  
 شبک سیلخ دار کھڑکی - ج: -  
 شبائیک  
 مشیک - کبسوا - کلپ -  
 شبہ جزیرہ - جزیرہ نما -  
 شبہ رسمیت - نیم سرکاری -  
 شتو - مثنوی - گرم مقام جہاں موسم سرما  
 گزارا جائے - ج: - مثنویات  
 شجب - مشجب - ہک - ٹھونٹی -  
 شرجح - نتیجہ - ہمت انہرائی -  
 شحط - شحیط - دیاسلانی -  
 شخن - شخنہ - کشتی یا جہاز پر سامان لادنا  
 شخن و شخنہ وزن - لوڈ - لادی - ملاوا  
 جانے والا سامان  
 شند سے شند و ذآ - جماعت سے الگ ہوتا  
 خان قیاس ہوتا - مخالفت اصول ہونا -  
 شرب تشربیا - پیوست کرتا - دماغ  
 میں بٹھاتا - تلفیق کرتا -  
 شربتہ - یعنی - سوپ  
 شراب - شربت - مشروب -  
 شرج - فیتہ - ڈور -  
 شرح - شرحا - سلائس کاٹنا -  
 پوسٹ مارٹم کرنا -

سندا - رسید - داؤچر - وثیقہ - بونڈ -  
 سندات - دستاویزات -  
 مسندتات - دستاویزات  
 سہم - کپنی کا حصہ - شیر -  
 سٹاہیم - حصہ دار -  
 سٹاہم و آسٹہم فی حصہ لینا -  
 سہم ناریق - رائٹ -  
 سیجر - ساحہ - میدان - گراؤنڈ -  
 ساحۃ المصارعة کشتی کا دنگل  
 سود - سادہ - بچھانا - سکھانا -  
 سیادہ - اقتدار - بالادستی -  
 سید - بااقتدار - مسٹر - جناب -  
 سیدتات خواتین -  
 سوریا - ملک شام -  
 سوہمی - ملک شام کا رہنے والا -  
 سوع - ساعۃ گھڑی -  
 ساعاقی - گھڑی ساز  
 سوق - بازار - مارکیٹ  
 سوداء - بلیک مارکیٹ -  
 تسوق - خرید و فروخت کرتا -  
 سٹوق - ڈائوری - گاڑی چلانا  
 سٹاق - سائق - ڈرائیور -  
 سٹوی - نسویہ - برابر کرنا - جھگڑا چکانا  
 حساب بے باق کرنا -  
 سیرج - سیاج - یاٹھ - چہار دیواری -  
 سیتجارتہ - سگریٹ - ج: - سیچائڈ  
 سیر - رفتار - چال - ترقی  
 سیتارہ - موٹر - ج: - سیتارات  
 سائر - ترقی یافتہ - متحرک - جاری -

شَرْحَة - سائس لبا لکھا - قاش -  
 مَشْرَحَة - چیر پھاڑ اور پوسٹ  
 مارم کا کمرہ -  
 شَرود - قرار - آوارگی - انتشار ذہنی  
 شَرْطَة - پولس جہاں - مَشْرَط و - شَرْطِی  
 شَرْطَة ( - ) پھوٹا خط جو دو جہلوں  
 کے درمیان ہوتا ہے  
 شَرْطِیَّة - معاہدہ - بھگی ہوئی شرط  
 شَرْطِی - فیتہ - تسمہ - ٹیپ - پیٹی -  
 جہاں - آسٹریٹ  
 مَشْرَط آلہ جراحی جس سے جلد کو کاٹا  
 جائے -  
 شَرَع - شرعاً - قانون بنانا -  
 شرعی - قانونی - جائز -  
 شَارِع - قانون ساز - لائحہ عمل اور  
 منصوبہ تیار کرنے والا -  
 تَشْرِیح - قانون سازی  
 مَشْرُوع - اسکیم - منصوبہ مسودہ  
 قانون - جائز -  
 مَشْرِیْع - قانون داں - پیرسٹر -  
 شَرَف - عورت - اعزاز - فخر -  
 شَرْحِی - اعزازی -  
 اشرف علی... بھگوانی کرنا -  
 المَشْرِیْف - بھگوان - سرپرست  
 شَرْفَة - بالکنی - گیلری - جہاں - شَرَف  
 تَشْرِیْفَة - تقریب سرکاری -  
 تَشْرِیْقَاتی - سرکاری تقریبات کا منظم  
 شَرَق - مشرقی ممالک  
 الشَّرْق الاَدْنِی - مشرق قریب -

الشَّرْق الاَقْصَى - مشرق بعید -  
 شَرَك - جال - بھندا -  
 شَرِكَة و شَرِكَة کینی بزم - جہاں -  
 شَرِکَات -  
 شَرِک و مشارک - حصہ دار -  
 اشْتِرَاک - اخبار یا رسالہ کی خریداری -  
 اخبار یا رسالہ کا چندہ -  
 اشْتِرَاکِی سوشلسٹ -  
 اشْتِرَاکِیَّة سوشلزم -  
 اشْتِرَاکِیَّة مَطْبَعَة - کمپوزر -  
 شَطَب - شَطَبًا - مٹانا - قلم زد کرنا -  
 نام خارج کرنا -  
 شَعَب - پبلک - عوام - جہاں - شَعْبِی  
 شَعْبِی - عوامی جمہوری -  
 شِعَا س - نشان امتیاز - بیج - مارک  
 شِعْوِی - جذبہ - وجدان  
 شَعْل - مَشَاعِل - مشعل بردار -  
 شَعْب - پد امینی - شرارت - فساد بنگامہ  
 شَعَاب مَشَاعِل - غنڈہ - فساد  
 مَشَاعِل غنڈہ گردی - فساد انگیزی -  
 شَعْل - مشعل - مصروفیت  
 شَعْل تَشْغِیل - کام پر لگانا - مصروف  
 بنانا - مشین چالو کرنا -  
 شَعَال - کاربن - مزدور - بچہ مصروف  
 شَفَاعِی - سفارشی -  
 شَقْرَی - شَقْوِی - زبانی -  
 شَفْوِی - مستشفی - ہسپتال - جہاں -  
 مَسْتَشْفِیَات  
 شُقَّة - عمارت کی ایک منزل - ایک حصہ -

شادینش۔ سار جٹ۔ دس سپاہیوں کا  
 افسر۔  
 شوی۔ شوایتہ۔ جھوننے اور سینکے کا  
 آلہ۔ فراتی پن۔ کڑپھا۔  
 نشیت۔ پھینٹ۔ ایک کپڑا  
 شیخ۔ شائعہ۔ افواہ۔ جہ۔ شائعات  
 شیوع۔ اشاعت۔  
 شیوعی۔ کمیونسٹ۔  
 شیوعیہ کمیونزم  
 إشاعة افواہ۔ جہ۔ اشاعت

## ص

صالة۔ بڑا کمرہ۔ کمرہ استقبال  
 صبح۔ وصیاح۔ لمپ۔  
 صبح۔ مصبح۔ سینکے کی جالی۔  
 صبح۔ مصبغہ۔ رنگائی کا کارخانہ  
 صبن۔ صبان۔ صابن ساز۔  
 صابوتہ۔ صابن کی ٹکیہ۔  
 مصبنة۔ صابن کا کارخانہ  
 صحح۔ صحیحی۔ صحت افزا صحت سے متعلق  
 صحف۔ اخبارات۔ واہ۔ صحیفہ  
 صحف اخبار فروش۔  
 صحافة۔ اخبار نویسی۔  
 صحیحی۔ اخبار نویس  
 صحف۔ پلیٹ۔ جہ۔ صحون  
 صداد۔ سلسلہ تعلق۔ بصد دکتا  
 فلاں چیز کے سلسلہ میں۔  
 صداد الکتاب۔ پیش لفظ لکھنا۔  
 اصدار۔ جاری کرنا۔ شائع کرنا۔

شکر۔ شیکارہ۔ ٹوس وغیرہ سینکے کی جالی۔  
 بیگ۔ تھیلا۔  
 شکل الکلمة۔ شکارا۔ اعراب لگانا  
 تشکیل۔ مصور کرنا۔ شکل دینا۔  
 تشکیل دینا۔ کیمیوی وغیرہ بنانا۔  
 تشکلات انتظامات۔ تیاریاں  
 مشکلة۔ پیچیدہ مسئلہ۔ الجھن۔ تفسیر  
 مشکول۔ اعراب۔  
 مثل۔ مثلال۔ ابشار۔ جہ۔ مثلالات  
 شمع۔ شماعہ۔ کپڑے لٹکانے کا بیگ یا سینڈ  
 مشمع۔ آئل کلا تھ۔ موم کی پالش کیا  
 ہو کپڑا۔ چکنا کپڑا۔  
 شماعۃ لالین کا کلا۔ برنز۔  
 شنت۔ شنتہ۔ بیگ۔ تھیلا۔  
 شہد المجلس۔ شہودا۔ شریک ہونا  
 شہادۃ۔ تصدیق نامہ۔ سارٹیفکیٹ۔  
 سند فراغت۔ ڈپلوما۔ جہ۔ شہادات  
 الشاہدۃ۔ رحیمہ مراسلات جس میں  
 خطوط کی نقول محفوظ رکھی جاتی ہیں۔  
 شہرہ البتدقیۃ۔ شہرہ۔ بندوق تاننا۔  
 ایشہار۔ اعلان۔  
 شہی مرغوب۔ مقبول۔  
 شوس۔ اشارۃ۔ نشان خاص۔  
 اشارۃ برقیۃ۔ ٹیلیگرام  
 اشارۃ سکتۃ الحدید ریوے سگنل  
 اشرفی۔ سگنل مین۔  
 المشیر۔ فیلڈ مارشل۔  
 مستشار۔ مشیر۔  
 شوش۔ شاشہ۔ پردہ سمیں۔

تصدیر کتاب کا پیش لفظ - بیرونی ممالک  
 میں مال بھیجنا (اکسپورٹ)  
 صادی - باہر جانے والا مال  
 صادرات - برآمدات  
 مَصْدَر - سرچشمہ - جہ - مصادی  
 مَصَادِرُ عَلَیْہِہ - باخبر حلقے  
 صُدْرَة - صُدْرَتِی - واسکٹ - صدری  
 صَدْرَتِیۃ - عورتوں کا سینہ بند  
 صدق - صادق علی..... مُصَادَقَة  
 منظوری دینا - جائز قرار دینا -  
 صَدِّحٌ بیکذا بیان دینا - وضاحت کرنا  
 تصریح - بیان - اجازت نامہ - اعلان  
 التبرار نامہ  
 صرغ - صاروخ - راکٹ - جہ -  
 صوارِیح -  
 صاروخۃ - تار پیڈ -  
 صرع - صیراعۃ - کشتی -  
 مَصْرَع - اکھاڑا  
 مُصَارِع - پہلوان  
 مُصَارَعَة - پہلوانی کشتی  
 صَرَف - صرفاً - خرچ کرنا - نوٹ بھنانا  
 رقم کا تبادلہ کرنا  
 تصرف - کارروائی - تدبیر - روش -  
 تصرفات - طور طریق - افعال - سرکات  
 صراف - کیسٹیر - تحویلدار - رقم یا  
 سکہ تبدیل کرنے والا -  
 مَصْرُف - بینک - جہ - مصارف  
 مَصْرُفُ الْمَادِ پانی کی نالی -  
 مصروف - خرچ - جہ - مصاريف -

مصادریت الدعوی - ڈگری - خرچ  
 متصدیت - با اختیار  
 صفحہ - مَصْفَحَات - زرہ پوش - گاڑیاں  
 بکتر بند گاڑیاں -  
 صَفِیْحَة - معدنی چادر - پلیٹ - جہ -  
 صفا ح -  
 صَقَر - تصفیراً - سیٹی بجانا -  
 صَفَارَة - سیٹی  
 صَفَاتُ الْحُرُوفِ - صفا - کمپوز کرنا -  
 نوے کے حروف کو ترتیب دینا -  
 صَفْت - لائن تعلیمی درجہ - کلاس - جہ -  
 مَصْفُوف  
 صَفَاف - کمپوزیٹر -  
 مَقَل - مَقَلًا - پالش کرنا  
 مَقِیل - پالش کیا ہوا - چکنا - چمکدار  
 صلح - صلاحیت - لیاقت - اختیار  
 صَالِح - مفاد - منفعت  
 مَصْلَحَة - محکمہ - فائدہ -  
 مَصْلَحَة شُورِیَا (دا)  
 مَصْم - مَصْمِیم - خاکہ - ڈیزائن - جہ -  
 مَصَامِیم  
 مَصْنُوبِی - ٹینٹو - صنابیر  
 مَصْنَعُ الْبِلَادِ تصنیعاً - ملک کو صنعتی بنانا  
 مَصْنَعِی - صنعتی - مصنوعی -  
 مَصْنَع کارگر - جہ - مَصْنَع  
 مَصْنَع کارخانہ - مل - فیکٹری  
 جہ - مَصْنَع -  
 مَصْنَعِیۃ اہرت - مزدوری  
 مَصْرَ - مَصْرًا - معدنیات کو پگھلانا -



ضبطۃ الباب - بعضی تالہ چٹنی۔  
 ضبط - ملان - تصحیح۔  
 ضبطیتہ - پولیس اسٹیشن۔  
 ضابطہ - افسر - ج۔: ضبط۔  
 ضابطہ - پولیس۔  
 مضبوط - معاہدہ - کارروائی۔  
 ضحہ - وضاحت - پمپ - اینڈ پمپ۔  
 چمکاری - ج۔: وضاحت  
 ضربنازہ - دارالضرب جہاں سکے ڈھالے  
 جاتے ہیں۔  
 ضربیتہ - ٹیکس - ج۔: ضرائب  
 اضطراب - ہنگامہ - گڑبڑ۔  
 مضرب - بلا - بیٹ۔  
 منخط - دھاؤ - زور۔  
 ضم - الی - ضمناً - شامل کرنا۔  
 ضیف - مضمیف - مہمان خانہ۔  
 اضافۃ - زیادتی - شمولیت۔  
 اضافی - زائد - ادورٹائم۔  
 ضیق - مضیق - تنگ نائے - دو  
 سمندروں کا درمیانی راستہ۔

## ط

طیب - معالج - ڈاکٹر - حکیم۔  
 طیب جزاح - سرجن۔  
 طبعة - اڈیشن  
 طابع - نشان - چھاپ - مہر - ج۔:  
 طوابع - رڈاک ٹکٹ۔  
 مطبوعہ - پریس - چھاپہ خانہ۔  
 مطبوعات - چھاپہ مواد۔

صہریج - پانی کا تالاب - ٹسکی - حوض۔  
 ریوے انجن کے پیچھے لگا ہوا ڈبہ۔  
 صوب الیہ - نشانہ لگانا - رخ کرنا۔  
 صوت تصویریتا - ووٹ دینا۔  
 صوت - ووٹ - ج۔: اصوات۔  
 مصوت - ووٹر - الیکشن میں رائے  
 دینے والا۔  
 سودا - سوڈا۔  
 صودا کاویہ - سوڈا اسٹک۔  
 صوره - نقل - کاپی - نسخہ - فوٹو۔  
 تصویر - فوٹو - تصویر۔  
 مصوڈہ - کبیرہ۔  
 صیغۃ القانون - قانونی اسلوب - طرز۔  
 صومعہ - کیبن - چھوٹا کبیرہ۔  
 صوان - الماری - بکس۔  
 صید - مصیدہ - پھندا - جال۔  
 پھوسے دان۔  
 صیدلہ - دواسازی۔  
 صیدلیتہ - فارمیسی - انگریزی دوا خانہ۔  
 صیدلی - صیدلانی - انگریزی دوائیں  
 فروخت کرنے والا۔  
 صیر - مصیر - انجام - قسمت۔  
 صیف تصیفا - گرمی کا موسم گزارنا۔  
 مصیف - ٹھنڈا مقام - موسم گرما  
 گزارنے کی جگہ۔  
 صینیتہ - ٹرے - صینی۔

## ض

ضبطۃ الباب - دروازہ کو بعضی تالہ لگانا۔

- طَباق - تباکو۔  
 طَابِق - مکان کی ایک منزل۔ ج:-  
 طَوَابِق -  
 طَبَلَةُ الْفُنُجَرَانِ - ساونڈ بکس  
 طَبُونَة - طابونَة - تنور۔ بیکری۔  
 بسکٹ وغیرہ کا کارخانہ۔  
 طَبَانِ الْعَجَلَة - ٹائر۔  
 طَبَنُجَة - پستول۔  
 طَابَجِن - فراٹنگ پن۔ کڑھیا۔  
 طَحِن - طاحونَة - آٹا پینے کا انجن۔  
 مَطْحَنَة - آٹے کا مل۔  
 طَرَأ - طارئ - ہنگامی۔ غیر متوقع۔  
 طَوَارِئ - ہنگامی حالات۔ ایمرجنسی۔  
 طَرِب - مُطَرِبٌ - نغمہ ساز۔ گانے والا۔  
 طَرِبِيد - تار پیڈو۔  
 طَوَح - مطارَحَة - بیت بازی کرنا۔  
 اَطْوَحَة - تھینر۔ تحقیقی موزونع جو ڈگری  
 کے حصول کے لیے مقرر کیا جائے۔  
 طَرْدٌ - پارسل۔ پکیٹ۔ ج:- طَرْد -  
 طَرَاد - کروزر۔ جنگی جہاز۔ پل۔  
 طَرِيد - آوارہ۔  
 طَرِيذ - تطرِيذ - ایمرٹری۔ کشیدہ کاری۔  
 طَوَاسِن - ماڈل۔ ساخت۔ فیشن۔  
 طَرَف - تطَرَف - انتہا پسندی۔  
 طَرْم - طارْمَة - کلرٹی کا کمرہ۔ کیمین۔  
 طَرْمِيَة - پمپ۔ سرخ۔ پچکاری۔  
 طَسْت - سلٹی۔ لافٹ دھونے کا برتن۔  
 طَعْم - مطعم۔ ریستورانٹ۔ کھانے  
 کی دکان۔ ج:- مطاعِم۔
- طَفَأ - مَطْفَاة - طَفَايَة - فائر انجن۔  
 آگ بجھانے کا آلہ۔  
 طَقْس - موسم۔ تھوار۔ میلہ۔ ج:- طقوس  
 طَقْم - کسی چیز کا سیٹ۔ مجموعہ۔ جوڑا۔  
 طَائِحِيَة - کاغذ کی ایک شیٹ۔  
 طلس - آطلس - اٹلس۔ ریشمی کپڑا۔  
 طلق - اطلاق - رہا کرنا۔ گولی چیلانا۔  
 طَلَقَة - شوٹ۔ فائر۔ فائرنگ کی آواز۔  
 طلم - مَطْلَمَة - بیلن۔  
 طَلْمِيَة - واٹر پمپ۔ نل۔  
 طَلِي - طليًا - روغن کرنا۔ پالش کرنا۔  
 طلاء - روغن۔ پالش۔ رنگ۔  
 ج:- اَطْلِيَة -  
 طهى - طاهى - باورچی۔ ج:- طهارة -  
 طوب - اینٹ۔ دا:- طوبَة -  
 طَوَاب - اینٹ بنانے والا۔  
 طوبجی - توپچی۔  
 طوبجیة - توپ خانہ۔  
 طوس - تطوَس - تبدیل۔ انقلاب۔  
 ج:- تطورات۔  
 تطورى - تغیر پذیر۔  
 طوربيد - تار پیڈو۔ تباہ کن بحری جہاز۔  
 طوع - تطويعًا - رضا کار بنانا۔  
 تطوع - رضا کار بننا۔ والینٹیری۔  
 متطوع - رضا کار۔ والینٹیر۔  
 طوف - طاف البلاد - دوزخ کرنا۔  
 طَوَاف - سیاح۔ ایکسٹ۔ دلال۔  
 طاكفة - گروہ۔ فرقہ۔  
 طائفي - فرقہ وارانہ۔

طَوِّذَتْ تَطْوِيفًا - گھیرا ڈالنا۔ احاطہ کرنا۔

طَاقَة - مجموعہ۔ گچھا کھڑکی۔ روشنندان۔

طَاقِيَة - ٹوپی۔ جہ: طَاقِيَات -

طوق القميص - کالر۔

طول - طَوَال - مین۔ ڈائریکٹ۔

(خَطَطَ طَوَال) مین لائن۔

طوى - طَوَايِة - فرانی پن۔

طيب - طَابَة - رگیند کا پلا۔

طيران - ہوابازی۔ پرواز۔

طَيَّاس - ہواباز۔

طَيَّارَة - ہوائی جہاز۔ پتنگ۔

طَائِرَة - ہوائی جہاز۔

مطاسم - ہوائی اڈہ۔ ایئر پورٹ۔

## ظ

ظروف - حالت۔ لفافہ کارٹوس۔ جہ:۔

ظروف۔

ظُلْمَة - سائبان۔ جہ: ظُلل۔

مِظَلَّة - چھتری۔ جہ: مِظَلَّات

مِظَلِّي - چھاتہ بردار فوج کا سپاہی۔

## ع

عَبَا تَعْبِئَة - بھرتی کرنا۔ پیک کرنا۔

عَبَاءٌ - بوجھ۔ ذمہ داری۔ جہ: اعباء

تَعْبِئَة - پیکنگ۔ بھرتی۔

عبد - عِبْدِيَّة و اسْتِعْبَاد - غلامی۔

مُسْتَعْبَد - غلام محکم۔

عَبْدَ الطَّرِيقِ تَعْبِيدًا - راستہ ہموار کرنا۔

عبر - عِبْرِي - عبرت آموز۔

عبارۃ - تعبیر۔ تفصیل۔ طرز ادا۔

عابر - سرسری۔

عَبَق - عُبْقِيَّة - بالکمال۔ جہ:۔ عبارتۃ۔

عَبْقَرِيَّة - کمال۔ فطری قابلیت۔

عجل - عاجل۔ فوری۔ ہنگامی۔

مستعجل - ہنگامی۔ ارجنٹ۔

مستعجلة - تیز رفتار گاڑی۔

عجم - مَعْجَم - ڈکشنری۔ جہ:۔ معاجم

عجن - معجون الانسان - گوٹھ پیسٹ۔

عدد - عَدَاد - میٹر۔ جہ:۔ عَدَادَات -

عُدَّة - سامان۔ تیاری۔ جہ:۔ عُدَد -

عَدَسَة - چشمہ وغیرہ کا شیشہ۔

عدل - تعدیل۔ ترمیم۔ جہ:۔ تعدیلات۔

مُعَدَّل - اوسط رفتار۔

عَدَن تَعْدِينًا - کان کھودنا۔ کان سے

معدنیات نکالنا۔

مُعَدِن - کان کن۔

عُدْوَان - جارحیت۔

عِدَالِي - جارحانہ۔

عَرَبِيَّة - گاڑی۔ جہ:۔ عَرَبِيَّات -

عَرَبِيَّة (۲) ریلوے دین۔

عَرُوش - تخت۔ جہ:۔ عُرُوش -

عُرُوش و عَرُوش - جانوروں کا باڑا۔

عُرُوش و تَعْرِيشَة - ٹی۔ کلاسی یا لوہے کی جالی

جس پر انگوڑی بیل ڈالی جاتی ہے۔

عرض - پیشکش۔ نمائش۔

معرض - نمائش گاہ۔

استیعاض - جائزہ۔ نظر ثانی۔

معرض - برائے فروخت۔

عُرْكَ - معرکة - لڑائی - ہنگامہ - فساد -  
 جہ: - معارک -  
 عُرَى - مُسْتَعَار - عارضی - مصنوعی -  
 عَزْبَة - فارم - کھیت -  
 عَزْز - عزیزا لجانیب - طاقتور - مضبوط  
 با اقتدار آدمی -  
 عزیز المنال - ناممکن الحصول -  
 عَزْف - سارنگی بجانا -  
 عَارِز - سارنگیا گانے بجانے والا -  
 وَعَزْف - باجا - ساز آلہ موسیقی -  
 عَزْم - عَزْمَة - دلیمہ - دعوت دلیمہ -  
 عَسَس - چوکیدار - پرہ دار - و: - عاس -  
 عَسْكَر العیش - فرج کا خیمہ زن ہونا -  
 عسکری - فوجی -  
 مَعْسُكِر - بارک - فوجی کیمپ -  
 عَشِب - عَشَاب - جڑی بوٹیوں کا ماہر -  
 تاجر نباتات - گھاس فروش -  
 عَصْبَة - گروہ - جماعت - لیگ -  
 عَصْبَة الامم - انجمن اقوام متحدہ -  
 (حرب) العصابات - گوریلا جنگ -  
 عَصْد - عَصِيدَة - دلیا - حریرہ -  
 عَصْف - عَاصِفَة - آندھی - طوفان -  
 عَصَم - عَصَام - ڈوری - رسی - تسمہ -  
 پیٹی - جہ: - اعصمہ -  
 عَاصِمَة - پایہ تخت - راجدھانی -  
 جہ: - عواصم -  
 عَصِي - عصیان مند فی - سول نافرمانی -  
 عَصْو - کسی جماعت وغیرہ کا ممبر - رکن -  
 جہ: - اعضاء -

عُضْوِيَّة - مبری - رکنیت -  
 عَطْفَة - منعطف - گلی - موڑ - جہ: -  
 منعطفات -  
 مِعْطَف - کوٹ - جہ: - معاطف -  
 عاطفہ - جذبہ - جہ: - عواطف -  
 عاطفیتہ - جذباتیت -  
 عواطفی - جذباتی -  
 عطل - بیکاری -  
 عَطْلَة - تعطیل - چھٹی - جہ: - عَطْل -  
 عَطْل تعطیلا - بے کار کرنا - معطل کرنا -  
 کام بند کرنا - تعطیل کرنا - ملتوی کرنا -  
 تعطیل - التواء - رکاوٹ - تعویق -  
 عَطْو - عطاء - ٹنڈر - جہ: - عطاءات -  
 عظمتہ - شان و شوکت -  
 صاحب العظمتہ - بڑھتی سلطان  
 کا لقب -  
 عَضْرِيَّة - گاڑی کو اوپر اٹھانے کا آلہ -  
 عَفْش - سامان سفر - فرنیچر -  
 عَفْوًا - معاف کیجیے - خود بخود -  
 عَقَب تعقیباً - تہرہ کرنا - نکتہ چینی کرنا -  
 عقوبتہ مالیہ - جبرمانہ -  
 عَقْد - عَقْدًا - معاملہ کرنا - معاہدہ کرنا -  
 جلسہ بلانا کتاب میں فصل قائم کرنا -  
 دیوار میں ڈاٹ لگانا -  
 عَقِيد - ایک فوجی عمدہ دار -  
 عَقْرَب الساعۃ - گھڑی کی سوئی -  
 جہ: - عَقَارِب -  
 عقل - اعتقال - نظر بندی -  
 مُعْتَقَل - نظر بندی کا مقام - جیل -

عمل - عُمَلَة - سَكَّة - ج: عُمَل - عمالَة - مزدوری - کمیشن (تجارتی) - عَمُولَة - کمیشن - آڑھت - عمیل - ایجنٹ - دلال - ج: عُمَلَاء - عامل - سبب - محرک - باعث - ج: عواہل (۲) کاریگر - مزدور - معمل - فیکٹری - کارخانہ - پل - معمول - تیار کردہ - اثر - عملیت - خاص فعل - کارروائی - آپریشن - ج: عملیات - عملی - تعصیب - پوشیدہ رکھنا - گراہ کرنا - طوع - طاعت - تقلید - عنص - اصل جنس - مادہ - جوہر - عناصر - اجزاء ترکیبہ - عنف - تشدد - اللأعنفیہ - عدم تشدد - عنق - اعتنق - ... مذہب یا عقیدہ اختیار کرنا - عَنَنَ الْکِتَابَ - عنوان قائم کرنا - عَنَوْنَة - پتہ لکھنا - عنوان لگانا - عنوان - پتہ - ج: عتاوین - مَعْنَوِيٌّ - روحانی ضد - عهد - تعہد - نگرانی - دیکھ بھال - العهد الجدید - انجیل - العهد القدیم - توراہ - معہد - ادارہ - ج: معاہدہ - مُتَعَهِدٌ - ذمہ دار - ٹھیکہ دار - عید - جشن - توار - تقریب	عُلبَة - ڈبا - ڈببہ - ج: عُلَب - عُلج - عَالَجٌ ... مجالجہ - کسی کام کو انجام دینے کی کوشش کرنا - کسی موضوع پر قلم اٹھانا - بحث کرنا - زیر بحث لانا - مجالجہ - تدبیر - علاج - علق - تعلیق - تبصرہ - تخبیہ - علم - استعلام - انکوائری - تحقیق - مکتب الاستعلامات - دفتر تحقیقات - انکوائری آفس - تعلیمات - ہدایات - علو - علاوۃ - زیادتی - اضافہ - علاوات الغلاء - گرانی الاؤنس - عنوان - عنوان - پتہ - عُمَدَة - کھیا - چوہدری - عَمُود - اخبار کا کالم - ج: اعمدۃ - عمید - سربراہ - پرنسپل - ریگنٹر کالج - یاونیورسٹی کا سربراہ - ج: عملاء - اعتماد - ساکھ - منظوری - قرض - اعتماد مالی - فنڈ - (خطاب) اعتماد - ہنڈی - مالی رقعہ - (اداری) اعتماد - شناختی کاغذات - تعارفی (سرکاری) کاغذات - عس - استعمار - سامراج - آباد کاری - نوآبادی بنانا - مُسْتَعْمَرَة - کالونی - نوآبادی - وہ حصہ زمین جس پر غیر ملکی جماعت قابض ہو - ج: مستعمرات - عُمران - تعمیر آبادی - تزیین و تمدن - عمارتہ - بلڈنگ - سمندری بیڑہ
---	--

عیل۔ عائلی۔ خاندانی۔ گھریلو۔  
عیالہ۔ کفالت۔ پرورش۔  
عین۔ عینی۔ چشم دید۔ عینی۔  
عوینات۔ چشمہ۔ عینک۔  
تعیین۔ نامزدگی۔ تقرر۔

## ع

عروس۔ زیچ۔ پودا۔  
عریستہ۔ زسری پودا۔  
عروفہ۔ سببڈل (ایک قسم کا جوتا)۔  
عروفہ۔ بالاخانہ۔ کرہ۔ دیوان۔ چیمبر۔  
عروفہ تجارتیہ۔ ایوان تجارت۔  
عروفہ غوامتہ۔ جرمانہ ادا کرنا۔  
غوامتہ۔ جرمانہ۔ تاوان۔  
غواجی۔ جرمانہ کا۔ عشقیہ۔  
غزو۔ غزائے غزئی تغزیہ۔ سریش سے جوڑنا۔  
غزواء۔ سریش۔ ایسا مادہ جس سے  
کوئی چیز جوڑی جائے۔  
غزل۔ کٹائی۔ سوت۔  
مغزل۔ سوت کاتنے کی مشین۔  
غزو۔ غزودۃ۔ پرورش۔ حملہ۔  
مغزئی۔ خلاصہ۔ میدان جنگ۔  
غطو۔ غطاء۔ ڈھکن۔ غلاف۔ سرپوش۔  
جز۔ اغیبتہ۔  
غفر۔ غفیر۔ (۱) پرہ دار۔  
غفارة۔ علماء۔ بود کالیاس۔  
غلت۔ غلف الکتاب وغیرہ۔ کور چڑھانا۔  
غلاف۔ کور۔ ٹائٹیل۔ سرورق۔  
جز۔ اغلیفۃ۔

عیدِ فطمی۔ سدر جوہلی۔  
تعید۔ جشن منانا۔ عید کی  
مبارک باد دینا۔  
عود۔ عادۃ۔ معمول۔  
(فوق) العادۃ۔ غیر معمول۔  
عادتی۔ معمولی۔ عام۔ رائج۔  
متداول۔ قدرتی۔  
عادیات۔ آثار قدیمہ۔  
عائدۃ۔ فائدہ۔ جز۔ عوائد۔  
عوائد۔ ٹیکس۔ مال گزاری۔  
عیادۃ طبیہ۔ مطب۔  
عود الثقاب۔ پھول بھڑی۔  
عوس۔ مستعار۔ مصنوعی۔ جھوٹا۔  
عوق۔ عواقب۔ ریلوے بریک دین۔  
عول۔ عائلتہ۔ کنبہ۔ فیملی۔ گھرانہ۔  
جز۔ عائلات۔  
عوم۔ عوامتہ۔ مچھلی کے کانٹے کے ساتھ  
ڈوڈ میں بندھی ہوئی لکڑی۔  
عون۔ اعانتہ۔ راستہ۔ تعلیمی وظیفہ  
اسکالر شپ۔  
عیور۔ عابدة۔ جانچنا۔ ناپ تول کرنا۔  
سُسط کرنا۔  
عیار۔ مقدار۔ ناپ۔ جز۔ عیارات  
عیار ناری۔ شوٹ۔  
عیار (۲)۔ وزن۔ باٹ۔  
عیار۔ کرین۔ آلہ برقی۔  
عیاش۔ چپاتی۔  
عیاش۔ چپاتی فروش۔  
معاش۔ القفاغند۔ پنشن۔

فتر - فاتر - کم بہت - نیم گرم -  
 فاتورہ - بل - حساب - نمونہ -  
 منتفخ - غیر مسل -  
 فتش تفتیشاً - تحقیق کرنا - تلاشی لینا - جاچ  
 پڑتال کرنا -  
 فتاش - جاچ کنندہ -  
 مفتش - انسپکٹر -  
 مفتش عام - انسپکٹر جنرل -  
 مفتش اول - چیف انسپکٹر -  
 مفتش ثانی - سب انسپکٹر -  
 فتن - فتنان - فاتن - فتنہ انگیز - سحر  
 انگیز -  
 فتویٰ - استفتاء - استصواب - قانونی  
 رائے طلبی - ریفرنڈم -  
 فجر - آغاز - شروع -  
 فحس - معائنہ - جاچ - ٹسٹ - جہ -  
 فحوص -  
 فاحص - آڈیٹر حسابات - ایگزامینر  
 جاچ کنندہ -  
 فحل - استفحل الامر - سنگین  
 ہوجانا -  
 فحمہ موصی - کاربن -  
 فخر - اعزاز - سر بلندی -  
 فخری - اعزازی -  
 فخری - ہاٹی - مٹی کے برتن بنائیوالا -  
 فاجو - شاندار - بھڑک دار -  
 فاخودہ - مٹی کے برتن بنانے کا کارخانہ  
 مفخرۃ - قابل فخر کارنامہ -  
 فخر - فخامة - شان و شوکت - عظمت -

غلل - استغلال - نفع اندوزی -  
 غلی - غلایۃ - ساور - پانی گرم کرنے کا  
 برتن -  
 مغلی الاعشاب - جوشاندہ -  
 غلیسرین - گلیسرین  
 غلیبون التدخین - تمباکو - پاپ  
 حقہ -  
 غمر - مفاصرة - جانبازی -  
 مغاور - جانباز -  
 غوسا - مغواسا - جہ - مغاویہ -  
 جنگ جو - دلیر -  
 غاز - گیس - جہ - غادات -  
 (۲) پڑول - مٹی کا تیل -  
 غوص - غواصۃ - غوطہ مار کشتی -  
 مفاص - غوطہ گاہ -  
 غیبہ - بے ہوش کرنا -  
 (عقدار) مَعْيَب - بے ہوش کرنے  
 والی دوا -  
 غیر - غیار - تبادلہ -  
 (قطم الغیار) فالتو پرزے -  
 غیطانی - کھیت والا - باغ والا -

## ف

فأل - متفائل - پر امید -  
 فبریقۃ - کارخانہ -  
 فتح - فتاحۃ عکب - ڈبے کھولنے  
 کی چابی -  
 مفتاح - ریوے کا ٹیبلٹ لے کا آلہ -  
 مفتاحجی - ریوے کا ٹیبلٹ لے والا -

تغزغ۔ خالی ہونا۔ سبکدوش ہونا۔  
 قَراغ۔ خالی جگہ۔ بیکاری۔  
 قواغات۔ خالی جگہیں۔  
 فرق۔ (امیاز۔ بیلنس حساب میں)  
 فرقہ۔ گروہ۔ گروپ۔ پارٹی۔ فوج  
 کا ایک ڈویژن۔  
 فریق۔ جماعت۔ پارٹی۔ ٹیم۔  
 لفٹیننٹ (فوجی عہدہ)  
 بالتفریق۔ بالتفصیل۔ ریٹیل میں۔  
 غورہ۔ بالجملہ۔ کی ضد۔  
 مفوق۔ لفظ انفصال۔ مرکز  
 اختلاف۔  
 مفریق الطون۔ چوراہا۔  
 فرقۃ۔ دھماکہ۔  
 مضمرقات۔ دھماکہ خیز اشیاء۔  
 پٹاٹھے وغیرہ۔  
 فوک۔ ذراک۔ ٹراک۔ ایک قسم کا لباس۔  
 فورم۔ فرما۔ قیمہ کرنا۔  
 قوامتہ۔ قیمہ کرنے کی مشین۔  
 فرمۃ المطبعتہ۔ پریس کا فرمہ۔  
 فرمان۔ حکم والی۔ فرمان۔  
 قوملتہ۔ بریک  
 قوملتیجی بریک لگانے والا۔  
 فون۔ تنور۔ نان بان۔ دکان بیسکری  
 بسکٹ وغیرہ کا کارخانہ۔ بھٹی۔ جہ۔  
 افران۔  
 فوان۔ بسکٹ وغیرہ کا کاریگر۔  
 فونجۃ۔ انگریز ہمسا بنانا۔ فرنگی بنانا۔  
 افونجی۔ یورپین۔ انگریز۔

تعظیمی لقب جو مضاف ہو کر استعمال  
 ہوتا ہے (فخامۃ الرئیس اور  
 صاحب الفخامۃ) عزت مآب۔  
 خدی۔ فدائی۔ جنگی رضا کار۔  
 فرج۔ تفرج علی۔ سیر کرنا۔ تماشہ  
 دیکھنا۔  
 تفریجۃ۔ مہر و کہ۔ روشندان۔  
 جہ۔ تفریج۔  
 فرج و رقی۔ کاغذات کا ایک شیٹ۔  
 فرید۔ پستول۔ ریو الور۔  
 فرس۔ فونڈ۔ خطوط اور کاغذات کی  
 چھٹائی کرنا۔  
 فرزۃ۔ شطرنج کی رانی۔  
 فزانا الحلیب۔ کریم نکالنے کی مشین۔  
 افریز۔ کارنس۔ جہ۔ افاریز۔  
 فزیش تفریشا۔ کپڑوں پر برش پھیرنا۔  
 فرشتہ۔ گدا۔  
 فرشتہ۔ برش۔  
 فراش۔ چپراسی۔ خادم۔  
 مفردشات۔ گھریلو سامان فرنیچر۔  
 فریشینتہ۔ بالوں کا کلب۔  
 فرس۔ فرسۃ۔ موقع چانس۔ جہ۔  
 فرس۔  
 فرس۔ فرسٹا۔ سرٹھنا۔ مقرر کرنا۔  
 فرط۔ (۱) مال۔ فائدہ۔ نفع۔  
 مفراط۔ انتہا پسند۔ فضول خرچ۔  
 فرع۔ شاخ۔ براچ۔ سیکشن۔  
 فرغ۔ تفریغاً۔ جہاز وغیرہ سے سامان  
 اتارنا۔ سانچے میں ڈالنا۔



ج۔ ۱۔ ذطائِد۔  
 قَطَائِيوِي۔ کیک پسٹری بنانے والا۔  
 فعل۔ اِفتَعَال۔ جعل سازی۔  
 النفعال۔ اشتعال۔ تاثر۔  
 مفعول۔ اثر۔ معمول۔  
 مَفْتَحَل۔ جعلی۔ من گھڑت۔  
 فاعلیّۃ۔ تاثر۔  
 فَعَال۔ مؤثر۔  
 فاعل۔ مزدور۔ ج۔ ۲۔ فَعَلَة۔  
 فقد۔ تَفَقَد۔ جائزہ لینا۔ عیادت کرنا۔  
 القفید۔ متوفی۔ مرحوم۔  
 فقیرۃ۔ پیراگراف۔ جلد۔ ج۔ ۳۔ فقرات  
 فِکْرَة۔ خیال۔ نظریہ۔  
 الفکریات۔ آئیڈیالوجی۔  
 مَفْکِرَة۔ یادداشت۔ میمورنڈم۔  
 مَفْکِرَة جیب۔ نوٹ بک۔  
 مَفْکِرَة بومیتہ۔ روزنامہ۔  
 فَنَک ۲ فَنَک۔ پرزے الگ کرنا۔ بیچ وغیرہ  
 کھولنا۔ مہر توڑنا۔ جوڑ یا ہڈی غلیچہ  
 کرنا۔ ڈھیلا کرنا۔  
 انفکاک۔ ڈھیلا ہونا۔ کھلنا۔ جوڑ  
 ہلنا۔ جوڑ کھلنا۔  
 فَنَکَة نُقود۔ ریڑگاری۔ چینیج۔  
 مِفْک۔ بیچ کس۔ چابی۔  
 فَنَکَة۔ دلچسپ۔  
 مُکَاھِتے۔ مزاحیہ۔  
 فَاکھَاتے۔ میوہ فروش۔  
 فَلَاح۔ فِلاَحَة۔ کاشتکاری۔ باغ  
 کاری۔

فرنسا۔ فرانس  
 فرَنسِی۔ فرانسوئی۔ فرانسیسی۔  
 فُسْحَة۔ تعطیل۔ تفریح۔ ج۔ ۱۔ فُسْح۔  
 درمیان وقفہ۔ گنجائش۔  
 فُسْحَة۔ گھر کا صحن۔  
 فسْقِیۃ المَاء۔ پانی کا فوارہ۔  
 فُتْسَرْم۔ فاشیۃ۔ فاش ازم۔ ایک  
 اٹالین سیاسی نظریہ۔  
 فَاہِشِی۔ فاش ازم کا معتقد۔  
 فَنَشْکَة۔ کارٹوس۔ ج۔ ۲۔ فَنَشْکَات  
 فصہ۔ مَفْصَد۔ نشتر۔  
 فَصَل۔ فصلاً۔ شمارچ کرنا۔ نام کا ٹنا۔  
 فَصَل تفصیلاً۔ کپڑا کا ٹنا۔ حصے  
 بخرے کرنا۔ تقسیم کرنا۔  
 تفصیلة۔ کٹنگ  
 فَصَل۔ تفریق۔ تقسیم۔ ڈرامہ کا منظر۔  
 اسکول ٹرم۔ جماعت۔ فیصلہ۔  
 فَصِیلة۔ کتبہ قسم۔  
 فصلۃ۔ کاما۔ واومکوس (۶)  
 انِیْصَالِیۃ۔ علیحدگی پسندی  
 انِیْصَالِیون۔ علیحدگی پسند افراد۔  
 مِفْصَلَة۔ قبضہ جس پر کوڑا گھومتا ہے۔  
 فَصَل۔ تفصیلاً۔ پسند کرنا۔ تزییح دینا۔  
 مُفْصَل۔ محبوب۔ پسندیدہ۔ مقبول۔  
 فَصِیلة۔ علاء و مشائخ کے ناموں کے  
 ساتھ بطور اعزاز استعمال ہوتا ہے۔  
 فَصِیلة الشایخ، صاحب الفضیلة  
 فطر۔ فُطُوس۔ ناشتہ۔  
 فَطِیر۔ خمیری روٹی۔ کیک۔ پسٹری۔

فِلجی۔ دیہاتی۔ کاشتکارانہ۔

فلذ۔ فولاذ۔ فولاد۔

فُلْجی۔ چٹیل۔

فلح۔ فلم ریل۔ جہ۔ اخلام۔

فلنکۃ۔ ریلوے پٹری کا سلپ۔

فحم السیجارة۔ سگریٹ ہولڈر۔

فنس۔ فانوس۔ قندیل۔ لالٹین۔

فُنغراف۔ گراموفون۔

فَنیلۃ۔ فلانیل۔ ایک قسم کا کپڑا۔

فَنج۔ آرٹ کرتب۔ جہ۔ فنون

الفنون الجمیلة۔ فنون لطیفہ۔

فَتان۔ آرٹسٹ۔ فنکار۔ ماہر۔

فَنیک۔ (مع) فیل۔ ایک کیڑا مار دوا

فوض۔ فوضہ تفویضاً۔ اختیار دینا۔

فاوضہ۔ بات چیت کرنا۔

فوضی۔ غیر منظم۔ منتشر۔

فوضویۃ۔ لاقانونیت۔ انارکزم۔

فوضوی۔ لاقانونیت پسند۔

انارکسٹ۔

تفویض۔ اختیار۔ وارنٹ۔

پاور۔

مُفادضات۔ رسمی بات چیت۔

مُفَوِّض۔ با اختیار۔

مُفَوِّضِیۃ۔ بیگن سفارتخانہ

سے کم درجہ۔

فوطۃ۔ تولیہ۔

فیتون۔ فن۔ گھوڑا بگھی۔

فید۔ فائدہ مال۔ سود۔

فیشۃ الکهرباء الیکٹرک پلک۔

فیشۃ۔ ٹوکن۔

فَیضان۔ طغیانی۔ سیلاب۔ طوفان۔ جہ۔

فَیضانات۔

فاضّ التہم۔ طغیانی آنا۔

فَايُض۔ جاری۔ قائلتو۔

فَايُظ۔ سود۔ نفع۔

فَايُظجی۔ سود خور۔

## ق

قَبْرِیۃ۔ قبر کا کتبہ۔

قَبِض علیہ۔ گرفتار کرنا۔

قَبْض۔ گرفت۔ کپڑ۔ وصول یاہی۔

قَبْضۃ۔ سینڈل۔ قبضہ۔

قابض۔ وصول کنندہ۔

مقبوض۔ وصول شدہ۔

قَبطان۔ کپتان۔

قَبج۔ بگل۔

قَبِیۃ۔ ہیٹ۔ انگریزی ٹوپی۔

قَبْقَاب۔ کھڑاواں۔ بڑیک لگانے کا

ہینڈل۔

قَبِل... قبولاً۔ منظور کرنا۔

قَابِلہ۔ ملاقات کرنا۔

قَبِلی۔ جنوبی۔ جانب جنوب۔

قَبَالۃ۔ ذمہ داری۔ معاہدہ۔

قَبَالۃ۔ دایہ گری۔

قَبُول۔ منظوری۔ تسلیم و رضا۔

قَابِل۔ منظور کنندہ۔ آئینہ۔

قَابِلۃ۔ دایہ۔ مددالف۔

اِقْبَال۔ توجہ۔ رجوع۔ مانگ۔

تدح۔ قذاحة۔ گریٹ لائبرٹری۔

قدس۔ تقدیر۔ اندازہ۔ تخمینہ۔  
قدروانی۔

مقدیة۔ سکت۔ ہمت۔ طاقت۔

قدّم۔ تقدیم۔ پیش کرنا۔ ترقی دینا۔  
تعارف کرانا۔

مُقَدِّم۔ مقرر یا شاعر کا تعارف  
کرائے والا۔

تقدّم۔ ترقی کرنا۔

قدّم۔ فٹ۔ (پہنائش میں)

استقدمہ۔ طلب کرنا۔ حاضر کرنا۔

قدیمیة۔ ڈاکٹر وغیرہ کی فیس۔

تقدیمہ۔ پیش کش۔ نذرانہ۔

تقدیم۔ پیش کش۔ انٹروڈکشن  
تعارف۔

قذف القنابل۔ قذفا۔ بمباری کرنا۔

قذیفة ناربیة۔ پٹاخہ۔ بم۔ گولہ۔

جہ۔ قذائف۔

قذراً۔ پڑھنے کا اسٹینڈ۔

قرب۔ مقرب۔ ٹیلیسکوپ۔

قذح۔ اقتراح۔ تجویز۔ جہ۔ اقتراحات۔  
مقتوح۔ تجویز۔ تجویز کردہ۔

قذس۔ تقریباً۔ طے کرنا۔ فیصلہ کرنا۔ بیان  
کرنا۔ گواہی دینا۔

قذاد۔ پاس شدہ تجویز۔ قرارداد۔  
جہ۔ قرارداد۔

قذارة غشلی۔ براعظم۔ جہ۔ قذارات۔

تقدیر۔ رپورٹ۔ جہ۔ تقاریر۔

مقتر۔ صدر مقام۔ ہیڈ کوارٹر۔

قُوص۔ ٹکیہ۔ ٹیلیٹ۔ ٹیلیفون ڈائل۔

قرط۔ قوطا سیبۃ۔ اسپیشری۔

قروشۃ۔ نختہ بسکٹ۔ مہربھری روٹی۔

قروید۔ لال پختہ اینٹ۔ کھپرل۔ فرش کا  
ٹائل۔ پلستر۔

قروید۔ سرخ رنگ۔

قرون۔ قویذہ۔ بھوی۔ جہ۔ قویذات۔

قرونیۃ الکون۔ کتھی رنگ کا۔

قرویی۔ دیباٹی۔

قزذ۔ قزاذة۔ بوتل۔

قسّم۔ شعبہ۔ جہ۔ أقسام۔

قسیمۃ۔ رسید کا مثنوی۔ جہ۔ قسائم۔

قشط۔ قشطا۔ بالائی اتارنا۔ چھیننا۔

قشطۃ۔ بالائی۔

مقشط۔ حرف چھیننے کا چاقو۔

قصد۔ اقتصاد۔ کفایت شعاری۔ مال کو  
خاص تدبیر سے خرچ کرنا۔

(علم الاقتصاد۔ علم معاشیات۔

وہ علم جس میں دولت کی پیدائش اور

تقسیم سے بحث کی جائے۔

قصدیر۔ اقلی۔ سانگا۔ ٹانکا لگانے کا  
مسالہ۔

قصیة۔ گلا۔ پیشاب رکھنے کا برتن۔

قیصریة۔ بازار۔

مقصوۃ۔ سینمایا ہوٹل کا کیمبن۔

خلوت کا کوہ۔ جہ۔ مقاصیر۔

قصة۔ قصیرۃ۔ افسانہ۔

قصة خیالیة۔ ناول۔

قصة نولیس۔ ناولسٹ۔

قَصَّة۔ کٹنگ۔ کاٹنے کا طریقہ۔

قصی۔ آقصاء عن المنصب۔ عہدہ سے الگ کرنا۔

قضب۔ اقتضاب۔ اقتصار۔

قَضِيب ریلوے پٹری۔ ج۔ قَضِبان مقضب۔ شاخ تراش چینی۔

قَضِض۔ آقَض مضجعہ۔ نیند حرام کرنا۔

قَضِی۔ قَضِیة۔ مقدمہ جج کا مسئلہ۔

قَاضَاةُ الی الحاکم۔ کسی کے خلاف مقدمہ دائر کرنا۔

قَضَاءُ۔ فیصلہ۔ مقدمہ۔ قانون۔ ج۔ آقَضِیة۔

دَاسِرُ الْقَضَاءِ۔ عدالت۔ کچہری۔

قَضَائِی۔ عدالتی۔ مقدماتی۔

قَاضِی۔ جج۔ ججسٹریٹ۔ جسٹس۔

قَاضِی التَّحْقِیْقِ۔ افسر تحقیقات۔

قَطْر۔ قطار۔ ریل گاڑی۔ ج۔ قَطْر۔

قَاطِرَة۔ انجن (ریلوے)۔

قَطْر۔ ٹلک۔ صوبہ۔ ج۔ آقَطَار۔

قَطْرَان۔ تارکول۔

قَطْع۔ اقتطاع۔ تنخواہ کا حصہ وضع کرنا۔

اِسْتَقْطَع اَرْضًا۔ زمین الاٹ کرانا۔

قَطْع۔ سائز۔ کٹنگ۔ ج۔ آقْطَاع۔

قَطْعُ الْجَبِيبِ۔ پاکٹ سائز۔

قَطَاع۔ کڑ۔ کاٹنے کا اوزار۔

قَطَاعِی۔ خوردہ۔ ٹیل۔

بِالْقَطَاعِی۔ ٹیل میں۔ خوردہ میں۔

(تاجر) القَطَاعِی۔ خوردہ فروش۔

اِقْطَاعَة۔ جاگیر۔

اِقْطَاعِی۔ جاگیر دار۔ زمیندار۔

لِقَاطِيعِ الْوَجْهِ۔ چہرہ کے خدو خال۔

مُقَاطَعَة۔ انتظامی علاقہ۔ صوبہ۔

ج۔ مقاطعات۔

قَطْف۔ قَطِيفَة۔ محل۔ محل جیسا کپڑا۔

مَقْتَطَفَات۔ مٹنجات۔ تراشے۔

قَطْل۔ قَطِیلَة۔ تولیہ۔

قَطِی۔ روٹی کا سوتی۔

مَقْطَنَة۔ روٹی کا کھیت۔

قَعْد۔ نقاعد عن۔ ریٹائر ہونا۔

قَاعِدَة۔ ملک کا صدر مقام۔

جنگی اڈہ۔ ج۔ قواعد۔

مَقْعَد۔ سیٹ۔ بیچ۔ صوفہ۔

مُتَقَاعِد۔ پینشنر۔ ریٹائرڈ۔

قَلَم۔ بحمد احمد۔

قَلَل۔ آقَلَّة الی... لے جانا۔ منتقل کرنا۔

اِسْتَقْلَال۔ خود مختاری۔ آزادی۔

مَسْتَقْل۔ خود مختار۔

قَلَم۔ دفتر نمک۔ ڈیپارٹمنٹ۔ شعبہ۔

قَلَمُ الْاِدَارَة۔ ہیڈ آفس۔

قَلَمُ اِرْدَوَاز۔ سلیٹ پنسل۔

قَلَمُ رِصَاص۔ پنسل۔

قَلَمُ جَبَر۔ فونٹین پن۔

قَلَمُ الْاِسْتَعْلَامَات۔ انکوائری آفس۔

اِقْلِیْم۔ صوبہ۔ ملک۔ ضلع۔ علاقہ۔

ج۔ اِقَالِیْم۔

اِقْلِیْمِی۔ صوبائی۔ موسمی۔

مَقْلَمَة۔ قلمدان۔ پنسل تراش۔

قلى - مِقْلَى - مِقْلَاة - فرائنگ پن .  
 قمس - قاموس - ڈكشنى . ج :-  
 قواميس -  
 قمش - قماش - كپڑا . ج :- آقِمِشَة .  
 قنطر البناء - ڈاٹ لگانا .  
 قنطرة - ڈاٹ كاپل - ڈاٹ .  
 قناطر البناء - نصف دائره نما ڈاٹس .  
 قنح - قناع التتكر - مصنوعى چهره .  
 آقنح ب .... مطمن كرنا . قائل كرنا .  
 مقنح - تشفى بخش .  
 افتنح - ب .... قائل ہوجانا .  
 قن - مرغى خانہ قبيص كاكف . ج :-  
 اقدان -  
 قنينة - بوتل شيشى .  
 قنن - قانون الاحوال الشخصيه .  
 پرستل لا -  
 قانون مدنى - سول لا .  
 قنو - قنائة - نسر - بڑى نالى .  
 ج :- قنوات -  
 قهرى - جبرى - غير ارادى - مجبور كن .  
 قهرمان - مير منشى - نگران .  
 قهرمانتہ - مرتبہ -  
 قهوة - كافى .  
 مقهى - كافى ہاؤس . ج :- مقاهى  
 قوت - مقببت - غذا بخش .  
 قيد - قيود - كنترول .  
 فرض القعيد على - كنترول قائم  
 كردينا .  
 قيادَة - كان . رہنمائی . كانڈرى .

القيادة العليا - ہائی كان .  
 قواد - دلال .  
 قائلہ - راہنما ليڈر - كانڈر - گائڈ .  
 ج :- قَادَة -  
 مقوود - موڈر كا اسٹرینگ ج :- مقاوود  
 قوس - قاب - تاركول .  
 قاتة - برا عظم - ج :- قادات  
 قوڑہ تقويگا - تاركول منا .  
 قورمہ - قورمہ گوشت كاسالمن .  
 قوس نصير - محراب فتح - وہ دوازہ جو كسى جشن  
 وغیرہ ميں لگايا جاتا ہے .  
 قوش - قايش - استراتيز كرنے كا چڑھ .  
 قوع - قاعة بال كمره - ج :- قاعات -  
 قول - قاولتة مقاولتہ - معاملہ كرنا .  
 سودا كرنا . ٹھيڪه لینا .  
 مقاول - ٹھيڪه دار -  
 مقاولتہ - كسى كام كا ٹھيڪه .  
 قوم - قائم مقام - ايك فوجى عہدہ .  
 لفٹيننٹ كولونيل -  
 قائمۃ - فرست - لسٹ - نقشہ  
 ج :- قوائمہ -  
 قائمۃ الاسعار - نرخ نامہ .  
 قائمۃ الحساب - گوشوارہ .  
 قيس - نگران - بيش قيمت .  
 تقويم البلدان - جنترى .  
 تقويم السنۃ - كيسنڈر .  
 ج :- تقاويمہ -  
 مقومات - قيمتى اشياء - بنيادى  
 ضروريات - بنيادى اجزاء .

کبر - مکتب الصوت - لاؤڈ اسپیکر -  
 کبریت - گندھک - ماچس -  
 کبس - کبسا - شکنجہ میں کسنا - دبانا - دباؤ  
 ڈالنا - چھاپہ مارنا -  
 کبس - بجلی کا فیوز  
 کتاس - وکٹس - پریس شکنجہ -  
 دبانے کی مشین -  
 کبشہ الثیاب - مہک -  
 کتب - کتابت - مضمون لکھنا - تصنیف  
 کرنا -  
 اکتتب فی - چندہ دینا - اخبار یا  
 رسالہ کا خریدار بننا -  
 کاتبہ - مراسلت کرنا -  
 کتاب - خط - پیغام - نامہ -  
 کتابت - تحریر -  
 کتاب - مدرسہ - مکتب -  
 کتابت - تحریر - لکھائی - مضمون  
 نگاری - انشاء پردازی -  
 کتبی - کتب فروش -  
 کتیب - پمفلٹ - ج - کتیبات -  
 کتیبہ - فوج کا ایک ڈویژن -  
 ج - کتائب -  
 کاتب - محرر - کلرک - ج - کتبتہ -  
 (۲) مضمون نگار - مؤلف - نقل نویس -  
 ج - کتاتب -  
 کاتب العقود - رجسٹرار -  
 کاتب علی الآلة - ٹائپسٹ -  
 وکتاب - ٹائپ رائیٹر -  
 مکتب - لکھنے کی میز - ڈیسک -

مقاومت - مقابلہ -  
 قومیسر - (مع) کسٹریشن  
 قومیسون - تحقیقاتی کمیشن -  
 قومندان - کمانڈر - کمانڈر -  
 قوت - طاقت - فورس -  
 بحریتہ - بحری فوج -  
 بدیتہ - زمینی فوج -  
 جویتہ - ایروفرس - ہوائی فوج -  
 تقویۃ - ہمت افزائی - پشت پناہی -  
 مقوی (دوق) - کارڈ بورڈ -  
 قیراط - ایچ - جی - قرادیط -  
 قیس - قیاس - پیمانہ - ناپ -  
 رقحقیاسی - ریکارڈ - کسی کام کا  
 آخری درجہ -  
 ضرب رقحقیاسی - ریکارڈ قائم کرنا -  
 قیاس - پیمائش کنندہ -  
 مقیاس الحرارة - تھرمامیٹر -  
 قالیس بین الشیثین - موازنہ کرنا -  
 قیل - استقال من الخدمة -  
 مستعفی ہونا - سبکدوش ہونا -

## ک

کانون الاؤل - دسمبر کا مہینہ -  
 کانون الثانی - جنوری کا مہینہ -  
 کبت - کبتوت - اوور کوٹ - رکشایا  
 تانگے کی چھتری -  
 کبج - قابو -  
 کبح العواطف - جذبات پر قابو  
 پانا -

دفتر - جرہ مکاتب۔  
 مکتبہ التلغوان۔ تاریخ۔  
 مکتبہ الاستعلامات۔ دستہ  
 معلومات۔ انکوائری آفس۔  
 مکتبہ لائبریری۔ کتب خانہ۔  
 مکتبہ مراسلہ نگار۔ نامہ نگار۔  
 مکتبہ نامہ نگاری۔  
 کٹشینہ۔ تاش کے پتے۔  
 کٹکوت۔ (۱) مرغی کے بچے۔ جرہ۔ کٹاکیت۔  
 کٹکتہ۔ دھڑا۔ بلاک۔ مختلف ممالک کا  
 متحدہ گروہ۔ جرہ۔ کٹکتل۔  
 کٹکتل۔ دھڑا ہندی۔  
 کٹکتہ امریکیتہ۔ امریکن بلاک  
 = آسیویٹہ۔ ایشیائی بلاک۔  
 = شیوعیتہ۔ کمیونسٹ بلاک۔  
 کتہ۔ کتاب البطن۔ قبض  
 مکتوم البطن۔ پیٹھ کا مریض۔  
 کتن۔ کتان۔ سوت۔ ایک قسم کا ریشہ جس سے  
 مضبوط کپڑا تیار کیا جاتا ہے۔  
 (نسب) الکتان۔ سوتی کپڑا۔  
 کذبۃ ابدیل۔ اپریل فول۔  
 کوبون۔ کوئلہ جیسا سیاہ مادہ۔  
 وردی کوبون۔ کاربن پیپر۔  
 کورتون۔ (دم) کارڈ بورڈ۔  
 کوس۔ کڑاس۔ پمفلٹ۔ کاپی۔  
 کواستہ۔  
 کسر۔ کسارۃ۔ سروطا۔  
 کاسوس۔ پتھر توڑنے کا ہتھیار۔  
 کشتبان۔ انگشتانہ۔

کشف - فہرست - نقشہ - جرہ۔ کشفوت  
 اکتشاف - نئی دریافت - ایجاد۔  
 کشفان - اسکاؤٹ۔ وہ سپاہی جو  
 دشمن کے احوال معلوم کرنے کے لیے  
 بھیجا جائے۔  
 کشفافہ - وہ جماعت جو خدمت خلق  
 کے لیے تیار کی جائے۔  
 کشفافہ - جماعت اسکاؤٹ کا کام۔  
 مخبری - جاسوسی۔  
 کشک - کٹاری کی کوٹھڑی۔ کبین۔  
 کشک التلیفون۔ کال بکس۔  
 کشک الدیدیان۔ سنٹری بکس۔  
 پہرہ دار کے کھڑے ہونے کا کبین۔  
 کشکول - اخبار یا کتاب کے تراشوں کا  
 مرقع۔  
 کظم - کظیمتہ۔ مقرر اس۔  
 کعب - جو تے کی ایرٹی۔ جرہ۔ اکعاب۔  
 (۲) کتاب کا پشتہ۔  
 کھک - کیک  
 کھؤ - اہل۔ لائق۔ جرہ۔ اکفاء۔  
 کفأۃ - اہلیت۔ لیاقت۔  
 کفح - کافحۃ - سامنا کرنا۔ مقابلہ کرنا۔  
 جنگ کرنا۔  
 کیفاح - جدوجہد۔ لڑائی۔ مقابلہ۔  
 کفر - چھوٹی بستی۔  
 کفف - بھیک۔  
 کفل - کفالۃ - ضامن ہونا۔  
 کفالتہ - ذمہ داری۔ ضمانت۔  
 کفالتہ - ضمانت پر۔

کلبتان - زنبور - فن جراحی کی چٹی -  
کلابۃ - دانت نکلنے کا زنبور -

کلیۃ - کالج - جہ - کلیات -

کلسیوم - کیلشیم -

کلیۃ - مضمون - تقریر -

کلیسرین - گلیسرین -

کلمح - کتاخۃ القطاس - بریک -

کمساریۃ - کنڈیکٹر - ریلوے گارڈ -

کمش - کتااشۃ - بڑھی کا زنبور -

کمتۃ - لمپ شیڈ -

کمنجۃ - سارنگی -

کنیدی - کنیڈا کا رہنے والا -

کون - کانون - چولھا - اسٹوو -

کانون الاول - ماہ دسمبر -

کانون الثانی - ماہ جنوری -

کھربۃ - برقانا - کسی جگہ بجلی پہنچانا -

کھریا - بجلی - برق -

مکھراب - برقایا ہوا -

کوبری - پل -

کوٹ - سیپر - جہ - اکواٹا -

کورۃ - موہر - صنوع - چھوٹا قصبہ -

کوسنا - مگ - ڈنڈی دار پیالہ -

کوس - بڑھی کا پیمانہ -

کوفیۃ - سرکوپینے کا رومال -

کوکبۃ - لوگوں کی ٹکڑی - جماعت -

کون وکیان - وجود - ہستی -

کونی - عالمی - کائناتی -

کوی - کیٹا - استری کرنا -

مکواۃ - استری - جہ - مکاوی -

مکوی - استری کیا ہوا -

کیف البناء تکلیف - ایرکنڈیشن بنانا -

مکیف بالہوا - ایرکنڈیشن -

کیلو - کیلوگرام - ایک ہزار گرام -

کینیا - کونین - بخار کی دوا -

## ل

لاسلکی - دائر لیس - بے تار برقی -

لبخۃ - پلٹس -

لبن - لیائۃ - دودھ کی ڈیری - دودھ

اور مکھن کی دکان -

ملبن - اینٹ کا سانچہ -

ملبنۃ - دودھ کی ڈیری - کارخانہ -

لجنۃ - کمیٹی - بورڈ - کمیشن - جہ - لجان

لجنۃ تابعۃ - سب کمیٹی -

لحظ - لاحظۃ - معائنہ کرنا - نگرانی کرنا -

ملاحظ - نگران - سپرنٹنڈنٹ -

ملاحظۃ - نوٹ - رائے - نگرانی -

لحق - التحق بالمدارسۃ - داخل

ہونا - التحق بہ - نفعی ہونا -

ملاحق - اضافی - ضمیمہ - جہ - ملحقات

(۲) سفارتخانہ کا ایک رکن - اٹاچی -

دامتحان - ملحق - سپلیمنٹری امتحان -

لزم - التزام - پابندی - ذمہ داری - ٹھیکہ

جہ - التزامات -

ملزمتہ - شکنجہ -

ملازم اول - لیفٹیننٹ -

ملازم ثان - سینڈ لیفٹیننٹ -

ملتزم - ٹھیکہ دار - اجارہ دار -



مَلَزومِيَّة - ذمہ داری۔

لِصْقُ - متصل - قریب۔

لَصوق - پلاسٹر۔

لَطس - ملطاس - پتھر توڑنے کی ہتھوڑی

لَعَب - مَلَعَب - کھیل کا میدان - تماشا گاہ۔

مَلَعَب الخَيْل - سرکس۔

لَعْوَدن - قانون کا منسوخ ہوجانا۔

إلغَاء - منسوخ کرنا۔

لَفَتٌ - لَفَتًا - توجہ دلانا۔

لَفْتَةٌ - توجہ - ایک نگاہ۔

لَفَع - إِفَاع - مفلر - سرکولپٹنے کا کپڑا۔

لَفَف - لِفَافَةٌ - تیغ - سگریٹ۔

لِفِيفَةٌ - تیغ - سگریٹ - جہ - لِفَافٌ

مَلَفٌ - ریسر - لیٹنے کا کاغذ

مَلَفَةٌ - اوراق - فائل - جہ - مَلَفَات -

لَقَحٌ - تَلْقِيحًا - ٹیکہ لگانا۔

لِقَاحٌ - ٹیکہ - دوا جو بدن میں پھنائی جائے

لِقَطٌ - مَلِقَطٌ - چٹھی۔

لَمْبَةٌ - لمپ۔

لَهَبٌ - التَّهَابُ - سوزش - ورم۔

التَّهَابُ الوَثَّةُ - نمونہ۔

التَّهَابُ الزَّائِدَةُ الدَّوْدِيَّةُ -

اپنڈی سائٹس - ایک مرض جس میں

معامی زائدہ میں ورم ہو جاتی ہے۔

لَهْرٌ - تَفْرِجٌ - کھیل - تماشا۔

مَلْهِيٌّ - تماشا گھر - تھیٹر - سینما۔

جہ - مَلَاهِيٌّ -

لَوْتَاذِيَّةٌ - لاٹری۔

لَوْتِحُ الاَرْضِ - تلوینج - زمین پر تختے بچھانا۔

لوحة - تختی - جہ - لوحات۔

لَايِحَةٌ - پروگرام - پراس پیکیٹس۔

سَرَكَارِي قَانُونٌ - جہ - لَوَائِحُ -

مَلَوَّحَةٌ - سگنل - جہ - مَلَوَّحَاتُ

لَوَزِ التَّمْرَةِ - تلوینج - کھجور میں بادام بھرنا۔

لَوِذَةُ الحَلْقِ - لَوَسَلٌ - غُدود۔

لَوَكَانِدَةٌ - (مع) ہوٹل۔

لَوَلَبٌ - پیچدار کیل - اسپرنگ - جہ - لَوَالِبُ

لِوَاءٌ - فوج کا بریگیڈ۔

اللِّوَاءُ - میجر جنرل - فوجی عہدہ۔

امِيرُ اللِّوَاءِ - بریگیڈیئر جنرل۔

لِيلِيحٌ - شبینہ - رات۔

## م

مُؤَدَّةٌ - خوراک - روزینہ - جہ - مُؤَنٌ

تَمْوِينٌ - خوراک سپلائی کرنا۔

مُتَوِّجٌ - سوسالہ۔

مَارَكَةٌ - خاص نشان - مارکہ۔

مِئْرٌ - میٹر - ناپنے کا گز وغیرہ۔

مُتَعَدَّةٌ - دلچسپی - سامان - دلچسپی - جہ - مُتَعَجٌ -

مَثَلٌ - مَثَلٌ - نمائندگی کرنا - ایکٹنگ

کرنا۔

مُثَقِّلٌ - نمائندہ - ایکٹر۔

مَثَلٌ اَعْلَى - شاندار روایت - جہ -

المَثَلُ العُلْيَا -

مَثَالٌ - مجسمہ - جہ - مَثَانِيلُ

تمثیل - نمائندگی - ایکٹنگ۔

مَثَلِيَّةٌ - ڈرامہ - جہ - مَثَلِيَّاتُ

تمثیلی - ڈرامائی۔

مہراجان - جشن - جہ: مہراجانات -  
 مہینہ - پیشہ - جہ: مہین -  
 موسی الامن - سیفی ریزو -  
 مول - تمویل - سرمایہ کاری -  
 مؤنہ تموینا - رسد پہنچانا - سچائی کرنا -  
 ضرورت کی اشیاء ہم پہنچانا -  
 مؤنہ - خوراک - راشن - رسد -  
 تمویل - سچائی - رسد رسانی -  
 میز - امتیاز - رعایت - لائسنس -  
 مہیل - رحمان - جہ: میول -  
 مین - میناء - پورٹ - بندرگاہ -  
 (۲) گھڑی کا ڈائل - جہ: موافی -

ن

نارجیل - ناریل -  
 نارجیلہ - حقہ -  
 نبا - انبویہ - پائپ - جہ: انابیب -  
 نبذہ - پیراگراف -  
 منبوذ - اچھوت -  
 نبض - نابض - بندوق وغیرہ کا گھوڑا -  
 نتجہ - نتاج - پیداوار - غلہ -  
 منتوجات - مصنوعات -  
 نجمتہ سینما ٹیٹہ - فلم اسٹار -  
 منجمہ - کان - جہ: مناجمہ -  
 نحت - منحت - بسولی -  
 نجات - سنگ تراش -  
 نحو - نحاہ عن - ملازمت یا خدمت  
 سے برطرف کر دینا -  
 نخب - انتخاب کرنا -

مور - مورہ ٹریفک (حرکت المرور)  
 تمیرید - سامان پاس کرنا - گذرنے  
 کی اجازت دینا -  
 مدرس - مدرس العمل - بطور پیشہ کوئی  
 کام کرنا - پریکٹس کرنا -  
 مرض - ممرض - تیمار دار -  
 ممرضتہ - نرس - جہ: ممرضات  
 مسح الارض - زمین کی پیمائش کرنا -  
 الحداء - جوتے پر پالش کرنا -  
 متاسح - زمین کا سروے کرنے والا -  
 (۲) بوتوں پر پالش کرنے والا -  
 مساحتہ - پیمائش - رقبہ - سروے -  
 مساحتہ - مٹانے کا رٹڑ -  
 مساحتہ - پیمائش کا فیتہ - پائڈان -  
 مسکتہ - ہینڈل -  
 مسک - قبض - ضد اسہال -  
 مطریتہ - چھتری -  
 ومطرۃ - واٹر پروف - برساتی -  
 مقاط - رٹڑ -  
 ملح - مملحتہ - نمک دان -  
 مَلَطٌ مَلَطًا - پلاسٹر کرنا - بال اڑانا -  
 مِلاط - پلاسٹر -  
 ملک - جہ: آملاک - جائداد -  
 ثابت - غیر منقولہ جائداد -  
 منقول - منقولہ جائداد -  
 ملاک - دیوتا - فرشتہ -  
 ملاک الحب - محبت کا دیوتا -  
 ملاک الاراضی - جاگیر داران  
 منحۃ - عطیہ - تعلیمی وظیفہ - جہ: منحہ -

نضح - نضاحۃ - آب پاش۔  
 نضد - منصدۃ - نیائی کاؤنٹر۔  
 نطق - ناطق - ترجمان۔  
 ناطق - سیسی - سرکاری ترجمان۔  
 ونطقۃ - علاقہ - صوبہ - ضلع۔  
 جہ - مناطق۔  
 ونطقی - علاقائی۔  
 نظر - نظارۃ - چشمہ تماش بین۔  
 نظارۃ - انتظام - نظامت۔  
 ناظر - ڈائریکٹر مینجنگ ناظم۔ جہ - نظار  
 = المَحَطَّة - اسٹیشن ماسٹر۔  
 = مدرّسۃ - ہیڈ ماسٹر۔  
 ونظار - دُور بین۔  
 نقد - نقود - اثرو رسوخ۔  
 نافذۃ - کھولکی جہ - تو اخذ۔  
 نبط - پٹول۔  
 نقب - نقیب - افسر - صدر - ڈین۔  
 نقد - نقدیۃ - کیش - نقد روپیہ۔  
 (ورق) النقد - نوٹ۔  
 نقش - مناقشۃ - مباحثہ - علمی گفتگو۔  
 نقص - مناقصۃ - ٹھیکہ جو دوسرے کے  
 مقابل میں کم قیمت پر لیا جائے۔  
 نُقْطَة - آٹم - پوزیشن - نقطہ۔  
 نقل - ٹرانسپورٹ۔  
 نقالۃ - اسٹریجر - مردوں اور زخمیوں  
 بیماروں کو اٹھانے کی چارپائی۔  
 ناقلة - بار بردار جہاز - جہ - ناقلات۔  
 نقر - تمہیداً - نمبر ڈالنا۔  
 نمارۃ - نمبرنگ مشین۔

ناخب - انتخاب کنندہ - ووٹر۔  
 ندب - مندوب - نمائندہ - ٹیلی گیٹ۔  
 مندوب ساہ - ہائی کمشنر۔  
 ندل - مندال - عمل حاضر۔  
 ندوۃ - کلب - جہ - ندوات۔  
 نذر عن الوطن - نذوحاً - بے گھر ہونا۔  
 نازحون - تارکین وطن۔  
 نزل - ہوٹل - سرے۔  
 ننازل عن - دست بردار ہونا۔  
 نذہۃ - تفریح۔  
 مُنتزِة - پارک - تفریح گاہ۔  
 نسبۃ - تناسب - اوسط۔  
 مُناسِبۃ سلسلہ سبب - موقع۔  
 نسف - نسفاً - ڈائنامٹ سے اڑانا۔  
 نَسَافَة - تارپیڈو کشتی۔  
 نَشَاة - ساخت - تعمیر - بنیاد - زندگی۔  
 نش وء - نسل۔  
 مُنشئ - انشاء پرداز۔  
 مُنشآت - تنصیبات۔  
 نشرا - اشاعت۔  
 نُشَادَس - نوشار۔  
 نُشْرَة - اعلان - اعلامیہ - سرکلر۔  
 پمفلٹ - جہ - نشرات۔  
 منشور - سرکلر گشتی حکم۔  
 نشط - نشاط - سرگرمی۔  
 نشف - نَشَافَة - منشفۃ - تولیہ۔  
 نَشَاف - جاذب - بلاٹنگ پیپر۔  
 نصب - نصب قانونی - کورم۔  
 نص - منصفۃ - اسٹیج - تقریر کا پلیٹ فارم۔

ہیئتہ الامم المتحدہ - انجمن  
اقوام متحدہ۔

## و

وِبر - واپور - ریلوے انجن - اسٹوو۔  
وَجْبَةٌ - ایک وقت کا کھانا۔ خوراک۔  
وَجَّه - توجیہا۔ رہنمائی کرنا۔ اصلاح کرنا۔  
توجیہی۔ اصلاحی۔  
وَحْدَةٌ - اکائی۔ یونٹ۔ جہ۔ وحدات۔  
ودع - مُستودَع۔ گودام۔  
ورد - استیراد۔ درآمد کرنا۔  
ایراد۔ آمدنی۔ پیداوار۔  
واردات۔ درآمدات۔  
مورد - ذریعہ آمدنی۔ جہ۔ موارد۔  
مُورِد - سامان مہیا کرنے والا۔  
مُستورد - امپورٹر۔ درآمد کنندہ۔  
ورشۃ - ورکشاپ۔  
ورق النقد - نوٹ۔  
وِزَاق - کاغذ ساز۔ کاغذ فروشی۔  
کتب فروش۔  
وِزَاقۃ - کاغذ فروشی۔ کاغذ سازی  
کتب فروشی۔  
وَسِيطٌ بِمَالِکٍ - بیچ۔ (وساطت) ثالثی۔  
وصف - حلیہ - کیفیت۔ حال۔  
وَصْفَةٌ - نسخہ۔ جہ۔ وصفات۔  
مُستوصَف - مطب۔  
وَصْلٌ - ایصال۔ وصول۔ رسید۔  
وکالۃ - ایجنسی۔ (وکیل) ایجنٹ۔

تَمَس - ناموسیۃ۔ مجھروان۔

تَمَسَا - ملک آسٹریلیا۔

تَمَلِیَّة - جالیڈار الماری۔

تَمُوذِج - نمونہ۔ جہ۔ نماذج۔

نوبۃ - باری۔ نمبر۔

نیابتی - پارلیمنٹری۔

نائب - ڈپٹی، نمائندہ عوام۔ جہ۔ نواب

نوسا - مناوۃ۔ جنگل مشق۔ داؤ بیچ۔

نیسان - ماہ اپریل۔

## ح

ہبط - مہبط۔ ایر فیلڈ۔

مہبطۃ - پیراشوٹ۔ ہوائی چھتری۔

ہتف - نوعہ گانا۔

ہتات - نوعہ۔ جہ۔ ہتافات۔

ہائفت - ٹیلیفون۔

ہجومی - ضد دفاعی۔ اقدامی۔

ہڈا - تھڈلہ۔ پرسکون بنانا۔ رفتار کم کرنا۔

ہڈنۃ - صلح۔ جنگ بندی۔

ہڈب تہدیبا - اسمگلنگ کرنا۔ چوربازاری

کرنا۔ متوعا شیا کی خرید و فروخت کرنا۔

ہتۃ - حوصلہ۔ جہ۔ ہتہ۔

مہمتۃ - مشن۔ مفوضہ ڈیوٹی۔

مہمتات - ضروری سامان۔ میٹریل۔

ہندسۃ - انجینیئری۔ فن تعمیر۔

مہندس - انجینیئر

ہوایۃ - خاص شوق۔

ہیئتۃ - بورڈ۔ انجمن۔ جہ۔ ہیثیات

# عربی کے لغت پر شاہکار تصانیف

<p>المعجم المفسر الفاظ القرآن الكريم (ج ۱ تا ۵) محمد رفیع اور عبدالقادر</p>	<p>قرآنی لفظ کی ترمیم پر جس میں الفاظ کا اظہار کرنا نہایت آسان ہے ممدو پاشائی کاغذ، اعلیٰ ریڈرین جلد ۳، رنگہ ڈائی و ایوز</p>	
<p>قاموس الفاظ القرآن الکریم اردو ڈاکٹر عبدالحمید عباس ندوی، پروفیسر عبدالرزاق</p>	<p>قرآن کریم کی بیانیہ جذبی ترمیم اور معنوی سیاق کے مطابق مشمول معنی کی نئی بیانیہ اصطلاحات اور مشہور معنیوں اور غمگینا کی تفصیل کے ساتھ عربی کی جائے اہم لغت قرآن مجید کے لئے ایک جامع اور مفید کتاب کاغذ، ممدو پاشائی، نیچیز پبلیشرز، خوبصورت ڈیکوریشن</p>	
<p>کلمات القرآن ڈاکٹر حفیظ سیال قادری</p>	<p>کلمات قرآن کا یہ مجموعہ اس طرح ترمیم دیا گیا ہے کہ ایک عام ہندی اگر قرآن کریم کے معانی دیکھنا چاہے تو بہت آسانی کے ساتھ دیکھ سکتا ہے اور ہر سورہ کا مختصر مفہوم بھی ہر سورہ کے شروع میں دیا گیا ہے۔ مقدمہ مولانا عبدالعظیم عثمانی</p>	
<p>مختار الصحاح اردو اردو ترجمہ پروفیسر عبدالرزاق</p>	<p>الفاظ حدیث کے مستند معانی کی مشہور لغت جس سے ایک زمانے سے طالبان علوم حدیث استفادہ کر رہے ہیں۔ اب اردو ترجمہ کے ساتھ پہلی بار اعلیٰ کاغذ، مرگنر طباعت، حسین جلد کے ساتھ</p>	
<p>المعجم جامع عربی اردو با تصویریت ہر جوت سے شائع ہونے والی مشہور زمانہ لغت انٹیمڈیکس کا مستند ترجمہ جس میں سائز اور الفاظ معارف اور وصف الامثال میں ۱۳۰ صفحات ۱۳۰ الفاظ اہل جلد ۲۰۳</p>	<p>المعجم جامع اردو عربی لغت پالیس بزرگ انٹرنیشنل ڈاک سے عربی دکنٹری اس کے معاذہ، آئینہ میں بہت سی علمی معلومات کا نام قدرت ڈیسٹرو۔ صفحات ۷۸۸، اہل طباعت کاغذ ۱۳۰ الفاظ اہل جلد ۲۰۳</p>	<p>مصباح اللغات از مولانا عبدالعظیم عثمانی استاد اور پبلیشرز عربی الفاظ کا نہایت جامع و مستند ذخیرہ۔ عربی اردو لغت کی اشاعت میں سب سے پہلے اہل علم سے خارج تھیں مماصل کر رہی ہے اور عربی اور اردو الفاظ کا اضافہ کی خاطر ۱۰۰۰ الفاظ اہل جلد</p>
<p>قاموس القرآن شہزادہ دکنٹری از: قاضی زین العابدین بجا دکنٹری قرآن کریم تمام الفاظ اور شرح اور شرح اور شرح عربی و دکنٹری ترکیب اور اہم الفاظ پر تفصیلی نوٹ یکے لگے ہیں۔ سائز ۲۰۳، صفحات ۸۱۶ ۱۳۰ الفاظ و طباعت اہل جلد</p>	<p>قاموس الاصطلاحی از: مولانا وحید الزمان بجا دکنٹری پالیس بزرگ عربی الفاظ اصطلاحات کا نام ذخیرہ جو عربی الفاظ اخبارات و رسائل اور دیگر ڈیکوریشن اور کل شامل ہیں، کاغذ و طباعت اور اہل جلد سائز ۲۰۳، صفحات ۵۲۸</p>	<p>قاموس لمدنی دکنٹری سے عربی جو عربی لغت کی خوب صورت کتاب میں پہلی بار اہل جلد، خوبصورت جلد سائز ۲۰۳، صفحات ۸۱۶</p>
<p>بیان اللسان دکنٹری از: قاضی زین العابدین بجا دکنٹری پالیس بزرگ سے زیادہ قدیم عربی اور اردو الفاظ کی شرح مع عربی لغت کی بیانیہ معنی کے لئے عربی الفاظ میں سہولت دینے اور قرآن کریم کے الفاظ شامل ہیں سائز ۲۰۳، صفحات ۸۱۶، اہل جلد</p>	<p>لغات القرآن دکنٹری مولانا رشید احمد عثمانی مولانا عبدالواحد مہلاں قرآن پاک کے معانی و مطالب کو یکے کے نہایت تفصیل اور جامع لغات قرآن اور زبان اس سب سے زیادہ مستند اور بڑی لغات قرآن، کل صفحات ۳۱۶ ۱۳۰ الفاظ و طباعت حسین جلد</p>	<p>لغات کشوری از: مولانا سید صدیق حسین ندوی بندوبست کی مشہور و معروف اور مستند لغت جو نو منتخب عربی لغت سے عربی میں تمام بزرگ الفاظ و اصطلاحات شامل ہیں، اہل جلد سائز ۲۰۳، صفحات ۶۱۲</p>
<p>فرہنگ فارسی فارسی سے اردو مولانا محمد رفیع قاضل و بوند فارسی و عربی کے قدیم و جدید پالیس بزرگ الفاظ کے سنی نہایت مفید معانی میں درج ہیں مفہوم کے ساتھ الفاظ مراد کی لغت، اہل جلد سائز ۲۰۳، صفحات ۸۰۰</p>	<p>فرہنگ نامہ جدید فارسی از: پروفیسر فیروز الحسنی پالیس بزرگ فارسی الفاظ کی اردو اور انگریزی میں بہترین شرح، بیانیہ پہلی مرتبہ جی ہے۔ ۱۳۰ الفاظ و طباعت اہل جلد</p>	<p>جامع اللغات از: مولانا محمد رفیع عثمانی قاضل و بوند پالیس بزرگ الفاظ کی نہایت مستند لغت۔ جو فردوس کے تمام الفاظ مراد کی ہے۔ ۱۳۰ الفاظ و طباعت، صفحات ۸۰۰</p>
<p>دارالاشاعت آئیڈیوٹرز کراچی فون ۲۱۳۶۹۸</p>		

فہرست کتب لغت ڈاک کے  
مختص بیچ کر طلب فرمائیں